

شیخ پوری رحمانہ فرماتے ہیں کہ علامہ متقی نے حدیث کی بڑی کتب سے اصول سنت کے بارے میں یقینی احادیث کو جمع فرمایا اس سے زیادہ کسی نے نہیں کیا
احمد عبدالجواد رحمانہ کہتے ہیں جس نے اس کتاب کا مطالعہ کیا گویا کہ اس نے حدیث کی ستر سے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا

اُردُو ترجمہ

کنز العمال

فی سنن الأقوال والأفعال

مستند کتب سے رواۃ حدیث سے متعلق کلام حوالہ کے ساتھ شامل کتاب ہے

تالیف

علامہ علاء الدین علی متقی بن حرم الدین
ہندی رحمان پوری
ترقیہ

مقدمہ، عنوانات، نظر ثانی، تصحیحات

مولانا مفتی احسان اللہ شاق صاحب

استاذ ومعلمین مفتی جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی

بازار الاعتدال

اُردو بازار ایم اے بہار روڈ کراچی ایکسٹنشن فون: 32631861

شیخ پطیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ متقی نے حدیث کی بڑی کتب سے اصول سنت کے بارے میں جتنی احادیث کو جمع فرمایا اس سے زیادہ کسی نے نہیں کیا
احمد عبدالجواد رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے اس کتاب کا مطالعہ کیا گویا کہ اس نے حدیث کی ستر سے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا

اُردُو ترجمہ

کُنُزُ الْعُمَالِ

فی سنن الأقوال والأفعال

مستند کتب میں رواۃ حدیث سے متعلق کلام تلاش کر کے حوالہ کے ساتھ شامل کتاب ہے

جلد ۱

حصہ اول، دوم

تالیف

علامہ علاء الدین علی متقی بن حَسَامُ الدین
ہندی برطان پوری
سنہ ۱۰۰۰ھ

مقدمہ، عنوانات، نظر ثانی، تصحیحات

مولانا مفتی احسان اللہ شاق صاحب

استاذ و معین مفتی جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی

دارالاشاعت

اُردُو بازار، ایم ای چنار روڈ
کراچی پاکستان 2213768

اردو ترجمہ و تحقیق کے جملہ حقوق ملکیت بحق دارالاشاعت کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی
طباعت : ستمبر ۲۰۰۹ء علی گرافکس
صفحہ امت : 799 صفحات

قارئین سے گزارش

اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو آزارہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

﴿..... ملنے کے پتے.....﴾

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور
بیت العلوم 20 ناٹھ روڈ لاہور
مکتبہ رحمانیہ ۸۔ اردو بازار لاہور
مکتبہ اسلامیہ گامی اڈا۔ ایبٹ آباد
کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی
مکتبہ معارف القرآن جامعہ دارالعلوم کراچی
بیت القرآن اردو بازار کراچی
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد
مکتبہ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور

﴿انگلینڈ میں ملنے کے پتے﴾

ISLAMIC BOOK CENTRE
119-121 HALI WHEEL ROAD
BOLTON, BL1-3NE

AZHAR ACADEMY LTD.
54-68 LITTLE ILFORD LANE
MANOR PARK, LONDON E12 5QA

﴿امریکہ میں ملنے کے پتے﴾

DARUL-ULOOM AL-MADANIA
182 SOBIESKI STREET,
BUFFALO, NY 14212, U.S.A

MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE
6665 BINTLIF, HOUSTON,
TX-77074, U.S.A

مجموعہ کنز العمال مجموعہ کنز العمال عرض ناشر

اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی اہم و مفید کتب کی اشاعت و ترویج کی توفیق عطا فرمائی اس پر جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ کنز العمال جو نبی کریم ﷺ کی قولی و عملی ہدایات پر مشتمل بے مثال مجموعہ ہے۔ ذخیرہ احادیث میں اس کی افادیت ہر دور میں مسلم رہی۔ امت نے بھر پور اس سے استفادہ کیا اور بعد کے دور کی تقریباً کوئی کتاب کنز العمال کے حوالے سے خالی نہیں۔ اصل کتاب سے استفادہ عربی میں ہونے کے باعث علماء تک محدود تھا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم العالیہ کو جنہوں نے اس عظیم مجموعہ کو بزبان اردو منتقل کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے پہلی حدیث کا ترجمہ خود اپنے قلم سے لکھ کر دیاجاتی ترجمہ دار علماء

مولانا محمد اصغر فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی

مولانا محمد اصغر فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی

مولانا محمد یوسف تنولی فاضل و مخصص جامعہ دارالعلوم کراچی

مولانا عامر شہزاد فاضل و مخصص جامعہ دارالعلوم کراچی

مولانا سلمان اکبر فاضل جامعہ احسن العلوم کراچی

کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس طرح نو سال کی محنت و عرق ریزی کے بعد ۱۶ جلدوں پر مشتمل ذخیرہ کا ترجمہ پایہ تکمیل کو پہنچایا محض اللہ کا فضل و احسان ہے اس پر جس قدر شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

احادیث کا ترجمہ آسان عام فہم و سلیس انداز میں کیا گیا، احادیث کے حوالہ جات نقل کرتے ہوئے رواۃ حدیث سے متعلق کلام بھی مستند کتب سے مع حوالہ جات نقل کیا گیا۔ مولانا مفتی احسان اللہ شائق صاحب معین مفتی دارالافتاء جامعۃ الرشید نے مکمل ترجمہ پر نظر ثانی اور بلا استیجاب موازنہ کیا جا جو عنوانات کا اضافہ کیا جس سے بجز اللہ اس ترجمہ کی افادیت میں اور اضافہ ہو گیا۔ مفتی احسان اللہ شائق صاحب نے قارئین کی سہولت کے لیے ایک مبسوط مقدمہ تحریر فرمایا جس سے کتاب کی اہمیت و افادیت کے ساتھ ساتھ مصنف رحمہ اللہ کا بھی جامع تعارف شامل کتاب ہے۔ مزید یہ کہ جناب مولانا ڈاکٹر عبدالعلیم چشتی صاحب کے فرزند مولانا ڈاکٹر حافظ محمد ثانی صاحب جو وفاتی اردو یونیورسٹی میں شعبہ علوم اسلامی کے پروفیسر ہیں کا ایک مضمون ”صاحب کنز العمال علی المفتی الہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر احوال و آثار“ کے عنوان سے شامل کتاب ہے۔

اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت بخشے اور قارئین کے لیے ذریعہ علم و معرفت بنائے اور ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جن کے تعاون سے یہ علمی کام پایہ تکمیل کو پہنچا اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔

الحمد للہ کتاب کو خاطر ہی و باطنی خوبیوں سے آراستہ کر کے اہل علم و اردو داں مسلمانوں کی خدمت میں بزبان اردو پہلی بار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سید المرسلین کی سچی محبت و کامل اتباع نصیب فرمائے۔

والسلام طالب دُعا

ناشر

سید علی حسینی
حیدرآباد، سندھ، پاکستان

فہرست عنوانات..... حصہ اول

۳۱	تدوین فقہ حنفی	۵	عرض ناشر
۳۲	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت حدیث	۲۱	مقدمہ کنز العمال
۳۲	وفات حسر آیات	۲۱	از مولانا مفتی احسان اللہ شائق صاحب
۳۲	حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات	۲۱	حدیث کا لغوی معنی
۳۳	خواب اور بخاری شریف کی تصنیف	۲۱	حدیث کی اصطلاحی تعریف
۳۳	امام مسلم رحمہ اللہ کے مختصر حالات	۲۱	حدیث کی وجہ تسمیہ
۳۳	امام ترمذی رحمہ اللہ کے حالات	۲۲	چند متقارب الفاظ
۳۳	امام ابوداؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کے مختصر حالات	۲۲	علم حدیث کی تعریف
۳۳	امام نسائی رحمہ اللہ کے حالات	۲۲	علم حدیث کی اقسام
۳۵	امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات	۲۳	علم حدیث کا موضوع
۳۵	امام دارمی رحمہ اللہ کے مختصر حالات	۲۳	علم حدیث کی غرض و غایت
۳۵	امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے مختصر حالات	۲۳	علم حدیث کی فضیلت
۳۶	علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حالات	۲۳	حدیث روایت کرنے میں احتیاط کی ضرورت
۳۶	عام حالات	۲۵	جذیۃ الحدیث
۳۶	حدیث کی بعض اصطلاحات اور ان کی تعریفات	۳۷	نظریہ ثالثہ کی تردید
۳۱	حفظ حدیث میں مسابقت	۳۷	تدوین حدیث
۳۱	صحابہ کے علاوہ احادیث کو حفظ کرنے والے حضرات کے اسمائے گرامی	۳۹	احادیث جمع کرنے کے مختلف ادوار
۳۱	قریب کے زمانہ میں احادیث کو یاد کرنے والے چند حضرات کے اسمائے گرامی	۳۰	حدیث کے دو اہم فنون
۳۲	حفظ حدیث میں عورتوں کا کارنامہ	۳۱	اسماء الرجال کا فن
۳۳	احادیث کو صحیح و ضعیف قرار دینے کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ	۳۱	بعض کتب حدیث کے مصنفین کے حالات
			”کتاب الآثار“
			حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ
			امام صاحب کے اوصاف کا اجمالی خاکہ

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۵۷	نامور علماء و محدثین اور صوفیاء کی خدمت میں حاضری	۴۳	حدیث کو صحیح کہنے کا مطلب
۵۷	احادیث نبوی ﷺ سے تعلق و وابستگی	۴۵	فضائل کے باب میں حدیث ضعیف
۵۷	خواب میں زیارت رسول ﷺ سے شرف یابی اور	۴۵	محدث کبیر شیخ علی بن حسام الدین متقی برہان پوریؒ
	بشارات نبوی ﷺ	۴۶	خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت
۵۸	جلالت شان اور علمی مقام و مرتبہ	۴۶	مناقب پر لکھی ہوئی کتاب
۵۸	علمائے حریمین کی نظر میں شیخ علی متقی کا مقام	۴۷	شیخ علی متقی رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کرام کی رائے
۵۹	چند مشہور اور نامور تلامذہ	۴۷	کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال
۵۹	مختلف اسلامی علوم پر گراں قدر تصانیف	۴۸	علامہ علی متقی رحمہ اللہ کی بہترین کوشش
۶۰	کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال	۴۹	کنز العمال کے بارے میں علماء کے اقوال
۶۰	ایک عظیم علمی کارنامہ	۴۹	۱۔ شیخ چلی رحمہ اللہ علیہ
۶۱	”جمع الجوامع“ کنز العمال کا بنیادی ماخذ و مراجع	۴۹	۲۔ عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ
۶۱	کتب حدیث میں ”جمع الجوامع“ کا مقام و مرتبہ	۴۹	۳۔ امام کنانی رحمہ اللہ
۶۱	شیخ علی متقی رحمہ اللہ علیہ کا بیان	۴۹	۴۔ حاجی خلیفہ
۶۲	جمع الجوامع کی انفرادیت و عظمت و مقبولیت	۴۹	۵۔ احمد عبدالجواد
۶۲	جمع الجوامع کی وجہ تسمیہ اور سال تالیف	۴۹	وفات حصر آیات
۶۲	احادیث نبوی ﷺ کا گراں قدر مجموعہ	۵۰	الجامع الکبیر اور کنز العمال کا ماخذ
۶۳	کنز العمال کی عظمت و اہمیت	۵۱	فہرست کتب
۶۳	کنز العمال کی فقہی اسلوب میں تبویب و تدوین	۵۳	کنز العمال کے متعلق ایک جامع تبصرہ
۶۳	عالم اسلام میں کنز العمال کی شہرت و مقبولیت	۵۳	کنز العمال کا اردو ترجمہ
۶۵	کتاب الایمان و اسلام الاقوال	۵۳	سعادت کی بات
۶۵	کتاب اول ایمان و اسلام کے متعلق	۵۴	ترجمہ کرنے والے علماء کی جماعت
۶۵	پہلا باب ایمان و اسلام کی حقیقی اور مجازی تعریف کے بیان میں	۵۵	صاحب کنز العمال علی متقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر احوال و آثار
۶۵	فصل اول ایمان کی حقیقت	۵۵	نام و نسب اور ابتدائی حالات
۶۵	چار باتوں کا حکم اور چار سے ممانعت	۵۵	طلب علم کے لئے سفر
۶۶	لذت ایمان نصیب ہونا	۵۵	سیرت و کردار و اوصاف کمالات
۶۷	الاکمال	۵۶	دیار ہند میں شیخ علی متقی کی شہرت و مقبولیت
۶۷	کونسا اسلام افضل ہے؟	۵۶	تصنیف و تالیف کا آغاز
۶۸	اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر	۵۶	مکہ معظمہ کی جانب ہجرت اور مستقل اقامت

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۱۰۶	دوسری فرغ . ایمان کے متفرق احکام میں	۶۸	الاکمال
۱۰۶	مسلمان کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے	۷۰	عدی بن حاتم کے اسلام کا قصہ
۱۰۷	دھوکہ سے قتل کی ممانعت	۷۰	حدیث کا پس منظر
۱۰۸	ایمان کے متفرق احکام میں ماخوذ از اکمال	۷۱	اسلام کے دس حصے ہیں
۱۱۰	عہد و پیمانہ کا لحاظ رکھنا	۷۳	فصل دوم ایمان کے مجازی معنی اور ایمان کے حصے
۱۱۱	اللہ تعالیٰ کی شکل و شبہات منزہ ہے	۷۵	توحید کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا
۱۱۱	فصل پنجم بیعت کے احکام میں	۷۷	اللہ کیلئے محبت اللہ کے لئے نفرت ایمان کی علامت ہے
۱۱۱	حاکم کی اطاعت	۷۸	فصل سوم ایمان و اسلام کی فضیلت میں
۱۱۲	عورتوں کی بیعت	۷۸	پہلا حصہ شہادتین کی فضیلت میں
۱۱۲	بیعت رضوان	۷۹	فاسق شخص سے بھی دین کا کام لیا جاتا ہے
۱۱۲	بیعت رضوان از اکمال	۸۰	جہنم کی ساتوں دروازے کا بند ہونا
۱۱۲	بیعت کے احکام	۸۱	شہادتین کی فضیلت از الاکمال
۱۱۳	تین باتوں پر بیعت کرنا	۸۲	کلمہ توحید کا اقرار دخول جنت کا سبب ہے
۱۱۳	آٹھ باتوں پر بیعت کرنا	۸۷	جنت کے سو دروازے ہیں
۱۱۳	فصل ششم ایمان بالقدر کے بارے میں	۸۸	کلمہ طیبہ میں اخلاص
۱۱۶	تقدیر تدبیر پر غالب رہی ہے	۸۸	دخول جنت رحمت الہی سے ہوگا
۱۱۸	اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے	۹۱	حصہ دوم ایمان کے متفرق فضائل کے بیان میں
۱۱۸	اولاد آدم سے عہد	۹۱	کامیاب مسلمان
۱۱۹	کاش، کاش شیطانی عمل ہے	۹۲	بن دیکھے ایمان کی فضیلت
۱۲۰	آدم و موسیٰ علیہما السلام میں مناظرہ	۹۴	ناحق قتل دخول جہنم کا سبب ہے
۱۲۱	فرقہ قدریہ مرجیہ کی مذمت میں	۹۵	زندہ درگور کرنے کا برا انجام
۱۲۲	ایمان بالقدر از اکمال	۹۶	قیامت کے دن توحید پرستوں کی حالت
۱۲۹	فراخی اور خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا	۹۸	اسلام امن کا مذہب ہے
۱۳۰	فرغ! قدریہ اور مرجیہ کی مذمت میں از الاکمال	۹۹	اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نعمت ایمان ہے
۱۳۲	فصل ہفتم مومنین کی صفات میں	۱۰۰	جنتی اور جہنمی ہونے کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے
۱۳۳	مومن حجت سے کام لیتا ہے	۱۰۳	فصل چہارم ایمان اور اسلام کی احکام میں
۱۳۳	مومن جسم واحد کی طرح ہے	۱۰۴	شہادتین کا اقرار از الاکمال
۱۳۶	مومن ہر حال میں نافع ہے	۱۰۴	تین باتوں کے سوا کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے
۱۳۷	تلاوت کرنے والے مومن کی مثال	۱۰۵	ارتداد کے احکام

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۱۷۷	اللہ تعالیٰ بندہ کی توجہ سے خوش ہوتا ہے	۱۳۸	الاکمال
۱۷۸	الاکمال	۱۳۸	مسلمان کے مسلمان پر حقوق
۱۷۹	اللہ کے کسی ولی کو ایذا مت دو	۱۳۲	مومن بندہ کی شہرت
۱۸۲	اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت	۱۳۳	گریہ وزاری کرنے والے
۱۸۳	اللہ عزوجل کی ذات سے متعلق گفتگو کی ممانعت	۱۳۵	مومنین کی تین قسمیں
	الاکمال	۱۳۶	فصل منافقین کی صفات میں
۱۸۴	فصل ثانی اسلام کی قلت و غربت کے بارے میں	۱۳۸	الاکمال
۱۸۵	الاکمال	۱۳۹	دوسرا باب..... کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کے بیان میں
۱۸۵	فصل سوم دل کے خطرات و تغیر کے بیان میں	۱۵۰	احادیث سے انکار خطرناک بات ہے
۱۸۷	الاکمال	۱۵۱	قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم
۱۸۷	چوتھی فصل شیطان اور اس کے وساوس کے بیان میں	۱۵۲	دین اسلام پاکیزہ دین ہے
۱۸۸	شیطانی وسوسہ کی مدافعت	۱۵۳	علم دین کو چھپانا گناہ ہے
۱۸۹	الاکمال	۱۵۴	اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے
۱۹۱	نماز میں ہوا خارج ہونے کا وسوسہ	۱۵۴	صراط مستقیم کی مشاک
۱۹۳	شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے	۱۵۵	فرقہ ناجیہ کی پہچان
۱۹۴	شیطان کا تاج پہنانا	۱۵۵	حوض کوثر کی صفت
۱۹۴	فصل پنجم جاہلیت کے اخلاق اور حسب و نسب پر فخر	۱۶۰	عمل سے بچنے کے لئے سوالات نقصان دہ ہیں
	کی مذمت	۱۶۲	حدیث رسول کا کتاب اللہ سے موازنہ
۱۹۵	الاکمال	۱۶۳	صحابہ کی پیروی راہ نجات ہے
۱۹۶	فصل ششم متفرقات کے بیان میں	۱۶۴	دین میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں
۱۹۸	الاکمال	۱۶۶	اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا
۱۹۸	زنا کے وقت ایمان سلب ہو جانا	۱۶۷	مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا
۱۹۹	ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے	۱۷۱	اتباع سنت و دخول جنت کا سبب ہے
۲۰۱	کتاب الایمان والاسلام من قسم الاقوال والافعال	۱۷۲	بدایا قبول کرنے کی شرط
۲۰۱	باب اول ایمان و اسلام کی حقیقت اور مجاز میں	۱۷۳	فصل فی البدع
۲۰۱	فصل اول ایمان کی حقیقت کے بیان میں	۱۷۴	بدعت و تشنج الاکمال
۲۰۳	ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے	۱۷۵	بدعتی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت
۲۰۳	فصل دوم اسلام کی حقیقت کے بیان میں	۱۷۶	الباب الثالث تتمہ کتاب الایمان
۲۰۴	ایمان کی مضبوطی چار چیزوں میں	۱۷۶	فصل اول صفات کے بیان میں

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۲۵۱	آٹھویں فصل مومنین کی صفات میں	۲۰۶	دوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند ہو
۲۵۲	منافقین کی صفات	۲۰۷	قیامت کے روز ہر سے سوال ہوگا
۲۵۳	منافقین کے جنازے میں شرکت نہ کرنا	۲۰۸	فصل سوم ایمان کے مجازی معنی اور حصوں کے بیان میں
۲۵۳	باب دوم کتاب وسنت کو تھامنے کا بیان	۲۰۹	اسلام کی بنیاد چار چیزوں پر
۲۵۴	نزول قرآن سے دوسری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں	۲۱۱	فصل چہارم شہادتین کی فضیلت میں
۲۵۵	دوسری آسمانی کتابیں محرف ہیں	۲۱۲	لا الہ الا اللہ نجات دہندہ ہے
۲۵۷	سنت کی پیروی کرنے والا خیر میں ہے	۲۱۵	فضائل الایمان متفرقہ
۲۵۹	حدود اللہ کی پابندی کرنا	۲۱۶	آگ کا جلانا
۲۶۱	ایک زمانہ آئے گا سونا چاندی نافع نہ ہوگا	۲۲۰	فصل پنجم اسلام کے حکم میں
۲۶۲	فصل بدعت کے بیان میں	۲۲۰	شہادتین کا حکم از مسند اوس بن اوس الثقفی
۲۶۳	باب سوم کتاب الایمان کا تمدد و ملخحات	۲۲۲	ارتداد اور اس کے احکام
۲۶۳	فصل صفات کے بیان میں	۲۲۳	مرتد کا قتل
۲۶۳	اسلام اپنے شباب کو پہنچا	۲۲۵	احکام متفرقہ
۲۶۶	فصل دل اور اس کے تغیرات کے بیان میں	۲۲۶	بیاں بیوی دونوں مسلمان ہو جائیں تو نکاح برقرار رہے گا
۲۶۷	اللہ تعالیٰ طلب مغفرت کو پسند فرماتے ہیں	۲۲۷	فصل ششم عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت
۲۶۷	فصل شیطان اور اس کے وساوس کے بیان میں	۲۲۹	ہر مسلمان پر خیر خواہی کا حکم
۲۶۸	فصل اخلاق جاہلیت کی مذمت میں	۲۲۹	طاقت کے مطابق اطاعت گزاری
۲۷۰	چوتھا باب امور متفرقہ کے بیان میں	۲۳۰	بیعت عقبہ کا واقعہ
۲۷۲	یہود کے میلہ اور تہوار میں شرکت کی ممانعت	۲۳۳	بیعت رضوان کا ذکر
۲۷۳	اللہ تعالیٰ کی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء	۲۳۵	الفصل السابع ایمان بالقدر کے بیان میں
۲۷۵	الکتاب الثانی	۲۳۶	تقدیر کے متعلق بحث کرنے کی ممانعت
۲۷۵	از حرف ہمزہ ذکر واذکار از قسم الاقول	۲۳۸	آدم اور موسیٰ علیہما السلام کا مناظرہ
۲۷۵	باب اول ذکر اور اس کی فضیلت کے بیان میں	۲۴۰	تقدیر مبرم کا ذکر
۲۷۸	اولیاء اللہ کی پہچان	۲۴۱	قضاء و قدر کا مطلب
۲۷۹	فجر اور عصر کے بعد ذکر کرنا	۲۴۲	ہر آدمی پر جہاں ظنی فرشتے مقرر ہیں
۲۸۱	قطعہ زمین کا مقرر ہونا	۲۴۳	ریش تھامنے کا واقعہ
۲۸۲	کثرت کلام قساوت قلب کا سبب ہے	۲۴۵	مسئلہ تقدیر میں بحث کرنا گمراہی ہے
۲۸۳	الاکمال	۲۴۹	فرع فرقہ قدر پر کے بیان میں
۲۸۴	ذکرین کی مثال	۲۵۰	قدر پر کے چہرے مسخ ہوں گے

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۳۲۶	دیکھ کر قرآن پڑھنے کی فضیلت	۲۸۵	ذکر کرنے والا اللہ کا محبوب ہے
۳۲۸	قرآن پڑھنے والے کو تاج پہنایا جائے گا	۲۸۶	ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں
۳۲۹	حد صرف دو قسم کے لوگوں پر جائز ہے	۲۸۹	سب سے افضل ترین عمل
۳۲۹	الاکمال	۲۹۰	ذکر الہی شکر کی بجائے آوری ہے
۳۳۰	جنت میں صاحب قرآن کا اونچا مقام	۲۹۲	باب دوم اسماء حسنی کے بیان میں
۳۳۱	قرآن پاک کی افضلیت کا بیان	۲۹۳	الاکمال
۳۳۲	قرآن کے مختلف مضامین	۲۹۳	فصل اللہ کے اسم اعظم کے بیان میں
۳۳۳	قرآن سکھانے کی فضیلت	۲۹۴	الاکمال
۳۳۶	سات دن میں ختم قرآن	۲۹۵	تیسرا باب الحوقلہ کے بیان میں
۳۳۷	جنت کے درجات کی تعداد	۲۹۶	الاکمال
۳۳۸	سورہ کہف کی فضیلت	۲۹۷	جنت میں درخت لگائیں
۳۴۰	قرآن کریم کی شناخت	۲۹۸	باب چہارم تسبیح کے بیان میں
۳۴۲	قرآن وحدیث سے محبت کرو	۳۰۰	الاکمال
۳۴۳	فصل دوم سورہ وآیات قرآنیہ اور بسم اللہ کے فضائل میں	۳۰۱	باقیات الصالحات
۳۴۳	الاکمال	۳۰۲	سو غلام آزاد کرنے والا
۳۴۵	سورہ فاتحہ	۳۰۵	گناہوں کی بخشش ہوگی
۳۴۵	فاتحہ بندہ اور رب کے درمیان منقسم ہے	۳۰۵	باب پنجم استغفار اور تعوذ کے بیان میں
۳۴۶	الاکمال	۳۰۵	فصل اول استغفار کے بیان میں
۳۴۷	سورۃ البقرۃ	۳۰۸	الاکمال
۳۴۸	سورۃ آل عمران	۳۰۹	غروب شمس کے وقت استغفار کرنا
۳۴۹	الاکمال	۳۱۱	دوسری فصل تعوذ کے بیان میں
۳۴۹	آیۃ والحکم از الاکمال	۳۱۲	الاکمال
۳۵۰	آیۃ الکرسی از الاکمال	۳۱۳	باب ششم آپ ﷺ پر درود کے بیان میں
۳۵۰	ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا	۳۱۶	الاکمال
۳۵۱	سورۃ آل عمران از الاکمال	۳۱۹	ایک بار درود دس رحمتوں کا سبب ہے
۳۵۱	دوروش سورتیں از الاکمال	۳۲۳	باب ہفتم تلاوت قرآن اور اس کے فضائل کے
۳۵۲	سورۃ الانعام از الاکمال		بیان میں
۳۵۲	السیع الطول	۳۲۳	فصل اول فضائل قرآن میں
۳۵۲	الاکمال	۳۲۵	قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۳۶۳	سورۃ الحديد	۳۵۳	سورۃ ہود علیہ السلام
۳۶۳	سورۃ الحشر	۳۵۳	سورۃ سبحان
۳۶۳	سورۃ الملک تین آیات	۳۵۳	الاکمال
۳۶۴	سورۃ القدر	۳۳۵	سورۃ الکہف
۳۶۴	لم یکن یعنی سورۃ البینۃ	۳۵۴	الاکمال
۳۶۴	سورۃ الزلزلة	۳۵۵	سورۃ الحج
۳۶۴	سورۃ الصالح	۳۵۵	قدح یعنی سورۃ المؤمنون
۳۶۵	الکافرون	۳۵۶	الجوامیم ہر وہ سورت جس کی ابتداء حتم سے ہو
۳۶۵	قل هو اللہ احد	۳۵۶	سورۃ یس
۳۶۷	المعوذتین	۳۵۶	سورۃ الزمر
۳۶۸	فصل سوم تلاوت کے آداب میں	۳۵۶	سورۃ الدخان
۳۷۱	الاکمال	۳۵۷	انافتھا یعنی سورۃ الفتح
۳۷۲	قرآن کی اشاعت کرنے کا حکم	۳۵۷	”اقتربت الساعۃ“ یعنی سورۃ قمر
۳۷۳	فصل تلاوت کے مکروہات اور چند حقوق کے بیان میں	۳۵۷	سورۃ الرحمن
۳۷۴	الاکمال	۳۵۷	سورۃ الواقعة
۳۷۷	حالیین قرآن کی تین قسمیں	۳۵۷	سورۃ الحشر
		۳۵۸	سورۃ الطلاق
		۳۵۸	سورۃ تبارک الذی
		۳۵۸	سورۃ اذا زلزلت
		۳۵۸	الہاکم التکاثر
		۳۵۹	قل هو اللہ احد
		۳۶۰	معوذتین
		۳۶۱	بقیہ متفرق سورتوں کے فضائل از الاکمال
		۳۶۱	طہ
		۳۶۱	سورۃ المؤمنین از الاکمال
		۳۶۲	سورۃ یس
		۳۶۲	سورۃ الزمر
		۳۶۳	سورۃ الدخان
		۳۶۳	الواقعة

فہرست عنوانات..... حصہ دوم

۴۰۴	مومن کی قبر کی حالت	۳۷۹	فصل چہارم تفسیر کے بیان میں
۴۰۴	جنہیوں کی تعداد میں کثرت	۳۷۹	امت محمدیہ ﷺ معتدل امت ہے
۴۰۴	امت محمدیہ کی کثرت	۳۸۰	ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا لطیف
۴۰۵	ابلیس کو سب سے پہلے آگ کا لباس پہنایا جائے گا	۳۸۱	امانت داری کا حکم
۴۰۶	استغفار سے گناہ مٹ جاتا ہے	۳۸۳	فرعون کا ایمان غیر معتبر ہے
۴۰۷	سلیمان علیہ السلام کے سامنے درخت اگنا	۳۸۵	رملہ فلسطین کا ذکر
۴۰۹	دیدار الہی کا ذکر	۳۸۶	پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
۴۱۰	کافر کے اعمال صالحہ کا بدلہ	۳۸۷	حضور ﷺ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت
۴۱۲	بڑی آنکھوں والی حور	۳۸۷	ساتھ سال کی زندگی بڑی مہلت ہے
۴۲۳	جنتی فرشتے کی اونچائی	۳۸۸	ادبار نجوم کی تفسیر
۴۱۴	مومن کی بیماری دفع درجات کا سبب ہے	۳۸۹	جبرائیل علیہ السلام کا دیدار
۴۱۵	ازال اکمال	۳۹۰	گناہگار کے دل میں سیاہ نقطہ
۴۱۶	پانچویں فصل	۳۹۲	امت میں فتح کی علامت کا دیکھنا
۴۱۶	پہلی فرج قرأت سبعہ کے بیان میں	۳۹۲	فصل (رابع) کے متعلقات کی ایک فرج
۴۱۶	”سبعہ احرف“ کی راجح ترین تشریح	۳۹۳	سلف صالحین کے اقوال کا لحاظ کرنا
۴۱۸	اس قول کی وجوہ ترجیح	۳۹۴	رب العالمین سے ہمکلامی
۴۱۹	اس قول پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کا جواب	۳۹۵	نیکالیف گناہوں کا کفارہ ہے
۴۱۹	سات حروف کے ذریعہ کیا آسانی پیدا ہوئی؟	۳۹۵	شراب کی حرمت میں حکمت و تدبیر الہی
۴۲۱	سوسبعہ احروف کی وضاحت	۳۹۷	عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہیہ
۴۲۲	قرآن کریم کی سات لغات	۳۹۸	یہود کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت
۴۲۴	الاکمال	۳۹۸	اصحاب البیتین، اصحاب الشمال
۴۲۵	دوسری فرج سجدہ تلاوت کے بیان میں	۳۹۹	حواعلیہ السلام کی نذر
۴۲۶	تیسری فرج حفظ قرآن کی نماز کے بیان میں	۴۰۰	مؤمنین اور کافرین کی شاعت کرنے والے
۴۲۷	قوت حافظہ کا نسخہ	۴۰۱	امت کے بہترین لوگ

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۴۵۵	آخری رات میں دعا	۴۲۸	آٹھواں باب پہلی فصل ... دعا کی فضیلت اور اس کی
۴۵۷	پانچویں فصل مختلف اوقات کی دعائیں	۴۲۸	ترغیب کے بیان میں
۴۵۷	پہلی فرغ ... رنج و غم اور مصیبت کی دعاؤں کے بارے میں	۴۲۹	دعا کا آخرت کے لئے ذخیرہ ہونا
۴۵۸	مصیبت کے وقت کی دعا	۴۳۱	دعا سے مصیبت ٹل جاتی ہے
۴۵۹	رنج و غم اور مصیبت کی وقت کی دعائیں از الاکمال	۴۳۱	از الاکمال
۴۶۲	دوسری فرغ ... نماز کے بعد کی دعائیں	۴۳۲	دعا مانگنے والا ناکام نہیں ہوتا
۴۶۳	سو بار سبحان اللہ کہنے کی فضیلت	۴۳۳	الفصل الثانی دعا کے آداب میں
۴۶۳	ہر نماز کے بعد کی تسبیحات	۴۳۴	فرشتوں کا کہنا
۴۶۵	چاشت کی نماز کی فضیلت	۴۳۶	عافیت کی دعا اہم ہے
۴۶۵	نماز کے بعد کی دعائیں از الاکمال	۴۳۷	دعا کے جامع الفاظ
۴۶۶	شیطان کی شر سے حفاظت	۴۳۹	حرام خوری قبولیت دعا سے مانع ہے
۴۶۸	تیسرے فرغ صبح و شام کی دعاؤں کے بارے میں	۴۴۰	دعا میں گڑگڑانا چاہئے
۴۶۹	نہر کے بعد کے اعمال	۴۴۱	الاکمال
۴۷۲	چوتھی فصل مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعائیں	۴۴۱	پختہ اعتقاد کے ساتھ دعا
۴۷۳	صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنے کی فضیلت اور ادو وظائف	۴۴۲	کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے
۴۷۶	فجر اور عصر کے بعد کے معمولات	۴۴۳	عافیت کی دعا مانگنا
۴۷۶	اشراق کی فضیلت	۴۴۵	الفصل الثالث دعا کے ممنوعات کے بیان میں
۴۷۸	فجر کے بعد پڑھنے کے دس کلمات	۴۴۶	دعا میں عموم رکھے
۴۷۹	صبح یا شام کسی ایک وقت پڑھی جانے والی دعائیں از الاکمال	۴۴۶	ممنوعات دعا از الاکمال
۴۷۹	شام کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں	۴۴۷	الفصل الرابع دعا کی قبولیت کی بیان میں
۴۷۹	صبح کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں از الاکمال	۴۴۷	مخصوص و مقبول دعائیں
۴۸۱	صبح و شام کی دعائیں از الاکمال	۴۴۸	مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے
۴۸۵	شہادت کی موت	۴۴۹	مخصوص اوقات اور احوال میں قبولیت دعا
۴۸۶	چھٹی فصل جامع دعاؤں کے بیان میں	۴۴۹	تین مواقع میں دعا رد نہیں ہوتی
۵۰۴	ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا	۴۵۱	اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء
۵۰۶	بستر پر پڑھنے کی دعا	۴۵۲	مخصوص مقبول دعائیں از الاکمال
۴۰۶	الاکمال	۴۵۲	دعاؤں کی قبولیت کے مواقع از الاکمال
		۴۵۳	مختلف احوال اور اوقات میں دعاؤں کی قبولیت
			از الاکمال
		۴۵۴	مسلمان بھائی کے لئے غائبانہ دعا

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۴۵۷	قرآن کے ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے	۵۲۰	فرشتوں کی وصا
۴۵۸	ذیل القرآن	۵۲۲	مختصر جامع وصا
۴۵۸	مرد کوزمین نے قبول نہیں کیا	۵۳۰	عبادت کا حق ادا کرنا
۴۵۹	فصل سورتوں اور آیات کے بیان میں	۵۳۰	کتاب الاذکار من الاقوال
۴۵۹	بسم اللہ کے فضائل	۵۳۳	حرف حمزہ (ا) کی دوسری کتابہ کتاب الاذکار
۴۵۹	الفاتحہ	۵۳۳	از قسم الافعال
۵۶۰	سورۃ فاتحہ کی فضیلت	۵۳۳	باب ذکر اور اس کی فضیلت کا بیان مستعرضی
۵۶۱	سورۃ بقرہ	۵۳۳	اللہ عنہ
۵۶۲	افضل ترین آیت	۵۳۳	ذکر اللہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے
۵۶۴	سورۃ یسین کے فضائل	۵۳۴	ذکر اللہ سے زبان کو ترکھن
۵۶۶	سورۃ ناکار کی فضیلت	۵۳۵	ذاکرین قابل فخر ہیں
۵۶۷	فصل تلاوت کے آداب میں	۵۳۶	ذکر اللہ محبوب ترین عمل ہے
۵۶۹	تین راتوں میں پورا قرآن پڑھنا	۵۳۶	ذاکرین سبقت کرنے والے ہیں
۵۶۹	قرآن کی مسلسل تلاوت	۵۳۶	ذکر کے آداب
۵۷۱	سات راتوں میں ختم قرآن	۵۳۷	باب اللہ کے اسماء حسنی کے بیان میں
۵۷۲	تلاوت معتدل آواز سے ہو	۵۳۷	فصل اسم اعظم کے بارے میں
۵۷۳	فصل قرآن کے حقوق کے بیان میں	۵۳۸	باب لاجل ولا قوۃ الا باللہ کی فضیلت کے بیان میں
۵۷۴	قرآن کے مطلب اخذ میں نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا	۵۳۹	باب تسبیح کے بیان میں
۵۷۵	قرآن کریم سے متعلق فضول سوالات سے اجتناب کرنا	۴۴۰	ذکر اللہ میں مصائب سے حفاظت
۵۷۸	قرآن کلام اللہ خالق ہے	۴۴۱	باب استغفار اور تعوذ کے بیان میں
۵۸۰	حالت جنابت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں	۴۴۱	استغفار
۵۸۱	قرآن سے دینانہ کمائے	۴۴۲	استغفار وسعت کا ذریعہ ہے
۵۸۲	قرآن کو اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا	۴۴۲	العوذ
۵۸۳	قرآن کے حصے پارے	۴۴۳	جن، آسیب وغیرہ کے اثرات سے تعوذ
۵۸۴	ختم قرآن کے آداب	۴۴۵	باب حضور پرورد پڑھنے کے بیان میں
۵۸۵	فصل تفسیر کے بیان میں	۴۵۰	ایک مرتبہ درود پردس رحمتیں
۵۸۶	سورۃ البقرہ	۴۵۳	باب قرآن کے بیان میں
۵۸۶	قرآن میں طاعت سے مراد شیطان ہے	۴۵۴	فصل فضائل قرآن کے بیان میں
۵۸۷	ابن آدم قیامت کے دن اعمال کا زیادہ محتاج ہوگا	۴۵۶	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط
			کثرت تلاوت رفع درجات کا سبب ہے

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۶۲۳	سورۃ انفال	۵۸۸	خالص منافق اور مخلص مومن
۶۲۴	مال غنیمت حلال ہے	۵۸۹	آدم علیہ السلام کا سوسال تک رونا
۶۲۵	سورۃ التوبہ	۵۹۱	تین طلاق کے بعد عورت حلال نہیں
۶۲۵	قیامت کے روز ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا	۵۹۲	صلوٰۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے
۶۲۷	منافق پر جنازہ پڑھنے کی ممانعت	۵۹۳	عزیز علیہ السلام سوسال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے
۶۲۸	کافر کے حق میں استغفار جائز نہیں	۴۹۵	ہاروت و ماروت کون؟
۶۲۹	کفار سے برأت کا اعلان	۵۹۷	نماز میں بات چیت ممنوع ہے
۶۳۰	سورۃ برأت تلوار کے ساتھ نازل ہوگی	۵۹۷	وساوس پر مواخذہ نہیں
۶۳۱	پاکی حاصل کرنے والوں کی تعریف	۵۹۹	سورۃ آل عمران
۶۳۲	غزوہ تبوک	۶۰۰	ہر نبی سے نبی آخر الزماں کی مدد کا عہد لیا
۶۳۲	خصوصی انعام کا تذکرہ	۶۰۲	مباحلہ کا حکم
۶۳۳	سورۃ ہود	۶۰۲	سورۃ النساء
۶۳۵	دنیا طلبی کی مذمت	۶۰۳	جہنمیوں نخی کھالیں تبدیل ہوں گی
۶۳۶	قبیلہ والوں کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے	۶۰۴	امانت کی ادائیگی
۶۳۷	سفینہ نوح علیہ السلام	۶۰۵	شراب کے اثرات
۶۳۸	سورۃ یوسف	۶۰۷	حکم مقرر کرنے کا حکم
۶۳۸	سورۃ رعد	۶۰۹	کلالہ کی میراث کا حکم
۶۳۹	قدرت کی نشانیاں	۶۱۰	ہجرت کے موقع پر قریش کا انعام مقرر کرنا
۶۳۹	سورۃ ابراہیم علیہ السلام	۶۱۱	بلا تحقیق کسی اقدام سے ممانعت
۶۴۰	اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلنے والے	۶۱۳	سورۃ المائدہ
۶۴۱	کافروں کی دین دشمنی	۶۱۳	سبک طافی حلال نہیں
۶۴۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ	۶۱۴	دین اسلام مکمل دین ہے
۶۴۲	سورۃ الحجر	۶۱۵	قائیل اور ہائیل کا واقعہ
۶۴۳	دل کا صاف ہونا	۶۱۷	حرام خوری کے آٹھ دروازے
۶۴۴	خلفاء راشدین کے فضائل	۶۱۷	ڈاکوؤں کی سزا
۶۴۴	سورۃ النحل	۶۱۸	پیشاب پینا حرام ہے
۶۴۵	شہداء احد کی تعداد	۶۲۰	اسلام اور تقویٰ ہی مدار عزت ہے
۶۴۶	سورۃ الاسراء	۶۲۱	سورۃ الاعراف
۶۴۶	اعلانہ گناہوں کا ذکر	۶۲۲	موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر
۶۴۷	طلوع فجر سے پہلے دعا کا اہتمام	۶۲۳	بنی اسرائیل کی بے ہوشی کا واقعہ

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۶۶۹	سورۃ فاطر	۶۴۸	سورۃ الکہف
۶۶۹	گناہگار مسلمان کی نجات ہوگی	۶۴۸	مدفون خزانے کیا تھے؟
۶۷۰	سورۃ الصافات	۶۴۸	ذوالقرنین کا ذکر
۶۷۱	ذبح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہیں	۶۵۰	یا جوج ماجوج کا ذکر
۶۷۲	قوم یونس علیہ السلام کی تعداد	۶۵۰	ابو جہل اور اس کے ساتھ کفر کا سرغنہ ہیں
۶۷۳	سورۃ ص	۶۵۱	سب سے زیادہ علم والا کون؟
۶۷۳	نقش سلیمانی	۶۵۲	جزیرۃ العرب کا شرک سے پاک ہونا
۶۷۴	سورۃ الزمر	۶۵۳	سورۃ مریم
۶۷۴	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا موقع	۶۵۳	متقین کی سواری
۶۷۵	خواب کی حقیقت کیا ہے؟	۶۵۵	سورۃ طہ
۶۷۶	آسمان وزمین کی چابیاں	۶۵۵	وعظ میں نرم زبان استعمال کرنا
۶۷۷	سورۃ المؤمن	۶۵۶	سورۃ الانبیاء
۶۷۸	سورۃ فصلت	۶۵۷	قوم لوط کے برے اخلاق
۶۷۸	دلوں پر تالا ہونا	۶۵۸	سورۃ الحج
۶۷۹	سورۃ الشوری	۶۵۸	مشروعیت جہاد
۶۸۰	سزا ایک ہی دفعہ ہوتی ہے	۶۵۹	بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر
۶۸۰	حروف مقطعات کا مفہوم	۶۵۹	مشروعیت جہاد کی حکمت
۶۸۰	سورۃ الزخرف	۶۶۰	سورۃ المؤمنون
۶۸۲	سورۃ الدخان	۶۶۱	سورۃ النور
۶۸۲	سورۃ الاحقاف	۶۶۱	مکاتب بنانے کا ذکر
۶۸۳	سورۃ محمد ﷺ	۶۶۲	گھر کے افراد پر بھی مخصوص اوقات میں اجازت ضروری ہے
۶۸۳	سورۃ الفتح	۶۶۳	سورۃ الفرقان
۶۸۴	سورۃ الحجرات	۶۶۳	سورۃ القصص
۶۸۴	زیادہ تقویٰ والا زیادہ مکرم	۶۶۵	سورۃ العنکبوت
۶۸۵	سورۃ ق	۶۶۵	سورۃ لقمان
۶۸۶	سورۃ الذاریات	۶۶۶	سورۃ الاحزاب
۶۸۷	سورۃ الطور	۶۶۶	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معافی طلب کرنا
۶۸۸	جہنم کہاں واقع ہے؟	۶۶۷	انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا
۶۸۸	سورۃ النجم	۶۶۸	ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا
۶۸۹	سورۃ القمر	۶۶۸	قوم سبا کا تذکرہ

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۷۱۱	سورۃ البیل	۶۸۹	شکست کھانے والے
۷۱۲	سورۃ اقرآ (علق)	۶۹۰	سورۃ الرحمن
۷۱۲	سورۃ الزلزال	۶۹۰	عبادت گزاروں جو انوں کا واقعہ
۷۱۲	سورۃ العادیات	۶۹۱	سورۃ الواقعہ
۷۱۳	سورۃ الحاکم النکات	۶۹۲	سورۃ المجادلۃ
۷۱۴	سورۃ البقیل	۶۹۳	نفلی صدقہ جو میسر ہو
۷۱۴	سورۃ قریش	۶۹۴	سورۃ الحشر
۷۱۴	سورۃ ارأیت (ماعون)	۶۹۴	سورۃ الجمعہ
۷۱۴	سورۃ الکوثر	۶۹۴	سورۃ التخنین
۷۱۵	سورۃ النصر	۶۹۵	سورۃ الطلاق
۷۱۷	رسول اللہ ﷺ کا معمول	۶۹۶	سورۃ التحریم
۷۱۷	سورۃ تبت (اہب)	۶۹۸	ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی
۷۱۷	ابولہب کی بیوی ام جمیل کی ایذا رسانی	۷۰۴	سورۃ النجم
۷۱۸	سورۃ الاخلاص	۷۰۴	سورۃ الحاقہ
۷۱۸	سورۃ الفلق	۷۰۴	سورۃ نوح
۷۱۸	المعوذتین	۷۰۵	سورۃ الجن
۷۱۹	تفسیر کے بیان میں	۷۰۵	سورۃ المزمل
۷۱۹	جامع تفسیر	۷۰۶	سورۃ المدثر
۷۲۰	باب تفسیر کے ملحقات کے بیان میں	۷۰۶	سورۃ عم (نبأ)
۷۲۰	منسوخ القرآن آیات	۷۰۶	سورۃ التازعات
۷۲۳	نزول القرآن	۷۰۷	سورۃ عبس
۷۲۳	جمع القرآن	۷۰۷	سورۃ تکویر
۷۲۴	ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جامع القرآن ہیں	۷۰۸	سورۃ انفطار
۷۲۶	جنگ یمامہ میں چار سو قراء شہید ہوئے	۷۰۸	سورۃ المطففین
۷۲۷	جمع قرآن میں احتیاط اور اہتمام	۷۰۹	سورۃ انشقاق
۷۲۸	آیات کی ترتیب تو قینی ہے	۷۰۹	سورۃ البروج
۷۲۹	اختلاف قرأت اور لغت قریش	۷۱۰	اصحاب الاخدود کا واقعہ
۷۳۲	حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جامع القرآن ہیں	۷۱۰	سورۃ الغاشیہ
۷۳۴	مفصلات قرآن	۷۱۱	سورۃ الفجر
۷۳۴	بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنی آیت ہے	۷۱۱	سورۃ البلد

صفحہ نمبر	فہرست عنوان	صفحہ نمبر	فہرست عنوان
۷۶۸	رنج و غم اور خوف کے وقت کی دعا	۷۳۵	القرأت
۷۶۹	تکلیف اور سختی کے وقت پڑھنے کے کلمات	۷۳۳	حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی قرأت پر اختلاف
۷۷۲	خوف و گھبراہٹ کے وقت پڑھنا	۷۳۵	رسول اللہ ﷺ پر ہر سال قرآن پیش ہوتا تھا
۷۷۳	بھانجا بھی قوم کا فرد ہے	۷۳۵	القرآء
۷۷۴	ظالم بادشاہ سے خوف کے وقت پڑھے	۷۳۶	باب الدعاء
۷۷۵	شیطان سے حفاظت کی دعا	۷۳۷	فصل فضائل دعا
۷۷۶	حفاظت کی دعا	۷۳۷	فصل دعا کے آداب میں
۷۷۸	حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دعا	۷۳۷	قدنہ سے پناہ مانگنے کا طریقہ
۷۷۸	رزق کی کشادگی کی دعائیں	۷۳۸	یوسف علیہ السلام کی قبر
۷۷۹	رنج و خوشی کی دعائیں	۷۳۹	دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے
۷۸۰	مختلف دعائیں	۷۵۱	دعا میں کوشش و محنت
۷۸۳	پانچ چیزوں سے پناہ مانگنا	۷۵۲	عافیت کی دعا کی اہمیت
۷۸۶	دعا مغفرت	۷۵۳	عافیت کی دعا مانگنا چاہئے
۷۸۸	جامع اور مختصر دعا	۷۵۴	ممنوع الدعاء
۷۹۶	حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا	۷۵۵	دعا کی قبولیت کے اوقات
۷۹۶	حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا	۷۵۵	قبولیت کے مقامات
۷۹۸	قرض سے حفاظت کی دعا	۷۵۶	مقبولیت کے قریب دعائیں
۷۹۹	خضر علیہ السلام کی دعا	۷۵۶	مخصوص اوقات کی دعائیں
		۷۵۶	صبح کے وقت کی دعا
		۷۵۷	شام کی دعا
		۷۵۷	صبح و شام کی دعا
		۷۵۸	بری موت سے بچاؤ کی دعا
		۷۵۹	حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی دعا
		۷۶۰	فرض نماز کے بعد کی دعا
		۷۶۱	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا
		۷۶۲	بستر پر پڑھنے کی دعا
		۷۶۳	حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا
		۷۶۴	نماز کے بعد ایک دعا
		۷۶۶	نماز فجر سے پہلے کی دعا
		۷۶۸	نماز فجر کے بعد پڑھنا

مقدمہ کنز العمال اردو

از

مولانا مفتی احسان اللہ شائق صاحب

استاذ و معین مفتی جامعۃ الرشید کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد
علم حدیث شروع کرنے سے پہلے حدیث کے متعلق بعض اہم امور اور ضروری باتیں معلوم ہونا ضروری ہیں جن سے حدیث اور اس کی
شرح سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ایسی بعض باتوں کو یہاں اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

حدیث کا لغوی معنی:

حدیث لغت کے اعتبار سے ہر قسم کے کلام کو کہا جاتا ہے۔ لغت عرب کے مشہور امام علامہ جوہری نے اپنی کتاب ”صحاح“ میں حدیث کے
معنی اس طرح بیان کئے ہیں کہ:

الحدیث: الکلام قلیله و کثیره و جمعه احادیث
حدیث قلیل اور کثیر کلام کو کہا جاتا ہے اسکی جمع احادیث ہے۔

حدیث کی اصطلاحی تعریف:

اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم و افعاله و تقريراته.
حدیث رسول اللہ ﷺ کے اقوال، افعال اور تقریرات کو کہا جاتا ہے۔ تقریرات سے مراد صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے کوئی عمل کیا
آپ نے منع نہیں فرمایا تو یہ اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل ہے، اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔

علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے ”فتح المغنیث“ میں اس طرح تعریف فرمائی کہ:

والحدیث ضد القدییم، واصطلاحاً ما اذیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولاً له او فعلاً له او تقریراً
او صفة حتی الحركات والسکنات فی الیقظة والمنام.

حدیث کی وجہ تسمیہ:

حدیث کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے یہ توجیہ بیان فرمائی ہے کہ لفظ حدیث ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ

رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے ماخوذ ہے کہ یہاں نعمت سے مراد شائع کی تعلیم ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن شرائع کی تعلیم فرمائی ہے ان کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، آپ ﷺ کے اقوال و افعال کا نام ”حدیث“ رکھا گیا ہے۔ مقدمہ فتح الملہم استاذ محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم فرماتے ہیں کہ احقر کے نزدیک صاف اور بے غبار بات یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے اقوال و افعال کے لئے لفظ ”حدیث“ کو مخصوص کر لینا استعارۃ العام للخاص کی قبیل سے ہے اور اس استعارہ کے ماخذ خود رسول اللہ ﷺ کے بعض ارشادات ہیں، جن میں خود آپ ﷺ نے اپنے افعال و اقوال کے لیے لفظ ”حدیث“ استعمال فرمایا، چنانچہ ارشاد ہے:

حدثوا عني ولا حرج. صحيح مسلم كتاب الزهد: ۴۱۴/۲

اسی طرح ارشاد ہے:

من حفظ علي امتي اربعين حديثا في امر دينها بعثه الله فقيها و كنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا

مشکوٰۃ كتاب العلم في الفصل الثالث: ص ۳۲

بہر حال ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اقوال و افعال نبی کو حدیث کہنا کوئی نئی اصطلاح نہیں بلکہ خود رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے لہذا

اس سلسلہ میں دوراز کا ترجمہات کی کوئی حاجت نہیں۔ درس ترمذی: ۱۹/۱۱

چند متقارب الفاظ:

حدیث کے معنی میں چند الفاظ اور مستعمل ہوتے ہیں یعنی، روایت، اثر، خبر اور سنت، صحیح یہ ہے کہ یہ تمام الفاظ علماء حدیث کی اصطلاح میں مرادف ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے معنی میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے، بعض حضرات نے ان اصطلاحات میں فرق بھی کیا ہے، البتہ جہاں تک روایت کا تعلق ہے اس کا اطلاق بالاتفاق حدیث کے لغوی مفہوم پر ہوتا ہے۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ حدیث صرف آنحضرت ﷺ کے اقوال و افعال اور احوال کو کہتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک دونوں میں بتابین کی نسبت ہے کہ حدیث آنحضرت ﷺ کے اقوال اور افعال کا نام ہے اور خبر آپ کے سوا دوسرے لوگوں کے اقوال و افعال کا، اور بعض کے نزدیک دونوں کے درمیان عموم خصوص کی نسبت ہے خبر عام ہے اور آنحضرت ﷺ اور دوسرے حضرات کے اقوال و افعال کو بھی شامل ہے اور حدیث صرف آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے۔ فقہاء خراسان، حدیث موقوف کو اثر، اور حدیث مرفوع کو خبر یا حدیث کہتے ہیں۔

علم حدیث کی تعریف:

علامہ بدر الدین یعنی رحمہ اللہ نے علم حدیث کی یہ تعریف کی ہے:

هو علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله.

علم حدیث وہ علم جس کے ذریعہ رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال اور احوال کو پہچانا جائے۔

حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے ”فتح المغیث“ میں یہ تعریف کی ہے:

معرفة ما اضيف الي النبي صلى الله عليه وسلم قولاً له او فعلاً او تقريراً او صفة

رسول الله ﷺ کی طرف جو قول یا فعل یا حالت یا اوصاف منسوب ہیں ان کو پہچانا۔

علم حدیث کی اقسام:

علامہ ابن الاکفانی رحمہ اللہ نے ارشاد القاصد میں لکھا ہے کہ علم حدیث کی ابتداء دو قسمیں ہیں:

۱ علم روایۃ الحدیث ۲ علم درایۃ الحدیث

علم روایۃ الحدیث کی تعریف یہ ہے:

هو علم بنقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و احواله بالسماع المتصل و ضبطها و تحریرها.
اور علم درایۃ الحدیث کی تعریف یہ ہے کہ:

هو علم یتعرف به انواع الروایۃ و احکامها و شروط الروایۃ و اصناف المرویات و استخراج معانیها.

لہذا کسی حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ فلاں کتاب میں فلاں سند سے فلاں الفاظ کے ساتھ مروی ہے، یہ علم روایۃ الحدیث ہے اور اس حدیث کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ خبر واحد ہے یا مشہور، صحیح ہے یا ضعیف، متصل ہے یا منقطع، اس کے رجال ثقہ ہیں یا غیر ثقہ و نیز اس حدیث سے کیا احکام مستنبط ہوتے ہیں اور کوئی تعارض تو نہیں ہے اگر ہے تو کیونکر رفع کیا جاسکتا ہے؟ یہ سب باتیں علم درایۃ الحدیث سے متعلق ہیں۔

علم حدیث کا موضوع:

علم حدیث کا موضوع آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی ہیں اس حیثیت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

چنانچہ علامہ کرمانی شارح بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ:

موضوع علم الحدیث ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انه رسول.

آپ ﷺ کے افعال و اقوال علم روایت الحدیث کا موضوع ہیں اور سند و متن علم روایت حدیث کا۔

وقال السیوطی رحمہ اللہ، موضوع علم الحدیث فهو السند و المتن.

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے سند اور متن حدیث ہی کو علم حدیث کا موضوع قرار دیا (تدریب الراوی ص ۵)۔

علم حدیث کی غرض و غایت:

الاهتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.

یعنی علم حدیث کی غرض رسول اللہ ﷺ کے لئے ہونے دین کی اتباع ہے۔ اب دین کا مدار علم حدیث پر ہے، کیونکہ اصل دین قرآن پاک تو مجمل ہے اس کی تبیین اور توضیح کی ضرورت ہے اور وہ احادیث ہی سے ہو سکتی ہے، قرآن پاک میں نماز و زکوٰۃ کا تو ذکر ہے لیکن ان کی رکعات اور تعداد وغیرہ کچھ مذکور نہیں یہ سب احادیث سے ثابت ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک متن ہے حدیث شرح تو قرآن پاک جو مدار دین ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا پڑھنا اہم ہوا۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کے لیے ایک غرض یہ کافی ہے کہ حضرت محمد ﷺ کا کلام ہے اور ہم محبت رسول ہیں اور آپ سے سچی محبت کے دعویدار ہیں لہذا آپ کے کلام کو محض اس لیے پڑھنا چاہئے کہ ایک محبوب کا کلام ہے اور جب اس کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو ایک قسم کی لذت و حلاوت اور رغبت پیدا ہوگی جیسے اگر کوئی عشق میں پھنسا ہوا ہو اور اس کے معشوق کا خط آجائے تو اگر وہ حدیث پاک کے بھی سبق میں ہوگا پہلے اس کو پڑھے گا اور اگر کھانے کے درمیان آجائے تو کھانا بند کر دے گا اور نماز کے اوقات میں جیب پر نظر رہے گی تو جب اس ناپاک خط کو پڑھے گا اتنا شوق اور ذوق ہے تو پھر حضور ﷺ کا پاک کلام تو اس سے بدرجہا قابل صداہتمام ہے۔ ماخوذ از تقریر بخاری

علم حدیث کی فضیلت:

رسول اللہ ﷺ نے ایسے خوش نصیبوں کے حق میں دعاء فرمائی ہے جو علم حدیث پڑھنے پڑھانے امت تک پہنچانے کا مشغلہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

عن زید بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرا، سمع منا حديثا فحفظه وبلغه

غيره فرب حامل فقه ليس بفقيه. كتاب العلم والعلماء: ص ۳۹

رسول اللہ ﷺ نے دعاء دی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و تروتازہ رکھے جو ہم سے حدیث سن کر یاد کرے پھر دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ بعض حدیث کو یاد کرنے والے حدیث کے معنی اور مفہوم سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔

عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابابكرة حدث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: الافليسغ الشاهد منكم الغائب فانه لعله أن يبلغه من هو اوعى له منه أو من هو احفظ له.

كتاب العلم والعلماء: ۴۱/۱۱

ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے موجود لوگ میری احادیث کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ ہو سکتا ہے جس تک حدیث پہنچائی جا رہی ہے وہ زیادہ سمجھدار اور دین کو زیادہ محفوظ کرنے والا ہو۔

وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم ارحم خلفائي قلنا يا رسول الله! ومن خلفاءك؟

قال الدين يأتون من بعدي يروون احاديثي ويعلمونها الناس." اخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد: ۱۲۶/۱

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ! میرے خلفاء پر رحم فرما تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث روایت کریں گے اور لوگوں کو سکھلائیں گے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم على صلوة.

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں تو حدیث کے پڑھنے پڑھانے وغیرہ کا مشغلہ اختیار کرنے میں اس فضیلت کے حصول کا زیادہ موقع ہے۔

حدیث روایت کرنے میں احتیاط کی ضرورت:

حدیث پڑھنا، پڑھانا یقیناً بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے، اسی طرح حدیث روایت کرنا رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات عام کرنا بھی ضروری ہے جس کی تعلیم اوپر کی احادیث میں موجود ہے۔ تاہم جس روایت کے متعلق یقین نہ ہو کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے اس کو حدیث کہہ کر روایت کرنا یا یہ کہہ کر جھوٹی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا بڑا گناہ ہے اس پر سخت وعید آئی ہے۔

عن سمره بن جندب ومغيرة بن شعبه رضی اللہ عنہما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من

حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو احد الكاذبين. رواه مسلم

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹی حدیث روایت کی وہ بھی جھوٹ باندھنے والوں کے حکم میں ہوگا۔

وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عني

الاما علمتم فمن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار. رواه الترمذی، مشکوة كتاب العلم: ۳۵/۱

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث روایت کرنے میں احتیاط سے کام لو صرف وہی حدیث روایت کرو جس کا حدیث ہونا تمہیں معلوم ہو، کیونکہ جو کوئی میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

خلاصہ یہ ہے کہ صحیح حدیث کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، آگے امت تک پہنچانا انتہائی ضروری ہے۔ اس کو چھپانا، روگردانی کرنا جائز نہیں۔ نیز فضائل بیان کرنے کے شوق میں جھوٹی حدیث بنانا یا صوفیہ وغیرہ کے اقوال یا سنی بات کو حدیث کہہ کر آگے بیان کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لئے علماء طلبہ اور دین کی اشاعت کرنے والے حضرات کو چاہئے کہ جب کوئی روایت جیسے تو پہلے اس روایت کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے، کسی مستند کتاب میں دیکھے اور کسی معتبر عالم سے اس کا مفہوم سمجھ لے اس کے بعد آگے بیان کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط بات آگے پہنچانے کی وجہ سے ثواب کی بجائے اللعاب کا مستحق قرار پائے۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حاصل ہو تو دونوں ہی باتوں پر عمل کرنا آسان ہے۔

اللهم انا نستلک علما نافعاً وعملاً صالحاً وقلبا خاشعاً منیباً.

حیۃ الحدیث:

امت محمد ﷺ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا اس پر اجماع ہے کہ حدیث، قرآن کریم کے بعد دین کا دوسرا اہم ماخذ ہے، لیکن بیسویں صدی کے آغاز میں جب مسلمانوں پر مغربی اقوام کا سیاسی، نظریاتی تسلط بڑھا تو کم علم مسلمانوں کا ایسا طبقہ وجود میں آیا جو مغربی افکار سے بے حد مرعوب تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں ترقی بغیر تقلید مغرب کے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام کے بہت سے احکام اس کے راستہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اس لیے اس نے اسلام میں تحریف کا سلسلہ شروع کر دیا، تاکہ اسے مغربی افکار کے مطابق بنایا جاسکے، اس طبقہ کو "اہل تجرد" کہا جاتا ہے، ہندوستان میں سرسید احمد خان، مصر میں طہ حسین، ترکی میں ضیاء گوک الپ اس طبقہ کے رہنما ہیں، اس طبقہ کے مقاصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے تھے جب تک حدیث کو راستہ سے نہ ہٹایا جائے، کیونکہ احادیث میں زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ایسی مفصل ہدایات موجود ہیں جو مغربی افکار سے صراحتاً متصادم ہیں، چنانچہ اس طبقہ کے بعض افراد نے حدیث کو حجت ماننے سے انکار کیا، یہ آواز ہندوستان میں سب سے پہلے سرسید احمد خان اور ان کے رفیق مولوی چراغ علی نے بلند کی، لیکن انہوں نے انکار حدیث کے نظریہ کو علی الاعلان اور بوضاحت پیش کرنے کی بجائے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جہاں کوئی حدیث اپنے مدعا کے خلاف نظر آئی اس کی صحت سے انکار کر دیا۔ خواہ اس کی سند کتنی ہی قوی کیوں نہ ہو اور ساتھ ہی کہیں کہیں اس بات کا بھی اظہار کیا جاتا رہا کہ یہ احادیث موجودہ دور میں حجت نہیں ہونی چاہئیں اور اس کے ساتھ بعض مقامات پر مفید مطلب احادیث سے استدلال بھی کیا جاتا رہا، اسی ذریعہ سے تجارتی سود کو حلال کہا گیا، معجزات کا انکار کیا گیا، پردہ کا انکار کیا گیا، اور بہت سے مغربی نظریات کو سند جواز دی گئی۔

ان کے بعد نظریہ انکار حدیث میں اور ترقی ہوئی اور یہ نظریہ کسی قدر منظم طور سے عبداللہ چکڑالوی کی قیادت میں آگے بڑھا اور ایک فرقہ کا بانی تھا جو اپنے آپ کو "اہل قرآن" کہتا تھا، اس کا مقصد حدیث سے کلیۃً انکار کرنا تھا، اس کے بعد اسلم جبران پوری نے اہل قرآن سے ہٹ کر اس نظریہ کو اور آگے بڑھایا، یہاں تک کہ غلام احمد پرویز نے اس فتنہ کی باگ دوڑ سنبھالی اور اسے ایک منظم نظریہ اور مکتب فکر کی شکل دیدی، نوجوانوں کے لیے اس کی تحریر میں بڑی کشش تھی، اس لیے اس کے زمانہ میں یہ فتنہ سب سے زیادہ پھیلا، یہاں ہم اس فتنہ کے بنیادی نظریات پر مختصر گفتگو کریں گے۔ منکرین حدیث کی طرف سے جو نظریات اب تک سامنے آئے ہیں وہ تین قسم کے ہیں:

۱۔ رسول کریم ﷺ کا فریضہ صرف قرآن پہنچانا تھا، اطاعت صرف قرآن کی واجب ہے، آپ ﷺ کی اطاعت "من حیث الرسول" نہ صحابہ پر واجب تھی اور نہ ہم پر واجب ہے (معاذ اللہ) اور وحی صرف مملو ہے اور وحی غیر مملو کوئی چیز نہیں ہے، نیز قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کی حاجت نہیں۔

۲۔ آنحضرت ﷺ کے ارشادات صحابہ پر تو حجت تھے لیکن ہم پر حجت نہیں۔

۳۔ آپ ﷺ کے ارشادات تمام انسانوں پر حجت نہیں، اس لیے ہم انہیں ماننے کے مکلف نہیں۔

منکرین حدیث خواہ کسی طبقہ یا گروہ سے متعلق ہوں ان کی ہر تحریر ان تین نظریات میں سے کسی ایک کی ترجمانی کرتی ہے، اس لیے ہم ان

متضاد نظریات میں سے ہر ایک پر مختصر کلام کرتے ہیں۔

نظریہ اولیٰ کی تردید:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهُ إِلَّا وَخِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾
اس آیت میں ارسال رسول کے علاوہ ”وخیا“ ایک مستقل قسم ذکر کی گئی ہے، یہی وحی غیر متلو ہے۔
قرآن کریم میں ہے:

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَيْنَا عَقْبِيهِ﴾

اس میں ”القبلة“ سے مراد بیت المقدس ہے، اور اس کی طرف رخ کرنے کے حکم کو باری تعالیٰ نے جعلنا کے لفظ سے اپنی جانب منسوب فرمایا، حالانکہ پورے قرآن میں کہیں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم مذکور نہیں، لامحالہ یہ حکم وحی غیر متلو کے ذریعہ تھا اور اسے اپنی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ وحی غیر متلو کا حکم بھی اسی طرح واجب التعمیل ہے جس طرح وحی متلو کا۔

﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾

اس آیت میں لیالی رمضان کے اندر جماع کرنے کو خیانت سے تعبیر کیا گیا اور بعد میں اس کی اجازت دیدی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم یہ واضح کر رہا ہے کہ اس سے پہلے حرمت جماع کا حکم آیا تھا، حالانکہ یہ حکم قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں، لامحالہ یہ حکم وحی غیر متلو کے ذریعہ تھا، اور اس کی مخالفت قرآن کریم کی نظر میں خیانت تھی۔

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ (الی قوله تعالیٰ) ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ﴾

یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نزول ملائکہ کی پیشگوئی فرمائی تھی، حالانکہ یہ پیشگوئی قرآن میں کہیں مذکور نہیں، ظاہر ہے کہ وہ وحی غیر متلو کے ذریعہ تھی۔

﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾

اس میں بھی جس وعدہ کا ذکر ہے وہ وحی غیر متلو کے ذریعہ ہوا تھا، کیونکہ قرآن کریم میں کہیں مذکور نہیں۔

﴿وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ﴾

﴿فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾

اس میں صاف مذکور ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ پر ظاہر فرمادیا اور قرآن میں کہیں یہ واقعہ مذکور نہیں، لامحالہ یہ وحی غیر متلو کے ذریعہ تھا۔

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾

اس میں یہ مذکور ہے کہ منافقین کے غزوہ خیبر میں شریک نہ ہونے کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمادی تھی، ظاہر ہے کہ یہ پیشگوئی بھی وحی غیر متلو کے ذریعہ تھی، کیونکہ قرآن میں کہیں اور اس کا ذکر نہیں ہے۔

آنحضرت ﷺ کے فرائض منضی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكُتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

نیز ارشاد فرمایا:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

ان آیتوں میں صاف طور پر فرمایا کہ آپ کا مقصد پیغام پہنچانا نہیں بلکہ تعلیم کتاب و حکمت کی تشریح بھی تھا ظاہر بات ہے قرآن کریم کی تشریح کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے گی اگر آپ کی بات حجت نہ ہوں تو تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟

یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق جو ہدایات دی گئی ہیں وہ عموماً بنیادی احکام پر مشتمل ہیں ان احکام کی تفصیلات اور ان پر عمل کرنے کے طریقے سب احادیث نے بتائے، نماز پڑھنے کا طریقہ اور اسکے اوقات اور تعداد رکعات کی تعیین، ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں مذکور نہیں ہے، اگر احادیث حجت نہیں تو ﴿اقیموا الصلوٰۃ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اس پر عمل کا کیا طریقہ ہوگا؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صلاۃ کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تحریک الصلوٰۃ ہے لہذا ﴿اقیموا الصلوٰۃ﴾ کا مطلب رخص کے اڈے قائم کرو تو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ لہذا قرآن پر عمل کرنے کے لیے حدیث کو حجت ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

نظر یہ ثانیہ کی تردید:

اس نظر یہ کے مطابق احادیث صحابہ کے لیے حجت تھیں، لیکن ہمارے لیے حجت نہیں، یہ نظر یہ اتنا بدیہی البطلان ہے کہ اس کی تردید کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، اس کا خلاصہ تو یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ آنحضرت ﷺ کی رسالت صرف عہد صحابہ تک مخصوص تھی، حالانکہ مندرجہ ذیل آیات اس کی صراحت تردید کرتی ہیں:

- ۱ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اٰنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ الْيَكْمُ جَمِيْعًا﴾
- ۲ ﴿وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا﴾
- ۳ ﴿وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾
- ۴ ﴿تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنُ لِّلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا﴾

اس کے علاوہ بنیادی سوال یہ ہے کہ فہم قرآن کے لیے تعلیم رسول ﷺ کی حاجت سے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو رسول کو بھیجا ہی کیوں گیا؟ اور اگر ہے تو عجیب معاملہ ہے کہ صحابہ کو تو تعلیم کی حاجت ہو اور ہمیں نہ ہو، حالانکہ صحابہ کرام نے نزول قرآن کا خود مشاہدہ کیا تھا اسباب نزول سے وہ پوری طرح خود بخود واقف تھے، نزول قرآن کا ماحول ان کے سامنے تھا۔ اور ہم ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔

نظر یہ ثالثہ کی تردید:

منکرین حدیث یہ کہتے ہیں احادیث حجت تو ہیں لیکن ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچیں تو یہ کہنا بالکل باطل ہے کہ احادیث حجت تو ہیں لیکن ہم تک قابل اعتماد ذرائع سے نہیں پہنچیں، اس نظر یہ کے بطلان پر مندرجہ ذیل دلائل ہیں:

ہم تک قرآن بھی انہی واسطوں سے پہنچا ہے جن واسطوں سے حدیث آئی ہے، اب اگر یہ واسطے ناقابل اعتماد ہیں تو قرآن سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے، منکرین حدیث اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن نے ﴿انالہ لحافظون﴾ کہہ کر اپنی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، حدیث کے بارے میں ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی گئی، لیکن اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ﴿انالہ لحافظون﴾ کی آیت تو ہم تک انہی واسطوں سے پہنچی ہے، جو بقول آپ کے ناقابل اعتماد ہیں، تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ آیت کسی نے اپنی طرف سے نہیں بڑھائی، دوسرے اس میں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے اور قرآن باتفاق اصولیین نام ہے نظم اور معنی دونوں کا۔ اس لیے یہ آیت صرف الفاظ قرآن کی نہیں بلکہ معانی قرآن کی حفاظت کی بھی ضمانت دیتی ہے اور معانی قرآن کی تعلیم حدیث میں ہوئی۔ (ماخوذ از مقدمہ درس ترمذی، وارشاد القاری شرح بخاری)

خلاصہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کے تمام اعتراضات لغو اور باطل ہیں، حدیث دین کی بنیاد قرآن کی تشریح ہیں، وحی غیر متلو ہے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کے بغیر دین و ایمان نامکمل ہے، بلکہ حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ نعوذ باللہ منہ۔

مدون حدیث:

مدون حدیث کے بارے میں بعض لوگ اس مغالطہ میں ہیں کہ یہ تیسری صدی ہجری میں مدون ہوئی ہیں، یہ خیال محض غلط ہے۔ ابتداء

اسلام میں باقاعدہ کتابت سے ممانعت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس وقت قرآن کریم باقاعدہ مدون نہ ہوا تھا اس لیے قرآن و حدیث دونوں مستقل طور پر لکھی جائیں تو دونوں میں گڈنڈ ہو جانے کا خطرہ تھا، لیکن انفرادی طور پر احادیث لکھنے کی نہ صرف اجازت تھی بلکہ خود آنحضرت ﷺ نے بعض موقع پر اس کا حکم فرمایا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيدا والعلم بالكتابة قلت وما تقيدوه قال كتابته.

مستدرک: ۱۰۶/۱، کتاب العلم

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم کو کتابت کے ذریعے محفوظ کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا قید بالکتابت کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ لکھ لیا جائے۔

وعن ابی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب فذکر قصة فی الحدیث فقال ابو شاہ اکتب لی یارسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اکتبوا لابی شاة وفی الحدیث قصة

هذا حدیث حسن صحیح ترمذی: ۱۰۷/۲، ابواب العلم

چنانچہ بہت سے صحابہ کرام نے احادیث کا مجموعہ جمع کر لیا تھا ان میں سے چند یہ ہیں:

۱ الصحیفة الصادقة: لعبد اللہ بن عمرو بن العاص.

۲ صحیفة علی: ابو داؤد ۱/۲۷۸ کتاب المناسک باب تحریم المدینة کے تحت حضرت علی رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے، ما کتبنا عن رسول اللہ الا القرآن وما فی هذه الصحیفة.

۳ کتاب الصدقة

اس میں زکوٰۃ، صدقات، عشر وغیرہ کے احکام تھے، ان احادیث کا آنحضرت ﷺ نے املا کروایا تھا۔

۴ صحف انس بن مالک

۵ صحیفة ابن عباس.

۶ صحیفة سعد بن عبادہ.

۷ صحیفة ابی ہریرة.

۸ صحیفة جابر بن عبد اللہ.

یہ چند مثالیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ عہد رسالت ﷺ اور عہد صحابہ میں کتابت حدیث کا طریقہ خوب اچھی طرح رائج ہو چکا تھا، ہاں یہ درست ہے کہ تدوین حدیث کی یہ تمام کوششیں انفرادی نوعیت کی تھیں، اس کے علاوہ حفاظت حدیث کے لیے حفظ روایت کا طریقہ بھی استعمال کیا گیا، نیز تعالیٰ یعنی رسول اللہ ﷺ کے اقوال و افعال پر بجنسہ عمل کر کے اسے یاد کرتے تھے بہت سے صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کوئی عمل کیا اور اس کے بعد فرمایا:

هكذا رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

یہ طریقہ بھی حفظ حدیث کا نہایت قابل اعتماد طریقہ ہے۔

بہر حال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، انہوں نے محسوس کیا کہ اگر باقاعدہ طور پر حدیث کو مدون نہ کیا جائے تو علم حدیث کے مٹنے کا خطرہ ہے، چنانچہ انہوں نے مدینہ طیبہ کے قاضی ابوبکر ابن حزم کے نام خط لکھا، جس میں ان کو حکم دیا:

انظر ما کان من حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فانی خفت دروس العلم وذهاب العلماء.

صحیح بخاری: ۲۱/۱، باب کیف یقبض العلم

کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث جہاں مل جائیں ان کو لکھ لو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ علماء کی وفات سے علم مٹ جائے گا۔

چنانچہ ان کی نگرانی میں تدوین حدیث کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا جس کے نتیجے میں کئی کتابیں وجود میں آئیں۔



- ۱ کتب ابی بکر بن حزم.
- ۲ رسالۃ سالم بن عبداللہ فی الصدقات
- ۳ دفاتر الزہری
- ۴ کتاب السنن لمکحول وغیرہ.

حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وفات ۱۰۱ھ میں ہوئی۔ اس وقت تک حدیث کی یہ ساری کتابیں وجود میں آچکی تھیں۔ اس سے ثابت ہوا یہ کہنا غلط ہے کہ تدوین حدیث کا عمل تیسری صدی ہجری کا ہے، بلکہ دور صحابہ سے ہی حدیث محفوظ کرنے کا سلسلہ جاری تھا، جس پر مذکورہ بالا تحریر شاہد ہے۔

اس کے بعد بعض محدثین نے فتاویٰ صحابہ کو الگ کر کے صرف احادیث رسول کو جمع کرنا شروع کیا، ایسی کتابوں کو ”مسند“ سے موسوم کیا گیا۔ جن میں سب سے پہلے ابوداؤد طیالسی (۲۰۴ھ) نے لکھا، اور سب سے جامع انداز میں امام احمد بن حنبل (۲۴۱ھ) نے لکھا۔ احادیث جمع کرنے کے مختلف ادوار:

پھر تیسری صدی ہجری آگئی امام اسحاق بن راہویہ (۲۳۸ھ) مجلس حدیث میں احادیث لکھوا رہے تھے، دوران درس انہوں نے فرمایا ”اس وقت کسی حدیث پر عمل اس کی سند دیکھے بغیر ممکن نہیں، کاش کوئی صحیح احادیث کو ایک جگہ جمع کر دے، تاکہ عام مسلمان بغیر سند دیکھے اس پر اعتماد کر سکیں، یہی بات امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح کا سبب بنی، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کام شروع کر دیا، پھر اسی تیسری صدی میں امام مسلم نے اپنی صحیح، اور امام ابوداؤد، امام نسائی اور امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی اپنی سنن تحریر کیں امام ابن الجارود نے ”المستقلی“ اور امام ابویعلیٰ نے ”مسند لکھی۔“

چوتھی صدی ہجری میں امام دارقطنی نے سنن دارقطنی امام طبرانی نے اپنی معجم ثلاثہ (صغیر، اوسط، کبیر) اور مسند الشامیین لکھیں۔ پانچویں صدی میں امام بیہقی نے ”سنن کبریٰ“ ”شعب الایمان“ اور معرفۃ السنن والاثر تصنیف کیں۔ چھٹی صدی ہجری میں امام بغوی نے ”شرح السنۃ“ کے نام سے احادیث کا مجموعہ اپنی اسناد سے تحریر کیا۔ ساتویں صدی میں علامہ ضیاء الدین مقدسی نے ”الاحادیث المختارۃ“ کے نام سے صحیح احادیث کا مجموعہ لکھا۔ اپنی مستقل اسناد کے ساتھ احادیث کا یہ آخری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد انہی مجموعات پر مختلف انداز اور جہات سے کام ہوا۔ چھٹی صدی ہجری میں امام ابن اثیر جزری (۶۰۶ھ) نے ”جامع الاصول“ لکھ کر چھ بنیادی کتابوں کی احادیث کو ایک ساتھ جمع کر دیا۔

بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابوداؤد، مؤطا

ساتویں صدی میں امام منذری نے ترغیب و ترہیب کی احادیث کو یکجا کر دیا۔

آٹھویں صدی میں امام بیہقی نے مجمع الزوائد لکھ کر طبرانی کی معجم ثلاثہ، مسند بزار، مسند ابی یعلیٰ اور مسند احمد بن حنبل کی ان احادیث کو جمع کیا جو صحاح ستہ میں نہیں تھیں۔

نویں صدی میں امام سیوطی رحمہ اللہ نے تمام احادیث کو الف بابتی ترتیب سے جمع کرنے کی کوشش کی۔

دسویں صدی میں امام علی متقی ہندی نے ان احادیث کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا۔ اور اسے کنز العمال کا نام دیا۔

گیارہویں صدی میں اور عظیم الشان کام ہوا، امام محمد بن سلیمان المغربی نے صحاح ستہ، مؤطا، دارمی، مسند احمد، مسند بزار، مسند ابی یعلیٰ اور طبرانی کی معجم ثلاثہ (چودہ کتابوں کی احادیث کو سند اور مکرات کو حذف کر کے ایک ساتھ جمع کر دیا۔ جس کا نام صحیح القواد لکھا۔ ابھی تک منظر عام پر آنے والی کتب میں یہ سب سے جامع اور مختصر مجموعہ ہے جو صرف چار جلدوں میں میسر ہے۔ یہ ہے عشق رسول، اور اسلاف کا میراث نبوت سے گہرا تعلق، اور حقیقت میں یہی وراثت نبوت ہے۔

امام شافعی فرماتے ہیں:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة
الا للحديث وعلم الفقه في الدين
المعلم ما كان فيه قال حدثنا
وماسوى ذاك وسواوس الشيطان

یہ تو علم حدیث کے ایک شعبہ ”متون حدیث“ کی مختصر رواد ہے دو اور بڑے شعبے جن کے تحت بیسیوں فنون ہیں ان کا ذکر ابھی ہوا ہی نہیں۔

حدیث کے دو اہم فنون:

۱۔ مصطلحات الحدیث ۲۔ اسمائے رجال
یہ دو بھی عظیم الشان طویل الذیل موضوع ہیں جن کے تحت کئی فن ہیں۔ مصطلحات میں صحیح حدیث پر الگ کتابیں، موضوعات پر الگ، ضائف پر الگ، صحاح پر الگ، مراسیل پر الگ، متواتر پر الگ، احادیث قدسیہ پر الگ، آداب الطالب والمحدث پر الگ، الغرض مصطلحات حدیث کی پچاس سے زائد انواع ہیں سب پر مستقل کتابیں ہیں۔

اسماء الرجال کافن:

اور اسمائے رجال: یہ علم تو مسلمانوں کے لئے قابل صد افتخار ہے، کفار بھی اس پر حیرت و استعجاب میں مبتلا ہیں محدثین کی محنت دیکھنے ثقات پر الگ کتابیں، ضعفاء راویوں پر الگ کتابیں، مختصرات، مطولات، ضبط اسماء پر الگ کتابیں جن شہروں کا انہوں نے سفر کیا ان پر الگ کتابیں، انکی تاریخ وقات کے لئے الگ کتابیں، القاب اور وجہ القاب پر الگ تصنیفات، یہاں ان علوم کا تعارف مقصود نہیں، اتنا بتانا ہے کہ محدثین کرام نے کیسے محنت اور جانفشانی سے کام کیا۔ نیندیں قربان کیں، وطن کو چھوڑا، بھوک پیاس، گرمی سردی برداشت کی، بعض نے اس کے لئے شادی کو بھی ترک کر دیا، تفصیل کا موقع نہیں، آپ خطیب بغدادی کی ”الرحلہ فی طلب الحدیث“ اور شیخ عبدالفتاح ابوغندہ کی ”صبر العلماء علی شدا اند العلم والتحصیل“ اور ”العلماء العزاب الذین اثروا العلم علی الزواج“ اور امام اہل سنہ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کی کتاب ”شوق حدیث“ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی واہمانہ محبت یہ رسول اللہ کا مجزہ ہے، اور امت کا عشق رسول ہے جن کو یہ فلسفہ معلوم ہو گیا تھا:

عاشقان	را	درد	دل	بدیاری	باید	کشید
داغ	یار	وغصہ	اغیاری	باید	کشید	
دردل	شہمائے	کاراز	اشتیاق	دو	دوست	
آہ	سر	دونا	مہمائے	زارمی	باید	کشید

بعض کتب حدیث کے مصنفین کے حالات

”کتاب الآثار“

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ

آپ کا نام نعمان ہے، ابوحنیفہ کنیت ہے اور امام اعظم لقب ہے، والد کا نام ثابت اور دادا کا نام زوطی ہے۔
پیدائش ۸۰ھ میں ہوئی۔ ائمہ اربعہ میں امام اعظم رحمہ اللہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں، دو صحابی رسول ﷺ سے آپ کی ملاقات ثابت ہے:

۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول ﷺ متوفی ۹۳ھ

۲۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ عنہ متوفی ۱۰۰ھ

امام صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کی پھر کوفہ کے مشہور عالم امام حماد رحمہ اللہ کے درس میں مکمل دو سال شریک ہوئے اور پوری توجہ سے علم فقہ حاصل کیا، اس کے ساتھ حدیث پڑھنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا، حدیث میں امام صاحب کے مشہور اساتذہ، امام شعبی رحمہ اللہ، سلمہ بن کہیل، بخاری بن دثار، ابواسحاق بن سبئی رحمہم اللہ، عون بن عبد اللہ، سماک بن حرب، ابراہیم بن محمد رحمہم اللہ، عدی بن ثابت اور موسیٰ بن ابی عائشہ رحمہم اللہ ہیں۔ ۱۲۰ھ میں جب آپ کے استاذ حضرت حماد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو اہل کوفہ نے استاذ کی جانشینی کے لیے تمام شاگردوں میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا انتخاب کیا اور درخواست کی کہ مسند درس کو شرف فرمائیں۔

امام صاحب رحمہ اللہ نے ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے کچھ اصرار کے ساتھ یہ درخواست قبول فرمائی اور بڑے استقلال سے درس دینے لگے، تھوڑے ہی دنوں میں امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی قابلیت نے تمام اسلامی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور دور دور سے طلبہ ان کی درس گاہ میں آنے لگے، اور شاگردی کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔

امام صاحب کے اوصاف کا اجمالی خاکہ:

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے کچھ اوصاف بیان کرو، قاضی صاحب نے امام صاحب رحمہ اللہ کے اخلاق و عادات پر ایک مختصر مگر جامع تقریر کی جو حسب ذیل ہے:

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ بہت بااخلاق اور پرہیزگار بزرگ تھے، اوقات درس کے علاوہ زیادہ وقت خاموش رہتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی گہرے غور و فکر میں مصروف ہیں، اگر کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو اس کا جواب دیدیتے تھے ورنہ خاموش رہتے، نہایت سخی اور فیاض تھے، کبھی کسی کے آگے کوئی حاجت نہیں لے گئے، اہل دنیا سے حتی الامکان بچتے تھے اور دنیوی جاہ و عزت کو حقیر سمجھتے تھے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، اگر کسی کا ذکر آتا تو بھلائی سے یاد کرتے تھے، بہت بڑے عالم اور مال کی طرح علم کے خرچ کرنے میں بھی فیاض تھے۔

تدوین فقہ حنفی:

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے چند مخصوص شاگردوں کا انتخاب کیا، جن میں قاضی ابو یوسف، داؤد طائی، امام محمد اور امام زفر رحمہم اللہ بہت ممتاز ہیں، مسائل کے استنباط اور فقہ کی تدوین کے لیے ایک مجلس قائم فرمائی اس مجلس نے ۱۲۱ھ میں کام شروع کیا اور امام صاحب رحمہم اللہ کی وفات

۱۵۰ھ تک جاری رہا۔

امام صاحب رحمہ اللہ کی آخری عمر قید خانہ میں گزری، وہاں بھی یہ کام جاری تھا، غرض یہ کہ کم و بیش تیس سال کی مدت میں یہ عظیم الشان کام انجام کو پہنچا اور مسائل فقہ کا ایک ایسا مجموعہ تیار کر لیا گیا جس میں ”باب الطہارہ“ سے لے کر ”باب الامیر اٹ“ تک تمام مسائل موجود تھے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت حدیث:

امام اعظم رحمہ اللہ کو فقہ کے مدون اول ہونے کے ساتھ ساتھ خدمت حدیث میں بھی اولیت کا مرتبہ حاصل ہے، چنانچہ ”کتاب الآثار“ اس کا شاہد عدل ہے۔ اس کتاب میں پہلی بار احادیث کو فقہی ترتیب پر مرتب کیا گیا، علم حدیث میں اس کا پایہ بہت بلند ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے چالیس ہزار احادیث میں سے اس کتاب کا انتخاب فرمایا ہے۔ ذکرہ الموفق فی مناقب امام ابو حنیفہ۔

اس کتاب کے کئی نسخے ہیں، بروایت امام محمد، بروایت امام ابو یوسف، بروایت امام زفر زعم اللہ اور یہ کتاب ”موطا امام مالک“ سے زمانہ کے اعتبار سے مقدم ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تالیفات سے استفادہ کیا، اس لیے یہ کتاب اپنی طرز تدوین میں موطا امام مالک کی اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔

یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ علم حدیث میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی براہ راست مرتب کردہ کتاب یہی ”کتاب الآثار“ ہے اس کے علاوہ مسند ابی حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے جو مختلف کتابیں ملتی ہیں وہ خود امام صاحب کی تالیف نہیں ہیں، بلکہ آپ کے بعد بہت سے حضرات محدثین نے آپ کی مسندات تیار کیں، بعد میں علامہ خوارزمی رحمہ اللہ نے ان تمام مسانید کو ایک مجموعہ میں یکجا کر دیا جو جامع المسانید لاہ نام الاعظم کے نام سے مشہور ہے اور اس وقت برصغیر پاک و ہند میں جو مسند امام اعظم رحمہ اللہ درس نظامی کے نصاب میں داخل ہے۔ یہ درحقیقت امام عبداللہ حارثی کی تالیف ہے جس کا اختصار علامہ حنفی رحمہ اللہ نے کیا اور ملا محمد عابد سندھی رحمہ اللہ نے اس کی ابواب فقہیہ پر ترتیب دی ہے۔

وفات حسر آیات:

رجب ۱۵۰ھ میں قید خانہ کے اندر ہی خلیفہ منصور نے امام صاحب کو زہر دلوا دیا امام صاحب نے زہر کے اثر کو محسوس کیا اور شاگردوں کو وصیت کی کہ مجھے حمران کے حقیرہ میں دفن کیا جائے، پھر حجرہ میں گر گئے اسی حالت میں انتقال فرما گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

تاریخ وفات ۱۵/ رجب ۱۵۰ھ ہے۔ ماخوذ از مقدمہ مسند امام اعظم / ادرس ترمذی

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے مختصر حالات

ہزاروں سال نرس اپنی بے نوری پہ روتی ہے
بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و در پیدا
نام:..... محمد، کنیت ابو عبد اللہ، والد کا نام اسماعیل، دادا کا نام ابراہیم بن مغیرہ آپ کے پردادا مغیرہ حاکم بخارا امام مہتممی کے ہاتھ مشرف بہ اسلام ہوئے۔

ولادت:..... ۱۳۰ شوال ۱۹۴ھ کو جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ پیدا ہوئے۔

حالات:..... آپ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے آپ کی والدہ ماجدہ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی عطا فرمادی، امام بخاری کو بچپن سے ہی حدیثیں یاد کرنے کا شوق تھا۔ سولہ سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی تمام کتابوں کو یاد کر لیا۔ پھر اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے

بھائی احمد بن اسماعیل کیساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ حج کے بعد والدہ اور بھائی واپس آگئے مگر آپ حجاز مقدس میں حدیث پڑھنے کے لیے رک گئے، پھر آپ نے مکہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، مصر، واسط، الکفر، شام، بلخ، ہرات اور نیشاپور وغیرہ کا سفر کیا۔

خواب اور بخاری شریف کی تصنیف:

امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا کہ آپ ﷺ تشریف فرما ہیں آپ کے جسد اطہر رکھیاں بیٹھنا چاہتی ہیں مگر امام بخاری ان نکھیوں کو اڑا دیتے ہیں اس کی تعبیریوں ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے صحیح بخاری لکھوائی۔ آپ نے چھ لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے سولہ برس کی محنت شاقہ کے ساتھ تصنیف فرمائی۔ بخاری میں کل احادیث نو ہزار بیاسی (۹۰۸۲) ہیں۔ اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے تو دو ہزار سات سو اکتھ (۲۷۶۱) ہیں۔ امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اور دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لکھتے تھے، آپ کے شاگردوں کی تعداد نوے ہزار ہے۔

وفات: باسٹھ (۶۲) برس کی عمر میں شب شنبہ عید الفطر کی رات میں عشاء کی نماز کے وقت ۲۵۶ھ میں وفات پائی اور خرننگ نامی گاؤں میں جو سمرقند سے دس میل کے فاصلہ پر ہے وہاں مدفون ہوئے۔

اربابِ چین مجھ کو بہت یاد کریں گے
ہر شاخ پر اپنا ہی نشان چھوڑ دیا ہے

امام مسلم رحمہ اللہ کے مختصر حالات

نام: مسلم، کنیت ابو الحسین، والد کا نام حجاج تھا اور لقب عساکر الدین ہے بنی قشیر قبیلہ کی نسبت کی وجہ سے قشیری کہلاتے تھے، نیشاپور کے رہنے والے ہیں، جو خراسان کا بہت ہی خوب صورت اور مردم خیز شہر ہے۔

ولادت: ۲۰۲ھ میں یا ۲۰۴ھ بعض نے ۲۰۶ھ کہا ہے، بارہ سال کی عمر سے احادیث کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ طلب حدیث کے لیے عراق، حجاز، شام، بصرہ اور مصر وغیرہ کا سفر کیا۔

اساتذہ: آپ کے استاذوں میں سے امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن یحییٰ نیشاپوری، قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راہویہ، عبد اللہ بن مسلمہ وغیرہ، آپ کے شاگردوں میں امام ترمذی اور ابو بکر بن خزیمہ وغیرہ شامل ہیں۔ تین لاکھ احادیث امام مسلم کو از بر یاد تھیں۔

وفات: ۵۵ سال کی عمر میں ۲۵۵ھ جب المرجب ۲۶۱ھ کو انتقال ہوا اور نیشاپور کے محلہ نصیر آباد میں مدفون ہوئے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں مکررات کے بعد ۴ ہزار احادیث جمع کی ہیں۔

لاش پر عبرت یہ کہتی ہے میر
آئے تھے دنیا میں اس دن کے لیے

امام ترمذی رحمہ اللہ کے مختصر حالات

نام و ولادت: آپ کا نام محمد، کنیت ابو عیسیٰ، بوخ جو شہر ترمذ سے چھ کون کے فاصلہ پر ہے وہاں ۲۰۹ھ میں ۷۱۷ھ کو پیدا ہوئے۔ اساتذہ: آپ نے امام بخاری و مسلم جیسے قابل قدر اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا اور علم حدیث کے حصول کے لیے ہزاروں میل

کاسفر کیا۔

وفات: ۷۰۰ھ رجب شب دوشنبہ ۲۷۹ھ کو انتقال ہوا اور ترمذ شہر میں مدفون ہوئے۔

ہر آنکہ زاد بنا چار بیدش نوشید
زجا دہر مے کل من علیہا فان

امام ابوداؤد رحمہ اللہ تعالیٰ کے مختصر حالات

نام: سلیمان، والد کا نام اشعث بن شداد بن عمرو ہے۔

ولادت: ۲۰۲ھ کو بصرہ میں پیدا ہوئے۔

عام زندگی: آپ نے بھی حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر کیا اور پھر اپنے زمانے کے یکتا محدث بن گئے۔ آپ کے اساتذہ میں ہزاروں محدثین ہیں، پھر عمر بھر آپ حدیث کا درس دیتے رہے اس لیے آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی بے شمار ہے۔ ان کے شاگردوں میں امام ترمذی اور نسائی جیسے محدث بھی ہیں۔

بغداد کے ایک بڑے عالم نہل بن عبد اللہ تبریٰ ایک دن امام داؤد کی ملاقات کے لیے آئے انہوں نے کہا: اپنی زبان باہر نکال لیے انہوں نے زبان باہر نکالی تو انہوں نے ان کی زبان کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اس زبان سے رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو بیان کرتے ہیں۔

وفات: ۲۷۰ھ سال کی عمر میں ۱۴ شوال ۲۷۵ھ بصرہ ہی میں انتقال ہوا۔

تعداد روایات: امام ابوداؤد کو پانچ لاکھ احادیث یاد تھیں جن میں سے انہوں نے اپنی اس کتاب میں چار ہزار آٹھ سو احادیث کو جمع کیا۔

آہ اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں
رخصت لے بزم جہاں! سوئے وطن جاتا ہوں میں

امام نسائی رحمہ اللہ کے حالات

نام: احمد، آپ خراسان کے علاقہ نساء کے رہنے والے تھے اس لیے نسائی کہتے ہیں۔

ولادت: ۲۱۴ھ میں پیدا ہوئے۔

عام زندگی: آپ نہایت عابد و زاہد آدمی تھے، صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ متعدد مرتبہ زیارت حرمین شریفین کے لیے تشریف لے گئے، امراء اور سلاطین کے درباروں سے سخت متنفر اور ایسے لوگوں کی ملاقاتوں سے ہمیشہ پرہیز کیا کرتے تھے۔

وفات: آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب بیان کئے جس پر خاریجیوں نے اتنا مارا کہ اسی میں انتقال ہو گیا۔ آپ کی وصیت کے

مطابق آپ کو صفاء دمرہ کے درمیان دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات ۱۳ صفر ۳۰۳ھ میں ہوئی۔ بقول شاعر

ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے
بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے

امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات

نام:..... محمد، کنیت ابو عبد اللہ، ربیع ثمودی نسبت ہے۔ مگر عام طور سے ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہیں ایک قول یہ ہے کہ ماجہ ان کی والدہ کا نام ہے۔

ولادت:..... آپ ایران کے شہر قزوین میں ۲۰۹ھ میں پیدا ہوئے۔

عام زندگی:..... علم حدیث کے حصول کے لیے حجاز، عراق، شام، خراسان، بصرہ، کوفہ، بغداد، دمشق وغیرہ کا سفر کیا۔ پھر عمر بھر علم حدیث کے درس و تدریس کا مشغلہ رہا اور بلند پایہ محدثین میں شمار ہوئے۔

وفات:..... ۲۴۳ رمضان ۲۴۳ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ محمد بن علی قزمان اور ابراہیم بن دینار و راق دو بزرگوں نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کے بھائی ابو بکر نے آپ کو قبر میں اتارا۔

تعداد روایات:..... پندرہ سو ابواب میں چار ہزار روایات کو ان کی مناسبت سے بیان فرمایا ہے۔

امام دارمی رحمہ اللہ کے مختصر حالات

حقیقت میں زمانہ میں وہی خوش تقدیر
نام مرنے پہ بھی مٹتا نہیں جن کا زہار

نام:..... عبد اللہ، کنیت ابو محمد، والد کا نام عبد الرحمن دارمی ہے۔

ولادت:..... سمرقند میں ۱۸۱ھ میں پیدا ہوئے۔ قبیلہ بنی تمیم میں ایک خاندان دارم بن مالک بن حنظلہ کی طرف نسبت کی وجہ سے دارمی کہلاتے ہیں۔

وفات:..... ۲۵۵ھ میں چوبیس سال کی عمر میں ہوئی۔ ماخوذ از بستان المحدثین لشاہ عبدالعزیز: ۷۰۱ و روضة الصالحین

امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیٰ کے مختصر حالات

آپ کا نام مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر بن عامر بن الحارث بن غیمان بن خثیل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ۹۳ھ میں پیدا ہوئے چنانچہ یحییٰ بن بکیر نے جو امام مالک کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں یہی بیان کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ شکم مادر میں محمول سے زیادہ رہے اس مدت کو بعض نے دو سال بیان کیا اور بعض نے تین سال۔

آپ کی وفات ۱۷۹ھ میں ہوئی۔

حدیث میں آپ کی مایہ ناز کتاب ”موطأ“ کو تقریباً ایک ہزار آدمیوں نے آپ سے سنا اور حدیث میں آپ سے سند لی ہے آپ کے وصال کے بعد اس کتاب کو دنیا کے اسلام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی اور اہل اسلام اس سے فیضیاب ہوئے اور پورے ہیں۔

ماخوذ از بستان المحدثین، و مقدمة مظاهر حق جدید

علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حالات

نام: عبدالرحمن، لقب جلال الدین سیوطی

ولادت: یکم رجب ۸۴۹ھ

عام حالات

آٹھ سال سے کم عمر میں حفظ قرآن سے فارغ ہو کر، عمدہ منہاج، اصول الفیہ ابن مالک وغیرہ کتابیں حفظ یاد کیں۔ پھر مختلف شیوخ سے علوم و فنون کی تکمیل کے بعد ۸۷۱ھ میں افتاء کا کام شروع کیا۔ ۸۷۲ھ سے املاء حدیث میں مشغول ہو گئے۔

آپ اپنے زمانے میں علم حدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ ”مجھے دو لاکھ احادیث یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ باتیں تو ان کو بھی یاد کرنا شاید اس وقت اس سے زیادہ نہ مل سکیں۔“

استغناء، بے نیازی: دنیوی مال و دولت کی طرف سے آپ کی طبیعت میں اس قدر استغناء تھا کہ امراء و اعیانہ آپ کی زیارت کو آتے اور تھے تحائف، ہدایا و اموال پیش کرتے مگر آپ کسی کا ہدیہ قبول نہ کرتے۔

حالی دل انسان میں ہے گم دولت کونین

شرمندہ کیوں غیر کے احسان و عطاء سے

تصانیف: علامہ سیوطی رحمہ اللہ کثیر التالیف علماء میں سے تھے۔ امت کے لیے اپنی تصنیفات کا گرانقدر مجموعہ چھوڑا ہے۔ جن کی فہرست، حسن الحاضرہ، تالیف سیوطی میں دیکھی جاسکتی ہے۔

حدیث میں آپ کی تصنیف: الجامع الکبیر، جامع صغیر، زاد الدالجامع، حدیث کی بہت جامع کتاب ہیں۔ جن پر مزید اضافہ، علامہ علی نقی رحمہ اللہ کی کنز العمال ہے۔ جنکی تفصیلات آئندہ صفحات میں مذکور ہوں گی۔

وفات: علامہ سیوطی رحمہ اللہ ہاتھ کے ورم میں مبتلا ہو کر آخر شب جمعہ ۱۹ جمادی الاولیٰ ۹۱۱ھ میں روں مقصص غصیری سے پرواز کر کے اشیاہ قدس میں پہنچ گئے۔ بستان المحدثین، شذرات الذهب

حدیث کی بعض اصطلاحات اور ان کی تعریفات

صحابی: الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمناً بہ ومات علی الاسلام. معرفة الصحابة ۵۹/۱
صحابی اس خوش نصیب انسان کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم ﷺ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔

تابعی: من لقی الصحابی من الثقلین مؤمناً بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام. الکشاف ۳۲۲/۱

تابعی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں جس کو بحالت ایمان کسی صحابی سے شرف ملاقات حاصل ہوا ہو اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا ہو۔

تابع تابعی: تبع تابعی ان حضرات کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے بحالت ایمان کسی تابعی سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر فوت ہوئے ہوں۔ حدیث باعتبار الفاظ کے دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے: سند یا اسناد اور متن

سند یا اسناد:..... الطريق الموصولة الى المتن.
متن حدیث کے اس سلسلہ روایت یعنی نبی کریم ﷺ سے لے کر صاحب کتاب تک حدیث کو روایت کرنے والوں کے سلسلہ کو سند یا اسناد کہتے ہیں۔

متن:..... هو الفاظ الحدیث التي تتقوم بها المعاني. ظفر الاماني ۲۳

حدیث کے ان الفاظ کو متن کہتے ہیں جو نبی کریم ﷺ سے اب تک بحسنہ نقل ہوتے چلے آئے ہوں۔ مثلاً
حدثنا ابو الیمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"
اس حدیث میں "حدثنا" سے "ابی ہریرہ" تک اسناد اور اس کے بعد سے آخر تک متن ہے۔
بلحاظ اسناد حدیث کی تین قسمیں ہیں:

مرفوع:..... ما أضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.

جس حدیث کی روایت کا سلسلہ نبی کریم ﷺ تک پہنچتا ہے اسے حدیث مرفوع کہتے ہیں۔

جیسے کہا جائے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نبی کریم ﷺ نے یہ کام کیا، نبی کریم ﷺ نے اس قول و فعل پر تقریر فرمائی، یعنی سکوت فرمایا۔
یا یہ کہا جائے کہ یہ حدیث نبی کریم ﷺ سے مرفوعاً ثابت ہے۔ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حدیث کو مرفوعاً کہا، تو اس حدیث کو جس کی سند نبی کریم ﷺ پر جا کر ختم ہوتی ہو، حدیث مرفوع کہا جائے گا۔

موقوف:..... ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم

جس حدیث کی روایت کا سلسلہ صحابی پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے حدیث موقوف کہتے ہیں۔ مثلاً

اس طرح کہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس طرح کہا، یا ایسے ہی کہا جائے کہ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف ہے۔

مقطوع:..... ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم

جس حدیث کی سند تابعی تک پہنچ کر ختم ہو جائے اسے حدیث مقطوع کہتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک "موقوف اور مقطوع" کو اثر بھی کہتے ہیں، یعنی اس طرح "حدیث" کا اطلاق تو صرف نبی کریم ﷺ کے اقوال، افعال، اور تقریر پر ہوگا اور صحابی و تابعی کے اقوال، افعال اور تقریر کو "اثر" کہا جائے گا۔

روایت کے اعتبار سے حدیث کی پانچ قسمیں ہیں

۱ متصل ۲ منقطع ۳ معضل ۴ معلق ۵ مرسل

حدیث متصل:..... هو الحدیث الذی لم یسقط من سندہ راو من الرواة. توجیه النظر ۵۵۳/۲

اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے راوی شروع سے آخر تک پورے ہوں اور درمیان میں سے کوئی راوی چھوٹ نہ گیا ہو۔

حدیث منقطع:..... ما لم يتصل اسناده بأى وجه كان سواء كان المتروك واحدا أو أكثر وسواء كان السقوط في موضع واحد أو أكثر.

اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی اسناد سے دو یا دو سے زائد راوی ایک ہی مقام سے بتصرف یا بلا تصرف مصنف ساقط ہوں۔

حدیث معلق:..... ما حذف من مبدأ اسناده واحدا أو أكثر

وہ حدیث ہے جس کی اوائل سند سے بتصرف مصنف ایک یا متعدد راوی ساقط ہوں۔

حدیث مرسل:..... اس حدیث کو کہیں گے جس کی اخیر سند سے تابعی کے بعد کوئی راوی ساقط ہو۔

جیسے کوئی تابعی حدیث روایت کرتے ہوئے کہے کہ قال رسول اللہ ﷺ۔

مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے حدیث کی تین قسمیں ہیں:

۱ صحیح: جو اعلیٰ مرتبہ کی حدیث ہوتی ہے۔

۲ حسن: جو اوسط مرتبہ کی ہوتی ہے۔

۳ ضعیف: جو ادنیٰ درجہ کی ہوتی ہے۔

حدیث صحیح: هو الحدیث الذی یکون متصل الاسناد من اولہ الی منتہاہ بنقل العدل الضابط عن مثله ولا یکون فیہ شدوذ ولا علة توجیہ النظر.

وہ حدیث ہے جس کے تمام راوی مصنف کتاب سے لے کر آنحضرت ﷺ تک سب کے سب صاحب عدالت اور صاحب ضبط ہوں نیز حدیث کی روایت کے وقت مسلمان عاقل بالغ ہوں۔

صاحب عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب تقویٰ اور تقدس ہو جھوٹ نہ بولتا ہو گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو اور اگر بتقاضائے بشریت کبھی گناہ کبیرہ صادر ہو گیا پھر اس سے توبہ کر لی ہو۔ گناہ صغیرہ سے حتی الامکان اجتناب کرتا ہو اور ان پر دوام نہ کرتا ہو۔ اسباب فسق و فجور سے پرہیز کرتا ہو۔ صاحب مروت ہو یعنی ایسے کام نہ کرتا ہو جو اسلامی معاشرہ میں معیوب سمجھے جاتے ہوں مثلاً بازار میں ننگے سر گھومنا۔ سر راہ سب کے سامنے بیٹھ کر ناپیٹھاب کرنا راستہ چلتے ہوئے باہر ہر بازار کھڑے ہو کر کھانا پینا وغیرہ۔

صاحب ضبط کا معنی یہ ہیں کہ وہ نہایت ہوشیار اور سمجھدار ہو قوی حافظ رکھتا ہو تاکہ حدیث کے الفاظ پختہ یاد رکھ سکے اور روایت حدیث کے وقت کسی قسم کی بھول چوک اور شک و شبہ کی گنجائش نہ رہ سکے۔

مصنف کتاب سے لے کر آنحضرت ﷺ تک جتنے راوی ہیں اگر ان صفات و خصوصیات کے معیار پر پورے اترتے ہوں تو ان کی روایت کردہ حدیث ”صحیح“ کہلائے گی۔

اب اگر یہ تمام صفتیں راوی میں پوری پوری پائی جائیں گی تو اس کی روایت کردہ حدیث کو ”صحیح لذاتہ“ کہیں گے۔ لیکن راوی میں اگر ان صفات میں سے کسی شق سے کوئی کمی یا قصور ہو اور وہ کمی اور قصور کثرت طرق سے پوری ہو جاتی ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو ”صحیح لغیرہ“ کہیں گے۔

حدیث حسن: مصنف کتاب سے لے کر آنحضرت ﷺ تک راوی میں سے کسی ایک راوی میں مذکورہ بالا صفات میں سے کسی میں کوئی کمی یا قصور ہو اور وہ کثرت طرق سے پوری بھی نہ ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو ”حدیث حسن“ کہا جاتا ہے۔

حدیث ضعیف: ہو ما لم یجمع صفات الحدیث الصحیح ولا صفات الحدیث الحسن.

حدیث صحیح اور حدیث حسن کی مذکورہ بالا شرائط میں سے ایک یا زیادہ شرائط اگر راوی میں مفقود ہوں مثلاً حدیث کا راوی صاحب عدالت نہیں ہے یا صاحب ضبط نہیں ہے تو اس کی روایت کردہ حدیث ضعیف کہلائے گی۔

بایں حیثیت کہ ہم تک پہنچی حدیث کی چار قسمیں ہیں:

۱ متواتر ۲ مشہور ۳ عزیز ۴ غریب

متواتر: هو خبر عن محسوس أخبر به جماعة بلغوا فی الکثرة مبلغا تحیل العادة نواظرهم علی الکذب فیہ

توجیہ النظر ۱۰۸/۱

وہ حدیث ہے جس کو ابتداء سے انتہاء تک یکساں بلا تعین عدد و اسناد کثیرہ سے اتنے راویوں نے روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا یا ان سے اتفاق یہی جھوٹ کا صادر ہونا عقلاً محال ہو۔

مشہور: هو خبر جماعة لم یبلغوا فی الکثرة مبلغا یمنع نواظرهم علی الکذب فیہ. توجیہ النظر ۱۱۱/۱

یعنی جو غیر متواتر کی طرح نہ ہو یا وہ حدیث غیر متواتر جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم تین یا تین سے زیادہ ہوں، بعض محدثین کے نزدیک ”مشہور“ کو ”مستفیض“ بھی کہتے ہیں۔

عزیز:..... مایرویہ اثنا عن اثین فی کل طقة.

وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقہ میں کم از کم دو ضرور ہوں۔

غریب:..... مایتفرد بروایتہ شخص واحد فی ای طبقه کان.

وہ حدیث ہے جس کی اسناد میں کسی جگہ صرف ایک ہی راوی ہو جس کا کوئی شریک نہ ہو، غریب کو ”فرد“ بھی کہتے ہیں۔

با اعتبار اختلاف رواۃ کے حدیث کی چار قسمیں ہیں:

شاذ:..... مارواه الثقة أو الصدوق مخالفا من هو أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو مرجح سواهما.

وہ حدیث ہے جس کا راوی تو ثقہ ہو مگر وہ کسی ایسے ثقہ راوی کی حدیث کے خلاف ہو، جو ضبط وغیرہ وجوہ ترجیح میں اس سے بڑھا ہوا ہو۔

محفوظ:..... وہ حدیث ہے جس کا راوی اوثق ہو مگر وہ ایسے راوی کی حدیث کے خلاف ہو جو ضبط وغیرہ وجوہ ترجیح میں اس سے کم تر ہو۔ یعنی

شاذ کے مقابل حدیث کو ”محفوظ“ کہتے ہیں۔

منکر: مایرویہ غیر الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه توجیه النظر ۵۱۵/۱

وہ حدیث ہے جس کا راوی ضعیف ہو اور وہ ایسے راوی کی حدیث کے خلاف ہو جو قوی راوی ہو یعنی منکر کے مقابل حدیث کو معروف

کہتے ہیں۔

معروف:..... مارواه المقبول مخالفا للضعیف (قواعد علوم الحدیث ص ۲۲)

وہ حدیث ہے جس کا راوی قوی ہو اور وہ ایسے راوی کی حدیث کے خلاف ہو جو ضعیف ہے۔

مضطرب: وہ حدیث ہے جس کی سند یا متن میں ایسا اختلاف واقع ہو کہ اس میں ترجیح یا تطبیق نہ ہو سکے۔

مقلوب:..... وہ حدیث ہے جس میں بھول سے متن یا سند کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر واقع ہوگی، یعنی لفظ مقدم کو موخر اور موخر کو مقدم

کیا گیا ہو یا بھول کر ایک راوی کی جگہ دوسرا راوی ذکر کیا گیا ہو۔

اصطلاحات حدیث کا یہ اجمالی تعارف ہے۔ یوں تو حدیث کی اصطلاحات بہت زیادہ ہیں، جو حدیث کی مختلف تقسیم پر مبنی ہیں لیکن ان

سب کا یہاں ذکر کرنا طوالت کا باعث ہوگا اور دوسرے یہ کہ صرف ان ہی اصطلاحات پر اکتفا کر لیا جائے تو اس کتاب کے سمجھنے اور حدیث کی

حقیقت کو جاننے کے لیے کافی ہوگا نیز دوسری تمام اصطلاحات کا سمجھنا بھی عوام کے لیے بہت مشکل ہوگا اس لیے ان ہی اصطلاحات کی تعریفات

پراکتفا کیا جاتا ہے۔

صحاح ستہ:..... فن حدیث کی وہ چھ کتابیں جو باعتبار نقل حدیث کے اعلیٰ درجہ کی ہیں اور جن کی نقل کردہ احادیث محدثین کی تحقیق اور نقد و نظر

کی کوئی پر سب سے اعلیٰ اور صحیح مرتبہ کی ثابت ہوئی ہیں ”صحاح ستہ“ کہلاتی ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابوداؤد شریف،

نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف صحاح ستہ میں شامل ہیں۔

بعض حضرات بجائے ابن ماجہ شریف کے موطا امام مالک رحمہ اللہ کو صحاح ستہ میں شمار کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کے علاوہ صحاح ستہ کی

دیگر کتب میں صحیح، حسن، ضعیف تینوں درجے کی احادیث ہیں جن کی تشریح و توضیح ہر ایک صاحب کتاب نے اپنی اپنی جگہ کر دی۔

جامع حدیث کی وہ کتاب جس میں تفسیر، عقائد، آداب، احکام، مناقب، سیرت، فتن، علامات قیامت وغیرہ ہر قسم کے مسائل کی احادیث مندرج

ہوں۔ جیسے بخاری، ترمذی،

سنن وہ کتاب جس میں احکام کی احادیث فقہی ابواب کی ترتیب کے موافق بیان ہوں، جیسے سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ

مسند:..... وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ترتیب ترتیب حروف ہجاء یا تقدم و تاخر اسلامی کے لحاظ سے احادیث مذکور

ہوں۔ جیسے مسند احمد، مسند دراری

بجھم..... وہ کتاب ہے جس کے اندر وضع احادیث میں ترتیب اساتذہ کا لحاظ رکھا گیا ہو۔ جیسے مجتم طبرانی۔

جزء..... وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک مسئلہ کی احادیث یکجا جمع ہوں، جیسے جزء القراءۃ و جزء رفع الیدین للبخاری رحمہ اللہ تعالیٰ و جزء القراءۃ للبیہقی

مفرد..... وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک شخص کی کل مرویات ذکر ہوں۔

غریب..... وہ کتاب ہے جس میں ایک محدث کے متفردات جو کسی شیخ سے ہیں، وہ ذکر ہوں۔ عجالہ نافعہ ص ۱۴۰ عرف الشذی

مستخرج..... وہ کتاب جس میں دوسری کتاب کی حدیثوں کی زائد سندوں کا استخراج کیا گیا ہو، جیسے مستخرج ابو عوانہ۔

مستدرک..... وہ کتاب ہے جس میں دوسری کتاب کی شرط کے موافق اس کی رہی ہوئی حدیثوں کو پورا کر دیا گیا ہو، جیسے مستدرک حاکم۔

الحطہ فی ذکر الصحاح المستتہ

دوسری تقسیم..... کتب حدیث کی مقبول و غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے پانچ قسمیں ہیں:

پہلی قسم..... وہ کتابیں ہیں جن میں سب حدیثیں صحیح ہیں، جیسے مؤطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح حاکم، مختارہ ضیاء مقدسی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن عوانہ، صحیح ابن سکین، مستطیعی ابن جارود۔

دوسری قسم..... وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث صحیح و حسن و ضعیف ہر طرح کی ہیں مگر سب قابل احتجاج ہیں، کیونکہ ان میں جو حدیثیں ضعیف ہیں وہ بھی مرتبہ میں حسن کے قریب ہیں، جیسے سنن ابوداؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد۔

تیسری قسم..... وہ کتابیں ہیں جن میں حسن، صالح، مگر ہر نوع کی حدیثیں ہیں، جیسے:

۱ سنن ابن ماجہ

۲ مسند طیارسی

۳ زیادات ابن احمد بن حنبل

۴ مسند عبدالرزاق

۵ مسند سعید بن منصور

۶ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ

۷ مسند ابویعلیٰ موصلی

۸ مسند یزار

۹ مسند ابن جریر

۱۰ تہذیب ابن جریر

۱۱ تفسیر ابن جریر

۱۲ تاریخ ابن مردویہ

۱۳ تفسیر ابن مردویہ

۱۴ طبرانی کی مجتم کبیر

۱۵ مجتم صغیر

۱۶ مجتم اوسط

۱۷ سنن دارقطنی

۱۸ غرائب دارقطنی

۱۹ حلیہ ابی نعیم

۲۰ سنن بیہقی

۲۱ شعب الایمان بیہقی

چوتھی قسم..... وہ کتابیں ہیں جن میں سب حدیثیں ضعیف ہیں الا ماشاء اللہ۔ جیسے نوادر الاصول حکیم ترمذی، تاریخ الخلفاء، تاریخ ابن نجار، مسند الفردوس، دیلمی، کتاب الضعفاء عقلی، کمال ابن عدی، تاریخ خطیب بغدادی، تاریخ ابن عساکر

پانچویں قسم..... وہ کتابیں ہیں جن سے موضوع حدیث معلوم ہوتی ہیں جیسے موضوعات ابن جوزی، موضوعات شیخ محمد طہر نہروانی وغیرہ۔

رسالہ فی مایجب حفظہ للنظر مولفہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ

شیخین..... حضرات صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کو اور محدثین کے نزدیک امام بخاری اور امام مسلم اور فقہاء کے نزدیک امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف کو محدثین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تدریب الراوی خاشیہ ۹۹، ۱۰۰

متفق علیہ:..... محدثین کی اصطلاح میں متفق علیہ کا مطلب جس حدیث پر امام بخاری اور امام مسلم متن اور سند دونوں میں متفق ہوں یا بعض کے نزدیک دونوں ایک ہی صحابہ سے روایت کریں۔ سلسلہ السلام: ۱۶/۱

حفظ حدیث میں مسابقت

جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام نے احادیث کو حفظ یاد کرنے کا بہت اہتمام فرمایا ہے اور متعدد صحابہ کرام نے احادیث کا مجموعہ تیار کر لیا تھا بعد کے زمانہ میں بھی حفظ حدیث کا سلسلہ جاری رہا چنانچہ یہاں ایسے لوگوں کی ایک مختصر فہرست لکھی جاتی ہے، تاکہ بعد میں آنے والے ان کی اقتداء کریں۔

صحابہ کے علاوہ احادیث کو حفظ کرنے والے حضرات کے اسمائے گرامی

اس امت کے جن افراد نے رسول اللہ ﷺ کے عشق و محبت میں احادیث کو حفظ کیا اس کی مثالیں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تھی ان میں سے چند کے اسمائے گرامی یہ ہیں:

- ۱۔ سلیمان بن مہران الأعمش المتوفی ۱۴۸ھ ان سے چار ہزار احادیث مروی ہیں اور وہ سب زبانی بیان کرتے تھے۔
- ۲۔ امام محمد بن سلام المتوفی ۲۲۷ھ ان کو پانچ ہزار احادیث یاد تھیں، محدث علی فرماتے ہیں کہ ان کو سات ہزار احادیث یاد تھیں۔ تاریخ خطیب بغدادی: ۵/۹۰
- ۳۔ امام عبدالرحمن بن مہدی ان کو دس ہزار احادیث یاد تھیں۔ تذکرۃ الحفاظ: ۲۳۳/۱
- ۴۔ امام ابو حاتم کو بھی دس ہزار احادیث یاد تھیں۔ تہذیب التہذیب: ۸۲/۴
- ۵۔ امام محمد بن عیسیٰ بن سنجح المتوفی ۲۲۴ھ کو چالیس ہزار حدیثیں یاد تھیں۔ تذکرۃ الحفاظ: ۳۵۵
- ۶۔ محدث محمد بن موسیٰ المتوفی ۳۲۱ھ کو ایک لاکھ احادیث یاد تھیں۔ تہذیب التہذیب: ۲۹۴/۹
- ۷۔ امام عبدالرحمن رحمہ اللہ المتوفی ۳۰۶ھ کو بھی ایک لاکھ حدیثیں یاد تھیں۔ میزان الاعتدال: ۱۴۱/۳
- ۸۔ امام بخاری ۲۵۶ھ کو تین لاکھ حدیثیں یاد تھیں، جن میں سے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۲۳۳/۲)
- ۹۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو دس لاکھ احادیث یاد تھیں۔ (تذکرۃ الحفاظ: ۱۲۳/۲)
- ۱۰۔ امام مسلم کو تین لاکھ احادیث یاد تھیں۔ تاریخ خطیب بغدادی: ۴۱۹/۴

حفاظ محدثین کی لاکھوں مثالیں ہیں طوالت کے خوف سے چند پر اکتفاء کیا گیا ہے:

اپنا کیا حال ہے اسلاف کی حالت کیا تھی
اپنی توقیر ہے کیا ان کی وجاہت کیا تھی

قریب کے زمانے میں احادیث کو یاد کرنے والے چند حضرات کے اسماء گرامی

- ۱۔ مولانا شیخ فتح محمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو چار ہزار احادیث یاد تھیں، اور وہ اورنگزیب عالمگیر المتوفی ۱۱۱۸ھ کے بارے میں فرماتے ہیں:

قریب کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے احادیث کو یاد کیا ان میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں:

کہ ان کو بارہ ہزار احادیث یاد تھیں۔ رسالۃ الانفاء: ص ۷ اباب ماہ رمضان ۱۳۵۶ھ

- ۲ مجدد الف ثانی کے پوتے شیخ محمد فرخ کو ستر ہزار احادیث متن اور سند کے ساتھ یاد تھیں۔ نظام تعلیم و تربیت ص ۱۲۳
 ۳ شیخ حسین بن محسن القاری کو بخاری شریف کی مشہور شرح، فتح الباری کی چودہ جلدیں حفظ یاد تھیں۔

رسالہ الرحیم بابت ماہ جولائی ۱۹۶۵ء

- ۴ مولانا داؤد کشمیری متوفی ۱۰۹۷ھ ان کو مشکوٰۃ زبانی یاد تھی اس وجہ سے علماء وقت ان کو مشکاتی کہا کرتے تھے۔ نزہۃ الخواطر
 ۵ گجرات کے ایک آدمی جن کا نام محدث تاج الدین تھا ان کو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحاح ستہ زبانی یاد تھیں۔

نزہۃ الخواطر: ۲/۸

- ۶ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں مولانا عبدالحق اکوڑہ جنگ فرماتے ہیں کہ ان کو بخاری شریف حفظ یاد تھی۔ حقائق السنن
 گھر جو دل میں نہیں ہیں خدا ہی دے تو ملیں
 اسی کے پاس ہے مفتاح اس خزانے کی
 یہ چند پر ہی اکتفاء کر دیا ہے حالانکہ اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔

حفظ حدیث میں عورتوں کا کارنامہ

دین کا علم حاصل کرنا اس کی تبلیغ و اشاعت میں مردوں کی طرح عورتوں کا بھی حصہ رہا ہے، صحابہ کرام کی طرح صحابیات نے بھی اس میدان میں حصہ لیا ہے، چنانچہ مردوں کی طرح عورتوں میں بھی ایک دوئیں ہزاروں عورتیں ہیں جنہوں نے احادیث کو حفظ یاد کیا۔
 امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں حافظات حدیث کے نام لکھے ہیں:

- ۱ حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا
- ۲ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث مصطلقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- ۳ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہا
- ۴ ام المومنین حضرت ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- ۵ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ عنہا
- ۶ حضرت زینب بنت ابوسلمہ مخزومیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- ۷ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ رضی اللہ عنہا
- ۸ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- ۹ حضرت ام عطیہ نسبیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- ۱۰ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت مخزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- ۱۱ حضرت ام حرم بنت ملحان انصاریہ رضی اللہ عنہا
- ۱۲ ان کی بہن ام سلمہ رضی اللہ عنہا
- ۱۳ حضرت ام ہانی بنت ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پردہ لٹکا ہوا رہتا تھا جس کے پیچھے سے وہ حدیث بیان فرماتی رہتی تھیں۔
 قاہرہ کی مشہور محدثہ نقیہ حدیث کا درس دیتی تھیں جن کے درس سے امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی فائدہ اٹھایا۔

بخاری کے مشہور نسخوں میں سے ایک نسخہ احمد کی بیٹی کریمہ کا ہے جو اپنے وقت کی استاذ حدیث تھیں۔
 چھٹی صدی کے مشہور محدث علی بن عساکر کے اساتذہ میں سے زیادہ مقدار خواتین اساتذہ کی ہے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ امام
 احمد زینب چوراسی سال کی عمر تک احادیث پڑھاتی رہیں۔ نیز فرماتے ہیں:
 ”واز دحم علیہا الطلبة.“ ان کے یہاں طلبہ کا اثر دھام مارتا تھا۔
 نیز امام عبداللہ زینب کمال الدین کے بارے میں لکھا ہے:
 ”وتکاثروا علیہا وتفردت وروت کبارا رحمہا اللہ.
 ان کے یہاں طلبہ کی بڑی تعداد آتی تھی وہ بہت سی احادیث روایت کرنے میں منفر د تھیں انہوں نے حدیث کی بڑی بڑی کتابوں
 کا درس دیا۔

احادیث کو صحیح و ضعیف قرار دینے کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث صحیحہ صرف صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں منحصر ہیں، نیز بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو حدیث صحیحین میں نہ ہو
 وہ لازماً کمزور ہوگی اور وہ کسی حال میں بھی صحیحین کا معارضہ نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ کسی حدیث کی صحت کا اعتبار اس کے
 بخاری یا مسلم میں ہونے پر نہیں بلکہ اس کی اپنی سند پر ہے، خود امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں احادیث صحیحہ
 کا استیعاب نہیں کیا، لہذا یہ عین ممکن ہے کہ کوئی حدیث صحیحین میں نہ ہو اور اس کے باوجود اس کا رتبہ سند کے اعتبار سے صحیحین کی بعض احادیث
 سے بھی بلند ہو، مثلاً مولانا عبدالرشید نعمانی نے ”تأمس الیہ الحاجہ“ میں ابن ماجہ کی بعض ایسی روایات نقل کی ہیں جن کے بارے میں محدثین کا فیصلہ
 یہ ہے کہ ان کی سند بخاری کی سند سے بھی افضل ہے۔ لہذا صحیحین کو جو ”صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ“ کہا جاتا ہے وہ مجموعی اعتبار سے نہ کہ ہر
 ہر حدیث کے اعتبار سے، اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لیے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی ”انہاء السکن الی من یطالع اعلاء
 السنن“ قابل دید ہے۔

حدیث کو صحیح کہنے کا مطلب

حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جب ہم کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نفس الامر میں
 بھی یقیناً صحیح ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح کی وہ فی شرائط موجود ہیں جو محدثین نے صحیح کے لیے مقرر کی ہیں، لہذا ظن غالب یہ
 ہوتا ہے کہ وہ نفس الامر میں بھی صحیح ہوگی، اس لیے کہ نفس الامر کی صحت کا یقین تو اتر کے بغیر نہیں ہوتا، لہذا صحیح میں بھی یہ احتمال موجود ہے کہ نفس
 الامر کی طور پر کوئی غلطی رہ گئی ہو، کیونکہ خطا و سبب انفقہ سے بھی ممکن ہے اور اس کا امکان ہے کہ کسی راوی سے کوئی وہم ہوا ہو، البتہ اس احتمال پر عمل
 اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس احتمال کا ثبوت دوسرے قرائن و دلائل قویہ سے نہ ہو جائے، لہذا اگر دوسرے دلائل قویہ اس بات پر دلالت
 کرتے ہوں کہ اس حدیث صحیح پر کسی راوی کو وہم ہوا ہے تو اس حدیث کو ترک کیا جاسکتا ہے، مثلاً یہ کہ زیادہ صحیح احادیث اس کے معارض ہوں یا وہ
 حدیث قرآن کریم کی کسی واضح آیت کے خلاف ہو، اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ
 نفس الامر میں بھی واقعاً جھوٹی ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں صحیح یا حسن کی فی شرائط نہیں پائی جاتی جن کی وجہ سے وہ اتنی قابل اعتماد نہیں
 ہے کہ اس پر کسی شرعی مسئلہ کی بنیاد رکھی جاسکے، ورنہ یہ احتمال موجود ہے کہ ضعیف راوی نے بالکل سچی بات نقل کی ہو، اس لیے کہ ضعیف راوی ہمیشہ
 غلطی نہیں کرتا لیکن اس احتمال پر عمل اس وقت تک جائز نہیں جب تک دوسرے دلائل قویہ اس کو ثابت نہ کر دیں اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی
 جہتہ کے پاس ایسے دلائل قویہ موجود ہوتے ہیں جن کی بناء پر وہ اس ضعیف احتمال کو راجح قرار دے کر کسی حدیث صحیح کو ترک کر دیتا ہے، یا حدیث

ضعیف کو اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو حدیث صحیح کا تارک یا حدیث ضعیف پر عامل نہیں کہا جاسکتا یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ”کتاب العلل“ میں لکھا ہے کہ میری کتاب میں دو حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر کسی فقیہ کا عمل نہیں ہے، ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت:

قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. ترمذی: ۴۷/۱ باب ماجاء في الجمع بين الصلوتين

حالانکہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث قابل استدلال ہے، دوسری حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہے:

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه.

ترمذی: ۲۰۹/۱ ابواب الحدود باب ماجاء من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه.

حالانکہ یہ حدیث بھی قابل استدلال ہے ان دنوں حدیثوں کے ظاہر کو باجماع امت ترک کر دیا گیا ہے، کیونکہ دوسرے دلائل قویہ ان کے خلاف موجود تھے، لیکن ان حدیثوں کے ترک کرنے کی وجہ سے کسی کو بھی تارک سنت نہیں کہا گیا۔

اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے ”ابواب الزکاح باب ماجاء في الزوجين المشركين يسلم احدهما“ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی ہے:

رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب رضي الله تعالى عنها على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا.

اس حدیث کا صریح تقاضا یہ ہے کہ اگر زوجہ مشرک کے اسلام لانے کے چھ سال بعد بھی اس کا پرانا شوہر مسلمان ہو جائے تو نکاح جدید کی ضرورت نہیں، حالانکہ اس پر کسی فقیہ کا عمل نہیں، چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

هذا الحديث ليس باسناده بأس ولكن لا تعرف وجه الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داؤد بن الحصين من قبل حفظه.

یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث صحیح میں راوی کے وہم کے احتمال کو دوسرے دلائل کی وجہ سے راجح قرار دیا ہے۔

اس کے برعکس حدیث ضعیف پر بعض اوقات دوسرے دلائل کی وجہ سے عمل کر لیا جاتا ہے، چنانچہ اسی باب میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے عم بن شعیب رحمہ اللہ کی روایت نقل کی ہے:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد

اس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

هذا حديث في اسناده مقال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم الخ (ثم قال) وهو قول مالك بن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق.

کیا ان تمام ائمہ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ عامل ”بالحدیث الضعیف“ ہیں، ظاہر ہے کہ ان حضرات نے حدیث کو اس لیے اختیار کیا کہ دوسرے دلائل سے اس کی تائید ہو رہی تھی، لہذا اگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کسی مقام پر حدیث ضعیف کو دوسرے دلائل کی وجہ سے اختیار کرے تو وہ تنہا نشانہ ملامت کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بحث تفصیل کے ساتھ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی کتاب ”انہاء السکن“ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

ماخوذ از مقدمہ دز سن ترمذی

فضائل کے باب میں حدیث ضعیف

تین شرائط کے ساتھ مقبول ہے۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ”تذویب الراوی“ میں اور حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے، القول البدیع فی الصلاۃ علی الجیب الشفیع“ میں حافظ ابن حجر سے نقل کیا ہے کہ حدیث ضعیف فضائل کے باب میں تین شرائط کے ساتھ مقبول ہوتی ہے:

۱ اس کا ضعیف ہونا بہت شدید نہ ہو۔ فیخرج من انفراد من الکذابين والمتهمین بالكذب ومن فحش غلطہ۔

۲ اس کا مضمون شریعت کے اصول ثابتہ میں سے کسی اصل معمول بہ کے تحت داخل ہو۔

۳ فیخرج ما یخترع بحیث لا یكون له اصل اصلا

ان لا یعتقد عند العمل به ثبوته، بل یعتقد الاحتیاط لئلا ینسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقلہ

یعنی اس پر عمل کرتے ہوئے یقینی ثبوت کا اعتقاد نہ رکھے بلکہ احتیاط کا اعتقاد رکھے، تاکہ رسول اللہ ﷺ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ علیہ السلام نے ارشاد نہ فرمائی ہو۔

اور اس مسئلہ کی پوری تفصیل علامہ عبدالحی لکھنوی کی کتاب ”الاجوبۃ الفاصلہ“ میں موجود ہے۔

محدث کبیر شیخ علی بن حسام الدین متقی برہان پوری رحمہ اللہ

امام کبیر شیخ المشائخ، محدث اعظم، علی بن حسام بن عبد الملک بن قاضی خان متقی شاذلی، مدنی، چشتی، برہانپوری، مہاجر کی جو کہ جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کے قبرستان میں مدفون ہیں۔

ولادت: ۸۸۵ھ میں ہندوستان کے شہر برہان پور میں پیدا ہوئے آٹھ سال کی عمر میں ان کے والد صاحب انہیں لے کر شیخ بہاؤ الدین صوفی برہان پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیخ نے انہیں اسی عمر میں بیعت فرما کر حلقہ ارادت میں داخل فرمایا، جوانی کی عمر تک شیخ بہاؤ الدین رحمہ اللہ کے ساتھ منسلک رہے پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے فرزند ازہد شیخ عبدالحکیم برہان پوری رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، اور سلوک کے مراحل طے فرمائے۔ اور انہوں نے علی متقی رحمہ اللہ کو سلسلہ چشتیہ میں خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ پھر مزید چنگی کی خاطر دوسرے شیوخ کی تلاش میں مختلف شہروں کا سفر کیا۔ بالاخر شیخ حسام الدین متقی ملتان میں خدمت میں پہنچے دو سال تک مستقل ان کی خدمت میں رہے۔ انہی سے تفسیر بیضاوی اور عین العلم کتابیں پڑھیں اور وروع و تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہوئے۔

سفر حرمین: پھر حرمین کا سفر کیا، مکہ مکرمہ میں شیخ ابوالحسن شافعی بکری رحمہ اللہ سے حدیث پڑھی، اور انہی سے طریقہ قادریہ شاذلیہ و مدنیہ حاصل کیا۔ نیز شیخ محمد بن محمد سخاوی مصری رحمہ اللہ اور شیخ شہاب الدین احمد بن حجر کی سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور مکہ مکرمہ ہی میں بیت اللہ شریف کے مجاور ہو گئے۔

ہندوستان کا سفر: پہلی مرتبہ محمود شاہ صغیر گجراتی کے عہد میں آئے۔ جو شیخ علی متقی رحمہ اللہ کے مرید تھے، صفی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے شیخ جب ہندوستان پہنچے تو محمود شاہ گجراتی نے شیخ کا بہت اکرام کیا۔ اور ان کی ہر طرح کی خاطر تواضع کی اور بہت سے ہدایا و تحائف سے نوازا پھر موسم حج میں مکہ مکرمہ واپس پہنچ گئے۔

مسافر خانہ کی تعمیر: مکہ پہنچ کر ”سوق اللیل“ میں ایک کشاہ مسافر خانہ تعمیر فرمایا، جس میں سندھ کے مسافرین قیام فرماتے تھے، اس طرح شیخ مسافروں کی کفالت بھی فرماتے اور ان کی مالی مدد بھی فرماتے تھے۔ سلطان کی طرف سے ایک بڑی جاگیر مسافر خانہ کے لیے کردی گئی۔ جو شیخ اور ان کے متعلقین کے خرچہ کے لیے کافی تھی۔ اور محمود شاہ نے سلطان سلیمان بن سلیم بن بایزید بن محمد رومی رحمہ اللہ کو شیخ کے متعلق خط

لکھا وہ بھی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور شیخ سے دعا کی درخواست کی اس طرح بہت جلد مکہ مکرمہ میں شیخ کو شہرت حاصل ہوئی۔ دوسری مرتبہ سفر ہندوستان:..... دوسری مرتبہ شیخ ہندوستان تشریف لائے۔ اور محمود شاہ کے مہمان ہوئے اب گئی دفعہ شیخ نے اپنی آمد کا یہ مقصد بتایا کہ حکومتی امور کا جائزہ لیا جائے۔ اور جو قوانین شریعت کے خلاف ہوں انہیں شریعت کے مطابق بنایا جائے۔ سرکاری عہدہ اور منصب پر بیٹھ کر عدل و انصاف قائم کریں۔ رعایا کے حقوق ادا کریں۔ محمود شاہ نے یہ ارادہ سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ اور شیخ کو اختیارات بھی سونپ دیئے۔ شیخ علی متقی رحمہ اللہ نے بہت سے اصلاحات فرمائی، لیکن کچھ عرصہ کے بعد دیکھا کہ ارکان سلطنت ان سے ناراض ہیں حکم عدولی کر رہے ہیں رشوت کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اور محمود شاہ بھی شیخ سے اعراض کر کے ارکان سلطنت کا ساتھ دے رہا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر شیخ یابوس ہو کر مکہ مکرمہ لوٹ آئے۔

خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت

شیخ متقی رحمہ اللہ کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد سے منقول ہے کہ میں نے شیخ کی زندگی ہی میں رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا جبکہ وہ خود مکہ معظمہ میں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو میں کر سکوں، تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بس تم شیخ علی متقی کی اتباع کرتے رہو، ان کے اعمال و افعال کا ملاحظہ کر کے ان کی پیروی کرو، اس خواب میں بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علی متقی رحمہ اللہ کو شیخ کا لقب دیا۔

علامہ حضرمی رحمہ اللہ نے ”انوار السافر“ میں لکھا کہ شیخ علی متقی بہت پرہیزگار تھے، عبادات میں انتہائی محنت کرنے والے تھے۔ گناہوں کے کاموں سے بہت اجتناب کرنے والے، ایک دفعہ ۲۷ رمضان المبارک شب جمعہ کو خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت ہوئی، تو عرض کیا کہ اس زمانہ میں لوگوں میں افضل کون ہے؟ تو آپ نے شیخ متقی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ”تم ہو“ عرض کیا پھر کون ہے؟ تو فرمایا کہ ہندوستان میں محمد بن طاہر ہیں۔

مناقب پر لکھی ہوئی کتاب

شیخ علی متقی رحمہ اللہ کے حالات زندگی پر مشتمل ایک بہت عمدہ کتاب، علامہ عبدالقادر فاکہی رحمہ اللہ نے لکھی: ”القول النقی فی مناقب المتقی“ جس میں آپ کے پورے حالات زندگی کو جمع کیا گیا۔ اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کی بعض کتب کے مقدمہ میں شیخ کے حالات پر ایک عبارت ہے اس کو بعینہ یہاں نقل کی جائے تاکہ اہل علم اس سے استفادہ کر سکیں:

قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فيقول الفقير الى الله تعالى علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي انه خطر في خلدی أن أبین لأصحاب من أول أمری الى آخره، فاعلموا رحمکم الله أن الفقير لما وصل عمری الی ثمان سنين جاء فی خاطر والدی رحمه الله أن يجعلنی مریداً لحضرة الشيخ باجن، قدس الله سره! فجعلنی مریداً، وكان طريقه طريق السماع وأهل الذوق والصفاء، فبايعني علي طريق المشايخ الصوفية، وأخذت عنه وأنا ابن ثمان سنين، ولقنني الذكر الشيخ عبدالحكيم بن الشيخ باجن، قد سره! وكنت في بداية أمری أكتسب بصنعة الكتاب لقوتی وقوت عيالي وسافرت الى البلدان، فلما وصلت الى الملتان صحبت الشيخ حسام الدين وكان طريقه طريق المتقين فصحبته ماشاء الله، ثم لما

وصلت الی مکة المشرفة صحبت الشيخ أبا الحسن البكري الصديقي قدس الله سره، وكان له طريق التعلم والتعليم، وكان شيخا عارفا كاملا في الفقه والتصوف، فصحبت ماشاء الله ولقنتي الذكر وحصل لي من هذين الشيخين الجليلين عليهما الرحمة والغفران. من الفوائد العلمية والذوقية التي تتعلق بعلوم الصوفية، فصنفت بعد ذلك كتابا ورسائل، فأول رسالة صنفتها في الطريق سميتها "تبيين الطريق الى الله تعالى" وآخر رسالة صنفتها سميتها "غاية الكمال في بيان أفضل الأعمال" فمن من الطلبة حصل منهما رسالة ينبغي له أن يحصل الأخرى ليلازم بينهما في القصد، انتهى، قال الحضرمي: وبالجملة فما كان هذا الرجل الا من حسنات الدهر، وختامة أهل الورع، ومفاخر الهند، وشهرته نغني عن ترجمته، وتعظيمه في القلوب يعني عن مدحته انتهى.

تصنيف:..... شیخ علی متقی رحمہ اللہ کی تصانیف بھی بہت ہیں، چھوٹی اور بڑی ملا کر تقریباً ۱۰۰ ہونگی، سب سے پہلی تصنیف "تبيين الطريق الى الله تعالى" دوسرے رسالہ کا نام "غاية البيان في افضل الاعمال" رکھا۔ سب سے مشہور کتاب "کنز العمال في سنن الاقوال والاعمال" ہے، جس کا تذکرہ ہم مستقل عنوان کے تحت کریں گے۔

شیخ علی متقی رحمہ اللہ کے بارے میں علماء کرام کی آرا

علامہ شعرانی رحمہ اللہ "الطبقات الكبرى" میں لکھا ہے کہ ۹۴۵ھ میں، میں ان کے پاس تھا، وہ میری طرف دیکھتے رہے اور میں ان کی طرف دیکھتا رہا وہ بہت بڑے علم والے تھے، زاہد، متقی پرہیزگار تھے، جسم کے لحاظ سے دبے پتلے تھے، نہایت کم گو، عزت پسند، اس زمانہ میں پیرانہ سنالی کی وجہ سے وہ گھر سے صرف حرم پاک نماز جمعہ کے لیے نکلتے۔ اور صفوف کی ایک جانب کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے۔ پھر تیزی کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاتے۔

واقعه:..... ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، تو میں نے وہاں اللہ والوں کی ایک جماعت دیکھی کہ ہر فقیر اپنی مخصوص جگہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی تلاوت میں مشغول ہے تو کوئی ذکر و تضرع میں۔ کوئی مراقبہ میں ہے، کوئی علمی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، مکہ معظمہ میں میں نے اس جیسا منظر نہیں دیکھا اس وقت ان کے پاس کئی تالیفات تھیں، ایک علامہ سیوطی کی، جامع الصغیر کی ترتیب (۲) مختصر النہایہ فی اللغۃ اور مجھے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن کریم کا نسخہ دیکھا یا ایک ورق میں پورا قرآن تھا، ہر سطر میں، چوتھائی پارہ لکھا ہوا تھا۔ پھر مجھے چاندی کا ایک درہم دیا اور فرمایا کہ آپ اس شہر میں اسکو خرچ کریں پھر میں پورے موسم حج میں، اس کو خرچ کرتا رہا اور بہت مال خرچ کیا کس طرح کیا وہ ناقابل بیان ہے۔

کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال

شیخ علی متقی رحمہ اللہ کے علمی کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ کتاب ہے، جس میں احادیث مبارکہ کے گرانقدر مجموعہ کو سنن کی ترتیب پر جمع فرمایا، اسکی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ اصل کتاب تو یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ہے۔ امام سیوطی رحمہ نے تمام احادیث کو یکجا کرنے کی غرض سے ایک تالیف کرنے کا ارادہ فرمایا، جس کا نام "الجامع الکبیر" رکھا جو اسی نام سے آج بھی موجود ہے۔ اس میں صرف آپ علیہ السلام کی قولی احادیث کو لکھا گیا ترتیب پر مرتب فرمایا ہے وہ احادیث جن میں سبب حدیث یا کوئی سوال یا افعال کا تذکرہ بھی ہے اسے علیحدہ طور پر لکھا۔ پہلی قسم کو قسم الاقوال دوسری قسم کو قسم الافعال کا نام دیا۔ قسم الافعال کی ترتیب مسانید صحابہ کی ترتیب پر رکھی، پہلے خلفاء اربعہ کی مسانید پھر عشرہ مبشرہ اس طرح پھر باقی صحابہ

امام سیوطی رحمہ اللہ نے اسی جامع کبیر کی قسم الاقوال سے مختصر احادیث کا انتخاب فرمایا۔ اور اسے ”جامع صغیر“ کا نام دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد اسی ”جامع صغیر“ پر استدراک کر کے ”زوائد الجامع“ کے نام سے کتاب لکھی، اسکی ترتیب بھی ”جامع صغیر“ کی ترتیب پر تھی۔

علامہ علی متقی رحمہ اللہ کی بہترین کوشش

- ۱۔ علامہ متقی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ”جامع صغیر“ اور ”زوائد جامع صغیر“ کی احادیث کو فقہی ترتیب دے کر ایک کتاب بنا دیا اس کا نام ”منج العمال فی سنن الاقوال“ رکھا۔
- ۲۔ پھر متقی رحمہ اللہ کو خیال ہوا کہ جو احادیث قسم الاقوال سے سیوطی رحمہ اللہ نے ”جامع صغیر“ میں نقل نہیں کیں انہیں بھی فقہی ترتیب دے کر اس کا نام ”الاکمال منج العمال“ رکھا۔ اس طرح امام متقی کی دو کتابیں ہو گئیں:
 - (۱) منج العمال جس میں جامع صغیر اور زوائد کی احادیث فقہی ترتیب پر تھیں۔
 - (۲) الاکمال جس میں قسم الاقوال کی بقیہ احادیث کو فقہی ترتیب دی۔
- ۳۔ بعد میں علامہ متقی نے ان دونوں کتابوں کو ملا کر ایک تیسری کتاب بنا دی لیکن ان دنوں میں امتیاز برقرار رکھا، منج العمال کی احادیث کو پہلے ذکر فرمایا اور بقیہ احادیث کو بعد میں الاکمال کے نام کے تحت ذکر فرمایا۔ اور مجموعے کا نام ”غایۃ العمال فی سنن الاقوال“ رکھا۔ اس طرح جامع کبیر کی قسم الاقوال کی تمام احادیث کی فقہی ترتیب حاصل ہو گئی، علامہ متقی نے پھر قسم الافعال کو بھی فقہی ترتیب دے دی اس طرح پچھلی تمام کتابوں کو ملا کر ایک کتاب بن گئی، جس کی ترتیب اسی طرح ہوئی سب سے پہلے منج العمال کی احادیث، پھر الاکمال کی پھر قسم الافعال کی، اس طرح پوری جامع کبیر کی احادیث صحیح بہت سی زائد حدیثوں کے، فقہی ترتیب کے ساتھ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال کے نام سے معرض وجود میں آئی۔ واللہ الحمد۔

کنز العمال کے بارے میں علماء کے اقوال

۱..... شیخ چلبی رحمہ اللہ:

شیخ چلبی رحمہ اللہ نے ”کشف الظنون“ میں علامہ سیوطی رحمہ کی جمع الجوامع (جامع صغیر) کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا: ”کہ شیخ علامہ علاء الدین علی بن حسام الدین ہندی رحمہ اللہ جو ”متقی“ کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے ”الجامع الکبیر“ کو اسی طرح مرتب فرمایا جس طرح جامع الصغیر کو مرتب فرمایا ہے۔ اور اس کا نام ”کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال“ رکھا۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ائمہ حدیث کی مرتب کردہ بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کر کے احادیث کو حاصل کیا۔ انہوں نے اصول سنت کے بارے میں جتنی احادیث جمع کیا اس سے زیادہ کسی نے جمع نہیں کیا۔

نزهة الخواطر

۲..... عبدالحق دہلوی رحمہ اللہ:

علامہ عبدالحق بن سیف اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے ”اخبار الاخیر“ میں لکھا ہے کہ شیخ ابوالحسن بکری شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ سیوطی کا سارے جہاں پر احسان ہے اور علامہ متقی رحمہ اللہ کا سیوطی پر احسان ہے۔ نزهة الخواطر

۳..... امام کنانی رحمہ اللہ:

امام کنانی متوفی ۱۳۴۵ھ فرماتے ہیں: ”امام سیوطی رحمہ اللہ کی جامع کبیر کا مکملہ جمع الجوامع ہے، اس میں انہوں نے تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا علاوہ ازیں وہ تکمیل سے نقل انتقال فرما گئے۔

پھر اس کتاب کو شیخ علاء الدین المتقی ہندی رحمہ اللہ نے فقہی ترتیب دی۔ الرسالة المستطرفة ۱۳۹

۴..... حاجی خلیفہ:

امام سیوطی رحمہ اللہ نے مقدمہ میں ذکر فرمایا کہ انہوں نے تمام احادیث کو جمع کر دیا لیکن تمام احادیث کے احاطہ کا دعویٰ، بعید از قیاس ہے کیونکہ تمام روایات تک رسائی ناممکن بات ہے۔ کشف الظنون ۱۱/۲۶۹

۵..... احمد عبد الجواد:

احمد عبد الجواد نے لکھا کہ امام سیوطی کی ”الجامع الکبیر“ احادیث نبوی ﷺ کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، احادیث کا اتنا بڑا مجموعہ کہیں اور نہیں ہے۔ جس نے امام سیوطی کی جامع کا مطالعہ کر لیا گویا اس نے احادیث کی ستر سے زائد کتابوں کا مطالعہ کر لیا۔ مقدمہ جامع کبیر

۶..... وفات حسرت آیات:

بہر حال علامہ علی متقی ”جو بیک وقت ظاہری و باطنی دونوں طرح کے علوم کے امین تھے، ماہ جمادی الائی ۹۷۵ھ بروز منگل بوقت سحر اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، مگر مہ میں انتقال ہوا وہیں جنت المعلّاة میں، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی قبر کے قریب پہاڑی کے دامن میں دفن ہوئے۔

دونوں حضرات کی قبروں کے درمیان بند راستہ ہے ایک ایسی جگہ میں، جسے ”ناظر الخیش“ کہا جاتا ہے، کل عمر مبارک ۸۷ سال یا نوے برس تھی۔

اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وادخله في جنات النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

الجامع الكبير، اور کنز العمال کا ماخذ:

علامہ شیخ علی متقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام سیوطی کی ایک تحریر مجھے ملی ہے، جس میں مذکور ہے:

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اس فہرست میں ان کتب کا تذکرہ ہے جن کا میں نے صحیح الجوامع کی تالیف کے وقت مطالعہ کیا، یہ فہرست اس لیے لکھ رہا ہوں کہ اگر کتاب مکمل ہونے سے پہلے موت آگئی تو کوئی دوسرا شخص اس کتاب کو میرے طریقہ پر مکمل کر سکے جب ان کو میری کتب کے مراجع کا علم ہوگا تو وہ ان کے علاوہ دیگر کتب کے مطالعہ سے مستثنیٰ ہوگا۔

صحاح ستہ ہیں اور ان کے علاوہ کتب یہ ہیں:

۱..... موطا امام مالک

۲..... مسند شافعی

۳..... مسند الطیالسی

۴..... مسند احمد

۵..... مسند عبد بن حمید

۶..... مسند الحمیدی

۷..... مسند ابی عمران العدنی

۸..... معجم البغوی

۹..... معجم ابن قانع

۱۰..... فوائد سمویہ

۱۱..... المختارہ للضیاء مقدسی

۱۲..... طبقات ابن سعد

۱۳..... تاریخ دمشق لابن عساکر

۱۴..... معرفة الصحابة للباوردی

۱۵..... المصاحف البوردی

۱۶..... فضائل قرآن لابن الضریس

۱۷..... الزهد لابن مبارک

۱۸..... الزهد لہناد سری

مکتبہ اسلامیہ
لاہور

- ١٩ المعجم الكبير للطبراني
 ٢٠ المعجم الاوسط للطبراني
 ٢١ المعجم الصغير للطبراني
 ٢٢ مسند ابي يعلى
 ٢٣ تاريخ بغداد للخطيب
 ٢٤ الحلية لابي نعيم
 ٢٥ الطب النبوي صلى الله عليه وسلم
 ٢٦ فضائل الصحابه لابي نعيم
 ٢٧ كتاب الهدى لابي نعيم
 ٢٨ تاريخ بغداد لابن نجار
 ٢٩ الالقب للشيرازي
 ٣٠ الكنى لابي احمد الحاكم
 ٣١ اعتلال القلوب للخرائطي
 ٣٢ الابانة لابي نصر عبد الله بن سعيد ابن حاتم السجزي
 ٣٣ الافراد للدارقطني
 ٣٤ عمل اليوم والليلة لابن السني
 ٣٥ الطب النبوي لابن السني
 ٣٦ العظمة لابن الشيخ
 ٣٧ الصلاة لمحمد مروزي
 ٣٨ نوادر الاصول للحكيم ترمذي
 ٣٩ الامالي لابي القاسم الحسين بن هبة الله ابن صبري
 ٤٠ ذم الغيبة لابن ابي الدنيا
 ٤١ ذم الغصب لابن ابي الدنيا
 ٤٢ المستدرک لابي عبدالحاكم
 ٤٣ السنن الكبرى للبيهقي
 ٤٤ شعب الايمان للبيهقي
 ٤٥ المعرفة للبيهقي
 ٤٦ البعث للبيهقي (٢٤) دلائل النبوة للبيهقي
 ٤٨ الاسماء والصفات للبيهقي
 ٤٩ مكارم الاخلاق للخرائطي
 ٥٠ مساوي الاخلاق للخرائطي
 ٥١ مسند الحارث لابي اسامه

- ۵۲ ... مسند ابی بکر بن ابی شیبہ
 ۵۳ ... مسند مسدد
 ۵۴ ... مسند احمد بن منیع
 ۵۵ ... مسند اسحاق بن راهویہ
 ۵۶ ... صحیح ابن حبان
 ۵۷ ... فوائد تمام الخلیعات (۵۸) الغیالیات
 ۵۹ ... المخلصیات البجلاء للخطیب
 ۶۰ ... الجامع للخطیب
 ۶۱ ... مسند الشباب القضاعی
 ۶۲ ... تفسیر ابن جریر
 ۶۳ ... مسند الفردوس للذیمی
 ۶۴ ... مصنف عبدالرزاق
 ۶۵ ... مصنف ابن ابی شیبہ
 ۶۶ ... الترغیب فی الذکر لابن شاہین، انتہی.



کنز العمال کے متعلق ایک جامع تبصرہ

”کنز العمال“ کے بارے میں علماء کالمین اور محدثین کے اقوال سے واضح ہوا کہ یہ ذخیرہ احادیث کا ایک عظیم مجموعہ ہے۔ امت کے ایک بڑے طبقہ نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ بلکہ یوں کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ بعد کے مصنفین میں سے کوئی بھی اس کتاب سے مستغنی نہیں رہا ہر ایک کسی نہ کسی درجہ میں ”کنز العمال“ سے ضرور استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد کے دور کی کوئی بھی دینی کتاب کنز العمال کی روایات سے خالی نہیں کہیں نہ کہیں کنز العمال کا حوالہ ضرور ہوگا۔

یہ اس کتاب کی قبولیت کی علامت ہے احادیث رسول اللہ ﷺ کا یہ عظیم ذخیرہ اس قدر قابل قبول ہونے میں امت مسلمہ کے دو عظیم محسن علامہ سیوطی اور علامہ علی متقی رحمہ اللہ کے اخلاص و تقویٰ کا اس میں بڑا دخل ہے جیسا کہ پہلے ان خدا ترس عظیم ہستیوں کے حالات سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے امت مسلمہ کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے میں انتہائی کوشش کی، ان کی پوری کوشش رہی کہ امت ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم سے بھی آراستہ ہو جائے انہوں نے اس کی خاطر ذخیرہ احادیث کا یہ مجموعہ تیار کیا اور امت محمدیہ ﷺ پر عظیم احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مزید قبولیت سے نوازے۔

باقی اس کتاب کی بعض احادیث پر سند کے لحاظ سے کلام ہے۔ لیکن فضائل، وعظ و اور امثال وغیرہ کے متعلق ضعیف احادیث بھی چند شرائط کے ساتھ علماء کے نزدیک مقبول اور قابل عمل ہوتی ہیں جیسا کہ اوپر تفصیل سے مذکور ہوا۔ اس لئے علماء امت کو حق ہے ان روایات پر سند کے اعتبار سے کس درجہ کا کلام ہو ملاحظہ فرما کر فیصلہ کریں۔

کنز العمال کا اردو ترجمہ

اب تک ذخیرہ احادیث کا یہ عظیم مجموعہ عربی زبان ہی میں تھا۔ اس کتاب سے براہ راست استفادہ بھی علماء ہی تک محدود تھا۔ اللہ تعالیٰ دارالاشاعت کراچی کے مالک جناب خلیل اشرف عثمانی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کا اردو زبان میں ترجمہ کروایا۔ یہ اردو دان طبقہ پر ان کا احسان ہے کہ یہ کام آٹھ نو سال کی محنت سے پایہ تکمیل کو پہنچا اور احادیث مبارکہ کی اس عظیم کتاب تک رسائی کو انہوں نے ممکن بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔

وضاحت:..... باقی ترجمہ کے ساتھ کوشش کی گئی ہے کہ احادیث کی مختصر تشریح بھی ہو جائے، تاکہ حدیث کا ترجمہ اور مفہوم دونوں واضح ہو جائیں، اس کے باوجود اگر کہیں ابہام رہ گیا ہو اور مطلب سمجھنے میں الجھن پیدا ہو رہی ہو تو ایسے مقام کو نشان زدہ کر کے مستند علماء کرام سے مطلب سمجھ لیا جائے۔ تاکہ غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی خلاف واقعہ غلط بات رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ خصوصاً بعض باتیں خالص علمی نوعیت کی ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے علم دین میں مہارت تامہ ضروری ہے، اس کے بغیر ان مقامات کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے، ایسے مواقع خاص طور پر قابل توجہ ہیں تاکہ ان کو اپنے فہم سے سمجھنے کی بجائے قابل اعتماد علماء کی طرف رجوع کیا جائے۔

سعادت کی بات

حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم نے کنز العمال کے اردو میں ترجمہ کے ارادے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور خود اپنے ہاتھ سے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ بھی فرمایا اور اس کام کی تکمیل کے لیے دعاء بھی فرمائی۔ اب ان کی دعاؤں کی برکت سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

ترجمہ کرنے والے علماء کی جماعت

یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ترجمہ کا یہ عظیم کام علماء کی ایک جماعت کی محنت سے پایہ تکمیل کو پہنچا ہے اور انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر یہ ترجمہ نہیں کیا بلکہ مختلف شہروں کے رہنے والے علماء نے ملکر یہ کام انجام دیا ہے۔ اصل کتاب سولہ جلدوں پر مشتمل ہے کسی کے حصے میں ایک جلد آئی کسی کے حصے میں دو ایسا بھی ہوا کہ کسی کے حصہ میں تین جلدیں آئیں میں نے دو جلدوں کے ترجمہ کے علاوہ تمام جلدوں پر ممکنہ حد تک نظر ثانی کی اور عنوانات کا اضافہ کیا۔ بعض مقامات کے ترجمہ میں معمولی رد و بدل بھی کیا۔ اب یہ سولہ حصے آٹھ جلدوں میں چھپ کر منظر عام پر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اصل کتاب کی طرح اس ترجمہ کو بھی امت کے حق میں نافع بنائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔

العبدا حسن اللہ شائق عقاب اللہ عنہ

خادم افتاء و تدریس

جامعۃ الرشید احسن آباد کراچی

۴ رجب ۱۴۳۰ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صاحب کنز العمال علی متقی الہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر احوال و آثار

از مولانا ڈاکٹر حافظ محمد ثانی صاحب زید مجدد ہم پروفیسر شعبہ علوم اسلامی و فاتی اردو یونیورسٹی

نام و نسب اور ابتدائی حالات:

آپ کا اسم گرامی علی بن حسام الدین بن عبد الملک بن قاضی خان ہے "متقی" آپ کا لقب، جبکہ قادری، شاذلی، مدینی، چشتی صوفیانہ مسلک و مشرب تھا۔

آبائی وطن ہندوستان کا مشہور علاقہ برہان پور تھا۔ برہان پور (دکن) میں ۸۸۵ھ ۱۴۸۰ء میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ابتدائی حالات کے مطابق صغریٰ میں جبکہ ان کی عمر صرف آٹھ سال تھی، شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت کے ولی کامل، حضرت شیخ باجن چشتی برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل کرایا۔

انہی ایام میں ان کے والد بزرگوار شیخ حسام الدین کا انتقال ہو گیا، والد کے انتقال کے بعد کچھ عرصے آغاز شباب میں کسب معاش کے لئے ملازمت اختیار کی تھوڑا بہت دنیا کا ساز و سامان جمع کیا، اسی اثناء میں عنایت حق اور ہدایت الہی کے جذبے نے شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جانب کھینچا، جس کی بناء پر متاع دنیا کی بے ثباتی و ناپائیداری ان کی آنکھوں میں سما گئی۔ بعد ازاں موصوف نے اپنے شیخ عبد الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشائخ چشتیہ کا فرقہ خلافت زریب تن کیا۔

طلب علم کے لئے سفر:

حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی فطرت میں چونکہ عزیمت، بلند ہمتی، تقویٰ و پرہیزگاری قدرت کی جانب سے ودیعت کی گئی تھی۔ اس بناء پر ان کی طبیعت رکی مشیخت جو در پائشان زمانہ کا ایک دستور بن گئی تھی، قائم نہ ہوئی، وہ مطلوب حقیقی اور مقصد اعلیٰ کے حصول کے درپے رہی۔ بعد ازاں موصوف اپنے وقت کے مشہور بزرگ، محدث اور عالم دین حضرت شیخ حسام الدین المتقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ملتان پہنچے، ان کی صحبت پائی جس کے بعد مسلسل دو سال ان کی صحبت میں حاضر رہ کر "تفسیر بیضاوی اور دیگر کتب پڑھیں۔

سیرت و کردار، اوصاف کمالات:

حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ کسی مسجد میں فروکش نہیں ہوتے تھے، مکان کرایہ پر لیتے اور اس میں قیام کرتے تھے، موصوف کی عادت تھی کہ دو تھیلے اپنے ساتھ رکھتے تھے، ایک تھیلے میں اشیائے خورد و نوش اور دوسرے تھیلے میں قرآن کریم اور سفر میں مطالعہ کے لئے چند ضروری کتابیں ساتھ رکھتے تھے۔

ان میں سے ایک کتاب "عین العلم" تھی، جس کے متعلق اپنے مریدوں کے لئے ان کی وصیت تھی کہ اس کتاب کو سفر و حضر میں اپنے ساتھ رکھو، یہ سا لک راہ کے لئے کافی اور تمام کتابوں سے مستغنی کرنے والی ہے۔ موصوف اپنے ہمراہ پانی کا ایسا مشکیزہ رکھتے تھے کہ جس سے قضاے حاجت، کھانا پکانے، وضو کرنے اور پانی پینے کے بعد اتا باقی رہتا تھا

کہ اگر غسل کی حاجت پیش آئے تو نہایا جاسکے اسے وہ اپنی کمر پر لاد لیتے تھے، صاف پانی سے پہلے برتن پاک صاف کرتے، پھر اپنے ہاتھ سے کھانا پکاتے تھے، آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد نہیں مانگیں گے، جو کام خود کرنے پر قادر ہوں گے، وہ کسی اور سے نہیں لیں گے، بالفرض کسی کی احتیاج ہی پیش آجاتی تو پہلے اسے کچھ دیتے، پھر اسے کام کے لئے کہتے تھے۔

صفائی و پاکیزگی، یکسوئی اور یاد الہی میں صحرا نوردی کرتے، شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے۔ سلوک و طریقت، طہارت و پاکیزگی نفس اور تزکیہ باطن کے لئے جدوجہد میں مصروف رہا کرتے تھے۔ موصوف کا جسم و جوشہ جوڑ اور ہڈیاں جو انسانی جسم میں اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نہایت مضبوط اور توانا تھیں، آخر عمر میں ریاضت و مجاہدہ اور کم خوری کے باعث ہڈیوں کا صرف ڈھانچا ہی رہ گیا تھا۔ اس زمانے میں کتابت گزر اوقات کا واحد ذریعہ تھی، خلق خدا کی صحبت سے گریزاں رہتے، کوئی ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کی درخواست کرتا تو قبول نہیں کرتے تھے۔

حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگرد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق صدر حسن جو شیخ موصوف حضرت شیخ متقی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گزاروں اور ارادت مندوں میں تھا، اسے موصوف نے مدتوں اپنے پاس جگہ دی، اس کی خدمت گزاری کو قبول نہ کیا لیکن وہ آپ کا حقیقی ارادت مند اور سچا عاشق تھا، آپ کتنی ہی بے رخی کرتے، وہ حاضر خدمت رہتا، کئی مرتبہ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ اس سے چھپ گئے، جو توں کے نشانات لئے بنا کر دوسرے راستے پر چلے، تاکہ وہ نہ پاسکے کئی مرتبہ وہ آپ کو نہیں پاسکا، مگر وہ آپ کی طلب اور جستجو میں کسی نہ کسی جگہ پا ہی لیتا، آخر موصوف کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، پھر اسے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت دے دی۔

دیار ہند میں شیخ علی متقی کی شہرت و مقبولیت:

قیام ملتان کے بعد حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہندوستان میں احمد آباد گجرات میں گزارا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس زمانے میں موصوف کی قبولیت اور شہرت کا یہ عالم تھا کہ جس جگہ تشریف لے جاتے، خلق خدا ان کے پیچھے ہو جاتی، اور دیوانہ وار ان کے سامنے ایسے گرتی، جیسے پروانہ شمع پر گرتا ہے موصوف اپنے حجرے کا دروازہ بند کئے یاد الہی میں مصروف رہتے، کسی کو آنے کا راستہ اور موقع نہیں دیتے تھے، کوئی زیارت کے لئے حاضر خدمت ہوتا تو خدام اندر سے باہر آ کر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے اس کی تسلی اور دل جوئی کی خاطر دعا کرتے اور بعد ازاں اسے رخصت کرتے تھے۔

صرف نماز کے اوقات میں آپ کی زیارت ہوتی تھی۔ موصوف کبھی کبھی فارغ اوقات میں جنگل کی طرف جاتے، نہر اور دریا کے کنارے ایک گوشے میں یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے

تصنیف و تالیف کا آغاز:

احمد آباد میں قیام کے دوران ہی ایک روز ”تیمین الطریق“ کی تصنیف و تالیف کا خیال دل میں موجزن ہوا، یہ رسالہ شیخ موصوف کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔

مکہ معظمہ کی جانب ہجرت اور مستقل اقامت:

والی گجرات سلطان بہادر کے دور حکمرانی تک آپ احمد آباد گجرات میں قیام پزیر رہے، لیکن جب ہمایوں نے ۹۴۱ھ/۱۵۳۴ء میں بہادر شاہ کو شکست دی تو آپ ہندوستان سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً ۳۵ برس تک قیام پزیر رہے۔ مکہ معظمہ میں قیام کے دوران شیخ ابوالحسن الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین احمد بن حجر المکی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا، اور قادری شاذلی سلسلوں سے وابستہ

ہو گئے، اس حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

نامور علماء، محدثین اور صوفیاء کی خدمت میں حاضری:

”مکہ معظمہ میں شیخ محمد بن محمد سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو اس عہد کے نامور بزرگ تھے، سلسلہ قادریہ و سلسلہ شاذلیہ کا جوش نور الدین ابوالحسن علی حسن شاذلی پر منتہی ہوتا ہے اور سلسلہ مدینیہ کا جوش ابودین شعیب مغربی تک پہنچتا ہے، حضرت علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت پہنا، مکہ معظمہ میں اقامت اختیار کی، اور عالم کو طاعات، ریاضات و مجاہدات کے انوار سے منور کیا، دینی علوم کی اشاعت و معارف کی فیض رسانی سے دنیا کو مستفید فرمایا، فن حدیث و تصوف میں کتابیں اور رسائل تصنیف کئے۔ ان کے آثار، تصانیف و تالیفات دیکھ کر اور ان کے کمال اور ورع و تقویٰ کے قصے سن کر عقل حیران ہوتی اور یقینی طور پر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ تمام باتیں بغیر توفیق الہی اور برکت خداوندی کے کمال مرتبت و استقامت اور رتبہ ولایت پر ممتاز ہوئے بغیر انجام نہیں پاسکتیں۔“

قیام مکہ کے دوران شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ دو مرتبہ گجرات (ہندوستان) تشریف لائے، اور وہاں کے حاکم سلطان محمود شاہ ثالث کو تلقین فرمائی کہ وہ شریعت اسلامی کو مکمل طور پر نافذ کرے۔

احادیث نبوی ﷺ سے تعلق و وابستگی:

حدیث نبوی ﷺ سے تعلق خاطر اور وابستگی کا یہ عالم تھا کہ موصوف اس کے درس و تدریس اور سنن و احادیث کی طلب اور جستجو میں ہمہ وقت مصروف عمل رہتے تھے، اس سلسلے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

”شیخ متقی زیادہ تر رسالت مآب ﷺ کی سنن و احادیث کی جستجو میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ زندگی کے آخری لمحات میں جب انسان کو بمقتضائے عادت بشری چلنا پھرنا اور حرکت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، شیخ موصوف جانی کے عالم میں اس مبارک عمل میں مشغول رہے، چنانچہ پرواز روح کے وقت تک موصوف نے ”جامع کبیر“ کا مطالعہ نہیں چھوڑا۔“

حدیث نبوی ﷺ سے قلبی تعلق اور شغف کا یہ عالم تھا کہ وفات سے چند لمحات قبل بھی آپ نے فرمایا: ”اخیر سانس تک کتب حدیث کا مقابلہ جاری رکھنا، حدیث کی کتابیں ہمارے سامنے سے نہ ہٹانا، آپ نے فرمایا! ”اخیر سانس کی نشانی یہ ہے کہ جب تک ہماری شہادت کی انگلی ذکر کے ساتھ حرکت کرتی رہے اور جب انگلی حرکت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لینا کہ روح پرواز کر گئی ہے، چنانچہ اخیر سانس تک یہی صورت دیکھنے میں آئی کہ شہادت کی انگلی مسلسل حرکت میں تھی، دوسرے کسی عضو میں حس و حرکت اور زندگی کا اثر نہیں رہا تھا، مگر یہی ایک انگلی تھی کہ جو ذکر الہی کے ساتھ اس کی حرکت جاری تھی۔“

آپ کے زہد و تقویٰ، ذکر و فکر، علم و فضل، عشق رسول ﷺ اور اتباع سنت کی بناء پر بے شمار لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں مشغول ہوئے، ایک صوفی منس بزرگ، ولی کامل، تبحر عالم اور بلند پایہ محدث کی حیثیت سے حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کا تقریباً نوے سال کی عمر میں بوقت سحر جمادی الاولیٰ ۱۰۹۷ھ / ۱۷۶۷ء مکہ معظمہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی تاریخ وفات ”قصریہ نجہ“ سے نکلتی ہے، علاوہ ازیں ”شیخ مکہ“ اور ”متابع نبی ﷺ“ سے بھی آپ کی تاریخ وفات نکلتی ہے۔

خواب میں زیارت رسول ﷺ سے شرف یابی اور بشارات نبوی ﷺ:

حضرت شیخ علی متقی کے عظیم مناقب میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ انہیں خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، یہ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب اور جمعہ کی رات تھی۔ اس موقع پر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟

رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ پھر کون سب سے افضل ہے؟ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہندوستان میں محمد بن طاہر۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی رات حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگرد شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوئے، انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا، یہی سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ یہی جواب عنایت فرمایا، بعد ازاں شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ و مربی حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تاکہ ان کے سامنے اس خواب کا ذکر کریں۔ اس موقع پر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا! تم نے بھی وہی خواب دیکھا ہے، جو میں نے دیکھا ہے۔ علامہ شعرانی ”طبقات الکبریٰ“ میں لکھتے ہیں:

شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ خوف خدا رکھنے والے عابد و زاہد علماء میں سے تھے، میں ۹۴۷ھ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ نہایت کمزور اور نحیف بدن کے تھے، بکثرت بھوکا رہنے کے باعث ان کے جسم پر گوشت نظر نہیں آتا تھا، وہ بہت زیادہ خاموش مزاج اور تنہائی پسند تھے، اخیر عمر میں پیرانہ سالی اور کمزوری کے باعث وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے، سوائے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے، جو وہ حرم شریف میں صفوں کے ایک جانب ادا کیا کرتے تھے، پھر نماز کے بعد تیزی سے واپس لوٹ جاتے تھے، میں ان کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ فقراء صادقین کی ایک جماعت کمرے کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ہر ایک یاد الہی میں مشغول تھا، ان میں سے کوئی تلاوت میں مصروف تھا، کوئی ذکر الہی میں بعض ان میں مراقبہ میں مصروف تھے، جبکہ بعض حضرات علم کے مطالعے میں مشغول و منہمک تھے۔ مجھے مکہ معظمہ میں شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ کسی نے متاثر نہیں کیا۔

جلالت شان اور علمی مقام و مرتبہ:

حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی منزلت اور جلالت شان کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بلند پایہ فقہاء و علماء میں سے تھے، اور مکہ معظمہ میں ”شیخ الاسلام“ کے مرتبہ و منصب پر ممتاز تھے، وہ حضرت علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی دور کے اساتذہ میں سے تھے، اس کے باوجود حال یہ تھا کہ اگر انہیں کسی حدیث کے معنی سمجھنے میں توقف و تردد ہوتا تو وہ شیخ متقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی کو بھیج کر دریافت فرماتے تھے کہ آپ نے ”جمع الجوامع“ کی ترویج میں اس حدیث کو کہاں رکھا ہے؟ یعنی یہ حدیث ”جامع الکبیر“ میں کہاں مذکور ہے، کس باب میں ذکر کی گئی ہے؟ تاکہ اس باب سے اس حدیث کے معنی سمجھے جائیں۔ وہ بارہا اپنے آپ کو ان کا حقیقی تلمیذ کہا کرتے تھے، اخیر عمر میں ان کے مرید ہوئے اور خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔

علمائے حریمین کی نظر میں شیخ علی متقی کا مقام:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ”زاد المتقین“ میں رقمطراز ہیں: ”اس دور کے تمام اکابر و مشائخ مکہ حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آتے تھے، وہ آپ کے فضل و کمال کے معترف، عظمت شان و جلالت قدر پر متفق تھے، اس زمانے میں حجاز کے عوام و خواص جس طرح مشائخ سلف کو یاد کرتے تھے، اسی طرح انہیں یاد کرتے اور ان کا نام لیتے تھے۔“

موصوف مزید لکھتے ہیں: ”تصنیف کتب و اشاعت علوم سے قطع نظر، جس کی توفیق و سعادت بعض علمائے ظاہر کو بھی ہوتی ہے مگر ریاضات مجاہدات، کرامات، محاسن اخلاق، قابل تعریف اوصاف، رسوخ اعمال و افعال و استقامت احوال، شریعت کی پیروی، سنت کی اتباع، ظاہری و باطنی آداب کی نگہداشت، ورع و تقویٰ میں کمال احتیاط کے جو واقعات حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں، وہ ان کے حقیقی احوال

اور کمالات باطنی پر سب سے بڑی دلیل ہیں۔

شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت شان اور علمی مقام و مرتبے کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ کے معاصرین اور علمائے متاخرین تمام کے تمام آپ کی عظمت اور بلند مقام کے قائل نظر آتے ہیں۔ علامہ عبدالقادر العیدروی نے ”النور السافر من اخبار القرن العاشر“ اور ابن العماد الحسنبلی نے ”شذرات الذهب“ میں آپ کا ان الفاظ میں تذکرہ کیا ہے؟

”كان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين، على جانب عظيم من الورع والتقوى والاجتهاد ورفض السوي، وله مصنفات عديدة، وذكر واعنه اخبار حميدة رحمة الله تعالى“.

جبکہ علامہ عبدالحیٰ حسینی نے ”زہد الخواطر“ میں شیخ متقی رحمۃ اللہ علیہ کو ”شیخ الامام الکبیر المحدث“ جیسے بلند القاب سے یاد کیا ہے۔ جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”زاد المتقین“ اور ”اخبار الاخیار“ میں آپ کے فضائل و مناقب، محاسن و کمالات، علمی مقام اور جلالت شان کا بہت مفصل بمسوط اور جامع تذکرہ کیا ہے۔

چند مشہور اور نامور تلامذہ:

شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور تلامذہ میں نامور علماء، محدثین، فقہاء اور صوفیائے کرام کے نام نظر آتے ہیں۔ آپ کے حلقہ درس سے مستفید ہونے والوں کی ایک طویل فہرست ہے، جن میں محدث دیار ہند شیخ جمال الدین محمد بن طاہر محدث چنبی رحمۃ اللہ علیہ (۱۵۷۸ھ/۱۱۸۶ء) شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۰۵۲/۱۶۶۲ء) شیخ عبدالوہاب متقی، شیخ رحمت اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

مختلف اسلامی علوم پر گراں قدر تصانیف:

حضرت شیخ علی المتقی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات اور تصانیف کا دائرہ خاصاً وسیع ہے، تفسیر، حدیث اور تصوف ان کے خاص موضوع رہے، موصوف دیار ہند کے کثیر تصانیف علماء میں سے ہیں۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد رسائل اور کتابیں تصنیف کی ہیں، جو ساکان طریقت و طالبان آخرت کے لئے وقت کا بہترین سرمایہ اور درستی احوال کے لئے بہت معاون و مددگار ہیں، ان کی چھوٹی بڑی عربی تصنیفات و تالیفات کی مجموعی تعداد سو سے متجاوز ہے، ان کی سب سے پہلی تصنیف ”رسالہ تمییز الطرق“ اور دوسری ”مجموعہ حکم کبیر“ ہے۔ یہ بہت جامع کتاب ہے، جو کچھ تصوف کی کتابوں میں مذکور ہے اس کا یہ خلاصہ اور آیات و احادیث و اقوال مشائخ کی جامع ہے۔“

حضرت شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں مندرجہ ذیل کتب قابل ذکر ہیں:

- ❖ البرهان الجلی فی معرفة الولی
- ❖ البرهان فی علامات مہدی آخر الزمان
- ❖ الفصول شرح جامع الاصول
- ❖ المواہب العلیة فی جمع الحکم القرآنیة والحديثیة
- ❖ ارشاد العرفان وعبارة الايمان
- ❖ النهج الاثم فی ترتیب الحکم

- ❖ الوسيلة الفاخرة في سلطة الدنيا والآخرة
- ❖ الرق المرقوم في غايات العلوم
- ❖ تلقين الطريق في السلوك لما الهمة الله سبحانه
- ❖ جوامع الكلم في المواعظ والحكم
- ❖ شؤون المنزلات
- ❖ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم
- ❖ غاية العمال في سنن الاقوال
- ❖ كنز العمال في سنن الاقوال والافعال
- ❖ منهج العمال في سنن الاقوال
- ❖ مختصر النهاية
- ❖ نعم المعيار والمقياس لمعرفة مراتب الناس
- ❖ هداية ربي عند فقد المرابي

”کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال“

ایک عظیم علمی کارنامہ:

”کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال“ حضرت شیخ علی متقی رحمہ اللہ کا عظیم علمی اور دینی کارنامہ ہے، احادیث نبوی کے اس مبسوط، جامع اور مقبول و معتمد اول کتاب کو ہر دور میں عظمت و مقبولیت اور شہرت حاصل رہی ہے۔ یہ احادیث نبوی ﷺ کا جامع ترین وہ عظیم مجموعہ ہے جسے شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (۹۱۱ھ/۱۵۰۵ء) کی شہرہ آفاق کتاب ”جمع الجوامع“ جسے ”الجامع الکبیر“ اور ”جامع المسانید“ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، فقہی ابواب پر مرتب کیا، جس کے متعلق حضرت شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے۔

”حق بات یہ ہے کہ اس کتاب پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کیسا کام کیا اور کیا خدمات انجام دی ہیں۔ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سنن و احادیث کے معانی، اس کے ادراک و ترتیب اور الفاظ کے سمجھنے میں انہیں کیسی بصیرت حاصل تھی۔

موصوف مزید لکھتے ہیں: ”بعد ازاں شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک انتخاب کیا، جس میں بیشتر مکررات کو حذف کیا، جس سے وہ نہایت درجہ واضح و صحیح کتاب بن گئی ہے۔“

دسویں صدی ہجری کے مشہور محدث شیخ ابوالحسن بکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم پر احسان ہے، انہوں نے ”جمع الجوامع“ جیسی جامع اور مبسوط کتاب لکھ کر احادیث نبوی ﷺ کے ذخیرے کو یکجا مرتب اور مدون کر کے عظیم خدمت انجام دی۔ جبکہ علامہ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پر احسان ہے کہ انہوں نے ”کنز العمال“ جیسی مقبول و معتمد اول کتاب مدون فرمائی۔

”جمع الجوامع“ کنز العمال کا بنیادی ماخذ و مرجع

”کنز العمال“ کی عظمت و اہمیت جاننے کے لئے اس کے اصل منبع و مصدر ”جمع الجوامع“ کی عظمت و اہمیت سے واقفیت ضروری ہے۔

”جمع الجوامع“ کے مؤلف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نامور مؤلف، بلند پایہ مفسر محدث، فقیہ، ادیب، شاعر، مورخ اور لغوی ہی نہ تھے بلکہ اپنے عہد کے مجدد بھی تھے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نویں صدی ہجری کے بعد سات علوم (۱) تفسیر (۲) حدیث (۳) فقہ (۴) نحو (۵) معانی (۶) بیان (۷) علم بدیع جن میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اجتہاد کا دعویٰ تھا، اسلامی دنیا کی کسی زبان میں ایسی کوئی کتاب نہیں مل سکے گی، جس میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کا حوالہ موجود نہ ہو۔ علامہ موصوف کی شخصیت افادہ علمی، وسعت نظر، کثرت معلومات، کثرت تالیفات اور استحضر علم میں مثالی شخصیت اختیار کر گئی تھی۔

میرے والد گرامی معروف محقق مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی ”مذکرہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ“ میں لکھتے ہیں: ”مشرق و مغرب میں کہیں کسی زبان میں آج کوئی بڑے سے بڑا دانش ور و محقق جو اسلامی علوم، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول، رجال، سیر، نحو و لغت اور اسلامی تاریخ کسی موضوع پر قلم اٹھائے، اسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات سے استفادہ کئے بغیر چارہ نہیں، یہ ان کا ایسا علمی فیضان ہے جو کہ کسی کو نصیب ہوا ہے۔“

کتب حدیث میں ”جمع الجوامع“ کا مقام و مرتبہ

مختلف اسلامی علوم پر ساڑھے پانچ سو سے زائد کتب کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تالیفات میں ”جمع الجوامع“ کو کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے؟ اس کا اندازہ اس امر سے کیا جاسکتا ہے کہ ”جمع الجوامع“ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات میں علمی شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے، موصوف نے اس کے سوا اگر کوئی اور کتاب نہ لکھی ہوئی تو تنہا یہ ایک کتاب ہی ان کی شہرت و بقا اور جلالت علمی کے لئے کافی تھی۔ ”جمع الجوامع“ امت مسلمہ پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔

شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان

خود شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے:

”انی وقفست علی کثیر مصادونہ الائمة من کتب الحدیث، فلم ارفیہا اکثر جمعا ولا اکبر نفعاً من کتاب ”جمع الجوامع“ الذی الفہ الامام العلامة عبد الرحمن جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ سقی اللہ ثراہ وجعل الجنة مثواہ حیث جمع فیہ من الاصول الستة وغیرہا الآتی ذکرہا عند رموز الکتاب وأودع فیہ من الاحادیث الوفا ومن الآثار صنوفا واجادہ مع کثرة الجدوی وحسن الافادۃ“.

ائمہ فہن حدیث نے جو بہت سی کتابیں مدون کی ہیں، ان پر میری نظر ہے، میں نے ان میں سے ”جمع الجوامع“ ہے جسے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس میں صحاح ستہ اور دوسری کتابیں جن کی علامتیں انہوں نے بتائیں ہیں، سب ہی جمع کر دی ہیں، اس میں مختلف اصناف کی ہزار ہا احادیث و آثار یکجا کیے ہیں کتاب کو خوب سے خوب تر اور مفید بنایا ہے۔ اس کتاب کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ سیوطی نے پچاس سے زیادہ حدیث کی کتابوں سے اسے مرتب کیا ہے، اور کوئی موضوع حدیث اس میں نقل نہیں فرمائی۔

”جمع الجوامع“ کی انفرادیت اور عظمت و مقبولیت:

جبکہ حافظ سید عبدالحی کتانی ”فہرس الفہارس والاشبات“ میں لکھتے ہیں

”علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی اہم اور عظیم تالیفات میں سے جو مسلمانوں پر ان کے عظیم احسانات میں سے ہے ان کی کتاب جامع صفیر ہے، اور اس سے زیادہ مبسوط ”جامع کبیر“ ”جمع الجوامع“ ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث نبویہ ﷺ کو حذف و محکم پر مرتب کیا ہے اور یہی دونوں وہ واحد و محکم ہیں جو آج مسلمانوں میں متداول اور رواج پذیر ہیں۔

جن سے وہ نبی اکرم ﷺ کے فرامین کو پہچانتے ہیں۔ ان کی تخریج کرنے والوں کو جانتے، احادیث کے مرتبہ و مقام کافی الجملہ علم حاصل کرتے ہیں۔

علامہ شیخ صالح العثیملی نے اپنی کتاب ”اعلم الشارح“ میں اظہار حیرت کے بعد لکھا ہے کہ کوئی بھی محدث رسول اللہ ﷺ کی تمام احادیث یکجا جمع کرنے کے درپے نہیں ہوا، یہ سعادت شاید اللہ تعالیٰ نے بعض متاخرین علماء کے لیے مقدر فرمائی تھی، اس نے یہ اعزاز و شرف علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کو بخشا۔ اور انہی کو اس کا اہل بنا یا، اس اہم کام میں ان کا کوئی سہم و شریک قریب دکھائی نہیں دیتا۔ جیسا کہ علامہ سیوطی اپنی کتاب ”جمع الجوامع“ میں نمایاں نظر آتے ہیں۔

جمع الجوامع کی وجہ تسمیہ اور سال تالیف:

”کنز العمال کا بنیادی ماخذ ”جمع الجوامع“ حدیث کی مبسوط کتابوں کی جامع ہے، اس لیے یہ ”جمع الجوامع“ اور ”جامع کبیر“ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ بعض قرآن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تالیف کا آغاز ۹۰۴ھ میں اور اختتام ۹۱۱ھ تک ہوا جو علامہ سیوطی کا سن وفات ہے، اس کی ترتیب و تدوین کا کام جاری رہا۔

”جمع الجوامع“ دو حصوں میں منقسم ہے، پہلے حصے میں قولی حدیثوں کو جمع کیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں احادیث فعلی و غیرہ کا بیان ہے، علامہ سیوطی آغاز مقدمہ میں رقمطراز ہیں:

”جمع الجوامع کی قولی حدیثوں کا حصہ جن میں ہر حدیث کے اول لفظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے احادیث کو نقل کیا گیا ہے کام پایہ تکمیل کو پہنچا تو میں نے باقی حدیثوں کو جو اس شرط سے خالی تھیں یا قولی و نقلی دونوں کی جامع تھیں، یا سب مراجعت وغیرہ پر مشتمل تھیں، انہیں جمع کرنا شروع کیا تاکہ یہ کتاب تمام موجود حدیثوں کی جامع بن جائے۔

احادیث نبوی ﷺ کا گراں قدر مجموعہ:

اس کتاب میں حافظ سیوطی نے تمام احادیث نبوی ﷺ کے حصروا استیعاب کا ارادہ کیا ہے، موصوف فرماتے ہیں:

”قصدت فی جمع الجوامع الاحادیث النبویة باسرها“

میرا ارادہ تمام احادیث نبویہ کو ”جمع الجوامع“ میں جمع کرنا ہے۔ شیخ عبدالقادر شاذلی رحمہ اللہ المتوفی ۹۳۵ھ دیباچہ ”الجامع“ میں علامہ سیوطی سے روایت کرتے ہیں:

يقول اكثر ما يوجد على وجه الارض من الاحاديث النبوية القولية والفعلية ما تالف حديث ونيف

فجمع المصنف منها مائة ألف حديث في هذا الكتاب يعني ”الجامع الكبير“.

موصوف فرماتے ہیں: روئے زمین پر زیادہ سے زیادہ جو قولی اور فعلی حدیثیں پائی جاتی ہیں، وہ دو لاکھ سے متجاوز ہیں، علامہ سیوطی نے ان

میں سے ایک لاکھ حدیثیں اس کتاب یعنی ”جامع کبیر“ (جمع الجوامع) میں جمع کی ہیں۔

کنز العمال کی عظمت و اہمیت:

”جمع الجوامع“ کی عظمت و اہمیت اور جامعیت و افادیت اپنی جگہ مسلم ہے تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی ترتیب ہرگز ایسی نتھی جس سے ہر خاص و عام کو پورا پورا فائدہ ہو سکتا، اس سے وہی حضرات مستفید ہو سکتے تھے اور ہو سکتے ہیں جنہیں متعلقہ حدیث کے راوی کا نام معلوم ہو، یا حدیث کا ابتدائی جزء یاد ہو، اس کے برعکس جنہیں ان باتوں کا علم نہیں، وہ مباحثہ کتاب کے استفادے سے قاصر ہیں۔ اس امر کا مباحثہ احساس ان کے معاصر عارف ہندی و مندرحم شیخ علی المتقی کو ہوا، چنانچہ انہوں نے ”جمع الجوامع“ کو ابواب فقہ پر مرتب کیا۔

کنز العمال کی فقہی اسلوب میں تبویب و تدوین:

شیخ علی المتقی ”کنز العمال“ کی فقہی انداز میں تبویب و تدوین کا سبب بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”لکن عاریا عن فوائد جلیلة (منہا) ان من اراد ان یکشف منہ حدیثا وهو عالم بمفہومہ لایمکنہ الا ان یحفظ رأس الحدیث ان کانا قولیا اور اسم راویہ ان کان فعلیا ومن لایکون کذلک تعسر علیہ ذلک۔

ومنہا ان من اراد ان یحفظ ویطلع علی جمیع احادیث البیع مثلا واحادیث الصلوٰۃ او الزکوٰۃ او غیرہا، لم یمکنہ ذلک ایضا، الا اذا قلب جمیع الکتاب ورقۃ ورقۃ وهذا ایضا عسیر جدا۔

لیکن (جمع الجوامع) انہم نوآندے سے خالی تھی، مجملہ ان کے یہ کہ جو کسی حدیث کے مفہوم سے واقف ہو اور وہ اسے تلاش کرنے کا خواہشمند ہو تو اس کے لیے اس متعلقہ حدیث کا نکالنا ممکن نہیں، ہاں اگر اسے اس حدیث قولی کا وہ کلمہ جس کی اسے تلاش ہے، یاد ہو، یا راوی کا نام اگر وہ حدیث فعلی ہے، تو پھر اس کی تلاش مشکل نہیں۔ اور جسے یاد نہ ہو اس کے لیے تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔

انہی نوآندے میں سے یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ خرید و فروخت، نماز یا زکوٰۃ وغیرہ کی تمام احادیث کا احاطہ کرے اور وہ ان سے واقف ہو تو اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں، مگر اس صورت میں کہ وہ (بالاستیعاب) پوری کتاب اور مکمل جلدوں کی ورق گردانی کرے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مذکورہ بالا اسباب کی بناء پر شیخ علی متقی نے ”جمع الجوامع“ کے پہلے حصے ”جامع صغیر“ کو ابواب فقہ پر مرتب کیا، اور اس کا نام ”منج العمال فی سنن الاقوال“ رکھا۔

بعد ازاں علی متقی ہندی نے زوائد جامع صغیر کو ابواب فقہ پر ترتیب دیا اور اس کا نام ”الاکمال لمنج العمال فی سنن الاقوال“ رکھا۔

پھر ان دونوں کو یکجا کر کے ”غایۃ العمال فی سنن الاقوال“ سے موسوم کیا۔ اور جب مولف موصوف نے کتاب کا ایک حصہ مکمل کر لیا تو ”جمع الجوامع“ کا دوسرا حصہ جو فعلی احادیث پر مشتمل تھا مرتب کیا، اور پوری کتاب کے ابواب کو ”جامع الاصول“ کی ترتیب کے مطابق حروف تہجی پر ترتیب دے کر اس کا نام ”کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال“ رکھا۔ اور ۹۵ھ میں گویا پوری کتاب ”جمع الجوامع“ کو ابواب فقہ پر مرتب کر کے اس سے استفادہ آسان کر دیا۔

عالم اسلام میں کنز العمال کی شہرت و مقبولیت:

شیخ علی متقی رحمہ اللہ کے اس کام اور عظیم خدمت کی بناء پر احادیث نبوی کے اس مبسوط، انتہائی اہم اور جامع ترین مجموعہ حدیث کو جسے ”کنز العمال“ کے نام سے جانا جاتا ہے، امت میں بے پناہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہے، احادیث نبوی اور مدون کی گئی کتب میں اسے بے پناہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ کتب حدیث میں اس کی عظمت و اہمیت اور افادیت ہر سطح پر مسلم ہے، کتب حدیث میں حضرت شیخ علی متقی کے خلوص دینی

جذبے اور اس عظیم کام کی اہمیت نے اس کی شہرت اور مقبولیت کو چار چاند لگائے۔ متعدد ضخیم جلدوں پر مشتمل اس عظیم کتاب کو ذخیرہ حدیث میں جو مقام حاصل ہے، وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔

”کنز العمال“ اسلامی دنیا سے متعدد بار شائع ہو چکی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ مجلس دارۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن سے ۱۳۱۲ھ میں آٹھ ضخیم جلدوں میں مولانا وحید الزمان حیدرآبادی کی تصحیح سے شائع کی گئی تھی۔

۱۳۸۲ھ/۱۹۶۲ء میں مطبع مجلس دارۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن سے دوبارہ شائع ہوئی۔ بعد ازاں مؤسسۃ الرسالہ بیروت سے شیخ بکر حیاتی اور صفوۃ السقا کی تحقیق سے ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء میں ۱۶ ضخیم جلدوں میں شائع کی گئی۔ اس کے بعد کئی دیگر اداروں سے شائع ہو چکی ہے۔ اس سے متعلق تفصیل عبدالجبار عبدالرحمن کی کتاب ذخائر التراث العربی مطبوعہ جامعۃ البصرہ عراق اور مستشرق یوسف الیان سرکیس کی کتاب ”مجموع المطبوعات العربیہ والمغربیہ“ (مطبوعہ قاہرہ) میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

ندیم مرعشی اور اسامہ مرعشی نے ”کنز العمال“ کا انڈیکس ”المرشد الی کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال کے نام سے دو ضخیم جلدوں میں تیار کیا تھا، جسے مؤسسۃ الرسالہ بیروت نے شائع کیا۔

کنز العمال کے اردو ترجمے کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی رہی، صحاح ستہ اور احادیث نبوی کی بعض دیگر اہم کتب نہ صرف اردو بلکہ دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمے کے بعد شائع ہو چکی ہیں، کنز العمال جیسی ضخیم اور کئی جلدوں پر مشتمل اس کتاب کو اردو کے قالب میں ڈھالنا، ترجمے کی تمام رعایتوں کو ملحوظ رکھنا اور اسے اعلیٰ معیار اور دیدہ زیب انداز میں شائع کرنا جس کی بدولت اس کی افادیت مزید عام ہو سکے بلاشبہ ایک عظیم علمی اور دینی خدمت ہے، میری معلومات کے مطابق ”کنز العمال“ کا ہتمام و کمال اور کئی ضخیم جلدوں پر مشتمل اس عظیم ذخیرہ حدیث کا ترجمہ نہ صرف اردو بلکہ دنیا کی تمام عالمی زبانوں میں ہونا چاہئے اولین ترجمہ اس حوالے سے ملک کے معروف علمی و اشاعتی ادارے ”دارالاشاعت“ کے مدیر محترم خلیل اشرف عثمانی لائق مبارکباد ہیں کہ انہوں نے یہ عظیم خدمت انجام دی۔ بارگاہ رب العزت میں دعاء ہے کہ اللہ عزوجل ”جمع الجوامع“ کے مولف علامہ جلال الدین سیوطی (جن کی کتاب کنز العمال کا بنیادی مرجع و ماخذ ہے) مولف کتاب شیخ علی امتقی الھندی، مترجم، ناشر اور خود اس راقم الحروف کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی شفاعت کا وسیلہ بنائے۔ ”کنز العمال کی شہرت و مقبولیت اور عظمت و افادیت کو مزید عام فرمائے۔ (آمین)

مولانا ڈاکٹر حافظ محمد ثانی، کراچی

۸ رجب المرجب ۱۴۳۰ھ

کتاب ایمان و اسلام..... الاقوال

کتاب اول..... ایمان و اسلام کے متعلق

اس میں تین ابواب ہیں۔

پہلا باب..... ایمان و اسلام کی حقیقی اور مجازی تعریف کے بیان

یہ باب چھ فصلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی فصل ایمان کی حقیقت کے بارے میں ہے۔

فصل اول..... ایمان کی حقیقت

- ۱ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، جنت، جہنم اور میزان پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ شعب الایمان للبیہقی بروایت عمر رضی اللہ عنہ
- ۲ ایمان یہ ہے کہ دل میں معرفت رکھو، زبان سے اقرار کرو اور اعضاء سے عمل، بحالہ۔ طبرانی بروایت علی رضی اللہ عنہ
کلام:..... روایت ضعیف ہے۔ دیکھئے..... التعقیبات ۲، السنن ۱۵۱، التلکیت والافادہ ۱۵، الجامع المصنف ۲۹، ج۲ المرتاب ۲۵۔
- ۳ اللہ عزوجل پر ایمان لانا زبان سے اقرار کرنے، دل سے یقین رکھنے اور اعضاء سے عمل بحالہ کا نام ہے۔
اللقاب للشیبازی، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا
- ۴ دل اور زبان سے ایمان حاصل ہوتا ہے اور جان و مال سے ہجرت۔ الاربعین لعبد الخالق بن زاهر الشحابی بروایت عمر رضی اللہ عنہ
تشریح:..... یعنی ایمان دل کی تصدیق اور زبان کے ساتھ شہادتین کے اقرار سے حاصل ہوتا ہے۔ اور دیار کفر سے دیار اسلام کی طرف ہجرت جان اور مال کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔
- ۵ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس سے ملاقات پر، اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ۔ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مسند احمد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

چار باتوں کا حکم اور چار سے ممانعت

- ۶ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں، میں تمہیں حکم کرتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کا۔ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ عزوجل پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا۔ اور تمہیں حکم کرتا ہوں نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا، اور جہاد میں حاصل کردہ مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنے کا۔ اور تمہیں منع کرتا ہوں شراب کے لئے بنائے گئے ان چار برتنوں کو استعمال کرنے سے کدو کے برتن سے، کھجور کی جڑ کے

بنائے ہوئے برتن سے، ہنر رنگ کے گھڑے سے، تارکول کے ساتھ لمب سازی کئے ہوئے برتن سے، ان باتوں کو ذہن نشین کر لو اور اپنے آس

پاس لوگوں کو بھی خبردار کر دو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی نسائی، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

فائدہ: آپ ﷺ نے چار امور کے متعلق حکم کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن پھر پانچ شمار کروائے اس کے جواب میں شارح بخاری علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: چونکہ مخاطبین وفد عبدالقیس تھے، جن کی کفار مضر سے جنگ چھڑی رہتی تھی۔ جس کی وجہ سے آپ ﷺ نے بطور زائد فائدہ کے اداء خمس کا حکم بھی فرمادیا۔ اور ان کی آمد کب ہوئی؟ اس کے متعلق قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وفد عبدالقیس فتح مکہ کے سال آپ ﷺ کے مکہ کی طرف کوچ فرمانے سے قبل آپ کی خدمت میں بغرض تعلیم اسلام حاضر ہوا تھا۔ اور ان کی تعداد کل چودہ تھی، جن کے اسماء گرامی کے لئے رجوع کیجئے۔ الدبیاج لعبدالرحمن السیوطی: ج ۱ ص ۲۲

السدباء..... عرب خشک کدو کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس میں شراب بناتے تھے جس سے شراب اچھی بنتی تھی، اسی کا نام حدیث میں الدباء استعمال کیا گیا ہے۔

النقییر..... اور کھجور کے تنے کی جڑ کو کھوکھلا کر کے اس میں بھی شراب سازی کرتے تھے۔ اس کا نام حدیث میں النقییر استعمال کیا گیا ہے۔ اور بقیہ دو قسم کے برتنوں پر ہنر یا سرخ رنگ یا تارکول کی لمب سازی کر کے ان میں شراب سازی کرتے تھے۔ اور درحقیقت یہ حکم شراب سے انتہائی درجہ احتیاط برتنے کے لئے دیا تھا۔ کیونکہ حرمت شراب کا حکم تازہ تازہ نازل ہوا تھا۔ کہ کہیں ان برتنوں سے دوبارہ شراب کی طرف دھیان نہ جائے۔ اسی وجہ سے جب عام مسلمانوں کے دلوں میں شراب کی نفرت اچھی طرح جاگزیں ہو گئی تو آپ ﷺ نے ان برتنوں کے استعمال کی عام اجازت مرحمت فرمادی۔ اب جمہور علماء ان برتنوں کی ممانعت کی تشبیح کے قائل ہیں۔

۷..... میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار باتوں سے منع کرتا ہوں، اللہ عزوجل کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اموال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرو۔ اور تمہیں منع کرتا ہوں شراب کے لئے بنائے گئے آن چار برتنوں کو استعمال کرنے سے کدو کے برتن سے، ہنر رنگ کے گھڑے سے، تارکول کے ساتھ لمب سازی کیے ہوئے برتن سے، کھجور کی جڑ کے بنائے ہوئے برتن سے۔ مسند احمد، مسلم، بروایت ابو سعید

۸..... آدمی کے ایمان کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ یہ کہے: میں اللہ عزوجل کے رب ہوں، اسلام کے دین ہوں اور محمد ﷺ کے رسول ہوں پر راضی ہوں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

لذت ایمان نصیب ہونا

۹..... جو شخص اللہ عزوجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہوا، یقیناً اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔

۱۰..... جس شخص نے تین کام انجام دے لئے، یقیناً اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ محض ایک اللہ عزوجل کی عبادت کی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، دل کی خوشی کے ساتھ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ بوڑھا جانور دیا، نہ بے وقعت۔ مریضہ نہ بے مصرف۔ بلکہ اپنے اوسط درجہ کا مال دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بہترین مال کا سوال کرتا، اور نہ رزقی مال کا حکم کرتا، اور نہ تمہیں اپنے نفسوں کی بڑائی جتانے کا حکم کرتا، کیونکہ ابو داؤد بروایت عبداللہ بن معاویہ الغامری الہرمہ..... ایسی بوڑھی اونٹنی کو کہتے ہیں: جس کے دانت گر چکے ہوں اور اس کا لعاب منہ میں نہ ٹھہرتا ہو۔

اللذینہ..... گھٹیا مال کو کہتے ہیں۔ اصل لفظ اللذینہ ہی ہے۔ معام احادیث کی کتب میں اسی طرح مذکور ہے جبکہ بعض کتب میں الرذینہ لفظ ہے الشرط اللذیمہ ایسے بے کارو بے مصرف جانور کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ چھوٹا ہو یا بہت بڑا۔ بکری کے انتہائی کمسن بچوں کو بھی کہتے ہیں۔

۱۱ ایمان تمنا اور تزکین سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایمان تو وہ ہے جو دل میں راسخ ہو جائے۔ اور عمل اس کی تصدیق کرنے لگ جائے۔

ابن النجار، الفردوس للددلمی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید بروایت انس رضی اللہ عنہ

حدیث میں تمنا اور تزکین سے مراد محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنا مراد ہے۔ کیونکہ تمنا قرآن کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ جیسے فرمان باری ہے اِذَا تَمَنَّى اِنْ لَّيْتَنِي حَبَّ اَبٍ قُرْآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ سو حدیث بالا میں دل کی گہرائی میں ایمان کو راسخ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ لیکن حدیث ضعیف ہے۔

۱۲ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی اور کوئی بندہ ایمان کی حقیقت اس وقت تک نہیں پاسکتا، جب تک کہ یہ بات اچھی طرح نہ جان لے، کہ جو مصیبت اس کو پہنچی ہے وہ ہرگز چوک کرنے والی نہ تھی اور جو نہ پہنچی وہ ہرگز پہنچنے والی نہ تھی۔

مسند احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ

الاکمال

۱۳ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل، اس کے فرشتوں، اس کی کتاب اور اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ، اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔

النسائی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابوذر رضی اللہ عنہ

۱۴ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، موت پر، موت کے بعد زندہ کئے جانے پر ایمان لاؤ اور جنت، جہنم اور حساب و میزان پر ایمان لاؤ۔ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پس جب تم نے یہ کام انجام دے دیا تو یقیناً ایمان لا چکے۔

مسند احمد، بروایت ابو عامر رضی اللہ عنہ و ابو مالک رضی اللہ عنہ، النسائی، بروایت انس رضی اللہ عنہ، ابن عساکر، بروایت

عبدالرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ

۱۵ جس شخص میں چار باتیں ہوں گی، یقیناً مومن ہوگا۔ اور جو شخص تین باتوں پر ایمان لایا اور ایک کو چھوڑ دیا، بلاشبہ وہ کافر ہوگا۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد ﷺ اللہ کا رسول ہوں اور یہ کہ مرنے کے بعد اس کو ضرور اٹھایا جائے گا اور اچھی بری تقدیر پر بھی

ایمان لائے۔ تمام، سمویہ، ابن عساکر، بروایت ابو سعید

۱۶ چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر ایمان لائے بغیر آدمی ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔

۱ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں۔

۲ میں اللہ کا رسول ہوں، جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔

۳ یہ کہ اس کو ضرور مرنا ہے، پھر مرنے کے بعد ضرور اٹھایا جائے گا۔

۴ اور ہر طرح کی تقدیر پر ایمان رکھے۔ ابن عساکر بروایت علی رضی اللہ عنہ

کونسا اسلام افضل ہے؟

۱۷ اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اسلام لے آئے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ کی ایذا سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ سے پوچھا گیا! کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا! ایمان، دریافت کیا گیا! ایمان کیا ہے؟ فرمایا! ایمان یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ۔ دریافت کیا گیا! کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا! ہجرت۔ دریافت کیا گیا! ہجرت کیا ہے؟ فرمایا! تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ دریافت کیا گیا! کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا! جہاد۔ دریافت کیا گیا! جہاد کیا ہے؟ فرمایا! جہاد یہ ہے کہ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، تم ان سے قتال کرو۔ دریافت کیا گیا! کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا! جس جہاد میں مجاہد کا گھوڑا زخمی

ہو جائے اور اس کا خون بہہ جائے۔ پھر ان کے بعد عمل سب سے افضل ہیں۔ لایہ کہ کوئی انہی جیسا عمل کرے، مقبول حج یا عمرہ۔

مسند احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت عمرو بن عبسہ، رجالہ ثقات

۱۸ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت

اللہ کا حج کرو اگر اس کے سفر کی وسعت ہو۔ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۱۹ اسلام ظاہر میں ہوتا ہے اور ایمان دل میں۔ ابن ابی شیبہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰ مثل راستہ کی علامات کے اسلام کی علامات اور سر اور دیگر اعضا بھی ہیں اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد ﷺ اللہ

عز وجل کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور تمام روزے رکھنا۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر

۲۱ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان

کے روزے رکھنا۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۲۲ اس دین کی اصل اسلام ہے اور جو اسلام لے آیا، اس کی جان و مال محفوظ ہو گئے۔ اور اس دین کا ستون نماز ہے۔ اور اس کی سر بلندی جہاد

ہے، اس کو نہیں پاسکتا مگر افضل ترین آدمی۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۳ اسلام ہر عیب سے پاک ہے۔ اور دین کی تین بنیادیں ہیں، جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس نے ان میں سے ایک کو بھی ترک کیا وہ

کافر ہے۔ اس کا خون حلال ہے۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت، فرض نماز، رمضان کے روزے۔ مسند ابویعلیٰ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

مسند ابویعلیٰ میں حضرت ابن عباس کی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد حضرت ابن عباس کا یہ فرمان منقول ہے کہ بقیہ دو فریضے زکوٰۃ اور حج اگر

وسعت نال کے باوجود ادا نہ کرے تو وہ بھی کافر ہے، مگر اس کا خون حلال نہیں۔ اور یہی روایت الطبرانی فی الکبیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ

عنه سے مروی ہے جس میں اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قرار دی گئی ہے۔ مگر اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا موقوف قول مروی نہیں ہے۔

۲۴ اے عدی ابن حاتم! اسلام لے آنا مومن ہو جائیگا۔ شہادت دے اس بات کی کہ اللہ عز وجل کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول

ہوں۔ اور ہر تقدیر پر، خواہ اچھی ہو یا بری، پسندیدہ ہو یا کڑوی، سلی، ایمان لے آ۔ ابن ماجہ، بروایت عدی ابن حاتم

۲۵ اسلام نام ہے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، بیت اللہ کا حج کرنے، رمضان کے روزے رکھنے اور جنابت سے غسل کرنے کا۔

ابو داؤد بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۲۶ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ عز وجل کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، فریضہ زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے

رکھو۔ بیت اللہ کا حج کرو۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی ذر رضی اللہ عنہ

الاکمال

۲۷ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت، نماز اور رمضان کے روزے۔ جس شخص نے ان میں سے ایک کو بھی ترک کر دیا

وہ کافر ہے۔ اس کا خون حلال ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۸ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان

کے روزے رکھنا۔ اور جہاد اور صدقہ، عمل صالح ہیں۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۲۹ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا الہ الا اللہ کی شہادت، اور اس بات کی شہادت کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں

اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور جہاد اور صدقہ عمل صالح ہیں۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۰۔ اسلام کی بنیاد اس چیز پر رکھی گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی جائے اور جو کچھ آپ ﷺ اللہ کے پاس سے لائے ہیں، اس کا اقرار کیا جائے اور اس بات کا اقرار بھی کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے، جہاد جاری ہے اور جب تک کہ مسلمانوں کی آخری جماعت آئے وہ بھی دجال سے قتال کرے گی۔ ان کو اپنے مقصد سے کسی ظالم کا ظلم ہٹا سکے گا نہ کسی عادل کا عدل۔ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے۔ پس ان کی، کسی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہ کرنا۔ نہ ہی ان پر شرک کا حکم عائد کرنا۔ اور اسلام کی بنیاد تقدیر پر رکھی ہے،

کہ خواہ اچھی ہو یا بری، اس کے من جانب اللہ ہونے پر یقین رکھا جائے۔ ابن التجار، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
۳۱۔ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا: اے محمد! اسلام کے دس حصے ہیں۔ اور خائب و خاسر ہو وہ شخص، جس کے پاس کوئی حصہ نہیں۔

پہلا! لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔

دوسرا! نماز ہے، اور وہ پاکیزگی ہے۔

تیسرا! زکوٰۃ ہے اور وہ فطرت ہے۔

چوتھا! روزہ ہے، اور وہ جہنم سے ڈھال ہے۔

پانچواں! حج ہے۔ اور وہ شریعت ہے۔

چھٹا! جہاد ہے، اور وہ غزوہ ہے۔

ساتواں! امر بالمعروف ہے، اور وہ وفاداری ہے۔

آٹھواں! نہی عن المنکر ہے، اور وہ حجت ہے۔

نواں! جماعت ہے، اور وہ الفت ہے۔

دسواں! اطاعت ہے، اور وہ حفاظت ہے۔

فوائد ابو نعیم محمد بن احمد العجلی۔ تاریخ قزوین للرافعی من طریق اسحاق الدبری عن عبدالرزاق عن معمر عن قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ

۳۲۔ اسلام کے آٹھ حصے ہیں۔ اسلام ایک حصہ ہے۔ نماز ایک حصہ ہے۔ زکوٰۃ ایک حصہ ہے۔ بیت اللہ کا حج ایک حصہ ہے۔ جہاد ایک حصہ ہے۔ رمضان کے روزے ایک حصہ ہیں۔ امر بالمعروف ایک حصہ ہے۔ نہی عن المنکر ایک حصہ ہے۔ اور خائب و خاسر ہو وہ شخص، جس کے پاس کوئی حصہ نہیں۔

النسائی، بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حسنہ المسند لابی یعلیٰ، الدارقطنی فی الافراد۔ الرافعی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۳۳۔ اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں اسلام میں فرض فرمائی ہیں، اگر کوئی صرف تین بجالائے تب بھی وہ اس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکیں گے۔ حتیٰ کہ تمام پر پیر عمل ہو۔! نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔

الکبیر للطبرانی بروایت عمارة بن حزم و حسنہ، مسند احمد و البغوی بروایت زیاد بن نعیم

۳۴۔ مثل راستہ کی علامات کے اسلام کی علامات ہیں۔ انہیں میں سے ہے! اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، بنی آدم کو سلام کرنا، اگر انہوں نے سلام کا جواب دیدیا تو فرشتے تم پر اور ان پر رحمت بھیجیں گے اور اگر انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا تو فرشتے تم پر رحمت بھیجیں گے اور ان پر لعنت، یا ان کے لئے خاموش رہیں گے۔ اور جب گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو بھی سلام کرو۔ اور جس سے کوئی ایک چیز کم ہوگی۔ یقیناً

اسلام کے حصوں میں سے ایک حصہ اس سے چھوٹ گیا۔ اور جس نے تمام کو چھوڑ دیا، بلاشبہ اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔

۳۵ عمل الیوم واللیلۃ لابن السنّی الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ میں تمہارے پاس خیر کے سوا کچھ نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ لات اور عزری بتوں کو چھوڑ دو۔ دن اور رات میں پانچ نمازیں پڑھو۔ سال بھر میں ایک ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ بیت اللہ کا حج کرو۔ اپنے مالداروں سے اموال صدقات و زکوٰۃ وصول کرو اور اپنے فقراء کو دو۔ مسند احمد بروایت، رجل من بنی عامر۔

۳۶ اے عدی بن حاتم! اسلام لے آؤ، اچھی ہو یا بری، پسندیدہ ہو یا ناپسند۔ ابن ماجہ بروایت ابن عدی دو۔ اور تقدیر پر ایمان لے آؤ، اچھی ہو یا بری، پسندیدہ ہو یا ناپسند۔ ابن ماجہ بروایت ابن عدی

عدی بن حاتم کے اسلام کا قصہ

۳۷ اے عدی بن حاتم! اسلام لے آؤ، اچھی ہو یا بری، پسندیدہ ہو یا ناپسند۔ اے عدی بن حاتم! قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ کسریٰ اور قیصر کے خزانے فتح ہوں۔ اے عدی بن حاتم! ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت حیرہ سے تنہا چل کر اس بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ اے عدی بن حاتم! قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ کوئی شخص مال سے بھرا تھیلا اٹھائے آئے گا اور کعبہ کا طواف کرے گا، مگر کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو اس مال کو قبول کرے۔ آخر کار وہ شخص اس تھیلا کو زمین پر راتا ہوا پا کرے گا! کاش! تو نہ ہوتا۔ کاش! تو مٹی ہوتا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الخطیب، ابن عساکر، بروایت عدی ابن حاتم

حدیث کا پس منظر

یہ عدی بن حاتم شروع میں اسلام سے سخت بیزار تھے، خود فرماتے ہیں: جب تک میں اسلام سے بہرہ مند نہ ہوا تھا آپ ﷺ کی ذات گرامی سے متعلق میرے اندر سب سے زیادہ بغض بھرا ہوا تھا۔ پھر جب حضور نے ایک لشکر ہماری طرف روانہ فرمایا تو میں وہاں سے فرار ہو کر سرزمین شام چلا گیا۔ وہاں بھی یہ اطلاع موصول ہوئی کہ خالد بن ولید ہماری طرف متوجہ ہونے کو ہیں، تو میں وہاں سے فرار ہو کر سرزمین روم کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ سچے سچے کہ اسلام سے اپنا دامن بچائے پھر رہے تھے۔ مگر ہدایت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ لہذا فرماتے ہیں میں سرزمین روم میں تھا کہ میری پھوپھی میری تلاش میں وہاں پہنچ گئیں۔ اور اپنی داستان سرائی کرتے ہوئے کہا اے عدی بن حاتم تم ہمیں چھوڑ کر یہاں پہنچ گئے اور ہم پر خالد بن ولید نے لشکر کشی کی اور ہم کو قیدی بنا کر حضور کی خدمت میں پہنچا دیا آپ ﷺ کا میرے پاس سے گزر ہوا تو میں نے عرض کیا اے محمد! میرے والد ہلاک ہو گئے اور میرے حسن مجھے چھوڑ گئے ہیں مجھے تو آزادی بخش دیجئے (آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے محسن کون ہیں؟ میں نے عرض کیا: عدی بن حاتم) آپ ﷺ نے فرمایا وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے اور مزید کوئی گفتگو نہ فرمائی تین یوم تک یہی مکالمہ رہا پھر آپ کے پاس کچھ مال پہنچا تو آپ نے مجھے یہ سواری جس پر میں سوار ہوں عنایت کی اور میں تمہارے پاس چل آئی۔ لہذا اے عدی بن حاتم تم محمد کے پاس چلو اور اسلام سے اپنے حصہ کا دامن بھرو۔ کہیں تمہاری قوم کا کوئی فرد اس نعمت کے حصول میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ آخر میں ان کے اصرار پر لوٹ آیا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو لوگوں میں غلغلہ مچ گیا کہ عدی بن حاتم آ گئے (عدی بن حاتم آ گئے) میں حضور کی خدمت میں پہنچا آپ نے فرمایا: اے عدی بن حاتم تم اللہ اور اس کے رسول سے کیوں بھاگے پھر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا میں اپنے دین کو لئے پھر رہا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے دین کو جانتا ہوں تم اسلام سے محض اس لئے اعراض کر رہے ہو کہ اسلام کے نام لیوا کس پیرسی اور غربت حالی کا شکار ہیں۔ یاد رکھو ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ اے عدی بن حاتم! قیامت قائم نہیں ہو سکتی (حتیٰ کہ

کسری اور قیصر کے خزانے فتح ہوں۔ اے عدی بن حاتم ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت حیرہ سے تنہا چل کر اس بیت اللہ کا طواف کرے گی (اے عدی بن حاتم! قیامت قائم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ کوئی شخص مال سے بھرا تھیلا اٹھائے آئے گا اور کعبہ کا طواف کرے گا، مگر کوئی ایسا شخص نہ ملے گا جو اس مال کو قبول کرے۔ آخر کار وہ شخص اس تھیلے کو زمین پر مارتا ہوا پکارے گا! کاش! (تو نہ ہوتا) کاش! تو مٹی ہوتا۔

آخر اللہ نے اپنے پیغمبر کے فرمان کو سچ کر دکھایا اور جس اسلامی لشکر نے کسری کے خزانے پر غارت گری کی میں بذات خود اس میں لشکر میں شریک تھا اور میں نے ایسی عورت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جس نے حیرہ کے دور دراز مقام سے تنہا چل کر بغیر کسی خوف و خطر کے کعبہ کا طواف کیا۔ اور خدا کی قسم آپ ﷺ کی تیسری بات بھی روز روشن کی صادق ہوگی اور ضرور مسلمانوں پر کشادگی کا ایسا وقت آئے گا کہ کوئی مال کو قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ خلاصہ از المعجم الاوسط ج ۶ ص ۳۶۰

۳۸ اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو، اگر اس تک جانے کی وسعت ہو۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی ابن ماجہ بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۳۹ اسلام یہ ہے کہ تم اپنی ذات اللہ عزوجل کے سپرد کرو۔ اور شہادت دو کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور محمد ﷺ اللہ عزوجل کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اور بیت اللہ کا حج کرو، اگر اس تک جانے کی وسعت ہو۔ اگر تم نے یہ کام سر انجام دے لئے تو تم مسلمان ہو گئے۔ مسند احمد، نسائی بروایت ابن عباس رضی اللہ

عنه مسند احمد، بروایت ابو عامر و ابو مالک رضی اللہ عنہما نسائی، بروایت انس رضی اللہ عنہ ابن عباس کبریٰ و ابی عبد الرحمن بن غنم
۴۰ اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ بیت اللہ کا حج و عمرہ کرو۔ جنابت سے غسل کرو۔ وضو کا عمل طریقے سے کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ ابن حبان، بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۴۱ اسلام شہادت ہے اس بات کی کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ عزوجل کا رسول ہوں، اور یہ کہ تم اچھی بری تمام تقدیروں پر ایمان لاؤ۔ نسائی بروایت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ

۴۲ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، حج ادا کرو، امر بالمعروف، نہی عن المنکر بحالاً و اور اپنے گھروالوں کو سلام کرو۔ جس نے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا، اس نے اسلام کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ اور جس نے سب کو چھوڑ دیا۔ اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ ابن ماجہ، مستدرک، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

اسلام کے دس حصے ہیں

۴۳ اسلام کے دس حصے ہیں۔ اور نامراد ہوا وہ شخص جس کے پاس کوئی حصہ نہیں۔

پہلا لا الہ الا اللہ کی شہادت، اور یہ ملت ہے۔

دوسرا نماز اور یہ فطرت ہے۔ برطابق منتخب کنز العمال خزانہ ہے۔

تیسرا زکوٰۃ ہے، اور وہ مال کی پاکیزگی ہے۔

چوتھا روزہ ہے، اور وہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔

پانچواں حج ہے، اور وہ شریعت ہے۔

چھٹا جہاد ہے، اور وہ غزوہ ہے۔

ساتواں امر بالمعروف ہے، اور وہ وفاداری ہے۔

آٹھواں نہی عن المنکر ہے، اور وہ حجت ہے۔

نواں جماعت مسلمین ہے، اور وہ الفت ہے۔

سوال۔ اطاعت ہے، اور وہ حفاظت ہے۔ الطبرانی فی الکبیر والاوسط، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

اس روایت میں ایک راوی حامد بن آدم المرزوی ہیں، جو واضح حدیث ہیں۔

۴۴۔ اسلام ظاہر میں ہوتا ہے اور ایمان دل میں۔ اور تقویٰ دل میں، دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔

مسند احمد، نسائی، مسند ابی یعلیٰ، بروایت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

۴۵۔ آگاہ رہو! شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ دیکھ سکو۔ اپنے پروردگار کی عبادت بجلاؤ، پیچگانہ نماز ادا کرتے رہو، ماہ رمضان روزے رکھو،

بیت اللہ کا حج کرو، دل کی خوشی کے ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور جب تمہیں کوئی حکم دوں، بجلاؤ۔ (بمطابق منتخب

کنز العمال) اپنے حاکم کا حکم بجلاؤ۔ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ محمد بن نصر، بروایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ

۴۶۔ کیا تم نہیں سنتے؟ اپنے پروردگار کی عبادت کرو، پیچگانہ نماز ادا کرو، ماہ صیام کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، اور جب تمہیں

کوئی حکم دوں، بجلاؤ (بمطابق منتخب کنز العمال) اپنے حاکم کا حکم بجلاؤ۔ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

مسند احمد، ابن منیع، ابن حبان، الدار قطنی، مستدرک، سنن سعید ابن منصور، بروایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ

۴۷۔ تم اللہ عزوجل کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو ہر مسلمان کی جان و مال مسلمان پر

حرام ہے۔ اے حکیم بن معاویہ! یہ تمہارا دین ہے، تم جہاں بھی ہو تمہیں کافی ہوگا۔

ابن ابی عاصم و البغوی، الطبرانی فی الکبیر، مستدرک، بروایت معاویہ بن حکیم عن معاویہ النمیری عن ابیہ

اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے دریافت کیا تھا ایا رسول اللہ! آپ کے

پروردگار نے آپ کو کس چیز کے ساتھ مبعوث فرمایا؟ تب آپ نے مذکورہ بالا جواب مرحمت فرمایا تھا۔

۴۸۔ کہو! میں نے اپنی ذات کو اللہ عزوجل کے سپرد کیا اور اس کے لئے یکسو ہوا، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جان رکھو! ہر مسلمان کی جان

و مال مسلمان پر حرام ہے۔ دونوں بھائی بھائی ہیں، باہم مددگار ہیں۔ اور یاد رکھو! کسی مشرک کے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے کسی

عمل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتے تا وقتیکہ وہ مشرکوں سے علیحدہ ہو کر مسلمانوں سے نہ آئے۔

نسائی، مستدرک، بروایت بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ

اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ ان صحابی نے حضور اکرم ﷺ سے اسلام کی علامات دریافت کی تھیں، تب آپ ﷺ نے مذکورہ بالا جواب

مرحمت فرمایا تھا۔

۴۹۔ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول

ہیں۔ اور تمہارے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا ہر ایک سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور یہ کہ تمہیں آگ میں جل جانا اس سے کہیں زیادہ

محبوب ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اور کسی سے بھی خواہ وہ صاحب قرابت ہو اللہ ہی کے لئے محبت کرو۔ پس جب تم اس حال کو پہنچ

جاؤ گے تو یقیناً ایمان تمہارے دل میں یوں داخل ہو جائے گا، جس طرح کہ تپتے دن میں پیاسے کو پانی سے محبت ہو جاتی ہے۔

مسند احمد، بروایت ابورزین العقیلی

اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ حدیث کے راوی صحابی نے حضور اکرم ﷺ سے دریافت فرمایا تھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تب حضور اکرم ﷺ

نے مذکورہ بالا جواب مرحمت فرمایا تھا۔ اور کیا ہی خوب فرمایا تھا۔

۵۰۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ حج اور عمرہ

کرو۔ امیر کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اور تم ظاہر کے مکلف ہو، لہذا کسی کے اندرونی معاملات کی ٹوہ میں نہ پڑو۔

ابن حبان، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

پس منظر ایک شخص نے عرض کیا تھا! یا رسول اللہ... مجھے نصیحت فرمائیے: تو آپ ﷺ نے مذکورہ بالا بات ارشاد فرمائی تھی۔
 ۵۱ کیا تم جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ جبریل علیہ السلام ہیں۔ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں۔ ان کی باتوں کو محفوظ کر لو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے (جب سے یہ میرے پاس آنا شروع ہوئے ہیں کبھی مجھ پر مشتبہ نہیں ہوئے) سوائے اس مرتبہ کے۔ اور اس مرتبہ میں نے ان کو اس وقت پہچانا جب وہ منہ موڑ کر چل دیئے۔ ابن حبان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس اکثر و بیشتر حضرت وحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اور جب بھی تشریف لاتے آپ ﷺ روز روشن کی مانند ان کو جان لیتے۔ مگر اس مرتبہ نہ پہچان سکے۔ اور یہ وہی مشہور واقعہ ہے، جس میں حضور نے مشہور حدیث حدیث جبریل ارشاد فرمائی تھی۔

فصل دوم..... ایمان کے مجازی معنی اور ایمان کے حصے

- ۵۲ ایمان کے ستر سے کچھ زائد حصے ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنیٰ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۵۳ ایمان کے ستر سے کچھ زائد حصے ہیں۔ اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ بخاری بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۵۴ ایمان کے چونسٹھ دروازے ہیں۔ ترمذی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۵۵ اللہ تعالیٰ کے ایک سو سترہ اخلاق ہیں۔ اگر کوئی ایک اخلاق کے ساتھ بھی متصف ہو گیا، حمت میں داخل ہوگا۔

مسند ابویعلیٰ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

- ۵۶ ایمان کے ستر سے کچھ زائد دروازے ہیں، اور سب سے ادنیٰ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے۔ ترمذی، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۵۷ ایمان صبر اور قیاضی کا نام ہے۔ مسند ابویعلیٰ، الطبرانی فی الکبیر، فی مکارم الاخلاق بروایت جابر رضی اللہ عنہ
 ۵۸ ایمان حرام اشیاء اور نفسانی خواہشات سے عفت اور پاکدامنی کا نام ہے۔ الحلہ لابی نعیم بروایت محمد ابن نصر الحارثی مرسلًا
 ۵۹ ایمان اور عمل دو بھائی ہیں، دونوں ایک چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہ فرمائیں گے۔

السنة لابن شاہین، بروایت علی رضی اللہ عنہ

اس لئے کہ ایمان جو تصدیق قلبی کا نام ہے عمل کے بغیر بے فائدہ ہے۔ اور ایمان جو تصدیق قلبی کا نام ہے اس کے بغیر عمل کا فائدہ متصور ہی نہیں ہو سکتا۔

- ۶۰ ایمان اور عمل دو ساتھی ہیں کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ ابن شاہین بروایت محمد بن علی، مرسلًا
 ۶۱ ایمان دو نصف حصوں کا نام ہے، نصف صبر میں ہے اور نصف شکر میں۔ شعب الایمان للیہقی، بروایت انس رضی اللہ عنہ
 لوگوں کی دو قسمیں ہیں نعمت و آسائش کے پروردہ، ان کے لئے شکر باعث اجر ہے۔ اور مشقت و مصیبت کے آزر دہ، ان کے لئے صبر باعث اجر ہے۔

۶۲ جب تم میں سے کسی سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا وہ مؤمن ہے؟ تو اس کو اس کے ایمان میں شک نہ کرنا چاہئے۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت عبد اللہ بن زید الانصاری رضی اللہ عنہ

- ۶۳ سب سے سلامت اسلام والا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ابن حبان بروایت جابر رضی اللہ عنہ حدیث صحیح ہے۔

۶۴ سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مستدرک، بروایت جابر رضی اللہ عنہ
 ۶۵ سب سے اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ انسانیت تجھ سے مامون ہو جائے اور سب سے اعلیٰ اسلام یہ ہے کہ انسانیت تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے محفوظ ہو جائے اور سب سے اعلیٰ ہجرت یہ ہے کہ تم برائیوں کو چھوڑ دو اور سب سے اعلیٰ جہاد یہ ہے کہ تم شہید ہو جاؤ اور تمہارا گھوڑا زخمی ہو جائے۔

الطبرانی الاوسط، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

ابن التجار نے بھی اپنی تاریخ میں اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے: اور سب سے اعلیٰ زہد یہ ہے کہ اپنی روزی پر تمہارا دل مطمئن ہو اور سب سے اعلیٰ دعا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی عافیت کا سوال کرو۔

۶۶ سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔

الطبرانی فی الکبیر، الحلیہ لابی نعیم بروایت عباده بن الصامت

مضمون حدیث بلاشبہ ایک واقعہ بات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے ایک راوی پر کلام کیا گیا ہے۔

۶۷ ایمان کا افضل درجہ یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل ہی کے لئے محبت کرو، اللہ عزوجل ہی کے لئے نفرت کرو، اپنی زبان کو اللہ عزوجل کے ذکر میں رطب اللسان رکھو، اور جو چیز اپنے لئے پسند کرو دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کرو اور جو چیز اپنے لئے ناپسند کرو دوسروں کے لئے بھی وہ ناپسند کرو اور اچھی بات کو ورنہ خاموش رہو۔ الکبیر للطبرانی، بروایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

۶۸ ایمان کی پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص میں ان میں سے کوئی نہ ہو تو اس کا ایمان ہی نہیں، حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، فیصلہ الہی پر راضی برضار ہونا، اپنے آپ کو اللہ عزوجل کے سپرد کرنا، اللہ عزوجل پر بھروسہ کرنا، مصیبت کے پہلے جھٹکنے میں صبر کرنا۔

المنار بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

عدم ایمان سے کلیتہً ایمان کی نفی نہیں ہے، بلکہ ایمان کامل کی نفی ہے۔ اور مصیبت کے پہلے جھٹکنے میں صبر کرنا یہ فرمان رسول ایک عورت کو صبر کی تلقین کے وقت بھی ارشاد ہوا تھا۔ جس کے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: روایت الاحکام اور مسلم میں محض صدمہ کا ذکر ہے۔ اس صورت میں ہر مرتبہ صدمہ کے تازہ ہونے پر اجر ہوگا۔ لیکن کامل اجر پہلے صدمہ کے وقت ہی ہوگا۔

۶۹ ایمان کی بلندی چار باتوں میں ہے حکم الہی پر صابر رہنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ عزوجل پر توکل کرنا اور پورے دھار کا فرماں بردار رہنا۔ الحلیہ لابی نعیم، سنن سعید ابن منصور، بروایت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ

۷۰ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات، اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ عنہ
 ایمان کی نفی سے کمال ایمان کی نفی مراد ہے۔

۷۱ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک

میری ذات، اس کی اولاد، اور اس کے والد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ مسند احمد، بخاری، مسند ابی یعلیٰ، بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۷۲ جس شخص میں تین باتیں ہوں گی، یقیناً ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی چیز اس کو محبوب نہ ہو۔ اپنے دین سے پھرنے کی بجائے آگ میں جل جانا اس کو محبوب ہو۔ اور کسی سے محبت کرے تو اللہ عزوجل کے لئے اور نفرت کرے تو اللہ عزوجل کے لئے۔

سمویہ، الکبیر للطبرانی، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۷۳ الاکمال ایمان کا افضل درجہ یہ ہے کہ تم اللہ عزوجل ہی کے لئے محبت کرو، اللہ عزوجل ہی کے لئے نفرت کرو اور اپنی زبان کو اللہ عزوجل کے ذکر میں رطب اللسان رکھو۔ ابن مندہ، ایاس ابن سہال الجہنی

۷۴ افضل ایمان صبر اور فیاضی کا نام ہے۔ التاریخ للبخاری، من حدیث عبید بن عمیر عن ابیہ، الذیلمی، عن معقل بن یسار

۷۵ افضل ایمان اچھا اخلاق ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت، عمرو بن عسہ

۷۶ افضل اسلام والا وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، الطبرانی فی الکبیر، بروایت عمرو بن عسہ ابو داؤد الطیالسی، الدارمی، عبد بن حمید، مسند ابی یعلیٰ، الطبرانی فی الاوسط والصغیر بروایت جابر رضی اللہ عنہ، الطبرانی فی الکبیر، بخاری و مسلم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۷ افضل اسلام والا وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور سب سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں اور سب سے اچھی نماز وہ ہے جس میں قیام طویل ہو۔ اور سب سے افضل صدقہ منگدست شخص کا ہے۔

ابن نصر بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۷۸ اللہ تعالیٰ کے ایک سوسترہ اخلاق ہیں۔ اگر کوئی ایک اخلاق کے ساتھ بھی متصف ہو گیا، جنت میں داخل ہوگا۔

ابو حامد بروایت عثمان رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

۷۹ اللہ تعالیٰ کے ایک سوسترہ اخلاق ہیں۔ اگر کوئی ایک اخلاق کے ساتھ بھی متصف ہو گیا، جنت میں داخل ہوگا۔

ابو داؤد الطیالسی، الحکیم، مسند ابی یعلیٰ، بروایت عثمان رضی اللہ عنہ

یہ حدیث ضعیف ہے بحوالہ کلام بالا۔

۸۰ اللہ عزوجل کی ایک سبز برجد کی لوح مبارک ہے، جو عرش کے نیچے رکھی ہے۔ جس میں لکھا ہے! ”میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہوں میں نے تین سو دس سے کچھ اور خلق پیدا کئے جو شخص ان میں سے کوئی ایک خلق کے ساتھ اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ آئے گا جنت میں داخل ہوگا۔“

الطبرانی فی الاوسط و ابو شیخ فی العظمة، بروایت انس رضی اللہ عنہ

توحید کا اقرار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہونا

بہارِ نبوی

۸۱ اللہ تعالیٰ کے تین سو پندرہ اوصاف ہیں۔ اور رحمن کی ذات فرماتی ہے: میری عزت کی قسم! میرا کوئی بندہ میرے پاس اس حال میں آئے

کہ ان اوصاف میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہو تو اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ الحکیم: بروایت ابو سعید

۸۲ رحمن عزوجل کے سامنے ایک لوح مبارک ہے جس میں تین سو پندرہ اوصاف ہیں رحمن فرماتے ہیں میری عزت و جلال کی قسم میرا کوئی

بندہ ان اوصاف میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہو آئے تو وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ عبد بن حمید: بروایت ابو سعید

۸۳ ایمان تین سو تیس اوصاف کا نام ہے۔ اگر کوئی ایک کے ساتھ بھی متصف ہو گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔

الطبرانی فی الکبیر و الاوسط، ابن حبان، ابن النجار بروایة المغیرہ بن عبد الرحمن بن عبید عن ابیہ عن جدہ

۸۴ ایمان کے ستر یا بہتر دروازے ہیں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے ادنیٰ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ ابن حبان، بروایة المغیرہ بن عبد الرحمن بن عبید عن ابیہ عن جدہ وضعف

۸۵ آدمی مؤمن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اس کا دل اس کی زبان کے برابر نہ ہو جائے اور اس کی زبان دل کے برابر نہ ہو جائے۔ اور اس کا عمل

اس کے قول کی مخالفت نہ کرے۔ اور اس کا بڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو جائے۔ ابن بلال فی مکارم الاخلاق

۸۶ یقیناً ایمان اسی شخص کے دل میں ٹھہرتا ہے جو اللہ عزوجل سے محبت رکھتا ہے۔

الدیلمی، ابن النجار بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۷ ایمان مجرد ہے اس کی زینت حیا ہے اس کا لباس تقویٰ ہے اس کا سرمایہ عفت ہے۔

ابن النجار بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ الخرائطی فی مکارم الاخلاق بروایت وہب ابن منبہ
۸۸ تین چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تنگدستی میں خرچ کرنا، عالم کو سلام کرنا اور اپنے نفس سے انصاف کرنا۔

ابو حامد، الطبرانی فی الکبیر البزار، بروایت عمّار رضی اللہ عنہ

بزار نے اس کے موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے۔

۸۹ تین خصلتوں کو جس نے جمع کر لیا بلاشبہ اس نے ایمان کی خصلتوں کو جمع کر لیا تنگدستی میں خرچ کرنا، اپنے نفس سے انصاف کرنا، اور عالم کو سلام کرنا۔ الحلیہ بروایت عمّار رضی اللہ عنہ

خرچ کرنے کا مصروف عام ہے خواہ اہل و عیال پر کیا جائے یا کسی مفلس و تنگدست پر۔ علامہ نووی فرماتے ہیں یہاں اگر عالم کو سلام کی تاکید ہے تو دوسرے مقام پر آیا ہے کہ سلام کرو ہر مسلمان شخص کو خواہ اس سے تعارف ہو یا نہیں۔ اور سلام کو خوب رواج دو۔ اور یہی چیز باہمی فسادات کا قلع قمع کرنے والی بھی ہے۔

اور اپنے نفس سے انصاف کرو اس ارشاد نبوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے جو حقوق متعلق ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو، خواہ خالق خداوندی کے حقوق ہوں یا بندگان خالق کے، سب کو کمال ادا کرو۔ اور اپنے نفوس پر زائد از طاقت بوجھ ڈالنے سے بھی گریز کرو۔ نیز اپنے لئے ایسا دعویٰ نہ کرو جس کے تم حامل نہیں۔

۹۰ جس نے اللہ عزوجل کے لئے محبت کی، اللہ عزوجل کے لئے نفرت کی، اللہ عزوجل کے لئے عطا کیا اور اللہ عزوجل ہی کے لئے منع کیا تو یقیناً اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ مسند احمد، بروایت معاذ بن انس

۹۱ قسم ہے اللہ کی تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات، اس کی اولاد، اور اس کے والد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ مستدرک بروایت فاطمہ بنت عتبہ

۹۲ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات، اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔

مسند احمد، بروایت عبداللہ بن ہشام

۹۳ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات، اس کی ذات سے اور میرے اہل اس کے اہل سے اور میرا خاندان اس کے خاندان سے اور میری آل اس کی آل سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔

الطبرانی فی الکبیر، شعب الایمان للبیہقی: بروایۃ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ عن ایبہ

۹۴ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ عزوجل ہی کے لئے محبت نہ کرنے والا بن جائے۔

مسند احمد، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۹۵ کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے انسانوں کے لئے بھی وہی خیر و بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

الخرائطی فی مکارم الاخلاق بروایت انس رضی اللہ عنہ

۹۶ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو جائے۔ ابن عساکر، بروایۃ اسید بن عبداللہ بن زید القسری عن ایبہ عن حدہ

۹۷ بندہ اس وقت تک مشرف بایمان نہیں ہو سکتا، تا وقتیکہ اس کی زبان اور دل یکساں نہ ہو جائیں اور جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اور اس کا عمل اس کے قول کی مخالفت نہ کرے۔ ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

۹۸ بندہ اچھی طرح ایمان کو اس وقت تک نہیں پاسکتا جب تک کہ اس کی محبت و نفرت اللہ عزوجل ہی کے لئے نہ ہو جائے پس جب وہ

اللہ عزوجل ہی کے لئے محبت و نفرت کرنے لگے تو وہ اللہ عزوجل کی جانب سے ولایت کا مستحق ہو گیا، اور میرے بندوں میں سے میرے اولیاء اور میری مخلوق میں سے میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں انکا ذکر کرتا ہوں۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت عمرو بن الحمق

۹۹ بندہ ایمان کی حقیقت کا اس وقت تک حقدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا غصہ اور ناراضگی اللہ عزوجل کے لئے نہ ہو جائے پس جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور میرے محبوب اور میرے اولیاء وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں انکا ذکر کرتا ہوں۔ الطبرانی فی الاوسط، بروایت عمرو بن الحمق

اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے نفرت ایمان کی علامت ہے

۱۰۰ بندہ کامل طرح ایمان کا حقدار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت و نفرت اللہ عزوجل ہی کے لئے نہ ہو جائے پس جب وہ اللہ عزوجل ہی کے لئے محبت و نفرت کرنے لگے تو وہ اللہ عزوجل کی جانب سے ولایت کا مستحق ہو گیا، اور میرے بندوں میں سے میرے اولیاء اور میری مخلوق میں سے میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔

مسند احمد، بروایت عمرو بن الحمق

۱۰۱ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ دوسرے انسانوں کے لئے بھی وہی بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لئے

پسند کرتا ہے۔ مسند ابی یعلیٰ، ابن حبان، سنن سعید ابن منصور بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۰۲ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ یقین نہ کر لے کہ جو مصیبت اس کو پہنچی ہے وہ چوک جانے والی نہ تھی

اور جو نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی نہ تھی۔ س ۳۱ الطبرانی فی الکبیر، ابن عساکر، بروایت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ

۱۰۳ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ دوسرے انسانوں کے لئے بھی وہی بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے اور جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے مامون نہ ہو جائے۔

ابن عساکر، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۰۴ کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ دوسرے انسانوں کے لئے بھی وہی بھلائی پسند نہ کرے جو اپنے لئے

پسند کرتا ہے۔ ابن جریر، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۰۵ اسلام کو آراستہ کرو، اس طرح کہ تم اللہ عزوجل ہی کے لئے محبت کرو اور اللہ عزوجل ہی کے لئے نفرت۔

ابن ابی الدنیا فی کتاب الاخوان بروایت البراء

۱۰۶ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ اور

جب تک کہ اپنے مذاق اور سنجیدہ پن میں بھی اللہ عزوجل سے نہ ڈرے۔ المعرفة لابن نعیم بروایت ابی ملیکہ الدارمی

۱۰۷ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کو مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس میں تین خصالتیں نہ پیدا ہو جائیں سنگدستی میں خرچ کرنا، اپنے نفس سے

انصاف کرنا، اور سلام کرنا۔ الخواتمی فی مکارم الاخلاق بروایت عمّار بن یاسر۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۰۸ کھانا کھلاؤ، اور ہر ایک کو سلام کرو خواہ جان پہچان ہو یا نہیں۔

احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے دریافت کیا تھا کہ اسلام میں کیا چیز بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے ان کو مذکورہ بالا جواب ارشاد فرمایا تھا۔

فصل سوم..... ایمان و اسلام کی فضیلت میں

اس فصل کے دو حصے ہیں۔

پہلا حصہ..... شہادتین کی فضیلت میں

۱۰۹ اللہ عزوجل قیامت کے روز میری امت کے ایک فرد کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے۔ پھر اس کے اعمال ناموں کے ننانوے دفتر اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہر دفتر انتہاء نظر تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ شاید اعمال نامہ لکھنے والے محافظ فرشتوں نے کچھ ظلم کر دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا! نہیں پروردگار۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! کیا تیرے پاس ان کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں پروردگار۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبده ورسوله درج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے! جا اس کو وزن کرا لے۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار اتنے عظیم دفتر کے مقابلے میں یہ اتنا سا پرزہ کیا کرے گا؟ کہا جائے گا آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور پھر تمام دفتروں کو ایک پلڑے میں اور اس کاغذ کے پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اور کاغذ کا وہ پرزہ اس قدر وزنی ہو جائے گا کہ وہ تمام دفتر اڑتے پھریں گے، بے شک اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں۔ مسند احمد، مستدرک، شعب الإیمان للبیہقی، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۱۰ قیامت کے روز میری امت کے ایک فرد کو تمام مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا۔ پھر اس کے اعمال ناموں کے ننانوے دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے۔ ہر دفتر انتہاء نظر تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں پروردگار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! شاید اعمال نامہ لکھنے والے محافظ فرشتوں نے کچھ ظلم کر دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا نہیں پروردگار، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! کیا تیرے پاس ان کا کوئی عذر ہے؟ یا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ آدی خوفزدہ ہو کر عرض کرے گا نہیں پروردگار۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبده ورسوله درج ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے! جا اس کو وزن کرا لے۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار اتنے عظیم دفتر کے مقابلے میں یہ اتنا سا پرزہ کیا کرے گا؟ کہا جائے گا آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور پھر تمام دفتروں کو ایک پلڑے میں اور اس کاغذ کے پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اور پھر کاغذ کا وہ پرزہ اس قدر وزنی ہو جائے گا کہ وہ تمام دفتر اڑتے پھریں گے۔

بخاری، المستدرک للحاکم، بروایت ابن عمرو

۱۱۱ لوگوں کو یہ مشورہ سنا دو کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ تھا و یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مسند ابی یعلیٰ بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۱۱۲ اے ابو ہریرہ! بطور نشانی میرے یہ دو جوتے لے جاؤ، اور اس دیوار کے پیچھے جو بھی ایسا شخص ملے کہ وہ دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو تو اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ مسلم، بروایت ابو ہریرہ

۱۱۳ اے ابن خطاب جاؤ! لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں مؤمنین کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ مسند احمد، مسلم، بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۱۱۴ اے ابن عوف! اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو کہ مؤمن کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا۔

ابوداؤد، بروایت العرباض

فاسق شخص سے بھی دین کا کام لیا جاتا ہے

۱۱۵ اے بلال! کھڑے ہو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ مؤمن کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فاسق شخص کے

ذریعے بھی اس دین کی مدد کروا لیتے ہیں۔ بخاری بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خیبر میں بغرض جہاد حضور ﷺ کے ہمراہ تھے۔ ایک شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، آپ ﷺ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ پھر جب جنگ کا بازار گرم ہوا تو اسی شخص نے اسلام کی حمایت میں خوب شدت کے ساتھ جنگ کی۔ حتیٰ کہ اس کو کاری زخم لگا۔ اس شخص کی اسلام کی راہ میں یہ جانفشانی دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعجب کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر بارگاہ نبوت میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ! جس شخص کے متعلق آپ نے جہنمی ہونے کا حکم عائد فرمایا ہے، اس نے تو راہِ خدا میں آج اپنی جان کی بازی لگادی ہے۔ لیکن آپ ﷺ اپنی رائے مبارک پر قائم رہے۔ انجام کار اس شخص نے جنگ کے زخم سے عاجز آ کر خودکشی کر لی۔ اور یہ خبر بارگاہ رسالت میں پہنچی تو آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا اے بلال! کھڑے ہو اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ مؤمن کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فاسق شخص کے ذریعے بھی اس دین کی مدد کروا لیتے ہیں۔

۱۱۶ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کے ساتھ مجھ سے اس طرح ملے کہ اس میں کچھ شک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

مسند احمد، مسلم، بروایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۷ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو بندہ موت کے وقت اس کو کہہ لیتا ہے وہ کلمہ اس کے اعمال ناموں کے لئے نور بن جاتا ہے۔ اور اس کا جسم اور روح موت کے وقت اس کلمہ کی وجہ سے خوشی اور تروتازگی پاتے ہیں۔

نسائی، ابن ماجہ، الصحيح لابن حبان بروایت طلحہ رضی اللہ عنہ

۱۱۸ لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ کہہ لیا، اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔

نسائی، بروایت سہیل بن حنیف و بروایت زید بن خالد الجہنی

۱۱۹ ہرگز کوئی بندہ قیامت کے روز اللہ کی رضا کے لئے لا الہ الا اللہ کہتا ہو یا نہ آئے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرمادیں گے۔

مسند احمد، بخاری، بروایت عتبان بن مالک

۱۲۰ کسی بھی بندہ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا۔ پھر اسی پر مر گیا مگر وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔ خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔

مسند احمد، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ

یہ مضمون مختلف احادیث میں آیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث میں ایسا شخص مراد ہے جو قبل از وفات توبہ تائب ہو جائے۔ اور دیگر محدثین کے نزدیک حدیث عموم پر محمول ہے کہ دخول جنت عام ہے خواہ اول وہلہ میں ہو جائے یا اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد۔

۱۲۱ چھوڑو میری امت کے عارفین محدثین کو، نہ تم ان کو جنت میں پہنچا سکتے نہ جہنم میں۔ بس ان کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قیامت

کے روز فرمائیں گے۔ خطیب، بروایت علی رضی اللہ عنہ

محدثین دال کے فتح کے ساتھ ہے۔ مراد وہ خاصانِ خدا ہیں جن کے دلوں میں ملائگی کی طرف سے الہام و التقاء کیا جاتا ہے۔ مراد ایسے مجذوب اور مغلوب الحال افراد ہیں جن سے بسا اوقات خلافِ شرع امور مشاہدہ میں آتے ہوں۔ تو تم ایسے افراد سے تعرض نہ کرو، اور نہ ان پر کسی قسم کا حکم عائد کرو۔ بلکہ ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر دو۔

۱۲۲۔ ایسا کوئی نفس نہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو اور دل کے لعین کے ساتھ اس کی گواہی دیتا ہو مگر اللہ اس کی مغفرت فرمادیں گے۔ مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، الصحيح لابن حبان بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۱۲۳۔ کسی بھی بندہ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا، پھر اسی پر مر گیا مگر وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد، مسلم بروایت عثمان رضی اللہ عنہ

۱۲۴۔ ایسا کوئی شخص نہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو پھر وہ جہنم میں داخل ہو جائے یا جہنم کی آگ اس کو جلا دے۔ مسلم، بروایت عتبان بن مالک

۱۲۵۔ اے معاذ بن جبل! ایسا کوئی بندہ نہیں جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرمادیں گے۔ حضرت معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اطلاع نہ دے دوں؟ ان کو خوشخبری مل جائے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، تب تو وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۲۶۔ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اور اس کے دل میں جو کے وزن برابر بھی خیر ہو۔ اور پھر ہر اس شخص کو نکالا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اور اس کے دل میں گندم کے وزن برابر بھی خیر ہو۔ اور پھر ہر اس شخص کو بھی نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اور اس کے دل میں مکئی کے دانے کے وزن برابر بھی خیر ہو۔

مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، بروایت انس رضی اللہ عنہ

جہنم کے ساتوں دروازوں کا بند ہونا

۱۲۷۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ جس شخص نے بھی میری توحید کا اقرار کیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا اور جو میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے مأمون ہو گیا۔ الشیرازی، بروایت علی رضی اللہ عنہ۔

حدیث معنی عمدہ کلام پر مشتمل ہے، امام رازی اس کے رموز و اسرار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں چوبیس حروف ہیں، دن رات میں بھی چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں۔ لہذا جو شخص دن رات میں کسی وقت ان کلمات کو کہہ لے گا: اللہ تعالیٰ اس کے دن رات کے تمام گناہ معاف فرمادیں گے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سات کلمات ہیں، اور جہنم کے بھی سات باب ہیں لہذا جو اس کلمہ کو سچے دل سے کہہ لے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے ساتوں باب بند فرمادے گا۔

۱۲۸۔ لا الہ الا اللہ والوں پر موت میں وحشت ہوگی نہ قبر میں۔ اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کوئی وحشت ہوگی۔ گویا اب میں صور پھونکنے کے وقت ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں!

الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. الكبير للطبراني رحمة الله عليه بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۲۹۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرمادیں گے۔

مسند احمد، مسلم، ترمذی، بروایت عبادہ رضی اللہ عنہ

۱۳۰۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مسند البزار، بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۱۳۱۔ خوشخبری سنو اور اپنے گرد و پیش لوگوں کو بھی سنا دو جس شخص نے دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

مسند احمد، الكبير للطبراني بروایت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ

۱۳۲۔ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو کہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔

المسند لابن يعلى، بروایت ابو بکر رضی اللہ عنہ

۱۳۳۔ جب قیامت کا روز ہوگا میں عرض کروں گا پروردگار! ہر اس شخص کو جنت میں داخل کر دیجئے، جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہو، پھر

www.ShianeAli.com

ایسے لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ہر اس شخص کو بھی جنت میں داخل کر دو، جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہو۔ بخاری، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

شہادتین کی فضیلت..... از الاکمال

۱۳۴ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لئے جنت ہے۔ خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو خواہ ابو ذر کی ناک خاک آلود۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو الدرداء

یہ مضمون کئی احادیث میں آیا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث میں ایسا شخص مراد ہے جو قبل از وفات توبہ تاب ہو جائے۔ اور دیگر محدثین کے نزدیک حدیث عموم پر محمول ہے کہ دخول جنت عام سے خواہ اول و بلہ میں ہو جائے یا اپنے اعمال کی سزا بھگتتے کے بعد۔

۱۳۵ جب مسلمان بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ کلمہ آسمان پر حرکت میں آجاتا ہے حتیٰ کہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں اٹھ جاوہ عرض کرتا ہے کیسے ٹھہر جاؤں جبکہ میرے قائل کی بخشش نہیں ہوئی تو پروردگار فرماتے ہیں اس کی زبان پر تو جاری ہو اس کی بخشش کر دی گئی۔ الدیلمی، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۳۶ جب بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے ملائکہ دیکھو میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا اس کا کوئی پروردگار نہیں۔ پس میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی بخشش کر دی۔ ابن عساکر، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۳۷ اپنے ہاتھ بلند کرو اور کہو! لا الہ الا اللہ والحمد لله اے اللہ آپ نے مجھے اس کلمہ کے ساتھ بھیجا ہے اور مجھے اس کا حکم دیا ہے اور اس پر میرے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے اور بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے۔ اور مجھ سے خوشخبری سن لو کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

مسند احمد، نسائی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، السنن لسعید ابن منصور، بروایت یعلیٰ بن شداد عن ابنہ وعادۃ بن الصامت

حدیث ثابت ہے۔

۱۳۸ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو بندہ اس کلمہ کے اقرار کے ساتھ اللہ سے ملے گا تو اس کو قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچالیا جائے گا۔ مسند احمد، ابن سعد، البغوی، ابن قانع، البوردی، الکبیر للطبرانی، المستدرک للحاکم، السنن لسعید ابن منصور، بروایت عبدالرحمن بن ابی عمرۃ الانصاری عن ابنہ

۱۳۹ اشہد ان لا الہ الا اللہ و حده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسولہ۔ جو بندہ قیامت کے روز ان کے اقرار کے ساتھ اللہ سے ملے گا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، خواہ وہ کیسے اعمال لائے۔

الطبرانی فی الأوسط، بروایت عبدالرحمن بن ابی عمرۃ الانصاری عن ابنہ

۱۴۰ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ

جو بندہ دل کی حقیقت اور گہرائی کے ساتھ ان کلمات کو کہے گا اللہ عزوجل ضرور اس کو جہنم کی مجلس سے بھی نجات دیدیں گے۔

نسائی، الکنی للحاکم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۴۱ باری تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ میں شہادت دیتا ہوں کہ جو بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو اور وہ مر جائے تو ضرور وہ جنت کی راہ پر چل پڑے گا۔ میرے پروردگار عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے ایسے ستر ہزار افراد کو جنت میں داخل فرمائیں گے جن پر حساب ہوگا نہ عذاب۔ اور مجھے امید ہے کہ جب تم اور تمہارے نیک

آباء اور ازواج اور آل جنت میں اپنا مقام نہ بنالیں، تب تک وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔

مسند احمد، الصحيح لابن حبان، البغوی، ابن قانع، الباوردی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت رفاعہ بن رفاعہ الجہنی اس روایت کے راوی ثقہ ہیں۔

۱۳۲..... جان لے! کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو امرے تو جنت میں داخل ہوگا۔

طبرانی، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، ابو داؤد، المسند لابی یعلیٰ، الحلیہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ حدیث صحیح ہے۔

۱۳۳..... بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس شخص پر حرام فرمایا ہے جو اللہ کی رضا کے لئے لا الہ الا اللہ کہے۔

مسند احمد، بروایت محمود بن الربیع عن عتبان بن مالک حدیث صحیح ہے۔

۱۳۴..... جاؤ! لوگوں میں اعلان کردو کہ جو دل کے یقین یا اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، اس کے لئے جنت ہے۔

ابن خزیمہ، الصحيح لابن حبان، السنن لسعد ابن منصور، بروایت جابر رضی اللہ عنہ حدیث صحیح ہے۔

۱۳۵..... بے شک اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس شخص پر حرام فرمایا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے۔

عبد بن حمید، بروایت عبادہ بن صامت

۱۳۶..... اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے کوئی لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس طرح نہ آئے گا کہ اس کے ساتھ کچھ خلط ملط نہ کرتا ہو، مگر یہ کہ جنت اس کے لئے واجب ہو جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ خلط ملط کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا دنیا کی حرص اور اس کو جمع کرنے کی لالچ اور اس کو روک رکھنے کی عادت، باتیں تو انبیاء کی ہی کریں لیکن اعمال۔

سرخشوں کے سے ہوں۔ الحکیم بروایت زید بن ارقم

۱۳۷..... زمین تو اس سے بھی بدتر کو قبول کر لیتی ہے مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و حرمت کو دکھائیں۔ ابن ماجہ، بروایت

عمران بن حصین۔ اس روایت کا عبرتناک پس منظر ہے۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر مشرکین کے

مقابلہ میں روانہ فرمایا، جس میں بھی شریک تھا۔ مشرکین سے شدت کی خون ریزی ہوئی۔ دوران جنگ مسلمانوں کا ایک سپاہی کسی مشرک

پر حملہ آور ہوا اور وہ مشرک مسلمان کے نرغہ میں پھنس گیا، مشرک نے فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور پکارا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ لیکن اس

مسلمان نے پھر بھی اس پر حملہ کر کے اس کو تہ تیغ کر ڈالا۔ بعد میں یہ شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا بیان کیا، آپ ﷺ نے فرمایا تم

نے کیوں نہیں اس کا شکم چاک کر کے دیکھ لیا کہ وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ جب تم کو اس کے دل کا حال معلوم نہ تھا تو کیوں تم نے اس کی

زبان پر اعتبار نہیں کیا؟ آپ ﷺ نے دو تین مرتبہ ایسا فرمایا۔ پھر آپ نے سکوت فرمایا۔ کچھ عرصہ بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم نے اس

کو سپرد خاک کر دیا۔ مگر آئندہ روز اطلاع ملی کہ اس شخص کی نعش زمین سے باہر پڑی ہے۔ ہم نے خیال کیا کہ شاید کسی دشمن نے اپنی عداوت نکالی

ہے۔ اور ہم نے اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ اور اپنے غلاموں کو گمرانی پر مامور کر دیا۔ لیکن آئندہ روز پھر وہی سابقہ پیش آیا اور اس کی نعش باہر پڑی

ملی۔ ہم نے سوچا شاید گمرانوں کی آنکھ لگ گئی ہو اور کسی نے ان کی غفلت میں ایسا کر دیا ہو۔ لہذا دوبارہ دفن کرنے کے بعد ہم نے بذاتہ اس کی قبر کی

گمرانی کی۔ مگر صبح پھر اس کی نعش قبر سے باہر پڑی ملی۔ اب ہمیں یقین ہو چلا کہ یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے قابل کَوَئِل

کرنے کا انجام ہے۔ ہم نے اس واقعہ کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ تب آپ ﷺ نے حدیث کے یہ عبرت انگیز کلمات ارشاد فرمائے: زمین تو

اس سے بھی بدتر کو قبول کر لیتی ہے مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت و حرمت کو دکھائیں۔

۱۳۸..... جب میری امت کا کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے گناہ یوں مٹ جاتے ہیں، جس طرح سیاہ تاجر سفید

سپال سے مٹ جاتی ہے۔ اور جب بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اس کے لئے جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور جب فرشتوں کی کسی صف کے قریب سے اس کا گزر ہوتا ہے۔ اور وہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو پروردگار اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ السجزی فی الابانہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
یہ حدیث بہت ہی ضعیف ہے۔

۱۴۹ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، کوئی بندہ اس کو دل کی گہرائی کے ساتھ نہیں کہتا مگر اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔
الحلیہ، بروایت عمر رضی اللہ عنہ
حدیث صحیح ہے۔

۱۵۰ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، کوئی بندہ اس کو دل کی گہرائی کے ساتھ نہیں کہتا مگر اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔
مسند احمد، المسند لابی یعلیٰ، ابن خزیمہ، الصحیح لابن حبان، المستدرک للحاکم، بروایت عثمان رضی اللہ عنہ
راویان حدیث ثقہ ہیں۔

۱۵۱ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، کوئی بندہ اس کو موت کے وقت نہیں کہتا مگر اس بندہ کی روح نکلتے وقت اس کلمہ کی وجہ سے نئی زندگی پاتی ہے۔ اور وہ کلمہ اس کے لئے قیامت کے دن نور ثابت ہوگا۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ۔
مسند احمد، ابن ابی شیبہ، المسند لابی یعلیٰ، المستدرک للحاکم، بروایت طلحہ بن عبید اللہ
حدیث صحیح الاسناد ہے۔

۱۵۲ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، کوئی بندہ اس کو دل کی گہرائی کے ساتھ نہیں کہتا اور پھر اسی پر مگر اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرمادیتے ہیں۔ الصحیح لابن حبان، المستدرک للحاکم، بروایت عثمان عن عمر رضی اللہ عنہ
یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔

۱۵۳ مجھے امید ہے کہ جو بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اوقات پا جائے۔ اللہ اسے اپنے عذاب سے دو چار فرمائیں گے۔ الدیلمی، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
حدیث ضعیف ہے۔

۱۵۴ مجھے امید ہے کہ جو بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اوقات پا جائے۔ اللہ اسے اپنے عذاب سے دو چار فرمائیں گے۔ الدیلمی، الخطیب، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
حدیث ضعیف ہے۔ الجامع المصنف

۱۵۵ جس نے اپنے دل اور زبان کی سچائی سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔
ابن الجار، بروایت عقبہ بن عامر عن ابی بکر

۱۵۶ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ عزوجل نے سب سے پہلی کتاب میں تحریر فرمایا وہ یہ ہے امیں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری رحمت غضب سے سبقت کر گئی ہے۔ جو گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمداً عبداً و رسوله اس کے لئے جنت ہے۔
الدیلمی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۱۵۷ جنت کی گراں مایہ قیمت: لا الہ الا اللہ ہے۔ اور نعمت کی قیمت الحمد للہ ہے۔ الدیلمی، بروایت الحسن عن انس رضی اللہ عنہ
۱۵۸ مجھے جبرئیل نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مامون ہو گیا۔ ابن عساکر، بروایت علی رضی اللہ عنہ

۱۵۹ جہنم پر حرام ہے وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے لئے لا الہ الا اللہ کہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عثمان بن مالک

۱۶۰۔ جو شخص اس بات کی شہادت دیتا ہوا آیا کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، وہ تمہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو آگ پر حرام ہے کہ اس کو جلانے۔ مسدد، ابن النجار، بروایت ابی موسیٰ

۱۶۱۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے توراہ عطا کی، موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا! پروردگار مجھے کوئی ایسی دعا تلقین کر دیجئے جس سے میں آپ کو پکارا کروں؟ ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہمیں یاد کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار! یہ کلمہ تو ساری ہی مخلوق کہتی ہے۔ میں تو ایسی چیز کا طلبگار ہوں جو میرے لئے خاص ہو۔ جس سے میں تجھے یاد کیا کروں؟ ارشاد ہوا! اے موسیٰ! تمام آسمانوں اور ان کے اندر بسنے والی مخلوق، اور تمام سمندروں اور ان کے اندر بسنے والی مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف اس کلمہ کو رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ المسند لابی یعلیٰ، بروایت ابوسعید

۱۶۲۔ اسی کلمہ میں ساری نجات ہے، جس کو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا مگر انہوں نے انکار فرمایا تھا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت۔ الطبرانی فی الاوسط، عن الزہری عن سعید رحمۃ اللہ علیہ بن المسیب عن عبد اللہ بن العاص رضی اللہ عنہ عن عثمان رضی اللہ عنہ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ

اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ راوی نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اس دین کی نجات کس چیز میں ہے؟ تب سرکارِ دو عالم ﷺ نے مذکورہ جواب مرحمت فرمایا۔

۱۶۳۔ جو کلمہ میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا مگر انہوں نے انکار فرمایا تھا، جس شخص نے بھی وہ کلمہ جان کنی کے وقت کہہ لیا۔ یقیناً اس کے لئے آسانی کر دی جائے گی اور وہ روح نکتے وقت ایک نئی زندگی محسوس کرے گا۔ ابن عساکر، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۶۴۔ جس شخص نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا، جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا۔ مگر انہوں نے انکار فرمایا تھا، سو وہ کلمہ اس کے لئے نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، المسند لابی یعلیٰ، شعب الایمان، بروایت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ

حدیث صحیح ہے۔

۱۶۵۔ اس سے تمہاری نجات کے لئے وہ کلمہ کافی ہے، جو میں نے اپنے چچا پر ان کی موت کے وقت پیش کیا تھا، مگر انہوں نے انکار فرمایا تھا۔

مسند احمد، المسند لابی یعلیٰ بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

روایت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب ﷺ سے استفسار کیا تھا کہ جو سو سے وغیرہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے ان کے کفارہ کے لئے کیا چیز کافی ہے؟ تو حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے مذکورہ جواب مرحمت فرمایا۔ اور کیا ہی خوب فرمایا۔

کلمہ توحید کا اقرار دخول جنت کا سبب ہے

۱۶۶۔ جبریل علیہ السلام میری اونٹنی کی مہارت تھی چل رہے تھے جب میں پہل زبیں پر پہنچا تو میری طرف متوجہ ہو کر کہا: خوشخبری سنو اور اپنی امت کو بھی دو! کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کر لیا۔ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میں خوشی سے مسکرایا اور اللہ اکبر کہا۔ پھر کچھ آگے چلے تو جبریل دوبارہ میری طرف متوجہ ہوئے، اور کہا خوشخبری سنو اور اپنی امت کو بھی دو! کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا اقرار کر لیا۔ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور اللہ نے اس پر آگ حرام فرمادی۔ تو میں پھر خوشی سے مسکرایا اور اللہ اکبر کہا۔ اور اپنی امت کے لئے اس پر سرور و فرحان ہو گیا۔ الطبرانی فی الاوسط، تمام، ابن عساکر، بروایت انس رضی اللہ عنہ

حدیث حسن ہے۔

۱۶۷۔ اللہ عزوجل نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا کلام ہے۔ اور میں ہی اللہ ہوں۔ پس جس نے اس کا اقرار کر لیا وہ میرے قلعہ میں داخل ہو گیا

اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا، وہ میرے عقاب سے مامون ہو گیا۔ ابن النجار، بروایت علی رضی اللہ عنہ روایت سے متعلق کلام اور رموز و اسرار کے لئے گزشتہ حدیث نمبر ۱۲۷ ملاحظہ کیجئے۔

۱۶۸۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے سو جس نے اس کو کہا میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔

ابن النجار، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۶۹۔ میں بارگاہ رب العزت میں عرض کروں گا پروردگار! جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجئے؟

ارشاد ہو گا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۷۰۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جھوٹ کو تمہاری، لا الہ الا اللہ کی سچائی کے ساتھ دھو دیں گے۔ عبد بن حمید بروایت انس رضی اللہ عنہ پس منظر! حضور اکرم ﷺ نے کسی سے پوچھا اے فلاں! تم نے فلاں فلاں کام کیا؟ اس نے کہا نہیں، قسم ہے اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں نے یہ کام نہیں کیا۔ جبکہ آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ اس نے وہ کام کیا ہے۔ تب آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۱۷۱۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جھوٹ کا تمہاری لا الہ الا اللہ کی سچائی کے ساتھ کفارہ فرمادیں گے۔

المسنند لابی یعلیٰ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

پس منظر! حضور اکرم ﷺ نے کسی سے پوچھا! تم نے فلاں کام کر لیا؟ اور آپ ﷺ کو معلوم تھا کہ اس نے وہ کام کیا ہے۔ مگر اس نے کہا نہیں، قسم ہے اللہ کی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے نہیں کیا۔ پھر آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۱۷۲۔ میں نے ایک فرشتہ سے ملاقات کی، اس نے مجھے خبر دی جو شخص لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہوا انتقال کر جائے اس کے لئے جنت سے۔ میں بار بار کہتا رہا خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ مگر، بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ

۱۷۳۔ ہر چیز کی ایک سچی ہوتی ہے اور آسمانوں اور زمین کی سچی لا الہ الا اللہ ہے۔ الکبیر للطبرانی بروایت معقل بن یسار

۱۷۴۔ جب اللہ عزوجل نے جنت عدن کو پیدا فرمایا جو اللہ کی تخلیقات میں پہلی چیز ہے تو اللہ نے اس کو فرمایا کلام کراؤ گویا ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یقیناً مومن لوگ فلاح پائیں گے۔ بے شک جو شخص میرے اندر داخل ہوا، کامیاب ہو گیا۔ اور جو جہنم میں گیا نا کام ہو گیا۔

طاہر بن محمد بن الواحد المفسر فی کتاب فضائل التوحید والرافعی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۷۵۔ جب اللہ عزوجل نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ وہ اشیا پیدا فرمائی، جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہو گا نہ کسی دل پہ کا خیال گذر ہو گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا اچھے سے کلام کراؤ گویا ہوئی یقیناً مومن لوگ فلاح پائیں گے۔

الکبیر للطبرانی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

اور المستدرک للحاکم میں یہ اضافہ بھی ہے کہ میں ہر بخیل اور یا کار پر حرام ہوں۔

۱۷۶۔ لا الہ الا اللہ والوں پر قبروں میں وحشت ہوگی نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت۔ گویا اب میں صور پھونکنے کے وقت لا الہ الا اللہ والوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی قبروں سے نکلتے ہوئے اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں:

الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن

ابوداؤد، شعب الایمان، وقال غیر قوی، الاربعین لاسماعیل بن عبدالغافر الفارسی، ابن عساکر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

۱۷۷۔ لا الہ الا اللہ والوں پر موت میں وحشت ہوگی نہ حشر میں۔ اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت کوئی وحشت ہوگی۔ گویا اب میں صور پھونکنے کے وقت ان کو طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے یہ پڑھ رہے ہیں۔

الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن

حدیث ضعیف ہے۔

۱۷۸۔ ایسا کوئی شخص نہیں جو لاء اللہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو پھر جہنم کی آگ اس کو جلادے۔ الحلیہ، بروایت عتبان بن مالک حدیث صحیح ہے۔

۱۷۹۔ جو بندہ لاء اللہ الا اللہ سومرتبہ کہے تو اللہ پاک اس کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ اور اس روز اس کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا لایہ کہ کوئی اسی جیسا عمل کرے یا اس سے بھی زیادہ۔

الکبیر للطبرانی بروایت ابوالدردا رضی اللہ عنہ

حدیث میں ایک راوی ضعیف ہے۔

۱۸۰۔ میں مسلسل اپنے پروردگار سے سفارش کرتا رہوں گا حتیٰ کہ عرض کروں پروردگار! ہر اس شخص کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے، جس نے لاء اللہ الا اللہ کہا ہو۔ پروردگار فرمائیں گے: نہیں محمد! یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ یہ میرا حق ہے۔ میری عزت کی قسم! میرے حکم کی قسم! میری رحمت کی قسم! میں آج جہنم میں کسی بھی ایسے شخص کو نہ چھوڑوں گا جس نے لاء اللہ الا اللہ کہا ہو۔

المسند لابی یعلیٰ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۸۱۔ کسی بندہ نے اخلاص کے ساتھ لاء اللہ الا اللہ نہیں کہا مگر وہ کلمہ اوپر جاتا ہے اور اس کو کوئی حجاب مانع نہیں ہوتا لہذا جب وہ بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قائل کی طرف نظر فرماتے ہیں۔ اور اللہ پر حق ہے کہ جب بھی کسی اپنے توحید پرست کی طرف نظر فرمائیں تو اس پر رحمت فرمائیں۔

الخطیب بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۸۲۔ نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جو لاء اللہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو مگر وہ جنت میں داخل ہوگا خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ خواہ ابوالدردا

کی ناک خاک آلود ہو۔ مسند احمد، المسند لابی یعلیٰ، ابوداؤد، الصحيح لابن حبان بروایت ابوالدردا رضی اللہ عنہ

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں: کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث میں ایسا شخص مراد ہے جو قبل از وفات توبہ تائب ہو جائے۔ اور دیگر محدثین کے نزدیک حدیث عموم پر محمول ہے کہ دخول جنت عام ہے خواہ اول وہلہ میں ہو جائے یا اپنے اعمال کی سزا بھگتتے کے بعد۔

۱۸۳۔ نہیں ہے کوئی بندہ جو لاء اللہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو اور اسی پر انتقال کر جائے مگر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دریافت کیا خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ آپ نے فرمایا! خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔ اور جب میں نے چوٹی مرتبہ بھی یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا! خواہ ابوذر کی ناک خاک آلود ہو۔ مسند احمد، بروایت ابوذر رضی اللہ عنہ

۱۸۴۔ جو بندہ لاء اللہ الا اللہ سومرتبہ کہے تو اللہ پاک اس کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند چمکتا ہوگا۔ اور اس روز اس کے عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا لایہ کہ کوئی اسی جیسا عمل کرے یا اس سے بھی زیادہ۔

ابو الشیخ والدیلمی، بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ

۱۸۵۔ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے! میرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں جو اس کا قائل ہو! میں اس کو عذاب نہ کروں گا۔

الدیلمی بروایت ابوسعید رضی اللہ عنہ

۱۸۶۔ عرش پر لکھا ہوا ہے لاء اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو اس کا قائل ہوا، میں اس کو عذاب سے دوچار نہ کروں گا۔

الاربعین لاسماعیل بن عبدالغافر الفارسی، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۱۸۷۔ جس کا انتقال کے وقت لاء اللہ الا اللہ پر خاتمہ ہوا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابن عساکر، بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۱۸۸۔ جس کی تمنا اور خواہش ہو کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو اس کی موت اس حال میں آئی چاہے کہ وہ لاء اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو۔ اور وہ لوگوں سے بھی وہی معاملہ کرے جو اپنے لئے چاہتا ہو۔

الکبیر للطبرانی، الحلیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۸۹ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی اور اس کی زبان اس کے ساتھ مانوس ہوگی اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو گیا، تو جہنم کی آگ اس کو جھلسانہ سکے گی۔ سمویہ، ابن مردویہ، شعب الایمان، المتفق والمفترق للخطیب رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی قتادہ ۱۹۰۔ جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔

الصحيح لابن حبان، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

ابن حبان نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

۱۹۱ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دی جہنم کی آگ اس کو نہ کھاسکے گی۔ مسند احمد، بروایت انس رضی اللہ عنہ
۱۹۲ جس شخص نے دل کی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دی اور اسی پر مر گیا، اللہ عزوجل اس کو جہنم پر حرام کر دیں گے۔

الدارقطنی، فی الافراد السنن لسعيد ابن منصور، بروایت النضر بن انس رضی اللہ عنہ عن ابیہ
حضرت نضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو لکھنے کا حکم فرمایا۔ اس کے علاوہ کسی حدیث لکھنے کا حکم نہ دیا۔

۱۹۳ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی اور فجر کی نماز کی محافظت کی اور کسی ناجائز خونریزی سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کیے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ السنن لسعيد ابن منصور، بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ
۱۹۴ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی یہی اس کے لئے نجات ثابت ہوگی۔

المسند لابی یعلیٰ ابن منیع، عن ابن عمر عن عمر عن ابی بکر

۱۹۵ جو شخص دل کے اخلاص کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبده ورسوله کا قائل ہو اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
الطبرانی فی الاوسط، بروایت ابوالدرداء، الباوردی، ابن مندہ، بروایت ابوسعيد بن وائل الجذامی
۱۹۶ جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ اور میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس نے نماز قائم کی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، بیت اللہ کا حج کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرمادیں گے۔
الطبرانی فی الاوسط، بروایت انس رضی اللہ عنہ الطبرانی فی الاوسط بروایت عتبان بن مالک
۱۹۷ جس نے دل کے اخلاص کے ساتھ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی۔

الکبیر للطبرانی، الخلعی، شعب الایمان، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل، ابن خزیمہ بروایت عبد اللہ بن سلام

۱۹۸ جس شخص نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے، اور حساب کتاب پر ایمان لایا، جنت میں داخل ہوگا۔ الامالی لابن صصری بروایت راعی النبی ﷺ

جنت کے سو درجات ہیں

۱۹۹ جس شخص نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کی مغفرت فرمائیں خواہ وہ شخص ہجرت کرے یا اسی جگہ بیٹھا رہے، جہاں اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ آپ ﷺ سے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں میں اس خوشخبری کا اعلان نہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا! نہیں: لوگوں کو عمل کرنے دو، بے شک جنت کے سو درجات ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان آسمان وزمین کے درمیان جتنی مسافت ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے اسی پر عرش الہی قائم ہے۔ اور یہ جنت کے وسط میں ہے (اسی سے جنت کی نہریں پھوٹی ہیں) اور جب تم اللہ سے کسی چیز کا سوال کرو تو جنت الفردوس

ہی کا سوال کرو۔ الکبیر للطبرانی، بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

۲۰۰ جس شخص نے یوں لا الہ الا اللہ کی شہادت دی کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔

المسند لابن یعلیٰ، بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

۲۰۱ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے اعمال نامہ کی برائیاں دھل جاتی ہیں۔ (لا الہ الا اللہ کو دوبارہ ان کا مرتکب ہو۔)

الخطیب بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۲ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور بناگ بلند کہا تو اس کے چار ہزار کبیرہ گناہ محو ہو جاتے ہیں۔ ابن النجار، بروایت انس رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

کلمہ طیبہ میں اخلاص

۲۰۳ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ابن النجار، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۴ جس شخص نے اس بات کی شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں جنت میں داخل

ہوگا۔ ابو الدرداء کہتے ہیں! میں نے دریافت کیا خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ آپ نے فرمایا! خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا

ہو۔ جب تین مرتبہ یہی سوال وجواب ہوا تو تیسری مرتبہ میں آپ ﷺ نے فرمایا خواہ ابو الدرداء کی ناک خاک آلود ہو۔

مسند احمد، نسائی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابو الدرداء

حدیث صحیح ہے۔

۲۰۵ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دریافت کیا گیا اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا! وہ کلمہ تمہیں

اللہ عزوجل کی حرام کردہ اشیاء سے روک دے۔ الحکیم، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ الحلہ، بروایت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ

۲۰۶ جس شخص نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا! اخلاص

کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا! جو اللہ عزوجل نے تم پر حرام فرما رکھا ہے، ان سے تم باز آ جاؤ۔ الخطیب، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۷ جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہا۔ اور اس پر اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ اور اس کی زبان اس کے ساتھ مانوس ہو گئی

اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا بھی قائل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرمادیں گے۔

الطبرانی فی الاوسط، بروایت سعد بن عبادہ

۲۰۸ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا خواہ اس نے زنا کیا ہو، اور چوری کی ہو۔

الطبرانی فی الاوسط، بروایت سلمہ بن نعیم الاشجعی

۲۰۹ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو کوئی گناہ نقصان نہ پہنچائے گا، جس طرح کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے کوئی نیکی نفع نہیں پہنچا سکتی۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمرو رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے! حدیث ضعیف نظر۔ الترمذی ج ۱ ص ۱۵۳

دخول جنت رحمت الہی سے ہوگا

۲۱۰ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لئے جنت واجب ہوگی اور جس نے سبحان اللہ و بحمہ کہا اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھ دی

جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہؐ تب تو ہم میں کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں بعض لگ اس قدر نیکیاں لائیں گے کہ اگر کسی پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ بھی دب جائے۔ لیکن پھر اس پر کی گئی نعمتوں کو بھی لایا جائے گا اور وہ تمام نیکیاں ان نعمتوں کے عوض برابر ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔

المستدرک للحاکم، بروایت اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن ابیہ عن حدیث
۲۱۵ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہوا آئے، وہ جنت میں داخل

ہو جائے گا۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت عبادة بن الصامت

۲۱۶ جس شخص کی موت لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہوئے آئے، اس کے لئے مغفرت الہی حلال ہو جاتی ہے۔

الخطیب، بروایت جابر رضی اللہ عنہ، ابن عساکر، بروایت بریدہ

لیکن اس روایت میں یحییٰ بن عباد نامی ایک راوی ضعیف ہے۔

۲۱۷ جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو

جائے گا۔ مسند الامام احمد، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۱۸ جو شخص دل کی یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، جنت میں داخل ہو جائے گا۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۱۹ عوام الناس میں نداء ہے دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔

ابن عساکر، بروایت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ

۲۲۰ کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی عزت و عظمت والا کلمہ ہے جس نے اخلاص کے ساتھ کہہ لیا، اس کے لئے توجہ واجب ہوگی اور جس نے نفاق کے ساتھ کہا اس کی بھی جان اور مال تو محفوظ ہو ہی گئے۔ لیکن بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔

ابن النجار، بروایت دینار عن انس رضی اللہ عنہ

۲۲۱ کلمہ لا الہ الا اللہ، پروردگار کی ناراضگی سے پناہ میں رکھتا ہے جب تک کہ لوگ دنیا کی رنگینی کو آخرت کی حقیقت پر ترجیح نہ دیں۔ لیکن اگر لوگ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگیں اور پھر لا الہ الا اللہ کہیں تو یہ کلمہ ان پر رد کر دیا جاتا ہے اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔

الحکیم بروایت انس رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

۲۲۲ کلمہ لا الہ الا اللہ مسلسل پروردگار عز و جل کے غضب کو لوگوں سے روکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی دنیا کو سنوارنے کے لئے، دین کو ضائع نہ کرنا شروع ہو جائیں (لیکن جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے) اور پھر وہ اپنی زبانوں پر یہ کلمہ جاری کریں، تو ان کو کہا جاتا ہے انہیں نہیں اب تم اس کے اہل نہیں رہے۔ ابن النجار، بروایت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ
یہ حدیث ضعیف ہے۔

۲۲۳ لا الہ الا اللہ ہمیشہ اپنے کہنے والے کو نفع دیتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی اہانت نہ کی جائے۔ اور اس کے حق کی اہانت یہ ہے کہ معاصی کا دور دورہ ہو جائے مگر ان کو روکنے اور بند کرنے والا کوئی نہ ہو۔ الحاکم فی التاریخ بروایت ابان عن انس

۲۲۴ لا الہ الا اللہ کہنا مسلسل اللہ پاک کی ناراضگی کو بندوں سے دور رکھتا ہے حتیٰ کہ جب وہ اس منزل پر پہنچ جائیں کہ انہیں پروردگار سے کہ ان کی دینی حالت کس قدر انحطاط کا شکار ہے، بلکہ وہ صرف اپنی دنیا درست ہونے پر مطمئن ہو جائیں اور پھر اپنی جھوٹی زبانوں سے یہ کلمہ

کہیں تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں تم جھوٹ کہتے ہو۔ الحکیم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۵ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ وہ اس بات کی شہادت دیتا ہوا آئے کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق

نہیں اور محمد ﷺ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر اور حساب کتاب پر ایمان لائے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ النسائی، البغوی، ابن عساکر بروایت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ راعی النبی ﷺ

۲۲۶ لالا اللہ اپنے کہنے والے سے مصیبتوں کے نانوے دروازوں کو بند رکھتا ہے، جن میں سب سے کم رنج و غم ہے۔

۲۲۷ لالا اللہ عزوجل کے ہاں انتہائی عزت و تکریم والا کلمہ ہے۔ اس کا عمدہ و قابل رشک مقام ہے جس نے اس کو اخلاص کے ساتھ کہہ لیا، اس کے لئے جنت واجب ہوگی اور جس نے نفاق کے ساتھ کہا، اس کی بھی جان اور مال محفوظ تو ہو گئے۔ لیکن کل اس کی اللہ عزوجل سے ملاقات ہوگی تو اللہ عزوجل اس کا احتساب فرمائیں گے۔ ابو نعیم بروایت عیاض الاشعری -

۲۲۸ لالا اللہ نصف میزان ہے اور الحمد للہ اس کو بھر دیتا ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت شداد بن اوس

۲۲۹ میں مسلسل اپنے پروردگار سے سفارش کرتا رہوں گا۔ کرتا رہوں گا، حتیٰ کہ عرض کروں گا پروردگار! ہر ایسے شخص کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے، جس نے لالا اللہ کہا ہو۔ کہا جائے گا: نہیں محمد! یہ تمہارا حق نہیں ہے، نہ اور کسی کا۔ یہ میرا حق ہے! میں آج جہنم میں کسی بھی ایسے شخص کو نہ چھوڑوں گا جس نے لالا اللہ کہا ہو۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۰ کوئی بندہ اس حال میں نہیں مرتا کہ وہ دل کے اخلاص کے ساتھ لالا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے رہا ہو مگر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مسدد بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۳۱ اے بلال! لوگوں میں نداء دیدو کہ جس شخص نے اپنی موت سے ایک سال قبل یا ایک ماہ قبل یا ایک ہفتہ قبل یا ایک دن قبل یا ایک گھڑی قبل ہی کیوں نہ لالا اللہ کہا لیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا! پھر تو لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا! خواہ بھروسہ کر لیں۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت بلال رضی اللہ عنہ

اس روایت میں منہال بن خلیفہ مکر الحریث ہے۔ لہذا اس روایت پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

۲۳۲ اے سہیل بن ابیہیہ! جس نے لالا اللہ کی شہادت دی، اللہ عزوجل اس کو جہنم کی آگ پر حرام فرمادیں گے۔ اور اس کے لئے جنت واجب فرمادیں گے۔

عبد بن حمید، مسند الامام احمد، ابن ابی شیبہ، المسند لابی یعلیٰ، الصحیح لابن حبان، البغوی، ابن قانع بروایت سہیل بن البیضا

۲۳۳ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر میزان بھی لائی جائے گی، اور اس کے اعمال ناموں کے نانوے دفتر اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہر دفتر انتہا نظر تک پھیلا ہوگا۔ جن میں اس کی خطائیں اور گناہ ہوں گے پھر تمام دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ پھر آدھے پور جتنا کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لالا اللہ و اشہد ان محمداً عبده و رسوله درج ہوگا۔ اور اس کاغذ کے پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور پھر کاغذ کا وہ پرزہ اس کی تمام خطاؤں اور گناہوں پر بھاری ہو جائے گا۔

عبد بن حمید بروایت ابن عمرو

۲۳۴ قیامت کے روز اللہ عزوجل ارشاد فرمائیں گے! لالا اللہ والوں کو میرے عرش کے قریب کر دو، کیونکہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۵ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لالا اللہ میرا قلعہ ہے سو جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مامون ہو گیا۔

ابن النجار، عن علی بن النجار، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۶ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں! میں اللہ ہوں اور لالا اللہ میرا کلمہ ہے۔ جس نے اس کو کہہ لیا، میں اسے اپنی جنت میں داخل کر دوں گا اور جو میری جنت میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مامون ہو گیا اور قرآن میرا کلام ہے اور مجھ سے نکلا ہے۔

الخطیب بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

حصہ دوم..... ایمان کے متفرق فضائل کے بیان میں

۲۳۷۔ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا! اپنی امت کو خوشخبری دیدتجئے، کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے استفسار کیا! اے جبرئیل خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ فرمایا! جی ہاں، خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔ خواہ اس نے شراب کیوں نہ پی ہو۔ بخاری، مسلم مسند الامام احمد الجامع للترمذی، النسائی، الصحیح لابن حبان، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ حدیث صحیح ہے۔

۲۳۸۔ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے، اور خوشخبری دی، کہ آپ کی امت سے جو شخص اس حال میں مرا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا! خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔ بخاری، مسلم بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۲۳۹۔ جبرئیل علیہ السلام نے مجھے کہا! آپ کی امت سے جو شخص اس حال میں مرا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے کہا! خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ فرمایا! جی ہاں، خواہ اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو۔ بخاری، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۲۴۰۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پرست لوگوں کو ان کے کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں داخل فرمائیں گے، تو وہاں ان کو موت دے دیں گے۔ پھر جب ان کو زندہ کرنے کا ارادہ فرمائیں گے، اس گھڑی ان کو تھوڑا سا عذاب چکھادیں گے۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

۲۴۱۔ اعمال میں سب سے افضل، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے۔ پھر جہاد، پھر گناہوں سے مبرا حج۔ اور بقیہ تمام اعمال کی باہمی فضیلت یوں ہے، جس طرح طلوع شمس سے غروب شمس تک سارا دن ایک سا ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت عامر اعمال کی افضلیت کا دار و مدار احوال و اشخاص پر ہے اسی وجہ سے دیگر احادیث میں اس سے مختلف مضمون بھی آیا ہے۔ اور بقیہ اعمال کے ہم رتبہ ہونے کے لئے دن کی مثال پیش فرمائی۔

کامیاب مسلمان

۲۴۲۔ فلاح پا گیا وہ شخص جسے اسلام کی ہدایت مل گئی۔ اور بقدر کفایت روزی مل گئی۔ اور پھر وہ اس پر قناعت پسند بھی بن گیا۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت فضالۃ بن عیید

۲۴۳۔ اسلام اپنے سے پہلے اعمال کو منہدم کر دیتا ہے۔ ابن سعد بروایت زبیر رضی اللہ عنہ، و بروایت جبیر بن مطعم

۲۴۴۔ اسلام نرم و مہربان سواری ہے۔ لہذا اپنے لئے سوار بھی ایسا ہی منتخب کرتی ہے۔ مسند احمد، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۲۴۵۔ اسلام بڑھتا ہے۔ مگر گھٹتا نہیں۔ مسند الامام احمد، ابو داؤد، المستدرک للحاکم، بیہقی، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۴۶۔ اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے۔ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ الرویانی، الدارقطنی، بیہقی، الضیاء بروایت عابد بن عمر

۲۴۷۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ کہ اسلام اپنے سے پہلے برے اعمال کو منہدم کر دیتا ہے۔ اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے اعمال کو منہدم کر دیتی

ہے۔ اور حج بھی اپنے سے پہلے اعمال کو منہدم کر دیتا ہے۔ الصحیح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عمرو بن العاص

۲۴۸۔ واہ کیا ہی خوشی کی بات ہے اس شخص کے لئے، جس نے مجھے پایا، پھر مجھ پر ایمان لایا۔ اور اس شخص کے لئے بھی جو مجھے نہ پائے

مگر پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ ابن النجار، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

تمثل سکتے

بن دیکھے ایمان کی فضیلت

سیراہ اللیلہ، باب نمبر ۶۶، ص ۶۱

۲۴۹ واہ! کس قدر خوشی کی بات ہے اس شخص کے لئے، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ لیکن اس شخص کے لیے تو کس قدر خوشی کی بات ہے! کس قدر خوشی کی بات ہے! کس قدر خوشی کی بات ہے! جو مجھ پر ایمان لایا جو دیکھ اس نے مجھے دیکھا نہیں۔

مسند الامام احمد، بروایت ابی سعید

۲۵۰ کیا ہی خوشی کی بات ہے ایک بار، اس شخص کے لئے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ اور اس کے لئے تو سات بار بے انتہا خوشی کی بات ہے! جس نے مجھے دیکھا نہیں، مگر پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔

بخاری، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم، بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ مسند الامام احمد، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۵۱ خوشی کی بات ہے ایک بار اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ لیکن اس شخص کے لیے تین مرتبہ خوشی کی بات ہے! جس نے مجھے دیکھا نہیں، مگر پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ الطیالسی، عبد بن حمید بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۲۵۲ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم! جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے آس لگائے رکھے گا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا، میں تجھ سے سرزد ہونے والے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اگر چہ تو آسمان وزمین بھر گناہوں کے ساتھ بھی مجھ سے ملے گا، میں بھی آسمان وزمین بھر بخشش کے ساتھ تجھ سے ملوں گا۔ اور تیری مغفرت کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پروا نہیں۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

حدیث حسن ہے۔

۲۵۳ پروردگار عزوجل فرماتے ہیں! گناہوں کے بخشنے پر جس کو میری قدرت کا یقین ہو، میں اس کی مغفرت کرتا رہوں گا، جب تک کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور مجھے کوئی پروا نہیں ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۵۴ تمہارے پروردگار عزوجل نے فرمایا ہے! میں اس بات کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے۔ لہذا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ پس جو شخص میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے ڈرا اور اس سے باز رہا، تو میرا اس کو بخش دینا بھی مجھے زیب دیتا ہے۔

مسند الامام احمد، الجامع للترمذی، النسائی، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۵۵ یقیناً وہ شخص فلاح و کامرانی پا گیا، جس کا دل ایمان میں مخلص ہو گیا۔ اور اس نے اپنے دل کو سلیم الطبع کر لیا۔ اپنی زبان کو سچ کا عادی بنا لیا۔ اپنے نفس کو مطمئن کر لیا۔ اپنی گردش حیات کو درست کر لیا۔ اپنے کانوں کو حق سننے کا عادی بنا لیا۔ اور اپنی آنکھوں کو عبرتوں کا نظارہ کرنے والا بنا لیا۔ مسند الامام احمد، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۲۵۶ جس طرح شرک کے ساتھ کوئی نیکی سو مند نہیں، یونہی ایمان کے ساتھ کوئی چیز نقصان دہ نہیں۔

حطیب بعدادی، بروایت عمر رضی اللہ عنہ، الحلبيہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

۲۵۷ جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور یقین ہو گیا، کہ اللہ عزوجل اس کا پروردگار ہے، اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ اللہ عزوجل اس کو آگ پر حرام فرمائیں گے۔ مسند النزار، بروایت عمران

۲۵۸ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

مسند الامام احمد، بخاری، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۵۹۔ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

مسند الامام احمد، بخاری و مسلم، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۶۰۔ بغیر عمل ایمان مقبول، نہ بغیر ایمان کوئی عمل سو مند۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۲۶۱۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب نہیں کرتے، مگر سرکش اور اللہ پر جرات کرنے والے کو، جو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دے۔

ابن ماجہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۲۶۲۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مؤمن کی نیکی کم نہیں کرتے، بلکہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں اور آخرت میں اس پر ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ مگر کافر کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں نہیں دیتے ہیں۔ اور جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی، جس کا بدلہ

وہ اچھا پائے۔ مسند الامام احمد، الصحیح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۶۳۔ اگر کوئی مرد مؤمن مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ کسی یہودی یا نصرانی کو جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔

الصحیح لابن حبان، الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی موسیٰ

۲۶۴۔ میں نے جبریل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، گویا وہ میرے سر ہانے کھڑے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام میرے پائنتی کھڑے

ہیں۔ ایک دوسرے سے کہہ رہا ہے! ان کی کوئی مثال بیان کرو۔ دوسرے نے مجھے مخاطب ہو کر کہا! سنیے آپ کے کان تو سنتے رہیں اور آپ

کادل سمجھتا رہے! کہ آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال ایک ایسے بادشاہ کی طرح ہے، جس نے ایک گھر بنوایا، اور اس میں ایک کمرہ

بنوایا۔ پھر ایک قاصد بھیجا جو لوگوں کو دعوت پر بلا لائے۔ پس کچھ لوگوں نے تو دعوت کو قبول کیا اور کچھ نے چھوڑ دیا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ

تو بادشاہ ہیں اور وہ گھر اسلام ہے۔ اس میں بنایا گیا کمرہ جنت ہے۔ اور اے محمد! آپ اللہ کے قاصد ہیں۔ لہذا جس نے آپ کی دعوت پر لبیک

کہا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہوا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اور جو جنت میں داخل ہوا وہاں کی نعمتیں کھائے گا۔

بخاری الجامع للترمذی بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۶۵۔ جب بندہ اسلام سے مشرف ہو اور پھر پوری طرح اسلام کو اپنی زندگی میں بھی ڈھال لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خطا جو اس

سے سرزد ہوئی تھی، کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو ہرنیکی کے بدلہ دس نیکیاں ملتی ہیں،

جو سات سو تک بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن برائی صرف ایک گناہ ہی رہتی ہے۔ بلکہ امید ہے کہ اللہ پاک اس سے بھی درگزر فرمادیں۔

بخاری النسائی بروایت ابی سعید

۲۶۶۔ جب تم میں سے کوئی اسلام پر اچھی طرح کار بند ہو جائے، تو اس کی ہرنیکی دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ لیکن برائی صرف

ایک گنا رہتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔ مسند الامام احمد، بخاری و مسلم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۶۷۔ جب بندہ مسلمان ہو جائے اور پھر پوری طرح اسلام کو اپنی زندگی میں بھی ڈھال لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہرنیکی جو اس نے

انجام دی تھی، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ہر برائی جو اس سے صادر ہوئی تھی، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر یوں بدلہ دیا جاتا ہے، کہ ایک نیکی دس گناہ

سے سات سو گناہ تک بڑھ جاتی ہے۔ اور برائی صرف ایک گناہ رہتی ہے بلکہ امید ہے کہ اللہ پاک اس سے بھی درگزر فرمادیں۔

الصحیح لابن حبان، النسائی بروایت ابی سعید

۲۶۸۔ اعمال میں سب سے افضل، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے۔ پھر جہاد، پھر گناہوں سے مبرا ج۔ اور تقیہ تمام اعمال کی باہمی فضیلت

یوں ہے جس طرح طلوع شمس سے غروب شمس تک سارے دن کی ایک سی حیثیت ہے۔ مسند الامام احمد، بروایت معاذ

۲۶۹۔ سب سے افضل عمل، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا ہے۔ اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

الصحیح لابن حبان بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۲۷۰۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حید پرست بندوں کو جہنم میں اگر عذاب دیں گے، تو وہ ان کے ایمان کی کمی کے بقدر دیں گے پھر ان کے ایمان کے

سبب، ہمیشہ کے لئے ان کو جنت میں داخل فرمادیں گے۔ الحلیہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ
۲۷۱۔ بے شک جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے۔ اور ایام منیٰ کھانے پینے کے دن ہیں۔

مسند الامام احمد، النسائی، ابو داؤد الطیالسی، بروایت بشر بن سعید، بروایت کعب بن مالک

۲۷۲۔ بے شک جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ پاک کسی فاسق شخص کے ذریعہ بھی اس دین کی مدد کروا لیتے ہیں۔

مسند الامام احمد، النسائی، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

روایت سے متعلق اہم امور حدیث ۱۱۵ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

۲۷۳۔ جو مجھ پر ایمان لایا۔ اسلام سے بہرہ مند ہوا۔ اور ہجرت کی، میں اس شخص کے لئے جنت کے آس پاس گھر کا ذمہ دار ہوں، اور جنت کے عین وسط میں گھر کا ذمہ دار ہوں، اور جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں گھر کا ذمہ دار ہوں۔ پس جو ان اعمال میں پورا اترا، اس نے خیر کا کوئی کام نہ چھوڑا، اور شر کے لئے کوئی رہنے کی جگہ نہ چھوڑی۔ پس جہاں چاہے انتقال کرے۔

النسائی، الصحیح لابن حبان، المستدرک للحاکم، بیہقی، بروایت فضالہ بن عیید

۲۷۴۔ افضل اسلام ملت ابراہیمی والا ہے۔ الاوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۷۵۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ خواہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، یا اسی سر زمین میں بیٹھا رہے، جہاں اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔

مسند الامام احمد، بخاری بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

ناحق قتل دخول جہنم کا سبب ہے

۲۷۶۔ جو شخص اس حال میں آیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اور کبائر سے بچتا رہا، تو یقیناً اس کے لئے جنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا! کبائر کیا چیز ہیں؟ فرمایا! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، مسلم جان کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے روز پشت دے کر بھاگنا۔

مسند الامام احمد، النسائی، الصحیح لابن حبان، المستدرک للحاکم بروایت ابی ایوب

۲۷۷۔ جس شخص نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کی باندی کے بیٹے ہیں، اور اس کی نشانی ہیں، جن کو اللہ نے مریم علیہ السلام میں القاء کیا۔ اور اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور جنت حق ہے۔ جہنم حق ہے۔ دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے میں داخل فرمادیں گے، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔

مسند الامام احمد، بخاری و مسلم بروایت عبادة بن الصامت

۲۷۸۔ جس شخص نے دنیا سے اس حال میں کوچ کیا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ مخلص ایمان والا تھا، خالص اسی کی عبادت کرتا تھا، نماز قائم کرتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ تو اللہ کی قسم! اس کی یہ موت اس حال میں آئی ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی تھے۔

ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۹۔ جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ مسند الامام احمد، الصحیح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۸۰۔ قسم ہے اس ذات کی! جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس امت کا خواہ کوئی یہودی ہو یا نصرانی، جس نے بھی میرے متعلق سنا۔ اور

پھر یونہی مر گیا، میری دعوت پر ایمان نہ لایا، تو یقیناً وہ اصحابِ جنہم میں داخل ہوگا۔

مسند الامام احمد، الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

زندہ درگور کرنے کا برا انجام

۲۸۱ زندہ درگور کرنے والی اور ہونے والی دونوں جہنم میں ہوں گی۔ لایا یہ کہ زندہ درگور کرنے والی بعد میں اسلام کو پالے اور اس سے وابستہ ہو جائے۔ مسند الامام احمد، النسائی بروایت سلمۃ بن یزید، یزید جعفی سلمۃ بن یزید جعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوا۔ اور ہم نے عرض کیا کہ ہماری والدہ ملکہ زمانہ جاہلیت میں صلہ رحمی کیا کرتی تھی، مہمان نوازی کرتی تھی اور اس طرح کے دیگر نیک کام انجام دیتی تھی۔ وہ زمانہ جاہلیت ہی میں انتقال کر گئی۔ تو کیا یہ خیر کے کام اس کے لئے کچھ سود مند ثابت ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے مزید عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں ہماری ایک بہن بھی تھی، جس کو ہماری اس والدہ نے زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق زندہ درگور کر دیا تھا تو کیا ہماری والدہ کے نیک کام اس گناہ کو دھو سکیں گے؟ تب آپ ﷺ نے فرمایا زندہ درگور کرنے والی اور ہونے والی دونوں جہنم میں ہوں گی۔ لایا یہ کہ زندہ درگور کرنے والی بعد میں اسلام کو پالے اور اس سے وابستہ ہو جائے۔ قاتلہ کے جہنم جانے کا مسئلہ تو واضح ہے، مگر مقتولہ زندہ درگور ہونے والی کیوں جہنم میں جائے گی؟ اس کی وجہ زندہ درگور ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا دارا اس مسئلہ پر ہے کہ کیا اولادِ مشرکین جہنم میں جائیں گی یا جنت میں؟ اس بارے میں نصوص متعارض ہیں۔

۲۸۲ اے ابوسعید! جو شخص اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد ﷺ کے پیغمبر ہونے راضی ہو گیا، اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔ اور دوسرا عمل، جس کے ذریعہ بندہ جنت کے سو درجات تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ ایک درجہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔

مسند الامام احمد، الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، النسائی بروایت ابی سعید

۲۸۳ اے معاذ بن جبل! کیا تجھے پتہ ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ سو جان لو! اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں،

اللہ ان کو عذاب نہ دے۔ مسند الامام احمد، بخاری و مسلم الجامع للترمذی، ابن ماجہ بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۸۴ جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا، جس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہوگا۔ ترمذی، بروایت ابی سعید

۲۸۵ اللہ تعالیٰ سب سے ہلکے عذاب والے سے فرمائیں! اگر تیرے پاس زمین بھر مال ہو، تو کیا تو اس کے عوض اپنی جان چھڑانا پسند کرے گا؟ بندہ عرض کرے گا! جی پروردگار۔ پروردگار فرمائیں! میں نے تجھ سے اس سے بھی ہلکی چیز پسند کی تھی۔ جبکہ تو ابھی ابھی آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا! یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مگر تو شرک کرنے پر مصر رہا۔

بخاری و مسلم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۸۶ قیامت کے روز ایک جہنمی شخص کو کہا جائے گا! اگر تیرے پاس زمین بھر مال ہو، تو کیا تو اس کے عوض اپنی جان چھڑانا پسند کرے گا؟ بندہ عرض کرے گا! بالکل پروردگار۔ پروردگار فرمائیں! میں نے تجھ سے اس سے بھی ہلکی چیز پسند کی تھی۔ میں نے تجھ سے عہد لیا تھا، جبکہ تو ابھی آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا! یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مگر تو شرک کرنے پر مصر رہا۔

مسند الامام احمد، بخاری و مسلم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۸۷ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس امت کے ہر شخص کو ایک ایک کافر عطا فرمائیں گے۔ اور اس کو کہا جائے گا! جہنم میں جانے سے یہ تیرا فدیہ ہے۔ الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی موسیٰ

ہر شخص کی جنت و جہنم دونوں میں ایک ایک جگہ مقرر ہوتی ہے۔ اگر وہ اسلام سے مشرف ہو اور جنت میں گیا تو اس کی جہنم والی جگہ کافر کو مل جاتی ہے۔ اور اگر کفر کی بدعتی کی وجہ سے جہنم میں گیا تو جنت والی جگہ کسی مسلمان کو مل جاتی ہے۔

۲۸۸ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر مومن کے پاس ایک فرشتہ بھیجیں گے، جس کے ساتھ ایک کافر ہوگا۔ فرشتہ مومن سے کہے گا: اے

۲۸۹ اللہ کے نزدیک تمام ادیان میں سب سے زیادہ محبوب دین ملت حنیفہ والا آسان دین ہے۔
مسند الامام احمد، الادب للبخاری، الطبرانی فی الکبیر، الکنی للحاکم، بروایت ابی موسیٰ

یعنی پہلے انبیاء کی ملل و شرائع کے منسوخ و مبدل ہونے سے قبل یہ ملت بہتر ہے۔ ورنہ وہ منسوخ و مبدل ہونے کے بعد بالکل ناجائز العمل ہیں۔ حنیفہ کا مطلب ہے کہ باطل سے کلیتہً منحرف ہو کر محض حق کی طرف گامزن ہے۔ اور صحیح سے مراد آسان و سہل العمل ہے۔

۲۹۰ اللہ کے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ محبوب دین خالص ملت حنیفہ والا دین ہے۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت ابی ہریرہ رضی الله عنه

ملت حنیفہ والے دین سے مراد وہ دین ہے، جو باطل سے کلیتہً منقطع ہو کر حق کی طرف مائل ہونے والا ہو۔

۲۹۱ سب سے زیادہ محبوب دین اللہ کے نزدیک ملت حنیفہ والا دین ہے۔ پس جب تو میری امت کو دیکھے، اوہ ظالم کو ظالم نہیں کہتے، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔

المستدرک للحاکم الغرائب لابی موسیٰ النرسی معرفة الصحابة لابی موسیٰ المدینی رواية السند عن جعفر بن الزهر بن قریظ عن جده عن ابی امه سلیمان بن کنیر بن امیة بن سعید عن ابیہ اسعد عن عبد الله بن مالک

۲۹۲ قیامت کے روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو اٹھائیں گے، ایک منادی عرش کے نیچے سے تین مرتبہ ندا دے گا: اے توحید پرست لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرمایا ہے۔ لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔

ابن ابی الدنيا في ذم الغضب بروایت انس رضی الله عنه

قیامت کے دن توحید پرستوں کی حالت

۲۹۳ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک میدان میں تمام مخلوقات کو اکٹھا فرمائیں گے۔ پھر ہر قوم کے معبودان باطلہ کو اٹھائیں گے، جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ اور وہ معبودان باطلہ اپنے بچاریوں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے۔ پیچھے صرف توحید پرست لوگ بچ جائیں گے۔ ان سے استفسار کیا جائے گا کہ تم کس کے منتظر ہو؟ وہ کہیں گے! ہم اپنے اس پروردگار کے منتظر ہیں، جس کی ہم غائبانہ پرستش کیا کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا! کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ جواب دیں گے! اگر وہ ہمارا رب چاہے گا، تو ہم اس کو ضرور پہچانیں گے۔ سو اس وقت پروردگار عز و جل ان پر اپنی کھلی ظاہر فرمائیں گے۔ اور وہ تمام لوگ سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ پھر اس عالم میں ان کو مزید سنایا جائے گا: اے اہل توحید! اپنے سروں کو اٹھاؤ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لئے جنت واجب فرمادی ہے۔ اور تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں کسی یہودی یا نصرانی کو بھیج دیا گیا ہے۔ الحلیہ، بروایت ابی موسیٰ

۲۹۴ جب قیامت کا روز ہوگا، ایمان اور شرک آئیں گے۔ اور پروردگار کے سامنے بحث و تحیص کرنے لگیں گے۔ تو پروردگار ایمان کو فرمائیں گے! تو اپنے اہل کو لے کر جنت میں جا۔ التاریخ للحاکم، بروایت صفوان بن عسال

۲۹۵ جب تم میں سے کوئی اسلام پر اچھی طرح کار بند ہو جائے، تو اس کی کی ہوئی ہر نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا کر لکھ دی جاتی

ہے۔ لیکن برائی صرف ایک گناہ لکھی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے۔

۲۹۶۔ مسند الامام احمد، بخاری، الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
 جب بندہ مسلمان ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر نیکی، جو اس نے پہلے کی ہو، اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ہر برائی جو اس سے
 صادر ہوئی تھی، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ پھر از سر نو معاملہ شروع ہوتا ہے اس طرح کہ ایک نیکی دس گنا سے سات سو گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ اور برائی
 صرف وہی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو بھی اللہ معاف فرمادیں۔ اور وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ سمویہ بروایت ابی سعید
 ۲۹۷۔ اسلام اپنے سے پہلے اعمال کو منہدم کر دیتا ہے۔ اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے اعمال کو منہدم کر دیتی ہے۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 ۲۹۷۔ جب بندہ مسلمان ہو جائے اور پھر پوری طرح اسلام کو اپنی زندگی میں بھی ڈھال لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر نیکی جو اس نے
 انجام دی تھی، اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور ہر برائی جو اس سے سرزد ہوئی تھی، اس کا کفارہ فرمادیتے ہیں۔ اور اسلام میں وہ جو عمل کرے، اس کے
 ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں! کہ ایک نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھ جاتی ہے۔ اور برائی صرف ایک گناہ رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
 اس کو بھی محو فرمادیں۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت عطاء بن یسار مرسلًا

۲۹۹۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ کہ اسلام اپنے سے پہلے اعمال کو منہدم کر دیتا ہے۔ اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے اعمال کو منہدم کر دیتی ہے۔ اور حج
 بھی اپنے سے پہلے اعمال کو منہدم کر دیتا ہے۔ السنن لسعد، بروایت عمرو بن العاص

۳۰۰۔ اللہ تعالیٰ بندہ کو معاف فرماتے رہتے ہیں، جب تک پردہ حائل نہ ہو۔ دریافت کیا گیا! پردہ کیا ہے؟ فرمایا! اس حال میں روح نکلے کہ وہ
 مشرک ہو۔ مسند الامام احمد، بخاری فی التاریخ المسند لابی یعلیٰ، الصحيح لابن حبان، البغوی فی الجعدیات، المستدرک للحاکم
 السنن لسعد بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۳۰۱۔ مسلمان، جب سے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے تک مسلسل اللہ کی ذمہ داری میں رہتا ہے۔ پس اگر
 اللہ عزوجل سے اس حال میں سامنا ہو کہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہو، یا اخلاص کے ساتھ استغفار کرتا ہو آئے، تو اللہ تعالیٰ اس
 کے لئے جہنم سے خلاصی لکھ دیتے ہیں۔ البزار بروایت ابی سلمۃ بن عبدالرحمن عن ابیہ ولم یسمع عنہ
 ۳۰۲۔ نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ دریافت کیا گیا! کیا اس کی کوئی علامت ہے؟ جس سے اس کا علم ہو سکے
 ؟ فرمایا! ہاں، دھوکہ کے گھر دنیا سے پہلو تہی کرنا۔ دائمی گھر کی طرف متوجہ ہونا۔ اور موت کے آنے سے قبل اس کی تیاری کر لینا۔

المستدرک للحاکم و تعقب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 ۳۰۳۔ اے مسہر! اسلام سے دامن گیر ہو جا۔ اور اپنے دین کو دنیا کے عوض فروخت نہ کر۔ ابن سعد، بروایت الشعبي مرسلًا

۳۰۴۔ اسلام لے آ، سلامتی پا جائے گا۔ الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم بروایت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ
 ۳۰۵۔ اسلام لے آ، سلامتی پا جائے گا۔ دریافت کیا گیا اسلام کیا ہے؟ فرمایا۔ اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اسلام لے آئے اور مسلمان تیری
 زبان اور ہاتھ کی ایذا سے محفوظ ہو جائیں۔ آپ سے پوچھا گیا! کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا! ایمان، دریافت کیا گیا! ایمان کیا
 ہے؟ فرمایا! ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان
 لاؤ۔ دریافت کیا گیا! کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا! ہجرت۔ دریافت کیا گیا! ہجرت کیا ہے؟ فرمایا! تم گناہوں کو چھوڑ دو۔ دریافت کیا
 گیا! کون سی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا! جہاد۔ دریافت کیا گیا! جہاد کیا ہے؟ فرمایا! جہاد یہ ہے کہ جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ان سے قتال
 کرو۔ اور مال غنیمت میں خیانت نہ کرو، اور بزودی نہ دکھاؤ، پھر ان کے بعد عمل سب سے افضل ہیں۔ لایا یہ کہ کوئی انہی جیسا عمل کرے، گناہوں

سے میرا حج یا عمرہ۔ شعب الایمان، بروایت ابی قلابہ عن رحیل من اهل الشام عن ابیہ

اسلام امن کا مذہب ہے

۳۰۶ اسلام سے بہرہ مند ہو جاؤ، مایمون ہو جاؤ گے۔ اور جان رکھو! کہ ساری دھرتی اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ میں تم کو اس سرزمین سے جلا وطن کر دوں۔ پس جو شخص تم میں سے کچھ مال پائے، اس کو فروخت کر ڈالے۔ اور جان رکھو! کہ ساری دھرتی اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ بخاری، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ نے یہود کو جلا وطن کرتے ہوئے ان سے فرمایا تھا۔

۳۰۷ ایمان جنت کی قیمت ہے۔ الحمد للہ تمام نعمتوں کی قیمت ہے۔ اور جنت لوگوں میں ان کے اعمال کے مطابق تقسیم ہوگی۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۰۸ اللہ عزوجل کے تین حرم ہیں، جس نے ان کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور جس نے ان کا خیال نہ رکھا، اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی پرواہ نہیں۔ اسلام کی حرمت، میری حرمت، اور میری قربت کی حرمت۔

الطبرانی فی الکبیر، ابو نعیم، بروایت ابی سعید

۳۰۹ اسلام ایک کشادہ گھر ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا، فراخی پا گیا۔ اور ہجرت کشادہ گھر ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا، فراخی پا گیا۔ اور جس کو اسلام کی دعوت پہنچی، وہ مسلمان ہو گیا، اور ہجرت کی دعوت پہنچی، اس نے ہجرت اختیار کی، تو اس نے خیر کا کوئی کام نہ چھوڑا اور شر کے لئے کوئی جائے فرار نہ چھوڑی۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت فضالہ بن عبید

۳۱۰ اسلام اس سے زیادہ باعزت ہے۔ اور اسلام بلند ہوتا ہے، مگر اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہوتی۔

الرویانی، الدارقطنی، بخاری و مسلم، السنن لسعید، بروایت عائذ بن عمرو المزنی

۳۱۱ اسلام انسانوں کو پگھلا کر یوں مہذب بنا دیتا ہے، جس طرح آگ لوہے، سونے اور چاندی کو پگھلا کر مہذب بنا دیتی ہے۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی سعید

۳۱۲ بے شک جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہو سکتا ہے۔ اور ایسا منی کھانے پینے کے ایام ہیں۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت کعب بن مالک میں نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی شادی زینب بنت جحش سے کر دی ہے۔ اور مقداد کی شادی ضباعہ بنت زبیر سے، تاکہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے ہاں تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے اچھے اسلام والا ہے۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۱۳ جو مجھ پر ایمان لایا۔ اسلام سے بہرہ مند ہوا۔ اور ہجرت کی، میں اس شخص کے لئے جنت کے آس پاس گھر کا ذمہ دار ہوں، اور جنت کے عین وسط میں گھر کا ذمہ دار ہوں، اور جنت کے اعلیٰ بالا خانوں میں گھر کا ذمہ دار ہوں۔ پس جو ان اعمال میں پورا اترا، اس نے خیر کا کوئی کام نہ چھوڑا، اور شر کے لئے کوئی رہنے کی جگہ نہ چھوڑی۔ پس جہاں چاہے انتقال کرے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت فضالہ بن عبید

۳۱۵ دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۳۱۶ تمہارے پروردگار عزوجل نے فرمایا ہے اگر میرا بندہ آسمان وزمین بھر گناہوں کے ساتھ بھی مجھ سے ملے گا، میں بھی آسمان وزمین بھر بخشش کے ساتھ اس سے ملوں گا، بشرطیکہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی الدرداء

۳۱۷... اے عمر کھڑے ہو اور جاؤ! لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مؤمنین کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ النسائی بروایت، عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن، صحیح ہے۔

۳۱۸ ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا وہ شخص جو اس حال میں انتقال کرے، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، اور طلوع شمس، غروب شمس سے قبل نماز کا اہتمام کرتا ہو۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی عمارۃ بن رویہ

۳۱۹ نفسِ مسلم کے سوا جنت میں ہرگز کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ ابن سعد، الطبرانی فی الکبیر بروایت سلمان الفارسی

اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نعمت ایمان ہے

۳۲۰ بندہ اللہ کی جن نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ نعمت ایمان ہے۔ کہ بندہ اللہ پر، اس کے فرشتوں

پر، اس کے رسولوں پر ایمان لایا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا۔ ابو نعیم بروایت اسعد بن زرارة بن منده عن اخیه سعید بن زرارة

ابو نعیم نے راوی کے بھائی کے شیوخ میں گمان کیا ہے۔ ابن النجار، من طریق ابی الرجال عن ابیہ عن جده سعد

۳۲۱ جس کی تمنا ہو کہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے، اس پر لازم ہے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ پر اور یوم

آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اور لوگوں سے بھی وہی سلوک کرتا ہو جو اپنے لئے چاہتا ہو۔ مسند الامام احمد، بروایت ابن عمرو

۳۲۲ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے اپنے دین ہونے پر، اور محمد ﷺ کے پیغمبر ہونے راضی ہو گیا، اس کے لئے جنت واجب

ہوگی۔ اور دوسرے اعمال جن کے ذریعہ بندہ کو اللہ جنت کے سوردجات تک پہنچا سکتا ہے، جبکہ ایک درجہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا ہے، وہ

دوسرے اعمال، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ الصحیح لابن حبان، المستدرک للحاکم، شعب الایمان بروایت ابی سعید

۳۲۳ جس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور یقین ہو گیا، کہ اللہ عزوجل اس کا پروردگار ہے، اور میں اس کا پیغمبر ہوں۔ اللہ عزوجل اس کے

گوشت کو آگ پر حرام فرمادیں گے۔ مسند الزار، المستدرک للحاکم، عبدالغافر الفارسی فی امالیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن

خزیمہ، الطبرانی فی الکبیر، الحلیہ، الخطیب بروایت عمران بن حصین

۳۲۴ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حق کو سنا اور اس کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ

اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے، جس سے وہ چاہے جنت میں داخل فرمادیں گے۔ اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا رہا، اس کے ساتھ کسی

کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، حق کو سنا، مگر اس کی اطاعت نہ کی۔ تو اللہ عزوجل کی مرضی ہے، خواہ اس پر رحم فرمائیں، یا عذاب دیں۔

مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، ابن عساکر بروایت عبادة بن الصامت

۳۲۵ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

مسند الامام احمد، بخاری، بروایت انس رضی اللہ عنہ المستدرک للحاکم بروایت معاذ وسعید بن الحرث بن عبدالمطلب معاً

مسند الامام احمد، بروایت معاذ و ابی الدرداء معاً

۳۲۶ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے

گا۔ اور اس برعکس کے جو اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

شعب الایمان، ابن عساکر بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۳۲۷ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور پانچ وقت

نماز کا پابند ہو اور رمضان کے روزے رکھتا ہو، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ مسند الامام احمد، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۳۲۸ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور اس

کے ساتھ کوئی گناہ نقصان دہ نہیں۔ اسی طرح اگر شرک کی حالت میں اس سے ملا تو جہنم میں جا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ کوئی نیکی سود مند نہیں۔

مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عمرو

حدیث صحیح ہے۔

۳۲۹ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور کسی معصوم الدم کو قتل نہ کیا ہو تو وہ

اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی بار نہ ہوگا۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۳۰ قیامت کے روز، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے پنجگانہ نمازوں کے ساتھ، رمضان کے روزوں کے ساتھ اور جنابت کے بعد غسل کرنے

کے ساتھ ملاقات کرے، تو وہ اللہ کا سچا بندہ ہوگا۔ اور جو ان میں سے کسی چیز کی خیانت کے ساتھ ملے تو وہ اللہ کا دشمن ہوگا۔ بروایت ابن عمرو

حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں ایک راوی حجاج بن رشدین بن سعد ہے، جس کو ابن عدی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۵۔

۳۳۱ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کی خوشی کے ساتھ ادا نیگی کرتا ہو اور حق سنتا اور اس کی

اطاعت کرتا ہو تو اس کے لئے جنت ہے۔ مسند الامام احمد، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۲ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا خواہ

اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔

مسند الامام احمد، بروایت عبد بن حمید، البغوی، ابن قانع، الطبرانی فی الکبیر، السنن لسعید بروایت سلمة بن نعیم الاشجعی

اس کے لئے اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔

۳۳۳ خطا کار عارفین کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان کو جنت یا جہنم میں داخل نہ کرو، اللہ عز و جل ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔

الفردوس للذہبی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

جنتی اور جہنمی ہونے کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے

۳۳۴ میرے گناہگار موحدین عارفین بندوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان کو جنت یا جہنم میں داخل نہ کرو۔ میں خود اپنے علم کے ساتھ ان

کے بارے میں فیصلہ کروں گا۔ اور جو گراں باری خود برداشت نہیں کر سکتے ان کو بھی ایسی مشقت میں نہ ڈالو۔ اور بندگان خدا کے اندرونی

معاملات کی ٹوہ میں نہ لگو، خدا خود ان کا محاسبہ فرمائے گا۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت زید بن ارقم

۳۳۵ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں! میرے گناہگار موحدین عارفین بندوں کو جنت یا جہنم میں داخل نہ کرو۔ حتیٰ کہ پروردگار خود ان کے

متعلق فیصلہ فرمائیں گے۔ الفردوس للذہبی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت علی رضی اللہ عنہ

۳۳۶ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور کسی ناجائز خوریزی میں اپنے

ہاتھ رنگیں نہ کیے ہوں تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

مسند الامام احمد، ابن ماجہ، الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم بروایت عقبہ بن عامر

۳۳۷ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی پانچ باتوں کے ساتھ ملا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پنجگانہ نمازوں کو کامل طہارت، اچھی

طرح رکوع و سجود کے ساتھ ادا کرتا ہو۔ رمضان کے روزے رکھتا ہو۔ بیت اللہ جانے کی استطاعت ہو تو حج کرتا ہو۔ زکوٰۃ کی ادا نیگی کرتا ہو،

جو اسلام کی فطرت ہے۔ امانت داری رکھتا ہو۔ اور جنابت سے غسل کرتا ہو۔ شعب الایمان، بروایت ابی الدرداء

۳۳۸ جو شخص ایمان لانے بعد کسی شرک میں مبتلا نہ ہو، فرض نماز ادا کرتا ہو، فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ رمضان کے روزے رکھتا ہو۔ اور حق

سنتا اور اس کی اطاعت کرتا ہو تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت مالک الاشعری
حدیث ضعیف ہے۔

۳۳۹ جو اس حال میں مرا کہ وہ سچا مؤمن نہ تھا، تو وہ قطعاً کافر ہے۔ ابن النجار بروایت سمعان بن انس رضی اللہ عنہ
۳۴۰ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو برابر نہ ٹھہراتا ہو پھر خواہ ریت کے ذرات کے برابر گناہ لائے مگر اللہ تعالیٰ اس
کی مغفرت فرمادیں گے۔ ابن مردویہ بروایت ابی الدرداء
۳۴۱ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو اور کسی ناجائز خونریزی میں اپنے ہاتھ رنگین نہ کیے ہوں تو وہ جنت
کے جس دروازے سے چاہے، داخل ہو جائے۔

الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم بروایت جریر الفتن لنعیم بن حماد بروایت عقبہ بن عامر
۳۴۲ جو شخص اس حال میں مرا، تو وہ قیامت کے روز نبیوں، صدیقیوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا جب تک کہ وہ والدین کے ساتھ بدسلوکی
سے پیش نہ آتا ہو۔

مسند الامام احمد، بزاز محمد بن نصر، ابن مندہ، الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، شعب الايمان، بروایت عمرو بن مرة الجهنی
ایک شخص نے آپ ﷺ سے استفسار کیا! یا رسول اللہ اگر میں شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سچ وقتہ
نماز ادا کروں۔ رمضان کے روزے رکھوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کروں تو مجھے کیا اجر ملے گا؟ تب آپ ﷺ نے مذکورہ بالا جواب مرحمت فرمایا۔
۳۴۳ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اس کے مغفرت حلال ہوگئی۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت نواس بن سمعان

حدیث حسن ہے۔

۳۴۴ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیئے جائیں گے۔ جس
دروازے سے چاہے، داخل ہو جائے۔ اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت عقبہ بن عامر
۳۴۵ جس کا اس حال میں انتقال ہوا، کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کو کہا جائے گا! جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس
دروازے سے چاہے، داخل ہو جائے، ابو داؤد الطیالسی، مسند الامام احمد، ابن مردویہ، بروایت عمر رضی اللہ عنہ
۳۴۶ جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔

ابن عساکر، بروایت عبادة بن الصامت

۳۴۷ جس کا اس حال میں انتقال ہوا، کہ اس کو یقین تھا کہ اللہ کی ذات برحق ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔

المسند لابن یعلیٰ بروایت عثمان بن عفان

۳۴۸ جو اس حال میں مرا کہ اس کو تین باتوں کا یقین تھا کہ اللہ کی ذات برحق ہے، قیامت برحق ہے، اور اللہ عزوجل قبروں میں پڑے ہوئے
مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الطبرانی فی الکبیر، ابن عساکر بروایت معاذ رضی اللہ عنہ
۳۴۹ جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو جنت اس کے لئے واجب ہوگئی۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۳۵۰ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسٹھہراتا تھا، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اور پنجگانہ نمازیں درمیانی اوقات کے لئے کفارہ

ہیں، جب تک کہ ان سے پختار ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۵۱ اے عمر، جاؤ الوگوں میں اعلان کر دو! بھول گئے اخلاص کما تھ عبادت کرتا ہوا انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور
جہنم کی آگ اس پر حرام فرمادیں گے۔ عبد بن حمید، المسند لابن یعلیٰ، السنن لسعید، بروایت حابر رضی اللہ عنہ

۳۵۲ دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو اس حال میں ملاقات کرے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت عمارۃ بن رؤینہ

۳۵۳ جنت میں کافر داخل نہ ہوگا اور جہنم میں مؤمن داخل نہ ہوگا۔ الفردوس للذیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی شریح

۳۵۴ اہل الشک کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لئے کوئی پناہ گاہ میسر نہیں۔

ابو داؤد، بخاری و مسلم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۵۵ جس طرح اسلام کے ساتھ کوئی گناہ نقصان دہ نہیں، یونہی شرک کے ساتھ کوئی عمل سود مند نہیں۔ احملیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۵۶ اے معاذ! کیا تم نے اس کی بات سنی، جو آج میرے پاس آیا ہے۔ میرے پروردگار کی طرف سے آنے والے ایک فرشتہ نے مجھے خوشخبری دی ہے! جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ نے عرض کیا کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا! انہیں چھوڑ دو، پل صراط سے سب گذریں گے۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۳۵۷ اے معاذ! جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ نے عرض

کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو اطلاع نہ دیدوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا! انہیں چھوڑ دو، تاکہ وہ اعمال میں ایک دوسرے پر باڑی لے جانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ الطبرانی فی الکبیر، الحلہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۵۸ اے عرب کی جماعتو! میں تمام مخلوق کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کے اقرار کرنے کی، کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا بندہ ہوں۔ اور یہ کہ تم بیت اللہ کا حج کرو، بارہ مہینوں میں سے ایک ماہ کے روزے رکھو، یعنی رمضان کے۔ پس جس نے میری دعوت پر لبیک کہا! اس کے لئے بطور مہمان نوازی اور ثواب کے جنت ہے۔ اور جس نے میری دعوت سے روگردانی کی، اس کے لئے ہر طرف سے آگ ہے۔

ابن عساکر، بروایت محمد بن الحارث بن ہانی بن مدلیح بن المقداد بن رمل بن عمرو بن العذری عن آبانہ عن رمل بن عمرو

۳۵۹ اے سائب! تم ایام جاہلیت میں جو نیک اعمال کرتے تھے، وہ اس وقت قبول نہ ہوتے تھے مگر آج وہ تمہاری جانب سے قبول کے

جار ہے ہیں۔ مسند الامام احمد، ابن سعد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت سائب بن ابی سائب

۳۶۰ اگر وہ اسلام لے آئیں، تو ان کے لئے بہتر ہوگا۔ اگر وہ اسلام میں رکنا چاہیں، تو اسلام وسیع و کشادہ مذہب ہے۔

ابن سعد، الطبرانی فی الکبیر، البغوی، بروایت، مجمع بن عتاب بن شمیم عن ابیہ

۳۶۱ یہ لوگ تم سے اور تمہارے اہل و عیال سے بہتر ہیں۔ اللہ، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور تم سے اس ذات کی، جس کے قبضہ میں

میری جان ہے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت مالک بن ربیعۃ السنولی

۳۶۲ اے معاذ! اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ کسی مشرک کو ہدایت بخش دیں، تو یہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔

مسند الامام احمد، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۳۶۳ اللہ عزوجل کسی بندہ کے عمل سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے، جب تک کہ اس کے قول سے راضی نہ ہوں۔

الفردوس للذیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۶۴ جب قیامت کا روز ہوگا، اللہ پاک ہر مؤمن کو ایک بیہودی یا نصرانی دیں گے، اور اس کو کہا جائے گا! جہنم میں جانے سے یہ تیرا فدیہ ہے۔

الصصحیح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی موسیٰ

فصل چہارم ایمان اور اسلام کے احکام میں

یہ فصل دو فرع پر مشتمل ہے۔ پہلی فرع شہادتین کے اقرار میں۔

۳۶۵۔ ان سے قتال جاری رکھو حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ مگر ان کے حق کی وجہ سے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

۳۶۶۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا۔ اور اسوای اللہ کے جن کی بھی پرستش کی جاتی ہے، سب کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مال اور جان کو محترم کر دیں گے۔ اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔

مسند الامام احمد، الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت والد ابی مالک الاشجعی

۳۶۷۔ کسی ایسے مسلمان کا خون کرنا حلال نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو۔ مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ اس نے احسان کے بعد زنا کیا ہو، تو اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ یا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ مول لی ہو، تو اس کو قتل کیا جائے گا، یا سولی لٹکایا جائے گا، یا اس سرزمین سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یا اس نے کسی جان کو قتل کر ڈالا ہو، تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔

ابوداؤد، ترمذی، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۸۔ کسی ایسے مسلمان کا خون کرنا حلال نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو۔ مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو۔ یا اس نے کسی جان کو قتل کر ڈالا ہو، تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ یا وہ اپنے دین کو ترک کر کے جماعت مسلمین سے پھڑ گیا ہو۔ (مرتبہ ہو گیا ہو)۔ مسند الامام احمد، بخاری و مسلم، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۶۹۔ جب کوئی کسی شخص کی طرف نیزہ تان لے، اور نیزہ کی نوک مد مقابل کے عین سینہ میں ہو، اس وقت وہ مد مقابل شخص، لا الہ الا اللہ کہہ لے تو صاحب نیزہ کو چاہیے کہ اس سے اپنا نیزہ دور کر لے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الحلیہ، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۷۰۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے قتال جاری رکھوں۔ حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں۔ اگر انہوں نے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ مگر ان کے حق کی وجہ سے۔ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔

الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابو مسعود رضی اللہ عنہ

۳۷۱۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے جنگ جاری رکھوں۔ حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا۔ تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ مگر ان کے حق کی وجہ سے۔ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔

بخاری و مسلم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۷۲۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے جنگ جاری رکھوں۔ حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، اور جو کچھ میں لایا ہوں، مجھ سمیت، اس پر ایمان لائیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا۔ تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ مگر ان کے حق کی وجہ سے۔ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔

الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

۳۷۳۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے قتال جاری رکھوں۔ حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں۔ اگر انہوں نے اس کو کہہ لیا، تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ مگر ان کے حق کی وجہ سے۔ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ بخاری و مسلم بروایت ابی ہریرہ۔ یہ خبر متواتر ہے۔

شہادتین کا اقرار!..... از الاکمال

۳۷۴ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے جنگ جاری رکھوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں، ہمارے قبلہ کا رخ کریں، ہمارا ذبیحہ کھائیں، ہماری نماز قائم کریں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو ان کی جان و مال ہم پر حرام ہو گئے مگر ان کے حق کی وجہ سے۔ اور آئندہ جو مسلمانوں کے لئے سو مند ہے، وہ ان کے لئے بھی سو مند ہے۔ اور جو مسلمانوں کے لئے نقصان دہ ہے، وہ ان کے لئے بھی نقصان دہ ہے۔

مسند الامام احمد، بخاری، ابوداؤد، ترمذی

حدیث حسن صحیح اور غریب ہے۔ الصحیح لابن حبان، الدارقطنی، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۷۵ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے قتال جاری رکھوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں۔ اگر انہوں نے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا مگر ان کے حق کی وجہ سے۔ استفسار کیا گیا! ان کا حق کیا ہے؟ فرمایا! احسن ہونے کے باوجود اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہو۔ یا ایمان کے بعد کفر کا مرتکب ہوا ہو۔ یا اس نے کسی جان کو قتل کر ڈالا ہو۔ تو اس کو ان وجوہ کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت ابی بکرہ وابن حریر بروایت انس رضی اللہ عنہ

حدیث حسن ہے۔

۳۷۶ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے قتال جاری رکھوں، حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔

ابن ماجہ، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۳۷۷ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے قتال جاری رکھوں حتیٰ کہ وہ نماز قائم کریں اور شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ شہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ مگر ان کے حق کی وجہ سے۔ اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ تمام بروایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ

۳۷۸ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے قتال جاری رکھوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ

ادا کریں المستدرک للحاکم، بروایت انس رضی اللہ عنہ بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

۳۷۹ مجھے حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے قتال جاری رکھوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ اگر انہوں نے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، تو مجھ سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا۔ مگر کسی حق کی وجہ سے۔ البغوی بروایت رجل من بلقین

۳۸۰ قسم ہے اس ذات کی، جس کے قبضہ میں میری جان ہے کسی ایسے شخص کا خون حلال نہیں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو۔ مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ اسلام سے برگشتہ ہو کر کافروں سے جا ملا ہو، یا وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا مرتکب ہوا ہو، یا اس نے کسی جان کو قتل کر ڈالا ہو۔ تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ ابن النجار بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۸۱ کسی مسلمان شخص کا خون حلال نہیں ہے، مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ اسلام سے برگشتہ ہو گیا ہو، محسن ہونے کے بعد زنا کا مرتکب ہوا ہو، یا بغیر قصاص کے کسی جان کو مار ڈالا ہو۔ ابن عساکر، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا وعمار بن یاسر رضی اللہ عنہ

تین باتوں کے سوا کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے

۳۸۲ تین باتوں کے سوا کسی کا خون حلال نہیں۔ جان کے بدلہ جان۔ شادی شدہ زنا کار ایمان سے مرتد ہونے والا۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت عمار رضی اللہ عنہ

۳۸۳ کسی اہل قبلہ کا خون حلال نہیں۔ مگر ایسے شخص کا، جس نے کسی کو قتل کر ڈالا ہو، تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ زنا کار

اور جماعت سے کٹ جانے والا (مرتد)۔ المستدرک للحاکم، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا
 ۳۸۴ تین شخصوں کے سوا کسی کو قتل نہ کیا جائے گا۔ جس نے کسی کو قتل کر ڈالا ہو، تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور وہ شخص جو مجھن ہونے کے
 بعد زنا کا مرتکب ہو۔ اور اسلام کے بعد مرتد ہونے والا شخص۔ المستدرک للحاکم، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا
 ۳۸۵ تین باتوں کے سوا کسی کو قتل کرنا درست نہیں۔ ایسا شخص جس نے کسی کو قتل کر ڈالا ہو، تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ اور اسلام کے بعد
 مرتد ہونے والا شخص۔ اور وہ شخص جو احسان کے بعد حد کا مستوجب ہو، اس کو سنگسار کیا جائے گا۔
 المستدرک للحاکم، ابو داؤد، الصحيح للإمام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

ارتداد کے احکام

۳۸۶ جو شخص اپنے دین سے برگشتہ ہو گیا، اس کو قتل کر ڈالو۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت عصفہ بن مالک
 مرتد وہ شخص ہے، جو اسلام کے دائرہ سے نکل کر کفر کے ظلمت کدہ میں چلا جائے۔ احناف کے نزدیک اس کا یہ حکم ہے، کہ اس پر اسلام کی
 دعوت دوبارہ پیش کی جائے اور اس کے اشکالات، جن کی وجہ سے وہ اسلام سے منحرف ہوا ہے، ان کو دور کیا جائے، اگر چہ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ
 اسکو اسلام کی دعوت پہلے پہنچ چکی ہے۔ لیکن مستحب ضرور ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ اسکو تین یوم کے لئے قید کر دیا جائے، تاکہ اسکو کچھ مہلت مل
 جائے۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک مہلت کی طلب پر منحصر ہے۔ ورنہ مہلت کی ضرورت نہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
 مہلت دینا واجب ہے۔ انجام کار اگر وہ راہ راست پر آجائے تو یہی اسلام کا مطلوب ہے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے۔
 مرتد عورت کا حکم اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے اس کو قید میں ڈالے رکھا جائے
 اور ہر تیسرے دین اس کو بطور تنبیہ مارا جائے تاکہ وہ اپنے ارتداد سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں آجائے لیکن اگر کوئی شخص کسی مرتد عورت کو قتل
 کر دے تو قاتل پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔

۳۸۷ جس نے اپنے دین کو بدل ڈالا، اس کو قتل کر ڈالو۔ مسند الامام احمد، بخاری، بروایت، ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۸۸ ماخوذ از اکمال اللہ کے نزدیک شدید ترین قابل نفرت شخص، وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کا مرتکب ہو گیا۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۳۸۹ کوئی شخص ایمان سے اس چیز کا انکار کیے بغیر خارج نہیں ہو سکتا، جس کا اقرار کر کے وہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی سعید

۳۹۰ جو شخص اسلام سے برگشتہ ہو جائے، اس کو اسلام میں لوٹ آنے کی دعوت دو۔ سو اگر وہ توبہ تائب ہو جائے، تو اس کو قبول کر لو۔ لیکن اگر وہ
 تائب نہ ہو تو اس کی گردن اڑا دو۔ اور اگر کوئی عورت اسلام سے برگشتہ ہو جائے، تو اس کو بھی دعوت دو، اگر وہ تائب ہو جائے قبول
 کر لو۔ اور اگر انکار کرے تو مزید اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۳۹۱ جو شخص اپنا دین بدل ڈالے، یا اپنے دین سے پھر جائے، تو اس کو قتل کر ڈالو۔ لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب یعنی آگ کے ساتھ
 عذاب میں مت ڈالو۔ المصنف لعبد الرزاق، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۹۲ جس نے اپنے دین کو بدل ڈالا، اس کو قتل کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی توبہ قبول نہیں فرماتے جو اسلام کے بعد کفر کا مرتکب
 ہوا ہو۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت بھزین حکیم عن ابیہ عن حدہ

۳۹۳ جو شخص اپنے دین سے لوٹ جائے، اس کو قتل کر دو۔ لیکن اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب یعنی آگ کے ساتھ عذاب میں مت ڈالو۔
 الصحيح لابن حبان، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۹۳ جو اپنے ذمہ کو تبدیل کر دے، اس کی گردن اڑا دو۔ الشافعی، بخاری و مسلم، بروایت زید بن اسلم

دوسری فرع..... ایمان کے متفرق احکام میں

- ۳۹۵ جب آدمی مشرف بایمان ہو جائے، تو وہ اپنی زمین اور مال کا مالک و حقدار ہے۔ مسند الامام احمد، بروایت صحابہ بن علیہ
- ۳۹۶ جس شخص نے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا، اس کی گردن اڑانا حلال ہو گیا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ و وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبده ورسوله کہہ دیا تو اب کسی کو اسے قتل کرنے کا کوئی حق نہ رہا۔ لایہ کہ وہ خود کسی قابل حد گناہ کو پہنچ جائے، تو پھر اس پر حد قائم کی جائے گی۔ ابن ماجہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
- ۳۹۷ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے، مگر اس کے دل کی خوشی کے ساتھ۔ ابو داؤد، بروایت حذیفہ الرقاشی
- ۳۹۸ جس نے ہماری نماز ادا کی، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا اور ہمارا بیچ کھلایا۔ پس وہ مسلمان ہے۔ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ حاصل ہے۔ سو اس کے بارے میں اللہ کے ذمہ کی اہانت نہ کرو۔ بخاری، النسائی، بروایت انس رضی اللہ عنہ
- ۳۹۹ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے، مگر تین باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، مہن ہونے کے بعد زنا کا مرتکب ہو، یا اسلام سے برگشتہ ہو گیا ہو، یا ایسا شخص جس نے کسی کو ناحق قتل کر ڈالا ہو، تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ مسند الامام احمد، النسائی، ترمذی، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم بروایت عثمان، مسند الامام احمد، النسائی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا
- ۴۰۰ جب وہ اسلام سے بہرہ بند ہو جائیں گے، تو ضرور تصدیق کریں گے اور جہاد کریں گے۔ ابو داؤد، بروایت جابر رضی اللہ عنہ

مسلمان کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے

- ۴۰۱ اے خدا کے گھر، کعبۃ اللہ! تو کتنا عمدہ ہے۔ اور تیری خوشبو بھی کتنی عمدہ ہے۔ تو کتنی عظیم شان والا ہے؟ اور تیری عزت کتنی بلند ہے؟ لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ایک مؤمن کی عزت و حرمت پروردگار عزوجل کے ہاں تیری عظمت و حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مال اور خون بہت محترم ہے۔ ابن ماجہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس روایت میں نصر بن محمد ایک راوی ہے جس کو امام ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن ابن حبان نے اس کی توثیق فرمائی ہے۔ بقید دیگر روایۃ ثقہ ہیں۔ مصباح الزحاحہ ج ۲ ص ۱۶۲
- ۴۰۲ تمام مؤمنین کی جان ہم رتبہ اور ایک سی ہے۔ اور وہ اپنے ماسوا غیر مسلموں کے خلاف ہم پلہ اور ایک ہاتھ ہیں۔ ان میں سے کسی آدمی مسلمان کی بھی اٹھائی ہوئی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ آگاہ رہو! کسی مؤمن کو کسی کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔ اور نہ کسی صاحب عہد ذمی شخص کو عہد کے ہوتے ہوئے قتل کیا جائے گا۔ یاد رکھو! جس نے کوئی بدعت جاری کی، اس کا وبال وہی اٹھائے گا۔ اور جس نے کوئی بدعت جاری کی یا کسی بدعتی شخص کو پناہ میسر کی، اس پر اللہ اور اس کے ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

ابو داؤد، النسائی، المستدرک للحاکم بروایت علی رضی اللہ عنہ

تمام مؤمنین کی جان ہم رتبہ اور ایک سی ہے اس کا مطلب ہے کہ قصاص اور دیت میں تمام مسلمان یکساں ہیں۔ شریف اور ذلیل میں، چھوٹے اور بڑے میں، عالم اور جاہل میں، تنگ دست اور مالدار میں، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سب کا خون رنگ کی مانند مساوی ہے، ہر ایک کی دیت یکساں ہے۔ اور ہر ایک کو دوسرے کے بدلہ قتل کیا جائے گا۔

آگے فرمایا وہ اپنے ماسوا غیر مسلموں کے خلاف ہم پلہ اور ایک ہاتھ ہیں۔ یعنی جس طرح ایک ہاتھ پورے جسم کے دفاع کے لئے حرکت میں آجاتا ہے اور پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے، اسی طرح تمام مسلمان آپس میں متحد اور ایک جان ہیں۔

آگے فرمایا ان میں سے کسی آدمی مسلمان کی بھی اٹھائی ہوئی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی عام

مسلمان بھی کسی کافر کو امن اور پناہ دیدے، تو تمام مسلمانوں پر اس کی جان و مال محفوظ ہو جاتی ہے۔

پھر فرمایا! کسی صاحب عہد ذمی شخص کو عہد کے ہوتے ہوئے قتل نہ کیا جائے گا، یہاں، کافر، سے مراد ذمی کافر ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمی کافر جزیہ ٹیکس ادا کر کے اسلامی سلطنت کا وفادار شہری بن گیا ہے اور اسلامی سلطنت نے اس کے جان و مال کی حفاظت کا عہد و ضمان کر لیا ہے تو جب تک وہ ذمی ہے اور اپنے ذمی ہونے کے منافی کوئی کام نہیں کرتا اس کو کوئی مسلمان قتل نہ کرے بلکہ اس کی حفاظت کو ذمہ داری سمجھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون و حکومت کی نظر میں ایک ذمی کے خون کی بھی وہی قیمت ہے جو ایک مسلمان کی قیمت ہے لہذا اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو ناحق قتل کر دے تو اس کے قصاص میں اس قاتل مسلمان کو قتل کر دینا چاہئے جیسا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ کا مسلک ہے۔ اس نکتہ سے حدیث کے اس جملہ ”کافر کے بدلے میں مسلمان کو نہ مارا جائے“ کا مفہوم بھی واضح ہو گیا کہ یہاں، کافر، سے مراد حربی کافر ہے، نہ کہ ذمی! حاصل یہ ہے کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی مسلمان کو حربی کافر کے قصاص میں تو قتل نہ کیا جائے گا لیکن ذمی کے قصاص میں قتل کیا جائے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی مسلمان کو کسی بھی کافر کے قصاص میں قتل نہ کیا جائے گا، خواہ وہ کافر حربی ہو یا ذمی۔

۴۰۳ تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے۔ ان میں سے کسی ادنیٰ مسلمان کی بھی اٹھائی ہوئی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ انکا دور والا مسلمان بھی تمام مسلمانوں پر حق رکھتا ہے۔ اور وہ غیر مسلموں کے خلاف ہمہ پلہ ہیں۔ انکا طاقتور اپنے کمزور کو سہارا دیتا ہے۔ اور انکا شہوار جنگ میں شریک نہ ہونے والے اپنے مسلمان بھائی کو مال غنیمت میں ساتھ رکھتا ہے۔ پس! کسی مؤمن کو کسی کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔ اور نہ کسی صاحب عہد ذمی شخص کو عہد کے ہوتے ہوئے قتل کیا جائے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ انکا دور والا مسلمان بھی تمام مسلمانوں پر حق رکھتا ہے۔ اور دور والا مسلمان بھی حق رکھتا ہے، اس جملہ کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے جو دار الحرب سے دور رہا ہے، کسی کافر کو امان دے رکھی ہے تو ان مسلمانوں کے لیے جو دار الحرب کے قریب ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ اس مسلمان کے عہد امان کو توڑ دیں اور اس کافر کو کوئی گزند پہنچائیں۔

دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب مسلمانوں کا لشکر دار الحرب میں داخل ہو جائے اور مسلمانوں کا امیر لشکر کے ایک دستے کو کسی دوسری سمت بھیج دے اور پھر وہ دستہ مال غنیمت لے کر واپس آئے تو وہ مال غنیمت صرف اسی دستے کا حق نہیں ہوگا، بلکہ وہ سارے لشکر کو تقسیم کیا جائے گا۔ یعنی دور والا بھی اس میں شامل ہے۔

۴۰۴ مسلمان کا مال بھی یونہی محترم ہے، جس طرح اس کا خون محترم ہے۔ الحلیہ، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

دھوکہ سے قتل کی ممانعت

۴۰۵ ایمان اپنے حامل یعنی مؤمن کو اس بات سے منع کرتا ہے کہ وہ کسی کو اس کی غفلت میں ناگہاں قتل کر دے۔ لہذا کوئی مؤمن کسی کا خون دھوکہ دہی سے نہ بہائے۔ التاریخ للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد، المستدرک للحاکم، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مسند الامام

احمد، بروایت الزبیر رضی اللہ عنہ و معاویہ رضی اللہ عنہ

۴۰۶ مؤمن کی پشت محفوظ ہے، مگر ایمان ہی کے کسی حق کی وجہ سے۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت عصمہ بن مالک

۴۰۷ مسلمان کا سب کچھ مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا مال، اس کی آبرو اور اس کا خون سب کچھ محترم ہے۔ آدمی کے شر کے لئے اتنا ہی کافی ہے

کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۴۰۸ کسی قوم کے مال مویشی، دوسروں پر حرام ہیں۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی امامہ

- ۴۰۹ جس نے اسلام میں اپنی زندگی کو اچھی طرح سنوارا، اس سے زمانہ جاہلیت کی لغزشوں کی باز پرس نہ ہوگی۔ اور جس نے زمانہ اسلام میں بھی برائی کو جاری رکھا، اس سے اول و آخر کی باز پرس ہوگی۔ بخاری و مسلم، ابن ماجہ، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
- ۴۱۰ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جا، خواہ کچھ ناپسند ہو۔ مسند الامام احمد، المسند لابی یعلیٰ والضیاء بروایت انس رضی اللہ عنہ

ایمان کے متفرق احکام میں..... ما خود از اكمال

- ۴۱۱ اے قتادہ اپنی اور بیری کے پتوں سے غسل کرو، اور کفر کے بالوں سے نجات حاصل کرو۔
الطبرانی فی الکبیر، ابن شاہین، بروایت قتادہ الرہاوی
- ۴۱۲ اے واصلتہ! جاؤ، اور کفر کے بال منڈوا کر آؤ۔ اور پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرو۔
تمام، ابن عساکر، المستدرک للحاکم بروایت واصلتہ
- ۴۱۳ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرو، اور کفر کے بالوں سے نجات حاصل کرو۔
الصغیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الحلیہ، بروایت واصلتہ۔
- ۴۱۴ ایک عورت بھی مسلمانوں پر کسی کو پناہ دے سکتی ہے۔ ترمذی، حسن غریب بروایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
- ۴۱۵ اے لوگو! مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے حتیٰ کہ تم خود سن لو۔ اور مسلمانوں پر ان کا کوئی ادنیٰ شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔
الطبرانی فی الکبیر، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، بروایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
- ۴۱۶ مسلمانوں پر، ان کا کوئی ادنیٰ شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت انس رضی اللہ عنہ، مسند الامام احمد
- ۴۱۷ مسلمانوں کے حق میں ان کا کوئی بھی شخص کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔
مسند الامام احمد، بروایت ابی عییدہ رضی اللہ عنہ، مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی امامہ
- ۴۱۸ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے۔ نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ اور نہ کسی مصیبت میں اس کو بے آسرا چھوڑتا ہے۔ اور اگر عرب کے شرفاء و معززین اور آزاد کردہ طبقہ آپس میں محبت کرنے لگے، تو ان کو اس کے سوا چارہ کار نہیں۔
الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
- ۴۱۹ ایمان کسی کا اس کی غفلت میں خون بہانے سے آڑ ہے، لہذا کسی مؤمن کا خون دھوکہ دہی سے نہ بہایا جائے۔ مسند الامام احمد
- المستدرک للحاکم، الطبرانی فی الکبیر، بروایت معاویہ رضی اللہ عنہ، الصحیح لابن حبان، الغوی فی الجعدیات، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت الزبیر بن العوام ابن ابی شیبہ، بخاری فی التاریخ، ابوداؤد، المستدرک للحاکم، بروایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
- ۴۲۰ اے صحرا! جب کوئی قوم اسلام کے آغوش میں آ جاتی ہے تو اپنے خون اور اموال کو محفوظ کر لیتی ہے۔
ابن سعد، مسند الامام احمد، الدارمی، البغوی، ابن قانع، الطبرانی فی الکبیر، بروایت صخر بن العیلة
- ۴۲۱ ایمان اور عمل دوسرا تھی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہ فرمائیں گے۔
سنن فی التاریخ، الفردوس للبدلیسی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت علی رضی اللہ عنہ
- ۴۲۲ ایمان قول اور عمل کا نام ہے۔ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ ابن النحر بروایت عبداللہ بن ابی اوفی
- ۴۲۳ نماز ایمان ہے، جس نے اس کے لئے اپنے دل و دماغ کو فارغ کر لیا، ہمتن اس کے اوقات اور اس کے سنن کی محافظت کی، تو وہ مؤمن ہے۔ ابن النحر بروایت ابی سعید

۲۲۳..... اہل ذمہ جن اموال، حشم و خدم، علاقوں، زمین اور چوپایوں کے ساتھ اسلام لائیں، وہ انہی کے لئے برقرار رہیں گے۔ اور پھر ان پر ان چیزوں میں صرف صدقہ زکوٰۃ عائد ہوگی۔ السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت بریدہ

۲۲۵..... اہل ذمہ جن اموال، حشم و خدم، علاقوں، زمین اور چوپایوں کے ساتھ اسلام لائیں، وہ انہی کے لئے برقرار رہیں گے۔ اور پھر ان پر ان چیزوں میں صرف صدقہ زکوٰۃ عائد ہوگی۔ مسند الامام احمد، بروایت سلیمان بن بریدہ عن ابیہ

۲۲۶..... اہل کتاب میں سے جو شخص اسلام لے آیا، اس کو دوہرا اجر نصیب ہوگا۔ اور جو حقوق ہمیں حاصل ہیں، اس کو بھی حاصل ہوں گے۔ اور جو بات ہمارے لئے نقصان دہ ہے، اس کے لئے بھی نقصان دہ ہوگی۔ اور جو بات ہمارے لئے نقصان دہ ہے، اس کے لئے بھی نقصان دہ ہوگی۔ حاصل ہیں، اس کو بھی حاصل ہوں گے۔ اور جو بات ہمارے لئے نقصان دہ ہے، اس کے لئے بھی نقصان دہ ہوگی۔

مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی امامہ

۲۲۷..... اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ تم کہو کہ! میں نے اپنی ذات اللہ کے سپرد کی، اس کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اس کے لئے ہمہ تن یکسو ہو گیا۔ اور نماز قائم کرو۔ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ہر مسلمان کی جان و مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ ہر دو مسلمان بھائی بھائی ہیں، باہم مددگار ہیں۔ جان لو! اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے، جو اسلام سے بہرہ مند ہونے کے بعد اس سے رشتہ توڑ لے۔ حتیٰ کہ وہ دوبارہ مشرکوں کو چھوڑ کر مسلمانوں سے نہ آئے۔ آہ! دیکھو تو سہی میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بٹا رہا ہوں، اور تم ہو کہ اس میں گمراہی جا رہے ہو۔ آگاہ رہو! میرا رب مجھے بلانے والا ہے۔ آگاہ رہو! میرا رب مجھ سے سوال کرے گا! کیا تم نے میرے بندوں تکہ پیغام پہنچا دیا؟ میں عرض کروں گا! ہاں پروردگار میں نے ان تک آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پس اے لوگو! جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک یہ دعوت پہنچا دیں۔ یاد رکھو! تم کو بلایا جانے والا ہے، اس حال میں کہ تمہارے منہوں پر بندش لگی ہوگی۔ پھر سب سے پہلے کسی کا جو عضو گویا ہوگا، وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔

یہ تمہارا دین ہے۔ جہاں چلے جاؤ تمہارے لئے کافی ہوگا۔

مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم بروایت ابیہ عن حدہ

۲۲۸..... آہ تم قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دو گے؟ الطبرانی فی الکبیر، بروایت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں! کہ میں نے ایک شخص کو اس حال میں نیزہ پار کر دیا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ پکارا اٹھا تھا۔ اس وقت آپ ﷺ نے مذکورہ بالا وعید فرمائی۔

۲۲۹..... نہیں تم اس کو قتل نہ کرو! اور نہ وہ تمہاری طرح معصوم الدم ہو جائے گا، تمہارے اس قتل کرنے سے پیشتر۔ اور تم اس کی طرح مباح الدم ہو جاؤ گے، اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پیشتر۔

مسند الامام احمد، بخاری، الصحیح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، مسند الزار، بروایت المقداد بن عمرو والکندی

اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا تھا، کہ یا رسول اللہ! آپ کی کیا رائے ہے اگر میری کسی کافر سے ڈبھیڑ ہو، اور ہم باہم برس برس پیکار ہو جائیں، لڑائی کے دوران وہ میرے ہاتھ پر تلوار کا وار کر کے اس کو کاٹ ڈالے، اور پھر میرے حملہ سے بچنے کے لئے وہ کسی درخت کی آڑ لے لیتا ہے اور اس وقت کہتا ہے میں اللہ کے لئے مسلمان ہوا۔ تو کیا میں اب اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر آپ ﷺ نے مذکورہ بالا جواب مرحمت فرمایا۔

۲۳۰..... جو شخص اسلام میں اچھا کردار اپنالے، اس سے زمانہ جاہلیت کی لغزشوں کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی۔ اور جو اسلام میں بھی برائی کا شیوہ نہ چھوڑے، اس سے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۳۱..... جو اسلام سے وابستہ ہو گیا، اس پر جزیہ نہیں ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ

۲۳۲۲ جو شخص کسی کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا، وہی اس کا مولیٰ ہے۔ المصنف لعبدالرزاق بروایت حمیم الدرازی، اس روایت کی سند صحیح ہے۔
 ۲۳۳۳ جو شخص کسی کے ہاتھوں مشرف باسلام ہوا، وہی اس کا مولیٰ ہے۔ اور میرا ہاتھ بھی اس کے ساتھ ہے۔

السنن لسعید، بروایت راشد بن سعد مرسل

۲۳۳۴ جس کا دین مسلمانوں کے دین کے مخالف ہو، اس کا سر قلم کر دو۔ اور جب کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے دے تو اب اس کے خلاف کسی کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے۔ والا یہ کہ وہ کسی جرم کا مرتکب ہو جائے تو اس پر حد قائم کی جائے گی۔

الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم بزوارت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۳۳۵ تم عرب کے کسی علاقے سے گذرو اور تم کو وہاں اذان کی آواز سنائی دے، تو ان سے تعرض نہ کرو، اور جن علاقوں میں اذان کی آواز سنائی نہ دے، ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول نہ کریں تو ان سے جہاد کرو۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت خالد بن سعید بن العاص
 ۲۳۳۶ افسوس اے ابوسفیان! میں تمہارے پاس دین و دنیا کی فلاح لے کر آیا ہوں۔ پس اسلام لا کر تم محفوظ ہو جاؤ۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ عن ابیہ

۲۳۳۷ روئے زمین میں کوئی کچا پائیکا گھر نہ رہے گا، مگر اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کریں گے، عزیز کی عزت کے ساتھ، اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ یا تو اسلام کی بدولت ان کو عزت نصیب ہوگی، کہ وہ اسلام سے بہرہ مند ہو جائیں گے۔ یا اسلام کی وجہ سے ان کو سوائی کا سامنا ہوگا، کہ اس کے آگے جزیہ دے کر سرنگوں ہوں گے۔

مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم بزوارت المقداد بن الاسود

۲۳۳۸ اسلام میں کوئی فقیر و گناہم شخص نہ رہے گا، مگر اسلام کو وہ اپنے قبیلہ تک پہنچا کر رہے گا۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت کثیر بن عبد اللہ عن ابیہ عن جدہ

سئل عنہ

عہد و پیمانہ کا لحاظ رکھنا

۲۳۳۹ تمام مؤمنین کی جان ہم رتبہ اور ایک سی ہے۔ ان میں سے کسی ادنیٰ مسلمان کی بھی اٹھائی ہوئی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عاید ہوتی ہے۔ اور آگاہ رہو! کسی مؤمن کو کسی کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔ اور نہ کسی صاحب عہد ذمی شخص کو عہد کے ہوتے ہوئے قتل کیا جائے گا۔ اور مختلف ملتوں والے باہم ایک دوسرے کے وارث نہیں قرار دیئے جاسکتے۔ اور کسی عورت سے اس کی پھوپھی کے عقد میں ہوتے ہوئے نکاح نہیں کیا جاسکتا، نہ اس کی خالہ کے عقد میں ہوتے ہوئے نکاح کیا جاسکتا۔ اور عصر کے بعد غروب شمس تک کوئی نماز نہیں۔ اور کوئی عورت کسی ذی محرم کے بغیر تین رات سے زیادہ عرصہ کا سفر نہیں کر سکتی۔ السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عائشہ

۲۳۴۰ تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے۔ اور وہ غیر مسلموں کے خلاف ہم پلہ ہیں۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عمرو

۲۳۴۱ تمام مسلمان غیر مسلموں کے خلاف ہم پلہ ہیں۔ اور ان کا خون مساوی ہے۔ ان میں سے کسی ادنیٰ مسلمان کی بھی اٹھائی ہوئی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اور آگاہ رہو! کسی مؤمن کو کسی کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے گا۔ اور نہ کسی صاحب عہد ذمی شخص کو عہد کے ہوتے ہوئے قتل کیا جائے گا۔ المصنف لعبدالرزاق، بروایت الحسن

۲۳۴۲ تمام مسلمان اپنے غیروں کے خلاف ہم پلہ ہیں۔ ان کا ادنیٰ شخص ان کے کسی دور دراز شخص کے بارے میں ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ ان کا شہسوار جنگ میں شریک نہ ہونے والے اپنے مسلمان بھائی کو مال غنیمت میں ساتھ رکھتا ہے۔ اور ان کا طاقتور اپنے کمزور کو سہارا دیتا ہے۔

العسکری فی الامثال، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ

۲۳۴۳ تمام مسلمان غیر مسلموں کے خلاف ہم پلہ ہیں۔ اور ان کا خون مساوی ہے۔ ابن ماجہ، الطبرانی فی الکبیر، بروایت معقل بن یسار

۴۴۴ تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے۔ اور وہ غیر مسلموں کے خلاف ہم پلہ ہیں۔ ان میں سے کسی اذنی مسلمان کی بھی اٹھائی ہوئی ذمہ داری تمام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ ان کا دور والا مسلمان بھی تمام مسلمانوں پر حق رکھتا ہے۔ ابن ماجہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

اللہ تعالیٰ کی شکل و شباهت منزه ہے

۴۴۵ جس شخص نے اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی، یا گمان کیا کہ اللہ کے مشابہ کوئی چیز ہے، تو وہ یقیناً مشرکین میں داخل ہے۔

ابونعیم عن جویر عن الضحاک عن ابن عباس

فصل پنجم..... بیعت کے احکام میں

۴۴۶ میں ان چیزوں پر تم سے بیعت لیتا ہوں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ چوری نہ کرو۔ زنا کاری سے باز رہو۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کوئی کھلا جھوٹ گھڑ کر بہتان طرازی نہ کرو۔ اور کسی نیک بات میں میری نافرمانی نہ کرو۔ جس نے اس بیعت کی پاسداری کی اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی جرم کا مرتکب ہوا، اور دنیا میں اس پر مؤاخذہ ہو گیا، تو وہ اس گناہ کے لئے کفارہ اور پاکیزگی ہوگا۔ اور جس گناہ پر اللہ نے پردہ پوشی فرمائی، اس کا حساب آخرت میں اللہ عزوجل پر ہے خواہ معاف فرمادے خواہ عذاب دے۔

مسند الامام احمد، بخاری و مسلم، ترمذی، النسائی، بروایت عبادہ بن الصامت

۴۴۷ میں اس بات پر تجھ سے بیعت لیتا ہوں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ فرض نماز قائم کرے۔ زکوٰۃ ادا کرے اور ہر مسلمان کا بھلا چاہے۔ اور شرک سے بری رہے۔ مسند الامام احمد، النسائی، بروایت جریر

۴۴۸ اپنے اس پروردگار کو یاد کرو، کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ اور اگر تم کسی بے آب و گیاہ جنگل میں راہ بھٹک جاؤ اور تم اس کو پکارو تو وہ تمہیں سیدھی راہ لگا دے۔ اور اگر تم قحط سالی میں مبتلا ہو جاؤ اور اس کو پکارو تو وہ تمہارے لئے نباتات اُگا دے۔ مسند الامام احمد، ابو داؤد، بیہقی، بروایت ابی جریر

حاکم کی اطاعت

۴۴۹ میں تمہیں تین باتوں کا حکم دیتا ہوں اور تین باتوں سے منع کرتا ہوں، میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ اور آپس میں بھوٹ نہ ڈالو۔ اس شخص کی سنو اور اطاعت کرو، جس کو اللہ نے تم پر حاکم و امیر بنایا۔

۴۵۰ اور تمہیں منع کرتا ہوں بے فائدہ بحث و تمجیح سے، کثرت سوال سے، اضاغۃ مال سے۔ الحلیہ، بروایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

۴۵۰ کیا تم اس بات پر میری بیعت نہیں کرتے، کہ اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ پانچوں نمازوں کی پابندی کرو گے۔ فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے۔ سنو گے اور اطاعت کرو گے۔ اور لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہ کرو گے۔

الصحيح للإمام مسلم رحمة الله عليه، النسائی، بروایت عوف بن مالک

۴۵۱ حاضر کو غائب تک یہ بات پہنچا دینا چاہئے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت وابصۃ

۴۵۲ ہجرت کا زمانہ مہاجرین کے ساتھ پورا ہو گیا۔ اب میں اسلام اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں۔

بخاری و مسلم، بروایت مجاشع بن مسعود

۳۵۳. آؤ! میری بیعت کرو، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ چوری نہ کرو۔ زنا کاری سے باز رہو۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کوئی کھلا جھوٹ گھڑ کر بہتان طرازی نہ کرو۔ اور کسی نیک بات میں میری نافرمانی نہ کرو۔ جس نے اس بیعت کی پاسداری کی اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اگر کوئی ان میں سے کسی جرم کا مرتکب ہوا، اور دنیا میں اس پر مؤاخذہ ہو گیا، تو وہ اس گناہ کے لئے کفارہ اور پاکیزگی ہوگا۔ اور جس گناہ پر اللہ نے پردہ پوشی فرمائی، اس کا حساب آخرت میں اللہ عزوجل پر ہے خواہ معاف فرمادے خواہ عذاب دے۔ بخاری، بروایت عبادۃ بن الصامت

عورتوں کی بیعت

۳۵۴. میں عورتوں کے ہاتھ کو نہیں چھوتا۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عقیلۃ بنت عیید
۳۵۵. میں تم سے بیعت نہ لوں، جب تک کہ تو اپنی ہتھیلیوں کی حالت تبدیل نہ کر لے گی، گویا درندوں کی ہتھیلیاں ہیں۔

ابوداؤد، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

بیعت رضوان

۳۵۶. جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، ان اشخاص میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہوگا۔
مسند الامام احمد، ابوداؤد، ترمذی، بروایت جابر رضی اللہ عنہ الصحیح للإمام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ام مباشر
۳۵۷. جس نے درخت کے نیچے بیعت کی، وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، سوائے سرخ اونٹ والے کے۔ ترمذی، بروایت جابر

بیعت رضوان..... از اکمال

۳۵۸. تم سب کی مغفرت کر دی گئی، سوائے سرخ اونٹ والے کے۔ المستدرک للحاکم، بروایت جابر

بیعت کے احکام

۳۵۹. میں تجھ سے بیعت لیتا ہوں کہ تو اللہ کی عبادت کرے گا، نماز قائم کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ مسلمان کی خیر خواہی کرے گا۔ اہل شرک سے جدا رہے گا۔ المستدرک للحاکم، بروایت ابی الیسر
۳۶۰. میں ان چیزوں پر تم سے بیعت لیتا ہوں، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ نے جس نفس کو محترم قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو۔ زنا کاری سے باز رہو۔ چوری نہ کرو۔ اور شراب نوشی نہ کرو۔ اگر کوئی ان میں سے کسی جرم کا مرتکب ہوا، اور دنیا میں اس پر مؤاخذہ ہو گیا، تو وہ اس گناہ کے لئے کفارہ اور پاکیزگی ہوگا۔ اور جس گناہ پر اللہ نے پردہ پوشی فرمائی، اس کا حساب آخرت میں اللہ عزوجل پر ہے۔ اور جو ان گناہوں سے باز رہا، تو میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ہناد عن، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ
۳۶۱. میں اس سے بیعت لیتا ہوں جہاد پر اور آئندہ کے لئے فرض ہجرت کا عمل منقطع ہو چکا ہے۔

السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم بروایت یعلی بن امیہ

۳۶۲. اہل ہجرت ہجرت کا ثواب حاصل کر کے چلے گئے۔ اب میں صرف اسلام اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں۔

الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم بروایت مجاشع بن مسعود

۳۶۳. جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کوئی بیعت نہ کی تھی، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسند الامام احمد، ابن سعد، بروایت ابن عمر

۳۶۴ جو شخص بغیر امام کے مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت، جمعاً وایۃ
 ۳۶۵ تم میں سے بارہ افراد میری طرف نکل آؤ، جو اپنی قوم کی نمائندگی کریں گے۔ جس طرح عیسیٰ بن مریم کے حواری تھے۔ اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کو آگے کیا جائے گا، کیونکہ جبرئیل علیہ السلام افراد کو منتخب فرمائیں گے۔ ابن اسحاق، ابن سعد، بروایت عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ بیعت عقبہ میں شامل افراد کو حضور ﷺ نے یہ حکم فرمایا تھا۔

تین باتوں پر بیعت کرنا

۳۶۶ تم میں سے کون ان تین آیتوں پر میری بیعت کرتا ہے؟ کہہ دیجئے! آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام فرمایا ہے؟ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جس نے اس کی پابندی کی، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اور جس نے کچھ کوتاہی کی، اور اللہ نے دنیا ہی میں اس کی گرفت فرمائی، تو یہ اس کی سزا اور کفارہ ہوگی۔ اور جس کو اللہ نے آخرت تک مہلت عطا کی، اس کا حساب اللہ پر ہے، خواہ باز پرس کریں خواہ معاف فرمادیں۔

عبد بن حمید فی تفسیرہ، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ، ابن مردویہ، المستدرک للحاکم بروایت عبادة بن الصامت
 ۳۶۷ تم میں سے جو ان تین آیتوں پر میری بیعت کرتا ہے۔ کہہ دیجئے! آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا حرام فرمایا ہے؟ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جس نے اس کی پابندی کی، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اور جس نے کچھ کوتاہی کی، اور اللہ نے دنیا ہی میں اس کی گرفت فرمائی، تو یہ اس کی سزا اور کفارہ ہوگی۔ اور جس کو اللہ نے آخرت تک مہلت عطا کی، اس کا حساب اللہ پر ہے، خواہ باز پرس کریں خواہ معاف فرمادیں۔

المستدرک للحاکم بروایت عبادة بن الصامت
 ۳۶۸ اے عبادة! امیر وقت کی سنو اور اطاعت کرو، حالات خواہ کیسے ہوں۔ (ختگی ہو، یا آسانی) تمہیں اچھا محسوس ہو، یا ناگوار۔ خواہ وہ تم پر اوروں کو ترجیح دیں، یا تمہارا مال کھل جائے اور تمہیں سزا دیں (بہر حال میں ان کی اطاعت کرو)۔ لایا یہ کہ اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔
 الصحیح لابن حبان او الطبرانی فی الکبیر، بروایت عبادة بن الصامت

آٹھ باتوں پر بیعت کرنا

۳۶۹ کیا تم بھی انہی چیزوں پر میری بیعت نہیں کرتے، جن پر عورتوں نے میری بیعت کی ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ چوری نہ کرو۔ زنا کاری سے باز ہو، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ کوئی کھلا جھوٹ گھڑ کر بہتان طرازی نہ کرو۔ اور کسی نیک بات میں میری نافرمانی نہ کرو۔ اگر کوئی ان میں سے کسی جرم کا مرتکب ہوا، اور دنیا میں اس پر مؤاخذہ ہو گیا، تو وہ اس گناہ کے لئے کفارہ اور پاکیزگی ہوگا۔ اور جس گناہ پر اللہ نے پردہ پوشی فرمائی، اس کا حساب آخرت میں اللہ عزوجل پر ہے خواہ معاف فرمادے خواہ عذاب دے۔

النسائی، ابن سعد، بروایت عبادة بن الصامت
 ۳۷۰ بہر حال جس چیز کا میں تم سے اپنے پروردگار کے لئے سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت، بجالاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جس چیز کا میں تم سے اپنے لئے سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے اپنی حفاظت کرتے ہو، ان سے میری بھی حفاظت کرو۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت جابر رضی اللہ عنہ
 ۳۷۱ بہر حال جس چیز کا میں تم سے اپنے پروردگار کے لئے سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جس چیز کا میں تم سے اپنے لئے سوال کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری پیروی کرو۔ میں تمہیں سیدھی راہ پر لگا دوں گا۔ اور میں اپنے

اور اپنے مہاجرین اصحاب کے لئے تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم اپنے درمیان ہمارے ساتھ عم خوارمی سے پیش آؤ، اور جن چیزوں سے اپنی حفاظت کرتے ہو، ان سے ہماری بھی حفاظت کرو۔ اگر تم ان کاموں میں پورے اترے تو تمہارے لئے اللہ کے ذمہ جنت ہے۔ بمطابق منتخب کنز العمال! پھر ہم نے اپنے ہاتھ دراز کر دیے اور آپ کی بیعت کر لی۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن مسعود ۴۷۲ میں تم سے بیعت نہ لوں گا جب تک کہ تم اس بات پر بیعت نہ کرو کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آؤ گے۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت حریر ۴۷۳ اے خواتین! میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی۔ چوری نہ کرو گی۔ زنا کاری سے باز رہو گی۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ کوئی کھلا جھوٹ گھڑ کر بہتان طرازی نہ کرو گی۔ اور کسی نیک بات میں میری نافرمانی نہ کرو گی۔ خواتین نے عرض کیا: جی بالکل۔ آپ نے فرمایا: یہ کہو جس قدر ہم سے ہو سکا۔ مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت عائشہ بنت قدامہ بن مظعون ۴۷۴ غالباً حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر آپ ﷺ نے فرمایا: اجاؤ پہلے خضاب لگاؤ، پھر تم سے بیعت لوں گا۔

ابن سعد الطبرانی فی الکبیر، بروایت سودا رضی اللہ عنہا ۴۷۵ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ ابن سعد بروایت اسماء بنت یزید یعنی جب خواتین نے بیعت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ لیکر مردوں کی طرح بیعت کرنے کی درخواست کی تب آپ ﷺ نے یہ جواب مرحمت فرمایا۔ ۴۷۶ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ لیکن جو عہد و پیمانہ اللہ نے ان سے لئے ہیں، میں بھی ان سے وہی عہد و پیمانہ لیتا ہوں۔

مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت اسماء بنت یزید ۴۷۷ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ اور سو عورتوں سے بھی میری یہی بات ہے، جو ایک عورت سے ہے۔ ابن سعد بروایت عبداللہ بن الزبیر مسند الامام احمد، ترمذی حسن صحیح النسائی، ابن سعد، الطبرانی فی الکبیر السنن للبیہقی رحمة الله عليه، بروایت امیمة بنت رقیقہ ابن ماجہ نے اس کا شروع حصہ روایت فرمایا ہے۔

۴۷۸ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ اور ہزار عورتوں سے بھی میری یہی بات ہے، جو ایک عورت سے ہے۔ ابن سعد بروایت ام عامر اشہلیہ ۴۷۹ میں تم عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ لیکن جو عہد و پیمانہ اللہ نے تم سے لئے ہیں، میں بھی تم سے وہی عہد و پیمانہ لیتا ہوں۔ ابن سعد، بروایت اسماء بنت یزید

فصل ششم..... ایمان بالقدر کے بارے میں

۴۸۰ ایمان بالقدر تو جدید پرستی کا نظام ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمة الله عليه، بروایت ابی ہریرة رضی اللہ عنہ ۴۸۱ ایمان بالقدر رنج و غم کو زائل کرتا ہے۔ المستدرک للحاکم فی تاریخہ القضاعی بروایت ابی ہریرة رضی اللہ عنہ ۴۸۲ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں! جو بندہ میری قضا و قدر پر راضی نہیں اسے چاہئے کہ میرے سوا اپنا کوئی اور خدا تلاش کر لے۔ شعب الایمان، بروایت انس رضی اللہ عنہ ۴۸۳ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں! جو بندہ میرے قضا یعنی فیصلہ پر راضی نہیں، اور میری نازل کردہ بلا پر اسے صبر نہیں، تو اسے چاہئے کہ میرے سوا اپنا کوئی اور خدا تلاش کر لے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی ہند الداری ۴۸۴ جس نے تقدیر کو جھٹلایا، اس نے میرے لئے ہوئے دین کو جھٹلایا۔ ابو داؤد، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۲۸۵۔ تقدیر خدا کا راز ہے۔ جو شخص اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لایا، میرا ذمہ اس سے بری ہے۔

المسند لابی یعلیٰ، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
انسان ازل سے تقدیر کے مسئلہ میں الجھتا آیا ہے، لیکن کبھی اس کی حقیقت کی تہ تک رسائی نہ ہو سکی۔ اور بھلا خدا کے راز کی جھلک بھی کوئی پاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لئے انسان کو چاہئے کہ اس معاملہ میں محض ہر تسلیم خم کے بغیر چارہ کار نہ سمجھے۔ اور اس میدان میں حرف زنی سے ہمیشہ احتراز کرے۔

۲۸۶۔ جو شخص اللہ کے فیصلہ قضا الہی پر راضی نہ ہو اور تقدیر خداوندی پر ایمان نہ لایا، وہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا تلاش کر لے۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت انس رضی اللہ عنہ
کوئی تدبیر و احتیاط تقدیر خداوندی کو نہیں ٹال سکتی۔ المستدرک للحاکم، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۸۸۔ تقدیر تو حید پرستی کا نظام ہے۔ پس جو اللہ کی توحید کا قائل ہو، اور تقدیر الہی پر ایمان لایا، یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت ابن عباس
اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان کی عمریں، ان کے اعمال، ان کے رزق کی مقدار بھی لکھ دی۔

خطیب بغدادی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
اللہ عزوجل نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو شکم مادر سے ہی مؤمن پیدا فرمایا تھا، اور فرعون کو بھی شکم مادر سے ہی کافر پیدا فرمایا تھا۔

ابوداؤد، الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
نیک بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہو گیا تھا۔ اور بد بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بد بخت ہو گیا تھا۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
اللہ پاک ہر بندے کی پانچ چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرما کر ان سے فارغ ہو چکے ہیں، عمر، رزق، زندگی، جائے قیام اور سعید یا شقی۔

مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی الدرداء
اللہ پاک ہر بندے کی پانچ چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرما کر ان سے فارغ ہو چکے ہیں۔ عمل، عمر، رزق، زندگی، جائے قیام۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی الدرداء
اللہ تعالیٰ مخلوق کی چار چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرما کر ان سے فارغ ہو چکے ہیں۔ پیدائش، اوصاف و اخلاق، رزق، مدت زندگی۔

ابن عساکر، بروایت انس رضی اللہ عنہ
اللہ تعالیٰ تمام اعداد و شمار اور دنیا کے امور کے متعلق آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے فیصلہ فرما کر فارغ ہو چکے ہیں۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عمرو
اللہ تعالیٰ ابن آدم کی چار چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرما کر ان سے فارغ ہو چکے ہیں۔ پیدائش، اوصاف و اخلاق، رزق، مدت زندگی۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، ابن مسعود
آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ تمام اعداد و شمار کو مقرر کرنے اور دنیا کے تمام امور کے متعلق فیصلہ

فرمانے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ مسند الامام احمد، ترمذی، بروایت ابن عمر

۲۹۸۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے، جبکہ عرش خداوندی ابھی پانی پر مستقر تھا، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اعداد و شمار مقرر فرمادیئے۔ اور ان کو لکھ دیا۔ الصحیح للامام مسلم رحمة الله عليه، بروایت ابن عمر

۲۹۹۔ ہر چیز تقدیر سے متعلق ہے، حتیٰ کہ عجز اور عقل مندی بھی۔

مسند الامام احمد، الصحیح للامام مسلم رحمة الله عليه، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

- ۵۰۰ ابن آدم جس طرح موت سے بھاگتا ہے، اگر اسی طرح رزق سے بھاگے، تو رزق بھی اس کو یونہی ہر جگہ پہنچتا ہے، جس طرح موت اس کی تاک میں لگی ہوتی ہے۔ الحلیہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ
- ۵۰۱ اگر اسرافیل، جبرئیل، میکائیل اور عرش خداوندی اٹھانے والے فرشتے مجھ سمیت تیرے لئے دعا کریں، تب بھی تیری شادی اسی عورت سے ہو کر رہے گی جو میرے لئے لکھی جا چکی ہے۔ ابن عساکر، بروایت محمد السعدی
- ۵۰۲ جو فیصلہ لکھا جا چکا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ الدارقطنی، فی الافراد، الحلیہ بروایت انس۔
- ۵۰۳ تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے زیادہ ممانے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ نے مصیبت اور موت کو لکھ دیا ہے۔ اور رزق اور عمل کو تقسیم فرمایا ہے۔ لہذا لوگ اپنے اپنے انجام کی طرف گھنچے چلے جا رہے ہیں۔ الحلیہ بروایت ابن مسعود
- ۵۰۴ مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچی، مگر وہ اس وقت سے میری قسمت میں لکھی جا چکی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے قالب میں تھے۔
- ابن ماجہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
- ۵۰۵ زیادہ رنج و غم نہ کیا کر، جو تیری تقدیر میں لکھ دیا گیا، وہ ہو کر رہے گا۔ اور جو رزق تیرے نام لکھا جا چکا وہ بھی تجھ تک پہنچ کر رہے گا۔
- الصحیح لابن حبان، بروایت مالک بن عبادہ البیہقی فی القدر بروایت ابن مسعود
- ۵۰۶ جب تک تمہارے سر حرکت میں ہیں، رزق سے مایوس نہ ہو۔ یقیناً انسان کو جب اس کی ماں نے جنم دیا تھا وہ اس وقت ایسی نازک حالت میں تھا، کہ سرخ رنگ تھا، اس کے جسم پر کوئی چھلکا تک نہ تھا۔ لیکن رزق رساں پروردگار الہی نے پھر بھی اس کو رزق پہنچایا۔
- مسند الامام احمد، ابن ماجہ، الصحیح لابن حبان، الضیاء بروایت حیدر وسوا ابی خالد
- ۵۰۷ رزق انسان کو موت سے زیادہ شدت کے ساتھ طلب کرتا ہے۔ القضاعی بروایت ابی الدرداء
- ۵۰۸ جب قدرت الہی کسی بندہ کو راہ سے بھٹکانا چاہتی ہے، اس کی تدبیروں کو نظروں سے اوجھل کر دیتی ہے۔
- الأوسط للطبرانی رحمة اللہ علیہ، بروایت عثمان

تقدیر تدبیر پر غالب رہتی ہے

- ۵۰۹ جب پروردگار عزوجل اپنے فیصلہ اور تقدیر کو نافذ فرمانا چاہتے ہیں، عقل مندوں کی عقلوں کو سلب فرمالتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ فیصلہ اور تقدیر نافذ ہو جاتی ہے، تو ان کی عقلوں کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سر سے پانی گزرنے کے بعد وہ نادم و پشیمان نظر آتے ہیں۔
- الفردوس للدیلمی رحمة اللہ علیہ بروایت الدیلمی
- ۵۱۰ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کو نافذ فرمانا چاہتے ہیں، تو ہر دانشور کی دانش کو سلب فرمادیتے ہیں۔ خطیب، بروایت ابن عباس
- ۵۱۱ اللہ تعالیٰ جب کسی حکم کو جاری فرمانا چاہتے ہیں تو لوگوں کی عقل زائل فرمادیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ حکم جاری ہو جاتا ہے تو ان کی عقل واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اور وہ ندامت کے مارے حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔
- ابو عبدالرحمن السلمی فی سنن الصوفیة عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن حدہ
- ۵۱۲ جب پروردگار کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے، کوئی چیز اس کے لئے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس لئے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سعید
- ۵۱۳ عمل کرتے رہو ہر انسان کو اسی کی توفیق ملتی ہے، جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔
- الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن عباس و عمران بن حصین
- ۵۱۴ عمل کرتے رہو ہر انسان اسی بات پر کاندھ ہوتا ہے، جس کی اس کو ہدایت ملتی ہے۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت عمران بن حصین
- ۵۱۵ ہر انسان جس چیز کے لئے پیدا ہوا ہے، وہ اس کے لئے آسان کر دی جاتی ہے۔
- مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم بروایت ابی الدرداء

۵۱۶ ہر انسان کو اس کی توفیق ملتی ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔

مسند الامام احمد، بخاری و مسلم، ابو داؤد، بروایت عمران، ترمذی، بروایت عمر مسند الامام احمد، بروایت ابی بکر

۵۱۷ دونوں مقام میں سے جس کے لئے اللہ نے کسی کو پیدا فرمایا ہوتا ہے، اسی کے لئے عمل کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت عمران

۵۱۸ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، وہ بھلائی کو پہنچ جاتا ہے۔ مسند الامام احمد، بخاری، بروایت ابی ہریرہ

۵۱۹ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق کوئی فیصلہ فرمادیتے ہیں، اس کے فیصلہ کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔

ابن قانع بروایت شرحبیل بن السمط

۵۲۰ مادر رحم میں جب نطفہ پر چالیس راتیں بیت جاتی ہیں، اللہ عزوجل اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں۔ وہ اس کی صورت تشکیل دیتا ہے۔ اس کے کان، آنکھیں، جلد، گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ بارگاہ خداوندی سے دریافت کرتا ہے! اے پروردگار! یہ جان مذکر ہے یا مؤنث؟ پھر پروردگار عزوجل اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں اور فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ عرض کرتا ہے۔ پروردگار! اس کی زندگی کتنی ہے؟ پھر پروردگار عزوجل اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں اور فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ عرض کرتا ہے۔ پروردگار! اس کا رزق کتنا ہے؟ پھر پروردگار عزوجل اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں اور فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اور پھر فرشتہ اس صحیفہ کو ہاتھوں میں لئے نکلتا ہے، اور اس حکم الہی میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔

الصحيح للامام مسلم رحمة الله عليه، بروایت حذیفہ بن اسید

۵۲۱ مادر رحم میں جب نطفہ پر چالیس راتیں گزر جاتی ہیں۔ تو ایک فرشتہ اس کی صورت بناتا ہے۔ اور بارگاہ الہی سے پوچھتا ہے! اے پروردگار! یہ جان مذکر ہے یا مؤنث؟ پھر اللہ تعالیٰ مشیت کے مطابق اس کو مذکر یا مؤنث کر دیتے ہیں۔ فرشتہ دوبارہ عرض کرتا ہے۔ پروردگار! اس کو درست اور صحیح سالم پیدا کرنا ہے یا کچھ تبدیلی کرنا ہے؟ پروردگار اس کے متعلق بھی فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ فرشتہ دوبارہ عرض کرتا ہے۔ پروردگار! اس کی زندگی کتنی ہے؟ اس کا رزق کتنا ہے؟ اس کے اوصاف کیسے ہوں گے؟ پھر پروردگار عزوجل اپنی مشیت کے مطابق

اس کو نیک بخت یا بد بخت پیدا فرماتے ہیں۔ الصحيح للامام مسلم رحمة الله عليه، بروایت حذیفہ بن اسید

۵۲۲ نطفہ کے رحم مادر میں چالیس رات تک مستقر رہنے کے بعد ایک فرشتہ اس کے پاس حاضر ہوتا ہے۔ اور پروردگار سے دریافت کرتا ہے! اے پروردگار! یہ جان نیک بخت ہے یا بد بخت؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کا عمل، زندگی، مصیبت، رزق، اور اس کی موت کا وقت تک لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس صحیفہ کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا جاتا ہے۔ اور آئندہ اس میں کچھ کمی بیشی نہیں کی جاسکتی۔ مسند الامام احمد، بروایت حذیفہ بن اسید

۵۲۳ نطفہ جب چالیس دن اور رات تک رحم مادر میں قرار پکڑے رہتا ہے، تو اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، وہ دریافت کرتا ہے! اے پروردگار! یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ وہ بتا دیا جاتا ہے۔ فرشتہ دوبارہ عرض کرتا ہے۔ پروردگار سعید ہے یا شقی؟ پھر وہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔

مسند الامام احمد، بروایت خابر رضی اللہ عنہ

۵۲۴ جب تم میں سے کسی کی رحم مادر میں تخلیق کی جاتی ہے، تو چالیس دن میں وہ ایک نطفہ کی شکل میں آتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں وہ منجند خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں وہ لوٹھڑا بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجتے ہیں اور اس کو چار باتوں کا حکم کیا جاتا ہے۔ کہ لکھ! اس کا عمل، رزق، زندگی اور اس کا بد بخت یا نیک بخت ہونا۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یقیناً بعض اوقات کوئی شخص اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے۔

حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر نوحۃ خداوندی غالب آ جاتا ہے۔ اور وہ اہل جہنم کے عمل کرنے لگتا ہے۔ اور انجام کار جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی شخص اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے اور جہنم

کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر نوشتہ خداوندی غالب آجاتا ہے۔ اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے لگتا ہے۔ اور انجام کار جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم بروایت ابن مسعود

اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے

۵۲۵ بعض مرتبہ کوئی شخص ظاہر اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، جب کہ وہ اہل جہنم میں شامل ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی شخص ظاہر اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے، جب کہ وہ اہل جنت میں شامل ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم، بروایت سہل بن سعد اور بخاری نے یہ اضافہ فرمایا ہے! اور اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔

۵۲۶ کیا تم جانتے ہو ان دو کتابوں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کتاب پروردگار رب العالمین کی ہے، اس میں اہل جنت اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کے قبائل وغیرہ کے نام ہیں۔ اور اسی پر ان کو جمع کیا جائے گا! کبھی بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ کتاب پروردگار رب العالمین کی ہے، اس میں اہل جہنم اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کے قبائل وغیرہ کے نام ہیں۔ اور اسی پر ان کو جمع کیا جائے گا! کبھی بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پس درست رہو اور قریب قریب رہو۔ بے شک صاحب جنت کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہوگا۔ خواہ وہ کیسے ہی اعمال کرتا رہے۔ اور بے شک صاحب جہنم کا خاتمہ اہل جہنم کے عمل پر ہوگا۔ خواہ وہ کیسے ہی اعمال کرتا رہے۔ اللہ بندوں کے فیصلہ سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ایک فریق جنت میں ہے اور ایک فریق جہنم میں۔ مسند الامام احمد، بخاری و مسلم، النسائی، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۵۲۷ اچھے اعمال بجالاتے رہو۔ اگر انجام کار اچھا رہا تو یہی نوشتہ الہی اور تقدیر الہی تھا۔ اور کاش کاش کی بات مت کرو، کیونکہ جس نے ایسا کرنا شروع کر دیا، یقیناً اس پر شیطانی عمل کا اثر ہو گیا۔ خطیب بروایت عمر

اولاد آدم سے عہد

۵۲۸ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام اولاد کو آدم کی پشت سے نکالا، اور ان سے شہادت لی کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے دو مٹھیاں بھریں اور ایک کے بارے میں فرمایا: یہ جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری کی بارے میں فرمایا: یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اہل جنت کو اہل جنت کے اعمال کی توفیق ہوگی اور اہل جہنم کو اہل جہنم کے اعمال کی توفیق ہوگی۔

مسند النزار، الطبرانی فی الکبیر بیہقی فی الاسماء بروایت هشام بن حکیم

۵۲۹ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا! پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں دست قدرت پھیرا تو اس سے ان کی اولاد کا ایک گروہ نکلا اللہ نے فرمایا! میں نے ان کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جنتی عمل کریں گے۔ اللہ نے پھر ان کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا تو اس ان کی اولاد کا دوسرا گروہ نکلا اللہ نے فرمایا! میں نے ان کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور یہ جہنمی عمل کریں گے۔

اللہ تعالیٰ جس بندہ کو جنت کے لئے پیدا فرماتے ہیں، اس کو اس کے عمل میں مصروف فرمادیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ جنتی اعمال پر مہم رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمادیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس بندہ کو جہنم کے لئے پیدا فرماتے ہیں، اس کو اس کے عمل میں مصروف فرمادیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ جہنمی اعمال پر مہم رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمادیتے ہیں۔

مالک، مسند الامام احمد، ابو داؤد، ترمذی، المستدرک للحاکم، بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۵۳۰ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان کی تمام اولاد کو ان کی پشت سے نکالا اور فرمایا: یہ جنت کے لئے ہیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ اور یہ جہنم کے لئے ہیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ مسند الامام احمد، ابو داؤد، ترمذی، بروایت عبدالرحمن ابن قتادہ السلمی

۵۳۱ اللہ پاک نے ایک مٹھی بھری اور فرمایا: یہ میری رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ پھر دوسری مٹھی بھری اور فرمایا: یہ جہنم میں جائیں

گے۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ المسند لابی یعلیٰ، انس رضی اللہ عنہ

۵۳۲ اللہ نے ایک قوم پر احسان فرمایا، اور ان کو خیر بھائی، پھر اپنی رحمت میں ان کو داخل فرمایا۔ اور دوسری قوم کو آزمائش میں جکڑا اور ان کو رسوا کر ڈالا، اور مذموم حرکتوں میں انکو مبتلا کر دیا۔ پس اب وہ اس آزمائش کے چال سے نکل نہیں پاتے۔ اور پروردگار ان کو عذاب فرمائیں گے اور یہ ان کے بارے میں پروردگار کا مین عدل ہے۔ الدارقطنی فی الافراد، الفردوس للذیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۵۳۳ یہ دو مشقت ہیں۔ ایک جہنم میں جائے گی، اور ایک جنت میں۔ مسند الامام احمد، الطبرانی فی الکبیر، بروایت معاذ

۵۳۴ اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور جہنم کو پیدا فرمایا۔ اور اُس کے اہل بھی پیدا فرمائے، اور اس کے اہل بھی پیدا فرمائے۔

الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۵۳۵ یقیناً اہل جنت کو اہل جنت کے اعمال میسر ہوں گے۔ اور اہل جہنم کو اہل جہنم کے اعمال میسر ہوں گے۔

ابوداؤد، بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۵۳۶ ہر بشر کا دنیا میں رزق مقدر ہے۔ جو لا محالہ اس کو حاصل ہو کر رہے گا۔ سو جو اس پر راضی ہو گیا، اسے اس میں برکت ہوگی اور فریخی میسر ہوگی۔ اور جو اس پر راضی نہ ہوا، اسے اس رزق میں برکت ہوگی نہ فریخی میسر ہوگی۔

الفردوس للذیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۵۳۷ اگر پروردگار عزوجل تمام اہل زمین و آسمان کو عذاب دیں، تو یہ پروردگار کا ان پر قطعاً ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر ان پر اپنی رحمت برسائیں، تو اس کی یہ رحمت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔

اور اگر تو اس کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، تو پروردگار اس کو اس وقت تک ہرگز قبول نہ فرمائیں گے۔ جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے، اور اس بات کا یقین نہ رکھے کہ تجھ کو پہنچنے والی مصیبت ہرگز ٹلنے والی نہ تھی، اور جس سے تو محفوظ رہا، وہ ہرگز تجھ کو پہنچنے والی نہ تھی۔ اور اگر اس کے سوا کسی اعتقاد پر تیری موت آئی تو تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ مسند الامام احمد، بروایت زید بن ثابت مسند الامام

احمد، ابن ماجہ، ابوداؤد، الصحيح لابن حبان، الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی بن کعب وزید بن ثابت وحذیفہ وابن ماجہ

۵۳۸ کوئی چاند نقرس ایسا نہیں ہے، جس کے لئے اللہ نے جنت اور جہنم دونوں میں جگہ نہ بنائی ہو۔ اور اس کے لئے شقاوت یا سعادت نہ لکھ دی ہو۔ استفسار کیا گیا تو کیا ہم بھروسہ نہ کر بیٹھیں؟ فرمایا نہیں، عمل کرتے رہو۔ اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھو۔ کیونکہ ہر شخص جس کام کے لئے پیدا ہوا ہے اسی کی اس کو توفیق ہوتی ہے۔ پس سعادت مندوں کے لئے سعادت مندوں کے اعمال آسان کر دیئے جاتے ہیں۔ اور بد بختوں کے لئے بد بختوں کے اعمال آسان کر دیئے جاتے ہیں۔ مسند الامام احمد، بخاری و مسلم، بروایت علی

۵۳۹ جس نے تقدیر کے بارے میں حرف زنی کی، اس سے قیامت کے روز باز پرس ہوگی۔ اور جس نے اس بارے میں سکوت اختیار کیا اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی۔ ابن ماجہ بروایت عائشہ

کاش، کاش شیطانی عمل ہے

۵۴۰ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اور ہر ایک میں خیر ہے۔ جو چیز تیرے لئے سود مند ہو اس کو سمیٹ لے۔ اور اللہ سے نصرت کا طلب گار رہ۔ لاچار اور مایوس ہو کر مت بیٹھ۔ اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو یوں مت کہہ کہ کاش! اگر یوں کر لیتا، تو یوں نہ ہوتا۔ بلکہ یوں کہہ! اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا تھا جو ضرور وقوع پذیر ہونا تھا۔ کیونکہ کاش، کاش، شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

مسند الامام احمد، ابن ماجہ، الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۵۴۱ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ خیر و سوائے تقدیر پر اس کا ایمان مستحکم نہ ہو۔ اور اس بات کا یقین نہ رکھے کہ اس

کو پہنچنے والی مصیبت ہرگز نلنے والی نہ تھی، اور جس سے وہ محفوظ رہا، وہ ہرگز اس کو پہنچنے والی نہ تھی۔ ترمذی، بروایت جابر ۵۳۲ کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا (جب تک کہ چار باتوں پر اس کا ایمان کامل نہ ہو) لا الہ الا اللہ کی شہادت دے۔ اور اس بات کی شہادت دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ موت اور بعثت بعد الموت پر ایمان رکھے۔ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ مسند الامام احمد، ترمذی، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم بروایت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے رواۃ ثقہ ہیں۔ سنن الترمذی ج ۱ ص ۴۵۲

۵۳۳ اے ابوہریرہ! جو تیرے ساتھ تینے والا ہے، اس پر تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے۔ لہذا اس پر مضبوط رہنا یا ہٹ جا۔

بخاری، النسائی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۵۳۴ اے عائشہ! اللہ نے جن کو جنت کے لئے پیدا فرمایا ہے، وہ جب اپنے آبا و اجداد کی پشتوں میں تھے، کبھی سے اللہ نے ان کو خشتی لکھ دیا تھا۔ مسند الامام احمد، الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد، ابن ماجہ بروایت عائشہ ۵۳۵ بسا اوقات آدمی زمانہ دراز تک اہل جنت کے اعمال پر کاربند رہتا ہے۔ لیکن خاتمہ اہل جہنم کے اعمال پر ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات آدمی زمانہ دراز تک اہل جہنم کے اعمال پر کاربند رہتا ہے۔ لیکن خاتمہ اہل جہنم کے اعمال پر ہو جاتا ہے۔

الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ۵۳۶ مجھے تو محض داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ہدایت میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ابلیس کو محض جھوٹی ملع سازی کرنے والا بنا کر پیدا کیا گیا ہے۔ ورنہ کسی کی ضلالت اور گمراہی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ الضعفاء للعقیلی رحمۃ اللہ علیہ، ابوداؤد، بروایت عمر

۵۳۷ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا باہم مناظرہ ہوا۔ اور آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔ خطیب بغدادی بروایت انس ۵۳۸ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا باہم مناظرہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا! آپ ہی وہ برگزیدہ شخص ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور پھر روح پھونکی اور آپ کو ملائکہ سے سجدہ کروایا اور جنت میں سکونت بخشی۔ پھر آپ نے اپنے گناہ کی بدولت ہم کو اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوایا؟ اور ان کو اس سے محروم کر دیا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا! اے موسیٰ کیا تم وہی ہو۔ جن کو اللہ نے اپنی رسالت کے لئے منتخب فرمایا؟ اپنے ساتھ کلام کے لئے چنا؟ اور آپ پر توراہ نازل کی، اور اس کے باوجود آپ مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہیں، جو اللہ نے میری قسمت میں میری پیدائش سے پہلے لکھ دی تھی؟ بآ لاخر آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔

مسند الامام احمد، بخاری و مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

آدم و موسیٰ علیہما السلام میں مناظرہ

۵۳۹ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی! اے پروردگار! مجھے آدم کی زیارت کروائیے، جنھوں نے اپنے کو اور ہم تمام لوگوں کو جنت سے نکلوایا؟ اللہ نے انکو آدم کی زیارت کروادی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا! آپ ہی ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام ہیں؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا! جی ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا! آپ میں اللہ نے روح پھونکی؟ اور آپ کو تمام اسماء سکھائے۔ اور فرشتوں کو حکم کیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں؟ پھر کیوں آپ نے ہم کو اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوایا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا! تم کون ہو؟ فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ دریافت کیا! کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ، جن سے اللہ تعالیٰ نے پس پردہ کلام کیا؟ فرمایا جی ہاں۔ دریافت کیا! کیا تم نے توراہ میں نہیں پایا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں میری پیدائش سے قبل یہ میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ فرمایا جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا! تو پھر کس وجہ سے تم مجھے ایسی بات پر ملامت کرتے ہو، جو اللہ نے مجھ سے پہلے میرے لئے فیصل کر دی تھی؟ تو آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔

ابوداؤد، بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۵۵۰..... اللہ تعالیٰ تمام اعداد و شمار اور دنیا کے جمیع امور کے متعلق آسمان وزمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے فیصلہ فرما کر فارغ ہو چکے ہیں۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عمرو

۵۵۱ اللہ تعالیٰ چار چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرما کر ان سے فارغ ہو چکے ہیں۔ پیدائش، اوصاف و اخلاق، رزق، مدت زندگی۔

ابن عساکر، بروایت انس

۵۵۲ اللہ پاک ہر بندے کی پانچ چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرما کر ان سے فارغ ہو چکے ہیں عمل، عمر، رزق، زندگی، جائے قیام۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی افرع

فرقہ قدریہ و مرجیہ کی مذمت میں

۵۵۳ اس امت کے مجوسی تقدیر خداوندی کو جھٹلانے والے ہیں۔ لہذا اگر وہ مرض میں مبتلا ہو جائیں، تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ۔

اور اگر مرجعائیں، تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہو۔ اور اگر ان سے ملاقات ہو جائے، تو ان کو سلام نہ کرو۔ ابن ماجہ، بروایت جابر

۵۵۴ ہر امت میں کچھ مجوسی لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس امت کے مجوسی، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا اگر وہ مرض میں

بمبتلا ہو جائیں، تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ۔ اور اگر مرجعائیں، تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہو۔ مسند الامام احمد، بروایت ابن عمر

۵۵۵ ہر امت میں کچھ مجوسی لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس امت کے مجوسی، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا اگر وہ مرض میں

بمبتلا ہو جائیں، تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ۔ اور اگر مرجعائیں، تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہو۔ اور وہ دجال کے گروہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ

ضرور انکا انہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ بخاری و مسلم، النسائی، بروایت حذیفہ

۵۵۶ یہ امت مسلسل خیر کے قریب رہے گی۔ جب تک کہ ولدان اور تقدیر کے مسئلہ میں نہ الجھیں۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن عباس

۵۵۷ عنقریب میری امت میں ایسی اقوام آئیں گی، جو تقدیر کا انکار کریں گی۔

مسند الامام احمد، المستدرک للحاکم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۵۵۸ میری امت کی دو جماعتوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مرجیہ اور قدریہ بخاری فی التاریخ، النسائی، ابن ماجہ، بروایت ابن

عباس رضی اللہ عنہ، بروایت جابر۔ خطیب، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی سعید

۵۵۹ میری امت کی دو جماعتوں کو قیامت کے روز میری شفاعت حاصل نہ ہوگی۔

مرجیہ اور قدریہ الحلہ۔ بروایت انس الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت وائل عن جابر

۵۶۰ میری امت کی دو جماعتیں قیامت کے روز حوض پر مجھ سے نہ مل سکیں گی۔ اور نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی۔

قدریہ اور مرجیہ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت انس

۵۶۱ میں اپنی امت کو انتہائی سختی سے تاکید کرتا ہوں کہ وہ تقدیر کے مسئلہ میں کبھی نہ الجھیں۔ خطیب، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۵۶۲ میں اپنی امت کو انتہائی سختی سے تاکید کرتا ہوں کہ وہ تقدیر کے مسئلہ میں کبھی نہ الجھیں۔ اور اس مسئلہ کے متعلق اخیر زمانہ میں امت کے

بدترین افراد الجھیں گے۔ ابو داؤد، بروایت ابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۵۶۳ ستر انبیاء کی زبانی قدریہ پر لعنت کی گئی ہے۔ الدارقطنی فی العلل، بروایت علی

۵۶۴ قدریہ کے ساتھ نشست و برخاست بھی نہ رکھو، اور نہ ان سے بات چیت کرنے میں پہل کرو۔

مسند الامام احمد، ابو داؤد، المستدرک للحاکم بروایت عمر

۵۶۵ قدریہ سے احتراز کرو، کیونکہ وہ نصاریٰ کا گروہ ہے۔ ابن ابی عاصم، الطبرانی فی الکبیر، ابو داؤد، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۵۶۶۔ اس امت کے مجوسی قدریہ ہیں۔ لہذا اگر وہ بیماری میں مبتلا ہو جائیں، تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ۔ اور اگر مرجائیں، تو ان کے جنازے میں

حاضر نہ ہو۔ ابو داؤد المستدرک للحاکم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۵۶۷۔ اپنے بعد میں اپنی امت کے بارے میں دو نخصلتوں سے ڈرتا ہوں، تقدیر کا انکار، اور ستارہ شناسی کی تصدیق۔

ابو داؤد، بروایت فی کتاب النجوم بروایت انس

یعنی ستارہ شناسوں (نجومیوں) سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان کی تصدیق کرنا۔

۵۶۸۔ تقدیر کے متعلق آخری بحث و مباحثہ کرنے والے آخر زمانہ میں میری امت کے بدترین افراد ہوں گے۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۵۶۹۔ قیامت کے روز ایک منادی ندا دے گا۔ اے وہ لوگو! جو اللہ کے دشمن ہیں کھڑے ہو جائیں، اور وہ قدریہ کی جماعت ہے۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت عمر

ایمان بالقدر..... از اکمال

۵۷۰۔ اچھے اعمال بجالاتے رہو۔۔۔ اگر انجام کار اچھا رہا تو جان لو کہ یہی نوشتہ الہی اور تقدیر الہی تھا۔ اور کاش کاش کی بات مت کرو، کیونکہ

جس نے ایسا کرنا شروع کر دیا، یقیناً اس پر شیطانی عمل کا اثر ہو گیا۔ خطیب، بروایت عمر خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو استسق و امترق میں

ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے جس نے کاش کاش کرنا شروع کر دیا! اس نے شیطانی عمل کو اپنی جان پر مسلط کر لیا۔ لیکن اس روایت میں اسحاق بن

عبداللہ بن ابی فروہ ایک راوی ہیں، جو متروک ہیں۔

۵۷۱۔ جب پروردگار کسی نطفہ کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں، تو رحم والا فرشتہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے اے پروردگار! یہ شتی ہوگا یا سعید؟ مذکر

ہوگا یا مؤنث؟ سرخ رنگت ہوگا یا سیاہ؟ پھر پروردگار فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ اور فرشتہ ہر اس خیر یا شر امر کو اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، جس سے بھی

مستقبل میں اس کا سابقہ پیش آئے گا۔ حتیٰ کہ غلہ کی مقدار جو اس کے نصیب میں ہے، وہ بھی لکھ دی جاتی ہے۔

ابن جریر، الدارقطنی فی الافراد، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۵۷۲۔ جب رحم مادر میں نطفہ پر بہتران بیت جاتے ہیں۔ تو رحم والا فرشتہ آتا ہے اور اس کا گوشت، ہڈیاں، کان اور آنکھیں بتاتا ہے۔ پھر

بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے اے پروردگار! یہ شتی ہوگا یا سعید؟ پھر پروردگار اپنی مشیت کے مطابق فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ اور فرشتہ اس کا رزق،

عمر اور عمل لکھ لیتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے۔ الاوردی بروایت ابی الطفیل عامر بن وائلہ بروایت حدیفہ بن اسید

۵۷۳۔ جب نطفہ پر بیتا لیس راتیں بیت جاتی ہیں۔ فرشتہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے اے پروردگار! مذکر ہوگا یا مؤنث؟ پھر

پروردگار فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ فرشتہ پھر بارگاہ خداوندی میں اس کے رزق، عمر اور عمل کے متعلق سوال کرتا ہے اور فرشتہ اس کو لکھ

لیتا ہے۔ اور اس صحیفہ کو ہمیشہ کے لئے لپیٹ دیتا ہے، آئندہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت حدیفہ بن اسید

۵۷۴۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو رحم میں پیدا ہونے والی جان پر وکیل بنایا ہے۔ وہ فرشتہ پھر بارگاہ خداوندی میں ہر مرحلہ کی تبدیلی پر عرض

کرتا ہے اے پروردگار! وہ نطفہ کی شکل میں ہے۔ اے پروردگار! اس نطفہ نے اب محمد خون کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اے پروردگار! اس نے

اب لوٹھڑے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ پس جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمانا چاہتے ہیں تو فرشتہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے اے پروردگار! یہ شتی

ہوگا یا سعید؟ اے پروردگار! یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ اے پروردگار! اس کا رزق کتنا ہوگا؟ اے پروردگار! اس کی عمر کتنی ہوگی؟ پھر فرشتہ حکم خداوندی

کے مطابق باور رحم میں ہی یہ چیزیں لکھ لیتا ہے۔ ابو داؤد الطیالسی، مسند الامام احمد، بخاری، الصحیح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ،

ابو عوانہ عن عبد اللہ بن ابی بکر بن انس عن جده عن حذیفہ بن اسید

۵۷۵ جب نطفہ رحم مادر میں استقرار پکڑ لیتا ہے، اور اس پر چالیس یوم گزر جاتے ہیں تو رحم کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی ہڈیاں، گوشت، خون، بال، کھال، کان اور آنکھ وغیرہ سب چیزوں کی صورت بناتا ہے۔ فرشتہ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے! اے پروردگار یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ یہ شقی ہوگا یا سعید؟ تو پروردگار اپنی مشیت کے مطابق جو چاہتے ہیں، فرمادیتے ہیں۔ اور فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ اور اس صحیفہ کو ہمیشہ کے لئے لپیٹ دیتا ہے، آئندہ قیامت تک اس کو کھولا نہیں جائے گا۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت حذیفہ بن اسید

۵۷۶ جب تم میں سے کسی کی رحم مادر میں تخلیق کی جاتی ہے، تو چالیس دن میں وہ ایک نطفہ کی شکل میں آتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں وہ نجد خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں میں وہ لکھڑا بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجتے ہیں اور اس کو چار باتوں کا حکم کیا جاتا ہے کہ لکھ اس کا غل، رزق، زندگی اور اس کا بد بخت یا نیک بخت ہونا۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ یقیناً بعض اوقات کوئی شخص اہل جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر نوشتہ خداوندی غالب آجاتا ہے۔ اور وہ اہل جنت آجاتا ہے۔ اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے لگتا ہے۔ اور انجام کار جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی شخص اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اس پر نوشتہ خداوندی غالب آجاتا ہے۔ اور وہ اہل جنت کے عمل کرنے لگتا ہے۔ اور انجام کار جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

مسند الامام احمد، بخاری، الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ عن ابن مسعود

۵۷۷ جب نطفہ کو بیالیس راتیں بیت جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو رحم میں پیدا ہونے والی جان پر وکیل بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ پیدا فرمانا چاہتے ہیں، تو فرشتہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتا ہے! اے پروردگار یہ مذکر ہوگا یا مؤنث؟ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے اور اس صحیفہ کو ہمیشہ کے لئے لپیٹ دیتا ہے، آئندہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت حذیفہ بن اسید

۵۷۸ مادر رحم میں جب نطفہ پر چالیس راتیں گزر جاتی ہیں۔ تو ایک فرشتہ اس کی صورت بناتا ہے۔ اور بارگاہ الہی سے پوچھتا ہے! اے پروردگار یہ جان مذکر ہے یا مؤنث؟ پھر اللہ تعالیٰ مشیت کے مطابق اس کو مذکر یا مؤنث کر دیتے ہیں۔ فرشتہ دوبارہ عرض کرتا ہے پروردگار! اس کو درست اور صحیح سالم پیدا کرنا ہے یا کچھ تبدیلی کرنی ہے؟ پروردگار اس کے متعلق بھی فیصلہ فرمادیتے ہیں۔ فرشتہ دوبارہ عرض کرتا ہے پروردگار! اس کو شقی لکھوں یا سعید؟

پھر پروردگار عرض و عمل اپنی مشیت کے مطابق اس کو نیک بخت یا بد بخت پیدا فرماتے ہیں۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت حذیفہ بن اسید

۵۷۹ اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والی جان کے متعلق، اس کے مادر رحم میں ہی فیصلہ فرمادیتے ہیں، کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت۔

ابو نعیم عن ثابت الخزاز الانصاری

۵۸۰ کوئی جی دار نفس ایسا نہیں ہے، جس کے لئے اللہ نے جنت اور جہنم دونوں میں جگہ نہ بنائی ہو۔ اور اس کے لئے شقاوت باسعادت نہ لکھی دی ہو۔ استفسار کیا گیا! تو کیا ہم بھروسہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں، عمل کرتے رہو۔ اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھو۔ کیونکہ ہر شخص جس کام کے لئے پیدا ہوا ہے اسی کی اس کو توفیق ہوتی ہے۔ پس سعادت مندوں کے لئے سعادت مندوں کے اعمال آسمان کر دیئے جاتے ہیں۔ اور بد بختوں کے لئے بد بختوں کے اعمال آسان کر دیئے جاتے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فاما من اعطی واتقى وصدق بالحسنی یعنی جس نے عطا کیا اور تقویٰ اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی۔

مسند الامام احمد، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بروایت علی

۵۸۱ آدمی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے۔ جبکہ کتاب میں وہ جہنمی لکھا ہوتا ہے۔ لہذا موت سے چند لحظات قبل اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ اہل جہنم کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اور مر کر جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برعکس آدمی اہل جہنم کے عمل کرتا

رہتا ہے۔ جبکہ کتاب میں وہ جنتی لکھا ہوتا ہے۔ لہذا موت سے چند لمحات قبل اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اور مرکز جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مسند الامام احمد، بروایت عائشہ

۵۸۲ بعض اوقات آدمی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے۔ جبکہ وہ اہل جہنم میں شامل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کے برعکس آدمی اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے۔ جبکہ وہ اہل جنت میں شامل ہوتا ہے۔ اور روح نکلتے وقت شقاوت یا سعادت مسلط ہو جاتی ہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، الحلیہ، عن اکثم ابی العجون

۵۸۳ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین کی پیدائش سے قبل ایک کتاب لکھی تھی، اور وہ اللہ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ اور تمام مخلوق کی تقدیر اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ابن مردودہ، الفردوس للذہلی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس

۵۸۴ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو ظلمت اور تاریکی کے ستارے میں پیدا کیا۔ پھر ان پر اپنے نور کی بارش کی۔ جس کو نور پہنچ گیا، اس نے ہدایت پائی۔ اور جس کو وہ نور نہ پہنچا، گمراہ ہوا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ قلم علم باری پر خشک ہو گیا ہے۔

مسند الامام احمد، ترمذی حسن، ابن جریر، الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم، بخاری ومسلم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۵۸۵ اللہ عزوجل نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس کے اہل بھی چھوٹے بڑے قبیلوں کی صورت میں پیدا فرمایا۔ اور اب ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور جہنم کو پیدا فرمایا اور اس کے اہل بھی چھوٹے بڑے قبیلوں کی صورت میں پیدا فرمایا۔ اور اب ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ سو عمل کرتے رہو، ہر شخص کو وہی عمل میسر آتا ہے، جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا۔

التحطیب بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۵۸۶ اللہ تعالیٰ نے ایک مشیت اپنے دائیں دست قدرت سے بھری اور دوسری بائیں دست قدرت سے بھری اور فرمایا اے اس کے لئے ہے اور یہ اس کے لئے۔ اور مجھے کوئی پروا نہیں۔ الصحیح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی عبد اللہ

۵۸۷ اللہ عزوجل فرماتے ہیں! میرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ میں نے ہی خیر کو پیدا کیا، اور جس کے حق میں چاہا میں نے اسکو مقدر کیا۔ کیا ہی بہتری ہے، اس کے لئے جس کو میں نے خیر کے لئے پیدا کیا، اور خیر کو اس کے لئے پیدا کیا۔ اور خیر کو اس کے ہاتھوں سے جاری کر دیا۔ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ میں نے ہی شر کو پیدا کیا، اور جس کے حق میں چاہا میں نے اسکو مقدر کیا۔ افسوس! حسرت ہے اس شخص کے لئے، جس کو میں نے شر کے واسطے پیدا کیا اور شر کو اس کے واسطے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں سے شر کو جاری کر دیا۔ ابن النجار بروایت ابی امامہ

۵۸۸ اللہ عزوجل فرماتے ہیں! میں اپنے بندوں پر زمین میں زلزلہ برپا کرتا ہوں۔ سو اس زلزلہ میں جن مؤمنین کی روح قبض کرتا ہوں، یہ زلزلہ ان کے لئے باعث رحمت ہوتا ہے۔ اور یہی ان کی موت کا مقررہ وقت ہوتا ہے۔ اور اس زلزلہ میں جن کافروں کی روح قبض کرتا ہوں، یہ زلزلہ ان کے لئے باعث عذاب اور رسوائی ہوتا ہے۔ اور یہی ان کی موت کا مقررہ وقت ہوتا ہے۔

نعیم بن حماد فی الفتن بروایت عروہ بن رویم مرسل

۵۸۹ تم کسی پر رشک اور تعجب مت کرو۔ جب تک کہ اس کا خاتمہ اعمال نہ دیکھ لو۔ بسا اوقات کوئی پرہیز گار اپنی زندگی کے عرصہ دراز تک نیک عمل انجام دیتا رہتا ہے حتیٰ کہ اگر اسی پر خاتمہ ہو جائے تو سیدھا جنت میں داخل ہو۔ لیکن پھر اس کی زندگی نیا موڑ اختیار کرتی ہے، اور وہ برے اعمال میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ کوئی بندہ عرصہ دراز تک برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو سیدھا جہنم میں جا کرے، مگر آخر میں اس کی زندگی کی کاپی اپٹ ہوتی ہے اور وہ نیک اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور جب پروردگار کسی بندہ کا بھلا چاہتے ہیں تو اس کو موت سے قبل عمل میں مصروف فرمادیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ! کیسے عمل میں مصروف فرمادیتے ہیں؟ فرمایا نیک عمل کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔ اور اسی پر اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔

مسند الامام احمد، عبد بن حمید، ابن ابی عاصم، ابن منیع، بروایت ضیاء مقدسی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۵۹۰ بعض مرتبہ کوئی شخص ظاہر لوگوں کی نگاہوں میں اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، جب کہ وہ اہل جہنم میں شامل ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی شخص ظاہر لوگوں کی نگاہوں میں اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے، جب کہ وہ اہل جنت میں شامل ہوتا ہے۔ اور اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔

مسند الامام احمد، بخاری، الطبرانی فی الکبیر، الدارقطنی فی الافراد بروایت سہل بن سعد

۵۹۱ رزق بندہ کو یونہی تلاش کرتا ہے، جس طرح موت اس کو تلاش کرتی ہے۔

۵۹۲ کوئی بندہ طویل ترین مدت تک مؤمن رہتا ہے۔ پھر مزید طویل ترین مدت تک مؤمن رہتا ہے۔ اور پھر انتقال کر جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ عزوجل اس پر برا فرودختہ اور ناراض ہوتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ اس کے برعکس کوئی بندہ طویل ترین مدت تک کافر رہتا ہے۔ پھر مزید طویل ترین مدت تک کافر رہتا ہے۔ اور پھر انتقال کر جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ عزوجل اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اور جو اس حال میں مرا کہ طعنہ زنی اور چغل خوری، اور بندگان خدا کو برے القاب سے ستانا اس کی عادت تھی، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی یہ نشانی مقرر فرمائیں گے کہ اس کے دونوں ہونٹوں کو اس کی ناک پر داغ کریں گے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۵۹۳ اگر تم اس درخت کے پاس نہ آتے تو یقیناً بہر صورت یہ گجوریں تمہارے پاس آ جاتیں۔

الطبرانی فی الکبیر، شعب الایمان، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۵۹۴ بندہ اپنی عمر کے طویل زمانہ تک یا بلکہ پوری زندگی تک اہل جنت کے عمل انجام دیتا رہتا ہے جبکہ وہ اللہ کے ہاں اہل جہنم میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور کبھی بندہ طویل زمانہ تک یا اپنی زندگی کے بیشتر زمانہ تک اہل جہنم کا عمل کرتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے ہاں اہل جنت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سخط، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۵۹۵ بندہ مؤمن پیدا ہوتا ہے اور مؤمن بن کر جیتا ہے۔ لیکن کافر ہو کر مرتا ہے۔ اور کبھی اس کے عکس بندہ کافر پیدا ہوتا ہے اور کفر کی حالت میں جیتا ہے، مگر مؤمن ہو کر مرتا ہے۔ بسا اوقات بندہ ایک زمانہ تک عمل کرتا رہتا ہے۔ لیکن پھر کتاب کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ شقاوت کی موت مرتا ہے۔ اور بسا اوقات اس کے برعکس بندہ ایک زمانہ تک شقاوت کے عمل کرتا رہتا ہے۔ لیکن پھر کتاب کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ سعادت کی موت مرتا ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن مسعود

۵۹۶ سب سے بڑا خوف اپنی امت کے بارے میں جو مجھے دامن گیر ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ ستارہ شناسوں کی تصدیق کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور تقدیر خداوندی کا انکار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب تک خیر و بد، خوشگوار و تنگ تقدیر پر کامل ایمان نہ رکھیں گے، ہرگز ایمان کی حلاوت نہ پائیں گے۔ ابن النجار بروایت انس

۵۹۷ میری امت اس دین کو مسلسل مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے گی، تا وقتیکہ وہ تقدیر کو نہ جھٹلائیں۔ اور جب وہ تقدیر کو جھٹلانے لگیں گے تو یہی ان کی ہلاکت کا زمانہ ہوگا۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی موسیٰ

۵۹۸ پروردگار کی سب سے پہلے تخلیق شدہ چیز قلم ہے۔ پھر جب پروردگار نے اسکو پیدا کر لیا تو اس سے فرمایا! لکھ اس نے دریافت کیا کیا لکھوں؟ فرمایا! تقدیر لکھ۔ پس جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا تھا، سارا اس گھڑی لکھ دیا گیا۔

ابو حاتم، ابن ابی شیبہ، ابن منیع، ابن جریر، المسند لابی یعلیٰ الطبرانی فی الکبیر، السنن لسعید، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۵۹۹ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا سبب ان کا اپنے انبیاء سے کثرت سوال اور آپس میں اختلاف کرنا تھا۔ اور یاد رکھو کوئی شخص اس وقت تک ہرگز مؤمن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت عمرو

۶۰۰ تم فلاح کے بارے میں جھگڑتے ہوئے دو حصوں میں بٹ گئے۔ جبکہ اسی وجہ سے تم سے پہلی اقوام قعر ہلاکت میں جا گریں۔ سنو! رحمن و رحیم کی کتاب ہے۔ اس میں اہل جہنم اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبائل وغیرہ کے نام ہیں۔ اور آخر میں لکھا ہوا ہے ان میں سے کبھی ایک فرد کی کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک فریق جنت میں ہے۔ اور ایک فریق جہنم میں۔

اور یہ کتاب بھی رحمن و رحیم کی ہے۔ اس میں اہل جنت اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے قبائل وغیرہ کے نام ہیں۔ اور آخر میں

لکھا ہوا ہے ان میں سے کبھی ایک فرد کی کمی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک فریق جنت میں ہے۔ اور ایک فریق جہنم میں۔

المدار قطنی فی الافراد بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

حدیث مذکور کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ اپنے دولت کدہ سے باہر تشریف لائے، تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

تقدیر کے مسکہ میں الجھ رہے ہیں۔ تب آپ ﷺ نے مذکورہ خطاب فرمایا۔

۶۴۱ اہل جنت اپنے اور اپنے آباء کے اسماء کے ساتھ لکھ دیئے گئے ہیں۔ اس میں قیامت تک کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اہل جہنم اپنے

اور اپنے آباؤ قبائل کے اسماء کے ساتھ لکھ دیئے گئے ہیں۔ اس میں قیامت تک کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ کبھی سعادت مندوں پر بھی شقاوت کی

راہیں کھلی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان پر آوازے کسے جاتے ہیں۔ کہ دیکھو ان کو، دیکھو ان کو۔ لیکن پھر فضل خداوندی ہوتا ہے۔ اور سعادت ان

پر چھا جاتی ہے۔ اور شقاوت کی ظلمت سے ان کو نکال لاتی ہے۔ اور کبھی اہل شقاوت پر بھی سعادت کی راہیں کھلی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی تعریفیں

کی جاتی ہیں! کہ دیکھو انکو، دیکھو انکو۔ لیکن پھر عدل خداوندی ہوتا ہے۔ اور شقاوت ان پر چھا جاتی ہے۔ اور سعادت سے انکو نکال لاتی

ہے۔ سو ہر ایک کو اسی کی توفیق حاصل ہوتی ہے، جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت عبد اللہ بن یسر

۶۴۲ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ پروردگار رب العالمین کی کتاب ہے، اس میں اہل جنت اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کے قبائل وغیرہ کے

نام ہیں۔ اور آخر میں لکھا ہوا ہے! کبھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا! پھر ہم عمل کیوں کریں؟

جبکہ اس امر سے فراغت ہو چکی ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا! سیدھے رہو اور قریب قریب رہو، کیونکہ صاحب جنت کا خاتمہ اہل جنت کے عمل

پر ہوگا۔ خواہ پہلے کیسے ہی اعمال کرتا رہا ہو۔ اور صاحب جہنم کا خاتمہ اہل جہنم کے عمل پر ہوگا۔ خواہ پہلے کیسے ہی اعمال کرتا رہا ہو۔ تمہارا رب بندوں

کے فیصلوں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اور تمہارا رب مخلوق سے بھی فارغ ہو چکا ہے۔ ایک فریق جنت میں ہے اور ایک فریق جہنم میں۔ اور اعمال

کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ ابن جریر بروایت رجل من الصحابہ

۶۴۳ قریب ہے کہ تم کہیں مرجعہ بن جاؤ، میرے پاس جبرئیل علیہ السلام آئے اور کہا! یا محمد اپنی امت کی خبر لیجئے۔ وہ راہ سے ہٹ رہی ہے۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت ثوبان

راوی کہتے ہیں! چالیس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قدر اور جبر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ پھر رسول اللہ ان کے پاس

تشریف لائے۔ اور مذکورہ خطاب فرمایا۔

۶۴۴ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور ان کی عمریں، اعمال اور رزق بھی لکھ دیئے۔ الخطیب بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۴۵ اسے ابن خطاب اتمام چیزوں کے فیصلوں سے فراغت ہو چکی ہے، اور ہر ایک اسی کے موافق عمل میں مصروف ہے۔ سعادت مند

سعادت کے عمل انجام دے رہا ہے اور اہل شقاوت شقاوت کا عمل انجام دے رہا ہے۔

مسند الامام احمد، ترمذی، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

پس منظر..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا تھا کہ بندہ جو عمل سر انجام دیتا ہے، وہ از سر نو معاملہ ہوتا ہے یا پہلے سے

اس کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے؟ تب آپ ﷺ نے مذکورہ جواب مرحمت فرمایا۔

اس حدیث پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اور صحیح کا حکم جاری فرمایا ہے۔

۶۴۶ جس کے بارے میں قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اور امور تقدیر جاری ہو چکے ہیں۔ عمل کرتے رہو (کیونکہ ہر ایک کو اسی کی توفیق حاصل

ہوتی ہے، جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے) پھر آپ ﷺ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فاما من اعطی و اتقنی و صدق بالحسنی

فانسیسره للیسری یعنی جس نے عطا کیا اور تقویٰ اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اس کو نیک کام میں سہولت دیں گے۔

عبد بن حمید، ابن شاہین، ابن قانع بروایت بشیر بن کعب العدوی

پس منظر..... ایک سائل نے آپ ﷺ سے سوال کیا! یا رسول اللہ! انسان عمل کس تحریک کی بناء پر انجام دیتا ہے؟ تب آپ ﷺ نے مذکورہ

جواب مرحمت فرمایا۔

اس حدیث کے مرسل ہونے کو ترجیح دی گئی ہے، کیونکہ راوی اول کی آپ ﷺ سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔

مسند الامام احمد، الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابو عوانہ، الصحيح لابن حبان بروایت جابر

۶۰۷ اللہ عزوجل فرماتے ہیں! میری معرفت کی علامت میرے بندوں کے دلوں میں ہے۔

۶۰۸ مجھے جبرئیل نے کہا اللہ عزوجل فرماتے ہیں! اے محمد جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مگر خیر و شرف تقدیر پر ایمان نہ لایا، تو وہ میرے سوا اپنا کوئی

اور پروردگار تلاش کر لے الشیرازی فی الالقاب، بروایت علی رضی اللہ عنہ

اس روایت میں محمد بن عکاشہ لکھ رہا ہے۔

۶۰۹ شقی اور سعید ہر ایک کے متعلق قلم چل چکا ہے۔ اور چار چیزوں سے فراغت پا چکا ہے۔ تخلیق، اخلاق، رزق اور عمر۔

الدیلمی بروایت ابن مسعود

۶۱۰ آخر زمانہ میں میری امت پر تقدیر ایک باب منکشف ہوگا، جس کا کوئی سد باب نہ ہو سکے گا۔ تمہیں اس سے نجات کے لئے یہی آیت کفایت کر سکتی گی۔

ماأصاب من مصيبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب

کوئی مصیبت دھرتی پر اور خود تم پر نہیں پڑتی، مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں ہے۔

الدیلمی بروایت سلیم بن جابر الہنجمی

۶۱۱ آسمان وزمین کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام تقدیروں کو مقدر کر دیا ہے، اور ان کو لکھ دیا ہے۔

مسند الامام احمد، ترمذی، الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عمرو

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ حدیث کو حسن صحیح اور غریب لکھا ہے۔

۶۱۲ آدم علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا! آپ وہی آدم ہیں، جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت

سے پیدا کیا، اور اپنی جنت میں رہائش بخشی، اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا۔ پھر آپ نے جو کیا، کیا۔ اور اپنی ذریت کو جنت سے نکلوا دیا؟

آدم علیہ السلام نے فرمایا! آپ وہی موسیٰ ہیں؟ جن کو اللہ نے اپنی رسالت کے لئے منتخب فرمایا، اور آپ کو اپنے ساتھ شرف کلام سے بخشا،

اور آپ کو راز و نیاز کے لئے اپنے قریب کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا! جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا! کیا میرا وجود مقدم ہے یا تقدیر کا؟ موسیٰ

علیہ السلام نے کہا تقدیر کا۔ اور آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت جندب وابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

۶۱۳ اگر کوئی بندہ رزق سے فرار ہو تو رزق اس کو موت کی طرح تلاش کرے گا۔ ابن عساکر، بروایت ابی الدرداء

۶۱۴ اگر پروردگار عزوجل تمام اہل زمین و آسمان کو عذاب دیں، تو یہ پروردگار کا ان پر قطعاً ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر ان پر اپنی رحمت برسائیں، تو اس

کی یہ رحمت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔

اور اگر تو اس کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، تو پروردگار اس کو اس وقت تک ہرگز قبول نہ فرمائیں گے۔ جب تک کہ

تو تقدیر پر ایمان نہ لائے، اور اس بات کا یقین نہ رکھے کہ تجھ کو پہنچنے والی مصیبت ہرگز ٹلنے والی نہ تھی، اور جس سے تو محفوظ رہا، وہ ہرگز تجھ کو پہنچنے والی

نہ تھی۔ اور اگر اس کے سوا کسی اعتقاد پر تیری موت آئی تو تو سیدھا جہنم میں جاے گا۔ ابو داؤد الطیالسی، مسند الامام احمد، بروایت زید

مسند الامام احمد، عبد بن حمید ترمذی، المسند لابن یعلیٰ، الصحيح لابن حبان، الطبرانی فی الکبیر، ضیاء المقدسی شعب

الایمان، بروایت ابی بن کعب و زید بن ثابت وحذیفۃ و ابن مسعودؓ۔

۶۱۵ اگر پروردگار عزوجل تمام اہل زمین و آسمان کو عذاب دیں، تو یہ پروردگار کا ان پر قطعاً ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر ان کو اپنی رحمت میں داخل

فرمائیں، تو اس کی یہ رحمت ان کے گناہوں سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ لیکن وہ جیسے چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے، کسی کو عذاب کے شکنجہ میں جکڑتا ہے اور کسی پر رحم فرماتا ہے۔ جس کو عذاب سے دوچار کرتا ہے، بالکل برحق کرتا ہے۔ اور جس پر اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے، وہ بھی برحق ہے۔ اور اگر تو اس کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، تو وہ تجھ سے اس وقت تک ہرگز قبول نہ کیا جائے گا! جب تک کہ تو اچھی بری

تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت عمران بن حصین

۶۱۶ نہیں ہے ایسا کوئی نفس، جو موت کی آغوش میں چلا جائے، اور چیونٹی برابر بھی اس کی کوئی نیکی اللہ کے پاس ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی

گارے سے لپ کر نہیں گے۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت معاذ

گارے سے لپ کر رکھنا کتنا ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنے سے۔

۶۱۷ جس نے دنیا میں تقدیر کے متعلق حرف زنی کی، اس سے قیامت کے روز باز پرس ہوگی۔ اور اگر اس سے لغزش ہوگی تو ہلاک ہو جائے گا۔ اور جس نے اس بارے میں سکوت اختیار کیا اس سے اس کے بارے میں باز پرس نہ ہوگی۔

المدار قطنی، فی الافراد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۱۸ دونوں مقام میں سے جس کے لئے اللہ نے کسی کو پیدا فرمایا ہوتا ہے، اسی کے لئے عمل کرنے کی اس کو توفیق ملتی ہے۔

مسند الامام احمد، بروایت عمران بن حصین

۶۱۹ جو شخص اللہ کے فیصلہ قضاء الہی پر راضی نہ ہو اور تقدیر خداوندی پر ایمان نہ لایا، وہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا تلاش کر لے۔

الخطیب، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۶۲۰ ٹھہرو! ٹھہرو! اے امت محمد، یہ دو گہری وادیاں ہیں، دو تاریک گڑھے ہیں، جوش واضطراب سے جہنم میں نہ کرو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم! سنو! یہ رحمن ورحیم کی کتاب ہے۔ اس میں اہل جنت اور ان کے آبا و اجداد اور اہمات اور ان کے قبائل وغیرہ کے نام

ہیں۔ تمہارا پروردگار بندوں کے فیصلہ جات سے فارغ ہو چکا ہے۔ تمہارا پروردگار فارغ ہو چکا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم! سنو! یہ رحمن ورحیم کی کتاب ہے۔ اس میں اہل جہنم اور ان کے آبا و اجداد اور اہمات اور ان کے قبائل وغیرہ کے نام

ہیں۔ تمہارا پروردگار فارغ ہو چکا ہے۔ تمہارا پروردگار فارغ ہو چکا ہے۔ تمہارا پروردگار فارغ ہو چکا ہے۔ میں تجھیں

ڈرا چکا۔ اے اللہ! میں تیرا پیغام رسالت پہنچا چکا۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابی الدرداء، ووائلہ، وابی امامہ، و انس

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں! رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم تقدیر سے متعلق بحث و تمجیس میں

مصروف تھے، یہ دیکھ کر آپ ﷺ نے مذکورہ خطاب فرمایا۔

۶۲۱ ایسی کسی چیز میں جلد بازی سے کام مت لو، جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ تم جلد بازی کے ساتھ اس کو حاصل کر لو گے، خواہ اللہ نے اس

کو تمہارے لئے مقدر نہ کیا ہو۔ اور اسی طرح ایسی کسی چیز میں تاخیر سے کام مت لو، جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ تمہاری تاخیر کے ساتھ وہ چیز

تمہارے سر سے ٹل جائے گی، خواہ اللہ نے اس کو تمہارے لئے مقدر کر دیا ہو۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت معاذ

۶۲۲ تقدیر کے متعلق بحث نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے، پس اللہ کے راز کو اس پر افساء کرنے کی کوشش نہ کرو۔

الحلیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۶۲۳ کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ تقدیر خداوندی پر ایمان نہ لائے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت سہل بن سعد

۶۲۴ کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ مسند احمد، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۶۲۵ مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچی، مگر وہ اس وقت سے میری قسمت میں لکھی جا چکی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے قالب میں تھے۔

ابن ماجہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

پس منظرِ اروای کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسالت مآب ﷺ سے استفسار کیا یا رسول اللہ! آپ کو ہر سال اس زہریلی بکری سے

تکلیف پہنچتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تب آپ ﷺ نے مذکورہ بالا جواب مرحمت فرمایا تھا۔

۶۲۶ کوئی بندہ اللہ سے ڈرنے کا حق اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ یقین نہ کر لے کہ جو مصیبت اس کو پہنچی ہے وہ ہرگز چوک کرنے والی نہ تھی اور جو نہیں پہنچی وہ ہرگز پہنچنے والی نہ تھی۔ الخطیب، بروایت انس

۶۲۷ کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی حلاوت نہیں پاسکتا۔ جب تک کہ یقین نہ کر لے کہ جو مصیبت اس کو پہنچی ہے وہ ہرگز خطا ہونے والی نہ تھی۔ ابی عاصم، السنن لسعید، بروایت انس

۶۲۸ کوئی تدبیر و احتیاط تقدیر خداوندی کو نہیں ٹال سکتی۔ لیکن دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ ہر مصیبت کے لئے سود مند ہے، کیونکہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو دعا اس سے جا ملتی ہے، اور یوں وہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔

ابو داؤد، المستدرک للحاکم وتعقب و الخطیب بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا
۶۲۹ اے زیر رزق عرش خداوندی سے زمین کی گہر لہیوں تک کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ ہر بندہ کو اس کی ہمت اور وسعت کے بقدر رزق عطا کرتا ہے۔ الحلیہ، بروایت الزبیر رضی اللہ عنہ

۶۳۰ اے سراقہ! جس بات پر تقدیر کا قلم خشک ہو چکا ہے، اور تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کے لئے عمل کرتے رہو۔ یقیناً ہر ایک کو اسی کی توفیق ہوتی ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، سراقہ بن مالک

۶۳۱ اے لڑکے! اللہ کے حقوق کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور جان لے اور جب تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی کے آگے دست سوال دراز کر۔ اور جب مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ کہ اگر ساری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کوئی نفع پہنچائے جبکہ اللہ نے وہ نفع تیرے حق میں نہیں لکھا، تو تمام لوگ اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ساری امت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کوئی ضرر پہنچائے جبکہ اللہ نے وہ ضرر تیرے حق میں نہیں لکھا، تو تمام لوگ اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ قلم خشک ہو چکے ہیں۔ صحیفے ہمیشگی کے لئے لپیٹ دیئے گئے ہیں۔ شعب الایمان، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

فراخی اور خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھنا

۶۳۲ اے لڑکے! کیا میں تجھ کو ایسی بات نہ بتاؤں، جو تیرے لئے نفع رساں ہو۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ فراخی و خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو وہ تجھے سختی و سختی میں یاد رکھے گا۔ یہ یقین کر لے کہ جو مصیبت تجھ کو پہنچی ہے وہ ہرگز چوکے والی نہ تھی اور جو نہیں پہنچی وہ ہرگز پہنچنے والی نہ تھی۔ اور یقین کر کہ اگر تمام مخلوق اس بات پر مجتمع ہو جائے کہ تجھے کوئی چیز عطا کرے، مگر پروردگار کی یہ منشاء نہ ہو تو وہ تمام لوگ اپنے فیصلہ پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر تمام مخلوق تجھ سے کوئی چیز چھیننا چاہے، مگر پروردگار وہ چیز تجھے عطا کرنا چاہے، تو ساری مخلوق اپنے فیصلہ پر قادر نہیں ہو سکتی۔

قیامت تک رونما ہونے والی تمام چیزوں کو قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھ! جب تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی کے آگے دست سوال دراز کر۔ اور جب مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ اور جب تو کسی سے حفاظت اور پناہ طلب کرے تو اللہ ہی سے طلب کر۔ شکر اور یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کر۔ جان لے! کہ ناپسند اور کراہت آمیز چیز پر صبر کرنا خیر کثیر کا باعث ہے۔ اور نصرت خداوندی بھی صبر پر موقوف ہے۔ کشادگی مصیبت و کرب کے ساتھ ہے۔ اور ہرنگی کے ساتھ دو گنا آسانی ہے۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، الصحیح لابن حبان، بروایت ابی سعید
۶۳۳ اے نوجوان! کیا میں تجھے نفع دینے والی چند باتوں کا تجھ نہ دوں؟ اور نہ سکھاؤں؟ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اور جب تو مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔

اور جان لے! قیامت تک رونما ہونے والی تمام چیزوں کو قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ اگر تمام مخلوقات تیرے لئے کسی چیز کا ارادہ کریں جو تیرے لئے نہ لکھی گئی ہو، تو وہ تمام مخلوقات اپنے فیصلہ پر قادر نہیں ہو سکتیں۔ اور جان لے! انصرت خداوندی صبر پر موقوف ہے۔ کشادگی مصیبت و کرب کے ساتھ ہے۔ اور ہر تنگی کے ساتھ دو گنا آسانی ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت عبد اللہ بن جعفر

۶۳۴۔ اے کعب یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ الصحيح لابن حبان، بروایت کعب بن مالک

حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک نے آں حضرت ﷺ سے استفسار کیا تھا، کہ یا رسول اللہ! کیا جو ہم دواؤں کے ساتھ علاج کرتے ہیں، اور جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا دیگر اشیاء جن کو ہم بطور تدابیر استعمال کرتے ہیں، وہ تقدیر خداوندی کو ٹال سکتی ہیں؟ تب آپ ﷺ نے مذکورہ جواب مرحمت فرمایا۔

۶۳۵۔ جس بات کا فیصلہ کر دیا گیا (وہ واقع ہو کر رہے گی)۔ الدارقطنی فی الافراد، الحلیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

فرع! قدریہ اور مرجیہ کی مذمت میں..... از الاکمال

۶۳۶۔ اللہ عزوجل نے مجھ سے قبل جتنے پیغمبروں کو بھی مبعوث فرمایا، ہر ایک کے بعد اس کی امت میں مرجیہ اور قدریہ ضرور پیدا ہوئے۔ جو ان کے بعد ان کی امتوں کو غلط راہوں پر ڈالتے رہے۔ آگاہ رہو! کہ اللہ عزوجل نے مرجیہ اور قدریہ پر سزا انبیاء کی زبانوں سے لعنت فرمائی ہے۔ خبردار! میری یہ امت، امت مرحومہ ہے۔ اس پر آخرت میں عذاب نہ ہوگا، اس کا عذاب تو دنیا ہی میں ہے، سوائے میری امت کے دو گروہوں کے، جو جنت میں قطعاً داخل ہی نہ ہوں گے، مرجیہ اور قدریہ۔ ابن عساکر، بروایت معاذ

آپ ﷺ کا ارشاد! کہ اس امت پر آخرت میں عذاب نہ ہوگا، اس کا عذاب تو دنیا ہی میں ہے، اس کا مقصود ہے کہ آخرت میں ان کو دائمی عذاب نہ ہوگا، جو گناہگار ہیں وہ بالآخر جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گے سوائے مرجیہ اور قدریہ کے۔ کہ وہ تقدیر کے انکار کی بنا پر کفر کے مرتکب ہوں گے اور پھر کفر کی وجہ سے دائمی عذاب کی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔

۶۳۷۔ میری امت کے دو گروہوں پر اللہ تعالیٰ نے سزا انبیاء کی زبانوں سے لعنت فرمائی ہے، قدریہ اور مرجیہ۔ جو کہتے ہیں کہ ایمان فقط زبان سے اقرار کا نام ہے، جس میں عمل ضروری نہیں۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت حذیفہ

۶۳۸۔ مرجیہ پر سزا انبیاء کی زبانوں سے لعنت کی گئی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ایمان قول بلا عمل کا نام ہے۔ حاکم فی التاريخ، بروایت ابی امامہ

۶۳۹۔ اللہ تعالیٰ نے جس بھی پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اس کی امت میں قدریہ اور مرجیہ ضرور رہے۔ جو ان کی امت کو خراب کرتے رہے۔ آگاہ رہو! اللہ تعالیٰ نے قدریہ اور مرجیہ پر سزا انبیاء کی زبانوں سے لعنت فرمائی ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت معاذ ابو داؤد بروایت ابن مسعود

۶۴۰۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قبل جس پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور اس کی امت سیدھی راہ پر جمع ہوئی، تو ضرور مرجیہ اور قدریہ نے ان کے درمیان دراڑیں ڈال دیں۔ آگاہ رہو! اللہ تعالیٰ نے قدریہ اور مرجیہ پر سزا انبیاء کی زبانوں سے لعنت فرمائی ہے، اور ان میں سے آخری میں ہوں۔

ابن الجوزی فی الواہیات بروایت ابی ہریرہ

۶۴۱۔ میری امت کے چار گروہوں کا اسلام میں کوئی حصہ ہے نہ جنت میں کوئی حصہ۔ نہ انہیں میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور نہ پروردگار ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے۔ بلکہ ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا مرجیہ، قدریہ، جہمیہ اور ارضیہ۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس

اس روایت میں ایک راوی اسحاق بن نجیح ہے۔

۶۴۲۔ میری امت کے دو گروہوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اہل قدر اور اہل رجا۔ ابو داؤد، بروایت معاذ

۶۴۳۔ میری امت کے دو گروہوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، مرجیہ اور قدریہ۔ دریافت کیا گیا! مرجیہ کون ہیں؟ فرمایا! جو ایمان میں محض قول

کے قائل ہیں اور عمل کا انکار کرتے ہیں۔ دریافت کیا گیا! قدریہ کون ہیں؟ فرمایا! جو شرک و اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں مانتے۔

السنن للبيهقي رحمة الله عليه، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۶۳۴ میری امت کے دو گروہوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، قدریہ اور مرجیہ۔ ان سے جہاد کرنا مجھے فارس و دہلیم اور روم والوں کے ساتھ

جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ الفردوس للديلمي رحمة الله عليه بروایت ابی سعید

۶۳۵ ہر امت میں مجوسی گذرے ہیں۔ اور میری اس امت کے مجوسی قدریہ ہیں۔

الشيروازي في الالقاب، بروایت جعفر بن محمد بروایت ابیہ عن جدہ

۶۳۶ قدری شخص کی ابتداء مجوسیت سے ہو کر زندگی بقیت پر انتہاء ہوتی ہے۔ ابو نعیم بروایت انس

۶۳۷ قدریہ میری امت کے مجوسی ہیں۔ الصحيح للبخاري رحمة الله عليه في تاريخه بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۶۳۸ ہر امت میں مجوسی گذرے ہیں۔ اور قدریہ میری اس امت کے مجوسی ہیں۔ پس جب وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ

کرو اور اگر مر جائیں تو انکے جنازے میں حاضر نہ ہو۔ مسند احمد بروایت ابن عمر

۶۳۹ میری امت کے یہودی مرجیہ ہیں، پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾

”سو جو ظالم تھے، انہوں نے اس لفظ کو جس کا انکو حکم دیا گیا تھا بدل کر اور لفظ کہنا شروع کر دیا۔“

ابو نصر ربيعہ بن علی العجلي في كتاب هدم الاعتزال والرافعي بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۶۵۰ شاید تم میرے بعد ایک عرصہ تک زندہ رہو۔ حتیٰ کہ ایسی قوم کو پابو و چور و دغا رعالم کی قدرت کو جھلائے گی اور اس کے بندوں

کو گناہوں پر اکسائے گی۔ ان کی باتوں کا مآخذ اور سرچشمہ نصرانیت ہوگا۔ سو جب ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو ان سے تم اللہ کے لئے

بیزاری کا اظہار کرو۔ الطراني في الكبير بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۶۵۱ اولاً جو چیز دین کو اوندھا کرے گی اور اس کا حلیہ بگاڑے گی جس طرح کہ برتن کو اوندھا کر دیا جاتا ہے، وہ لوگوں کا قدرت خداوندی میں

کلام کرنا ہوگا۔ الفردوس للديلمي رحمة الله عليه بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۶۵۲ قدریہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خیر اور شر ہمارے ہاتھوں کا کرشمہ ہے۔ ایسے لوگوں کو میری شفاعت شتمہ بھر نصیب نہ ہوگی۔ میرا ان

سے کوئی تعلق، نہ انکا مجھ سے کوئی تعلق۔ ابو داؤد، بروایت انس

۶۵۳ اس امت میں بھی مسخ واقع ہوگا، آگاہ رہو! اس کا ظہور تقدیر کے جھٹلانے والے زندیقوں میں ہوگا۔

مسند احمد، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۶۵۴ عنقریب آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی، جو تقدیر کو جھٹلائے گی۔ وہ اس امت کے مجوسی ہوں گے۔ پس اگر وہ مرض میں مبتلا ہو جائیں تو

ان کی عیادت کو نہ جانا۔ اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہونا۔ ابو داؤد، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۶۵۵ میرے بعد ایک قوم آئے گی جو تقدیر کا انکار کرے گی۔ خبردار! جو ان کو پائے وہ ان سے قتال کرے۔ میں ان سے بری ہوں، اور وہ مجھ

سے بری ہیں۔ ان سے جہاد کرنا، ترک اور دہلیم کے کافروں سے جہاد کی مانند ہے۔ الفردوس للديلمي رحمة الله عليه بروایت معاذ

۶۵۶ عنقریب آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی، جو کہیں گے تقدیر کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ پس اگر وہ مرض میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی

عیادت کو نہ جانا۔ اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں حاضر نہ ہونا۔ یقیناً وہ وصال کا گروہ ہے۔ اور اللہ پر لازم ہے کہ ان کا انجی کے ساتھ

حشر فرمائے۔ ابو داؤد الطيالسي، بروایت حذیفہ

۶۵۷ ایک قوم آئے گی جو کہے گی تقدیر کی کچھ حقیقت نہیں ہے، پھر وہ لوگ زندگی بقیت کے مرتکب ہوں گے۔ سو اگر تمہارا ان سے

سامنا ہو جائے تو انکو سلام نہ کرو۔ اور اگر وہ مرض میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ۔ اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں حاضر نہ

ہو۔ یقیناً وہ وہاں کا گروہ ہے۔ حاکم فی تاریخہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۶۵۸..... دو جمعین، جنت میں داخل نہ ہوں گی۔ قدریہ اور مرجیہ۔ ابو دائود، بروایت ابی بکر

۶۵۹..... میری امت کے دو گروہ جنت میں داخل نہ ہوں گے، قدریہ اور حروریہ۔ ابو دائود، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۶۶۰..... اگر فرقہ قدریہ یا مرجیہ کا کوئی شخص مر جائے، اور تین یوم بعد اس کی قبر کو کھودا جائے تو یقیناً اس کا رخ قبلہ رو نہ ملے گا۔

المستدرک للحاکم، بروایت معروف الخیاط عن وائلہ

اس روایت میں معروف نامی جو راوی ہے، بہت زیادہ منکر الحدیث ہے۔ لہذا اس روایت کی سحت پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

از سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

۶۶۱..... کوئی امت سوائے شرک باللہ کے کسی اور گناہ کی وجہ سے قعر ہلاکت میں نہ پڑی، اور شرک کی تحریک و ابتداء محض تکذیب بالقدر سے ہوئی۔

ابن عساکر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۶۶۲..... کوئی امت سوائے شرک باللہ کے کسی اور گناہ کی وجہ سے قعر ہلاکت میں نہ پڑی، اور کوئی امت شرک کی نجاست میں اس وقت تک نہ

ملوث ہوئے جب تک کہ تکذیب بالقدر میں مبتلا نہ ہوئے۔

الطبرانی فی الکبیر، تمام، ابن عساکر بروایت یحییٰ بن القاسم عن ابیہ عن جدہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ

۶۶۳..... جس نے ہمت اور استطاعت کو اپنی ذات پر منحصر سمجھا اس نے کفر کیا۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس

۶۶۴..... جو کہے کہ تقدیر کی حقیقت کچھ نہیں، اس کو قتل کر ڈالو۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۶۵..... جس نے تقدیر کو جھٹلایا یا محفوظ رکھا اس نے میرے لئے دین سے کفر کیا۔ ابو دائود بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۶۶۶..... تجھے موت اس وقت تک نہیں آسکتی، جب تک کہ ایسی قوم کے بارے میں نہ سن لے جو تقدیر کا انکار کرے گی اور بندوں کو گناہوں میں

بتلا کرے گی اپنی بات کا محور اور مرکز نصاریٰ کا قول بناے گی۔ پس تو اللہ کے لئے ان سے بیزاری کا اظہار کر دینا۔

الخطیب بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۶۶۷..... یہ دین کا امر مسلسل درست قائم رہے گا، جب تک کہ لوگ اولاد اور تقدیر کے متعلق بحث و مباحثہ نہ کریں۔

المستدرک للحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۶۶۸..... شیطان نے ایک مرتبہ ملک شام میں کاؤں کاؤں کی، جس کے نتیجے میں شام کی دو تہائی آبادی تقدیر کی منکر ہو چلی۔

السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۶۹..... قیامت کے روز ایک منادی ندا دے گا خبردار! آج اللہ کے دشمن کھڑے ہو جائیں، اور وہ قدریہ ہیں۔ ابن راہویہ، المسند لابی یعلیٰ

فصل ہفتم..... مؤمنین کی صفات میں

۶۷۰..... مؤمن کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ دین میں قوی ہو۔ نرمی و مہربانی میں احتیاط پیش نظر ہو۔ اس کا ایمان یقین کے ساتھ متصف

ہو۔ علم کا حریص ہو۔ ناراضگی میں شفقت کا دامن نہ چھوٹے۔ تو نگری میں میانہ روی کو اختیار کرے۔ فاقہ کشی کی حالت میں استغناء اور جمال

کو طوطا رکھے۔ حرص و طمع سے محفوظ رہے۔ حلال پیشہ کو اپنا وظیرہ بنائے۔ بھلی بات پر مستقیم رہے۔ راہ ہدایت میں خوشی کے ساتھ گامزن رہے۔

شہوت اور ہوس پرستی کا غلام نہ ہو۔ مشقت زدہ پر رحم کھائے۔

بندگانِ خدا میں سے مؤمن بندہ کبھی اپنے دشمن پر ظلم روا نہیں رکھتا۔ دوست کے بارے میں گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ امانت میں خیانت

کا مرتکب نہیں ہوتا۔ حد، طعن تشنیع اور لعنت بازی سے کوسوں دور رہتا ہے۔ حق بات کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، خواہ اس موقع پر موجود نہ

ہو۔ برے القاب کے ساتھ کسی مسلمان کو ستانا نہیں ہے۔

نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ مستغرق ہوتا ہے۔ ادا ہوگی زکوٰۃ میں سبک روی کرتا ہے۔ حوادث اور سختیوں میں وقار و سکینت کا ذامن اس سے نہیں چھوٹتا۔ خوش و آسانی کے مواقع پر شکر گزار رہتا ہے۔ موجود پر قانع رہتا ہے۔ غیر موجود کا دعویٰ نہیں کرتا۔ غصہ میں ظلم کی نہیں ٹھان بیٹھتا۔ کسی نیک کام میں بخل کو اڑے نہیں آنے دیتا۔ حصولِ علم کی خاطر لوگوں سے میل جول رکھتا ہے۔ لوگوں سے قابلِ فہم گفتگو کرتا ہے۔ اس پر ظلم و ستم ڈھایا جائے تو صبر کرتا ہے۔ حتیٰ کہ رخصت خود اس کا انتقام لیتا ہے۔ الحکیم بروایت جندب بن عبد اللہ

۶۷۱ مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔ مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی، الصحيح لمسلم،

بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد، الصحيح لمسلم، بروایت حابر، بخاری و مسلم، ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۷۲ مؤمن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے۔

مسند احمد، الصحيح المسلم، ترمذی، عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۷۳ مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الضیاء بروایت انس رضی اللہ عنہ

۶۷۴ مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے۔ اور مؤمن مؤمن کا بھائی ہے۔ اس کے مال و متاع کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی

دیکھ بھال کرتا ہے۔ الأدب للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۷۵ مؤمن مؤمن کے لئے مضبوط عمارت کی مانند ہے، کہ اس کا بعض حصہ دوسرے بعض حصہ کو تقویت پہنچاتا ہے۔

بخاری و مسلم، ترمذی بروایت ابی موسیٰ

۶۷۶ جبے میں مؤمن سے ملاقات کرتا ہے تو وہ دونوں ایک عمارت کی مثل ہوتے ہیں، جس کے ارکان ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت ابی موسیٰ

۶۷۷ مؤمن صرف وہی شخص ہے، جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کے متعلق بے خوف و خطر ہو جائیں۔ اور اصل مہاجر وہ شخص ہے جو

خطاؤں اور گناہوں کو ترک کر دے۔ ابن ماجہ، بروایت فصالہ

۶۷۸ مؤمن خندہ پیشانی کے ساتھ مرتا ہے۔ مسند احمد، النسائی، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، ترمذی، بروایت بریدہ

۶۷۹ مؤمن محبت و الفت رکھتا ہے، اور جو کسی سے محبت و الفت نہ رکھے اور نہ خود اس قابل ہو کہ کوئی اس سے محبت و الفت رکھے تو اس شخص میں

کوئی خیر نہیں ہے۔ مسند احمد، بروایت سهل بن سعد

مومن محبت سے کام لیتا ہے

۶۸۰ مؤمن خود بھی محبت و الفت رکھتا ہے اور دوسرے بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، اور جو کسی سے محبت و الفت نہ رکھے اور نہ خود اس قابل

ہو کہ کوئی اس سے محبت و الفت رکھے تو اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور لوگوں میں سب سے بھلا شخص وہ ہے جو لوگوں کے لئے سب سے زیادہ

نفع رساں ہو۔ الدارقطنی فی الافراد، الضیاء بروایت حابر

۶۸۱ مؤمن غیرت کھاتا ہے اور اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ الصحيح المسلم، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۸۲ مؤمن غیر ضرر رساں اور کریم صفت ہوتا ہے۔ اور فاسق شخص دھوکہ باز اور کمینہ صفت ہوتا ہے۔

ابو داؤد، ترمذی، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۶۸۳ مؤمن ہر حال میں خیر و بھلائی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا سانس پہلوؤں کے درمیان سے یوں آسانی کے ساتھ نکلتا ہے، کہ وہ اللہ

عز و جل کی حمد کر رہا ہوتا ہے۔ النسائی، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

- ۶۸۴۔ اہل ایمان میں کوئی مؤمن بمنزلہ سر کے ہے جسم کے مقابلہ میں۔ مؤمن اہل ایمان کے لئے یوں تڑپ اٹھتا ہے، جس طرح سر کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، بروایت سہل بن سعد
- ۶۸۵۔ مؤمن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ المستدرک للحاکم، بروایت سعید
- ۶۸۶۔ مؤمن اپنے شانہ پر پا کا بار رکھتا ہے۔ الحلیہ، شعب الایمان، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۶۸۷۔ جو مؤمن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتا ہے۔ وہ اس مؤمن سے بدرجہا بہتر ہے جو لوگوں سے دور ہے اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر نہ کر سکے۔

- مسند احمد، الأدب للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری و مسلم، ابن ماجہ، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ
- ۶۸۸۔ مؤمن مؤمن کا بھائی ہے، جو اس کی خیر خواہی سے کبھی نہیں اکتاتا۔ ابن النجار، عن جابر
- ۶۸۹۔ مؤمن کو دنیا میں کوئی بھی تکلیف پہنچے اسے کوئی افسوس نہیں، افسوس تو کافر کو ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن مسعود
- مؤمن کو افسوس اس لئے نہیں ہے کہ اس کو اس کا جزا آخرت میں ضرور ملے گا، بخلاف کافر کے، کہ اگر اس کو دنیا میں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو آخرت میں اس کا کوئی مداوانہ ہوگا۔
- ۶۹۰۔ مؤمن عقل مند، سمجھ دار اور ہوشیار رہتا ہے۔ القضاعی بروایت انس رضی اللہ عنہ
- ۶۹۱۔ مؤمن اہل طبیعت اور نرم خور عادت کا مالک ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کی نرمی و مہربانی کی وجہ سے تمہیں اس کی بیوقوفی کا خیال گزرے گا۔
- شعب الایمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۶۹۲۔ مؤمن بے ضرر اور سادہ طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ سو جو شخص اسی حال پر اس دنیا سے کوچ کر جائے وہ کتنا سعادت مند ہے۔

- مسند البزار، بروایت حابر
- ۶۹۳۔ مؤمن ہر امر نفع رساں ہوتا ہے، اگر تم اس کے ساتھ چلو گے تو تم کو نفع پہنچائے گا۔ اگر اس سے مشورہ کرو گے نفع پہنچائے گا۔ اگر اس کے ساتھ شرکت کرو گے نفع پہنچائے گا۔ الغرض اس کا ہر کام نفع رساں ہوتا ہے۔ الحلیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
- ۶۹۴۔ مؤمن لوگ سہل اور نرم طبیعت جیسے اوصاف کے مالک ہوتے ہیں، کیل پڑے ہوئے اونٹ کی مانند، اگر اسکو بانکا جاتا ہے تو فرمانبرداری کے ساتھ چل دیتا ہے۔ اور اگر کسی سخت چٹان پر بٹھایا جاتا ہے تو وہاں بھی بیٹھ جاتا ہے۔
- ابن المبارک، بروایت مکحول مرسل شعب الایمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۶۹۵۔ تمام مؤمنین ایک فرد کی مانند ہیں، اگر اس کا محض سر تکلیف زدہ ہوتا ہے تب بھی اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بخار اور بیماری کے ساتھ پریشان ہو جاتا ہے۔ الصحیح المسلم، بروایت النعمان بن بشیر

مؤمن جسم واحد کی طرح ہے

- ۶۹۶۔ تمام مؤمنین ایک فرد کی مانند ہیں، اگر اس کا محض سر تکلیف زدہ ہوتا ہے، تو سارا جسم تکلیف کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور اگر آکھ تکلیف زدہ ہوتی ہے تب بھی سارا جسم تکلیف کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ مسند احمد، الصحیح المسلم، بروایت النعمان بن بشیر
- ۶۹۷۔ ایمان کسی کا اس کی غفلت میں نین بہانے سے آڑ ہے، لہذا کسی مؤمن کا خون دھوکہ دہی سے نہ بہایا جائے۔
- التاریخ للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد، المستدرک للحاکم، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن الزبیر عن معاویہ
- ۶۹۸۔ اللہ نے انکار فرمادیا ہے کہ اپنے مؤمن بندے کے جسم پر بلاء و تکلیف کی کوئی نشانی باقی چھوڑے۔
- القرودس للذہبی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۶۹۹ جب تجھے تیری نیکی اچھی محسوس ہو اور برائی سے تودل گرفتہ ہو تو تو مؤمن ہے۔

۷۰۰ مسند احمد الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ الصحیح لابن حبان المستدرک للحاکم شعب الإیمان الضیاء بروایت ابی امامۃ جس کو نیکی اچھی محسوس ہو اور برائی سے دل گرفتہ ہو تو وہ مؤمن ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
۷۰۱۔ مؤمن کی اس کے چہرے پر تعریف کی جاتی ہے تو ایمان اس کے دل میں بڑھتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ المستدرک للحاکم بروایت اسامہ بن زید
۷۰۲۔ لوگوں میں سب سے زیادہ غم والا وہ مؤمن شخص ہے جو اپنی دنیا و آخرت دونوں کی فکر کرے۔ ابن ماجہ بروایت انس رضی اللہ عنہ
۷۰۳۔ مؤمنین میں افضل ترین شخص وہ جس کے اخلاق سب میں عمدہ ہوں۔

ابن ماجہ المستدرک للحاکم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
۷۰۴۔ مؤمنین میں افضل تر وہ شخص ہے جب وہ اللہ سے مانگے اسے عطا ہو اور جب لوگوں کی طرف سے اسے نہ دیا جائے تو وہ بھی بے پروا ہو جائے۔

التاریخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمرو
۷۰۵۔ مؤمنین میں افضل تر وہ شخص ہے جب فروخت کرے تب بھی نرمی برتے اور جب خریدے تب بھی نرمی برتے۔ جب فیصلہ کرے تب بھی نرمی کرے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سعید
۷۰۶۔ شیطان مؤمن سے اس طرح مذاق کرتا ہے جس طرح سفر میں کوئی اپنے اونٹ سے کرتا ہے۔

مسند احمد الحکیم ابن ابی الدنیا فی مکائد الشیطان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۷۰۷۔ مؤمنین پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کے لئے آرزوہ خاطر ہوں جیسے سارا جسم شخص سر کی تکلیف سے بیمار ہو جاتا ہے۔

ابو الشیخ فی التوبیخ بروایت محمد بن کعب مرسل
۷۰۸۔ مؤمن کو تو دیکھے گا کہ جس عمل کی طاقت رکھتا ہے اس میں انتہائی محنت و مشقت کرے گا اور جس کی طاقت نہیں رکھتا اس پر حسرت و افسوس کرے گا۔ مسند احمد فی الزہد بروایت عبید بن عمر مرسل

۷۰۹۔ عیضا اٹھانا مؤمن کی علامت ہے۔ اور انبیاء کی سنت ہے۔ الفردوس للذہلی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ
۷۱۰۔ مؤمن کا بھی عجیب معاملہ ہے۔ اس کے سارے کام خیر ہیں۔ یہ بات صرف مؤمن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ سراسر خیر ہے۔ اور اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ سراسر خیر ہے۔ مسند احمد الصحیح المسلم بروایت صہیب
۷۱۱۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے مؤمن بندے مجھے بعض ملائکہ سے بھی زیادہ پسند ہیں۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۷۱۲۔ مؤمن اللہ کے ہاں بعض ملائکہ سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۷۱۳۔ اللہ کے ہاں مؤمن سے زیادہ مکرم کوئی شی نہیں۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
۷۱۴۔ مؤمن کا دل حلوان کو پسند کرتا ہے۔

شعب الإیمان بروایت ابی امامۃ التاریخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
۷۱۵۔ مؤمن کے چار دشمن ہیں۔ مؤمن جو اس پر رشک کرتا ہے۔ منافق جو اس سے بغض رکھتا ہے۔ شیطان جو اس کی گمراہی کے درپے ہے۔ کافر جو اس کے قتل کی ٹھانے رہتا ہے۔ الفردوس للذہلی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۷۱۶۔ نہ ہو اور نہ قیامت تک کوئی مؤمن ہوگا مگر اس کا ہمسایا اس کو گزند پہنچائے گا۔ الفردوس للذہلی رحمۃ اللہ علیہ بروایت علی
۷۱۷۔ مؤمن اگر گوہ کے بل میں بھی چلا جائے وہاں بھی اللہ اس کے لئے ایذا رساں پیدا کر دیں گے۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۷۱۸ مؤمن اگر سمندر میں کسی لکڑی پر بیٹھا ہو وہاں بھی اللہ اس کے لئے ایذا رساں پیدا کر دیں گے۔ ابن ابی شیبہ بروایت

۷۱۹ نہ ہوا اور نہ قیامت تک کوئی مؤمن ہوگا مگر اس کا ہم سایہ اس کو زندہ پہنچائے گا۔ ابو سعید الخدری نے فرمایا کہ ابن النجار بروایت علی رضی اللہ عنہ

۷۲۰ مؤمن۔ طعنہ زن، لعنت کرنے والا اور فحش گو نہیں ہوتا۔

مسند احمد الأدب للبخاری رحمۃ اللہ علیہ د الصصحیح لابن حبان المستدرک للحاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۷۲۱ مؤمن خیر کے سننے سے کبھی سیر نہیں ہوگا حتیٰ کہ جنت میں چلا جائے۔

الصصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ الصصحیح لابن حبان بروایت ابی سعید

۷۲۲ ہم محبت سے بڑھ کر مؤمن کے سوا کسی چیز کو نہیں جانتے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۲۳ مؤمن ایک ہی سوراخ سے دوسرے نہیں ڈسا جاسکتا۔ مسند احمد بخاری ومسلم السنن لأبی داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ بروایت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسند احمد ابن ماجہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۲۴ افضل الناس وہ مؤمن ہے جو دو کریم کے درمیان ہو۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت کعب بن مالک

۷۲۵ مؤمنین کی ارواح آپس میں ایک دن رات کی مسافت سے مل لیتی ہیں، جبکہ ابھی ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھے ہوتے۔

الأدب للبخاری رحمۃ اللہ علیہ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

مومن ہر حال میں نافع ہے

۷۲۶ مؤمن کی مثال عطر فروش کی سی ہے اگر تو اس کے ساتھ بیٹھے گا تو تجھے نفع دے گا اگر ساتھ چلے گا نفع دے گا اگر اس سے شرکت کرے گا

نفع دے گا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۲۷ مؤمن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے، اس سے جو لے لو اس کی ہر شے نفع دہ ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۲۸ مؤمن مؤمن سے ملتا اور سلام کرتا ہے تو ان کی مثال عمارت کی سی ہے جو ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے۔

التاریخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۷۲۹ مؤمن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے اچھا کھاتا ہے اور اچھا پھل دیتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ الصصحیح لابن حبان بروایت ابی رزین

۷۳۰ مؤمن کی مثال نرم بالی کی ہے جو کبھی جھک جاتی ہے تو کبھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ المسند لأبی یعلیٰ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۷۳۱ مؤمن کی مثال نرم بالی کی ہے جو کبھی سرخ ہو جاتی ہے اور کبھی زرد ہو جاتی ہے۔ اور کافر صنوبر کی طرح ہے۔

مسند احمد بروایت ابی رضی اللہ عنہ

۷۳۲ مؤمن کی مثال نرم بالی کی ہے جو کبھی سیدھی اور سرخ ہو جاتی ہے۔ اور کافر کی مثال صنوبر کی طرح ہے۔ جو ہمیشہ سیدھا کڑا رہتا ہے لیکن

کبھی اچانک یوں اکھڑ جاتا ہے کہ احساس تک نہیں ہوتا۔ مسند احمد بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۷۳۳ مؤمن کی مثال کھیتی کے نوخیز پودے کی سی ہے۔ ہوا آتی ہے تو اس کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب ہوا پرسکون ہو جاتی ہے تو وہ

سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مؤمن کو مصائب وحالات جھکا دیتے ہیں اور کافر صنوبر کی طرح ہے۔ کہ ہمیشہ سیدھا کڑا ہوتا ہے پھر کبھی اللہ ہی

جب چاہے اس کی بیخ کنی فرمادیتے ہیں۔

تلاوت کرنے والے مومن کی مثال

۴۳۴۔ ایسے مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اترج لیموں کے پھل کی طرح ہے۔ جس کی خوشبو بھی عمدہ، اور ذائقہ بھی عمدہ۔ اور اس مومن کی مثال جو تلاوت قرآن سے غافل ہے، گھجور کی طرح ہے۔ جس کی خوشبو تو کچھ نہیں ہوتی، مگر اس کا ذائقہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اور منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، خوشبودار پھول کی طرح ہے، جس طرح بخاری، مسلم کی خوشبو تو عمدہ ہوتی ہے، پر ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور اس منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا ایلوے کی طرح ہے، جس کی بو بھی بد اور ذائقہ بھی کڑوا۔

مسند احمد، بخاری و مسلم، بروایت ابی موسیٰ

۴۳۵۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، کھائے بھی عمدہ شے اور دے بھی عمدہ شے۔ اور اگر کسی بوسیدہ کٹڑی پر بیٹھ جائے تو کٹڑی ٹوٹے بھی نہ۔ اور مومن کی مثال پگھلے ہوئے سونے کی طرح ہے۔ اگر تم اس کو پھونکو تو سرخ ہو جائے، اور وزن کرو تو وزن بھی کم نہ ہو۔

شعب الایمان، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۴۳۶۔ مومن کی مثال ظاہراً جڑے گھر کی ہے، لیکن اگر تم اس میں داخل ہو تو سنورا پاؤ۔ اور فاسق کی مثال رنگین اور اونچے مقبرے کی طرح ہے۔ دیکھنے والے کو دلکش لگے، مگر اس کا باطن بد بو سے پڑ ہے۔ شعب الایمان، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۴۳۷۔ مومنوں کی باہمی محبت اور شفقت و رحمت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر اس کا ایک عضو تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو سارا جسم اس کی

وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسند احمد، الصحیح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت النعمان بن بشیر

۴۳۸۔ مسلمان تو وہی شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ الصحیح المسلم، بروایت جابر

۴۳۹۔ مسلمان تو وہی شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مومن وہی شخص ہے جس سے انسانیت

اپنے جان و مال کے بارے میں مطمئن ہو۔ مسند احمد، ترمذی، النسائی، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۴۴۰۔ مسلمان تو وہی شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مہاجر وہ شخص ہے جو پروردگار کی منہیات

سے باز رہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، النسائی، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۴۴۱۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ابو داؤد، بروایت سویدین الحنظلہ

۴۴۲۔ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لئے آئینہ ہے۔ جب اس کے ذریعہ اپنی کسی غلطی پر مطلع ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کر لیتا ہے۔

ابن منیع بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

آئینہ کی خاصیت ہے کہ وہ اپنے مقابل چہرے کے عیوب کو صرف مقابل ہی پر ظاہر کرتا ہے۔ لہذا مسلمان کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو صرف اسی پر بغرض اصلاح پیش کرے۔

۴۴۳۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں مگر تقویٰ کی وجہ سے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت حبیب بن خراش

۴۴۴۔ تو نے سچ کہا واقعی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ مسند احمد، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، بروایت سویدین حنظلہ

۴۴۵۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ اس پر ظلم روا رکھتا نہ اس کے ساتھ گالی گلوچ سے پیش آتا ہے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں مشغول ہوتا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مشقت و مصیبت دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسکو مصیبتوں سے چھڑکا کر انصیب فرمائیں گے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ

پوشی فرمائیں گے۔ مسند احمد، بخاری و مسلم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۴۶۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، دونوں کو پانی اور درخت کافی ہے، اور دونوں فتنہ انگیز پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

ابو داؤد، بروایت صفیہ ودحیہ دختران علیہ.

غالباً مقصود یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کو ان چھوٹی موٹی چیزوں میں انکار نہیں کرتا بلکہ ضرورت کے موقع پر مہیا کر دیتا ہے۔ دوسرا حصہ! دونوں فتنہ انگیز پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ میں فتنہ انگیز سے مقصود شیطان العین ہے۔ یعنی برائی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔

۷۴۷۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ اس سے خیانت کا مرتکب ہوتا ہے نہ اس کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیتا ہے اور نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ مسلمان پر ہر مسلمان کی آبرو، مال و متاع اور اس کی جان حرام ہے۔ اور تقویٰ یہاں ہے۔ دل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اور آدمی کے شر کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ تحارت سے پیش آئے۔ ترمذی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

الاکمال

۷۴۸۔ مؤمن وہ ہے جس سے انسانیت امن میں ہو، اور مسلمان تو وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مہاجر وہ ہے جو برائی کو خیر باد کہہ دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! کوئی ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، جس کی ایذا مسلمانوں سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔

مسند احمد، النسائی، المسند لابن یعلیٰ، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم العسکری فی الامتال بروایت انس رضی اللہ عنہ ۷۴۹۔ سنو! کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مؤمن شخص کون ہے؟ مؤمن وہ ہے، جس سے لوگ اپنے مال اور جان کے بارے میں مطمئن ہوں۔ اور مؤمن وہ ہے جس سے انسانیت امن میں ہو، اور مسلمان تو وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مجاہد وہ شخص ہے، جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے۔ اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور معاصی سے اجتناب کرے۔

۷۵۰۔ مسلمانوں میں سب سے افضل وہ شخص ہے، جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسند احمد، الصحيح لابن حبان، الخرائطی فی مکارم الاخلاق بروایت حابر الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الخرائطی بروایت عمیر بن قتادہ اللیثی ۷۵۱۔ سب سے افضل اسلام اس مسلمان کا ہے، جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

۷۵۲۔ مؤمن وہ شخص ہے، جس کا نفس اس سے مشقت میں ہو، لیکن انسانیت اس سے راحت و آرام میں ہو۔

ابو نعیم بروایت انس رضی اللہ عنہ

مسلمان کے مسلمان پر حقوق

۷۵۳۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ اس پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے۔ نہ اس کو رسوا کرتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی نہیں ہونی مگر کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے۔ جان لو! مسلمان آدمی پر اس کے بھائی کے لئے چھ حق لازم ہیں، جب اس کو چھینک آئے تو الحمد للہ کہے۔ مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے۔ وہ غائب ہو یا حاضر، اس کے ساتھ خیر خواہی رکھے۔ ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے۔ دعوت دے تو اس کو قبول کرے۔ اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ جائے۔

مسند احمد، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۵۵۴۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب اس سے ملاقات ہو تو اس کے سلام کا جواب دے، جیسا اس نے سلام کیا ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ جب اس سے کوئی مشورہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی مطلوب رکھے۔ جب وہ اپنے دشمنوں کے خلاف مدد طلب کرے تو اس کی مدد کو جائے۔ جب اس سے درست راہ بیان کرنے کو کہے تو اس کو آسان اور سہل راہ سمجھا دے۔ جب دشمن کے خلاف سزا طلب کرے تو اس کی بات کو پورا کر دے، لیکن اگر مسلمان کے خلاف طلب کرے تو انکار کر دے۔ اگر ڈھال طلب کرے تو دے دے۔ اور حقیر اشیاء کے سوال کو رد نہ کرے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے استفسار کیا! یا رسول اللہ! حقیر اشیاء کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا! پتھر، پانی، اور لوہا وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر استفسار کیا! یا رسول اللہ! وہ ہے سے کون سا لوہا مراد ہے؟ فرمایا! پیتل کی ہانڈی اور پھاؤڑے کا پھل جس سے لوگ لکڑی وغیرہ کاٹتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر استفسار کیا! یا رسول اللہ! پتھر سے کون سا پتھر مراد ہے؟ فرمایا! پتھر کی ہانڈی۔

يعقوب بن سفيان، الباوردي، ابن السكّن، ابن قانع بروایت الحارث ابن شريح النميري
۵۵۵۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم روا رکھتا، نہ اس کو رسوا کرتا ہے، اور تقویٰ یہاں ہے۔ دل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے: اور دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی نہیں ہونی مگر کسی ایک کی طرف سے نئی بات پیدا ہونے کے ساتھ، اور وہ نئی بات سراسر شر ہوتی ہے۔

مسند احمد، المغوی، ابن قانع بروایت رجل من بنی سبط
۵۵۶۔ مؤمن مؤمن کا بھائی ہے، جب وہ کہیں سفر پر روانہ ہو جاتا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے سامان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے۔ الخرائطی فی مکارم الاخلاق بروایت المطلب بن عبد اللہ بن حنطب
۵۵۷۔ مؤمن آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ اور ایک دوسرے کو چاہنے والے ہیں خواہ ان کے وطن اور جسم جدا جدا ہوں۔ اور فاسق لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے ہیں خواہ ان کی جائے سکونت اور جسم ایک جگہ ہوں۔

عبد الرزاق الجلیلی فی الاربعین بروایت انس الفردوس للذیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت علی
۵۵۸۔ تو مؤمنوں کو باہمی محبت اور شفقت و رحمت میں ایک جسم کی طرح دیکھے گا۔ اگر اس کا ایک عضو تکلیف میں پڑ جائے تو سارا جسم اس کی وجہ سے بیدار اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، بروایت النعمان بن بشیر
۵۵۹۔ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اگر ایک عضو میں کوئی تکلیف ہو جائے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔

الامثال للرامهرمزی بروایت النعمان بن بشیر
۶۰۔ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر اس کی آنکھ آٹوب زدہ ہو تو سارا جسم شکایت آمیز ہو جاتا ہے۔ اور اگر گڑبڑ درد و تپ بھی سارے جسم میں تکلیف کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت النعمان بن بشیر
۶۱۔ اہل ایمان کے مقابلہ میں مؤمن کی مثال ایسی ہے جیسے پورے جسم کے مقابلہ میں سر کی مثال، مؤمن اہل ایمان کی تکلیف کی وجہ سے ایسے ہی پریشان ہو جاتا ہے، جس طرح سر جسم کے کسی بھی حصہ کی وجہ سے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

الأوسط للطیرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت سهل بن سعد
۶۲۔ مؤمن کا مرتبہ ایسا ہی ہے جیسا جسم میں سر کا مرتبہ، جسم کے کسی حصہ میں کوئی بھی تکلیف ہو جائے تو سر میں بھی تکلیف کی ٹھٹھکی ہوتی ہے۔ ابن قانع، ابن عساکر، ابو نعیم، بروایت بشیر بن سعد ابو النعمان

لیکن اس حدیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

۶۳۔ اہل ایمان کے مقابلہ میں مؤمن کی مثال ایسی ہے جیسے پورے جسم کے مقابلہ میں سر کی مثال، مؤمن اہل ایمان کی تکلیف کی وجہ سے ایسے ہی پریشان ہو جاتا ہے، جس طرح سر جسم کے کسی بھی حصہ کی وجہ سے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابن النجار بروایت سهل بن سعد
۶۴۔ اہل ایمان کے مقابلہ میں مؤمن کا مرتبہ ایسا ہی ہے جیسا جسم میں سر کا مرتبہ، جب بھی جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سر میں درد ہو جاتا ہے۔ اور جب سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ ابن السنی فی الطب بروایت قیس بن سعد

۷۶۵ . مؤمن اور اس کے بھائی کی مثال دو تھیلیوں کی مانند ہے، کہ ہر ایک دوسری تھیلی کو صاف کرتی ہے۔

ابن شاہین بروایت دینار عن انس

۷۶۶ . مؤمنوں کو چاہئے کہ وہ آپس میں ایک جسم کی مانند رہیں کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو شکایت پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت النعمان ابن بشیر

۷۶۷ . مؤمن مؤمن کا آئینہ ہے۔ مؤمن مؤمن کا بھائی ہے، کہ جب بھی اس سے میل جول ہوتا ہے، اس کے سامان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے۔

ابو داؤد، العسکری، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۷۶۸ . مؤمن اپنے مؤمن بھائی کا آئینہ دار ہے۔ العسکری فی الامثال

۷۶۹ . جو مؤمن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتا ہے۔ وہ اس مؤمن سے بدرجہا بہتر ہے جو لوگوں سے دور ہے اور ان کی ایذا رسانیوں پر صبر نہ کر سکے۔ شعب الایمان، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۷۰ . مؤمنین کی ارواح آپس میں ایک یوم کی مسافت سے ملاقات کر لیتی ہیں، جبکہ ابھی دونوں نے ملاقات نہیں کی ہوتی۔

مسند احمد، المدارقطنی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۷۱ . مؤمن خود بھی محبت و الفت رکھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے محبت و الفت رکھتے ہیں۔ اور اس شخص میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے جو خود کسی سے محبت رکھے نہ اس سے کوئی محبت رکھے۔ اور لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔

المدارقطنی فی الافراد، التلعیمی بروایت حابر

۷۷۲ . مؤمن کا مؤمن کے پاس آنا تازگی و خوشگواہی ہے۔ اور مؤمن کا کافر کے پاس آنا حجت ہے۔ اور مؤمن کا نورانی آسمان کے لئے چمکتا دمکتا ہے۔ الدیلیمی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۷۷۳ . جس نے تین باتوں میں عار محسوس نہ کی وہ مرد مؤمن ہے، اہل و عیال کی خدمت، فقراء کے ساتھ نشست و برخاست، اور خادم کے ساتھ کھانا پینا۔ یہ کام ان مؤمنین کی علامات میں سے ہیں، جن کے بارے میں حق جل مجدہ نے فرمایا!

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

یہی مؤمنین حق ہیں۔ الدیلیمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۷۷۵ . مؤمن کے اخلاق میں ہے کہ جب گفتگو کرے تو اچھی گفتگو کرے۔ اور جب اسے کچھ کہا جائے تو توجہ کے کان سے سنے۔ اور جب اس سے ملاقات ہو تو خوشخبری سنائے۔ اور وعدہ کرے تو وفا کرے۔ الدیلیمی بروایت انس

۷۷۶ . دو خصالتیں کسی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، وقار کے ساتھ خاموشی اختیار کرنا، دین میں فقہ یعنی سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔

ابن المارک عن ابن محمد بن عبد اللہ بن سلام مرسلًا

۷۷۷ . مؤمن ایسا نرم مزاج ہوتا ہے کہ تم اسکو اس کی نرمی و مہربانی کی وجہ سے بیوقوف خیال کرو گے۔

شعب الایمان، الثقفی فی الثقفیات، الدیلیمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۷۷۸ . مؤمن نرم شانوں والا ہوتا ہے، اپنے بھائی پر وسعت و فراخی کرتا ہے۔ اور منافق کنارہ کش رہنے والا ہوتا ہے جو اپنے بھائی پر تنگی کرتا ہے۔ مؤمن ابتداءً بالسلام کرتا ہے۔ اور منافق منتظر رہتا ہے کہ دوسرا خود مجھے سلام کرے۔ المدارقطنی فی الافراد بروایت انس

۷۷۹ . مؤمن اپنے اہل و عیال کی خواہش کے مطابق کھاتا ہے۔

۷۸۰ . مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔ الطبرانی فی الکبیر، بروایت سمرة

۷۸۱ . مؤمن اگر کسی چوہے کے بل میں بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کے لئے موزی مسمایہ پیدا فرمادیتے ہیں۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

لیکن اس روایت میں ابو معین الحسن بن الحسن الرازی متفرد ہیں۔

۷۸۲ نہ کوئی مؤمن گزرا، نہ آئندہ گزرے گا مگر اسکو کسی ایذا رسال ہمسائے سے ضرور سائقہ پڑے گا۔ ابوسعید سعید بن محمد بن علی بن

عمر النقاش الاصبہانی فی معجمہ، ابن النجار بروایت عبداللہ بن احمد بن عامر عن ابیہ عن علی الرضا عن آباءہ عن علی
لیکن میزان میں مصنف نے فرمایا ہے کہ یہ نسخہ جس سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، من گھڑت اور باطل ہے، جس کی کوئی اصل نہیں۔ مذکورہ
عبداللہ یا اس کے والد کی طرف سے وضع شدہ ہے۔

۷۸۳ مؤمنوں میں سب سے افضل وہ مؤمن ہے، جس کا قلب مخموم یعنی حسد و کینہ وغیرہ سے پاک صاف ہو، اور اس کی زبان سچائی کی
عادی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے استفسار کیا! یا رسول اللہ! یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا! وہ شخص جو متقی، گناہوں کی آلاش
سے پاک صاف ہو، حسد اور کینہ وغیرہ سے پاک دل رکھتا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پھر استفسار کیا! ان صفات کے حامل شخص کے
بعد کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا! وہ لوگ جو دنیا سے غافل اور آخرت کو محبوب رکھنے والے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے
پھر استفسار کیا! ان کے بعد کس کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا! وہ مؤمن جو عمدہ اخلاق سے متصف ہو۔

الحکیم، الخرائطی فی مکارم الاخلاق بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۸۵ مؤمنین میں سب سے افضل وہ مؤمن ہے کہ جب وہ سوال کرے تو عطا کیا جائے بمطابق منتخب کنز العمال! اگر اس سے سوال
کیا جائے تو وہ عطا کر دے اور اگر اس کو محروم رکھا جائے تو مستغنی ہو جائے۔ خطیب، عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ

۷۸۶ بے شک مؤمن کو راستہ سے کوئی تکلیف دہ شئی دور کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ سیدھی راہ پر گامزن رہنے میں بھی اجر ملتا ہے۔ کسی سے
اچھی گفتگو کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔ دودھ کا عطیہ دینے میں بھی اجر ملتا ہے۔ حتیٰ کہ اس بات پر بھی اجر ملتا ہے کہ اس نے کپڑے میں سامان
لیٹ رکھا تھا اس نے اس کو چھونے کے لئے ہاتھ لگایا تو ہاتھ سامان کی جگہ سے چوک گیا تو اس ذرا سی دیر کی پریشانی پر بھی اجر ملتا ہے۔

المسند لابی یعلیٰ، بروایت انس

۷۸۷ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ مجھے پروردگار کے اپنے بندے کے لئے فیصلہ پر تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے لئے جو بھی
فیصلہ فرماتے ہیں وہ اس کے لئے سراسر خیر کا باعث ہوتا ہے۔ اور ایسا کوئی بندہ نہیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ سراسر خیر کا فیصلہ فرمائیں سوائے مسلم
بندہ کے۔ الحلیہ بروایت صحیب

۷۸۸ اللہ کا فیصلہ مسلم بندہ کے لئے عجیب تر ہے۔ کہ اگر اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے، تو شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتے
ہیں۔ اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتے ہیں۔ اور اللہ نے جو فیصلہ بھی مسلمانوں کے لئے
فرمایا خیر کا سرچشمہ ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت صحیب

۷۸۹ مؤمن کے لئے اللہ کے فیصلہ پر مجھے تعجب ہے کہ اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی حمد کرتا ہے، اور اس کا شکر بجالاتا ہے۔ اور اگر
کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ اور مؤمن کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس لقمہ میں بھی اجر دیا جاتا ہے جو وہ
اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ مسند احمد، عبد بن حمید، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید بروایت سعد بن ابی وقاص

۷۹۰ مؤمن کی مثال اس درخت کی ہے جس کا پتہ نہیں گرتا۔ یعنی کھجور۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۹۱ مسلمان شخص کی مثال اس درخت کی سی ہے، جس کا پتہ گرتا نہ چھرتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الخطیب بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۷۹۲ مؤمن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے۔ جو کھاتی بھی عمدہ شے ہے اور دیتی بھی عمدہ شے ہے۔ اگر کسی چیز پر بیٹھ جائے تو اس کو توڑتی ہے نہ
خراب کرتی ہے۔ اور مؤمن کی مثال سونے کے اس عمدہ ٹکڑے کی ہے، جس کو بھٹی میں خوب پھونکا گیا ہو تو وہ عین عمدہ ہو کر نکلے، اور پھر وزن کیا

جائے تو وزن بھی کم نہ ہو۔ الرامهرمزى فى الامثال، المستدرک للحاکم، شعب الایمان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۹۳۔۔۔۔۔ مؤمن کی مثال شہد کی کھسی کی سی ہے۔ اگر مؤمن کے ساتھ تم باہم مشورہ کرو تو وہ تم کو نفع پہنچائے گا اور اگر اس کے ساتھ چلو گے تب بھی تم کو نفع پہنچائے گا۔ الرامهرمزى فى الامثال، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
اس میں ایک راوی ایث بن سلیم ہیں۔

۹۴۔۔۔۔۔ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! کہ مؤمن کی مثال تو سونے کے اس ٹکڑے کی ہے، جس پر اس کا مالک بھڑ میں خوب پھونکے مگر وہ متغیر ہونے کم وزن ہو۔ اور قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! مؤمن کی مثال تو شہد کی کھسی کی سی ہے۔ جو کھاتی بھی عمدہ شئی ہے اور دیتی بھی عمدہ شئی ہے۔ اگر کسی چیز پر بیٹھ جائے تو اسکو توڑتی ہے نہ خراب کرتی ہے۔

شعب الایمان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
۹۵۔۔۔۔۔ طاقت ورمؤمن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے۔ اور کمزور مؤمن کی مثال کھیتی کے نوخیز پودے کی سی ہے۔

الرامهرمزى، المدیلمی، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

اس میں ایک راوی البورایع الصائخ ہیں۔

۹۶۔۔۔۔۔ مؤمن کی مثال اس شاخ کی ہے، جو کبھی تند ہو اسے جھک جاتا ہے، تو کبھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور کفر کی مثال صنوبر کے تار و درخت کی ہے، جو کبھی آخر کار یوں گر پڑتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عمار
۹۷۔۔۔۔۔ یہ درخت مؤمن کی مثال ہے، جب وہ خشیت خداوندی سے لرز جاتا ہے تو اس کے گناہ مجھو جاتے ہیں اور نیکیاں یوں ہی باقی رہ جاتی ہیں۔

الصحيح لابن حبان بروایت العباس

مؤمن کی مثال جنگل میں پڑے ہوئے اس پر کی ہے، جس کو ہوائیں کبھی کہیں اڑاتی ہیں تو کبھی کہیں۔ مسند الزار بروایت انس

۹۸۔۔۔۔۔ مؤمن کی مثال کھیتی کے اس نوخیز پودے کی ہے، جس کو ہوائیں کبھی آ کر سیدھا کرتی ہیں، تو دوبارہ جھکا دیتی ہیں حتیٰ کہ اس کی مدت پورا ہونے کا وقت آ پہنچتا ہے۔ اور کافر کی مثال صنوبر کے اس توانا اور اپنی جڑ پر سیدھے کھڑے ہوئے درخت کی ہے، جس کو کوئی چیز بل نہیں دے سکتی۔ حتیٰ کہ ایک ہی مرتبہ وہ ہمیشہ کے لئے جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ الرامهرمزى فى الامثال بروایت کعب بن مالک

مؤمن بندہ کی شہرت

۹۹۔۔۔۔۔ کیا تم جانتے ہو کہ مؤمن کون ہے؟ مؤمن وہ شخص ہے جس کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ اس کے کان جی بھر کر اپڑ مطلوب و محبوب شے نہ سن لیں۔ اور فاسق وہ شخص ہے، جس کی موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ اس کے کان اپنی ناپسند و مکروہ شے اچھو طرح نہ سن لیں۔ اور اگر اللہ کا کوئی بندہ ستر کمروں کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، اور ہر کمرہ پر لوہے کا دروازہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا اس کے عمل کے عظمت کی چادر ضرور زیب تن فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ لوگوں سے بیان کر کے اڑدھام نہ کروائے۔

المستدرک للحاکم فی تاریخہ بروایت انس

۸۰۰۔۔۔۔۔ میری امت کا کوئی بندہ نیکی انجام نہیں دیتا اور اس کے نیکی ہونے کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اچھے اجر سے نوازتے ہیں۔ اور کس بندہ سے کوئی لغزش صادر نہیں ہوتی اور اس کو اس کے برائی ہونے کا یقین ہوتا ہے اور وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اور جانتا ہے کہ اس کے سوا کوئی مغفرت نہیں کر سکتا تو ایسا بندہ یقیناً مؤمن ہے۔ مسند احمد، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی رزین العقیلی

پس منظر! صحابی راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ سے پوچھا! کہ کیسے مجھے علم ہو کہ میں مؤمن ہوں؟ تو آپ ﷺ نے یہ جواب

مرحمت فرمایا۔

۸۰۱ جو معصیت سے ڈرتا ہے اور نیکی کی امید رکھتا ہے وہ مؤمن ہے۔ ابن النجار بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 ۸۰۲ جو معصیت سے ڈرتا ہے اور نیکی کی امید رکھتا ہے پس یہ اس کے مؤمن ہونے کی علامت ہے۔

الصحيح للبخارى رحمة الله عليه فى التاريخ بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۸۰۳ جس شخص کو اس کا گناہ نادم اور پریشان کر دے وہ مؤمن ہے۔ الطبرانی فى الكبير المستدرک للحاکم بروایت علی
 ۸۰۴ جس شخص کو اپنا گناہ برا محسوس ہو اور نیکی سے دل خوش ہو تو وہ مؤمن ہے۔ الطبرانی فى الكبير المستدرک للحاکم عن ابى امامه تمام
 بروایت ابى امامه وعمرو المسند لابی یعلی ابوسعید السمان فى مشیخته بروایت عمر
 یہ حدیث صحیح ہے۔

۸۰۵ جس شخص کو اپنا گناہ برا محسوس ہو اور نیکی سے دل خوش ہو تو یہ اس کے مؤمن ہونے کی علامت ہے۔

البخارى فى التاريخ بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۸۰۶ جس سے کوئی برائی سرزد ہوئی اور سرزد ہونے کے وقت اس کا دل اسکو ملا مت کر رہا تھا، یا کوئی نیکی کی، اس پر اس کا دل خوش ہوا تو وہ
 مؤمن ہے۔ مسند احمد، المستدرک للحاکم للبخاری رحمة الله عليه، بروایت ابى موسى
 ۸۰۷ مؤمن پر آگندہ بال، گرد آلود، اجڑی ہوئی حالت دو پرانے کپڑے جسم پر ڈالے ہونے اگر اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ اس کو قسم سے بری
 فرمادیں گے۔ ابن ابى عاصم، السنن لسعيد، بروایت انس

۸۰۸ مؤمن پر دو قسم کے خوف مسلط رہتے ہیں۔ سابقہ گناہ، معلوم نہیں اللہ عزوجل اس کے بارے میں کیا فیصلہ صادر فرمائیں گے۔ اور بقیہ
 لمحات زندگی، معلوم نہیں اس میں کن کن ہلاکت خیز گناہوں سے واسطہ پڑے گا۔ ابن المبارک بلاغاً
 ۸۰۹ مؤمن پانچ سخت حالات کے درمیان زندگی بسر کرتا ہے، مؤمن اس سے حسد رکھتا ہے۔ منافق اس سے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ کافر
 اس سے قتال کے درپے ہوتا ہے۔ خود اس کا نفس اس سے نزاع کرتا رہتا ہے۔ اور شیطان لعین اس کو گمراہ کرنے کے لئے گھات لگائے
 رہتا ہے۔ ابن لال عن ابان عن انس

۸۱۰ مؤمن کا گھر سر کنڈوں کا ہوتا ہے۔ کھانا سوکھے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ کپڑے پھنے پرانے اور بوسیدہ ہوتے ہیں۔ پراگندہ بال سر
 ہوتا ہے۔ لیکن اس کا دل خشوع سے بڑا اور خدا سے لو لگائے ہوتا ہے۔ اور کوئی چیز اس سے سلامتی کے بغیر صادر نہیں ہوتی۔

الدیلمی عن ابان عن انس

۸۱۱ مؤمن کی زبان پر ایک فرشتہ خداوندی ہوتا ہے، جو کلام کرتا ہے۔ اور کافر کی زبان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جو ہرزہ سرائی کرتا ہے۔ اور
 مؤمن اللہ کا حبیب ہے، اللہ اس کے کام بناتا ہے۔ الدیلمی عن ابان عن انس

۸۱۲ مؤمن عقل مند، ذہین محتاط، شہادت سے اجتناب کرنے والا، ثابت قدم، متین و باوقار، عالم اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ اور منافق نکتہ چینی،
 عیب گو، بے رحم، کسی شبہ سے اجتناب کرنے والا نہ حرام سے احتراز کرے والا، رات کو کلوٹریاں چننے والے کی مانند، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ
 کہاں سے کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ الدیلمی عن ابان عن انس

۸۱۳ مؤمن دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح ہے۔ جو دنیا کے معززین سے انس حاصل کرتا ہے نہ اس کے شر پسند لوگوں کی شکایت کرتا ہے۔ عوام
 الناس اس کے پاس اٹتے آتے ہیں، لیکن وہ اپنے حال میں مستغرق رہتا ہے۔ انسانیت اس سے امن میں ہوتی ہے، لیکن خود اس کا جسم اس کی
 طرف سے مشقت میں پڑا ہوتا ہے۔ ابو نعیم بروایت بھزین حکیم عن ابیہ عن جدہ

۸۱۴ مؤمن کو قرآن نے اس کی اکثر خواہشات سے باز رکھا ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت معاذ

گریہ وزاری کرنے والے

۸۱۵..... میری امت کے بہترین لوگ جن کی مجھے ملا اعلیٰ نے خبر دی، وہ لوگ ہیں جو ظاہر تو اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے ہنستے ہیں۔ لیکن درون دل اپنے رب کے عذاب کی وجہ سے گریہ وزاری کرتے ہیں۔ خدا کے پاکیزہ گھروں یعنی مساجد میں صبح وشام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اپنی زبانوں سے اللہ کو امید و بیم کی حالت میں پکارتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو پست و بلند کرتے ہوئے اس سے بھیک مانگتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو بار بار یاد کرتے ہیں۔ آہ! لوگوں پر ان کا بوجھ انتہائی خفیف ہے۔ لیکن اپنی ذات کو انہوں نے گراں بار کر رکھا ہے۔ چیونٹی کی مانند اللہ کی دھرتی پر عاجزی کے ساتھ ننگے قدم چلتے ہیں نہ مدح سرائی سے ان کو کوئی سروکار بمطابق منتخب! نہ اتراہٹ و بڑائی جتاتے ہیں وقار و سکینت کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں۔ خدا سے فریاد کے وقت وسیلہ کا سہارا بناتے ہیں۔ تلاوت قرآن ان کا مشغلہ ہے۔ راہ خدا میں قربانیوں سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔ موٹا جھوٹا جو میسر ہو خوشی سے زیب تن کر لیتے ہیں۔ آہ! ایسے ہی بندوں کے جلو میں خدا کے نگہبان فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کی عطا کردہ فراست سے بندگان خدا کے چہروں کو پڑھ لیتے ہیں۔ دنیا میں عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے جسم دنیا میں، تو قلوب آخرت میں مستغرق ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی فکر دامگیر نہیں ہوتی سوائے آگے کے۔ انہوں نے اپنی قبروں کا گوشہ تیار کر لیا ہے۔ اپنے راستے کا اجازت نامہ ساتھ لے لیا ہے۔ مقام محشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کر لی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی!

﴿ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعَبَدَ﴾

یہ اس لئے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے عذاب سے ڈرا۔ العلیہ، المستدرک للحاکم
لیکن اس پر علامہ بیہقی نے شعب الایمان میں کلام فرمایا ہے۔ اور ابن النجار نے عیاض بن سلیمان کے طریق سے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے فرمایا یہ حدیث عجیب اور منکر ہے۔ عیاض کے متعلق نہیں معلوم کہ وہ کون تھا؟
۸۱۶..... اے معاذ! مؤمن حق کے ہاتھوں اسیر ہوتا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کے کان، نگاہ، زبان، ہاتھ، پاؤں، شکم اور شرم گاہ پر بھی ایک نگہبان ہے۔ بے شک مؤمن کو قرآن نے اکثر خواہشات سے روک رکھا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے از خود اپنے اور اپنی مہلک خواہشات کے درمیان آڑ بن چکا ہے۔ یقیناً مؤمن کا دل اللہ کے عذاب کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتا۔ نہ اس کا ہجان سکون پاتا۔ نہ اس کی اضطرابی کیفیت کو تسکین ملتی ہے وہ اسی حالت میں حیران و پریشان رہتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ پل صراط سے پار ہو جائے۔ اس کو صبح وشام موت کا کھٹکا لگا رہتا ہے۔ پس تقویٰ اس کا ہم سفر ساھی ہے۔ قرآن اس کا رہنما ہے۔ خوف اس کا تازیانہ ہے۔ شوق اس کی سواری ہے۔ تدبیر و احتیاط اس کا ساھی ہے۔ اللہ سے ڈرنا اس کا شعار ہے۔ نماز اس کی پناہ گاہ ہے۔ روزہ اس کی ڈھال ہے۔ صدقہ اس کی جان کا نذرانہ ہے۔ سچائی اور راست بازی اس کی امیر و فرمانروا ہے۔ حیاء اس کا وزیر ہے۔ اور ان تمام باتوں کے پس پردہ اس کا پروردگار رکھتا لگائے ہوئے ہے۔

اے معاذ! قیامت کے روز مؤمن سے اس کی تمام گناہوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اس کے آنکھ میں سرمہ لگانے کے متعلق بھی استفسار کیا جائے گا۔ اے معاذ! میں تیرے لئے بھی وہی پسند کرتا ہوں، جو اپنے لئے پسند کرتا ہوں۔ اور تجھے بھی ان چیزوں سے باز رکھنا چاہتا ہوں، جن سے جبرئیل نے مجھے باز رکھا۔ پس میں تم کو قیامت کے روز ایسی صورت حال میں نہ پاؤں کہ جس کام کی تمہیں خدا کی طرف سے توفیق ملی ہے، اس میں تم سے کوئی زیادہ سعادت مند ہو۔ العلیہ، بروایت معاذ
۸۱۷..... اے خدا کے گھر! یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت با شرف اور با عظمت بنایا ہے۔ لیکن مؤمن تجھ سے حرمت میں بڑھا ہوا ہے۔

الأوسط للطبرانی رحمة اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۸۱۸ مرحباے خانہ خدا کس قدر تیری عظمت ہے اور کس قدر تیری حرمت ہے؟ لیکن مؤمن تجھ سے حرمت میں بڑھا ہوا ہے۔

شعب الایمان ابو داؤد بروایت ابن عباس

۸۱۹ اے کلمہ لا الہ الا اللہ تو کتنا پاکیزہ ہے اور تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے۔ لیکن مؤمن تجھ سے حرمت میں بڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے تجھے محترم بنایا اور مؤمن کے بھی مال، جان اور آبرو کو محترم قرار دیا ہے۔ نیز یہ کہ اس کے ساتھ کوئی بدگمانی رکھی جائے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔

الظہرانی فی الکبیر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۸۲۰ اے کعبہ! تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے؟ اور اے حجر اسود! تیرا کتنا عظیم حق ہے؟ لیکن اللہ کی قسم! تم دونوں سے مؤمن کا حق زیادہ ہے۔

الضعفاء للعقلی رحمة اللہ علیہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۲۱ مؤمن اللہ کے نزدیک مقرب ملائکہ سے زیادہ باعزت ہے۔ ابن النجار بروایت حکامة حدثنا عن اخیه مالک بن دینار عن انس

۸۲۲ مؤمن شہادت کے مواقع پر بظہر جاتا ہے۔ الدیلمی بروایت انس

۸۲۳ مؤمن اللہ کے اس نور کے ساتھ دیکھتا ہے، جس سے وہ پیدا کیا گیا۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

مومنین کی تین قسمیں

۸۲۴ مومنین دنیا میں تین قسموں کے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوئے، اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ راہِ خدا میں جہاد کیا۔ اور وہ لوگ جن سے انسان اپنے اموال و جان کے بارے میں مطمئن ہوں۔ پھر وہ شخص جس کے سامنے کوئی لالچ ظاہر ہو، مگر وہ اللہ عز و جل کی رضاء کے خاطر اس کو ترک کر دے۔ مسند احمد، الحکیم بروایت ابی سعید حدیث حسن ہے۔

۸۲۵ مؤمن کی ہر روز ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ تمام فی جزء من حدیثہ بروایت ابی سعید

۸۲۶ مؤمن کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اور اس کی خوشبو سارے آفاق میں مہکتی ہے۔ اور اس کی خوشبو اس کا عمل اور اس پر شکر ہے۔

ابونعیم بروایت انس

۸۲۷ مؤمن کی مثال ظاہر اُجڑے گھر کی ہے، لیکن اگر تم اس میں داخل ہو تو سنوڑ پاپاؤ۔ اور فاسق کی مثال رنگین اور اونچے مقبرے کی طرح ہے۔ دیکھنے والے کو دلکش لگے، مگر اس کا باطن بدبو سے پر ہے۔ ابونعیم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۲۸ مؤمن مؤمن ہو سکتا ہے اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ اس میں تین خصالتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ تحصیل علم، مصائب پر صبر، نرمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اور تین باتیں منافق ہی میں پائیں جاسکتی ہیں! جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وفاء نہ کرے، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو۔ ابونعیم بروایت علی رضی اللہ عنہ

۸۲۹ وہ شخص کامل الایمان مؤمن نہیں ہے، جو مصیبت کو نعمت نہ سمجھے۔ اور نرمی و آسانی کو مصیبت نہ سمجھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ: ہر مصیبت کے بعد نرمی و فریخی اور ہر نرمی و فریخی کے بعد بلاء و مصیبت تو آتی ہی ہے۔ فرمایا: کوئی مؤمن کامل الایمان نہیں ہوتا سوائے نماز کی حالت کے۔ کیونکہ اس وقت وہ مکمل بخیرگی و غم میں ہوتا ہے۔ عرض کیا وہ کیسے کیونکر؟ تو فرمایا اس لئے کہ بندہ نماز میں اللہ سے مناجات کرتا ہے اور غیر نماز میں ابن آدم سے گفتگو کرتا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمة اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ

۸۳۰ مؤمن ایک بوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاسکتا۔

مسند احمد، الصحیح للبخاری رحمة اللہ علیہ، الصحیح للامام مسلم رحمة اللہ علیہ، ابو داؤد، ابن ماجہ، بروایت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ الضعفاء للعقلی رحمة اللہ علیہ بروایت جابر ابو داؤد الطیالسی، ابن ماجہ، مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمة اللہ علیہ

علیہ الحکیم بروایت انس رضی اللہ عنہ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت کثیر بن عبد اللہ عن ابیہ عن جدہ
۸۳۱ مؤمن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ العسکری فی الامثال، ابن عساکر، الحلیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
اس سے ما قبل حدیث میں بھی ڈسے جانے کا ذکر تھا۔ ظاہر ا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، مگر ما قبل حدیث میں ڈنگ کے لئے لفظ لدغ استعمال
ہوا ہے، جو منہ سے ڈسنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس حدیث میں لدغ استعمال ہوا ہے، جو ڈنگ سے ڈسنے کے لئے استعمال
ہوتا ہے۔ نیز لدغ سانپ کے لئے اور لدغ چھو کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

۸۳۲ مؤمن ہر بات کا عادی ہو سکتا ہے، مگر جھوٹ اور خیانت کا عادی نہیں ہو سکتا۔ شعب الایمان، بروایت عبد اللہ بن ابی اوفی

۸۳۳ مؤمن تمام خصلتوں کا عادی ہو سکتا ہے، سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ مسند احمد بروایت ابی امامہ

۸۳۴ مؤمن کی طبیعت ہر کام پر مہر ہو سکتی ہے مگر جھوٹ اور خیانت۔

المدار قطنی فی الافراد ابو داؤد، السنن للسیہقی رحمۃ اللہ علیہ، ابن النجار بروایت سعد

۸۳۵ مؤمن ہر خصلت کا عادی ہو سکتا ہے، سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ مسند البزار بروایت سعد

حدیث حسن ہے۔

۸۳۶ مؤمن ہر خصلت کا عادی ہو سکتا ہے، سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۸۳۷ اے ابوامامہ! بعض مؤمنین کے لئے میرا دل نرم پڑ جاتا ہے۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، تمام بروایت ابی امامہ

۸۳۸ اللہ نے تہیہ فرمایا ہے کہ مؤمن کو ضرور ایسی جگہ سے رزق نوازیں گے، جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۳۹ مؤمنوں کی موت ان کی پیشانی پر رکھی رہتی ہے۔ البزار بروایت ابن مسعود

یعنی وہ موت کے لئے ہر گھڑی توشہ تیار رکھتے ہیں۔

۸۴۰ مؤمن کی روح دھیرے دھیرے نکلتی ہے۔ اور میں گدھے کی موت کی مانند مرنے کو پسند نہیں کرتا، جو اچانک موت ہوتی ہے۔ اور کافر کی

روح اس کی باجھوں سے نکلتی ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن مسعود

آپ ﷺ کی روح بھی سچ سج نکلتی تھی۔ اسی وجہ سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں! حضور کی جان کئی کے عالم کو دیکھنے کے بعد

اگر میں کسی کے متعلق سنتی ہوں کہ اس کی موت بھلا ہو، آگئی تو مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اس صورت حال میں انسان کوئی وصیت وغیرہ

کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔

۸۴۱ مؤمن خیر کی بات سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہو جائے۔

الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم، شعب الایمان، السنن لسعيد عن ابی اسيد

فصل..... منافقین کی صفات میں

۸۴۲ منافق کی تین علامات ہیں! جب بات کرنے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وفاء نہ کرے، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے

تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو۔ بخاری ومسلم، النسائی، ترمذی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۴۳ منافق کی علامات یہ ہیں! جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو اور

وعدہ کرے تو وفاء نہ کرے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی بکر

۸۴۴ ہمارے اور منافقوں کے درمیان امتیاز کرنے والی علامت! عشاء اور صبح کی نماز میں حاضر ہونا ہے، وہ ان دو نمازوں میں حاضر ہونے

کی طاقت نہیں رکھتے۔ السنن لسعيد بروایت سعيد بن المسيب مرسلًا
 ۸۴۵ زرد رنگ کے چہرے والوں سے اجتناب کرو، کیونکہ اگر یہ کسی بیماری یا بیداری کی وجہ سے نہیں ہے تو ضروریہ ان کے
 دلوں میں مسلمانوں سے حسد کی وجہ سے ہے۔ الفردوس للديلمي رحمة الله عليه بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 ۸۴۶ جب تم کسی شخص کا چہرہ زرد رنگ دیکھو، جس کی کوئی وجہ یا بیماری نہ ہو تو یہ اس کے دل میں اسلام کی طرف سے کھوٹ کی وجہ سے ہے۔
 ابن السنن ابو نعیم فی الطب بروایت انس

لیکن دہلی نے یہاں کچھ جگہ بیاض چھوڑی ہے۔

۸۴۷ جب بندہ کافق و فجور پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی آنکھوں کا مالک ہے جتنا چاہے گریہ وزاری کرے۔

ابوداؤد بروایت عقبہ بن عامر

۸۴۸ جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی، وہ خالص منافق ہوگا۔ اگر کوئی ایک خصلت ہوگی تو نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتیٰ کہ اس کو ترک
 کرے۔ جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وفاء نہ کرے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دہی کرے، اور لڑائی کے وقت گالی گلوچ اختیار کرے۔

مسند احمد، بخاری و مسلم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۸۴۹ جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی، وہ خالص منافق ہوگا۔ اگر کوئی ایک خصلت ہوگی تو نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتیٰ کہ اس
 کو ترک کرے۔ جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو، جب گفتگو کرے تو جھوٹ بولے، معاہدہ کرے تو دھوکہ دہی
 کرے، اور لڑائی کے وقت گالی گلوچ اختیار کرے۔ بخاری و مسلم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 ۸۵۰ مؤمن کا رونا اس کے دل سے ہوتا ہے۔ اور منافق کا رونا دماغ کی عیاری سے ہوتا ہے۔

الضعفاء للعقيلي رحمة الله عليه، الكبير للطبراني رحمة الله عليه، الحلیہ بروایت حدیفہ

۸۵۱ منافق میں تین خصلتیں ہوتی ہیں! جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وفاء نہ کرے، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی
 جائے تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو۔ مسند البزار بروایت جابر

۸۵۲ منافق اس بکری کی مانند ہے، جو دو ریوڑوں کے درمیان حیران پریشان چکر لگاتی ہے، اور معلوم نہیں ہو پاتا کہ وہ کس ریوڑ کے ساتھ ہے؟
 مسند احمد، النسائي، الصحيح للإمام مسلم رحمة الله عليه، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 ۸۵۳ جو شخص خشیہ خداوندی کا وہ درجہ لوگوں میں ظاہر کرے جو اس کو حاصل نہیں ہے تو وہ شخص منافق ہے۔

ابن النجار بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۸۵۴ منافق اپنی آنکھوں کا مالک ہے، روئے جتنا چاہے۔ الفردوس للديلمي رحمة الله عليه بروایت علی

۸۵۵ جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، خواہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج و عمرہ کرے۔ اور کہے کہ میں مسلم
 ہوں، وہ خصلتیں یہ ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وفاء نہ کرے، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس
 میں خیانت کا مرتکب ہو۔ رُستہ فی الایمان، ابو الشیخ فی التوہیح بروایت انس
 رُستہ! عبدالرحمن بن عمر ابی الحسن الزہری الاصبہانی کا لقب ہے۔

۸۵۶ میرے ساتھیوں میں بارہ اشخاص منافق ہیں، جن میں سے آٹھ تو قطعاً جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لایہ کہ اونٹ سوئی کے ناکہ
 میں داخل ہو۔ مسند احمد، الصحيح للإمام مسلم رحمة الله عليه، بروایت حدیفہ

۸۵۷ میری امت کے بارہ افراد منافق ہیں، وہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے۔ حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکہ میں داخل
 ہو۔ ان کیلئے یہی مصیبت کافی ہے، کہ جہنم کا ایک چراغ ان کی پشت پر ظاہر ہوگا اور ان کے سینوں سے طلوع ہوگا۔

الصحيح للإمام مسلم رحمة الله عليه، بروایت حدیفہ

۸۵۸ چھوڑو مجھے اے عمر! مجھے دونوں چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے! اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ۔ آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ اگر آپ ان کے لئے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں گے، تب بھی اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ ستر مرتبہ سے زائد استغفار کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی تو میں زیادہ بھی کر لیتا۔

ترمذی، النسائی، بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۸۵۹ میں فلاں اور فلاں شخص کے متعلق خیال نہیں کرتا کہ انہیں ہمارے دین کے بارے میں کچھ علم ہوگا۔

ترمذی، الضحیح للبخاری ورحمة اللہ علیہ بروایت عائشہ

۸۶۰ منافق کو اپنا سردار مت کہو، اگر تم نے منافق کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تو یقیناً تم نے خدا کو ناراض کر دیا۔

مسند احمد، ابوداؤد، النسائی، بروایت بریدہ

۸۶۱ جس شخص نے کسی منافق کو اے ہمارے سردار! کے ساتھ مخاطب کیا بے شک اس نے اپنے رب کو غضب دلایا۔

المستدرک للحاکم، شعب الایمان بروایت بریدہ

منافق کو صرف سردار کہہ کر پکارنا ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ کسی طرح بھی اس کی تعظیم جائز نہیں ہے۔

الاکمال

۸۶۲ منافقین کی بعض علامات ہیں جن کے ذریعہ وہ پہچانے جاتے ہیں، ان کا اسلام لعنت ہوتا ہے۔ طعام لوٹ کا ہوتا ہے۔ ان کی غنیمت مال غنیمت میں خیانت کرنا ہوتا ہے۔ مساجد سے دور ہی رہتے ہیں۔ نمازوں میں شریک نہیں ہوتے، مگر بالکل آخر میں۔ ناحق بڑائی کرتے ہیں۔ محبت والفت خود رکھتے ہیں نہ ان سے کوئی رکھتا ہے۔ رات کو سخت اور کھر درے ہو جاتے ہیں۔ دن کو شور و غوغا برپا کئے رکھتے ہیں۔

مسند احمد، ابن نصر، ابو الشیخ، ابن مردویہ، شعب الایمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۶۳ منافق میں تین خصلتیں ہوتی ہیں! جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وفاء نہ کرے، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو۔ الأوسط للطبرانی ورحمة اللہ علیہ، الخرائطی فی مکارم الاخلاق بروایت جابر

۸۶۴ جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں گی وہ منافق ہوگا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وفاء نہ کرے، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر دو صفات تو اس سے ختم ہو جائیں مگر صرف ایک باقی رہ جائے کیا تب بھی وعید ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا! اس میں نفاق کا ایک شعبہ باقی رہے گا جب تک کہ ایک صفت بھی باقی ہے۔

ابن النجار بروایت ابی ہریرہ

۸۶۵ جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، خواہ وہ روزے رکھے، نماز ادا کرے، حج و عمرہ کرے۔ اور کہے کہ میں مسلم ہوں، وہ خصلتیں یہ ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کو کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو، جب وعدہ کرے تو وفاء نہ کرے۔ ابن النجار بروایت انس الخرائطی فی مکارم الاخلاق بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۶۶ منافق کی علامات یہ ہیں: ۱۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ اور جب تو اس کے پاس امانت رکھوائے تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو۔ الأوسط للطبرانی ورحمة اللہ علیہ، بروایت ابی سعید

منافق کی خصلتیں یہ ہیں! جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ اور جب تو اس کے پاس امانت رکھوائے

تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کس طرح؟ فرمایا! جب وہ گفتگو شروع کرتا ہے تو اپنے دل میں خیال بٹھالیتا ہے کہ غلط بیانی سے کام لے گا۔ جب وعدہ کرتا ہے تو اسی وقت یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ اسکو دفعاً نہ کرے گا۔ جب امانت اس کو سونپی جاتی ہے تو بھی سے دل میں خیانت کرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت سلمان

۸۶۸ ہمارے اور منافقوں کے درمیان امتیاز کرنے والی علامت اغشاء اور صبح کی نماز میں حاضر ہونا ہے، وہ ان دونوں میں حاضر ہونے

کی طاقت نہیں رکھتے۔ الشافعی، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عبدالرحمن بن حرملة عن قتاده مرسلًا

۸۶۹ مؤمن، منافق اور کفر کی، مثال تین نفوس پر مشتمل ایک جماعت کی سی ہے، جو چلتے چلتے ایک نہر تک پہنچے۔ پہلے مؤمن نہر میں اترا اور عبور کر گیا۔ پھر منافق نہر میں اترا۔ حتیٰ کہ وہ جب مؤمن کے قریب پہنچے لگا تو کافر نے آواز دی! اوہ، میرے پاس آ جاؤ نہ مجھے تیری ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ مؤمن نے بھی اس کو آواز دی کہ میرے پاس یہ یہ چیزیں ہیں تجھے دوں گا ادھر آ جا، اب منافق حیران پریشان دونوں کو دیکھ رہا ہے مگر کوئی فیصلہ نہیں کر پارہا، وہ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک موج نے آ کر اس کو غرق کر دیا۔ تو یوں منافق شک و شبہ میں رہا حتیٰ کہ اس کو موت نے آدو چا۔ تو یہی مثال منافق کی ہے۔ ابن جریر بروایت قتاده مرسلًا

دوسرا باب..... کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کے بیان میں

۸۷۰ اے لوگو! میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے، کتاب اللہ

اور میرا خاندان یعنی اہل بیت۔ النسائی، بروایت حابر

۸۷۱ اے لوگو! میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے، کتاب اللہ

اور میرا خاندان یعنی اہل بیت۔ ترمذی، بروایت حابر

۸۷۲ میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ، یہ اللہ کی رسی آسمان اور زمین کے درمیان تک پہنچی ہوئی ہے۔ دوسرا میرا

خاندان یعنی اہل بیت، اور کتاب اللہ اور میرا خاندان باہم کبھی جدا نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت زید بن ثابت

۸۷۳ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے، ان میں سے ایک

دوسرے سے بڑھ کر ہے، وہ سے کتاب اللہ، یہ اللہ کی رسی آسمان اور زمین کے درمیان تک پہنچی ہوئی ہے۔ دوسرا میرا خاندان یعنی اہل بیت،

اور کتاب اللہ اور میرا خاندان باہم کبھی جدا نہ ہوگا۔ حتیٰ کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں۔ سو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کس

طرح پیش آتے ہو؟ ترمذی، بروایت زید بن ارقم

۸۷۴ میں تمہیں اللہ کے تقویٰ اور میر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ تم پر کسی جھشی غلام کو امیر مقرر

کر دیا جائے۔ یقیناً جو میرے بعد عرصہ تک حیات رہا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، سو تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت

تھامنا لازم ہے۔ ان کو مضبوطی سے تھام لو اور کچلی سے خوب حتیٰ کے ساتھ پکڑ لو۔ اور نئے پیدا شدہ امور سے ہمیشہ اجتناب کرو، بے شک ہر نئی

چیز بدعت ہے۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم بروایت العریاض بن ساریة

امام ترمذی روایت کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن الترمذی ج ۵ ص ۴۴

۸۷۵ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامنے کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور میری سنت اور ان دونوں

چیزوں کے درمیان کبھی افتراق و انتشار نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں۔

ابوبکر الشافعی فی الغیلابیات بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۷۶۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامنے کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور میری سنت اور یہ دونوں چیزیں باہم کبھی جدا نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں۔ المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

احادیث سے انکار خطرناک بات ہے

۸۷۷۔ خبردار! قریب ہے کہ کسی شخص کے پاس میری حدیث پہنچے، اور وہ مسہری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، اور کہے! ہمارے تمہارے درمیان کتاب اللہ کافی ہے، ہم اس میں جو حلال پائیں گے اسکو حلال قرار دیں گے، اور جو حرام پائیں گے اسکو حرام قرار دیں گے۔
تو لوگو! یاد رکھو یہ شخص غلط کہہ رہا ہے بلکہ جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دیا۔

ترمذی، عن المقدم بن معدیکرب

۸۷۸۔ مجھے معلوم نہ ہو کہ کسی شخص کے پاس میری حدیث پہنچے اور وہ مسہری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور کہے میں تو قرآن پڑھتا ہوں اور اس طرح وہ میری سنت سے اعراض کرے یاد رکھو! جو میری طرف سے اچھی بات کہی گئی ہے، اس کا قائل میں ہوں۔ لہذا وہ بھی قرآن کی طرح قابل عمل ہے۔

ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۷۹۔ میں تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ اس کے پاس میری باتوں میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے لیکن وہ کہے کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، بس ہم جو کتاب اللہ میں پائیں گے اسی کی اتباع کریں گے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم بروایت ابی رافع

۸۸۰۔ خبردار! گاہ رہو! مجھے کتاب دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ اسی کے مثل کچھ اور دیا گیا ہے۔ خبردار شاید کوئی پیٹ بھر مسہری پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اور یہ کہے! تم پر صرف اس قرآن کو تھامنا کافی ہے۔ جو اس میں حلال یا حرام سمجھو۔ اور جو حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ خبردار! تمہارے لئے ابلی گدھا حلال ہے، نہ کوئی ذی ناب درندہ حلال ہے۔ اور کسی معاہدہ میں شخص کا لفظ بھی حلال نہیں، لہذا یہ کہ اس کا مالک اس سے بے پرواہ ہو جائے۔ اور جو کسی قوم کے پاس پہنچے تو ان پر اس کی مہمان نوازی لازم ہے۔ اگر وہ اپنا یہ ذمہ نہ نبھائیں، تو اس کے لئے جائز ہے کہ ان سے اپنی مہمان نوازی کی خاطر زبردستی کچھ وصول کر لے۔ مسند احمد، ابو داؤد بروایت المقدم بن معدیکرب

۸۸۱۔ کیا تم میں سے کوئی اپنی مسہری پر ٹیک لگائے یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام نہیں فرمایا، سوائے اس کے جو اس قرآن میں ہے۔ سو آگاہ خبردار ہو! اللہ کی قسم! میں نے بھی بعض چیزوں کا حکم کیا ہے، اور نصیحت کی ہے، اور بعض چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ بھی قرآن کی طرح ہیں یا زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ، نہ ان کی عورتوں کو مارنا، نہ ان کے پھلوں کو کھانا، جبکہ وہ اپنے ذمہ کے فرض کو ادا کر چکے ہوں۔ ابو داؤد، بروایت العریاض

۸۸۲۔ قریب ہے کہ کوئی شخص اپنی مسہری پر بیٹھا ہو میری حدیث بیان کرتا ہو کہے! ہمارے تمہارے درمیان کتاب اللہ کافی ہے، ہم اس میں جو حلال پائیں گے اسکو حلال قرار دیں گے، اور جو حرام پائیں گے اسکو حرام قرار دیں گے۔
تو لوگو! یاد رکھو یہ شخص غلط کہہ رہا ہے بلکہ جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ نے حرام قرار دیا۔

مسند احمد، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم بروایت المقدم بن معدیکرب

۸۸۳۔ کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جائے جائے گا حلالا نکہ ابھی تو میں تمہارے درمیان ہوں؟

الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بروایت محمود بن لیب

۸۸۴۔ میری امت میں فساد برپا ہونے کے وقت جو میری سنت کو تھامے رکھے گا، اس کے لئے شہید کا اجر ہے۔

کک فی تاریخہ بروایت محمد بن عجلان عن ایہ

۸۸۵۔ جس بات کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اس کو لے لو۔ اور جس بات سے تم کو روکا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔

ابن ماجہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۸۶ جو شخص ایک بالشت بھی جماعت سے منحرف ہوا، یقیناً اس نے اسلام کی مالائینی ہار کو اپنی گردن سے نکال پھینکا۔

مسند احمد، ابوداؤد، المستدرک للحاکم بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم

۸۸۷ یقیناً عنقریب فتنہ برپا ہوگا۔ استفسار کیا گیا! تو اس سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا! کتاب اللہ، اس میں ماقبل کی خبریں ہیں تو مابعد کی پیشین گوئی بھی ہے، یہ تمہارے درمیان اختلافات کا حکم اور فیصلہ ہے، یہ فیصلہ کن قول ہے کوئی ہزل گوئی نہیں ہے۔ جس نے اس کو سرکشی کی وجہ سے ترک کیا، اللہ اس کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اور جس نے اس کے سوا کہیں اور ہدایت تلاش کی اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ دانائی کا تذکرہ ہے۔ سیدھی راہ ہے۔ خواہشات نفسانیہ اس میں کج روی پیدا نہیں کر سکتیں۔ علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ زبانیں اس کے ساتھ ملتبس نہیں ہوتیں۔ بار بار دھرانے سے پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے عجائبات کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہی کلام ہے جس سے جن بھی دور نہ رہ سکے، قرآن سنا تو بے ساختہ پکار اٹھے! ہم نے عجیب کلام سنا، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جس نے یہ کہا سچ کہا۔ جس نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا، عدل و انصاف کا فیصلہ کیا۔ جو اس پر عمل بجالایا اجر پا گیا۔ جس نے اس کی دعوت دی، اس کو سیدھی راہ کی رہنمائی مل گئی۔ ترمذی، بروایت علی رضی اللہ عنہ

۸۸۸ لوجو خبری سنو! یہ قرآن ہے، اس کا ایک سر اللہ عزوجل کے دست قدرت میں ہے تو دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ پس اس کو مضبوطی سے تھام لو، پھر تم ہرگز ہلاک نہ ہوؤ گے، اور نہ اس کے بعد کبھی گمراہ ہو گے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت جبیر

۸۸۹ میرے پاس جبریل تشریف لائے، اور کہا اے محمد! یقیناً آپ کے بعد امت آزمائش میں مبتلا ہوگی۔ میں نے ان سے کہا! تو اس سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی اے جبریل؟ کہا اللہ کی کتاب، اس میں ماقبل کی خبریں ہیں تو مابعد کی پیشین گوئی بھی ہے تمہارے درمیان اختلافات کا حکم اور فیصلہ ہے۔ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ سیدھی راہ ہے۔ فیصلہ کن قول ہے، کوئی ہزل گوئی نہیں ہے۔ جس کسی سرکشی نے اس کو ترک کیا، اللہ اس کو تباہ کر دیں گے۔ جس نے اس کے سوا علم تلاش کیا اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ بار بار دھرانے سے اس کا لطف کم نہیں ہوتا۔ اس کے عجائبات کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ جو اس کی بات کرتا ہے، سچ کہتا ہے۔ اور جو اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے، عین عدل و انصاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو اس پر کار بند ہوتا ہے، اجر پاتا ہے۔ اور جو اس کے ذریعہ تقسیم کرتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ مسند احمد، بروایت علی رضی اللہ عنہ

۸۹۰ جیسے تم جانتے ہو، پڑھتے رہو۔ اگلے لوگوں کو اسی بات نے برباد کیا کہ وہ اپنے انبیاء کے متعلق اختلاف کرنے لگے۔

ابن جریر فی تفسیرہ بروایت ابن مسعود

۸۹۱ یاد رکھو! تم سے پہلی اقوام اس وقت تک ہلاک نہ ہوئیں، حتیٰ کہ ان بحث و تہیج میں پڑ گئے۔ کلام الہی کا بعض حصہ بعض حصہ کے ساتھ ملا کر کہنے لگے، اس طرح جو حلال پاؤ، اس کو حلال سمجھو اور حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو، اور جو مشتبہ اس پر فقط ایمان لے آؤ۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمرو

۸۹۲ تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اسی عہد پر مجھ سے آئے، جس پر جدا ہوا تھا۔

المسند لابی یعلیٰ، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۸۹۳ بنی اسرائیل نے از خود ایک کتاب لکھی اور اسی کی اتباع کرنے لگے، اور توراہ کو پس پشت ڈال دیا۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت ابی موسیٰ

۸۹۴ باہم اختلاف میں مت پڑو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اسی چیز نے ان کو تباہ کر ڈالا۔

الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن مسعود

۸۹۵ آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف پڑ جائے گا۔ مسند احمد، ابو داؤد، النسائی بروایت البراء

۸۹۶ سنو امیری مثال، ایک شخص ہے، جس نے آگ کا الاؤ روشن کیا، جب آگ روشن ہوگئی تو آگ برمنڈلانے والے یہ پروانے اس کے گرد و پیش جھومنے لگے، اور آگ اس میں کرنے لگے۔ اب وہ آدمی ان کو پکڑ پکڑ کر پیچھے ڈال رہا ہے۔ لیکن وہ پروانے اس پر غالب آ رہے ہیں اور آگ میں گر رہے ہیں۔ تو یہی میری اور تمہاری مثال ہے۔ میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، کہ بچو اس آگ سے! لیکن تم ہو کہ مجھ پر بڑھ بڑھ کے اس میں گرے جا رہے ہو۔ مسند احمد، ترمذی، بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۸۹۷ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم مجھے عطا فرما کر بھیجا، اس کی مثال اس موملادھار بارش کی سی ہے، جو کسی زمین پر برسی۔ اب اس زمین کے ایک حصہ نے جو صاف ستھرا تھا اس پانی کو اپنے اندر جذب کیا۔ اور اس کے نتیجہ میں نباتات اگائے اور دوسری گھاس پھوس اگائی۔ اور زمین کا ایک دوسرا حصہ جو نشیبی اور سخت تھا اس نے بھی پانی کو اپنے اندر روک لیا، اللہ نے اس کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچایا اور انہوں نے اس سے پانی پیا اور جانوروں کو پلایا اور اپنی اپنی زمینوں کو بھی سیراب کیا۔ اس کے علاوہ زمین کا ایک اور حصہ تھا جو بالکل چٹیل تھا، پانی کو اپنے اندر روکتا تھا نہ نباتات اگاتا تھا۔

تو یہ مثال ہے اس شخص کی، جس کو اللہ نے دین کا علم عطا کیا اور جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اس کے ساتھ اس نے خوب نفع اٹھایا، خود بھی سیکھا اور اوروں کو بھی سکھایا۔ اور مثال ہے اس شخص کی، جس نے اس کی طرف توجہ کے لئے سرتک اوپر نہ اٹھایا۔ اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا، جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم، بروایت ابی موسیٰ

۸۹۸ اما بعد! اے لوگو! بلاشبہ میں بھی ایک انسان اور بشر ہوں۔ قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے، اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں۔ تو دیکھو! میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ جو ہدایت و نور کا سرچشمہ ہے۔ جس نے اس کو تھام لیا اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو یقیناً وہ ہدایت پر گامزن ہو چلا۔ اور جس نے اس کو بھلا دیا، گمراہ ہو گیا۔ سو اللہ کی کتاب کو تھام لو اور مضبوطی سے اس کو پکڑ لو۔ اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، ان کے بارے میں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کہ ان کا خیال رکھنا۔

مسند احمد، عبد بن حمید، الصحيح للامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت زید بن ارقم

دین اسلام پاکیزہ دین ہے

۸۹۹ تمام ادیان میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین تمام آلائشوں سے پاک اور صاف ستھرا دین دین محمدی ہے جو ملتِ ابراہیمی کا پرتو ہے۔

۹۰۰ مجھے سیدھا اور توحید والا دین دے کر بھیجا گیا ہے۔ اور جس نے میری سنت کی مخالفت کی اس کا مجھ سے واسطہ نہیں۔

خطیب بروایت جابر

۹۰۱ جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے، تو اس کو لے لو اور جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو اس کو بھی لے لو۔ اور جب تقدیر کا ذکر کیا جائے

اس کو بھی لے لو۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن مسعود و بروایت ثوبان ابو داؤد، بروایت عمر

۹۰۲ جب تم میری طرف سے کوئی حدیث سنو، جس سے تمہارے دل مانوس ہوں، اور تمہارے بال اور کھال اس سے نرم پڑ جائیں اور تم

محسوس کرو کہ وہ حدیث تمہارے اذہان سے قریب تر ہے، تو پس میں اس کے زیادہ لائق ہوں۔ یعنی واقعی وہ میرا کلام ہے

اور اگر ایسی کوئی حدیث سنو، جس سے تمہارے دل نامانوس ہوں، اور تمہارے بال اور کھال اس سے وحشت محسوس کریں، اور تم خیال کرو کہ

وہ حدیث تمہارے اذہان سے دور ہے تو میں بھی اس سے دور ہوں۔ یعنی وہ میرا کلام نہیں ہے۔

مسند احمد، المسند لابی یعلیٰ، بروایت ابی اسید یا ابی حمید

علم دین کو چھپانا گناہ ہے

۹۰۳ جب بدعتوں کا ہر طرف چرچا ہو جائے۔ اور اس امت کا آخری طبقہ اول طبقہ کو لعن طعن کرنے لگے، تو چاہئے کہ جس کے پاس علم ہو وہ

اس کو عام کرے۔ اگر اس نے اس روز علم کو چھپایا، تو گویا اس نے محمد پر نازل شدہ دین کو چھپایا۔ ابن عساکر، بروایت معاذ

۹۰۴ جب آخری زمانہ ہوگا اور ہوس و خواہشات خوب ہو جائیں گی، تو ایسے وقت تم پر لازم ہے کہ ذبیہات والوں اور عورتوں کا دین لے کر بیٹھ جاؤ۔

الصحيح لابن حبان في الضعفاء الفردوس للدليمي رحمة الله عليه بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۰۵ جب اس امت کا آخری طبقہ اول طبقہ کو لعن طعن کرنے لگے، تو اس وقت جس نے میری حدیث کو مخفی رکھا، اس نے اس دین کو مخفی رکھا جو

اللہ عزوجل نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ ابن ماجہ، بروایت جابر

۹۰۶ جب تک میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میری پیروی کرتے رہو۔ اور تم پر کتاب اللہ کا تھا منال لازم ہے، اس کے حلال کو حلال

جانو اور اس کے حرام کو حرام جانو۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت عوف بن مالک

۹۰۷ میری حدیث کو کتاب اللہ پر پیش کرو اگر موافق لگے تو سمجھ لو کہ وہ میری ہی حدیث ہے، اور میں ہی اس کا قائل ہوں۔

الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت جویان

۹۰۸ جان لے اے بلال! جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کیا، جو میرے بعد بھلائی جا چکی تھی، تو اس کو اس پر تمام عمل کرنے والوں

کا اجر ملے گا، بغیر ان کے اجر میں کمی کئے۔ اور جس نے کوئی بدعت جاری کی، جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی نہیں تھے تو اس کو اس پر عمل کرنے

والے تمام لوگوں کا گناہ ہوگا، بغیر ان کے گناہ میں کچھ بھی کمی کئے۔ ترمذی، بروایت عوف بن مالک

۹۰۹ میری امت کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ سو جب تم اختلاف کو دیکھو تو تم پر سواوا اعظم یعنی بڑی جماعت کی اتباع لازم ہے۔

ابن ماجہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۹۱۰ سنت تو دو ہی ہیں، نبی کی یا امام عادل کی۔ الفردوس للدليمي رحمة الله عليه، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۹۱۱ صاحب سنت اگر اچھا عمل کرے تو اس سے قبول کیا جائے گا۔ اور اگر کچھ خلط ملط ہو جائے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

التاریخ للخطیب رحمة الله عليه فی المؤلف بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۱۲ تم سے پہلے لوگ کتاب میں اختلاف کرنے کے باعث ہلاک ہو گئے۔ اس لیے لامل امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۱۳ یقیناً آج تم ایک دین کے حامل ہو۔ اور میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امم پر فخر کروں گا۔ پس تم میرے بعد اٹنے پاؤں واپس نہ

پھر جانا۔ مسند احمد، بروایت جابر

۹۱۴ میری اور اس چیز کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجی ہے، ایک شخص کی مانند ہے۔ جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا! اے قوم میں نے

اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے۔ اور میں کھلم کھلا تم کو اس سے ڈرانے والا ہوں۔ سو نجات کی راہ پکڑو، نجات کی راہ پکڑو۔ پس ان میں سے

ایک قوم نے اس کی اطاعت کی اور رات کے آخری پہر ہی کوچ کر گئے، اور اطمینان و سکون کے ساتھ نجات پا گئے۔

اور دوسری قوم نے اس کی تکذیب کی۔ اور اپنے اپنے مقام پر جمے رہے، آخر کار صبح صبح دشمن کے لشکر نے ان کو آلیا، اور ان کو تباہ

ویرباد کر کے رکھ دیا، اور ان کی بیخ کنی کر ڈالی۔ سو یہ مثال ہے اس جماعت کی، جس نے میری اتباع کی اور میرے لائے ہوئے دین کی

اتباع کی۔ اور اس جماعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے دین حق کی تکذیب کی۔

بخاری و مسلم، بروایت ابی موسیٰ

۹۱۵ یہ امت ایک عرصہ تک کتاب اللہ پر عمل پیرا رہے گی۔ پھر ایک عرصہ سنت رسول اللہ پر عمل پیرا رہے گی۔ پھر اپنی رائے پر عمل شروع

کردے گی، سو جب وہ اپنی رائے کو قابل عمل ٹھہرائے گی، تو یہی وقت ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوگی، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی۔

المسند لابی یعلیٰ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۹۱۶ میں نے تم کو چھوڑ دیا تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کثرت سے سوال کرنا اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ پس جب میں تم کو کوئی حکم کروں تو اس کو اپنی وسعت کے بقدر، بجلاؤ۔ اور جب کسی چیز سے تم کو منع کروں تو باز آ جاؤ۔ مسند احمد، الصحيح للإمام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، النسائی، ابن ماجہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۹۱۷ میں نے اپنے پروردگار سے اپنے بعد اپنے اصحاب کے درمیان واقع ہونے والے اختلاف کے بارے میں سوال کیا تھا: تو مجھ پر وحی کی گئی کہ اے محمد! تیرے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ بعض بعض سے زیادہ روشن ہیں۔ سو جس نے ان کے اختلافی پہلو سے بھی کچھ لیا وہ بھی میرے نزدیک ہدایت پر گامزن ہے۔ السجزی فی الابانہ وابن عساکر بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۹۱۸ مسلسل بنی اسرائیل کا معاملہ اعتدال پذیر رہا۔ حتیٰ کہ ان میں حرام کاری کی وجہ سے بچے پیدا ہونے لگے۔ اور دیگر مفتوح اقوام کی باندیوں سے پیدا ہونے والے بچوں کی کثرت ہوئی، تو تب بنی اسرائیل اپنی رائے پر فیصلے کرنے لگے اور خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کر ڈالا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

حیدرآباد، سندھ، پاکستان سبیل اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے

۹۱۹ میرے بعد بری بری خصلتیں جنم لیں گی۔ پس جس کو تم دیکھو کہ جماعت سے جدا ہو رہا ہے، یا امت محمدیہ کی اجتماعیت کو پارہ پارہ کرنا چاہتا ہے، تو خواہ وہ کوئی شخص ہو اس کو قتل کر ڈالو۔ بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اور جماعت سے جدا ہونے والے کوشیطان ایڑھارتا ہے۔ النسائی، الصحيح لابن حبان، بروایت عرفیہ

۹۲۰ تم میرے پاس سے پیچ ہو کر جا رہے ہو، مگر افسوس کل روز قیامت کو منتشر ہو کر آؤ گے۔ اور اسی تفرقہ بازی نے تم سے پہلی اقوام کو تباہ کیا۔

مسند احمد، بروایت سعد

صراط مستقیم کی مثال

۹۲۱ اللہ نے سیدھی راہ کی مثال بیان فرمائی ہے، کہ اس راہ کے جانبین میں دو دیواریں ہیں۔ دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور عین اس سیدھی راہ کے سرے پر ایک منادی ہے جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے! اے انسانو! سب سیدھے رستے پر چلے آؤ، اور ادھر ادھر دروازوں میں نہ مڑو۔ اور اس راہ کے اوپر کی طرف بھی ایک منادی پکار رہا ہے، اور جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ منادی پکاراٹھتا ہے! تف ہو تجھ پر اس دروازے کو مت کھول اگر کھولے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ پس یہ راہ اسلام کی سیدھی راہ ہے۔ اور اس کے جانبین کی دیواریں حدود اللہ ہیں۔ کھلے ہوئے دروازے اللہ کے محارم ہیں۔ اور راہ کے سرے پر کھڑا منادی، کتاب اللہ ہے۔ اور راہ کے اوپر کھڑا منادی واعظ اللہ، یعنی ہر سلیم الطبع انسان کا ضمیر ہے۔

ہم، المستدرک للحاکم بروایت نواس

۹۲۲ میں تمہیں ایک روشن ملت پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ جس کی رات بھی دن کے مانند روشن و چمکدار ہے۔ اس ملت سے میرے بعد کوئی منحرف نہ ہوگا، مگر وہی جس کے مقدر میں ہلاکت ہے۔ جو تم میں سے میرے بعد حیات رہا، وہ بہت سے اختلافات کو رونما دیکھے گا۔ پس تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم ہے، جس کو تم جانتے ہو۔ اپنی کچھلی کے ساتھ مضبوطی سے اس کو تھام لینا۔ اور تم پر ہر حال میں امام کی اتباع لازم ہے، خواہ تم پر کسی جنبی غلام کو ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے۔ کیونکہ مؤمن تو تکمیل پڑے ہوئے اونٹ کی مانند ہے، اس

کو جہاں ہانکا جائے، خاموشی سے چل دیتا ہے۔ مسند احمد، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم بروایت عرباض
 ۹۲۳۔ کتاب اللہ، اللہ کی رسی ہے۔ جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر بروایت ابی سعید
 ۹۲۴۔ ہر ایسی شرط جو کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے۔ خواہ سو شرط کیوں نہ ہوں؟

البزار، الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۹۲۵۔ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی؟ جب دین میں تم چودھویں رات کے چاند کی مانند ہو گے؟ جس چاند کو بس آنکھوں سے دیکھنا ہی
 دیکھ پائے گا۔ ابن عساکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۹۲۶۔ تمہاری کیا شان ہوگی جب دین میں تم کو چاند کی مانند دیکھا جائے گا۔ ابن عساکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۹۲۷۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں اور تم ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ۔ اور مجھے چھوڑ دو، تو یقیناً تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبیوں میں سے
 میں تمہارے لئے منتخب کیا گیا۔ اور اقوام میں سے تم میرے لئے منتخب کئے گئے۔ شعب الایمان بروایت عبد اللہ بن الحارث

فرقہ ناجیہ کی پہچان

۹۲۸۔ ضرور میری امت پر بھی وہی حالات پیش آئیں گے، جو بنی اسرائیل پر پیش آئے، جس طرح کہ ایک جو تادوسرے جوتے کی ہو بہو نقل
 ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان کے کسی فرد نے علانیہ اپنی ماں کے ساتھ بد فعلی کی تھی، تو میری امت کا بھی کوئی فرد اس کا مرتکب ہوگا۔ اور بنی اسرائیل
 بہتر گروہوں میں بٹ گئے تھے تو میری امت بہتر گروہوں میں بٹ جائے گی۔ اور سوائے ایک کے سب گروہ جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام
 رضوان اللہ علیہم نے پوچھا وہ ایک کون سا گروہ ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا! وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریق پر پیرا عمل ہوگا۔

بخاری و مسلم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۲۹۔ جس کسی امت نے اپنے پیغمبر کے بعد باہم نزاع و اختلاف کیا، اس کے اہل باطل اہل حق پر غالب آ گئے۔

الأوسط للطبرانی رحمة اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۳۰۔ جس نے کتاب اللہ کی اتباع کی، سو اللہ نے اس کو ہدایت سے نوازا دیا اور قیامت کے روز نخت حساب سے پچالیا۔

الأوسط للطبرانی رحمة اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۹۳۱۔ جس نے اللہ کے سلطان کی عزت و توقیر کی، قیامت کے روز اللہ اس کی عزت و توقیر فرمائیں گے۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت ابی بکرہ

۹۳۲۔ جس نے دھرتی پر اللہ کے سلطان کی اہانت کی، اللہ اس کی اہانت فرمائیں گے۔ ترمذی بروایت ابی بکرہ

۹۳۳۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس کو جنت میں میرا ساتھ نصیب ہوگا۔

السنجری بروایت انس

۹۳۴۔ جس نے میری سنت کو لیا وہ مجھ سے ہے۔ اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔

ابن عساکر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۳۵۔ جس نے سنت کو تھام لیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ الدارقطنی فی الافراد بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۹۳۶۔ میری امت میں فساد برپا ہونے کے وقت جو میری سنت کو تھامے رکھے گا، اس کے لئے شہید کا اجر ہے۔

الأوسط للطبرانی رحمة اللہ علیہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۹۳۷ میری سنت کو تھامنے والا جبکہ میری امت نزاع و اختلاف کا شکار ہوگی، ایسا ہے جیسا کہ انکارے کو تھامنے والا۔

الحکیم بروایت ابن مسعود

۹۳۸ اے لوگو! میرے ساتھ کسی چیز کو مت جوڑو، جو میں نے حلال کیا وہ درحقیقت اللہ نے حلال کیا اور جو میں نے حرام کیا وہ درحقیقت اللہ نے حرام کیا۔ ابن سعد عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۹۳۹ میری محبت کسی قلب میں جاگزیں نہیں ہوئی، مگر اللہ نے اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیا۔ الحلیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۴۰ خوشخبری سنو! کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہ اللہ کا قرآن ہے، اس کا ایک سر اللہ عزوجل کے دست قدرت میں ہے تو دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ پس اس کو مضبوطی سے تھام لو، پھر تم ہرگز گمراہ ہو گے نہ ہلاک ہو گے۔

ابن ابی شیبہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الصحیح لابن حبان، بروایت شریح الخزاعی

۹۴۱ بے شک شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے۔ لیکن اس کے سوا جن اعمال کا تمہیں بھی خطرہ ہے

ان میں وہ اپنی اطاعت کئے جانے پر راضی ہو گیا ہے۔ سوانہائی محتاط رہو۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز کبھی گمراہی میں نہ پڑو گے، وہ اللہ کی کتاب، اور تمہارے نبی کی سنت ہے۔ بے شک ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ تمام مسلمان باہم بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لئے اپنے بھائی کا مال حلال نہیں ہے، بلایہ کہ وہ خود اپنی رضا و رغبت سے دوسرے کو کچھ دیدے۔ اور ظلم و ستم نہ ڈھاؤ۔ اور میرے بعد کافر ہو کر نہ پھر جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ المستدرک للحاکم، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۹۴۲ میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اللہ کی رسی ہے۔ جو اس کے پیچھے چلا ہدایت پر گامزن ہوا۔ اور جس نے اس کو ترک کیا گمراہی کے راستے پر جا پڑا۔ ابن ابی شیبہ، الصحیح لابن حبان، بروایت زید بن ارقم

۹۴۳ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز کبھی گمراہی میں نہ پڑو گے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا ایک سر اللہ عزوجل کے دست قدرت میں ہے تو دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ دوسرا میرا خاندان یعنی اہل بیت، اور کتاب اللہ اور میرا خاندان باہم کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں۔ الباوردی بروایت ابی سعید

۹۴۴ قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آجائے، اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں۔ تو دیکھو! میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ جو اللہ کی رسی ہے۔ آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرا میرا خاندان یعنی اہل بیت۔ سو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان کے کیسا سلوک کرتے ہو۔ ابن ابی شیبہ، ابن سعد، مسند احمد، المسند لابی یعلیٰ بروایت ابی سعید

۹۴۵ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز کبھی گمراہی میں نہ پڑو گے، وہ اللہ کی کتاب، اور میرا خاندان یعنی اہل بیت۔ اور یہ دونوں باہم کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں۔

عبد بن حمید، ابن الانباری بروایت زید بن ثابت

حوض کوثر کی صفت

۹۴۶ میں تمہارے لئے آگے جانے والا ہوں، اور تم میرے پاس حوض پر آؤ گے۔ جس کی چوڑائی صنعا سے بصری تک ہوگی۔ اس

میں ستاروں کی طرح لاتعداد سونے چاندی کے آنجورے ہوں گے۔ بس خیال رکھنا کہ میرے بعد تمہارا ان دونوں عظیم چیزوں کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ پوچھا گیا وہ دو عظیم چیزیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا! بڑی تو کتاب اللہ ہے، جس کا ایک سر اللہ عزوجل کے دست قدرت میں ہے تو دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز کبھی لغزش میں مبتلا ہو گے، نہ کبھی گمراہی میں پڑو گے۔ اور اس سے چھوٹی چیز

میرا خاندان یعنی اہل بیت۔ اور یہ دونوں باہم کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں۔ اور اس چیز کا میں نے ان کے

لئے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا۔ اور تم ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کبھی مت سوچنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور نہ ان کو کچھ سکھانے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ علم ہیں۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ

۹۴۷ میں تم میں دو خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ جو اللہ کی رسی ہے۔ آسمان وزمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرا میرا خاندان یعنی اہل بیت۔ اور یہ یہ دونوں باہم کبھی جدا نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ،

السنن لسعد بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت زید بن ارقم ۹۵۱ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز کبھی گمراہی میں نہ پڑو گے، وہ اللہ کی کتاب، اور میرا خاندان

یعنی اہل بیت۔ ابن ابی شیبہ، الخطیب فی المتفق والمفترق بروایت جابر رضی اللہ عنہ ۹۵۲ گویا میرا بلاوا آ گیا ہے۔ اور میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ جو اللہ کی رسی

ہے۔ آسمان وزمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرا میرا خاندان یعنی اہل بیت۔ اور یہ یہ دونوں باہم کبھی جدا نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں۔ پس خیال رکھنا کہ میرے بعد تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا رویہ رہے؟

المسند لابن یعلیٰ، الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن سعید

۹۵۳ گویا میرا بلاوا آ گیا ہے۔ اور میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کامرتبہ دوسرے سے بڑھا ہوا ہے۔ کتاب اللہ اور میرا گھرانہ اہل بیت۔ پس خیال رکھنا کہ میرے بعد تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا رویہ رہے۔ اور یہ دونوں

باہم کبھی جدا نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں۔ اللہ میرا مولیٰ ہے اور میں ہر مومن کا ولی ہوں۔ اور جس کا میں مولیٰ علی بھی اس کے مولیٰ۔ اے اللہ جو ان سے محبت رکھے آپ بھی اس سے محبت رکھے۔ اور جو ان سے دشمنی رکھے آپ بھی اس سے دشمنی رکھے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، بروایت ابن الطفیل عن زید بن ارقم

۹۵۴ اے لوگو! میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز کبھی گمراہی میں نہ پڑو گے، وہ اللہ کی کتاب، اور اس کے نبی کی سنت ہے۔ بخاری ومسلم، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۹۵۵ اللہ کی کتاب، اور میری سنت دونوں باہم کبھی جدا نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ دونوں حوض پر میرے پاس آئیں۔

ابونصر السجزی فی الامانہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بہت ضعیف ہے۔

۹۵۶ کتاب اللہ، اللہ کی رسی ہے جو آسمان وزمین کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر بروایت ابن سعید ۹۵۷ قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے، اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں۔ تو تمہارا میرے متعلق کیا خیال

ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا! آپ مکمل طور پر ہمارے ساتھ خیر خواہی فرما چکے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور یہ کہ جنت حق ہے۔ جہنم حق ہے۔ دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے۔ صحابہ کرام

رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا ہم ضرور اس کی شہادت دیتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا! اور میں بھی تمہارے ساتھ شہادت دیتا ہوں۔ توجہ سے میری بات سنو! میں تمہارے لئے آگے جانے والا ہوں، اور تم میرے پاس حوض پر آؤ گے۔ جس کی چوڑائی صنعا سے بھری تک

ہوگی۔ اس میں ستاروں کی طرح لاتعداد سونے چاندی کے آنسو خورے ہوں گے۔ پس خیال رکھنا کہ میرے بعد تمہارا ان دونوں عظیم چیزوں کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ پوچھا گیا وہ دو عظیم چیزیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا! بڑی تو کتاب اللہ ہے، جس کا ایک نر اللہ عزوجل کے دست

قدرت میں ہے تو دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز کبھی لغزش میں مبتلا ہو گے، نہ کبھی گمراہی میں پڑو گے۔ دوسرا میرا خاندان۔ اور مجھے لطیف و خیر ذات نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کبھی باہم جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ یہ حوض پر میرے پاس آ جائیں۔ اور اس

چیز کا میں نے ان کے لئے اپنے پروردگار سے سوال کیا تھا۔ سو تم ان دونوں سے آگے بڑھنے کی کبھی مت سوچنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ ان کی

متعلق کوتاہی کرنا۔ نہ ان کو کچھ سکھانے کی کوشش کرنا، کیونکہ وہ تم سے زیادہ علم ہیں۔ اور میں ہر مؤمن کا ولی ہوں۔ اور جس کا میں مولیٰ علی بھی اس کے مولیٰ ہیں۔ اے اللہ جو ان سے محبت رکھے آپ بھی اس سے دشمنی رکھے۔ اور جو ان سے دشمنی رکھے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی الطفیل بروایت زید بن ارقم ۹۵۸ اے لوگو! مجھے لطیف و خبیر ذات نے خبر دی ہے کہ کسی نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی نصف عمر جتنی زندگی سے زیادہ زندگی نہیں پائی۔ سو قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آجائے، اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں۔ اور مجھ سے بھی سوال ہوگا اور تم سے بھی سوال ہوگا۔ تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا! کیا تم شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اور یہ کہ جنت حق ہے۔ جہنم حق ہے۔ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قبروں کے مردوں کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ اے انسانو! اللہ میرا مولا ہے۔ اور میں مؤمنین کا مولیٰ ہوں، ان کے نفوس سے زیادہ ان پر ولایت رکھتا ہوں پس جس کا میں مولیٰ ہوں علی بھی اس کے مولیٰ ہیں۔ اے اللہ جو انہیں دوست رکھے آپ بھی ان کو دوست رکھے۔ اور جو ان سے دشمنی رکھے آپ بھی ان سے دشمنی رکھے۔ میں تمہارے لئے آگے جانے والا ہوں، اور تم میرے پاس حوض پر آؤ گے۔ جس کی چوڑائی صنعاء سے بصری تک ہوگی۔ اس میں ستاروں کی طرح لاتعداد سونے چاندی کے آنخوڑے ہوں گے۔ اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تم سے ان دو عظیم چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ کہ ان کے بارے میں تمہارا کیا رویہ رہا؟ ان میں سے بڑی اللہ کی کتاب ہے، جس کا ایک سر اللہ عزوجل کے دست قدرت میں ہے تو دوسرا تمہارے ہاتھ میں۔ اس کو مضبوطی سے تھام لو تو ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور دوسرا میرا خاندان اہل بیت ہے۔ اور مجھے لطیف و خبیر ذات نے خبر دی ہے کہ یہ دونوں کبھی ختم نہ ہوں گے، حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر آئیں۔

الحکیم الطبرانی فی الکبیر بروایت ابی الطفیل عن حذیفہ بن اسید ۹۵۹ اے لوگو! کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے مگر انہوں نے اپنے سے پہلے نبی کی نصف عمر جتنی زندگی پائی۔ سو قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آجائے، اور میں اس کی دعوت پر لبیک کہہ دوں میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ تم اس کے بعد ہرگز کبھی گمراہی میں نہ ہو گے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت زید بن ارقم

۹۶۰ جب تک میں تمہارے درمیان ہوں، میری اطاعت کرتے رہو اور جب گزر کر جاؤں تو کتاب اللہ کو لازمی طور پر تھام لینا۔ اس کے حلال کو حلال، اور حرام کو حرام قرار دینے رہنا۔ عنقریب قرآن پر ایک زمانہ آئے گا، کہ وہ ایک رات میں مصاحف اور قلوب سے نکل جائے گا۔

الفردوس للذہبی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاذ رضی اللہ عنہ ۹۶۱ میں محمد امی پیغمبر ہوں۔ میں محمد امی پیغمبر ہوں۔ میں محمد امی پیغمبر ہوں۔ میرے بعد کوئی پیغمبر نہ آئے گا۔ مجھے ابتدائی کلمات، اختتامی کلمات اور جامع کلمات دیئے گئے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ جہنم کے کتنے داروغے ہیں، اور حاملین عرش کی کیا تعداد ہے۔ اور میرے رب اپنے لیے اور اپنی امت کے لئے عافیت کا طلبگار ہوں سو جب تک میں تمہارے درمیان ہوں، مجھ سے سن سن کر اطاعت کرتے رہو۔ جب مجھے اٹھایا جائے تو کتاب اللہ کو لازم پکڑ لو۔ اس کے حلال کو حلال سمجھو اور حرام کو حرام۔ مسند احمد، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۶۲ سب سے افضل بات کتاب اللہ کی ہے۔ اور سب سے اچھا طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور سب سے بدتر امر دین میں نئی پیدا کردہ باتیں ہیں۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جس نے مال چھوڑا وہ اس کے اہل و عیال کے لئے ہے۔ اور جس نے قرض یا بے آسرا مال وغیرہ چھوڑے اس کا بوجھ میرے ذمہ ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۹۶۳ سب سے سچی بات کتاب اللہ کی ہے، سب سے عمدہ طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور سب سے بدترین امر دین میں نئی پیدا کردہ باتیں ہیں۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ مسند احمد، بروایت ابن مسعود

۹۶۴ کتاب اللہ پر عمل کرتے رہو، جو بات مشتبه ہو جائے اسکو اہل علم سے دریافت کر لو وہ تمہیں خبر دیں گے۔ اور توراہ اور انجیل پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اس فرقان پر بھی ایمان لاؤ، اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ یہ شفاعت کنندہ اور مقبول الشفاعت بھی ہے۔ اور ایسا مزاج ہے جس کی مزاجت

تسلیم کی جاتی ہے۔ المستدرک للحاکم، بروایت معقل بن یسار

۹۶۵ قرآن پر عمل پیرا رہو۔ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے رہو۔ اس کی اقتداء کو لازم پکڑ لو۔ اس کی کسی بات کا انکار ہرگز کبھی نہ کرنا۔ جو بات مشتبہ ہو جائے، اس کو میرے کوچ کر جانے کے بعد اللہ عزوجل اور اہل علم پر پیش کرو، وہ تمہیں خبر دیں گے۔ توراہ اخیل زبور، اور جو کچھ دیگر انبیاء کو دیا گیا ہے ان سب پر ایمان لاؤ۔ لیکن قرآن اور جو کچھ اس میں ہے، وہ تمہیں کافی ہے۔ یہ شفاعت کنندہ اور مقبول الشفاعۃ بھی ہے۔ اور ایسا مزام ہے جس کی مزاحمت تسلیم کی جاتی ہے۔ آگاہ رہو، ہر آیت کا قیامت کے دن اپنا نور ہوگا، اور مجھے اول ذکر سے سورہ بقرہ دی گئی ہے۔ موسیٰ کی تختیوں سے طہ اور طواسین عطا کی گئی ہیں۔ تحت العرش خزائن سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی اختتامی آیات دی گئی ہیں۔ اور مفصل کی سورتیں بطور نفل عطا کی گئی ہیں۔

محمد بن نصر، الطبرانی فی الکبیر، المستدرک للحاکم، بخاری و مسلم، ابن عساکر بروایت معقل بن یسار

۹۶۶ تم پر قرآن تھا منال لازم ہے، کیونکہ وہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی سے اس کا صدور ہوا ہے۔ اس کی تشابہ آیات پر ایمان لاؤ۔ اور اس کی امثال سے عبرت پکڑو۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت جابر

اور اس میں ایک راوی کدی بی ہیں جن کے الفاظ یہ ہیں! کیا تم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا تم اسی لئے پیدا کئے گئے ہو کہ کتاب اللہ کے حصوں کو ایک دوسرے پر لے کر آپس میں بحث کرو؟ دیکھو میں جس بات کا حکم کروں اسے بجالاؤ۔ جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ۔

نصر المقدسی فی الحجہ بروایت ابن عمرو

۹۶۷ کیا اسی بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے؟ کیا تم سے یہی مطلوب تھا؟ تم سے پہلے جو لوگ ہلاکت میں پڑے، انہوں نے بھی اسی طرح کتاب اللہ کے حصوں کو ایک دوسرے پر لے کر آپس میں بحث کرنا شروع کر دیا تھا۔ پس جس بات کا اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، اس پر کار بند ہو جاؤ۔ اور جس بات سے منع کیا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔ الدارقطنی فی الافراد، الألقاب للشیرازی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے ایک قوم کو دیکھا کہ باہم تقدیر کے مسئلہ میں الجھے ہوئے ہیں، تو آپ ﷺ نے مذکورہ ارشاد فرمایا۔

۹۶۸ کیا اسی کا تم کو حکم دیا گیا ہے؟ کیا یہی چیز دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے؟ پہلے کے لوگ بھی اسی وجہ سے قعر ہلاکت میں پڑے جب انہوں نے ایسے مسائل میں جھگڑنا شروع کر دیا۔ سو میں تم کو انتہائی سختی سے تاکید کرتا ہوں کہ تم ان مسائل میں مت الجھو۔

ترمذی، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث حسن ہے۔ ترمذی

۹۶۹ کیا اسی بات کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں؟ کیا اسی بات کا تم کو حکم ملا ہے؟ خبردار! میرے بعد کافر بن کر اٹھے پاؤں نہ پھر جانا کہ ایک دوسرے کا سر قلم کرنے لگو۔ مسند البزار، ابن الضریس، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سعید مثله

۹۷۰ تم سے پہلے لوگوں کے ہلاک ہونے کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے اسی طرح کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض حصوں کے ساتھ معارضہ پیش کر کے بحث و تجویس کا دروازہ کھول لیا تھا۔ حالانکہ کتاب اللہ اس طرح نازل ہوئی ہے کہ یہ آپس کے ایک دوسرے حصوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اس کا کوئی حصہ کسی حصہ کی تردید یا تکذیب ہرگز نہیں کرتا۔ پس اس کے متعلق جس بات کا تم کو حکم ہو اس کو زبان پر لا سکتے ہو اور اگر علم نہیں ہے تو اس کو عالم کے سپرد کرو۔ شعب الایمان، بروایت ابن عمرو

۹۷۱..... پہلے لوگوں کو محض ان کے اختلاف نے تباہی تک پہنچایا۔ الصحیح لابن حبان، المستدرک للحاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۹۷۲..... میں نے تم کو چھوڑ دیا تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ پس جب میں تم کو کوئی حکم کروں تو اس کو اپنی وسعت کے بقدر بجالاؤ۔ اور جب کسی چیز سے تم کو منع کروں تو وسعت کے مطابق اس سے باز آ جاؤ۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۹۷۳ میں نے تم کو چھوڑ دیا تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کثرت سے سوال کرنا اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ پس جب میں تم کو کوئی حکم کروں تو اس کو اپنی وسعت کے بقدر بجالاؤ۔ اور جب کسی چیز سے تم کو منع کروں تو باز آ جاؤ۔ الاوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت المغیرہ

عمل سے بچنے کے لئے سوالات نقصان دہ ہیں

۹۷۴ میں نے تم کو چھوڑ دیا تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے کثرت سے اپنے انبیاء سے سوال کرنا اور ان سے اختلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ پس جب تم کو کوئی حکم دیا جائے تو اس کو اپنی وسعت کے بقدر بجالاؤ۔ اور جب کسی چیز سے منع کیا جائے تو اس سے باز آ جاؤ۔ اور جس بات کے متعلق میں تمہیں بتاؤں کہ وہ من جانب اللہ ہے تو اس میں کسی شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں۔

الصحيح لابن حنن بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۹۷۵ اگر میں تم پر اشیاء کو یوں حرام قرار دینے لگ جاؤں تو تم شدت اور سختی کی وجہ سے بھسم ہو کر رہ جاؤ۔ کیونکہ اشیاء کو حرام قرار دینے کی پہاڑ بھی طاقت نہیں رکھتے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت سمرة

۹۷۶ عنقریب میری امت کے بعض لوگ آئیں گے، جو قرآن میں بعض مواضع سے دوسرے بعض مواضع پر اشکال کریں گے۔ تاکہ اس کو باطل قرار دے سکیں، اور اس کی تشابہ آیات میں غور و خوض کریں گے۔ اور وہ اس زعم باطل میں گرفتار ہوں گے کہ وہی اپنے رب کے دین میں سیدھی راہ پر گامزن ہیں۔ ہر دین میں مجوسی چلے آئے ہیں، اور میری امت کے مجوسی یہی لوگ ہیں، جو جہنم کے کتے ہیں۔

ابن عساکر بروایت المحتوی بن عبید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۹۷۷ تمہیں کیا ہوا کہ کتاب خداوندی کی آیات کو دوسری آیات پر تضاد میں پیش کرتے ہو؟ جبکہ اسی وجہ سے اگلی اقوام ہلاک ہوئیں۔

مسند احمد، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۷۸ ذرا ظہر و اے قوم! تم سے پہلی اقوام اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، کہ وہ اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے لگیں۔ اور کلام خداوندی کی آیات میں معارضہ پیش کرنے لگیں۔ بے شک قرآن یوں نازل نہیں ہوا کہ اس کی آیات آپس میں معارضہ ہوں، بلکہ اس کی آیات تو آپس میں ایک دوسرے مضمون کی تصدیق کرتی ہیں۔ سو جس کا تم کو علم ہو اس پر عمل، بجالاؤ، اور جس سے ناواقف ہو اس کو کسی عالم پر پیش کر دو۔

۹۷۹ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو! جو تشابہ آیات کی تحقیق و جستجو میں سرگرداں ہیں تو جان لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے تشخیص فرمائی ہے۔ پس ان سے اجتناب کرو۔ مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، الصحيح للإمام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد، النسائی،

ابن ماجہ، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۹۸۰ اللہ عزوجل نے بعض فرائض مقرر فرمائے ہیں، ان کو پس پشت نہ ڈال بیٹھو، اور بعض حدود بھی مقرر فرمائی ہیں ان سے کبھی تجاوز نہ کرو، اور بعض اشیاء کو حرام قرار دیا ہے سو ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، اور بہت سی اشیاء سے بغیر کسی بھول اور نسیان کے محض تم پر نظر رحمت کرتے ہوئے سکوت فرمایا ہے، سو ان کے متعلق کھو کر دید میں نہ پڑو۔ الطبرانی فی الکبیر، الحلبيہ، بخاری و مسلم بروایت ابی ثعلبہ الحنسی

۹۸۱ اللہ عزوجل نے بعض فرائض مقرر فرمائے ہیں، ان کو پس پشت نہ ڈال بیٹھو، اور بعض حدود بھی مقرر فرمائی ہیں ان سے کبھی تجاوز نہ کرو، اور بعض اشیاء کو حرام قرار دیا ہے سو ان کے قریب بھی نہ پھٹکنا، اور بہت سی اشیاء سے بغیر کسی بھول اور نسیان کے محض تم پر نظر رحمت کرتے ہوئے سکوت فرمایا ہے، سو ان کی خاطر مشقت میں نہ پڑو، بلکہ ان کو قبول کر لو۔ الاوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۹۸۲ کیا تم میں سے کوئی اپنی مسہری پر ٹیک لگائے یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حرام کردہ اشیاء کے سوا کچھ بھی حرام نہیں فرمایا؟ حالانکہ میں نے بھی بعض اشیاء کا حکم دیا ہے اور نصیحت کی ہے، اور کئی اشیاء سے منع کیا ہے۔ اور وہ بھی قرآن کی طرح ہیں یا اس سے

بھی مرتبہ میں بڑھ کر آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے حلال نہیں فرمایا کہ تم کسی اہل کتاب کے گھر اس کی اجازت کے بغیر داخل ہوؤ۔ نہ ان کی عورتوں کو مارنا، نہ ان کے پھلوں کو کھانا حلال فرمایا، جبکہ وہ اپنے ذمہ کے فرض کو ادا کر چکے ہوں۔

ابوداؤد، بخاری و مسلم، بروایت العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ

۹۸۳ قریب ہے کہ تمہارا کوئی فرد مسہری پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میری کوئی حدیث پہنچے تو وہ اس کی تکذیب کرے اور کہے کہ یہ رسول اللہ کا کہا، ترک کر دو۔ صرف قرآن کے فرمان کو لو۔

ابونصر السجزی فی الابانہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ۔ ابونصر بروایت ابی سعید

حدیث غریب ہے۔

۹۸۴ معاہدین کے اموال بغیر حق کے تمہارے لئے حلال نہیں۔ بعض لوگ آئیں گے اور کہیں گے! ہم جو کتاب اللہ میں حلال پائیں گے اس کو حلال قرار دیں گے اور جو اس میں حرام پائیں گے اس کو حرام قرار دیں گے۔ سو آگاہ رہو! میں معاہدین ذمیوں کے اموال کو اور ہر ذی ناب درندہ اور جن چوپایوں سے بیگاری جاتی ہے، ان کو حرام قرار دیتا ہوں ماسوا ان کے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت المقدم

۹۸۵ میں تمہارے کسی شخص کو یوں نہ پاؤں کہ اس کے پاس میری حدیث پہنچے اور وہ تکبیر پر سہارا لئے ہوئے ہو اور کہے مجھے اس کے بجائے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ پس آگاہ رہو! میری طرف سے جو بھلی بات تم کو پہنچے خواہ وہ میں نے کہی ہو یا نہ کہی ہو، اسے میرا ہی قول سمجھو۔ اور جو شر بات میری طرف سے تم کو پہنچے تو یاد رکھو کہ میں کبھی کوئی شرکی بات نہیں کیا کرتا۔ مسند احمد، بروایت ابی ہزیرہ رضی اللہ عنہ

۹۸۶ غنقریب تمہارا کوئی فرد یوں کہے گا! یہ کتاب اللہ ہے جو اس میں حلال ہے ہم اس کو حلال قرار دیتے ہیں اور جو اس میں حرام ہے ہم اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ خبردار! جس کو میری حدیث پہنچے اور وہ اس کی تکذیب کر دے تو گویا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور اس حدیث کے مبلغ کی بھی تکذیب کر دی۔ ابونصر السجزی فی الابانہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۹۸۷ اللہ کی قسم! لوگ میری طرف کسی چیز کو منسوب نہ کریں میں کسی چیز کو حلال کرتا اور نہ حرام، مگر جو اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں حرام فرمادیا۔

الشافعی، ابن سعد بخاری و مسلم بروایت عقبہ بن عمیر اللیثی مرسل

۹۸۸ لوگ مجھ پر کسی چیز کو نہ ڈالیں، میں کسی چیز کو حلال نہیں کرتا مگر جو اللہ نے حلال فرمایا اور کسی چیز کو حرام نہیں کرتا مگر جو اللہ نے حرام فرمایا۔

الشافعی، ابن سعد بخاری و مسلم بروایت عقبہ

۹۸۹ مجھ پر کسی چیز کا بار نہ ڈالو میں کسی چیز کو حلال نہیں کرتا مگر جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور کسی چیز کو حرام نہیں کرتا مگر جو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۹۹۰ لوگ میری طرف کسی چیز کو منسوب نہ کریں میں ان کے لئے کسی چیز کو حلال کرتا اور نہ حرام، مگر جو اللہ نے حرام فرمادیا۔

الشافعی، بخاری و مسلم فی المعرفة بروایت طاؤس

یہ حدیث مرسل ہے۔

۹۹۱ اے انسانو! اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اور اس میں حلال کو حلال فرمایا اور حرام کو حرام۔ سو جو اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کی زبان سے حلال فرمایا وہ تا قیامت حلال رہے گا، اور جو اپنی کتاب میں اپنے پیغمبر کی زبان سے حرام فرمایا وہ تا قیامت حرام رہے گا۔

ابونصر السجزی فی الابانہ بروایت انس بن عمیر اللیثی

یہ حدیث مرسل اور ضعیف ہے۔

حدیث رسول کا کتاب اللہ سے موازنہ

۹۹۲ آگاہ رہو! اسلام کی چمکی اپنے دائرہ میں رواں ہے، آپ ﷺ سے دریافت کیا گیا پھر ہمیں کیا کرنا چاہئے یا رسول اللہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا! میری حدیث کا کتاب اللہ سے تقابل کرو، سو جو موافق پاؤ تو جان لو کہ وہ حدیث مجھ سے صادر ہوئی ہے اور میں ہی اس کا قائل ہوں۔

الطبرانی فی الکبیر، سمویہ بروایت ثوبان

۹۹۳... یہود سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے جواب میں مبالغہ کیا اور کمی بیشی کی حتیٰ کہ کفر کے مرتکب ہو گئے۔ اور عنقریب میری احادیث کی کثرت سے ترویج ہو جائے گی، پس تمہارے پاس جو میری حدیث پہنچے تو کتاب اللہ پڑھو اور حدیث کو کتاب اللہ پر قیاس کرو سوا گرو موافق پاؤ تو جان لو کہ میں ہی اس حدیث کا قائل ہوں اور اگر وہ حدیث کتاب اللہ کے ناموافق پاؤ تو سمجھ لو کہ میں اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۹۹۴... عنقریب بہت سے راویان حدیث میری طرف سے احادیث روایت کریں گے، سو تم ان احادیث کو کتاب اللہ پر پیش کرنا اگر وہ کتاب اللہ سے مطابقت رکھتی ہوں تو ان کو لے لینا، ورنہ ترک کر دینا۔ ابن عساکر بروایت علی رضی اللہ عنہ

۹۹۵... تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ قریب زمانہ میں تمہارا سابقہ ایسی قوم سے پڑے گا، جو میری احادیث سے بہت محبت رکھتی ہوگی۔ تو جس شخص نے میری طرف سے ایسی بات نقل کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور جو شخص کچھ احادیث وغیرہ یاد کرے تو وہ اس کو آگے بیان کر دے۔

ابن الضریس بروایت عقبہ بن عامر، مسند احمد، المستدرک للحاکم، بروایت ابی موسیٰ الغافقی

۹۹۶... کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ عنقریب تمہارا سابقہ ایسی قوم سے پڑے گا، جو میری احادیث کو بہت چاہیں گے، سو جس کی سمجھ میں بات آ جائے وہ اس کو بیان کر دے اور جس نے مجھ پر افتراء بازی کی وہ اپنا ٹھکانہ اور گھر جہنم میں بنا لے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت مالک بن عبد اللہ الغافقی

۹۹۷ آگاہ رہو! عنقریب فتنہ رونما ہوگا۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ اس سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا! کتاب اللہ، اس میں تم سے ما قبل اور ما بعد کی خبریں ہیں۔ اور تمہارے درمیان وقوع پذیر اختلاف کا فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کن قول ہے، نہ کہ باوہ گوئی۔ جس نے اس کو سرکشی کی وجہ سے ترک کیا، اللہ اس کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اور جس نے اس کے سوا کہیں اور ہدایت تلاش کی اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ یہ اللہ کی مضبوطی ہے۔ دانائی کا تذکرہ ہے۔ سیدھی راہ ہے۔ خواہشات نفسانیہ اس میں کج روی پیدا نہیں کر سکتیں۔ زبانیں اس میں ملتہس نہیں ہو سکتیں۔ علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ بار بار دھرانے سے پرانا نہیں ہوتا۔ اس کے عجائبات کا خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ وہی کلام ہے جس سے جن بھی باز نہ رہ سکے، قرآن سنا تو بے ساختہ پکارا ٹھے! ہم نے بہت ہی عجیب کلام سنا، جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سو ہم اس پر ایمان لائے۔ جس کا بھی یہ کلام ہے سچا کلام ہے۔ جس نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا، عدل و انصاف کا فیصلہ کیا۔ جو اس پر عمل بجالایا اجرا کیا۔ جس نے اس کی دعوت دی، اسے سیدھی راہ کی رہنمائی مل گئی۔ ترمذی، بروایت علی رضی اللہ عنہ

یہ حدیث ضعیف ہے۔

۹۹۸... لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، جس میں معیشت معصیت کے سوا باقی نہ رہ سکے گی... حتیٰ کہ آدمی جھوٹ اور قسم بازی سے بھی دریغ نہ کرے گا۔ سو جب ایسا زمانہ سر پر منڈا آئے تو راہ فرار اختیار کرو۔ دریافت کیا گیا کس طرف راہ فرار اختیار کریں یا رسول اللہ! فرمایا: اللہ اور اس کی

کتاب مقدس اور اس کے پیغمبر کی سنت کی طرف راہ پکڑو۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۹۹۹... کیا حال ہوگا ایسی قوم کا، جو عیاش و مالدار لوگوں کو حسرت زدہ نگاہوں سے تکتے ہیں؟ اور عبادت گزار بندگانِ خدا کو حقارت کی نظر سے

دیکھتے ہیں؟ اور اپنی ہوس و خواہشات کے موافق قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور خواہشات کے مخالف احکام کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، یوں وہ قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہیں تو بعض حصوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور جو عمل، رزق، عمر وغیرہ ایسے اعمال ان کے مقدر میں بغیر سعی و محنت کے لکھ دیئے گئے ہیں، محض ان پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جو عظیم اجر، اور نہ ختم ہونے والی تجارت، سعی و محنت پر موقوف ہے اس سے کتراتے ہیں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مندہ فی غرائب شعبہ، الحلیہ، شعبہ الايمان، الخطیب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو موضوع احادیث میں شمار کیا ہے۔

۱۰۰۰۔ جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی اللہ عز و جل اسے قدر ضلالت سے نکال کر نور ہدایت سے نوازیں گے۔ اور روز قیامت حساب کتاب کی شدت سے مامون فرمائیں گے۔ اور یہ اس لئے کہ فرمان باری ہے ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هَذَا يَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ سو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، وہ گمراہ ہوگا اور نہ بد بخت۔ الاوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۰۰۱۔ اے حذیفہ! تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم کتاب اللہ کو تمام لو، اس کو دیکھو، اور اس کے فرمودات پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

شعب الايمان، بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ

صحابہ کی پیروی راہ نجات ہے

۱۰۰۲۔ خبردار تم کو اللہ کی کتاب مل چکی ہے، اب اس پر عمل کرنا لازم ہو گیا ہے۔ کسی کو اس کے ترک کرنے کا کوئی عذر نہیں۔ سواگر کوئی بات کتاب اللہ میں نظر نہ آئے تو میری سنت جاریہ کو پکڑو۔ اور اگر اس کے متعلق میری سنت نہ پاؤ تو پھر میرے اصحاب کے قول کو لازم پکڑ لو۔ بے شک میرے اصحاب آسمان کے تاروں کی مانند ہیں، کسی کی راہ بھی تھا ملو ہدایت یاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے اصحاب کا اختلاف تمہارے لئے باعث رحمت ہے۔ بخاری و مسلم فی المدخل، ابونصر السجزی فی الابانہ، الخطیب، ابن عساکر، الدیلمی بروایت سلیمان بن ابی کریمہ عن جویبر عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہما

سلیمان اور جو یہ دونوں راوی حدیث ضعیف ہیں۔ اور ابونصر السجزی نے بھی اس حدیث کو غریب فرمایا ہے۔

۱۰۰۳۔ یہ کسی تمہاری لکھی ہوئی تحریرات میرے پاس پہنچتی ہیں۔ کیا کتاب اللہ کی موجودگی میں کسی اور کتاب کے لکھنے کی گنجائش ہے؟ قریب ہے کہ اللہ اپنی کتاب کی وجہ سے غضبناک ہو جائے۔ عنقریب رات کے وقت اس پر نظر ثانی فرمائیں گے تو کسی کسی ورق پر یا کسی دل پر کوئی نقش باقی نہیں چھوڑیں گے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائیں گے اس کے دل میں ”لا الہ الا اللہ“ کو باقی رکھیں گے۔

طبرانی فی الاوسط بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۰۰۴۔ اے لوگو! یہ کون سی ہے جس کو تم لکھ رہے ہو؟ کیا کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے اور کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی وجہ سے غضبناک ہو اور کسی کا غد میں یا کسی ہاتھ میں کوئی چیز نہ چھوڑے، سب کو ملیا میٹ کر دے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! اس زمانہ میں مومن مرد اور عورت کا کیا حال ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرمائے گا تو اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کو باقی رکھے گا۔

ابن عساکر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۰۰۵۔ مجھ سے قرآن کے سوانہ لکھو۔ سو جس نے قرآن کے سوا لکھا ہو وہ ان کو محو کر دے۔ اور بنی اسرائیل سے مروی روایات کو روایت

کر لیا کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ مسند البزار۔ بروایت ابی ہریرہ

۱۰۰۶۔ اہل کتاب سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تم سے صدق بیانی سے کام لیں گے تو تب بھی تم ان کو جھٹلاؤ گے۔ یا وہ تم سے غلط بیانی کریں گے تو شاید تم ان کو سچا جان لو۔ لہذا تم پر قرآن کو تھا ملازم ہے۔ کیونکہ اس میں تم سے اگلے لوگوں کی خبریں ہیں اور تم سے بعد والوں کی بھی خبریں ہیں، اور تمہارے باہمی جھگڑوں کے فیصلے ہیں۔ ابن عساکر بروایت ابن مسعود

ہوا۔ سو جان لو! سردار تو اللہ ہے۔ محمد داعی ہے۔ جس نے محمد کی دعوت پر لبیک کہا جنت میں داخل ہو گیا اور وہاں کی مرغوبات سے تناول کیا۔ اور جس نے محمد کی دعوت کو قبول نہ کیا وہ جنت میں داخل ہو سکا نہ وہاں کی نعمتوں سے متمتع ہو سکا۔

التاریخ للحاکم، الدیلمی بروایت عبدالرحمن بن سمرہ

۱۰۱۸ میں بیداری و خواب کی حالت کے درمیان تھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے ایک دوسرے سے مخاطب ہوا کہ اس کی کوئی مثال بیان کرو۔ تو دوسرے نے جواب دیا: ایک سردار نے گھر بنایا، اور دعوت کا اہتمام کیا۔ پھر کسی منادی کو بھیجا کہ لوگوں کو بلا لائے۔ سو سردار اللہ ہے، گھر جنت ہے، دعوت اسلام ہے اور داعی محمد ﷺ ہیں۔ الامثال للرامهرمزی، بروایت جویبر عن الضحاک وغیرہ

۱۰۱۹ مجھے کہا گیا: آپ کی آنکھ سوتی رہے، دل جاگتا رہے اور کان سنتے رہیں۔ پس میری آنکھ سو گئی، میرا دل جاگتا رہا اور میرے کان سنتے رہے۔ پھر کہا گیا: ایک سردار نے گھر بنایا پھر دسترخوان کا اہتمام کیا اور ایک پیغام رساں کو بھیجا، سو جس نے داعی کی پکار پر لبیک کہا گھر میں داخل ہو گیا اور وہاں کے دسترخوان سے کھایا اور جس نے داعی کے بلاؤں کا لحاظ نہ کیا وہ گھر میں داخل ہو سکا اور نہ وہاں کی دعوت کھا سکا۔ اور سردار بھی اس پر ناراض ہوا۔ پس اللہ سردار ہے۔ اسلام گھر ہے۔ جنت دسترخوان ہے۔ داعی محمد ﷺ ہیں۔

ابن جریر بروایت ابی قلابہ، مرسلاً الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، عن ابی قلابہ عن عطیہ عن ربیعہ الجرشی

۱۰۲۰ مجھے کہا گیا! اے محمد آپ کی آنکھ سوتی رہے۔ آپ کے کان سنتے رہیں۔ لیکن دل آپ کا بیدار رہے۔ پس میری آنکھ سو گئی۔ میرا دل بیدار رہا۔ اور میرے کان سنتے رہے۔ ابن سعد بروایت ابی بکر بن عبد اللہ بن ابی مریم، مرسلاً

۱۰۲۱ ایک سردار نے گھر بنایا اور دعوت کا اہتمام کیا پھر ایک قاصد کو بھیجا۔ سو سردار تو جبار عزوجل کی ذات ہے۔ دعوت قرآن ہے۔ گھر جنت ہے۔ قاصد میں ہوں۔ اور قرآن میں میرا نام محمد ہے۔ انجیل میں احمد ہے۔ توراہ میں احمد ہے۔ اور احمد میرا نام اس وجہ سے ہے کہ میں اپنی امت کو جہنم سے چھٹکارا دلاؤں گا۔ پس تم عرب کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت رکھو۔

ابن عدی، ابن عساکر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

اس میں ایک راوی اسحاق بن بشر متروک ہے۔ لہذا حدیث ضعیف ہے۔

اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا

۱۰۲۲ اے لوگو! کیا تمہیں علم ہے کہ میری اور تمہاری کیا مثال ہے؟ سو میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے، جسے کسی آنے والے دشمن کا خوف ہو۔ جسکی وجہ سے انہوں نے ایک آدمی کو دشمن کی خبر لانے کے لئے بھیجا۔ ابھی قوم اسی پریشان کن حالت میں تھی کہ اس قاصد نے دشمن کو دیکھ لیا اور اپنی قوم کو ڈرانے کے لئے متوجہ ہوا، لیکن قاصد کو یہ خطرہ دامن گیر ہوا کہ کہیں اس کے اطلاع دینے سے قبل ہی دشمن میری قوم پر حملہ نہ کر بیٹھے، اس خطرہ کے پیش نظر قاصد نے دور ہی سے کپڑے کو زور زور سے بلانا اور چلانا شروع کر دیا! اے لوگو! تم گھیر لئے گئے۔ اے لوگو! تم گھیر لئے گئے۔ اے لوگو! تم گھیر لئے گئے۔ مسند احمد، الرویانی، السنن لسعید، بروایت عبد اللہ بن یزید

۱۰۲۳ میں تمہیں تین باتوں کا حکم کرتا ہوں۔ اور تین باتوں سے منع کرتا ہوں۔ ایک تو حکم کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہ کہ فرماں بردار کا دامن عین مضبوطی سے تھامے رہو۔ حتیٰ کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے فیصلہ کن امر آئے اور تم اسی حالت پر کار بند بنو۔ اور تیسری بات یہ کہ ان صاحب اقتدار حاکموں سے خیر خواہی رکھو جو تمہیں اللہ کے اوامر کا حکم دیں۔ اور تمہیں لا تعین بحث و مباحثہ، کثرت سوال، اور اضاعتہ مال سے منع کرتا ہوں۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت عمر بن مالک الانصاری

۱۰۲۴ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے تین باتوں میں راضی ہو اور تین باتوں میں ناراض ہو۔ تمہارے لئے راضی ہوا کہ تم اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کوئی ساجھی قرار نہ دو، اور یہ کہ سب مل کر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اور اللہ نے جن بندوں کو تم

پر ولایت عطا کی ہے۔ ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ اور تمہارے لئے ناپسند کیا، بحث و تحقیق کو، کثرت سوال کو، مال کے ضائع کرنے کو۔

الیعوی بروایت ابن جعدیہ

۱۰۲۵۔ دو کی جماعت تہا شخص سے، تین کی دو سے، چار کی تین سے بہتر ہے۔ پس جماعت کو تھامے رہو، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ میری تمام امت کو ہدایت کے سوا کسی بات پر جمع نہیں فرماتے۔ اور یاد رکھو! حق سے دور ہر شخص جہنم میں گرنے والا ہے۔

ابن عساکر عن البحتری ابن عبید عن ابیہ عن ابی ہریرۃ

۱۰۲۶۔ شیطان انسان کے لئے بھیڑیا ہے، جس طرح بیڑیا ادھر ادھر بد کی ہوئی تہا بکری کو دبوچ لیتا ہے، شیطان بھی جماعت سے برگشتہ شخص کو یونہی اپنے جال میں پھانس لیتا ہے۔ لہذا اکثر یوں میں بٹنے سے کلی اجتناب کرو۔ اور جماعت اور عامۃ الناس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اللہ کے گھر مسجد کو لازم پکڑ لو۔ المصنف لعبد الرزاق، مسند احمد، بروایت معاذ

۱۰۲۷۔ جس طرح بھیڑیا بکری کا دشمن ہے، اسی طرح شیطان انسان کے لئے بھیڑیا ہے۔ اور اپنے ریوڑ سے جدا ہونے والی، بھٹکی ہوئی بکری کو بھیڑیا پکڑ لیتا ہے۔ پس تم بھی جماعت کو اور اس سے الفت رکھنے کو، عام الناس کو اور مساجد کو لازم پکڑ لو۔ اور گروہوں میں منتشر ہو جانے سے بچو۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، السجری فی الابانہ بروایت معاذ

۱۰۲۸۔ اے لوگو! جماعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور فرقہ بازی سے اجتناب کرو۔ مسند احمد، بروایت رحیل

۱۰۲۹۔ میری امت گمراہی پر ہرگز کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ سو تم لوگ اجتماعیت قائم کئے رکھو۔ اور بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۰۳۰۔ پروردگار عزوجل میری امت کا مسئلہ کبھی گمراہی پر جمع نہ فرمائیں گے۔ پس سواد عظیم بڑی جماعت کی اتباع کرو۔ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے۔ جو تہا ہوا تہا ہی، جہنم کی نذر کیا جائے گا۔

الحکیم ابن جریر، المستدرک للحاکم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما المستدرک للحاکم ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۰۳۱۔ اللہ کا دست نصرت جماعت پر ہے۔ اور جماعت سے کٹ جانے والوں کو شیطان ایڑا مارتا رہتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عرفجہ

مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا

۱۰۳۲۔ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اور جب کوئی شخص جماعت سے کٹ جاتا ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے، جس طرح بھیڑیا ریوڑ سے بھاگی ہوئی بکری کو اچک لیتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قانع، الدار قطنی، فی الافراد، المعرفة لابی نعیم بروایت اسامہ بن شریک

۱۰۳۳۔ جس کو خواہش ہو کہ وسط جنت میں گھر بنائے اس کو لازم ہے کہ جماعت کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ اور بے شک شیطان تہا شخص کے ہمراہ ہوتا ہے، اور دو سے دور بھاگتا ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۰۳۴۔ جس نے جماعت کے ساتھ وابستگی رکھتے ہوئے کوئی نیک عمل کیا، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے اور کوئی لغزش بھی صادر ہوئی تو اس کو درگزر فرمادیں گے۔ اور جو تفرقہ بازی کا خواہشمند ہوا، پھر کوئی نیک عمل انجام دیا، اللہ اس کو قبول نہ فرمائیں گے۔ اور اگر وہ کسی غلطی کا مرتکب

ہوا، تب تو اس کو چاہئے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ منتخب کر لے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۰۳۵۔ جو شخص جماعت سے باشت بھر بھی نکلا، اس نے اسلام کا قلاوہ اپنی گردن سے نکال دیا۔ حتیٰ کہ وہ واپس جماعت میں آجائے۔ اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس پر کوئی امیر جماعت نہ تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ المستدرک للحاکم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۰۳۶۔ جس نے عصائے اسلام کو توڑ ڈالا، جبکہ تمام مسلمان باہم مجتمع تھے، تو بلاشبہ اس نے اسلام کی مالا اپنی گردن سے اتار پھینکی۔

الامثال للرامهر مزی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المتفق والمفترق للخطیب بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
۱۰۳۷۔ جو بالشت بھر بھی مسلمانوں سے علیحدہ ہوا، یقیناً اس نے اسلام کا طوق اپنی گردن سے نکال پھینکا۔ اور جس کی موت اس حال میں آئی

کہ اس پر امام کا ہاتھ نہ تھا تو بے شک اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اور جو کسی اندھے گمراہی کے جھنڈے تلے عصیت کی دعوت دیتا ہو یا عصیت کی نصرت کرتا ہو امر اتو بے شک جاہلیت کی موت مرا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۰۳۸۔ جو مسلمانوں کی جماعت سے بالشت بھر جدا ہوا، اس نے اسلام کا طوق اپنی گردن سے نکال دیا۔ اور اپنے جھنڈے کو جدا کرنے والا قیامت کے روز ان جھنڈوں کو اپنے پاس پشت نصب کئے ہوں گے۔ اور جو شخص اس حال میں مرا کہ امام جماعت کی سرپرستی میں نہ تھا تو وہ بلاشبہ

جاہلیت کی موت مرا۔ المستدرک للحاکم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۰۳۹۔ جو مسلمان جماعت سے ایک بالشت بھی کٹ گیا، جہنم میں داخل ہو گیا۔ المستدرک للحاکم، بروایت معاویہ رضی اللہ عنہ

۱۰۴۰۔ جس شخص نے امت سے علیحدگی اختیار کی، یا ہجرت کے بعد اعرابیت اختیار کرتے ہوئے جاہلیت میں آ گیا، تو اب اس کے پانچ حالت کے لئے کوئی حجت نہ رہی۔ المستدرک للحاکم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۰۴۱۔ جو جماعت سے جدا ہوا اور امارت اسلامی کی اہانت کی، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقعت نہ ہو گیا اور انتہائی پست مرتبہ ہوگا۔ مسند احمد، المستدرک للحاکم، حذیفہ رضی اللہ عنہ

۱۰۴۲۔ جو آدمی بالشت برابر جماعت سے منحرف ہوا وہ یقیناً اسلام ہی کو چھوڑ بیٹھا۔ النسائی، بروایت حذیفہ
۱۰۴۳۔ جس نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی وہ اپنے چہرہ کے بل جہنم میں گرے گا، اس لئے کہ فرمان باری ہے:

امن یجیب المضطر اذا دعاه ویكشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض

کون ہے جو مضطر حال کو جواب دیتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے؟ اور وہ اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اور تم کو زمین کی خلافت سونپتا ہے۔ پس خلافت من جانب اللہ ہے، اگر بھلی ہے تو وہ اس کو بھی لے جائے گا، اور اگر بری ہے تو اس کا مؤاخذہ کرے گا۔ سو تم پر اللہ کے حکم کے مطابق اطاعت واجب ہے۔ الخطیب، بروایت سعد بن عبادہ

۱۰۴۴۔ جو جماعت سے کنارہ کش ہو جائے اس کو قتل کر ڈالو۔ الخطیب بروایت ابن مسعود

۱۰۴۵۔ جس نے میری امت میں تفرقہ ڈالا درناحالیکہ وہ سب باہم مجتمع تھے، تو اس کی گردن اڑا دو خواہ وہ شخص جو بھی ہو۔

ابن ابی شیبہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت اسامہ بن شریک

۱۰۴۶۔ جو شخص خلافت پر جھگڑا کرے اس کو قتل کر ڈالو خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ الدیلمی بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۱۰۴۷۔ جس کو میری حدیث پہنچی پھر اس نے اس کی تکذیب کی تو درحقیقت اس نے تین کی تکذیب کی، اللہ کی، اس کے رسول کی، اور حدیث کرنے والے کی۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ ابن عساکر بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۱۰۴۸۔ جس نے دین میں اپنے خیال سے حرف زنی کی، اس نے مجھ پر تہمت عائد کی۔ الدیلمی بروایت انس

۱۰۴۹۔ دین میں قیاس آرائی مت کرو، کیونکہ دین میں قیاس کو دخل نہیں۔ اور سب سے پہلے قیاس کرنے والا شخص ابلیس تھا۔

الدیلمی بروایت علی رضی اللہ عنہ

اس سے اس قیاس کی مذمت مقصود نہیں جو مجتہدین امت کرتے آئے ہیں۔ کیونکہ وہ درحقیقت قرآن وحدیث کے مخفی احکام سے پردہ اٹھانے کا نام ہے۔ اور شیطان نے قیاس اس طرح کیا کہ آدم کی اصل مٹی ہے اور میں آگ سے پیدا کردہ ہوں، اور مٹی کی فطرت پستی ہے اور آگ کی فطرت اوپر اٹھنا ہے۔ تو بھلا ایک عالی و بلند چیز مشیت خاکی کو کیوں سجدہ کرے؟

۱۰۵۰۔ جس نے میری حدیث میں قیاس بازی سے کام لیا اس نے مجھ پر تہمت لگائی۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۰۵۱۔ جس نے اپنی رائے سے دین میں کلام کیا، اس نے دین میں جھکو تہمت زدہ کیا۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۰۵۲۔ بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت کے مزید دو فرقے زیادہ ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ مضرت رساں فرقہ، دین میں اپنی رائے سے حرف زنی کرنے والا ہوگا۔ وہ اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دیں گے۔ اور اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام بتلائیں گے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، الحلیہ، کرر، بروایت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث ضعیف ہے۔

۱۰۵۳۔ بنی اسرائیل اکہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ ستر فرقے قعر ہلاکت میں پڑے، صرف ایک فرقہ نجات یافتہ بنا۔ اور میری امت بہتر فرقوں میں منتشر ہو جائے گی، صرف ایک فرقہ نجات پائے گا۔ استفسار کیا گیا یا رسول اللہ وہ فرقہ کونسا ہے؟ فرمایا! جماعت، جماعت۔

مسند احمد بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۰۵۴۔ اہل کتاب نے اپنے دین میں بہتر فرقے بنا لئے تھے اور میری امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے، سوائے ایک فرقہ کے۔ اور وہ جماعت ہے۔ اور میری امت میں سے ایسے فرقے نکلیں گے، کہ ہوائے نفسانی و خواہشات ان کی رگ و پے میں اس طرح سرایت کر جائے گی، جس طرح کسی کو کوئی پاگل کتا کاٹ لے۔ پس یہ بیماری ان کی رگ رگ اور ہر ہر جوڑ میں داخل ہو جائے گی۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، بروایت معاویہ رضی اللہ عنہ

۱۰۵۵۔ بنی اسرائیل اکہتر ملتوں میں بٹ گئے تھے۔ اور بے شک گردش لیل و نہار اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ حتیٰ کہ میری امت بھی اسی طرح پارہ پارہ نہ ہو جائے۔ اور ان میں سے ہر فرقہ جہنم رسید ہوگا سوائے ایک کے اور وہ جماعت ہے۔

عبد بن حمید بروایت سعد بن وقاص

۱۰۵۶۔ میری امت ستر سے زائد فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ان میں امت کے لئے سب سے زیادہ ضرر رساں فرقہ وہ ہوگا جو اپنی رائے سے مسائل کو قیاس کریں گے، پس حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیں گے۔ ابن عساکر، بروایت عوف بن مالک

۱۰۵۷۔ میری امت بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گی، اور وہ ایک جماعت وہ ہے جس پر آج میں اور میرے اصحاب کار بند ہیں۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۰۵۸۔ میری امت بہتر فرقوں میں منقسم ہو جائے گی، سب سے زیادہ فتنہ انگیز فرقہ وہ ہوگا جو دین کے مسائل اپنی رائے سے حل کریں گے۔ پس حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیں گے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عوف بن مالک

۱۰۵۹۔ جبرئیل علیہ السلام تمہارے پاس تشریف لائے ہیں اور تمہارے دین کی حفاظت کی تجدید کر رہے ہیں، یقیناً تم لوگ اپنے پیش روؤں کے نقش قدم پر اس طرح ہو، ہو چلو گے، جس طرح جوتا جوتے کے کلیئہ ہم مثل ہوتا ہے۔ اور عین انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ جس طرح بالشت بالشت کے بازو بازو کے اور ہاتھ ہاتھ کے بالکل ہم مثل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں داخل ہوئے تھے تو ضرور تم بھی گوہ کے بل میں داخل ہو گے۔ آگاہ رہو قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں ستر فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ تمام گمراہی پر جمع تھے، سوائے ایک فرقہ کے اور وہ اسلام اور اس کی جماعت تھی۔ پھر تم بھی بہتر فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور سوائے ایک کے تمام گمراہی کے رستہ پر ہوں گے۔ اور وہ ایک ناجی فرقہ اسلام اور اس کی جماعت ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، بروایت کثیر بن عبد اللہ عن ابیہ عن جده

۱۰۶۰۔ میری امت پر بھی وہ تمام حالات گذریں گے، جو بنی اسرائیل پر گزرے، اس طرح ہم مثل ہوں گے جس طرح جوتا جوتے کے ہم مثل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ان کے کسی شخص نے علانیہ اپنی ماں سے بدکاری کی تو تم میں سے بھی ضرور ایسا کوئی شخص پیدا ہوگا جو ایسی حرکت کرے گا۔ بے شک بنی اسرائیل بہتر ٹکڑوں میں منقسم ہو گئے تھے، اور عنقریب میری امت بہتر ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے گی۔ سب جہنم کا بندھن بنیں گے، سوائے ایک کے۔ استفسار کیا گیا وہ ایک کونسا فرقہ ہے؟ فرمایا: وہ جس پر میں اور میرے اصحاب کار بند ہیں۔

المستدرک للحاکم، ابن عساکر بروایت ابن عمرو

۱۰۶۱۔ ضرورت پچھلے لوگوں کی راہ اختیار کرو گے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ستر فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ اور تمام گمراہ ہوئے سوائے ایک فرقہ کے اور وہ ایک فرقہ اسلام اور اس کی جماعت ہے۔ پھر یہ بنی اسرائیل عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر اکہتر فرقوں میں بٹ گئے۔ اور سوائے ایک کے تمام گمراہی کی راہ لگے، اور وہ ایک فرقہ خلفہ اسلام اور اس کی جماعت ہے۔ اور یقیناً تم بہتر فرقوں میں منتشر ہو جاؤ گے، اور سوائے ایک کے تمام گمراہ ہوں گے۔ اور وہ ایک فرقہ اسلام اور اس کی جماعت ہے۔

المستدرک للحاکم، بروایت کثیر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو بن عوف عن ابیہ عن حدہ
۱۰۶۲۔ میں تمہیں ایک روشن اور صاف ملت پر چھوڑ رہا ہوں، اس کی رات بھی اس کے دن کی مانند روشن ہے۔ میرے بعد اس سے کوئی منحرف نہ ہوگا سوائے تباہ و برباد ہونے والے کے۔ اور جو میرے بعد بھی حیات رہا وہ عنقریب بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ پس ایسے وقت تم کو جو میری سنن معلوم ہوں ان کو اور خلفاء راشدین کی سنن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ اور میری سمیع و طاعت کو اپنا شعار بنانا خواہ وہ امیر سیاہ فام حبشی غلام کیوں نہ ہو، ان باتوں کو اپنی کچلیوں سے پکڑ لو۔ بے شک مومن ٹیلیں پڑے اونٹ کی مانند ہے اس کو جہاں ہانکا جائے وہ چل پڑے۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت العریاض
۱۰۶۳۔ اے گروہ قریش! میرے بعد تم اس خلافت کے والی بنائے جاؤ گے، سو تم اسلام کے سوا کسی حالت پر اپنی جان نہ دینا۔ اور تمام آپس میں ایک ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بٹ جانا اور دیکھو! ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو باہم انتشار کا شکار ہو چلے۔ حالانکہ ان کے پاس پہلے واضح نشانیاں بھی آچکی تھیں۔ اور ان کو اسی بات کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ خالص ایک اللہ کی پرستش کریں گے، ہر طرف سے کٹ کر اسی کے لئے دین کو خالص کریں گے، نماز قائم کریں گے، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ اور یہی دین مستقیم ہے۔ اے جماعت قریش! میرے اصحاب اور ان کی اولاد سے میرے رشتے ناٹے کا خیال رکھنا، انصار اور آل انصار پر اللہ رحم فرمائے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت کثیر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو بن عوف عن ابیہ عن حدہ
۱۰۶۴۔ میں تم سے عہد و پیمانہ لیتا ہوں کہ نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا۔ بیت الحرام کا حج کرتے رہنا۔ رمضان کے روزے رکھنا، اور اس ماہ مقدس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یاد رکھو! کہ مسلمان اور ذمی شخص کے خون و مال کی حرمت قائم رکھنا، لالا یہ کہ کسی حق کی وجہ سے اس کو جائز رکھا جائے۔ اور اللہ کی اطاعت کرتے رہنا۔

شعب الإیمان، بروایت قرقبن دعوامس
۱۰۶۵۔ میں تم کو تاکید کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ میری اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ اور انتہائی مضبوطی سے ان کو تھام لو۔ اور اگر کسی حبشی غلام کو بھی تم پر امانت دی جائے اس کی بھی سنو اور اطاعت کرو۔ بے شک ہر بدعت گمراہی ہے۔

الغوی من طریق سعید بن حیثم بروایت شیخ من اهل الشام
۱۰۶۶۔ آج تم ایک دین برحق پر قائم ہو اور دیکھو! میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کناں ہوں گا۔ پس میرے بعد اس دین سے منہ موڑ کر اٹلے پاؤں نہ پھر جانا۔ مسند احمد، بروایت جابر رضی اللہ عنہ
۱۰۶۷۔ تم امت مرحومہ و مغفورہ ہو، سو ثابت قدم رہو! اور خلافت اسلام سے وابستہ رہو۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت مالک الأشعری
۱۰۶۸۔ روز قیامت تم میں مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہوگا، جو دنیا سے اسی حالت میں کوچ کر جائے۔ جس حالت میں میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا۔

مسند احمد، ابن سعد، ہناد، الحلہ، بخاری و مسلم، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ
۱۰۶۹۔ آج کے روز تم اپنے پروردگار کی واضح دلیل پر قائم ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہو۔ اور راہ خدا میں جہاد بھی کر رہے ہو۔ پھر عنقریب تم میں دو نئے سرایت کر جائیں گے۔ عیش و عشرت کا نشہ اور جہالت کا نشہ۔ اور عنقریب تم ان حالات کی طرف منتقل ہو جاؤ گے۔ دنیا کی محبت تمہارے اندر گھر کر جائے گی۔ پس جب یہ صورت حال پیدا ہو جائے تو تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اور راہ خدا میں جہاد بھی

تم سے چھوٹ جائے گا۔ ایسے دن اپنے ظاہر و باطن میں کتاب و سنت کو تھامنے والے سابقین اولین کا مرتبہ پائیں گے۔

الحکیم عن الصلت بن طریف عن شیخ من اهل المداین

۱۰۷۰۔ آج کے روز تم اپنے پروردگار کی واضح دلیل پر قائم ہو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے ہو۔ اور راہِ خدا میں جہاد بھی کر رہے ہو پھر عنقریب تم میں دو نئے سرایت کر جائیں گے۔ جہالت کا نشہ اور دنیاوی زندگی کی محبت کا نشہ۔ اور عن قریب تمہاری یہ دینی حالت بدل جائے گی۔ پھر تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھو گے۔ اور راہِ خدا میں جہاد بھی تم سے چھوٹ جائے گا، اس دن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر قائم لوگوں کے لئے پچاس صدیقیوں کا اجر ہوگا۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا! یا رسول اللہ وہ پچاس صدیق ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا نہیں بلکہ تم میں سے۔ احلیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ۔ الحلیہ بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۰۷۱۔ میری امت کے فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کے وقت جو میری سنت کو تھامے رکھے گا، وہ شہید کا اجر پائے گا۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، الحلیہ، بروایت ابی ہریرة رضی اللہ عنہ

۱۰۷۲۔ جس نے دنیا میں اللہ کے سلطان کا اکرام کیا، قیامت کے روز اللہ اس کا اکرام فرمائیں گے۔ اور جس نے دنیا میں سلطان الہی کی توہین کی اللہ قیامت کے روز اس کو ذلیل فرمائیں گے۔

مسند احمد، التاريخ للبخاری رحمة الله عليه، الروایان الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

۱۰۷۳۔ جس نے روئے زمین پر سلطان الہی کی اہانت کی اللہ اس کی تذلیل فرمائیں گے۔ اور جس نے روئے زمین پر اللہ کے سلطان کی توقیر و عزت کی اللہ اس کا اکرام فرمائیں گے۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

۱۰۷۴۔ جو سلطان الہی کی طرف اس مذموم ارادے سے چلے کہ اس کو ذلیل کرے گا، اللہ قیامت کے روز اس عذاب سے اس کو ذلیل فرمائے گا جو اس کے لئے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ السجوی فی الابانہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۰۷۵۔ سب سے اول فرقہ جو روئے زمین پر سلطان کی اہانت کی غرض سے چلے گا، اللہ اس کو قیامت سے قبل ہی قعرِ مذلت میں ڈال دیں گے۔ الدیلمی بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ

اتباع سنت و دخول جنت کا سبب ہے

۱۰۷۶۔ اس پروردگار کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تم سب جنت میں داخل ہو گے، سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا اور اللہ کی اطاعت سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح نکل گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں داخل ہونے سے کس کو انکار ہوگا؟ فرمایا: جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی درحقیقت اس نے انکار کیا۔ بمطابق اوسط للطبرانی کے وہ جہنم میں داخل ہوا۔ الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، الصحيح لابن حبان، بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۰۷۷۔ اپنے اہل ملت کی تکفیر نہ کرو۔ خواہ وہ کبار کے مرتکب ہوں! اور ہر امام کی اقتداء میں نماز پڑھو۔ اور ہر میت پر نماز پڑھو۔ اور ہر امیر کے ماتحت جہاد کرو۔ ابن عمثلیق فی جزئہ، ابن النجار بروایت واثلة

۱۰۷۸۔ کسی اہل قبلہ کو محض کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہو۔ خواہ وہ کبار کے مرتکب ہوں، اور ہر امام کی اقتداء میں نماز پڑھو، اور ہر امیر کے ماتحت جہاد کرو۔ الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۱۰۷۹۔ اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو اہل قبلہ کے متعلق حرف زنی کرنے سے اپنی زبان کو روک لے۔ لایا یہ کہ اپنی مقدور بھرسنی کے موافق عمدہ طریق سے کلام کرے۔ ابن ابی الدنیا فی الصمت، بروایت ہشام بن عروہ، معضلاً

ہدایا قبول کرنے کی شرط

۱۰۸۰ ہدایا و عطایا وصول کرتے رہو، جب تک کہ وہ عطایا ہی رہیں، مگر جب وہ دین کے معاملہ میں رشوت بن جائیں تو ہاتھ روک لو۔ اور فقر و فاقہ اس سلسلہ میں رکاوٹ ثابت نہ ہوں۔ آگاہ رہو! کہ عنقریب کتاب اور امام جدا ہو جائیں گے مگر تم کتاب کو نہ چھوڑنا۔ خبردار! عنقریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے، جو اپنے لئے تو بہتر فیصلے کریں گے، مگر دوسروں کے لئے ایسے فیصلے نہ کریں گے، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تم کو تہ تیغ کر ڈالیں گے اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو گمراہ کر ڈالیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے استفسار کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا: جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے اصحاب نے کیا۔ وہ آریوں سے چیر دیئے گئے اور سویلوں پر لٹکائے گئے۔ اور جان رکھو! اللہ کی اطاعت میں مرجانا، اللہ کی معصیت میں زندگی گزارنے سے بدرجہا بہتر ہے۔

الکبیر للطہرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۱۰۸۱ عطایا وصول کرتے رہو (جب تک کہ وہ عطایا رہیں) مگر جب وہ رشوت بن جائیں تو ترک کر دو۔ اور میں تم کو نہ پاؤں کہ فقر و فاقہ تم کو ان کے وصول کرنے پر مجبور کر دے۔ خبردار بنی مرجمہ کی چکی چل پڑی ہے۔ اور اسلام کی چکی بھی چل رہی ہے۔ اور یاد رکھو! کتاب اور امام عنقریب جدا جدا ہو جائیں گے، سو تم کتاب اللہ کے ساتھ ہو لینا۔ جہاں بھی وہ جائے۔ عنقریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو گمراہ کر ڈالیں گے۔ اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تم کو تہ تیغ کر ڈالیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے استفسار کیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا: جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے اصحاب نے کیا۔ وہ آریوں سے چیر دیئے گئے اور سویلوں پر لٹکائے گئے (اور جان رکھو!) اللہ کی اطاعت میں مرجانا، اللہ کی معصیت میں زندگی گزارنے سے بدرجہا بہتر ہے۔

ابن عساکر بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۰۸۲ تین باتیں سنت کی ہیں: ہر امام کے پیچھے نماز ادا کرنا، تجھ کو نماز کا ثواب ضرور ملے گا، وہ اگر باطل پر ہوگا تو اس کو گناہ ہوگا۔ اور ہر امیر کے ساتھ جہاد کرنا، تجھ کو جہاد کا ثواب ملے گا، وہ اگر باطل پر ہوگا تو وہ اپنا گناہ خود اٹھائے گا۔ اور ہر توحید پرست پر نماز جنازہ ادا کرنا خواہ وہ خود کافر کا مرتکب کیوں نہ ہو۔ الدار قطنی، الدیلمی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۰۸۳ عمل کے بغیر قول کا اعتبار نہیں، اور نیت کے بغیر قول کا اعتبار اور نہ ہی عمل کا اعتبار۔ اور احیاء سنت کے بغیر قول، عمل اور نیت کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ الدیلمی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۱۰۸۴ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں نے لے کر آیا ہوں۔

الحکیم، ابونصر السجری فی الابانہ، الخطیب عن ابن عمرو رضی اللہ عنہ

ابونصر فرماتے ہیں حدیث حسن اور غریب ہے۔

۱۰۸۵ جس نے امر خلافت کو میری معصیت کے ساتھ حاصل کیا میں اس کی امیدوں کو خاک میں ملا دوں گا اور اور حوادث و خطرات کو اس کے قریب تر کر دوں گا۔ تمام، ابن عساکر، بروایت عبداللہ بن بشر المازنی

۱۰۸۶ میری احادیث بعض بعض کو اسی طرح منسوخ کرتی ہیں۔ جس طرح قرآن بعض بعض کو منسوخ کرتا ہے۔

الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۰۸۷ احمقوں میں احمق ترین اور گمراہی کے گڑھے میں سب سے زیادہ دھنسنے والی وہ قوم ہے جو اپنے نبی کی تعلیمات سے اعراض کر کے دوسرے نبی کی تعلیمات کی خواہشمند ہو جائے۔ اور خود کو دوسری امت میں شامل ہونا پسند کرے۔

الدیلمی بروایت یحییٰ بن جعدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۰۸۸ بنی اسرائیل باہمی نزاع و اختلاف کا شکار ہو گئے۔ پھر مسلسل اسی اختلاف و انتشار کی حالت میں تھے کہ آخر انہوں نے اختلاف کو رفع کرنے کے لئے اپنے دونوں استندوں کو حکم فیصل بنا کر بھیجا مگر وہ دونوں خود بھی گمراہی کا شکار ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لگا دیا۔ اور یقیناً یہ امت بھی عنقریب افتراق و انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ اور یہ باہمی اختلاف و نزاع اسی طرح برقرار ہوگا کہ وہ دو فیصل بھیجیں گے، لیکن وہ دونوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے متبعین کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ بخاری و مسلم بروایت علی رضی اللہ عنہ

۱۰۸۹ بنی اسرائیل نے اپنی طرف سے ایک کتاب لکھ کر توراہ کو پس پشت ڈال دیا، اور اسی کی اتباع میں لگ گئے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۱۰۹۰ جب تم کسی نوجوان کو دیکھو کہ مسلمان کی بیعت و تہذیب کو اپنائے ہوئے ہے، تنگدستی و فراخی ہر حال میں تو وہ تم میں بہترین انسان ہے۔ اور اگر کسی کو اس حالت میں دیکھو کہ دراز موچھیں لئے ہوئے کپڑوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ پس وہ تم میں بدترین شخص ہے۔

الدیلمی بروایت ابی امامہ

۱۰۹۴ جس بات کے متعلق میں تم کو یہ اطلاع دوں کہ وہ منجانب اللہ ہے تو اس میں شک و تردد کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ البزار بروایت ہرز

۱۰۹۲ سن کرا طاعت کرنے والے فرمانبردار کے خلاف کوئی حجت نہیں اور سن کر نافرمانی کرنے والے عاصی کے حق میں کوئی حجت نہیں۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید، بروایت معاویہ رضی اللہ عنہ

فصل فی البدع

۱۰۹۳ گھبراہٹ میں مبتلا کر دینے والا امر اور کمر توڑنے والا گراں بازار یا باشر جو ختم ہونے والا ہو وہ بدعتوں کا غلبہ و ظہور ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت الحکم بن عمیر

۱۰۹۴ حاملین بدعت جہنمی کہتے ہیں۔ ابو حاتم الخزاعی فی جزئہ بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۱۰۹۵ اہل بدعت شر الخلاق لوگ ہیں۔ الحلہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۰۹۶ سنت کا کوئی معمولی سا عمل بھی بدعت کے بہت زیادہ عمل سے بدرجہا بہتر ہے۔

الرافعی بروایت ہریرہ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۰۹۷ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اغیار کی سنتوں پر عمل پیرا ہو۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۰۹۸ کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی مگر اس کے مثل سنت ان سے اٹھالی گئی۔ مسند احمد، بروایت غضیف بن الحارث

۱۰۹۹ جو شخص اس امت میں کوئی نئی چیز جاری کرے گا جس کا پہلے وجود نہ تھا تو اس کا دائی گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس تک پہنچتا رہے گا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۱۰۰ کسی امت نے اپنے پیغمبر کی وفات کے بعد کوئی اپنے دین میں کوئی بدعت ایجاد نہیں کی مگر وہ اس کے مثل کو کھونٹھی۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید، غضیب بن الحارث

۱۱۰۱ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی بات پیدا کی جو اس میں داخل نہیں تو وہ بلاشبہ مردود ہے۔

بخاری و مسلم، المسند لأبی یعلیٰ، السنن لأبی داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۱۱۰۲ جس نے کسی بدعتی شخص کی توقیر و عزت کی، یقیناً وہ اسلام کو ڈھانے میں مددگار بنا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عبداللہ بن بشیر

۱۱۰۳... اللہ نے کسی بدعتی شخص کے عمل کو قبول فرمانے سے انکار فرما دیا ہے۔ جب تک کہ وہ اس بدعت سے کنارہ کش نہ ہو جائے۔

ابن ماجہ، السنۃ لابن عاصم، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۱۰۴... کسی بدعتی سے دنیا کا پاک ہو جانا درحقیقت اسلام کی کھلی فتح ہے۔

الخطیب، الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۰۵... پروردگار عزوجل نے صاحب بدعت کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔

ابن قیل، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان، المسند لأبی یعلیٰ، الضیاع بروایت انس رضی اللہ عنہ

بدعتی شخص چونکہ بدعت کو عین دین خیال کر کے انجام دیتا ہے اس لئے اس کو اس سے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یہی مطلب ہے

حدیث بالا کا ورنہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔

۱۱۰۶... اسلام اولاً پھلتا پھولتا جائے گا۔ پھر اس کی ترویج میں وقفہ آ جائے گا۔ سو یاد رکھو! اس عرصہ میں جو بدعت و غلو کی طرف مائل ہوئے

وہی درحقیقت جہنم کا ایذا بنیں گے۔ الکتب للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما عائشہ رضی اللہ عنہما

۱۱۰۷... جب بھی اہل بدعت غلبہ پائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کی زبان سے بھی ان پر رحمت تام فرمادیں گے۔

حاکم فی التاریخ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۱۰۸... اللہ تعالیٰ کسی بدعتی شخص کی نہ نماز قبول فرماتے، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، اور نہ ہی کوئی فرض۔ حتیٰ کہ وہ اسلام

سے اس طرح نکل جاتا ہے، جس طرح گندھے ہوئے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ، بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ

۱۱۰۹... جس نے ہمارے دین کے علاوہ کوئی بدعت رائج کی وہ بالکل مردود ہے۔ السنن لأبی داؤد، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۱۱۱۰... جس داعی نے کسی کو کسی چیز کی دعوت دی تو وہ داعی روز قیامت اس چیز کے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ اس کے ساتھ اس طرح لازم ہوگی کہ اس

سے جدا نہ ہو سکے گی۔ خواہ کسی نے کسی کو دعوت دی ہو۔ التاریخ للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، الدارمی، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ،

المستدرک للحاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ، ابن ماجہ، بروایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

۱۱۱۱... اسلام میں جبر و اکراہ اور تعذیب رسائی نہیں اور نہ آبادیوں سے دور جانے کا حکم اور نہ دنیا سے کنارہ کشی اور رہبانیت کا حکم ہے۔

شعب الإیمان، بروایت طاووس۔ مرسلأ

حدیث میں خزام، زمام، سیاحت اور تہمتل کے الفاظ آئے ہیں، خزام اونٹ کی ناک میں کیبل ڈالنے کو کہتے ہیں، جس کو ماوراء اردو کے مطابق

”ناک میں تھ ڈال دی“ بھی کہتے ہیں۔ یعنی اس کو مجبور و بے بس کر دیا۔ اور زمام کا بھی یہی مطلب ہے اور اس کا معنی لگام و عنان ڈالنا۔ دونوں

کا مقصود ایک ہی ہے۔ سیاحت سے یہاں مقصود آبادیوں سے دور چلے جانا اور تہمتل کی زندگی اپنانا ہے۔ تہمتل کا بھی یہی مطلب ہے۔

بدعت و تشیع..... الاکمال

۱۱۱۲... اتباع کرتے رہو۔ اور کسی نئی بدعت میں نہ پڑو بے شک یہ دین تمہارے لئے کافی دوانی ہے۔

الکتب للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۱۱۳... بدعات سے کلثیۃ اجتناب کرو۔ یقیناً ہر بدعت صریح گمراہی ہے۔ اور ہر گمراہی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔

ابن عساکر بروایت رجل

۱۱۱۴... جب کوئی شخص بدعت کو اپنا شیوہ بنا لیتا ہے، تو شیطان اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اور وہ عبادت میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اور شیطان

اس پر خشوع و خضوع اور خشیت طاری کر دیتا ہے۔ ابونصر بروایت انس رضی اللہ عنہ

درحقیقت کسی صاحب بدعت شخص کے تعزیر مذلت و گمراہی میں پڑنے کے لئے شیطان کا یہ کامیاب ترین حربہ ہے۔ بدعتی شخص اپنی ان کیفیات باطنیہ کو دیکھ کر اپنے حق ہونے کا پختہ یقین کر لیتا ہے۔ اور پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا کوئی عمل ہی قبول نہیں فرماتے۔ اس طرح گمراہی کا یہ جال اپنی گرفت کو بدعتی شخص کے گردخت کرتا جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہا۔

۱۱۱۵ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی شخص کا نہ روزہ قبول فرماتے، نہ نماز، نہ صدقہ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ نفل، اور نہ ہی کوئی فرض حتیٰ کہ وہ اسلام سے اس طرح نکل جاتا ہے، جس طرح گندھے ہوئے آنے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۱۶ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو بدعتی سے پردہ میں مستور فرمادیا ہے۔ شعب الایمان

اور ایک روایت میں احتجب کے بجائے حجب کا لفظ آیا ہے۔ المصنف لعبدالرزاق

اور ایک روایت میں احتجر کا لفظ آیا ہے۔ جس کے مطابق معنی یہ ہے: پروردگار عزوجل نے صاحب بدعت کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ابن قیل فی جزئہ، شعب الایمان، الإبانہ، کور، ابن النجار، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۱۷ جو بدعت پر عمل پیرا ہوتا ہے شیطان اس کی عبادتوں میں رخنہ ڈالنے سے پہلو تہی کر لیتا ہے۔ اور اس پر خشوع و خضوع اور خشیت طاری کر دیتا ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۱۸ جس نے میری امت کو دھوکہ میں مبتلا کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ دھوکہ دہی کیا؟ فرمایا: ان کے لئے کوئی بدعت ایجاد کرے اور پھر وہ لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔

الدارقطنی فی الافراد بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۱۹ کسی سنت کا رواج اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اسی کے مثل کسی بدعت کی نحوست طاری نہ ہو جائے۔ حتیٰ کہ سنت معدوم ہو جاتی ہے اور بدعت کا دور دورہ ہو جاتا ہے، اور پھر سنت سے بے بہرہ شخص بدعت ہی کو عین دین سمجھ کر گمراہ ہو جاتا ہے۔ سو جان لو! جس نے میری کسی مردہ و معدوم سنت کو زندہ کیا تو اس کا بھی اجر ملے گا اور جو بھی آئندہ اس سنت پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور عمل کرنے والوں کے ثواب سے بھی کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے کسی بدعت کو رواج دیا اس کا وبال تو اس پر ہوگا ہی بلکہ آئندہ جو بھی اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کے گناہوں کا وبال اور مصیبت بھی اس پر پڑے گی، لیکن ان عمل کرنے والوں سے بھی کسی گناہ کو کم نہ کیا جائے گا۔ ابن الجوزی فی الواہیات بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

بدعتی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت

۱۱۲۰ جس نے کوئی بدعت جاری کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی یا اپنے کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا یا کسی غلام نے اپنے کو کسی غیر مولیٰ کی طرف منسوب کیا تو اس پر اللہ کی ملائکہ کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے۔ روز قیامت اللہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائیں گے اور نہ نفل۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ثویان رضی اللہ عنہ۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۱۲۱ جس نے اس امت میں کوئی بدعت پیدا کی وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ اس کا وبال اس کو نہ پہنچ جائے۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المتفق والمفترق للخطیب بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۱۲۲ جس نے بالشت بھر بھی جماعت مسلمین کی مخالفت کی، اس نے اسلام کا قلاوہ اپنی گردن سے نکال پھینکا۔

المستدرک للحاکم، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۱۱۲۳ جو کسی بدعتی شخص کی تعظیم کے لئے قدم بھرتا ہے وہ یقیناً عمارت اسلام کو مسمار کرنے کا مددگار بنتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الحلہ بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۱۱۲۳..... ایک قوم آئے گی جو سنت نبی کو نیست و نابود کر دے گی اور دین میں انتہائی غلو بازی سے کام لے گی۔ اس پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت

کرنے والوں کی لعنت ہے، فرشتوں اور جمع مسلمانان کی لعنت ہے۔ الدیلمی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۲۵..... اہل بدعت لوگ جہنمی کتے ہیں۔ الدارقطنی فی الافراد بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۱۱۲۶..... اہل بدعت شریر ترین مخلوق ہیں۔ الحلیہ، ابن عساکر، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۲۷..... تو اور تیری جماعت جنت میں جائے گی اور عن قریب ایک قوم آئے گی جس کا لقب رافضی ہوگا جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو تو ان کو قتل کرو

کیونکہ وہ مشرکین ہیں۔ الحلیہ، بروایت علی رضی اللہ عنہ

الصارم المسلمول علی شاتم الرسول ج ۳ ص ۶-۷۔ ۱۰۹۸ پر اس مضمون کی کئی احادیث ذکر کی گئی ہیں اور ان میں رافضیہ فرقہ سے متعلق مزید وضاحت مذکور ہے۔ منجملہ یہ بھی ہے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کریں گے۔

۱۱۲۸..... آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی جن کا نام رافضی پڑ جائے گا، وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ اور اسلام کو پھینک دیں گے۔ سوان سے قتال

کرو، وہ مشرک ہیں۔ عبد بن حمید، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۱۱۲۹..... تمہارا کیا خیال ہے ایسی قوم کے بارے میں جن کے قائدین و پیشوا تو جنت میں جائیں گے مگر ان کے تبعین و پیروکار جہنم واصل ہوں

گے..... صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا: خواہ وہ تبعین اپنے پیشواؤں کا سا عمل کریں؟ فرمایا: خواہ وہ اپنے پیشواؤں کا سا عمل کریں۔ یہ پیشوا خدا کے فیصلہ کے مطابق جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے تبعین نئی نئی باتیں ایجاد کرنے کی بدولت جہنم جائیں گے۔

سمویہ بروایت جندب الجلی رضی اللہ عنہ

الباب الثالث..... تتمہ کتاب الایمان

کتاب الایمان کا تتمہ چھ فصلوں پر مشتمل ہے۔

فصل اول..... صفات کے بیان میں

۱۱۳۰..... اللہ کا دایاں دست مبارک خیر سے پُر ہے۔ اس کو کوئی خرچ کم نہیں کر سکتا۔ دن رات وہ بہتا ہے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ جب سے اللہ

نے ارض و سماوات کو پیدا کیا کس قدر خرچ کر چکا ہے؟ لیکن اب تک اس کے خزانہ بیمن میں کوئی سر موٹھی کمی نہیں آئی۔ اس کا عرش پانی پر

ہے۔ اور اس کے دوسرے دست مبارک میں میزان ہے، جس کو بالا و پست کرتا رہتا ہے۔

مسند احمد، بخاری و مسلم، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۳۱..... اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اس کو خرچ کرنے سے ذرہ بھر کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ دن رات بہتا ہے۔ کیا خیال ہے کہ جب سے اللہ نے ارض

و سماوات کو پیدا کیا کس قدر خرچ کر چکا ہے؟ لیکن اب تک اس کے خزانہ بیمن میں کوئی سر موٹھی کمی نہیں ہوئی۔ اس کا عرش پانی پر ہے۔ اور اس

کے دوسرے دست مبارک میں میزان ہے، جس کو پست و بالا کرتا رہتا ہے۔

مسند احمد، بخاری و مسلم، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۳۲..... تف ہو تجھ پر! اگر اللہ نہ چاہے تو اس کے آگے کسی کی سفارش نہیں چل سکتی۔ اللہ تو اس سے بہت عظیم ہے۔ افسوس! تجھے کیا علم! کہ اللہ

کیسی عظیم ہستی ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اور وہ عرش آسمانوں پر ہے۔ اور اس کی زمین تہہ کی مانند ہے۔ اور وہ عرش، خدائی جبروت و سطوت کی وجہ

یوں چڑچڑاتا ہے جس طرح کچا وہ سوار کی وجہ سے چڑچڑاتا ہے۔ السنن لابی داؤد بروایت جبیر بن مطعم

۱۱۳۳ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: جس نے ایک نیکی انجام دی اس کے لئے اس کا دس مثل ہے۔ یا میں اس میں بھی اضافہ کر سکتا ہوں۔ اور جس سے کوئی لغزش سرزد ہوگئی تو اس کی سزا اسی کے مثل ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ میں اس کو بھی بخش دوں۔ اور جس نے زمین کی وسعتوں بھر گناہ کئے پھر مجھ سے اس حال میں آ ملا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا تھا تو میں اس کے لئے اسی قدر مغفرت عطا کروں گا۔ اور جو باشت بھر بھی میرے قریب آیا میں ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھوں گا۔ اور جو ہاتھ بھر مجھ سے قریب ہوا میں باع بھر اس کی طرف بڑھوں گا۔ اور جو میری طرف چل کر آیا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ مسند احمد، ابن ماجہ، الصحيح لمسلم، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۱۱۳۴ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم! اگر تو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا اور اگر تو مجھے کسی مجلس میں یاد کرے گا تو میں تجھے اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ اور اگر تو باشت بھر بھی میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا اور اگر تو ہاتھ بھر میرے قریب آئے تو میں گز بھر تیرے قریب آؤں گا اور اگر تو میری طرف چل کر آئے میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه، بروایت انس رضی اللہ عنہ
 ۱۱۳۵ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف باشت بھر بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف سبقت کرتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔
 مسند احمد، بخاری و مسلم، الصحيح للترمذی رحمة الله عليه، ابن ماجہ، بروایت ہریرہ

اللہ تعالیٰ بندہ کی توجہ سے خوش ہوتا ہے

۱۱۳۶ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور اللہ اپنے بندے کی توجہ سے بے انتہاء خوش ہوتا ہے تمہارے اس شخص سے بھی زیادہ جو کسی بیابان جنگل میں اپنی گمشدہ سوازی کو پالے۔ اور جو باشت بھر بھی میرے قریب آیا میں ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھوں گا۔ اور جو ہاتھ بھر مجھ سے قریب ہوا میں باع بھر اس کی طرف بڑھوں گا۔ اور اگر میری طرف چل کر آیا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ الصحيح لمسلم، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۳۷ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب بندہ میری طرف باشت بھر بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف سبقت کرتا ہے تو میں ایک گز اس کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

الصحيح للبخاری رحمة الله عليه، بروایت انس رضی اللہ عنہ و بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ الكبير للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت سلمان

۱۱۳۸ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے بندے میرے ہاتھ کھڑا ہو جا میں تیری طرف چل کر آؤں گا میری طرف چل کر آؤں گا میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔

مسند احمد، بروایت رجل
 ۱۱۳۹ اللہ عز و جل سوتے ہیں اور نہ سونا ان کو زیب دیتا ہے۔ ترازو کو پست و بالا کرتے رہتے ہیں۔ دن سے قبل ہی رات کے اعمال اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور رات سے قبل دن کے اعمال پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا پردہ نور ہے، اگر وہ اپنے پردے کو منکشف فرمادے تو اس کے چہرے کی کرنیں ہر اس چیز کو جلا کر بھسم کر دے جہاں تک باری تعالیٰ کی نظر جائے۔

الصحيح لمسلم، ابن ماجہ، بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

الاکمال

۱۱۴۰ جب تمہاری اپنے کسی بھائی سے لڑائی ہو جائے تو اس کو چہرے پر مارنے سے حتی الوسع احتراز کرے۔

مسند احمد، بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۱۴۱ جب تم میں سے کوئی قتال کرے تو چہرے پر نہ مارے کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ فی السنۃ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۴۲ جب تم میں سے کوئی قتال کرے تو چہرے پر مارنے سے احتراز کرے کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔

عبد بن حمید بروایت ابی سعید

۱۱۴۳ جب تم میں سے کوئی قتال کرے تو چہرے پر مارنے سے احتراز کرے، کیونکہ انسان کی صورت رحمن کی صورت پر پیدا کی گئی ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ فی السنۃ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۴۴ جب تم میں سے کوئی قتال کرے تو چہرے پر مارنے سے احتراز کرے۔

المصنف لعبد الرزاق، مسند احمد، عبد بن حمید، المسند لأبی یعلیٰ، الدارقطنی فی الافراد السنن لسعید، بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۱۴۵ جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے اور نہ کسی کو یوں بددعا دے کہ اللہ تیرے چہرے کو برا کرے،

یا تیرے جیسے چہروں کا برا کرے۔

المصنف لعبد الرزاق، مسند احمد، الدارقطنی فی الصفات، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ فی السنۃ ابن عساکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۴۶ جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے کیونکہ انسان کی صورت رحمن کی صورت پر پیدا کی گئی ہے۔

الدارقطنی فی الصفات بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۴۷ جب تم کسی کو زد و کوب کرو تو چہرے کو بچاؤ کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ المصنف لعبد الرزاق، بروایت قتادہ مرسل

۱۱۴۸ کسی کی شکل و صورت کو برا بھلا مت کہو۔ کیونکہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق رحمن کی صورت

پر پیدا فرمایا ہے۔ الدارقطنی فی الصفات بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۱۴۹ کسی کی صورت کو برا بھلا مت کہو۔ کیونکہ ابن آدم رحمن کی صورت پر پیدا کیا گیا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، کرر، المستدرک للحاکم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۱۵۰ کوئی تم میں اپنے کسی بھائی کو یوں ہرگز بددعا نہ دے کہ اللہ تیرے چہرے کو برا کرے، یا تیرے جیسے چہروں کا برا کرے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ فی السنۃ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ الخطب بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۱۵۱ میں نے اپنے پروردگار کو سب سے اچھی صورت میں دیکھا: تو مجھے پروردگار نے فرمایا: اے محمد! کیا جانتا ہے کہ ملا اعلیٰ کے فرشتے کس بات

میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: پروردگار! کفار کے بارے میں۔ فرمایا کفار کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا: کراہت و تنگی

کے باوجود وضوء کو کامل طریقہ سے ادا کرنا۔ نماز کی طرف قدموں کا اٹھانا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عبید اللہ بن ابی رافع بروایت ابیہ

۱۱۵۲ میں نے اپنے رب کو ایک نہ حوان کی صورت میں دیکھا، جس کے بال کانوں کی لوتک آئے ہوئے تھے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ فی السنۃ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

ابوزرعة سے منقول ہے کہ یہ حدیث صحیح و ثابت ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خواب پر محمول ہے۔ اسی طرح آنے والی اس

قسم کی تمام احادیث خواب پر محمول ہیں۔

۱۱۵۳ میں نے اپنے رب کو ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا، جس کے بال طویل و شاداب تھے۔ سونے کے دو جوتے پہنے ہوئے تھا اور چہرے پر بھی سونے کی چادر تھی۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه في السنة بروایت ام الطفیل
۱۱۵۴ میں نے اپنے پروردگار کو ایک نوجوان کی صورت میں فردوس کے حظیرة القدسی یعنی جنت میں دیکھا، اس پر ایک ایسا منور تاج تھا جو نظروں کو خیرہ کئے دے رہا تھا۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه في السنة بروایت معاذ بن عفراء

اللہ کے کسی ولی کو ایذا امت دو

۱۱۵۵ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی کی اہانت کی اس نے مجھے جنگ کے لئے دعوت مبارزت دیدی۔ اے ابن آدم میرے پاس جو ہے وہ اس وقت تک تجھے نہیں مل سکتا جب تک کہ میرے فرض کردہ اوامر کو ادا نہ کر لے۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ اور اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ پس جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور جب وہ مجھ سے مدد کا طلب گار ہوتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ اور میرے نزدیک بندے کی محبوب ترین عبادت ہر دم میرا خیال رکھنا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، الحلیہ، فی الطب، بروایت ابن امامہ

۱۱۵۶ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی ولی کو خوف زدہ کیا اس نے مجھے کھلے عام جنگ کی دعوت دی۔ اور کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی کے سوا کسی اور چیز کے ذریعہ مجھ سے زیادہ تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور بندہ مسلسل نفل عبادات میں مشغول رہتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے لئے میں کان، آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہوں اور اس کا حمایتی و مددگار بن جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اور میں کسی چیز میں تردد کا شکار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب میرے بندے کا آخری وقت آ پہنچتا ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ میں اس کی برائی کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور اس کے سوا چارہ کار نہیں۔ اور بعض میرے بندے اپنے لئے کسی عبادت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں مگر میں اس بات کے پیش نظر اس دروازے کو اس پر بند رکھتا ہوں کہ کہیں وہ عجب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور یہ اس کے لئے تباہی کا پیش خیمہ بن جائے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فخر ہی درست رکھتا ہے اگر میں ان کو فخر میں مبتلا کر دوں تو وہ ان کو فتنہ و فساد کا شکار کر دے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے صحت و تندرستی خیر کا باعث بنتی ہے، اگر میں ان کو بیماری میں مبتلا کر دوں تو یہ بیماری ان کو خراب کر دے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری ہی مناسب رہتی ہے۔ اگر میں ان کو صحت و تندرستی عنایت کر دوں تو وہ فساد و خرابی کا شکار ہو جائیں۔ میں اپنے بندوں کے دلوں کا بھید جانتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں میں علیم و خیر ذات ہوں۔ ابن عساکر

اس میں ایک راوی حسن بن یحییٰ الحشنی۔ یراوی کمزور ہے۔ الحسن بن یحییٰ الحشنی واہ، المقنتی فی سرد الکنی ج ۱ ص ۳۷۸

۱۱۵۷ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی کو ایذا دی اس نے مجھ سے جنگ مول لے لی۔ اور کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی کے سوا کسی اور چیز کے ذریعہ مجھ سے زیادہ تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکارتا ہے۔ اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔ اور اس

کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اور مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور میں کسی چیز میں تردد کا شکار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب میرے بندے کا آخری وقت آ پہنچتا ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ میں اس کی برائی کو ناپسند کرتا ہوں۔ مسند احمد، الحکیم المسند لأبی یعلیٰ، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو نعیم فی الطب، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ فی الزہد، ابن عساکر بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۱۱۵۸ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ میرے فرائض کی ادائیگی کے سوا کسی اور چیز کے ذریعہ مجھ سے زیادہ تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اور بندہ مسلسل نقلی عبادت میں مشغول رہتا ہے تو تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ پھر میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ اور اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے۔

اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔

ابن السنن فی الطب، بروایت سمویہ

۱۱۵۹ اللہ عزوجل فرماتے ہیں: کوئی بندہ میرا تقرب اس سے بڑھ کر حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی کرے جو میں نے اس پر فرض کر دیئے ہیں۔ الخطیب ابن عساکر بروایت علی رضی اللہ عنہ

۱۱۶۰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جس نے میرے کسی دوست کی اہانت کی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اور میں اپنے اولیاء کی نصرت میں سب سے زیادہ سرعت سے کام لیتا ہوں۔ اور ان کے لئے اس حملہ آور شیر کی طرح غضب ناک ہوتا ہوں۔ اور میں کسی چیز میں تردد کا شکار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب میرے بندے کا آخری وقت آ پہنچتا ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ میں اس کی برائی کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور اس کے سوا چارہ کار نہیں۔ اور کسی بندے نے دنیا کی بے رغبتی سے بڑھ کر میری عبادت نہیں کی۔ اور نہ کسی بندہ نے میرے فرائض کی ادائیگی کے سوا کسی اور چیز کے ذریعہ مجھ سے زیادہ تقرب حاصل کیا۔ اور میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے لئے میں کان، آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہوں اور اس کا حمایتی و مددگار بن جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اور بعض میرے بندے اپنے لئے کسی عبادت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں مگر میں اس بات کے پیش نظر اس دروازے کو اس پر بند رکھتا ہوں کہ کہیں وہ عجب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور یہ اس کے لئے تباہی کا پیش خیمہ بن جائے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو غنی و مالدار کی کے سوا کوئی چیز اس نہیں آتی۔ اگر میں ان کو فقر میں مبتلا کر دوں تو وہ ان کو فتنہ و فساد کا شکار کر دے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فقر ہی درست رکھتا ہے اگر میں ان کو غنی و مالدار بنائیں تو وہ ان کی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لئے صحت و تندرستی خیر کا باعث بنتی ہے، اگر میں ان کو بیماری میں مبتلا کر دوں تو یہ بیماری ان کو خراب کر دے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کو بیماری ہی مناسب رہتی ہے۔ اگر میں ان کو صحت و تندرستی عنایت کر دوں تو وہ فساد و خرابی کا شکار ہو جائیں۔ میں اپنے بندوں کے دلوں کا بھید جانتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں میں علیم و خبیر ذات ہوں۔

ابن ابی الدنیا فی کتاب الاولیاء الحکیم و ابن مردویہ الحلیہ فی الاسماء، ابن عساکر بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۶۱ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: جس نے میرے کسی ولی سے عداوت مولیٰ لی اس نے مجھے محاربت کی دعوت دیدی اور میں کسی چیز میں تردد کا شکار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب میرے بندے کا آخری وقت آ پہنچتا ہے اور وہ موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ میں اس کی برائی کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور بسا اوقات میرا دوست مؤمن مجھ سے غنی کا سوال کرتا ہے، لیکن میں اس کو فقر و فاقہ میں رکھتا ہوں۔ اگر میں اس کو غنی و تو گمراہی عطا کر دوں تو یہ اس کے لئے انتہائی برا ثابت ہو۔ اور بسا اوقات میرا مؤمن دوست مجھ سے فقر و فاقہ کا متمنی ہوتا ہے، لیکن میں اس کو فرائض و کسب و کاری سے نہیں نکالتا۔ اور اگر میں اس کو فقر و فاقہ کی مصیبت چکھا دوں تو یہ اس کے لئے مصیبت و فتنہ کا باعث بن جائے۔

اللہ عزوجل فرماتے ہیں: میری عزت کی قسم! میرے جلال کی قسم! میرے عالی شان کی قسم! میرے حسن جمال جہاں آراء کی قسم اور میرے بلند مرتبہ کی قسم! میرا جو بندہ میری خواہش و چاہت کے آگے اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھاتا ہے، اور ان کو قربان کرتا ہے۔ تو میں اس کی موت کا وقت اس کی نگاہوں میں پہلے سے پھیر دیتا ہوں۔ اور ارض و سماوات کو اس کے لئے رزق رسائی پر مامور کر دیتا ہوں۔ اور ہر تاجر کی تجارت سے بڑھ کر میں اس کا ضمان و قیل بن جاتا ہوں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۱۶۲ تمام آسان وزمین اللہ کی مٹھی میں ہیں۔ الدیلمی بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۱۱۶۳ اللہ کا دایاں دست مبارک خیر سے پُر ہے۔ اس کو کوئی خرچ کم نہیں کر سکتا۔ دن رات وہ بہتا ہے۔ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ جب سے اللہ نے ارض و سماوات کو پیدا کیا کسی قدر خرچ کر چکا ہے؟ لیکن اب تک اس کے خزانہ میں کوئی سر موٹھی کمی نہیں آئی۔ اس کا عرش پائی پر ہے۔ اور اس کے دوسرے دست مبارک میں میزان ہے، جس کو پست و بالا کرتا رہتا ہے۔ الدار قطنی فی الصفات بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۶۴ بے شک تمام بنی آدم کے قلوب ایک قلب کی مانند اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جس طرح چاہے اللہ ہے۔

المستدرک للحاکم، بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۱۱۶۵ بے شک تمام بنی آدم کے قلوب ایک قلب کی مانند اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جب چاہتا ہے ان کو بھیر دیتا ہے اور جب چاہتا ہے ان کو دیکھ لیتا ہے۔ ابن جریر بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۱۱۶۶ ہر آدمی کا دل زمین کی دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے۔ چاہے تو اس کو کج رو کر دے، اور چاہے تو سیدھا مستقیم رکھے۔ اور ہر دن میزان اللہ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، تو ام کو رفعت عطا کرتا ہے اور دوسری بعض کو پستی میں دھکیلتا رہتا ہے۔ اور قیامت تک یہی معاملہ جاری و ساری ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت نعیم بن ہماز

۱۱۶۷ اے ام سلمہ! کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مگر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اپنی مشیت سے اس کو مستقیم رکھے یا کج رو کر دے۔ الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

۱۱۶۸ کوئی ایسا دل نہیں ہے جو زمین کی دو انگلیوں کے درمیان معلق نہ ہو، وہ اپنی مشیت سے اس کو مستقیم رکھے یا کج رو کر دے۔ اور میزان اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اس کو قیامت تک اوپر نیچے کرتا رہے گا۔ ابن حریر، الدیلمی، بروایت سمرقہ بن فاتک الأسدی

۱۱۶۹ تمام میزان اللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ کسی قوم کو بلند کرتا ہے تو کسی کو پستی کا شکار کرتا ہے۔ اور بنی آدم کا دل پروردگار عزوجل کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ جب چاہے ٹیڑھا کر دے اور جب چاہے سیدھا کر دے۔

ابن قانع، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مندہ فی غرائب شعبہ، الدیلمی، ابن عساکر بروایت سمرقہ بن فاتک

احی خیرم بن فاتک المستدرک للحاکم، بروایت النواس بن سمرقہ

۱۱۷۰ مسلسل جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا اور مسلسل پکارتی رہے گی ہل من مزید۔ حتیٰ کہ رب العزت اپنا قدم مبارک اس میں رکھ دیں گے تو جہنم کے بعض حصے بعض حصوں میں گھس جائیں گے۔ اور جہنم چیخ اٹھے گی تیری عزت کی قسم! تیرے کرم کی قسم! بس! بس! اور جنت میں آخر تک فراخی و کشادگی باقی رہے گی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک جنت کو بڑھانے کے لئے دوسری مخلوق پیدا فرمائیں گے۔ اور ان کو جنت کے باقی بچ جانے والے حصوں میں سکونت عطا فرمائیں گے۔ مسند احمد، عبد بن حمید، الصحيح لمسلم، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حسن

غریب النسائی، ابو عوانہ، الصحيح لابن حبان، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۷۱ جہنم آخر تک زیادتی کی طلب گار رہے گی۔ حتیٰ کہ جبار الہی اس میں اپنا قدم رکھ دیں گے، تو اس کے حصے ایک دوسرے میں اٹ پڑیں گے۔ اور جہنم قو اقا بس! بس! پکارا ٹھے گی۔ الدار قطنی فی الصفات بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۷۲ مسلسل جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا اور مسلسل پکارتی رہے گی ہل من مزید۔ حتیٰ کہ رب العزت اپنا قدم مبارک اس میں رکھ دیں گے اور وہ بس! بس! پکارا ٹھے گی۔ الدار قطنی فی الصفات بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۷۴۔ جنہم میں مسلسل اس کے اہل کو ڈالا جاتا رہے گا اور وہ ہل من مزید کی صدا بلند کرتی رہے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے اور اپنا قدم مبارک اس میں رکھ دیں گے اور وہ بس! بس! پکاراٹھے گی۔ الدار قطعی فی الصفات بروایت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

۱۱۷۵۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے بندے میرے اٹھ کھڑا ہوا! میں تیری طرف چل کر آؤں گا میری طرف چل کر آؤں گا میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔

مسند احمد، بروایت رجل

اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلت

۱۱۷۶۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! اگر تو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا اور اگر تو مجھے کسی مجلس میں یاد کرے گا تو میں تجھے اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ اور اگر تو باشت بھر بھی میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا اور اگر تو ہاتھ بھر میرے قریب آئے تو میں گز بھر تیرے قریب آؤں گا اور اگر تو میری طرف چل کر آئے میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔

مسند احمد، عبد بن حمید بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۷۷۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! اگر تو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا اور اگر تو مجھے کسی مجلس میں یاد کرے گا تو میں تجھے اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ اور اگر تو باشت بھر بھی میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا اور اگر تو ہاتھ بھر میرے قریب آئے تو میں گز بھر تیرے قریب آؤں گا اور اگر تو میری طرف چل کر آئے میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔

مسند احمد، عبد بن حمید بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۱۷۸۔ تمہارے پروردگار عزوجل نے فرمایا ہے: نیکی کی جزا دس گناہ ہوگی اور بدی کی سزا ایک گناہ ہی رہے گی۔ بلکہ ممکن ہے کہ میں اس کو بھی معاف فرما دوں۔ اور جو زمین بھر گناہوں کے ساتھ مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ رکھتا ہو تو میں بھی اس سے زمین بھر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ جس نے نیکی کا فقط ارادہ ہی کیا اور اس کو انجام نہ دیا اس کے لئے بھی نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور جس نے بڑائی کا ارادہ کیا اور اس کا مرتکب نہ ہوا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو میرے باشت بھر قریب آئے گا تو میں ہاتھ بقدر اس کی طرف بڑھوں گا اور اگر کوئی ہاتھ بقدر میری طرف آئے گا تو میں ایک گز اس کے قریب آؤں گا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۱۱۷۹۔ جو بندہ اللہ کی طرف ایک باشت سبقت کرے گا اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ سبقت فرمائیں گے۔ اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھے گا اللہ اس کی طرف ایک گز بڑھیں گے۔ اور جو اللہ کی طرف چلتے ہوئے متوجہ ہوگا اللہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے متوجہ ہوں گے۔ اور اللہ بزرگ و برتر ہیں۔ اور اللہ بزرگ و برتر ہیں۔ اسن ابی خیشمہ، العوی، ابن السکین، انونعیم فی المعرفة بروایت ابی زیاد الغفاری وم اللہ

غیرہ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، انونعیم، الحسن بن سفیان بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۱۱۸۰۔ جو بندہ اللہ کی طرف ایک باشت سبقت کرے گا اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ سبقت فرمائیں گے۔ اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھے گا اللہ اس کی طرف ایک گز بڑھیں گے۔ اور جو اس کی طرف چل کر آئے گا وہ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا۔

مسند احمد، بروایت ابی سعید

۱۱۸۱۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! اگر تو مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا تو میں تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا اور اگر تو مجھے کسی مجلس میں یاد کرے گا تو میں تجھے اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ اور اگر تو باشت بھر بھی میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا اور اگر تو ہاتھ بھر میرے قریب آئے تو میں گز بھر تیرے قریب آؤں گا اور اگر تو میری طرف چل کر آئے میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔

ابن شاہین فی الترغیب بروایت ابن عباس

اس میں معمر بن زائدہ ایک راوی ہیں جن کی حدیث کا متابعت نہیں ہے۔

۱۱۸۲ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب بندہ میری طرف باشت بھر بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف سبقت کرتا ہے تو میں ایک گزاں کی طرف سبقت کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ طبرانی، مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، بروایت قتادہ الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ عن التیمی عن انس

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

۱۱۸۳ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آدم میری طرف اٹھ کھڑا ہوا! میں تیری طرف چل کر آؤں گا میری طرف چل کر آؤں گا میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا، اے ابن آدم! اگر تو باشت بھر بھی میرے قریب آئے گا تو میں ایک ہاتھ تیرے قریب آؤں گا اور اگر تو ہاتھ بھر میرے قریب آئے گا تو میں گز بھر تیرے قریب آؤں گا۔ اور اگر تو اپنے دل میں کسی نیکی کو پیدا کرے گا خواہ اے انجام نہ دیا ہو گا تو میں اس کی نیکی لکھ دوں گا۔ اور اگر تو اس پر عمل کرے گا تو اس کا دس گناہ اجر لکھ دوں گا۔ اور اگر تو کسی بدی کا خیال دل میں کرے گا لیکن میرا خوف تجھے از تکاب سے رکاوٹ بن جائے گا تو اس کا کوئی گناہ نہ لکھوں گا۔ اور اگر وہ گناہ سرزد ہو ہی گیا تو اس کو ایک گناہ ہی لکھوں گا۔

المستدرک للحاکم، ابن النجار بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۱۱۸۴ اللہ عزوجل بندوں کے جہوم یا اس وقتوں اور ان کی طرف بڑھتی ہوئی اپنی رحمت کا موازنہ کرتے ہوئے بندوں پر تجب فرماتے ہیں۔

الخطیب بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۱۱۸۵ وہ سفید بادلوں میں تھا۔ ان بادلوں کے نیچے ہوا تھی پھر پروردگار نے اپنا عرش پانی پر پیدا فرمایا۔

ابن جریر، ابوالشیخ فی العظمتہ، بروایت ابی ذرین

صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آسمان وزمین کی پیدائش سے قبل ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

اللہ عزوجل کی ذات سے متعلق گفتگو کی ممانعت..... الاکمال

۱۱۸۶ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ لوگ اپنے رب کے متعلق بحث و مباحثہ میں مشغول نہ ہو جائیں۔

ابونصر والدیلیمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۸۷ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ خدا کے بارے میں بحث آرائی کرتے ہوئے لوگ علی العالیٰ خدا کا انکار نہ کرنے

لگ جائیں۔ المستدرک للحاکم فی تاریخہ، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۸۸ عمقریب لوگوں کے قلوب شر سے پُر ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ شر لوگوں کے درمیان ہر طرف پھوٹ پڑے گا، ہر ہر دل میں جگہ بنا لے

گا۔ لوگ ہر چیز کے متعلق بحث و تحقیق میں مبتلا ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ کہیں گے اگر تمام اشیاء سے قبل اللہ تھا تو اللہ سے قبل کیا تھا؟ پس جب

تم کو یہ کہیں تو تم کہنا ہر چیز سے قبل اللہ تھا اور اللہ سے قبل کچھ نہ تھا۔ اور وہی تمام چیزوں کے آخر میں بھی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور وہ ہر چیز

پر غالب و بالا ہے۔ اس سے اوپر کچھ نہیں۔ اور وہی باطن بھی ہے اس سے ورے اور راز کی شے کچھ نہیں۔ اور ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پس

اگر پھر بھی وہ لوگ اس بارے میں سوال آرائی کریں تو ان کے چہروں کی طرف تھوک دو۔ اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو ان کو تیغ کر ڈالو۔

الدیلیمی بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

فصل ثانی..... اسلام کی قلت و غربت کے بارے میں

۱۱۸۹ اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا۔ مسند احمد، بروایت فیروز الدیلمی

۱۱۹۰ اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا۔ جب بھی کوئی حکم اسلام ٹوٹے گا تو لوگ اس کے ساتھ والے حکم کو تھام لیں گے۔ اور سب سے پہلے اسلام کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیا جائے گا اور سب سے آخر میں نماز کو ترک کر دیا جائے گا۔

مسند احمد، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۱۱۹۱ اسلام اونٹ کے بچہ کی مانند نوخیزی و کس مپرسی کے عالم میں اٹھا۔ پھر اس کے سامنے کے ثنائی دانت نکلے۔ پھر برابر کے رباعی دانت نکلے۔ پھر رباعی کے بعد والے دانت نکلے۔ پھر اسلام اپنے عقوفان شباب کے آخری مرحلہ پر آیا اور اس کے کچلی والے دانت بھی نکل آئے۔ مسند احمد، بروایت رجل اس روایت کے راوی غالباً حضرت العلاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور روایت میں اسلام کو ایک اونٹ کے بچے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کی ارتقائی منازل کو بیان کیا گیا ہے۔ آخری مرحلہ بزول کا فرمایا حالت بزول میں اونٹ آٹھویں سال میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ اس کی قوت کا انتہائی زمانہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے مقام پر اس روایت کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ بزول کے بعد سوائے نقصان و تنزلی کے کچھ نہیں رہ جاتا۔ یعنی عنقریب اسلام اس حالت میں پہنچ کر حاملین اسلام کی زبوں حالی کی وجہ سے اپنا عروج و اقبال کھو بیٹھے گا۔

۱۱۹۲ اسلام غربت و اجنبی حالت میں اٹھا اور عنقریب اسی اجنبی حالت میں لوٹ جائے گا، سو خوشخبری ہو! غرباء کے لئے۔

الصحيح لمسلم، ابن ماجه، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ النسائی، ابن ماجه، بروایت ابن مسعود، ابن ماجه بروایت انس

رضی اللہ عنہ الكبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت سلمان وسهل بن سعد وابن عباس رضی اللہ عنہما

حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ حاملین اسلام فقط غرباء رہ جائیں گے بلکہ غربت اجنبیت کے معنی میں ہے یعنی اسلام اور اس کے احکام کو مانوس اور تعجب کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا کہ یہ پرانے وقتوں کی دقیا نو سیت کہاں سے آگئی۔

۱۱۹۳ اسلام غربت و اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا اور عنقریب اسی طرح اجنبیت کی حالت میں لوٹ جائے گا۔ اور صرف مجاہدوں کی حدود تک

اس طرح منحصر ہو کر رہ جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ کر چلا جاتا ہے۔ الصحيح لمسلم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۱۹۴ بے شک دین سرزمین حجاز کی طرف یوں سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ کر چلا آتا ہے۔ اور دین ارض

حجاز کو قلعہ بنا کر اس میں یوں جگہ پکڑ لے گا جس طرح اپنے ریوڑ سے پھٹری ہوئی پہاڑی بکری پہاڑ کی چوٹی کی طرف لپک کر قلعہ بند ہو جاتی

ہے۔ یقیناً دین غربت و اجنبیت کے عالم میں اٹھا اور اسی طرح غربت کے عالم میں واپس ہو جائے گا۔ پس خوشخبری ہو! غرباء کے لئے جو میرے

بعد میری سن کو زندہ کریں گے۔ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه، بروایت عمرو بن عوف المزنی

۱۱۹۵ عنقریب دین اسی سرزمین مکہ کی طرف واپس آجائے گا، جہاں سے نکلا تھا۔ ابن النجار، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۱۹۶ حق کی طلب و تلاش غربت ہے۔ ابن عساکر بروایت علی رضی اللہ عنہ یعنی حق کو قبول کرنا اور اس کی راہ میں قدم اٹھانا مانا پڑ گیا ہے۔

۱۱۹۷ ایمان مدینہ کی طرف یوں لپک آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف لپک آتا ہے۔

مسند احمد، بخاری و مسلم، ابن ماجه، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

الاکمال

۱۱۹۸ اسلام غربت و اجنبی حالت میں اٹھا اور عنقریب اسی اجنبی حالت میں لوٹ جائے گا، سو خوشخبری ہو! غرباء کے لئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! غرباء کون ہیں؟ فرمایا جو دین کے فساد کے وقت اس کی اصلاح کریں۔

۱۱۹۹ اسلام غربت و اجنبی حالت میں اٹھا اور عنقریب اسی اجنبی حالت میں لوٹ جائے گا، سو قریب قیامت میں خوشخبری ہو! غرباء کے لئے۔

نعیم بن حماد فی الفتن بروایت مجاہد مرسلأ

۱۲۰۰ اسلام غربت و اجنبی حالت میں اٹھا اور عنقریب اسی اجنبی حالت میں لوٹ جائے گا۔ سو ایسے دن خوشخبری ہو! غرباء کے لئے، جب لوگ فتنہ و فساد کا شکار ہو جائیں گے۔ اور قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم کی جان ہے! کہ ایمان ان دو مسجدوں کی طرف اس طرح سمٹ کر منحصر ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف لپک آتا ہے۔ مسند احمد، السنن لسعید، بروایت سعد بن ابی وقاص

۱۲۰۱ اسلام غربت و اجنبی حالت میں اٹھا اور عنقریب اسی اجنبی حالت میں لوٹ جائے گا۔ سو ایسے دن خوشخبری ہو! غرباء کے لئے، جب لوگ فتنہ و فساد کا شکار ہو جائیں گے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! ایمان مدینہ کی طرف یوں تیزی سے آئے گا جس طرح سیلاب نشیب میں آنا فانا اتر جاتا ہے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اسلام ان دو مسجدوں کی طرف اس طرح سمٹ کر منحصر ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف لپک کر داخل ہو جاتا ہے۔ عبدالرحمن بن سنۃ الاسجعی

۱۲۰۲ اسلام مکہ و مدینہ کے درمیان ہی منحصر ہو کر رہ جائے گا۔ جس طرح سانپ اپنے بل میں محبوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر اسی اثناء میں عرب اپنے اعراب لوگوں سے اعانت کے طلب گار ہوں گے تو اس آواز پر پیش روں میں سے صلاح کار اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے معزز و اختیار لوگ نکلیں گے اور پھر ان کے اور روم کے مابین جنگ چھڑ جائے گی۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عبدالرحمن بن سنۃ

۱۲۰۳ قریب ہے کہ اسلام دوسرے شہروں کو چھوڑ کر مدینہ میں آ جائے۔ جس طرح سانپ اپنے بل میں آٹھرتا ہے۔

الروامہ زمزی فی الامثال بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۰۴ اسلام مدینہ کی طرف یوں تیزی سے آئے گا جس طرح سیلاب نشیب میں آنا فانا اتر جاتا ہے۔ الخطیب بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

فصل سوم..... دل کے خطرات و تغیر کے بیان میں

۱۲۰۵ دل بادشاہ ہے۔ دیگر جمیع اعضاء اس کے لشکری ہیں۔ پس جب بادشاہ درست ہوتا ہے تو اس کے لشکری بھی درست رہتے ہیں۔ جب بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو لشکری بھی بگڑ جاتے ہیں۔ دونوں کان نہ بھرنے والے برتن ہیں، آنکھ اسلحہ ہے۔ زبان ترجمان ہے، دونوں ہاتھ دوپڑ ہیں، دونوں ٹانگیں دو قاصد ہیں، جگر رحمت ہے، تلی خشک و تہقہ ہے، دونوں گردے مکرو خدع ہیں، پھیپھڑا نفس ہے۔

شعب الایمان، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۰۶ دونوں آنکھیں دور ہنما ہیں۔ دونوں کان نہ بھرنے والے برتن ہیں۔ زبان ترجمان ہے۔ دونوں ہاتھ دوپڑ ہیں۔ دونوں ٹانگیں دو قاصد ہیں۔ جگر رحمت ہے، تلی خشک و تہقہ ہے، دونوں گردے مکرو خدع ہیں۔ دل بادشاہ ہے۔ پس جب بادشاہ درست ہوتا ہے تو اس کی عوام بھی درست رہتی ہے۔ جب بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو عوام بھی بگڑ جاتی ہے۔

ابو الشیخ فی العظمة ابو نعیم فی الطب، بروایت ابی سعید الحکیم بروایت عائشہ

۱۴۰۷۔ بعض اہل ارض اللہ کے لئے ظروف ہیں۔ اور اس کے نیکو کار بندوں کے دل اللہ کے گھر ہیں۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ جو سب سے زیادہ نرم و مہربان ہو۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عیینہ
 ۱۴۰۸۔ جنت میں ایسی اقوام داخل ہوں گی جن کے دل پرندوں کی طرح نرم و آشفیتہ ہوں گے۔

مسند احمد، الصحيح لمسلم، بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۱۴۰۹۔ ہر دل پر ایک بادل سایہ لگن ہوتا ہے۔ چاند کی مانند کہ چاند اپنی آب و تاب پر ہوتا ہے کہ اچانک بادل اس کی روشنی پر چھا جاتا ہے

پھر بادل چھٹتا ہے تو دوبارہ چاند ضوءِ نقشاں ہو جاتا ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت علی رضی اللہ عنہ
 ۱۴۱۰۔ دل کو دل اس کے ہر آن اللہ سے پلٹنے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ دل کی مثال چینیل صحراء میں کسی درخت کی جڑ سے لگے پر کی مانند ہے، جس

کو ہوا میں الٹی پلٹتی رہتی ہیں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی موسیٰ
 ۱۴۱۱۔ دل کی مثال صحراء میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہے، جس کو ہوا میں الٹی پلٹتی رہتی ہیں۔ ابن ماجہ، بروایت ابی موسیٰ

۱۴۱۲۔ ابن آدم کا دل اس ہانڈی سے زیادہ الٹا پلٹتا ہے، جو شدت غلیان سے جوش مار رہی ہو۔
 مسند احمد، المستدرک للحاکم، بروایت المقداد بن الاسود

۱۴۱۳۔ ابن آدم کا دل چڑیا کی مانند ہے، جو دن میں سات سے زیادہ مرتبہ بدلتا ہے۔ شعب الایمان، بروایت ابی عیسیٰ الجراح
 ۱۴۱۴۔ ابن آدم کا دل چڑیا کی مانند ہے، جو دن میں سات سے زیادہ مرتبہ الٹا پلٹتا ہے۔

ابن ابی الذنیافی الاخلاص، المستدرک للحاکم، شعب الایمان، بروایت ابی عیینہ
 ۱۴۱۵۔ ہر آدمی کا دل رحمن کی دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے۔ چاہے تو سیدھا مستقیم رکھے، اور چاہے تو اس کو کج رو کر دے۔ اور ہر دن میزان اللہ

کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اقوام کو فرحت عطا کرتا ہے اور دوسری بعض کو پستی میں دھکیلتا رہتا ہے۔ اور قیامت تک یہی معاملہ جاری و ساری ہے۔
 مسند احمد، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، بروایت النواس

۱۴۱۶۔ تمام دل اللہ کے ہاتھوں میں ہیں وہ ان کو الٹا پلٹتا ہے۔
 مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۴۱۷۔ بے شک تمام بنی آدم کے قلوب ایک قلب کی مانند اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ جیسے چاہے وہ ان کو الٹا پلٹتا ہے۔
 مسند احمد، الصحيح لمسلم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۴۱۸۔ اے ام سلمہ! کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مگر اس کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اپنی مشیت سے اس کو مستقیم رکھے یا کج
 رو کر دے۔ الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

۱۴۱۹۔ جو بھی قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے، اللہ اس پر رحم کھاتا ہے۔ اکلم بروایت یزید
 ۱۴۲۰۔ وہ شخص اندھا نہیں ہے، جس کی بصارت زائل ہو جائے، بلکہ اندھا تو وہ ہے جس کی بصیرت زائل ہو جائے۔

الحکیم، شعب الایمان، بروایت عبد اللہ بن الحراد
 ۱۴۲۱۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اگر تمہاری وہ حالت و کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، ہر دم برقرار رہے

تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ اور اپنے پروں کے ساتھ تم پر سایہ لگن ہو جائیں۔ لیکن اے حنظلہ! یہ تو وقت و وقت کی بات ہوتی ہے۔
 مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ، بروایت حنظلہ الاسدی

الاکمال

۱۲۲۲ جب آدمی کا دل درست ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم درست ہوتا ہے۔ جب دل خبیث ہو جائے تو پورا جسم خباثت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

۱۲۲۳ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے۔ جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو سارا جسم بیمار پڑ جاتا ہے۔ ابن السنی، ابو نعیم فی الطب، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۲۴ زمین میں اللہ کے کچھ برتن ہیں۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب برتن وہ ہیں جو نرم و صاف ستھرے ہوں۔ اور اللہ کے یہ برتن زمین میں اللہ کے صالحین بندوں کے قلوب ہیں۔ الحلیہ، بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۱۲۲۵ زمین میں اللہ کے کچھ برتن ہیں، یاد رکھو! وہ قلوب ہیں۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب برتن وہ ہیں جو نرم و صاف ستھرے ہوں اور مضبوط ہوں۔ بھائیوں کے لئے نرم و مہربان ہوں اور گناہوں سے صاف ستھرے ہوں۔ اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں مضبوط و سخت ہوں۔

الحکیم بروایت سعد بن عبادہ

۱۲۲۶ قلوب چار قسم کے ہیں

ایک تو وہ قلب جو صاف ستھرا ہو، جیسے چراغ روشن ہو۔ وہ مؤمن کا قلب ہے اور اس میں نور کا چراغ روشن ہے۔

دوسرا وہ قلب جو پردہ میں مستور اور بند ہو، کافر کا قلب ہے، اس پر کفر کا پردہ پڑا ہوا ہے۔

اور تیسرا وہ قلب جو اندھا ہو، منافق کا دل ہے کہ وہ اولاً ایمان سے آراستہ ہوا لیکن پھر کفر و انکار کی ظلمت میں اوندھا ہو گیا۔

چوتھا وہ قلب جو غلط ملط ہو، وہ ایسا قلب ہے جس میں بیک وقت ایمان کی روشنی بھی ہے اور نفاق کی ظلمت بھی، اس میں ایمان کی مثال

ایسی ہے جیسے کوئی ترکاری، جس کو عمدہ پانی شادابی میں فراوانی کرتا رہتا ہے۔ اور اس میں نفاق کی مثال اس ناسور زخم کی ہے، جس کو پیپ اور خون

مزید بڑھاتے رہتے ہیں۔ پس دونوں طاقتوں میں سے جو غالب آگئی، قلب اسی کا مسکن بن جائے گا۔

مسند احمد، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی سعید

حدیث صحیح ہے۔ ابن ابی شیبہ، بروایت حدیفہ رضی اللہ عنہ

حدیث منقوف ہے۔ ابن ابی حاتم بروایت سلمان موقوفاً

۱۲۲۷ ہر دل پر ایک بادل سایہ فگن ہوتا ہے۔ چاند کی مانند! کہ چاند اپنی آب و تاب پر ہوتا ہے کہ اچانک بادل اس کی روشنی پر چھا جاتا ہے۔

پھر بادل چھٹتا ہے تو دوبارہ چاند ضوء و نشاط ہو جاتا ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت علی رضی اللہ عنہ

۱۲۲۸ اس دل کی مثال چٹیل صحراء میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہے، جس کو ہوا میں الٹی پلٹی رہتی ہیں۔

شعب الإیمان، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی موسیٰ

۱۲۲۹ دل کی مثال چٹیل صحراء میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہے، جس کو ہوا میں الٹی پلٹی رہتی ہیں۔

شعب الإیمان، ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

چوتھی فصل..... شیطان اور اس کے وساوس کے بیان میں

۱۲۳۰ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا، شیطان کہتا ہے

اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب تم میں سے کسی کو ایسی صورت حال سے وابستہ پڑے تو وہ کہے: آمنت باللہ ورسولہ تو یہ کلمہ اس کے وسوسہ کو دفع

کردے گا۔ مسند احمد، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

اس کے رواۃ ثقہ ہیں مجمع الزوائد ج ۱ ص ۳۳

۱۲۳۱ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تیری امت مسلسل بحث و تحقیق میں مبتلا رہے گی حتیٰ کہ کہنے لگے گی: تمام مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ

کو کس نے پیدا کیا؟ مسند احمد، الصحیح لمسلم، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۲۳۲ لوگ مسلسل اس سوال آرائی کا شکار رہیں گے کہ اللہ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہوا پھر اللہ کو کون پیدا کرنے والا ہے؟

الصحیح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۲۳۳ شیطان کے پاس سرمہ ہے۔ چائے والی شے ہے۔ اور سنگھانے والی شے ہے۔ چائے والی شے تو جھوٹ ہے۔ سو نگھانے والی شے غصہ

ہے۔ اور اس کا سرمہ نیند ہے۔ شعب الایمان، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۲۳۴ شیطان کے پاس سرمہ ہے۔ چائے والی شے ہے۔ پس جب وہ کسی کو وہ سرمہ لگا دیتا ہے تو اس پر نیند مسلط ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ

چائے والی شے سے کسی کو چٹوٹاتا ہے تو اس کی زبان ہڈیاں اور جھوٹ بازی میں مجھو ہو جاتی ہے۔

ابن ابی الدنيا فی مکائد الشیطان، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المصنف لعبد الرزاق، بروایت سمرة رضی اللہ عنہ

۱۲۳۵ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ کس نے پیدا کیا؟ حتیٰ کہ کہتا ہے: تیرے رب کو کس

نے پیدا کیا؟ پس جب وہ اس پر پہنچے تو اس کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۳۶ ممکن ہے کہ لوگ آپس میں سوال آرائی کریں حتیٰ کہ ان میں سے کوئی فرد یہ کہے کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا پھر اللہ کو کس نے

پیدا فرمایا؟ پس جب لوگ یہ کہنے لگیں تو تم کہو:

قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوًا احد

اللہ تنہا ہے۔ بے نیاز ہے۔ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ ہی اس کو جنم دیا گیا، اور نہ اس کا کوئی ثانی وہمسر ہے۔

پھر وہ اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دے۔ اور شیطان مردود کے وساوس سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔

السنن لأبی داؤد، ابن السنن بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۳۷ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ شیطان

کہتا ہے اچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان کہتا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب تم میں سے کسی کو ایسی

صورت حال سے واسطہ پڑے تو وہ کہے: آمنت باللہ ورسولہ۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۲۳۸ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا، شیطان کہتا ہے

اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب تم میں سے کسی کو ایسی صورت حال سے واسطہ پڑے تو وہ کہے: آمنت باللہ ورسولہ تو یہ کلمہ اس کے وسوسہ کو دفع

کردے گا۔ ابن ابی الدنيا فی مکائد الشیطان، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

شیطانی وسوسہ کی مدافعت

۱۲۳۹ شیطان کے بہت سے پھندے اور جال ہیں۔ اور اس کے پھندے اور جال اللہ کی نعمتوں پر اکڑنا اور اس کی عطا یا پریشانی بگھارنا،

بندگان الہی پر اپنی بڑائی جتانا، اور اللہ کی ناپسندیدہ اشیاء میں خواہشات کے پیچھے پڑنا۔ ابن عساکر بروایت العنان بن بشریہ

۱۲۴۰ ابن آدم پر شیطان کا کچھ اثر ہوتا ہے اور فرشتہ کا کچھ اثر ہوتا ہے۔ جب شیطان کا اثر ہوتا ہے تو وہ شرکاء القاء کرتا ہے اور حق کی تکذیب

کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور جب فرشتہ کا اثر ہوتا ہے تو وہ خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کا تصدیق کنندہ بنا دیتا ہے۔ پس جب کوئی اس صورت کو محسوس

کرے تو اس کو جاننا چاہئے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور پھر اس کا شکر کرنا چاہئے۔ اور جو پہلی صورت محسوس کرے تو اسے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے۔ الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، النسائی، الصحیح لابن حبان، بروایت ابن مسعود

۱۲۳۱ لوگ مسلسل باہم سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھیں گے حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو ایسی بات پائے تو کہہ دے: امنت باللہ ورسولہ۔ السنن لأبی داؤد، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۳۲ تم میں سے کوئی ایسا تنفس نہیں ہے جس کے ساتھ دور قیب ہمہ وقت ساتھ نہ ہوں ایک جنوں میں سے دوسرا فرشتوں میں سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے استفسار کیا: اور آپ؟ فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اس پر اللہ نے میری مدد فرمادی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے، اب مجھے سوائے خیر کے کسی بات حکم نہیں کرتا۔ مسند احمد، الصحیح لمسلم، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۲۳۳ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے استفسار کیا: اور آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اس پر اللہ نے میری مدد فرمادی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے۔

۱۲۳۴ یوں مت کہہ: شیطان کا ناس ہو، براہو۔ کیونکہ اس سے وہ شیخی میں آ کر پھول جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک کمرے کے بقدر پھول جاتا ہے۔ اور کہتا ہے میں نے اس کو اپنی قوت و طاقت کے بل بوتے زیر کر لیا۔ بلکہ اس کو اس کے بجائے بسم اللہ کہہ لینی چاہئے، کیونکہ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان حقیر و چھوٹا ہوتا ہوتا مثل مکھی کے ہو جاتا ہے۔

۱۲۳۵ جو شخص یہ وسوسے محسوس کرے، اس کو چاہئے کہ تین بار کہے: امنت باللہ ورسولہ۔ کیونکہ یہ کلمہ ان وسوسوں کو دفع کر دے گا۔

۱۲۳۶ شیطان اس بات سے کلثیہ مایوس ہو گیا ہے کہ اب نمازی اس کی پرستش کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کے آپس میں پھوٹ ڈالنے اور فتنہ و فساد برپا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مسند احمد، الصحیح لمسلم، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت جابر رضی اللہ عنہ

الاکمال

۱۲۳۷ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ شیطان کہتا ہے اچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان کہتا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب تم میں سے کسی کو ایسی صورت حال سے واسطہ پڑے تو وہ کہے: امنت باللہ ورسولہ۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۲۳۸ لوگوں میں یہ سوال اٹھے گا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟

۱۲۳۹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: تیری امت مسلسل بحث و تمحیص میں مبتلا رہے گی حتیٰ کہ کہنے لگے گی: تمام مخلوق کو تو اللہ نے پیدا کیا لیکن کو کس نے پیدا کیا؟ مسند احمد، الصحیح لمسلم، وابو عوانہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۲۵۰ شیطان اس سے باز نہ آئے گا کہ تم میں سے کسی سے کہے: کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ وہ کہے گا اللہ نے۔ شیطان کہے گا: تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا اللہ نے۔ شیطان کہے گا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پس جب کوئی اس بات کو محسوس کرے تو یوں کہہ لے: امنت باللہ ورسولہ۔ الصحیح لابن حبان، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۱۲۵۱ لوگ مسلسل اس بات کو دہرائیں گے کہ اللہ ہر چیز سے پہلے تھا لیکن اللہ سے پہلے کیا تھا؟

النسائی، بروایت المحررین ابی ہریرہ عن بیہ

حدیث ضعیف ہے۔

۱۲۵۲ لوگ مسلسل ہر ہر چیز کے متعلق بحث و تمحیص میں مبتلا ہو جائیں گے حتیٰ کہ کہیں گے اگر تمام اشیاء سے قبل اللہ تھا تو اللہ سے قبل کیا تھا؟ پس جب تم کو یہ کہیں تو تم کہنا: ہر چیز سے قبل اللہ تھا اور اللہ سے قبل کچھ نہ تھا۔ اور وہی تمام چیزوں کے آخر میں بھی ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور وہ ہر چیز پر غالب و بالا ہے۔ اس سے اوپر کچھ نہیں۔ اور وہی باطن بھی ہے اس سے ورے اور راز کی شے کچھ نہیں۔ اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔

۱۲۵۳ لوگ مسلسل اس سوال کو دہرائیں گے کہ اللہ ہر چیز سے پہلے تھا لیکن اللہ سے پہلے کیا تھا؟

مسند احمد، کور بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۵۴ لوگ مسلسل اس سوال کو دہرائیں گے کہ اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا؟ سمویہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۲۵۵ انسان کے پاس شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ شیطان کہتا ہے اچھا زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر شیطان کہتا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جب تم میں سے کسی کو ایسی صورت حال سے واسطہ پڑے تو وہ کہے: آمینت باللہ ورسولہ

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمرو اس میں ایک راوی ابن ابی نعیم بھی ہیں، مجمع الزوائد ج ۱ / ص ۳۲

۱۲۵۶ اس کے ساتھ مؤمن کو آزما یا جاتا ہے؟ المسند لأبی یعلیٰ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: آپ ﷺ سے وسوسہ کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ نے تین بار اللہ اکبر کہا اور یہ جواب ارشاد فرمایا۔

۱۲۵۷ یہ تو عین ایمان ہے۔ شیطان اولاً اس سے ہلکا جملہ کرتا ہے اگر اس سے بندہ محفوظ رہا تو پھر اس میں پڑ جاتا ہے۔

النسائی، بروایت عمار بن الحسن المازنی عن عمہ عن عبد اللہ بن زید بن عاصم

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے آپ ﷺ سے وسوسہ کے بارے میں عرض کیا کہ اتنے کریمہ و حساس و سادس ہم کو گھیرتے ہیں کہ ثریا آسمان سے گرا دیا جانا ہمیں اس سے زیادہ پسند ہے کہ ان وساوس کو نوک زبان پر لایا جائے۔ تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۱۲۵۸ یہ تو واضح اور روشن ایمان ہے۔ مسند احمد، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے آپ ﷺ کی خدمت عالیہ میں وساوس کا شکوہ کیا: تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۲۵۹ یہ تو صریح ایمان ہے۔ الصحیح لمسلم، السنن للنسائی لأبی داؤد، النسائی، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۲۶۰ اس کلام سے تو مؤمن ہی کا سابقہ پڑتا ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

ایک شخص نے بارگاہ اقدس میں عرض کیا: کہ میں اپنے نفس میں ایسے ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں کہ اگر ان کو زبان پر لاؤں تو میرے اعمال جط وضائع ہو جائیں۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔ اس کی اسناد میں سیف بن عسیرہ ہیں علامہ ازدی فرماتے یہ متکلم فیراوی ہیں۔

مجمع الزوائد ج ۱ / ص ۳۲

۱۲۶۱ اللہ اکبر حمد و ثناء اسی کے لئے ہے، جس نے اس کے مکر و خدع کو محض وسوسہ تک محدود کر دیا۔

مسند احمد، السنن لأبی داؤد بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۲۶۲ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں، جس نے شیطان کی قدرت کو تم پر وسوسہ اندازی ہی تک محدود رکھا۔

ابو داؤد الطیالسی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإيمان، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۲۶۳ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہیں، شیطان اس بات سے بالکل باپس ہو گیا ہے کہ میری اس سرزمین میں اس کی پرستش کی جائے، وہ

فقہ تمہارے حقیر اعمال کو برباد کرنے پر راضی ہو گیا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات و وساوس پاتا ہوں کہ ان کو زبان
پر لانے سے مجھے کوئلہ بن جانا زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۱۲۶۴ وسوسہ صریح ایمان ہے۔ محمد بن عفان الأذرعی فی کتاب الوسوسہ عن ابراہیم

۱۲۶۵ نماز میں وساوس کا گھیرنا صریح ایمان ہے، اور یہ وساوس کسی مؤمن کو نہیں چھوڑتے۔ الاوزاعی بروایت عقیل بن مدرک السلمی
۱۲۶۶ ابلیس کی کتے کی طرح ایک سونڈ ہوتی ہے۔ جس کو وہ ابن آدم کے قلب پر ڈالے رکھتا ہے۔ اس کے ذریعہ سے وہ اس قلب
میں شہوات اور لذات کی رغبت ڈالتا رہتا ہے۔ اور طرح طرح کی تمنائیں دلاتا ہے۔ اور اس کے قلب پر وسوسہ انگیزی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اس
کو اپنے رب کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار بنا لیتا ہے۔ پھر اگر بندہ یہ دعا پڑھ لے۔

اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان یحضر و ان اللہ هو السمیع العلیم

کہہ لے تو شیطان ہڑ بڑا کرا پی سونڈ فوراً کھینچ لیتا ہے۔ الدیلمی بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۱۲۶۷ وسوسہ انداز شیطان کی پرندے کی مانند ایک چوچ ہوتی ہے، جب ابن آدم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ شیطان اپنی چوچ کے
ذریعہ سے قلب کے کان میں وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے، پھر جب ابن آدم اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو وہ شیطان پیچھے ہٹ آتا ہے اور اپنی
سونڈ کھینچ لیتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام وساوس پڑ گیا ہے۔ ابن شاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت انس رضی اللہ عنہ
حدیث ضعیف ہے۔

۱۲۶۸ ہر دل کے لئے ایک وسوسہ انداز شیطان ہوتا ہے پس جب وہ شیطان دل کا پردہ بھاڑ دیتا ہے، تو اس بندہ کی زبان اسی کے بول بولتی
ہے۔ اور بندہ کو شیطانی خیالات گھیر لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پردہ نہ بھاڑ سکے اور نہ زبان اس زیر اثر کلام کرے تو تب کوئی حرج نہیں ہے۔

الدیلمی، ابن عساکر، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

اس روایت میں ایک راوی محمد بن سلیمان بن ابی کریمہ ہیں، علامہ عقیل ان کے متعلق فرماتے ہیں یہ شخص ایسی باطل احادیث بیان کرتا ہے
جن کا کوئی ثبوت نہیں۔

نماز میں ہوا خارج ہونے کا وسوسہ

۱۲۶۹ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور وہ اپنی نماز میں مشغول ہوتا ہے، شیطان اس کی مقعد کو کھولتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال
پیدا کرتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے، اور اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ حالانکہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا ہوتا، تو جب کسی کو یہ صورت پیش آئے تو وہ نماز
سے نہ لوٹے جب تک کہ اپنے کانوں سے اس کی آواز نہ سن لے یا اس ریح کی بو کا احساس نہ ہو جائے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۲۷۰ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس کی دبر کے پاس چوچ مارتا ہے، تو وہ اس وقت تک نماز سے نہ نکلے جب تک کہ آواز نہ سن
لے یا ریح کے نکلنے کا یقینی احساس نہ ہو جائے۔ یا خود عمد ایسا نہ کر لے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۲۷۱ جب تم میں سے کوئی نماز میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور جس طرح کوئی اپنے جانور کو چوکے لگاتا ہے اسی
طرح شیطان اس کو چوکے لگاتا ہے، جب وہ پرسکون ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی سرین کے قریب آواز محسوس ہوتی ہے تاکہ وہ شک میں مبتلا ہو جائے
سو جب کوئی ایسی صورت سے دوچار ہو اور اس کو شک گزرے کہ کچھ خارج ہوا ہے یا نہیں؟ تو وہ وضو کے لئے مسجد سے ہرگز نہ نکلے، جب تک کہ
آواز نہ سن لے یا ریح محسوس نہ کر لے۔ مسند احمد، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۷۲۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور جس طرح کوئی اپنے جانور کو کچوکے لگاتا ہے اسی طرح شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، جب وہ پرسکون ہو جاتا ہے تو شیطان اپنی لگام اور کڑوں کے ساتھ اس سے کھینتا ہے۔

مسند احمد، ابو الشیخ فی الثواب بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۷۳۔ جب تجھے یہ وسوسہ گزرے تو تو اپنی شہادت کی انگلی اپنی دائیں ران میں چھو دے اور: بسم اللہ کہہ لے، پس یہ شیطان کے لئے چھری ہے۔ الحکیم، البوردی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی الملیح عن ابیہ

۱۲۷۴۔ یوں مت کہہ: شیطان کاناس ہو، براہو۔ کیونکہ اس سے وہ شیخی میں آ کر پھول جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک کمرے کے بقدر پھول جاتا ہے۔ اور کہتا ہے میں نے اس کو اپنی قوت و طاقت کے بل بوتے زیر کر لیا۔ بلکہ اس کو اس کے بجائے بسم اللہ کہہ لینی چاہئے، کیونکہ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان حقیر و چھوٹا ہوتا ہوتا مثل مکھی کے ہو جاتا ہے۔

مسند احمد، السنن لأبی داؤد، النسائی، المسند لأبی یعلیٰ، البوردی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن السنی فی عمل الیوم واللیلہ، المستدرک للحاکم، الدار قطنی فی الأفراد، السنن لسعید، بروایت ابی الملیح عن ابیہ مسند احمد، البغوی، الصحیح لابن حبان، بروایت ابی تمیمہ الہجیمی عن رذیف النبی ﷺ

۱۲۷۵۔ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے استفسار کیا: اور آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اس پر اللہ نے میری مدد فرمادی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے۔

مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۲۷۶۔ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ اور نہ آپ؟ فرمایا ہاں نہ میں باقی بچا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمادی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے اور مجھے خیر کے سوا کوئی حکم نہیں کرتا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت المغیرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۷۷۔ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ شیطان نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ: اور آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا: ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اس پر اللہ نے میری مدد فرمادی ہے، وہ میرا مطیع ہو گیا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے عمل کے زور پر جنت میں داخل ہو جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ اور نہ آپ؟ فرمایا ہاں نہ میں، لیکن اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔

الصحیح لابن حبان، البغوی، ابن قانع، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت شریک بن طارق

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں شریک کی اس کے سوا کسی اور روایت سے واقف نہیں۔

۱۲۷۸۔ کوئی بھی بندہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ مخلوق خدا کے دوا طرف میں گھرا ہوتا ہے۔ مخلوق خدا اپنے ہاتھ پھیلائے منہ کھولے اس کی ہلاکت کی تاک میں ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے اس کی نگہبانی کے لئے حفاظتی فرشتے مقرر نہ کئے ہوتے تو مخلوق خدا اس کو ہلاک کر ڈالتی۔ نگہبان فرشتے مسلسل ان کو دفع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ عزوجل فرشتگان کو حفاظت کا حکم فرمادیتے ہیں، اور وہ ہر اس ہلاکت خیز بلاء و مصیبت کو اس سے نالتے رہتے ہیں جو لوح محفوظ میں اس کے مقدر میں لکھی ہوئی۔ لیکن جو مصیبت اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، اس کو فرشتے ہرگز دور نہیں کرتے۔ اگر ابن آدم ان شیاطین وغیر مرئی مخلوق کو دیکھ لے جو اس کو نقصان دہی کے درپے ہوتی ہیں تو یوں محسوس کرے گا جس طرح پہاڑوں وادیوں ہر جگہ میں کسی مردار پر کھینوں کے بھٹ کے بھٹ لے پڑے ہیں۔ الدیلمی بروایت ابن عمرو

۱۲۷۹۔ مؤمن کی نگہبانی کے لئے تین سو ساٹھ فرشتے مقرر ہوتے ہیں، جو اس سے ہر غیر مقدر بلاء و مصیبت کو ہٹاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے نو فرشتے آنکھ کی حفاظت کے لئے مقرر ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح اس کی حفاظت کرتے ہیں جس طرح گرمی کے دن شہد کے پیالہ سے مکھیوں کو بار بار دور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ ان دیکھی مخلوق تم پر ظاہر ہو جائے تو یوں محسوس کرو گے کہ پہاڑوں وادیوں ہر جگہ میں بلائیں اپنے ہاتھ

پھیلائے منہ کھولے اس کی ہلاکت کی تاک میں ہیں۔ اور اگر بندہ کو پلک جھپکنے تک اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو شیاطین اس کو اچک لیں۔

ابن ابی الدنیافی مکائد الشیطان، ابن قانع، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

شیطان وسوسے میں ڈالتا ہے

۱۲۸۰ شیطان مجھ پر آگ کے شرارے ڈال رہا تھا تا کہ میری نماز خراب کرے میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو مجھ سے چھوٹ نہ پاتا حتیٰ کہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ اور مدینہ کے بچے اس کو دیکھتے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المصنف لعبد الرزاق، مسند احمد، البواردی، السنن لسعید، بروایت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ
۱۲۸۱ شیطان نے نماز میں میرے سامنے سے گزرنا چاہا، میں نے اس کو گردن سے دبوچ لیا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کی زبان کی خنکی اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ اور اللہ کی قسم! اگر میرے بھائی سلیمان کی بات نہ ہوتی تو وہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھا ہوتا۔ اور مدینہ کے بچے اس کے گرد گھومتے۔ الدار قطنی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری و مسلم، بروایت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ

حضرت سلیمان کو جنوں پر حکومت حاصل تھی۔ اور انہوں نے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ اس وجہ سے حضور ﷺ نے انہیں جن کو نہ پکڑا کہ کہیں ان کی اس حکمرانی میں یک گونہ مجھے شرکت حاصل نہ ہو، یہ محض محبت اور قلبی تعلق کی خاطر آپ نے ایسا فرمایا۔

۱۲۸۲ دشمن خدا ابلیس میرے پاس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تا کہ میرے چہرے پر ڈال دے، میں نے تین بار کہا اعوذ باللہ منک پھر میں نے تین بار کہا: العنک بلعنة الله الناقمة۔ لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لوں لیکن اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ شیطان صبح کو جکڑا ملتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ الصحيح لمسلم، النسائی، بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۱۲۸۳ اس شیطان نے میرے قدموں پر آگ کا ایک شعلہ ڈال دیا تا کہ میری نماز فاسد کر دے، لیکن میں نے اس کو جھڑک دیا اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو وہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھا ہوتا۔ اور مدینہ کے بچے اس کے گرد گھومتے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ
پس منظر:..... حضور اکرم ﷺ صبح کی نماز پڑھاتے ہوئے سامنے کسی چیز کو دھنکارنے لگے، پھر نماز سے فراغت کے بعد ہمارے سوال کرنے پر مذکورہ ارشاد صادر فرمایا۔

۱۲۸۴ شیطان میرے پاس آیا اور مجھ سے بار بار مخاطبت کرنے لگا میں نے اس کو حلق سے پکڑ لیا۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں نے اس کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے اس کی زبان کی خنکی اپنے ہاتھ پر محسوس نہ کی۔ اور اللہ کی قسم! اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد میں پڑا ملتا۔ ابن ابی الدنیافی مکائد الشیطان عن الشعبي، مرسلًا

۱۲۸۵ کاش تم مجھے اور ابلیس کو دیکھ لیتے کہ میں نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور مسلسل اس کا گلا گھونٹتا رہا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کے تھوک کی خنکی اپنی ان دو انگلیوں پر محسوس کی۔ اگر میرے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ صبح کو جکڑا ملتا اور مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ پس اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کے اور قبلہ گئے درمیان نماز کے دوران کوئی نہ آئے تو وہ اس پر عمل کرے۔

مسند احمد، بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ
۱۲۸۶ شیطان نماز میں میرے سامنے سے گزرا، میں نے اس کو پکڑا اور گردن سے دبوچ لیا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کی زبان کی خنکی اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ اور وہ کہنے لگا! اوہ مار دیا، مار دیا۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کو مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ جکڑا ملتا اور مدینہ کے بچے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے۔ مسند احمد، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۲۸۷ شیطان میرے پاس آیا میں نے اس کو چھڑک دیا اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو وہ مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ بندھا ہوتا۔ اور مدینہ کے بچے اس کے گرد گھومتے۔ المستدرک للحاکم، بروایت عتبہ ابن مسعود

۱۲۸۸ میں صبح کی نماز کے لئے نکلا، مسجد کے دروازے پر مجھے شیطان ملا۔ اور مجھ سے مزاحم ہوا حتیٰ کہ میں نے اس کے بالوں کے لٹس کو محسوس کیا پھر میں نے اس پر قابو پالیا اور اس کا گلا گھونٹا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کی زبان کی خنکی اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی دعائے ہونی تو وہ صبح کو مقتول پڑا ملتا، لوگ اس کی طرف دیکھتے۔ عبد بن حمید وابن مردویہ بروایت ابی سعید

شیطان کا تاج پہنانا

۱۲۸۹ صبح کے وقت ابلیس اپنے لشکر کو بھیجتا ہے۔ کہتا ہے: جس نے آج کسی مسلمان کو گمراہ کیا ہوگا میں اس کو تاج پہناؤں گا۔ پس اس کے کارندے اس کے پاس اپنی سرگزشت لاتے ہیں، ایک کہتا ہے میں ایک شخص کو درغلانے میں مسلسل مصروف رہا۔ حتیٰ کہ بالآخر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ کوئی اہم کام سرانجام نہیں دیا ممکن ہے کہ یہ دوبارہ شادی کر لے۔ پھر دوسرا آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے آج میں مسلسل اس پر محنت میں مصروف رہا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنے والدین سے رشتہ توڑ لیا۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ کوئی اہم کام سرانجام نہیں دیا ممکن ہے کہ وہ پھر حسن سلوک کرنے لگ جائے۔ پھر ایک اور آگے آتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں بندے کے ساتھ مسلسل مصروف رہا حتیٰ کہ وہ شرک میں مبتلا ہو ہی گیا، شیطان کہتا ہے ہاں تو تو واقعی کوئی کام کر آیا ہے، پھر شیطان اس کو تاج پہناتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۱۲۹۰ ابلیس اپنے عرش کو سمندر پر بچھاتا ہے۔ اور اپنے گرد پیش پردے حائل کر لیتا ہے، یوں وہ اس ہیئت کے ساتھ اللہ عزوجل کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اپنے لشکر کو پھیلاتا ہے، اور پوچھتا ہے فلاں آدمی کو کون گمراہ کرے گا؟ دو شیطان کھڑے ہوتے ہیں، ابلیس ان کو کہتا ہے میں ایک سال کی تمہیں مہلت دیتا ہوں اگر تم نے اس کو گمراہ کر دیا تو میں تم سے تکلیف کو دور کر دوں گا ورنہ دونوں کو سولی چڑھا دوں گا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر بروایت ابی ریحانہ

فصل پنجم..... جاہلیت کے اخلاق اور حسب و نسب پر فخر کی مذمت

۱۲۹۱ جب تم کسی کو جاہلیت کی نسبتوں پر فخر و شجی جتلاتے دیکھو، اسے دور کر دو اور اس کو کسی کنیت کے ساتھ بھی مت پکارو۔

مسند احمد، النسائی، الصحيح لابن حبان، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الضیاء بروایت ابی شرح

کنیت عرب میں بطور عزت کے خطاب کے استعمال ہوتی تھی۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ ایسے شخص کو پکارنے سے منع کیا گیا۔

۱۲۹۲ جب تم کسی کو جاہلیت کی نسبتوں پر فخر و شجی جتلاتے دیکھو، اسے دور کر دو اور اس کو کسی کنیت جو عزت کا خطاب ہے، اس کے ساتھ بھی

مت پکارو۔ مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی

۱۲۹۳ جو شخص اپنی عزت و توقیر کی خاطر اپنے نو کا فر آباء کے ساتھ نسبت جتلاتے، وہ جہنم میں انہی کے ساتھ دسواں ہوگا۔

مسند احمد، السنن لأبی داؤد، بروایت ابی ریحانہ

علامہ پیشی فرماتے ہیں۔ مسند احمد کے رجال صحیح ہیں صحیح ۸ ص ۸۵

۱۲۹۴ اللہ نے تم سے جاہلیت کے تقاضا اور آباء و اجداد پر فخر و غرور کو دفع کر دیا ہے۔ مؤمن متقی ہو یا فاسق، شقی، تم سب آدم کے بیٹے ہو۔ اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہے۔ پس لوگوں کو اپنے قبیلوں پر فخر و غرور کرنا ترک کر دینا چاہئے۔ ایسے کفر کی حالت میں چلے جانے والے لوگ جہنم کے کونکے

ہیں۔ یا وہ، ان گہریلے جانوروں سے بھی زیادہ جو غلاظت و گندگی کو اپنی ناک سے سوگھتے پھرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ذلیل ترین ہیں۔

مسند احمد، السنن لأبی داؤد، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

شرح فحہم، کوئلہ الجعل الذی یدھدہ الخرابانفہ

یعنی وہ گہریلا کی مانند جانور جو گندگی میں منہ مارتا ہو۔ النہایہ فی غریب الحدیث ج ۱ ص ۲۷۷

۱۲۹۵۔ اتوام و قبائل والے اپنے مردہ آباء و اجداد پر فخر سے باز آ جائیں۔ ایسے کفر کی حالت میں چلے جانے والے لوگ جہنم کے کونکے ہیں۔ یا وہ، ان گہریلے جانوروں سے بھی زیادہ جو غلاظت و گندگی کو اپنی ناک سے سوگھتے پھرتے ہیں، اللہ کے نزدیک ذلیل ترین ہیں۔ اللہ نے تم سے جاہلیت کے تقاخر اور آباء و اجداد پر فخر و غرور کو دفع کر دیا ہے۔ مؤمن مفتی ہو یا فاسق شقی، سب آدم کے بیٹے ہیں۔ اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہے۔

الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۲۹۶۔ اے لوگو! اللہ نے تم سے جاہلیت کے تقاخر اور آباء و اجداد پر فخر کے ساتھ اپنی عظمت جتانے کو ختم فرما دیا ہے۔ سو تمام لوگ فقط دو قسموں پر منقسم ہیں: پارسا و متقی شخص، یہ اللہ کے ہاں باعزت و مکرم ہے۔ دوسرا فاسق و فاجر شخص، یہ اللہ کے ہاں پست مرتبہ ہے۔ اور سب انسان آدم کے فرزند ہیں۔ اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما۔

۱۲۹۷۔ عہد موسوی علیہ السلام میں دو شخصوں نے اپنا اپنا حسب و نسب بیان کیا، ایک نے کہا میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں، اس طرح اس نے سات پشتوں کو گنوا یا۔ اور دوسرے سے کہا: تو بتا تیری ماں گم ہو، تو کون ہے؟ دوسرے نے کہا میں فلاں ابن فلاں اسلام کا فرزند ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ ان کو ہوائے نوپشتوں تک اپنے نسب بیان کرنے والے تو تو انہی نوکے ساتھ جہنم میں دسواں بن کر جائے گا۔ اور اے دو پشتوں تک اپنے نسب پر اکتفاء کرنے والے تو جنت میں ان کا تیسرا ساتھی ہوگا۔

النسائی، شعب الإیمان، الضیاء بروایت ابی

عبداللہ بن احمد نے اس کو روایت کیا اس کے اصحاب روایت صحیح کے اصحاب ہیں سوائے یزید بن زیاد بن ابی الجحد کے، اور وہ بھی ثقہ راوی ہے۔

مصحح ج ۸ ص ۸۵

الاکمال

۱۲۹۸۔ عہد موسوی علیہ السلام میں دو شخصوں نے اپنا اپنا حسب و نسب بیان کیا، ایک کا فر تھا دوسرا مسلم تھا۔ کافر نے نو آباء تک اپنا نسب بیان کیا۔ مسلم نے کہا: میں فلاں ابن فلاں ہوں اور باقی سے اپنی برادرت کا اظہار کرتا ہوں۔ تو موسیٰ کا فر ستارہ منادی آ بیچا اور کہنے لگا: اے اپنے نسب بیان کرنے والو! تمہارے متعلق فیصلہ کر دیا گیا ہے، لہذا اے کافر! نو پشتوں تک اپنے نسب بیان کرنے والے تو تو انہی نوکے ساتھ جہنم میں دسواں بن کر جائے گا۔ اور اے مسلم! دو مسلم پشتوں تک اپنے نسب پر اکتفاء کرنے والے تو نے ان کے ماسوا سے برأت کا اظہار کیا تو جنت میں ان کا تیسرا ساتھی ہوگا۔ تو مسلم ہے اور باقی سے مبرا ہے۔ شعب الإیمان، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۱۲۹۹۔ عہد موسوی علیہ السلام میں دو شخصوں نے اپنا اپنا حسب و نسب بیان کیا، ایک کا فر تھا دوسرا مسلم تھا۔ کافر نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں اس طرح اس نے سات پشتوں کو گنوا یا۔ پھر دوسرے سے کہا: تو بتا تیری ماں گم ہو تو کون ہے؟ دوسرے نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں اور باقی سے اپنی برادرت کا اظہار کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں منادی کروائی اور ان کو جمع کیا، پھر فرمایا: تمہارے متعلق فیصلہ کر دیا گیا ہے، لہذا اے نو پشتوں تک اپنے نسب بیان کرنے والے تو جہنم میں ان کی دس کی تعداد پوری کرے گا۔ اور اے دباپوں تک اپنے نسب پر اکتفاء کرنے والے! تو اہل اسلام کا فرزند ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت معاذ رضی اللہ عنہ موقوف، رجال احد اسانید الطبرانی رجال الصحیح صحیح ج ۸ ص ۸۶

۱۳۰۰ تمہارے یہ انساب کسی کے لئے گالی اور برتری کی چیز نہیں ہیں۔ اے بنو آدم! تم ان پر صاع کی طرح ہو، اب تم اس کو ٹھرو۔ کسی کو کسی پر فوقیت و برتری حاصل نہیں، مگر تقویٰ و عمل صالح کے ساتھ۔ کسی کے برا و بد نسب ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ فاحش، ہزیان گو، بخیل اور بزدل ہو۔ مسند احمد، ابن جریر، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عقبہ بن عامر شرح، انتم بنو آدم کطف الصاع ان تملنوه اس کی وضاحت یہ ہے کہ ”طف الصاع“ ایسے صاع یعنی برتن کو کہتے ہیں جو بھرنے کے قریب تر ہو لیکن مکمل بھرا ہوا نہ ہو۔ تو مقصود یہ ہے کہ اے بنی آدم تم سب نسبت میں ان بھرے صاع کی طرح ایک باپ کی اولاد ہو یعنی ہم درجہ و ہم رتبہ ہو، اور باقی ماندہ صاع کو پر کرنا تمہارے اپنے اپنے عمل پر موقوف ہے۔ الفائق: ج ۲ ص ۳۶۲

۱۳۰۱ تمہارے یہ انساب کسی کے لئے گالی اور برتری کی چیز نہیں ہیں۔! تم سب بنو آدم ہو، اور بس۔ کسی کو کسی پر فوقیت و برتری حاصل نہیں، مگر دین و تقویٰ کی وجہ سے۔ کسی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ فاحش، ہزیان گو، بخیل ہو۔

شعب الإيمان، بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

۱۳۰۲ جو قبائل کے ساتھ اپنی فاخرانہ نسبت کرے، اس کو انہی کے ساتھ کر دو اور اس کو کنیت کے ساتھ مت پکارو۔ ابن ابی شیبہ، بروایت ابی

۱۳۰۳ جو جاہلیت کی نسبتوں پر فخر و شخی جتلائے، اسے دور کر دو اور اس کو کسی کنیت کے ساتھ بھی مت پکارو۔

مسند احمد، الصحیح لابن حبان، الرؤیانی فی الأفراد، بروایت ابی

۱۳۰۴ ایام جاہلیت میں مرجانے والے اپنے آباء پر فخر و گھمنڈ مت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایہ گندگی میں منہ مارنے والا گبر یلا کی مانند جانوران سے بدرجہا بہتر ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المصنف لعبدالرزاق، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۳۰۵ ایام جاہلیت میں مرجانے والے اپنے آباء پر فخر و گھمنڈ مت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایہ گندگی میں منہ مارنے والا گبر یلا کی مانند جانوران ایام جاہلیت میں مرجانے والوں سے بدرجہا بہتر ہے۔

ابوداؤد الطیالسی، مسند احمد، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

علامہ پیشی فرماتے ہیں مسند احمد کے رجال صحیح ہیں۔ معجج ج ۸ ص ۸۵

فصل ششم..... متفرقات کے بیان میں

۱۳۰۶ ہر نو مولود فطرتاً ہی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ بات چیت کرنے کے لائق ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ المسند لأبی یعلیٰ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بیہقی، بروایت الأسود ابن مسریع

۱۳۰۷ ہر نو مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ پوچھا گیا: اور اس سے قبل جو مر گئے؟ فرمایا: اللہ بہتر جانتا ہے، جس پر وہ عمل کرنے والے تھے۔

الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

شرح:..... یعنی جو بچے سن شعور تک پہنچنے سے قبل وفات پا گئے اور وہ کافروں کے بچے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اس معاملہ کو حضور ﷺ نے اللہ کے سپرد فرما دیا۔ اور یہی محتاط اور مناسب طریقہ ہے۔

۱۳۰۸ ہر نو مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح جانور در دست اعضاء والا بچہ جنتا ہے، کیا تم اس میں کوئی تک کٹایا کوئی اور عضو کٹا دیکھتے ہو؟ بخاری و مسلم، السنن لأبی داؤد، بروایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۳۰۹ کوئی زانی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی چور چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی شراب نوشی کرنے والا شراب نوشی

کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی قاتل قتل کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔

۱۳۱۰۔ مسند احمد، النسائی، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کوئی زانی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی شراب نوشی کرنے والا شراب نوشی کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی چور چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور کوئی ڈاکہ زن کسی اعلیٰ شے پر ڈاکہ ڈالتے وقت مؤمن نہیں ہوتا جب کہ لوگ اس کی طرف بے بس نظریں اٹھائے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مسند احمد، بخاری و مسلم، النسائی، ابن ماجہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

مسند احمد میں یہ اضافہ ہے کہ: اور کوئی خیانت کے وقت مؤمن نہیں ہوتا۔ سوا اجتناب کرو، اجتناب کرو۔

۱۳۱۱۔ کوئی زانی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی چور چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی شراب نوشی کرنے والا شراب نوشی کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ لیکن اس کے بعد توبہ پیش ہوتی ہے۔ الصحيح لمسلم، بروایت ابن ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۳۱۲۔ ایمان کی مثال تمیص کی سی ہے، جس کو کبھی زین تن کر لیا جاتا ہے اور کبھی اتار پھینکا جاتا ہے۔ ابن قانع بروایت معدان

نہایت ضعیف روایت ہے۔ المغیر ص ۱۲۲

۱۳۱۳۔ ایمان تمہارے شکم میں مثل بوسیدہ کپڑے کے پرانا ہو جاتا ہے، پس اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے قلوب میں ایمان کو تازہ کر دے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم بروایت، ابن عمر رضی اللہ عنہما

حدیث کی اسناد حسن ہے۔ معجم، ج ۱ ص ۵۲

۱۳۱۴۔ اللہ تعالیٰ نے ظلمت و تاریکی میں اپنی مخلوق پیدا فرمائی پھر ان پر اپنا نور ڈالا، سو جس کو وہ نور پہنچا ہدایت یاب ہو اور جو رہ گیا وہ گمراہ ہوا۔

مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۳۱۵۔ تم پچھلی خیر کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ مسند احمد، بخاری و مسلم، بروایت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ

شرح: یعنی زمانہ جاہلیت میں تم نے جو خیر کے امور سرانجام دیئے تھے ان کا ثواب تم کو حاصل ہوگا۔

۱۳۱۶۔ اگر مجھ پر دس یہودی ایمان لے آئیں تو تمام یہودی ایمان لے آئیں۔

الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

یہاں دس یہود سے ان کے علماء مراد ہیں دوسری روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اور اس سے یہودیوں کی ہمت دھرمی بیان کرنا مقصود ہے۔ اور درحقیقت حدیث مذکور قرآن کی اس آیت کی وضاحت و تفسیر ہے:

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ

یعنی اے نبی! تم مؤمنوں کے لئے سب سے سخت دشمن یہود کو پاؤ گے۔

۱۳۱۷۔ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی بات پہنچی مگر اس نے اس کی تصدیق نہ کی تو وہ اس کو حاصل نہ کر سکے گا۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۳۱۸۔ اللہ حکیم ہے۔ اور اسی کی طرف سب حکم لوٹتے ہیں۔

السنن لأبی داؤد، النسائی، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم، بروایت ہانی بن یزید

۱۳۱۹۔ ہر موجود اور اس کی ایجاد کا موجود صانع اللہ ہے۔

البخاری رحمۃ اللہ علیہ فی خلق افعال العباد المستدرک للحاکم، السیہقی فی الأسماء بروایت جزیفہ رضی اللہ عنہ

۱۳۲۰۔ تم سے قبل لوگوں کو اس طرح دین کے بارے میں ستایا جاتا کہ ایک شخص کو پکڑا جاتا اور زمین میں گڑھا کھود کر اس کے اندر اس کو ڈالا

جاتا اور اوپر سے سر پر آرا رکھ کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اس کے دین سے منحرف نہ کر سکتے تھے۔ اسی طرح لوہے کی کنگھیوں سے اس کے بدن کو چھلنی کرتے ہوئے اس کی ہڈیوں اور پٹھوں تک پہنچا دیتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اس کے دین سے منحرف نہ

کر سکتے تھے۔ اور اللہ کی قسم! یہ دین مکمل و تام ہو کر رہے گا حتیٰ کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک خدا کے سوا کسی اور کے خوف کو دامن گیر کئے بغیر چلا جائے گا اور بھیڑیے سے بکریوں کو امن ملے گا۔ لیکن تم عجلت باز ہو۔

مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، السنن لأبی داؤد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت خیاب رضی اللہ عنہ ۱۳۲۱ جاؤ اور پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرو اور ان کفر کے بالوں سے نجات حاصل کرو۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت واثلة رضی اللہ عنہ

۱۳۲۲ اپنے سے ان کفر کے بالوں کو دور کرو (اور سنت ختمہ کی ادائیگی کرو)۔ مسند احمد، السنن لأبی داؤد، بروایت ابی کلیب

الاکمال

۱۳۲۳ ایمان قیص کی طرح ہے، جس کو آدمی کبھی زیب تن کر لیتا ہے اور کبھی اتار پھینکتا ہے۔

الحکیم وابن مردویہ عن عتبہ بن عبد اللہ بن خالد بن معدان عن ابیہ عن جدہ

ضعیف روایت ہے۔ المغیر ص ۱۲۲۰

۱۳۲۴ کوئی بندہ زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا اور کوئی بندہ چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی شراب نوشی کرنے والا شراب نوشی کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی قاتل قتل کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔

الضعفاء للعقیلی رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد، النسائی، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور المصنف لعبد الرزاق نے اس کا اضافہ کیا ہے کہ کوئی ڈاکہ زنی کے وقت بھی مؤمن نہیں رہتا۔

۱۳۲۵ کوئی زانی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی چور چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی شراب نوشی کرنے والا شراب نوشی کے وقت

مؤمن نہیں رہتا۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا مسند البزار بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۳۲۶ کوئی آدمی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور کوئی آدمی شراب نوشی کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اس حالت میں ایمان اس سے سلب

کر لیا جاتا ہے۔ اور اس وقت تک نہیں لوٹتا جب تک کہ وہ توبہ کرے، پس اگر وہ توبہ کر لیتا ہے (تو پورا دگا اس کی توبہ قبول فرمالتے ہیں) اور ایمان

اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ الحلیہ، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

زنا کے وقت ایمان سلب ہو جانا

۱۳۲۷ کوئی آدمی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور کوئی آدمی چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور نہ کسی کی ذی شرف شی پر ڈاکہ ڈالتے وقت

مؤمن رہتا پس اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پورا دگا اس کی توبہ قبول فرمالتے ہیں۔ مسند البزار، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الخطیب، من طریق

عکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۳۲۸ کوئی زانی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی چور چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا، اور کوئی شراب نوشی کرنے والا شراب نوشی کے وقت

مؤمن نہیں رہتا۔ اس سے ایمان نکل جاتا ہے پس اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۳۲۹ کوئی چور چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور کوئی زانی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ ایمان اللہ کے ہاں اس سے بہت مکرم

و محرز ہے۔ مسند البزار بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۳۳۰ جس نے زنا کا ارتکاب کیا وہ ایمان سے نکل گیا۔ جس نے بغیر اکراہ و جبر کے شراب نوشی کی وہ ایمان سے نکل گیا۔ اور جس نے کسی اعلیٰ

شی پر ڈاکہ ڈالا حالانکہ لوگ اس کی طرف بے بس نظریں اٹھائے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایمان سے نکل گیا۔ ابن قانع عن شریک غیر منسوب ۱۳۳۱ مؤمن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنے احاطہ میں بندھا ہوا ہے۔ چکر لگاتا ہے پھر اپنے مرکز کی طرف عود کر آتا ہے۔ اسی طرح مؤمن بھول سے خطا کر بیٹھتا ہے، لیکن پھر ایمان کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ پس تم اپنا کھانا تفتی لوگوں اور معروف مؤمنین کو کھلایا کرو۔

ابن المصاریک، مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ، الصحيح لابن حبان، الحلیہ، شعب الإیمان، السنن لسعید، بروایت ابن سعید رضی اللہ عنہ ۱۳۳۲ مؤمن اور ایمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو اپنے احاطہ میں بندھا ہوا ہے۔ چکر لگاتا ہے پھر اپنے مرکز کی طرف عود کر آتا ہے۔ اسی طرح مؤمن کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن پھر ایمان کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ پس تم اپنا کھانا نیک، متقی لوگوں کو کھلایا کرو۔ اور اپنی نیکی و بھلائی کا رخ مؤمنین کی طرف خاص رکھا کرو۔ الراہب مزنی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

۱۳۳۳ کسی مؤمن کو اس کے ایمان سے کوئی گناہ نہیں نکال سکتا۔ اسی طرح کسی کافر کو کوئی احسان کفر سے نہیں نکال سکتا۔

الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۳۳۴ اے انسانو! اللہ سے ڈرو! صبر کا دامن تھامے رکھو! بے شک اللہ کی قسم! تم سے قبل کسی مؤمن کے سر پر آزار کھ کر دو گلے کر دیا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین سے منحرف نہ ہوتا تھا۔ سو اللہ سے ڈرو! وہی تمہارے لئے کشادگی فرما، تم سے قبل کسی مؤمن کے سر پر آزار کھ کر دو گلے کر دیا جاتا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم بروایت خیاب رضی اللہ عنہ

۱۳۳۵ جس نے کسی کھوٹ کے بغیر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت رکھی، اور مؤمنین سے ملا اور ان سے بھی سچی محبت رکھی اور امرِ جاہلیت یعنی کفر اس کے نزدیک آگ میں ڈالے جانے کی طرح ہو گیا تو یقیناً اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا یا فرمایا اس نے ایمان کی بلندی پائی۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت المقداد بن الأسود

ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے

۱۳۳۶ ہر بچہ ہونے والا بچہ ”خواہ کسی کافر کے ہاں جنم لے یا مسلم کے ہاں“ وہ فطرتاً ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو ان کے دین اصلی سے بھٹکاتے ہیں۔ پس یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ اور ان کو اللہ کے ساتھ ان باطل معبودان کو

شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں، جن کے لئے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ الحکیم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۳۳۷ ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنم دیتی ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ پس اگر ماں باپ مسلمان ہوں تو مولود بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اور ہر بچہ جب اس کی ماں اس کو جنم دیتی ہے تو اس کو شیطان شرمگاہ کے پاس بچو کے لگاتا ہے۔

سوائے مریم اور اس کے فرزند کے۔ شعب الإیمان، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۳۳۸ ہر مولود فطرتاً ہی جنم پاتا ہے۔ اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنادیتے ہیں، جیسے اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا تم اس میں کوئی ناک کاں کٹنا پاتے ہو؟ بلکہ تم خود ہی اس کا ناک یا کان وغیرہ کاٹ ڈالتے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! جو بچہ جنم ہی کی حالت میں وفات پا جائے اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔

مسند احمد، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۳۳۹ انسان کے افضل ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کو اس بات کا کامل یقین ہو جائے کہ وہ جہاں بھی ہو۔ اللہ اس کے ساتھ

ہر جگہ موجود ہے۔ شعب الإیمان، بروایت عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ

۱۳۴۰ بندہ کا افضل ایمان یہ ہے کہ اس کو اس بات کا کامل یقین ہو جائے کہ وہ جہاں بھی ہو، اللہ اس کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔

الحکیم، بروایت عباد بن الصامت رضی اللہ عنہ

۱۳۴۱ تم کچھلی خیر کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ المستدرک للحاکم بروایت عبادقبن الصامت رضی اللہ عنہ
شرح: یعنی زمانہ جاہلیت میں تم نے جو خیر کے امور سرانجام دیئے تھے ان کا ثواب تم کو حاصل ہوگا۔

۱۳۴۲ کچھلے اجر کے ساتھ تم مسلمان ہوئے ہو۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت صعصعہ بن ناحیہ

۱۳۴۳ اللہ عزوجل یہود پر اس بات سے شدت غضب میں آگئے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا۔ اور نصاریٰ پر اس وجہ سے
غضب نازل کیا کہ انہوں نے مسیح کو اللہ کا بیٹا گردانا۔ اور ان لوگوں پر اللہ شدید ترین غضبناک ہوئے جنہوں نے میرا خون بہایا اور میرے اہل کے
بارے میں مجھے ایذا پہنچائی۔ ابن النجار بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۳۴۴ اصنام جاہلیت میں سے سوائے ذوالخصہ کے اور کوئی بت باقی نہ رہا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت جریر
یہ اس زمانہ میں فارس کے شہروں میں پایا جاتا تھا۔

۱۳۴۵ ضرور بالضرور یہ امر اسلام جاری و ساری رہے گا جب تک کہ گردش لیل و نہار جاری ہے۔ اور اللہ عزوجل کسی پختہ اور ناپختہ مکان
کو نہ چھوڑے گا۔ بلکہ ہر گھر میں اس دین کو داخل فرمادیں گے۔ معزز کو اس کی عزت کے ساتھ، ذلیل کو اس کی ذلت کے ساتھ۔ یعنی اسلام
و مسلمین کو اس کے ساتھ عزت سے ہمکنار فرمائیں گے۔ اور کفر و کافرین کو اس کے ساتھ ذلیل و رسوا کریں گے۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید، بروایت تمیم رضی اللہ عنہ
۱۳۴۶ جو سر پر تلوار لٹکتے ہوئے اسلام لایا، اس شخص کا ہمسر نہیں ہو سکتا جو اپنی خوشی و رغبت کے ساتھ اسلام لایا۔

ابو نعیم بروایت انس رضی اللہ عنہ
۱۳۴۷ اگر علماء یہود میں سے دس افراد بھی مجھ پر ایمان لے آئیں تو روئے زمین کے تمام یہودی مجھ پر ایمان لے آئیں۔

مسند احمد، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۳۴۸ جس یہودی یا نصرانی نے میری بات سنی لیکن میری اتباع نہ کی (وہ جہنم میں جائے گا)۔

الدارقطنی فی الأفراد بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۱۳۴۹ میری امت میں سے کسی نے یا یہودی یا نصرانی نے میری بات سنی لیکن مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔

مسند احمد، ابن جریر، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
۱۳۵۰ تم میں سے کوئی کسی کو یوں نہ کہے کہ اس کو میرا دوست نہیں جانتا۔ جب تک کہ اس کو علم نہ ہو جائے کہ وہ مؤمن ہے۔

الدیلمی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
۱۳۵۱ اے برادر تنوخ! میں نے کسریٰ کو خط لکھا تھا، مگر اس نے اس کو پھاڑ ڈالا۔ اب اللہ اس کو اور اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔
اور میں نے شاہ نجاشی کو دعوت نامہ لکھا تھا اس نے بھی پھاڑ ڈالا۔ اللہ اس کو اور اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اور اے تنوخ! میں نے
تیرے ساتھی ہرقل کو بھی ایک دعوت نامہ لکھا تھا اور اس نے اس کو محفوظ رکھا۔ سو جب تک زندگی میں اچھائی کو اختیار کئے رکھے گا، لوگ مسلسل اس
سے جنگ کی حالت پائیں گے۔ مسند احمد، بروایت التنوخی قاصد ہرقل

حدیث میں جس نجاشی کا تذکرہ ہے یہ دوسرا نجاشی ہے اس سے پہلے والا نجاشی جس کا نام ”اصحہ“ تھا، حضور پر ایمان لے آیا تھا اسی نے
مسلمانوں کو پناہ میسر کی تھی اور اسی کی حضور نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی۔

۱۳۵۲ اے قتادہ میری کہتوں اور پانی سے غسل کرو اور زمانہ کفر کے یہ بال اترو آؤ۔ بروایت قتادہ الرھاوی

۱۳۵۳ میری کہتوں اور پانی سے غسل کرو اور اپنے سے کفر کے یہ بال منڈوا دو۔ الصغیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت واثلہ

۱۳۵۴ اے واثلہ! جاؤ اور کفر کے بال اپنے سے دھوؤ اور پانی و میری کہتوں سے غسل کر لو۔

تمام، ابن عساکر بروایت واثلہ رضی اللہ عنہ

کتاب الایمان و الإسلام من قسم الأقوال و الأفعال

چار ابواب پر مشتمل ہے۔

باب اول..... ایمان و اسلام کی حقیقت اور مجاز میں

یہ باب چار فصول پر مشتمل ہے۔

فصل اول..... ایمان کی حقیقت کے بیان میں

۱۳۵۵ از مسند عمر رضی اللہ عنہ یحییٰ بن یعمر، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر خدمت تھے، کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس کے جسم پر دو سفید کپڑے تھے۔ متناسب الاعضاء اور اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ اس نے آ کر آپ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں آپ کے قریب ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہو جاؤ قریب۔ تو وہ شخص قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب آ گیا کہ اس کے گھٹنے رسول اللہ ﷺ کے گھٹنوں سے آٹے۔ پھر اس کو وارد نے عرض کیا: کیا میں کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: کرو سوال۔ عرض کیا: مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے؟ فرمایا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس شخص نے عرض کیا: تو کیا میں ان افعال کی ادائیگی کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا؟ فرمایا: جی ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا: آپ نے سچ فرمایا۔ اس پر ہم کو تعجب پیدا ہوا کہ وہ شخص سائل ہونے کے باوجود جو کہ لاعلم ہوتا ہے تصدیق کر رہا ہے۔ گویا اس کو پہلے اس کا علم تھا۔ پھر اس شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ! مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ اور اس کے ملائکہ اور فرشتوں اور رسولوں اور بعثت بعد الموت پر ایمان لاؤ اور اس بات پر کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ سائل نے عرض کیا اگر میں ایسا کر لوں تو کیا میں مؤمن ہو جاؤں گا؟ فرمایا: جی ہاں۔ سائل نے پھر سوال کیا: مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجئے؟ فرمایا: اس کے متعلق مسئول کو سائل سے زیادہ علم نہیں ہے، یہ ان اشیاء خمسہ میں سے ہے، جن کا علم ماسوا اللہ کے کسی کو نہیں۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وہی بارش برساتا ہے، الخ۔ اس پر سائل نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ ابو داؤد الطیالسی

۱۳۵۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان نیت اور زبان سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ہجرت جان و مال کے ذریعہ ہوتی ہے۔ الدار قطنی فی الأفراف فرماتے ہیں کہ اس کی روایت میں ابو عصمہ نوح بن مریم متفرد ہے اور وہ کذاب ہے۔ لہذا اس روایت کا اعتبار نہیں۔

۱۳۵۷ محارب بن دثار حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم حضور ﷺ کے پاس حاضر خدمت تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک سفید لباس میں ملبوس، عمدہ خوشبو میں بسا ہوا شخص حاضر ہوا، اور اس نے آ کر اپنا ہاتھ حضور ﷺ کے گھٹنوں پر رکھ کر بیٹھے ہوئے کہا: ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ ﷺ؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب اللہ پر، اور انبیاء پر ایمان لاؤ۔ نیز جنت اور جہنم پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر اچھی اور بری برحق ہے۔ سائل نے عرض کیا اگر میں ایسا کر لوں تو کیا میں مؤمن ہو جاؤں گا؟ فرمایا: بالکل۔ سائل نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ اس پر ہم کو تعجب پیدا ہوا کہ وہ شخص سائل ہونے کے باوجود آپ کی تصدیق کر رہا ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، ماہ صیام کے روزے رکھو۔ جنابت سے غسل کرو۔ سائل نے عرض کیا: تو کیا میں ان افعال کی ادائیگی کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا؟ فرمایا: بالکل۔ سائل نے پھر سوال کیا:

احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا: تم اللہ کے لئے یوں عمل کرو، گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو۔ پس اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ سائل نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ پھر سوال کیا: وقوع قیامت کب ہوگا؟ فرمایا: اس کے متعلق مسؤل سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ سائل نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ پھر سائل منہ موڑ کر چل دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سائل کو میرے پاس حاضر کرو، اور اس کو تلاش کرو۔ لیکن اصحاب رسول اس پر قادر نہ ہو سکے۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: یہ جبرئیل علیہ السلام تھے۔ تمہیں تمہارا دین سمجھانے آئے تھے۔ اور سوائے اس مرتبہ کے، اس سے قبل جب بھی کسی صورت میں میرے پاس تشریف لائے میں نے ان کو پہچان لیا۔ رستہ فی الایمان

۱۳۵۸ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگوں کے ایک مجمع کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کے گرد پیش بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک ایسا شخص حاضر مجلس ہوا، جس پر نہ تو آخرا سفر تھے، اور نہ ہی وہ اہل شہر میں سے تھا۔ وہ اہل مجلس کو عبور کرتا رہا حتیٰ کہ عین رسول اکرم ﷺ کے سامنے آ کر دوڑا بیٹھ گیا، جس طرح ہم میں سے کوئی نماز میں بیٹھتا ہے۔ اور پھر اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ دیئے۔ پھر کہا: اے محمد! سلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: سلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو، کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج و عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، وضوء کو تام کرو، ماہ صیام کے روزے رکھو۔ سائل نے عرض کیا: تو کیا میں ان افعال کی ادائیگی کے بعد مسلمان ہو جاؤں گا؟ فرمایا: بالکل۔ سائل نے کہا: آپ نے سچ فرمایا اے محمد! پھر پوچھا: ایمان کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ۔ نیز جنت، جہنم اور میزان پر ایمان لاؤ، اور بعثت بعد الموت پر ایمان لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ سائل نے عرض کیا اگر میں ایسا کروں تو کیا میں مؤمن ہو جاؤں گا؟ فرمایا: جی۔ پھر کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ اللہ لکائی بخاری و مسلم فی البعث

۱۳۵۹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کے اخیر زمانہ میں ایک نوجوان سفید لباس میں لبوس آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اور آ کر استفسار کیا: آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا: بے شک۔ پھر اجازت طلب کی: کہ کیا میں آپ کے قریب ہو سکتا ہوں؟ فرمایا: قریب آ سکتے ہو! پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر رکھ دیئے۔ پھر اس نوجوان نے مکرر استفسار کیا: کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا: یقیناً۔ دوسرے یہ مکالمہ ہوا۔ پھر سائل نے سوال کیا: اسلام کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، وہ تمہا موجود ہے اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ صیام کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، پھر پوچھا: ایمان کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور یوم آخرت اور ہر طرح کی تقدیر پر ایمان لاؤ۔ پھر پوچھا: احسان کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، پس اگر تم نہیں دیکھ رہے، وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سائل نے عرض کیا اگر میں کیفیت کو پاؤں تو کیا میں محسن شمار ہوں گا؟ فرمایا: بالکل۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر ﷺ نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے سوال کیا: کیا آپ وہی آدم ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا؟ اور پھر آپ کو سجود ملائکہ بنایا؟ اگر آپ اس عصیان کا ارتکاب نہ فرماتے تو آپ کی اولاد میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہوتا! حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: کیا آپ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ جن کو اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے لئے منتخب فرمایا؟ اس کے باوجود تم مجھ پر ایسی چیز کے متعلق کیسے ملامت کر رہے ہو جبکہ اللہ نے اس کو میری پیدائش سے قبل میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ الغرض دونوں کا مناظرہ ہوا اور حضرت آدم، موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ابن جریر

۱۳۶۰ از مسند علی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا: جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تب سے ایمان یہی چلا آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ ہر قوم کے لئے اللہ کے ہاں سے جو شریعت اور طریقہ نازل ہوا ہے، سب برحق ہے۔ اور کوئی اقرار کنندہ اپنی شریعت کو چھوڑنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن غفلت و تساہل کی بناء پر اس کو ضائع کرنے والا ہو سکتا ہے۔ ابن جریر فی تفسیرہ

ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے

۱۳۶۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا: کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے سوال کیا: کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: قلبی معرفت، اقرار باللسان اور عمل بالاعضاء کا نام ہے۔ ابو عمرو بن حمدان فی فوائدہ

۱۳۶۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ ایمان زبان سے اقرار کرنے، دل میں یقین رکھنے اور اعضاء کے ساتھ عمل، بجالانے کا نام ہے۔ اور یہ گھٹنا و بڑھتا رہتا ہے۔ ابن مردودہ

اس کی اسنادی حیثیت ضعیف ہے۔

۱۳۶۳ از مسند علقمہ رضی اللہ عنہ ابن سوید بن علقمہ بن الحارث، ابی سلیمان الدارانی سے روایت کرتے ہیں، کہ ابوسلیمان الدارانی نے کہا میں نے علقمہ بن سوید بن علقمہ بن الحارث سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے جد امجد علقمہ بن الحارث سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، اور میں اپنی قوم کے حاضر ہونے والے دیگر افراد سمیت ساتواں شخص تھا، ہم نے حضور ﷺ کو سلام عرض کیا، آپ نے جواب مرحمت فرمایا۔ پھر ہم نے حضور سے گفتگو کی، آپ کو ہماری گفتگو خوشگوار گزری تو آپ نے پوچھا تم کون سے قبیلے کے لوگ ہو؟ ہم نے عرض کیا ہم مؤمن ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے اس قول ایمانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا: پندرہ باتیں اس قول کی حقیقت ہیں۔ پانچ کا آپ نے ہمیں حکم فرمایا تھا۔ اور دیگر پانچ ہمیں آپ کے قاصدوں کے ذریعہ معلوم ہوئیں۔ اور آخری پانچ وہ ہیں جن کے ساتھ ہم زمانہ جاہلیت میں متصف ہو گئے تھے۔ اور ہم اب تک ان باتوں پر عمل پیرا ہیں، واللہ یہ کہ آپ کسی کی ممانعت فرمادیں۔ آپ نے استفسار فرمایا: میری کبھی ہوئی پانچ باتیں کونسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا: آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ پر اور اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور پانچویں یہ کہ اچھی و بری تقدیر پر بھی ایمان لائیں۔ آپ نے فرمایا: اور وہ پانچ جو میرے قاصدوں نے کہیں۔ کونسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا: آپ کے قاصدوں نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ تنہا ہے اس کا کوئی سا جھی نہیں۔ اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور یہ کہ ہم فرض نماز قائم کریں۔ فرض زکوٰۃ ادا کریں۔ ماہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اور اگر جانے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کریں۔ آپ نے مزید استفسار فرمایا۔ اتنے ہوئے کہا اور وہ پانچ باتیں کونسی ہیں جن کو تم نے زمانہ جاہلیت میں اپنایا؟ ہم نے عرض کیا: فریخی کے وقت شکر کرنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا، ملاقات کے وقت سچ بولنا، قضاء الہی پر راضی رہنا اور دشمنوں پر مصیبت آن پڑے تو اس پر خوشی نہ کرنا۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ تو بڑے فقیہ و ادیب لوگ ہیں۔ ان خصال کو اپنانے سے ممکن ہے کہ نبوت کی فضیلت پالیں۔ پھر آپ ہماری طرف مسکراتے ہوئے متوجہ ہوئے اور فرمایا: میں مزید پانچ باتوں کی تم کو بطور خاص نصیحت کرتا ہوں! تاکہ اللہ تمہارے لئے خیر کی تمام خصلتیں مکمل فرمادے۔ جس چیز کو نہ کھانا ہوا سے جمع نہ کرو۔ جس جگہ رہائش اختیار نہ کرنی ہو اس کی تعمیر نہ کرو۔ جو چیز کہ کل کو تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مقابلہ بازی نہ کرو۔ اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم کو جانا ہے۔ اور اس میں رغبت و کوشش کرو، جس کی طرف تم کو کوچ کرنا ہے اور جہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ المستدرک للحاکم

۱۳۶۴ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ایک اعرابی کی صورت میں رسول اکرم ﷺ کے پاس تشریف لائے۔ رسول اکرم ﷺ اس صورت میں ان کو پہچان نہ سکے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا: اے محمد ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب اللہ پر، نبیوں پر اور بعثت بعد الموت پر ایمان لاؤ، نیز اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ جبرئیل علیہ السلام نے عرض کیا اگر میں ان پر ایمان لے آؤں تو کیا میں مؤمن ہو جاؤں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بالکل۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر استفسار کیا: اسلام کیا ہے؟ یہ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ بیت اللہ کا حج کرو۔ ماہِ وصیام کے

روزے رکھو۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا اگر میں ان کو بجالوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بالکل۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر استفسار کیا: احسان کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پس اگر یہ کیفیت نہیں حاصل ہوتی اور تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر جبرئیل علیہ السلام لوٹ گئے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی تلاش میں نکلے، مگر نہ پاسکے۔ پھر آپ نے فرمایا: یہ جبرئیل علیہ السلام تھے۔ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ بمطابق دوسری روایت کے، تمہیں تمہارا امر دین سکھانے آئے تھے۔ کبر

فصل دوم..... اسلام کی حقیقت کے بیان میں

۱۳۶۵ از مسند صدیق رضی اللہ عنہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما لوگوں کو اسلام سکھاتے تھے۔ اور فرماتے تھے اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی فرض کردہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو، کیونکہ اس کی کوتاہی میں ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اور اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ ادا کی زکوٰۃ کرو۔ ماہ رمضان کے روزے رکھو۔ اور جس کو خلافت سونپی گئی ہو، اس کی سنوا اور اطاعت کرو۔

المصنف لعبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، رستہ فقیہ الایمان، ابن جریر

۱۳۶۶ از مسند عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک اعرابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، اور کہا اے امیر المؤمنین! مجھے دین کی تعلیم دیجئے۔ آپ نے فرمایا: یہ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ بیت اللہ کا حج کرو۔ ماہ صیام کے روزے رکھو۔ اور تم ظاہر کے مکلف ہو، لہذا کسی کے اندرونی معاملات کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ اور ہر ایسی چیز کے اختیار کرنے سے اجتناب کرو جس سے حیا کی جاتی ہے۔ پھر اگر تم اللہ سے ملاقات کرو تو کہہ دینا مجھے ان باتوں کا عمر نے حکم دیا تھا۔

شعب الایمان، الاصبہانی فی الحجۃ

علاوہ بیہقی نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ کیونکہ حضرت حسن نے حضرت عمر کو نہیں پایا۔ سعید بن عبدالرحمن اُمی کے حوالہ سے آئندہ آنے والی مسند ابن عمر میں یہ حدیث اس مرسل مذکور سے زیادہ اصح ہے۔

۱۳۶۷ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان کی زیب و زینت چار اشیاء ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، جہاد اور امانت داری۔ ابن ابی شیبہ

۱۳۶۸ حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک اعرابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، اور کہا اے امیر المؤمنین! مجھے دین کی تعلیم دیجئے۔ آپ نے فرمایا: یہ کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ بیت اللہ کا حج کرو۔ ماہ صیام کے روزے رکھو۔ اور تم ظاہر کے مکلف ہو، لہذا کسی کے اندرونی معاملات کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ اور ہر ایسی چیز کے اختیار کرنے سے اجتناب کرو جس سے حیا کی جاتی ہے۔ پھر اگر تم اللہ سے ملاقات کرو تو کہہ دینا مجھے ان باتوں کا عمر نے حکم دیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے عبداللہ ان باتوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر جب پروردگار سے ملاقات ہو تو جو جی آئے کہو۔

الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الایمان، اللالکائی

ایمان کی مضبوطی چار چیزوں میں

۱۳۶۹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان کی مضبوطی چار اشیاء ہیں۔ اپنے وقت پر نماز قائم کرنا، نفس کی رضاء و رغبت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا اور عہد کی پاسداری کرنا۔ سو جس نے ان میں سے کسی کو ترک کر دیا اس نے اسلام کا ایک مضبوط کڑا چھوڑ دیا۔

ابو یعلیٰ الخلیلی فی جزء من حدیثہ

۱۳۷۰ از مسند علی رضی اللہ عنہ حضرت علی و حضرت ابو زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام کی بناء تین چیزوں پر ہے۔ اہل "لا الہ الا اللہ" سو تم کسی کلمہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہو۔ اور نہ ان پر شرک کرنے کی شہادت دو۔ اور نقادیر کے منجانب اللہ ہونے کی معرفت۔ خواہ اچھی ہوں یا بری۔ اور یہ کہ جب سے اللہ نے محمد کو مبعوث کیا۔ تب سے آخری مسلم جماعت تک جہاد جاری و ساری رہے گا۔ کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل اس کو گزند نہ پہنچا سکے گا۔ الاوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ علامہ طبرانی فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ثوری، ابن جریر اور ذاعی سے اسماعیل کے سوا کوئی اور روایت کرنے والا نہیں ہے۔

عن اسماعیل بن یحیی التیمی عن سفیان بن سعید عن الحارث عن علی وعن الأوزاعی عن یحیی بن ابی کثیر عن سعید بن المسیب عن علی وعن ابن جریج عن ابی الزبیر عن رسول اللہ ﷺ

۱۳۷۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان کے قائم ہونے کے تین سہارے ہیں۔ ایمان، نماز اور جماعت۔ پس کوئی نماز ایمان کے بغیر مقبول نہیں۔ پھر جس نے ایمان اختیار کیا، نماز ادا کی۔ اور جس نے نماز ادا کی، جماعت کے ساتھ شامل ہوا۔ اور جو جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا، اس نے اسلام کا فلاحہ اپنی گردن سے نکال پھینکا۔ ابن ابی شیبہ فی الإیمان، اللالکانی حدیث کے الفاظ "انما للإیمان ثلاثہ اثانی" کا ترجمہ کیا گیا ہے: ایمان کے قائم ہونے کے تین سہارے ہیں۔ اثانی اثنیۃ کی جمع ہے۔ اثانی چولہے کے تین کونے جن پر ہانڈی رکھی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اس کا ترجمہ سہارا کیا گیا ہے۔ مختار الصحاح ج ۱ ص ۳۶

۱۳۷۲ جناب حارث سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے روایت کی کہ: نماز ایمان کا ستون ہے۔ جہاد عمل کی کوہان ہے۔ اور زکوٰۃ اس کو پختہ کرتی ہے۔ یہ فرمان آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ابو نعیم فی عوالیہ

۱۳۷۳ از مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بوڑھا اعرابی، جس کو علقمہ بن علاشہ کہا جاتا تھا، نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ! میں ایک انتہائی بوڑھا آدمی ہوں اور قرآن سیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ لیکن اس بات کی عین یقین کے ساتھ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پھر جب وہ بوڑھا آپ کی خدمت سے اٹھ کر چلا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی فقیہ ہے، یا فرمایا تمہارا ساتھی فقیہ ہے۔ ابن عساکر

۱۳۷۴ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم کو حضور ﷺ سے زیادہ سوال کرنے سے ممانعت کی گئی تھی تو ہماری یہ خواہش ہوتی تھی، کہ آپ کے پاس کوئی دیہاتی شخص آ کر سوال کرے اور ہم بھی اسے سنیں۔ تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے محمد! ہمارے پاس تیرا ایک قاصد آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے سچ کہا ہے۔ دیہاتی نے پوچھا: آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے۔ دیہاتی نے پھر پوچھا: زمین کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا اللہ نے۔ پھر پوچھا: ان پہاڑوں کو ان کی جگہ کس نے نصب کیا؟ فرمایا اللہ نے۔ پوچھا: اس میں ان منافع کو کس نے رکھا؟ فرمایا اللہ نے۔ پھر دیہاتی نے کہا: پس آپ کو اس ذات کی قسم! اور اس کا واسطہ! جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا پہاڑوں کو نصب کیا اور ان میں منافع کو رکھا۔ کیا واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: بالکل۔ دیہاتی نے کہا: اور آپ کے قاصد کا خیال ہے کہ ہمارے دن و رات میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ فرمایا: اس نے سچ کہا۔ دیہاتی نے کہا: اور آپ کے قاصد کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم پر ایک سال میں ایک ماہ کے روزے فرض کئے گئے ہیں؟ فرمایا: اس نے سچ کہا۔ دیہاتی نے کہا: اور آپ کے قاصد کا یہ بھی خیال ہے کہ ہم پر ایک سال میں ایک ماہ کے روزے فرض کئے گئے ہیں؟ فرمایا: اس نے سچ کہا۔ دیہاتی نے کہا: اور آپ کو اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو مبعوث فرمایا: کیا واقعی اللہ نے اس کا آپ کو حکم فرمایا ہے؟ فرمایا بالکل۔ پھر دیہاتی نے کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا میں اس میں کچھ بھی کمی زیادتی نہ کروں گا۔ پھر جب دیہاتی چلا گیا تو آپ نے فرمایا: اگر اس نے سچ بولا ہے تو جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ مکور

۱۳۷۵ تم "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" کی شہادت دو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ مایام کے روزے رکھو۔ بیت اللہ کا حج کرو۔ لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتے ہو۔ اور لوگوں کے لئے بھی اس چیز سے کراہت کرو جس سے اپنی ذات کے

لئے کراہت کرتے ہو۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت جریر

پس منظر۔ ایک شخص نے آ کر حضور ﷺ سے اسلام کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے یہ جواب عنایت فرمایا۔

۱۳۷۶ از مسند جریر جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا: مجھے اسلام سکھائیے! آپ نے فرمایا تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ ماہ صیام کے روزے رکھو۔ بیت اللہ کا حج کرو۔ لوگوں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتے ہو۔ اور لوگوں کے لئے بھی اس چیز سے کراہت کرو جس سے اپنی ذات کے لئے کراہت کرتے ہو۔ ابن جریر

۱۳۷۷ از مسند حکیم بن معاویہ النعمیر می حکیم رضی اللہ عنہ بن معاویہ سے مروی ہے کہ وہ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہمارے رب نے آپ کو کس بات کے ساتھ مبعوث کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور ہر مسلمان کی جان و مال دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے۔ اے حکیم بن معاویہ یہ تیرا دین ہے۔ تو جہاں بھی ہو یہ تیرے لئے کافی ہے۔ ابو نعیم

دوسروں کے لئے وہی پسند کرو جو اپنے لئے پسند ہو

۱۳۷۸ از مسند سراقہ رضی اللہ عنہ بن مالک مغیرہ بن سعد بن الأخرم اپنے والد سے یا اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور ﷺ سے کچھ سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا، مجھے بتایا گیا کہ آپ میدان عرفات میں ہیں۔ میں آپ کے پاس پہنچا اور اونٹنی کی مہار میں نے تھام لی۔ آپ کے اصحاب یہ دیکھ کر مجھ پر چیخے! مگر آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو! معلوم ہو کہ اس کی کیا حاجت ہے؟ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب تر اور جہنم سے بعید تر کر دے؟ آپ نے فرمایا: گرچہ تو نے مختصر سی بات کہی ہے، مگر درحقیقت یہ بہت بڑی اور عظیم بات ہے۔ پھر آپ نے کچھ سکوت اختیار کیا اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ صیام کے روزے رکھو۔ لوگوں کے لئے بھی وہی پسند کرو جو لوگوں سے اپنے لئے چاہتے ہو۔ اور جو بات کہ لوگوں سے اپنے لئے ناپسند کرتے ہو لوگوں کے لئے بھی اس کو چھوڑ دو۔ اب ناقہ کی زمام چھوڑ دو۔ ابن جریر

۱۳۷۹ از مسند عبد اللہ بن الشخیر عبد اللہ بن عامر الشنقیف سے مروی ہے کہ مجھے رسول اکرم ﷺ کے متعلق خبر ملی تو میں آپ کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے مجھے کہا کہ آپ ﷺ وادی منیٰ میں ہیں یا میدان عرفات میں۔ میں آپ کے پاس پہنچا اور آپ کی سواری کی کیبل میں نے تھام لی۔ پھر میں نے کہا میں آپ سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا! یہ کہ مجھے کیا چیز جہنم سے نجات دلائے گی اور کیا چیز جنت میں دخول کا سبب بنے گی۔ پھر آپ ﷺ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا: گرچہ تو نے مختصر سی بات کہی ہے، مگر درحقیقت یہ بہت بڑی اور عظیم بات ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو۔ فریض زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ اور لوگوں کا جو سلوک اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی ان کے ساتھ بھی کرو۔ اور جو بات کہ لوگوں سے اپنے لئے ناپسند کرتے ہو لوگوں کے لئے بھی اس کو چھوڑ دو۔

اب سواری کا راستہ چھوڑ دو۔ الدیلیمی

۱۳۸۰ از مسند ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: دین پانچ اشیاء کا نام ہے۔ ان میں سے اللہ کسی کو دوسری کے بغیر قبول نہ فرمائیں گے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اور اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور جنت و جہنم پر اور اس موت کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ یہ ایک چیز ہوئی۔ اور دوسری نماز ہے اور سچ گانہ نماز اسلام کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو نماز و زکوٰۃ جو تیسرا رکن ہے کے بغیر قبول نہ فرمائیں گے۔ اور جس نے ان کو انجام دیا لیکن رمضان کے روزے جو چوتھا رکن ہے عمداً چھوڑ دیئے، تب بھی اللہ ایمان کو قبول نہ فرمائیں گے۔

اور جس نے ان چاروں اشیاء کو انجام دیا اور اس کے لئے حج کی کشادگی میسر ہوئی لیکن اس نے حج نہیں کیا اور نہ اس کی طرف سے اس کے اہل نے حج بدل کیا، تو اللہ اس کے ایمان کو قبول فرمائیں گے اور نہ نماز کو، اور نہ ہی زکوٰۃ اور روزوں کو قبول فرمائیں گے۔ آگاہ رہو۔ حج اللہ کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور اللہ فریضوں میں سے کسی کو کسی کے بغیر قبول نہ فرمائیں گے۔ ابن جریر اس کی اسنادی حیثیت ضعیف ہے۔

۱۳۸۱ از مسند عبد الرحمن بن غنم الأشعری عبد الرحمن بن غنم سے مروی ہے، وہ آپ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جبرئیل علیہ السلام اس صورت میں تشریف لائے جس میں آپ پہلے سے ان کو پہچانتے نہ تھے۔ اور انہوں نے آ کر آپ ﷺ کے گھٹنوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اور کہا یا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اپنی ذات اللہ کے سپرد کرو۔ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی شہادت دو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا اگر میں ان کو بجلاؤں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بالکل۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے حج فرمایا۔ پھر استفسار کیا: ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتاب اللہ پر، انبیاء پر، مہمات پر اور حیات بعد المہمات پر، ایمان لاؤ۔ نیز حساب کتاب پر، میزان پر اور جنت و جہنم پر ایمان لاؤ۔ اور ہر پھل و بری نقد پر ایمان لاؤ۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا اگر میں یہ کر لوں تو کیا میں مؤمن ہو جاؤں گا؟ فرمایا جی۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے حج فرمایا۔ پھر استفسار کیا: احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ سے یوں ڈرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا آپ نے حج فرمایا۔ پھر استفسار کیا: قیامت کب واقع ہوگی یا رسول اللہ؟ فرمایا سبحان اللہ! سبحان اللہ! غیب کی پانچ باتوں کو اللہ کے ماسوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس بارے میں جس سے سوال کیا گیا ہے وہ خود سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔

ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى

نفس بأى ارض تموت

”بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وہی بارش نازل کرتا ہے۔ اور رحموں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے۔ اور کل آئندہ کو کوئی جی کیا کمانے والا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اور کوئی جی نہیں جانتا کہ اس کی کہاں موت آئے گی۔“

اور اگر تم قبل از قیامت کے متعلق کچھ جاننا چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی کیا علامات ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جب باندی اپنی مالکہ کو جنم دینے لگے، اور عمارتیں فلک بوس ہونے لگیں، اور تو ننگے پاؤں والے فقیر لوگوں کو دیکھے کہ وہ لوگوں کی گردنوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ لیکن پھر وہ سائل شخص منہ موڑ کر چلا گیا آپ ﷺ نے پوچھا سائل کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا: ہم پھر اس کا راستہ نہیں پاسکے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ جبرئیل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور جب بھی وہ میرے پاس آئے میں نے ان کو پہچان لیا سوائے آج کی اس صورت کے۔ ابن عساکر

قیامت کے روز ہر سے سوال ہوگا

۱۳۸۲ از مسند معاویہ بن حبیہ بن ہزیم بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کے پاس اپنی ان انگلیوں کے شمار برابر قسم اٹھا کر آیا ہوں، اس بات پر کہ میں آپ کی اتباع کروں گا اور نہ آپ کے دین کی اتباع کروں گا، کیونکہ آپ ایسی بات لائے ہیں جو میں نہیں سمجھ سکا سوائے اس کے اب اللہ اور اس کا رسول جو کچھ سکھادیں۔ پس اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے رب نے کس بات کے ساتھ تجھ کو مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا اسلام کے ساتھ۔ میں نے کہا اسلام کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی شہادت دو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ شرک سے قطعاً جدا ہو جاؤ، اور ہر مسلمان کی جان و مال دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے۔ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ باہم

مددگار ہیں۔ جس نے اسلام کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ فرمائیں گے۔ اور میرا رب مجھے بلانے والا ہے۔ پھر مجھ سے سوال کرے گا کہ میرے بندوں کو دعوت پہنچادی یا نہیں؟ پس تم میں سے حاضرین غائبین کو یہ دعوت پہنچادیں۔ اور تم قیامت کے روز مونہوں پر تہر لگے ہوئے بلائے جاؤ گے۔ پس سب سے پہلے جو کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ران اور ہاتھ ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ! کیا یہ ہمارا دین ہے؟ فرمایا ہاں اور تم جہاں ہو گے یہ تمہیں کافی ہوگا۔ اور تم اس حالت میں جمع کئے جاؤ گے کہ کچھ تم میں سے مونہوں کے بل آئیں گے اور کچھ قدموں پر اور کچھ سوار ہو کر آئیں گے۔ شعب الایمان

۱۳۸۳ عروۃ بن رویم، معاویہ بن حکیم القشیری سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور کہا: قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور دین برحق کے ساتھ مبعوث کیا کہ میں آپ تک اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ اپنی قوم کو ان دونوں ہاتھ کی انگلیوں کے شمار برابر حلف نہیں دیا کہ میں آپ کی اتباع کروں گا اور نہ آپ پر ایمان لاؤں گا، اور آپ کی تصدیق بھی نہ کروں گا۔ سو میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ اللہ نے آپ کو کس بات کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اسلام کے ساتھ۔ میں نے پوچھا: اسلام کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اپنی ذات اللہ کے سپرد کرو۔ اس کے لئے اپنے نفس کو فارغ کرلو۔ پوچھا پھر ہماری ازواج کا ہم پر کیا حق ہے؟ فرمایا جب تم کو کھانا ملے تو ان کو بھی کھلاؤ اور جب تمہیں پہننے کو ملے تو انہیں بھی پہناؤ۔ چہرے پر نہ مارو۔ برا بھلا نہ کہو اور ان سے جدائی گھر سے باہر نہ کرو۔ جبکہ تم ان سے صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد و امان بھی لے چکی ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے شام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: تم وہاں سوار، پیدل اور مہر زدہ چروں کے بل پیش کئے جاؤ گے۔ اور اول چیز جو کلام کرے گی وہ اس کی ران ہوگی۔ کورد

۱۳۸۴ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب فرماتے تھے کہ اسلام کے مضبوط کڑے لا الہ الا اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ کے قائم کردہ مسلمان حاکم کی اطاعت کرنا۔ رستہ فی الایمان

۱۳۸۵ سوید بن جحیر سے مروی ہے کہ میں آپ ﷺ سے عرفہ و مزدلفہ کے درمیان ملا تو میں نے آپ کی ناقہ کی ٹیکل تھام لی اور کہا مجھے ایسا عمل بتادیتے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے؟ فرمایا: اگرچہ تو نے مختصر سی بات کہی ہے، مگر درحقیقت یہ بہت بڑی اور عظیم بات ہے۔ فرض نماز قائم کرو۔ فریضہ زکوٰۃ ادا کرو۔ بیت اللہ کا حج کرو۔ اور لوگوں کا جو سلوک اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی ان کے ساتھ بھی کرو۔ اور جو بات کہ لوگوں سے اپنے لئے ناپسند کرتے ہو لوگوں کے لئے بھی اس کو چھوڑ دو۔ اب ناقہ کی لگام چھوڑ دو۔ ابن جریر

فصل سوم ایمان کے مجازی معنی اور حصوں کے بیان میں

۱۳۸۶ از مسند عمر رضی اللہ عنہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ اور کہا کہ اللہ کی قسم! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ذات سے اس کے اہل سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان اور میرے اہل سے زیادہ محبوب ہیں۔ المدنی و رستہ فی الایمان

۱۳۸۷ از مسند علی رضی اللہ عنہ علاء بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان چار ستونوں پر قائم ہے، صبر، عدل، یقین اور جہاد۔ شعب الایمان

۱۳۸۸ قبیض بن جابر الاسدی سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان چار ستونوں پر قائم ہے، صبر یقین، جہاد اور عدل۔ پھر صبر کے چار شعبے ہیں، شوق، خوف، زہد اور انتظار۔ جو جنت کا مشتاق ہو وہ شہوتوں سے کنارہ کش ہو گیا۔ اور جس کو جہنم کا خوف دامن گیر ہو وہ حمرات کے ارتکاب سے باز آ گیا۔ اور جس نے دنیا کی حقیقت کو دیکھ لیا اس پر دنیا کے مصائب آسان ہو گئے۔ اور یہی زہد ہے۔ اور جو موت کا منتظر ہوا، امور خیر کی طرف سرعت سے رواں ہوا۔

اور یقین کے بھی چار شعبے ہیں، ذہانت میں غور و فکر کرنا، دانائی و حکمت کو سمجھنا، عبرت انگیزی اختیار کرنا، اگلے لوگوں کی سنت اپنانا۔ سو جس نے ذہانت میں غور و تدبر سے کام لیا، حکمت و دانائی کو جان گیا۔ اور جس نے حکمت و دانائی کو پالیا اس نے عبرت حاصل کر لی۔ اور جس نے عبرت حاصل کر لی وہ درحقیقت اولین میں شمار ہے۔ اور عدل کے بھی چار شعبے ہیں، تعمق فہم، رونق علم، شریعت حکم، روضہ حلم۔ سو جس نے تعمق فہم سے کام لیا، اس نے جمیع علوم کی تفسیر کر لی۔ اور جس نے علم کو جان لیا، اس نے احکام شرائع کی معرفت حاصل کر لی۔ اور جو احکام شریعت پر مستحکم ہوا، اس نے دین میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور وہ لوگوں میں بھی راحت و فراخی کے ساتھ جی سکے گا۔ اور جہاد کے بھی چار شعبے ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ہر کام میں سچائی اور فاسقین کے فسق سے بغض۔ سو جس نے معروف و منکر کا حکم دیا، اس نے مؤمن کی پشت پناہی کی۔ اور جس نے منکر و شنیع بات سے منع کیا، اس نے منافق کی ناک مٹی میں ملادی۔ اور جس نے ہر کام میں سچائی اختیار کی، اپنے پر پڑنے والی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوا۔ اور جس نے فاسقین سے ان کے فسق کی وجہ سے بغض رکھا، اور اللہ ہی کے لئے غضب آلود ہوا، اللہ اس کے لئے غضب ناک ہوا۔ اس کے بعد سائل کھڑا ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو بوسہ دیا۔

ابن ابی الدنيا في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، اللالكاني، كوز

اسلام کی بنیاد چار چیزوں پر

۱۳۸۹ خلاص بن عمرو سے مروی ہے فرمایا کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے پاس خزاعہ قبیلہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین! کیا آپ نے رسول اکرم ﷺ سے اسلام کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا اسلام کی بناء چار چیزوں پر ہے، صبر، یقین، جہاد اور عدل۔ پھر صبر کے چار شعبے ہیں، شوق، خوف، زہد اور انتظار۔ جو حنت کا مشتاق ہو اور شہوتوں سے کنارہ کش ہو گیا۔ اور جس کو جہنم کا خوف دامن گیر ہو اور محرمات کے ارتکاب سے باز آ گیا۔ اور جس نے دنیا کی حقیقت کو دیکھ لیا اس پر دنیا کے مصائب آسان ہو گئے۔ اور یہی زہد ہے۔ اور جو موت کا منتظر ہوا، امور خیر کی طرف سرعت رواں ہوا۔

اور یقین کے بھی چار شعبے ہیں، ذہانت میں غور و فکر کرنا، دانائی و حکمت کو سمجھنا، عبرت انگیزی اختیار کرنا، اگلے لوگوں کی سنت اپنانا۔ سو جس نے ذہانت میں غور و تدبر سے کام لیا، حکمت و دانائی کو جان گیا۔ اور جس نے حکمت و دانائی کو پالیا اس نے عبرت حاصل کر لی۔ اور جس نے عبرت حاصل کر لی سنت کا تتبع ہو گیا۔ اور جس نے سنت کی اتباع کر لی وہ درحقیقت اولین میں شمار ہے۔ اور جہاد کے بھی چار شعبے ہیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ہر کام میں سچائی اور فاسقین کے فسق سے بغض۔ سو جس نے معروف و منکر کا حکم دیا، اس نے مؤمن کی پشت پناہی کی۔ اور جس نے منکر و شنیع بات سے منع کیا، اس نے منافق کی ناک مٹی میں ملادی۔ اور جس نے ہر کام میں سچائی اختیار کی، اپنے پر پڑنے والی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوا اور اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی۔ اور جس نے فاسقین سے ان کے فسق کی وجہ سے بغض رکھا، اور اللہ ہی کے لئے غضب آلود ہوا، اللہ اس کے لئے غضب ناک ہوا۔ عدل کے بھی چار شعبے ہیں گہری سوچ و بچار، علم کی فراوانی، احکام سے متعلق شریعت اور حلم و بردباری کی شادابی۔ سو جس نے گہرے غور و تدبر سے کام لیا اس نے جہل و لائیل کی وضاحت حاصل کر لی۔ اور جس نے ذخیرہ علم کا محفوظ کر لیا، اس نے احکام سے متعلق شریعت کو جان لیا۔ اور جو حلم و بردباری کے شاداب باغ میں اترا وہ دین میں کامل رہا اور وہ لوگوں میں بھی ہنسی خوشی بسر کرے گا۔ اللہ علیہ

فرمایا کہ خلاص بن عمرو نے اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اور حارث نے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً و مختصراً روایت کیا ہے۔ اور قبیصہ بن جابر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے قول سے روایت کیا ہے۔ اور علاء بن عبد الرحمن نے بھی حضرت علی سے اپنے قول کے ساتھ روایت کیا ہے۔

۱۳۹۰ از مسند ایاس بن سہل الجعفی رحمۃ اللہ علیہ ایاس بن سہل الجعفی سے روایت ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے

نبی! کونسا ایمان افضل ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ کے لئے محبت کرو اور اللہ ہی کے لئے نفرت رکھو۔ اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تروتازہ رکھو۔ ابن مندہ، ابو نعیم ایاس بن ہبل اجنبی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض متاخرین نے صحابہ کرام میں شمار کیا ہے۔ لیکن بندہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ تابعین میں سے ہیں۔

۱۳۹۱ از مسند براء بن عازب رضی اللہ عنہ براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ ایمان کا کونسا کڑا مضبوط ترین ہے؟ فرمایا اللہ ہی کے لئے محبت اور اللہ ہی کے لئے نفرت۔ شعب الایمان

۱۳۹۲ از مسند جابر رضی اللہ عنہ محمد بن منکدر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: صبر و سخاوت۔ المسند لأبی یعلیٰ، شعب الایمان

۱۳۹۳ حضرت حسن، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا: صبر و سخاوت۔ المسند لأبی یعلیٰ، شعب الایمان

۱۳۹۴ حضرت حسن ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ایمان صبر و سخاوت کا نام ہے اور صبر اللہ کے محرمات سے اجتناب کرنا اور فراغ الہی کی ادائیگی کرنا۔ شعب الایمان

۱۳۹۵ از مسند ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا بتاؤ ایمان کا مضبوط ترین کڑا کونسا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ ہی کے لئے دوستی کا رشتہ استوار کرنا، اور اللہ ہی کے لئے کسی سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لئے کسی سے نفرت کرنا۔ شعب الایمان

۱۳۹۶ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ ہی کے لئے دشمنی مولو اور اللہ ہی کے لئے دوستی رکھو۔ کیونکہ ولایت الہی اس کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور کوئی شخص ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا خواہ نماز روزوں کی کتنی ہی کثرت کر لے۔ جب تک کہ وہ اس بات کو نہ پالے یعنی اللہ ہی کے لئے دشمنی و دوستی۔ شعب الایمان

۱۳۹۷ از مسند عمار رضی اللہ عنہ فرمایا جس میں تین خصائل پیدا ہو گئے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا یا فرمایا تین باتیں ایمان کی تکمیل ہیں، تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کرنا، اپنی جان سے انصاف کرنا، عالم کو سلام کرنا۔ ابن جریر

خرچ کرنے کا مصرف عام ہے خواہ اہل و عیال پر کیا جائے یا کسی مفلس و تنگ دست پر۔ علامہ نووی فرماتے ہیں یہاں اگر عالم کو سلام کی تاکید ہے تو دوسرے مقام پر آیا ہے کہ سلام کرو ہر مسلمان شخص کو خواہ اس سے تعارف ہو یا نہیں۔ اور سلام کو خوب رواج دو۔ اور یہی چیز یا ہی فسادات کا قلع قمع کرنے والی بھی ہے۔

اور اپنے نفس سے انصاف کرو۔ اس ارشاد نبوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے جو حقوق متعلق ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی مت کرو، خواہ خالق خداوندی کے حقوق ہوں یا بندگان خالق کے، سب کو کمال ادا کرو۔ اور اپنے نفوس پر زائد از طاقت بوجھ ڈالنے سے بھی گریز کرو۔ نیز اپنے لئے ایسا دعویٰ نہ کرو جس کے تم حامل نہیں۔

۱۳۹۸ از مسند عمار رضی اللہ عنہ فرمایا جس میں تین خصائل پیدا ہو گئے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، تنگ دستی میں بھی خرچ کرنا یعنی اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے خرچ کرنا، اور اپنی جان سے انصاف کرنا۔ مثلاً کسی کو سلطان وقت کے پاس اس وقت تک نہ لے جائے جب تک کہ خود اس کو قصور وار نہ گردان لے، اور عالم کو سلام کرنا۔ ابن جریر

۱۳۹۹ حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا تین باتیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جس نے ان کو جمع کر لیا اس نے یقیناً ایمان کو جمع کر لیا۔ تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کرنا۔ ۳۱۱ بات پر اعتماد رکھتے ہوئے کہ اللہ اس کا عمدہ بدل ضرور دے گا۔ اور اپنی جان سے انصاف کرنا (مثلاً لوگوں کو قاضی کے پاس بغیر جرم کے نہ کھینچنا)۔ اور عالم کو سلام کرنا۔ کورد

۱۴۰۰ از مسند عمیر بن قنادہ اللہی۔ عبد اللہ بن عبید اللہی سے مروی ہے وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ دریں اثناء

کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور استفسار کیا کہ یا رسول اللہ! ایمان کیا ہے؟ فرمایا: صبر و سخاوت۔ استفسار کیا یا رسول اللہ! کونسا اسلام افضل ہے؟ فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاء سے مسلمان محفوظ رہیں۔ استفسار کیا یا رسول اللہ! کونسی ہجرت افضل ہے؟ فرمایا: جو برائیوں سے ہجرت یعنی کنارہ کشی کر لے۔ استفسار کیا یا رسول اللہ! کونسا جہاد افضل ہے؟ فرمایا: جس میں خون بہہ بڑے اور گھوڑا زخمی ہو جائے۔ استفسار کیا یا رسول اللہ! کونسا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: کم میں سے بھی خرچ کرنا۔ استفسار کیا یا رسول اللہ! کونسی نماز افضل ہے؟ فرمایا: جس میں قیام طویل ہو۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان

۱۴۰۱۔ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا ایمان کی بلندی چار چیزوں میں ہے: حکم الہی پر صابر رہنا، قضاء پر راضی رہنا، توکل میں اخلاص رکھنا اور رب کے آگے جھکا رہنا۔ ابن عساکر

۱۴۰۲۔ حضرت ابو زین کبیتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا:

تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانو! اور تمہارے نزدیک اللہ اور اس کا رسول ان کے ماسوا ہر ایک سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور تمہیں آگ میں جل جانا اس سے کہیں زیادہ محبوب ہو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اور کسی سے بھی خواہ وہ غیر صاحب نسب ہو، اللہ ہی کے لئے محبت کرو۔ پس جب تم اس حال کو پہنچ جاؤ گے تو یقیناً ایمان تمہارے دل میں یوں داخل ہو جائے، جس طرح کہ تپتے دن میں پیاسے کو پانی کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے۔ ابن عساکر

۱۴۰۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کونسا ایمان افضل ہے؟ فرمایا اللہ پر ایمان لانا پوچھا گیا پھر کیا افضل ہے؟ فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ۔ پوچھا گیا پھر کیا؟ فرمایا گناہوں سے پاک حج۔ النسائی ۱

فصل چہارم..... شہادتین کی فضیلت میں

۱۴۰۲۔ از مسند صدیق رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب رسول ﷺ حضور ﷺ کی وفات پر سخت غمزدہ اور افسوسناک تھے حتیٰ کہ لوگ طرح طرح کے وسوسے کا شکار ہو رہے تھے۔ میں بھی انہی میں سے تھا۔ میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ نے اپنے نبی کو اٹھالیا اور میں اس دین کی نجات کے متعلق سوال نہ کر سکا! ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس بارے میں سوال کر چکا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جس نے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا لیکن انہوں نے انکار فرمایا تھا۔ پس وہی اس دین کی نجات ہے۔

ابن سعد، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ فی الأفراد، الضعفاء للعقیلی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان، السنن لسعید ۱۴۰۵۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے دل میں یہ تمنا اٹھی کہ کاش میں نے آپ ﷺ سے سوال کر لیا ہوتا کہ شیطان ہمارے دلوں میں جو سوسے ڈالتا ہے اس کے لئے کیا چیز نجات دہندہ ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس بارے میں آپ سے پوچھ چکا ہوں! آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی نجات یہ ہے کہ تم وہی کلمہ کہو۔ جس کا میں نے اپنے چچا کو ان کی موت کے وقت حکم دیا تھا، کہ اس کو کہہ لیں مگر انہوں نے نہیں کیا۔ مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ، السنن لسعید

۱۴۰۶۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس بات کی نجات کس چیز میں ہے جس میں ہم ہیں؟ فرمایا: جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دیدی یہی اس کے لئے نجات ثابت ہوگا۔

المسند لأبی یعلیٰ، ابن منیع، الضعفاء للعقیلی رحمۃ اللہ علیہ، الدار قطنی فی الأفراد

۱۴۰۷۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے آپ ﷺ نے حکم فرمایا کہ نکل کر جاؤ اور لوگوں میں منادی کرو کہ جس نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے لئے جنت واجب ہوگی! میں نکلا تو مجھے عمر رضی اللہ عنہ ملے اور مجھ سے سوال کیا تو میں نے خبر دیدی لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ﷺ کے پاس واپس جائیں اور آپ ﷺ سے کہیں کہ لوگوں کو نکل کرنے دیجئے، کیونکہ مجھے خوف

ہے کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے۔ میں حضور ﷺ کے پاس واپس آیا اور آپ کو حضرت عمر کی بات کہی، آپ نے فرمایا عمر نے سچ کہا پس میں رک جاتا ہوں۔ المسند لابی یعلیٰ، اللالکائی فی الذکر

اس میں ایک راوی سوید بن عبد العزیز متروک ہے۔ نیز حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب احادیث میں سے یہ حدیث بہت غریب ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث محفوظ ہے۔

۱۳۰۸ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس بات کی نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا اسی کلمہ میں جس کو میں نے اپنے پچا پر پیش کیا تھا مگر انہوں نے انکار فرمایا تھا وہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی شہادت ہے۔ دوسری جگہ محمد کی بجائے ”انی“ کا لفظ ہے۔ معنی میں کوئی تفاوت نہیں۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو مسہر فی نسختہ

لا الہ الا اللہ نجات دہندہ ہے

۱۳۰۹ ابو وائل سے مروی ہے کہ مجھے بیان کیا گیا کہ حضرت ابو بکر کی طلحہ بن عبید اللہ سے ملاقات ہوئی تو طلحہ نے آپ سے پوچھا کہ میں نے ایک کلمہ کے متعلق نبی اکرم ﷺ سے سنا تھا کہ وہ جنت کو واجب کرنے والا ہے، مگر مجھے اس کلمہ کے متعلق سوال کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں وہ کلمہ جانتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ ہے۔

ابن راہویہ، المسند لابی یعلیٰ، ابن منیع، الدار قطنی فی الأفراد، المعرفہ لابی نعیم

اس کے رواۃ ثقہ لوگ ہیں۔

۱۳۱۰ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا اس امر کی نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا: جس نے مجھ سے وہ کلمہ قبول کر لیا جو میں نے اپنے پچا پر پیش کیا تھا، مگر انہوں نے انکار فرمایا تھا، تو وہ کلمہ اس کے لئے نجات ثابت ہو جائے گا۔

المسند لابی یعلیٰ، المحاملی فی امالیہ

۱۳۱۱ محمد بن جبیر سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عثمان پر گزر رہا اور ان کو وسوسہ کیا، مگر انہوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر اس کی شکایت کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے پوچھا: کیا بات ہے تم نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان نے عرض کیا: اللہ کی قسم میں نے ان کا سلام سنا ہی نہیں، میں تو اپنے آپ میں گمن تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کن خیالات میں محو تھے؟ عرض کیا: شیطان کے خلاف کچھ خیالات تھے وہ میرے نفس میں ایسے ایسے خیالات القاء کر رہا تھا، کہ جن کو میں روئے زمین کے خزانوں کے عوض بھی اپنی زبان پر بھی لانا پسند نہیں کرتا۔ جب شیطان میرے دل میں ایسے وساوس پیدا کرتا ہے تو میرے دل میں تمنا اٹھتی ہے کہ کاش میں ان سے نجات کے متعلق حضور سے سوال کر چکا ہوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی شکایت کی تھی اور اس سے نجات کے متعلق بھی سوال کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا کہ اس سے نجات کے لئے تم وہی کلمہ کہو جو میں نے اپنے پچا پر ان کی موت کے وقت پیش کیا تھا، مگر انہوں نے انکار فرمایا تھا۔ المسند لابی یعلیٰ

علامہ یوسفی زوائد العشرہ میں اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔

۱۳۱۲ ابو بکر رضی اللہ عنہ صدیق سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے ہمارے قلوب میں جنم لینے والے وساوس کے بارے میں سوال

کیا تھا آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ ابو بکر الشافعی فی الغیلابات

۱۳۱۳ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے، سعید بن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے، عبد اللہ عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان

سے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اس امر کی نجات اسی کلمہ میں ہے، جو میں نے اپنے

پچا ابو طالب پر ان کی موت کے وقت پیش کیا تھا وہ ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت۔ خطط

۱۳۱۴ از مسند عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب سے سنا وہ طلحہ بن عبید اللہ کو فرما رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ جب سے حضور ﷺ کی وفات ہوئی ہے میں تمہیں پرانگندہ وغباراً لود اور پریشان دیکھ رہا ہوں؟ شاید تمہیں اپنے بچا زاد بھائی کی امارت سے گرائی گزری ہے! طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو شخص موت کے وقت اس کو کہہ لے وہ روح نکلتے وقت ایک نئی روح اور تازگی محسوس کرے گا اور وہ کلمہ قیامت کے روز اس کے لئے نور ثابت ہوگا۔ لیکن پھر میں رسول اللہ ﷺ سے اس کلمہ کے بارے میں پوچھ نہ سکا، اور نہ آپ نے مجھے اس کی خبر دی پس یہی بات میرے لئے پریشان کن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کلمہ میں جانتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا اللہ ہی کے لئے اس پر تمام تعریفیں ہیں، وہ کونسا کلمہ ہے؟ فرمایا وہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو آپ ﷺ نے اپنے بچا پر پیش کیا تھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ نے سچ کہا۔

ابن ابی شیبہ، مسند احمد، النسائی، المسند لأبی یعلیٰ، الدار قطنی فی الأفراد، المعرفہ لأبی نعیم رواہ مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، ابونعیم، السنن لسعید، عن طلحہ بن عمر رضی اللہ عنہ
کیا آپ کو بچا زاد کی امارت سے گرائی گزری ہے؟ اس سے خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ مراد ہے۔

۱۳۱۵ حمران سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ کوئی بندہ تمہے دل سے اس کو نہیں کہتا کہ وہ پھر اسی پر مر جائے مگر اللہ اسکو جہنم کی آگ پر حرام فرمادیں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب نے فرمایا: میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کونسا کلمہ ہے؟ وہ وہی کلمہ اخلاص ہے جو اللہ نے محمد اور اس کے اصحاب کے لئے لازم کیا۔ اور وہ وہی کلمہ تقویٰ ہے، جس پر اللہ کے نبی نے اپنے بچا ابوطالب کو اصرار کیا۔ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔

مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ، الشافعی، ابن خزیمہ الصحیح لابن حبان، بخاری و مسلم، المستدرک للحاکم فی العت، السنن لسعید
۱۳۱۶ یحییٰ بن طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو عمکین والم زہد دیکھا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں۔ اور دوسری روایت کے مطابق میں ایسے کلمات جانتا ہوں۔ جن کو کوئی بندہ موت کے وقت نہیں کہتا مگر اس کو کشادگی مل جاتی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق اللہ اس کو مصیبت سے نجات دیکھا اور وہ خوش کن چیزیں دیکھتا ہے۔ لیکن میں اس کے بارے میں قسمت سے سوال نہ کر سکا۔ حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ وہ کونسا کلمہ ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا کوئی کلمہ اس کلمہ سے بہتر جانتے ہو جس کی طرف رسول اکرم ﷺ نے اپنے بچا کو ان کی موت کے وقت بلایا تھا حضرت طلحہ چونک کر بولے ہاں وہی! اللہ کی قسم ہاں وہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔

مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ، الجوہری فی امالیہ

۱۳۱۷ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اکرم ﷺ نے حکم فرمایا کہ میں لوگوں میں منادی اعلان کر دوں کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اس بات کی شہادت دیدی کہ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی ساجھی نہیں“ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! تب تو لوگ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا پھر چھوڑ دو۔

المسند لأبی یعلیٰ، ابن جریر، الصحیح لابن حبان

زوجہ طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طلحہ رضی اللہ عنہ پر گزر رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کیا بات ہے کہ میں تم کو پریشان و پرانگندہ بہت دیکھ رہا ہوں کیا تم کو اپنے بچا زاد کی امارت ناگوار گزری ہے؟ حضرت طلحہ نے عرض کیا یہ گز نہیں، لیکن میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو اپنی موت کے وقت کہہ لے تو وہ کلمہ اس کے صحیفہ اعمال کے لئے نور ثابت ہوگا، اور اس کے جسم و روح موت کے لمحہ میں اس کی وجہ سے ایک نئی روح اور فرحت محسوس کریں گے۔ لیکن میں آپ ﷺ سے اس کلمہ کو پوچھ نہ سکا۔ حتیٰ کہ آپ کی وفات ہی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ

وہی کلمہ ہے، جو آپ ﷺ نے اپنے پچا پران کی موت کے وقت پیش کیا تھا۔ اور آپ کو اگر اس سے زیادہ نجات دینے والا کوئی اور کلمہ معلوم ہوتا تو ضرور اس کا حکم فرماتے۔ النسائی، ابن ماجہ، الغوی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن خزیمہ، المستند لأبی یعلیٰ، الصحیح لابن حبان، المرزوی فی الحائز، ابن مندہ فی غرائب شعبۃ، السنن لسعید

۱۴۱۸ از مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنادوں؟ فرمایا: نہیں مجھے خوف ہے کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے۔ ابن النجار

۱۴۱۹ از مسند عبد اللہ بن سلام عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتے ہوئے سنا اور اس کے ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس کی شہادت دے گا وہ جہنم سے بری قرار پائے گا۔

ابو الشیخ فی الأذان

۱۴۲۰ یوسف بن عبد اللہ بن سلام سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ جو سفر تھے، کہ آپ ﷺ نے ایک قوم کی بات سنی، وہ آپ سے دریافت کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ! کونسا عمل افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، راہ خدا میں جہاد کرنا، اور گناہوں کی آلائش سے پاک حج کرنا۔ پھر آپ نے وادی میں کسی کونسا کہ وہ 'اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ' کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ کوئی اس کلمہ کی شہادت نہ دے گا مگر وہ شرک سے بری ہو جائے گا۔ ابن عساکر

۱۴۲۱ از مسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اللہ عز وجل قیامت کے روز میری امت کے ایک فرد کو تمام مخلوق کے سامنے بلائیں گے۔ پھر اس کے اعمال ناموں کے نانوے دفتر اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہر دفتر انتہا نظر تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! کیا تو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ شاید اعمال نامہ لکھنے والے محافظ فرشتوں نے کچھ ظلم کر دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا انہیں پروردگار! پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! کیا تیرے پاس ان کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا نہیں پروردگار! پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے! لیکن ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبده و رسوله درج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے! اجاس کو وزن کرا لے۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار اتنے عظیم دفتر کے مقابلے میں یہ اتنا سا پرزہ کیا کرے گا؟ کہا جائے گا آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اور پھر تمام دفتروں کو ایک پلڑے میں اور اس کاغذ کے پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ اور کاغذ کا وہ پرزہ اس قدر وزنی ہو جائے گا کہ وہ تمام دفتر اڑتے پھریں گے۔ بے شک اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شی وزن نہیں رکھتی۔

مسند احمد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حسن غریب المستدرک للحاکم، شعب الإیمان، بروایت ابن عمرو رضی اللہ عنہ ۱۴۲۲ علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے کہ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ اسے میرے بندو! جو میرے پاس اس حال میں آیا کہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے رہا ہو تو وہ میرے قلعہ میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو میرے قلعہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مامون ہو گیا۔ ابن عساکر

۱۴۲۳ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نابینا انسان ہوں، میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان کچھ وغیرہ کا پانی پڑتا ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر کی مسجد میں ایک مرتبہ نماز ادا فرمادیں، تاکہ میں اس مقام کو نماز کے لئے منتخب کر لوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ان شاء اللہ میں کر لوں گا۔ پھر آپ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے اپنے ساتھ چلنے کا فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ

کے ساتھ چل دیئے۔ آپے عتبنا بن مالک کے گھر پہنچ کر اندر آنے کے لئے اجازت طلب کی۔ پھر اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گئے۔ پھر آپ نے بیٹھنے سے قبل دریافت کیا کہ تم کہاں مجھ سے نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ حضرت عتبنا کہتے ہیں میں نے اپنی مطلوبہ جگہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد ہم نے آپ کو خزیریہ گوشت اور آٹے سے تیار شدہ کھانے پر روک لیا، جو ہم نے آپ کے لئے تیار کیا تھا۔ پھر اہل محلہ کو بھی آپ کی آمد کی اطلاع ہو گئی اور آپ سے ملاقات کی خواہش میں لوگوں کا تم غصہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ گھر لوگوں سے بھر گیا۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا: مالک بن النخشن یا الدخیشن کہاں ہے؟ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا: وہ منافق آدمی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں رکھتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ایسا مت کہو، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضاء کا متلاشی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تو یارسول اللہ اس کے چہرے اور اس کی باتوں کو منافقین ہی کی طرف مائل دیکھتے ہیں آپ نے فرمایا ایسا کہنا مناسب نہیں، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی رضاء کا طالب ہے۔ لوگوں نے کہا یارسول اللہ! بے شک۔ پھر آپ نے فرمایا: قیامت کے روز کوئی شخص اللہ کی رضاء کے لئے لا الہ الا اللہ کہتا ہوا نہ آئے گا، مگر اس کو آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ المصنف لعبد الرزاق

۱۳۲۳ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اکرم ﷺ نے خبر دی کہ لا الہ الا اللہ کا قائل کوئی شخص جہنم میں نہ داخل ہوگا۔

رواہ ابن عساکر

۱۳۲۵ اے ابو ذر! لوگوں میں خوشخبری پہنچا دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔

ابو داؤد الطیالسی، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

فضائل الایمان متفرقة

۱۳۲۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ہم اور تم پہلے بنی عبدمناف کہلاتے تھے آج سے ہم فقط بنی عبد اللہ ہیں۔

الشیرازی فی الألقاب

۱۳۲۷ از مسند حصین بن عوف الشعمی، حصین بن عوف الشعمی سے روایت ہے کہ ہم رسول اکرم ﷺ کے پاس جمعہ کے روز پہنچے تو آپ ﷺ نے ہم سے سوال کیا کہ ہم کون ہیں؟ ہم نے عرض کیا بنی عبدمناف۔ آپ نے فرمایا نہیں تم بنی عبد اللہ ہو یعنی اللہ کے بندے ہو اور اب آباء واجداد پر فخر کرنا ترک کر دو! الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت جہم البلوی

۱۳۲۸ از صدیق رضی اللہ عنہ۔ طارق بن الشہاب رافع بن الطائی سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو اسلام میں تلوار کے ذریعہ مجبور کیا گیا پھر اللہ نے اسی کی بدولت ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے امان بخشی، اور یہ سب اللہ کے اعوان و انصار ہیں، اور اللہ کے عہد اور ذمہ میں اللہ کے ہمسائے ہیں۔ اور جو ان پر ظلم کرے گا وہ درحقیقت اللہ کے ذمہ کو توڑنے والا ہوگا۔ ابن راہویہ، ابن ابی عاصم، البغوی، ابن خزیمہ

۱۳۲۹ سعید بن عامر جویریہ بن اسامہ سے روایت کرتے ہیں کہ کسی یوم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ابو سفیان سے سخت کلامی ہو گئی۔ ابو قافہ والدرابی بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو ابو سفیان کو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا! اے اباجان اللہ نے اسلام کے ذریعہ بعض گھرانوں کو ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور بعض کو پست و رسوا کیا۔ سو میرا گھرانہ ان گھرانوں میں شامل ہے، جن کو رفعت عطا کی گئی۔ اور ابو سفیان کا گھرانہ ان گھرانوں میں ہے، جن کو اللہ نے پست و رسوا کیا۔ ابن عساکر

۱۳۳۰ ابو بکر جعفر بن ابی وحشیہ سے مروی ہے کہ قبیلہ خولان کا ایک شخص اسلام سے مشرف ہو گیا تو اس کی قوم نے اس کو کفر میں داخل کرنا چاہا اور اس پر ظلم ڈھایا۔ حتیٰ کہ اس کو آگ میں ڈال دیا، لیکن ان کے جسم کے فقط وہ حصے جل سکے جن کو پہلے وضوء کا پانی مس نہ ہوتا تھا۔ وہ

شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے لئے بخشش کی دعا مانگو، اس شخص نے عرض کیا آپ زیادہ حق دار ہیں تو آپ نے فرمایا تم آگ میں ڈالے گئے، لیکن آگ تم کو نہ جلا سکی۔ پھر آپ نے ان کے لئے استغفار کیا۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلے آئے اور ملک شام میں سکونت اختیار کر لی۔ لوگ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دینے لگے۔ ابن عساکر

آگ کا نہ جلانا

۱۴۳۱ شریحیل بن مسلم الخولانی سے مروی ہے کہ اسود بن قیس بن ذی الخمار نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس نے ابی مسلم الخولانی کو پیغام بھیجا، وہ اس کے پاس پہنچے تو اسود نے ان سے پوچھا کیا تم میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دیتے ہو؟ ابو مسلم الخولانی نے فرمایا میں نے سنا نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسود نے کہا کیا تم محمد کے رسول اللہ ہونے کی شہادت دیتے ہو؟ ابو مسلم نے فرمایا: بالکل۔ اس پر اسود نے آگ بھڑکانے کا حکم دیا، پھر ابو مسلم کو اس میں ڈال دیا۔ لیکن آگ ان پر کچھ بھی اثر انداز نہ ہو سکی۔ اسود بن قیس کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر تم اس شخص کو اپنے ہاں سے نہ نکالو گے تو یہ تمہارے پیروکاروں کو بھی تم سے گمراہ کر دے گا۔ تو اسود نے ان کے نکلنے کا حکم دے دیا۔ یہ مدینہ تشریف لائے، اس وقت آپ ﷺ کی وفات ہو چکی تھی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔ ابو مسلم نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر بٹھایا۔ اور اتر کر مسجد کے ستون کے عقب میں نماز ادا کرنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن الخطاب کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر ان کی طرف آئے۔ اور دریافت کیا کس علاقے کے باشندے ہو؟ ابو مسلم نے کہا اہل یمن سے تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا اس شخص کا کیا ہوا جس کو کذاب اسود نے نذر آتش کر دیا تھا؟ عرض کیا: وہ عبد اللہ بن ثوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کیا تم ہی وہ شخص ہو؟ عرض کیا: اللہ کا فضل ہے ہاں میں وہی شخص ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے لپٹ پڑے اور روئیے، پھر ان کو لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور اپنے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان ان کو بٹھالیا۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، جس نے مجھے موت سے قبل امت محمدیہ میں وہ شخص دکھا دیا، جس کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کا سا سلوک ہوا لیکن آگ اس کو زندہ نہ پہنچ اس لی۔ ابن عساکر

۱۴۳۲ از مسند عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ہر مسلمان کا پشت پناہ ہوں۔

الشافعی، المصنف لعبد الزقاق، ابن ابی شیبہ، بخاری و مسلم

۱۴۳۳ عقبہ بن عامر، حضرت عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو اللہ پر یقین تام رکھتے ہوئے وفات کر جائے

تو وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابن مرددویہ

۱۴۳۴ از مسند علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ لوگوں میں صحیح ترین اور اعلم باللہ وہ شخص ہوگا، جو اہل لالہ الا اللہ کی تعظیم

وحرمت میں تمام لوگوں سے سخت اور زیادہ محبت کرنے والا ہوگا۔ الحلیہ

۱۴۳۵ از مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضور ﷺ باہر نکلنے لگے تو دروازے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو پایا۔ فرمایا: اے معاذ! عرض کیا

لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ

نے عرض کیا: کیا لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ فرمایا چھوڑ دو! تا کہ اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی سعی و کوشش جاری رہیں، کیونکہ مجھے ان

کے اعتقاد کر کے بیٹھے رہنے کا خوف ہے۔ الحلیہ

۱۴۳۶ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضور ﷺ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ

جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں

لوگ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ تو فرمایا پھر چھوڑ دو۔ الحلیہ، المسند لأبی یعلیٰ

۱۳۳۷ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اس شخص کی جزاء و انعام جس پر اللہ نے توحید کا انعام فرمایا، جنت ہی ہے۔ ابن النجار

۱۳۳۸ از مسند بشر بن تخیم الغفاری۔ بشر بن تخیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جاؤ اور لوگوں میں نداء کرو کہ جنت میں مسلم جان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ یا فرمایا مؤمن کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اور ایام تشریق کھانے پینے کے ایام ہیں۔ ان میں روزہ نہ رکھو۔

ابو داؤد الطیالسی، ابن حریز، ابو نعیم، ابن عساکر

ایام تشریق پانچ ایام ہیں۔ عیدین اور عید الاضحیٰ کے بعد کے تین یوم۔

۱۳۳۹ بشر بن تخیم سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایام حج میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ جنت میں مسلم جان کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ یا فرمایا مؤمن کے سوا کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اور یہ کھانے پینے کے ایام ہیں۔ یعنی ایام تشریق۔ ابن حریز

۱۳۴۰ از مسند جابر بن عبد اللہ۔ جابر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ یلمی

۱۳۴۱ از مسند الجارود بن المعلى۔ الجارود العبیدی سے مروی ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں ایک دین پر کار بند ہوں، اب اگر میں اپنا دین ترک کر کے آپ کا دین اپنالوں تو کیا مجھے یہ پرانہ مل سکتا ہے کہ اللہ مجھے آخرت میں عذاب نہ فرمائیں؟ فرمایا: جی ہاں۔ ابو نعیم

۱۳۴۲ از مسند عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ اور فرمایا جس کی خواہش ہو کہ اس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو اس کی موت اس حال میں آئی چاہئے کہ وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ اور لوگوں کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھے جو اپنے لئے پسند کرتا ہو۔ ابن حریز

۱۳۴۳ از مسند عقبہ بن عامر الجبلی۔ عقبہ بن عامر الجبلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ اور ہر دن ہم میں سے کسی کی اونٹوں کو چرانے کی باری ہوتی تھی۔ تو جس دن میری باری آئی، میں لوٹا تو دیکھا کہ رسول اکرم ﷺ ایک حلقہ میں اصحاب کرام رضی اللہ عنہم سے فرما رہے ہیں کہ: جس نے اچھی طرح وضوء کیا، پھر دو رکعت نماز اللہ ہی کی رضاء کے لئے ادا کیں۔ تو اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمادیں گے۔ یہ سن کر میں نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ پیچھے سے کسی نے میرے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا میں متوجہ ہوا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابن عامر اس سے پہلی بات اس سے زیادہ افضل و خوش کن ہے۔ میں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ جولا الہ الا اللہ کہتا ہو اور اس کی زبان اس کے دل کی تصدیق کرتی ہو تو وہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابن النجار

۱۳۴۴ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں بارہ سواروں کے ساتھ چلا۔ حتیٰ کہ ہم دربار رسول ﷺ میں پہنچ گئے۔ پھر میرے رفقاء نے کہا ہمارے پیچھے سے کون ہمارے اونٹوں کو چرائے گا تاکہ ہم آپ ﷺ کے ملفوظات سے کچھ اقتباس کر آئیں؟ پس جب وہ جائے گا تو تب ہم سننے جائیں گے۔ میں نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا۔ اور چند یوم کرتا رہا۔ پھر میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید میں دھوکہ میں پڑ گیا ہوں کہ جو میرے ساتھی سنتے ہوں گے وہ مجھے کہاں نصیب ہوگا؟ او وہ جو کچھ رسول اللہ ﷺ سے سیکھتے ہوں گے میں اس سے محروم رہ جاتا ہوں۔ تو پھر میں بھی ایک دن حاضر ہوا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے: نبی ﷺ نے فرمایا: جس نے وضوء کامل طریقہ سے ادا کیا وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہو جائے گا، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ میں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، تو مجھے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم اس سے قبل کا کلام سن لیتے تو اس سے زیادہ تعجب کرتے۔ میں نے عرض کیا مجھے سنائیے، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کی اس حال میں وفات آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو اللہ اس کے لئے

جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، جس سے وہ چاہے داخل ہو جائے، اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکلے تو میں آپ ﷺ کے سامنے رخ پر بیٹھ گیا۔ لیکن آپ ﷺ نے مجھ سے اپنا رخ زیبا موڑ لیا۔ میں پھر سامنے آ گیا آپ ﷺ نے پھر چہرہ اقدس موڑ لیا کئی مرتبہ ایسا ہوا آخر چوٹھی مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھ سے بے رخی کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تجھے ایک محبوب ہے یا بارہ؟ پھر میں نے یہ صورت حال دکھی تو میں لوٹ گیا۔

رواہ ابن عساکر

۱۳۲۵ عمر بن مرہ النخعی فرماتے ہیں: قبیلہ قضاعہ کا ایک شخص حضور انور ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور بھجکا نہ نماز ادا کروں، ادا کیگی زکوٰۃ کروں، ماہ صیام کے روزے رکھوں اور اس کی راتوں میں قیام کروں تو میں کون ہوں گا؟ فرمایا: تم صدیقین اور شہداء میں شامل ہو جاؤ گے۔ یا فرمایا: جو اس حالت میں وفات پا جائے وہ صدیقین اور شہداء میں شامل ہوگا۔ ابن مندہ، ابن عساکر، ابن العجاوہ

۱۳۲۶ از مسند کعب رضی اللہ عنہ بن مالک۔ کعب رضی اللہ عنہ بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے انہیں اور اس بن الحدثان کو ایام تشریق میں یہ پیغام دے کر اعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ جنت میں مؤمن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ اور ایام مئی۔ اور بمطابق دوسری روایت کے ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں۔ ابن حریز، ابو نعیم

۱۳۲۷ از مسند معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل۔ معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل سے مروی ہے کہ میں ایک گدھے پر، جس کا نام عفیر تھا، رسول اکرم ﷺ کے پیچھے سوار تھا۔ حضور ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی پرستش کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اس کو اپنے عذاب سے مامون رکھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ فرمایا: ان کو خوشخبری مت سناؤ، ممکن ہے کہ وہ اسی پر اعتماد ہو کر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے۔ ابن عساکر

۱۳۲۸ از مسند ابی ثعلبہ اشجی۔ ابی ثعلبہ اشجی سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ اور مسجد میں داخل ہو کر دو گلا نہ ادا کی، اور آپ کو یہ بات محبوب تھی کہ جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد جا کر دو رکعت نماز ادا فرماتے۔ پھر حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے، پھر ازواج مطہرات کے ہاں جاتے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ سفر سے واپسی کے بعد حضرت فاطمہ کے ہاں ازواج مطہرات سے قبل تشریف لے گئے۔ پہنچے تو دروازے پر ہی حضرت فاطمہ سے سامنا ہو گیا۔ حضرت فاطمہ آپ ﷺ کے چہرہ انور کو بوسہ دینے لگیں، اور دوسرے الفاظ میں آپ ﷺ کے دہان منہ مبارک اور آنکھوں کو بوسہ دینے لگیں۔ اور ساتھ میں رونے لگیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا بات ہے؟ کیوں زور ہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ! میں دیکھ رہی ہوں کہ فقر و افلاس کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور فق ہو گیا ہے۔ اور آپ کے کپڑے بھی بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے فاطمہ! امت رو، بلا شک اللہ نے تیرے والد کو ایسے امر پر مجتہد فرمایا ہے، کہ روزے زمین پر کوئی ایسا گھربائی نہ رہے گا کچا نہ پکا، مگر اللہ اس میں اسلام کو ضرور داخل فرمادیں گے۔ معزز کی عزت کے ساتھ، اور ذلیل کی ذلت کے ساتھ۔ حتیٰ کہ یہ اسلام وہاں تک جا پہنچے گا، جہاں تک کہ رات اپنے تاریکی کے پردے ڈالتی ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، الحلیہ، المستدرک للحاکم

۱۳۲۹ از مسند ابوالدرداء رضی اللہ عنہ۔ کثیر بن عبد اللہ ابوالدرداء سے اور وہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور پھر اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا تھا تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرمادے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا اپنے شہر میں۔ بمطابق دوسرے الفاظ کے، اسی سر زمین میں وفات کر گیا ہو جہاں اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ہم لوگوں کو خوشخبری نہ پہنچادیں؟ فرمایا: جنت میں سو مراتب ہیں ہر دو مرتبوں کے مابین زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ اللہ نے ان مراتب کو راہ خدا کے مجاہدین کے لئے تیار کیا ہے۔ مجھے مؤمنین پر مشقت کا خوف ہے۔ اور میں اس قدر سواریاں بھی

نہیں پاتا کہ سب کو مہیا کر دوں، اور ان کو میرے جہاد میں جانے کے بعد پیچھے رہ جانے پر گرانی بھی گزرے گی۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتیں تو میں کسی غزوہ سے کبھی پیچھے نہ رہتا۔ اور میری تمنا ہے کہ میں راہِ خدا میں قتل ہو جاؤں پھر زندگی ملے اور پھر قتل ہو جاؤں۔

النسائی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر

۱۳۵۰۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے ایک حدیث بیان کرنے سے یہ خوف مانع ہے کہ کہیں تم سعی و عمل میں نرم و ست نہ پڑ جاؤ، وہ حدیث یہ ہے کہ میں تم کو خوشخبری سنا تا ہوں کہ ”جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔“ ابن عساکر

۱۳۵۱۔ از مسند بدیل بن ورقاء۔ سلمہ کہتے ہیں: میرے والد بدیل بن ورقاء نے ایک خط حوالہ کر کے فرمایا: اے فرزند یہ رسول اللہ کا خط ہے، اگر تم اس کو محفوظ رکھو تو تم ہمیشہ خیر و بھلائی میں رہو گے۔ جب تک کہ یہ اللہ کا نام تمہارے درمیان موجود ہے۔ قال ابن ابی عاصم ثنا عبدالرحمن ابن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن بشر بن عبداللہ عن ابیہ عبداللہ بن سلمۃ ابن بدیل بن ورقاء۔ حدیثی ابی عن ابیہ عبدالرحمن بن بشر بن محمد بن بشر بن عبداللہ عن ابیہ عبداللہ بن سلمۃ عن ابیہ سلمۃ قال الخ

۱۳۵۲۔ تمیم الداری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کوئی سفر درپیش تھا تو فرمایا: ہم رات کی تاریکی میں سفر جاری رکھیں گے، لہذا ہمارے ساتھ کوئی لاغر سواری یا اڑیل سواری والا ہرکاب نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود ایک شخص ایک اڑیل ناقہ پر ہمارے ساتھ ہولیا۔ اور انجام کار اسی ناقہ نے اس کو پچھاڑا اور گرا دیا اور اس کی ران ٹوٹ گئی۔ پھر اسی تکلیف میں وہ چل بسا۔ آپ ﷺ نے اس پر نماز جنازہ ادا کی اور بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو! کہ جنت کسی عاصی کے لئے حلال نہیں۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، بروایت زیاد بن نعیم

۱۳۵۳۔ عمارہ بن حزم، رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ: جو شخص ایمان کی چار چیزوں کے ساتھ آیا، وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا اور جو کسی ایک کو ترک کر آیا، اس کو بقیہ تین کوئی نفع نہ دیں گی۔ میں نے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: وہ کیا ہیں؟ فرمایا نماز، روزہ، صوم رمضان اور حج۔ ابن عساکر

۱۳۵۴۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ کے پیچھے سواری پر ہرکاب تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم میرے ساتھ خلوت میں ہوتے ہو تو مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ اہم ہیں، پھر فرمایا: اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی پرستش کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ آپ نے پھر فرمایا: اے معاذ! کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے یہ کام کر لیں تو ان کا اللہ پر کیا حق ہے؟ عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: یہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل فرمادے۔ ابن عساکر

۱۳۵۵۔ ابن المشفق یا ابوالمنفق سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: مجھ سے کسی نے رسول اللہ ﷺ کا تذکرہ کیا تو میں مکہ میں آپ کی تلاش کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ منیٰ میں ہیں۔ میں منیٰ میں آپ کے پاس پہنچا وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ میدان عرفات میں ہیں۔ میں وہاں آپ کے پاس پہنچا۔ اور آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا مجھے کہا گیا کہ رسول اللہ ﷺ کا راستہ چھوڑ دو! لیکن آپ ﷺ نے فرمایا آدمی کو چھوڑ دو۔ پھر میں لوگوں سے چھوٹ کر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کی سواری کی تکمیل یا فرمایا لگام تھام لی اور ہم دونوں کی سواریوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں اور آپ ﷺ نے مجھے بالکل منع نہ فرمایا پھر میں نے عرض کیا میں آپ سے دو چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، یہ کہ مجھے کیا چیز جہنم سے نجات دلائے گی اور کیا چیز جنت میں دخول کا سبب بنے گی۔ پھر آپ ﷺ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا: اگر چہ تو نے مختصر سی بات کہی ہے، مگر درحقیقت یہ بہت بڑی اور عظیم بات ہے۔ سو یاد رکھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز قائم کرو۔ فریضہ زکوٰۃ ادا کرو۔ رمضان کے روزے رکھو۔ اور بیت اللہ کا حج و عمرہ کرو۔ اور لوگوں کا جو سلوک اپنے لئے پسند کرتے ہو، وہی

سلوک ان کے ساتھ بھی کرو۔ اور جو بات کہ لوگوں سے اپنے لئے ناپسند کرتے ہو لوگوں کے لئے بھی اس کو چھوڑ دو۔ اب سواری کا راستہ چھوڑ دو۔

مسند احمد، ابن جریر، المغوی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ

۱۳۵۶ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات عوام الناس چاند کو دیکھ کر کہنے لگے۔ کیا خوبصورت چاند ہے؟ کتنا رونق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اور اس وقت تمہاری کیسی شان ہوگی، جب تم دین میں مثل چودھویں رات کے چاند کے ہو گے؟ اور تمہاری وقعت کا صحیح اندازہ کوئی صاحب بصیرت ہی کر سکے گا۔ ابن عساکر، الدیلمی اس کی اسناد میں کوئی حرج نہیں ہے۔

فصل پنجم..... اسلام کے حکم میں

شہادتین کا حکم..... از مسند اوس بن اوس الثقفی

۱۳۵۷ اوس بن اوس الثقفی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم مسجد کے ایک قہرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ ﷺ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ آپ کے ساتھ اس نے کچھ سرگوشی کی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا بات ہوئی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اور ان کو کہو کہ اسے تہ تیغ کر ڈالیں۔ لیکن آپ نے اس کو پھر واپس بلایا اور کہا: شاید وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو! اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ تب آپ نے فرمایا: تو ان کو کہیں کہ اسے چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں کہہ لیتے۔ پس جب وہ یہ کہہ لیں تو ان کا خون اور ان کا مال محترم ہو جائے گا۔ لایہ کہ اسی کا کوئی حق ہو، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ ابو داؤد الطیلسی، مسند احمد، الدارمی، الطحاوی

۱۳۵۸ عبداللہ بن عدی الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آپ کے ساتھ سرگوشی کی حالت میں ایک منافق کی گردن اڑانے کی اجازت کا خواہشمند ہوا۔ آپ نے بانگ بلند فرمایا: کیا وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتا؟ عرض کیا شہادت تو دیتا ہے لیکن اس کی شہادت کا کیا اعتبار؟ پھر آپ ﷺ نے دریافت کیا: کیا وہ میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت نہیں دیتا؟ عرض کیا شہادت تو دیتا ہے لیکن اس کی شہادت کا کیا اعتبار؟ پھر آپ ﷺ نے دریافت کیا: کیا وہ نماز ادا کرتا ہے؟ عرض کیا کیوں نہیں لیکن اس کی کیا نماز؟ تب آپ ﷺ نے فرمایا: انہی لوگوں کے متعلق قتال سے ممانعت کی گئی ہے۔

المصنف لعبد الرزاق، الحسن بن سفیان

۱۳۵۹ از مسند نامعلوم شخص۔ نعمان بن سالم کسی صاحب رسول ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم مسجد کے قہرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ قہرے کے ایک ستون کو تھام کر ہمیں کچھ بیان فرمانے لگے۔ اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کے ساتھ اس نے کچھ سرگوشی کی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا بات ہوئی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: جاؤ اور اُس کو لے جاؤ اور قتل کرو۔ جب وہ شخص پشت دے کر چل دیا تو آپ ﷺ نے اس کو دوبارہ بلایا اور کہا: شاید وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتا ہو! اس شخص نے عرض کیا جی ہاں۔ تب آپ نے فرمایا: تو ان کو کہیں کہ اسے چھوڑ دیں، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں کہہ لیتے۔ پس جب وہ یہ کہہ لیں تو ان کا خون اور ان کا مال محترم ہو جائے گا۔ لایہ کہ اسی کا کوئی حق ہو، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ المصنف لعبد الرزاق

۱۳۶۰ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہمیں رسول اللہ ﷺ نے ایک سریہ میں بھیجا۔ ہم نے صبح کے وقت قبیلہ جہینہ کی ایک شاخ حرقات پر حملہ کیا۔ میں نے ایک شخص کو جالیوں سے لا الہ الا اللہ کہا مگر میں نے اس کو نیزہ مار دیا۔ لیکن پھر میرے دل میں اس سے خلجان پیدا ہوا۔ اور میں نے اس کا ذکر رسول اللہ ﷺ سے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے باوجود تم نے اس کو قتل کر ڈالا؟

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے اسلحہ کے خوف سے وہ کہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تم نے اس کا سینہ کیوں نہ چیر کر دکھ لیا، تاکہ تمہیں علم ہو جاتا کہ اس نے اس خوف سے کلمہ کہا تھا یا نہیں؟ تمہارا کون حامی ہوگا جب قیامت کے روز "لا الہ الا اللہ" آئے گا؟ آپ ﷺ اس کو بار بار دہراتے رہے۔ حتیٰ کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں اسی دن اسلام قبول کرتا۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمة الله عليه، الصحيح لمسلم، العدنی، السنن لأبي داؤد،

النسائی، ابو عوانه، الطحاوی، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم، بخاری ومسلم

کاش میں اسی دن اسلام قبول کرتا، اس قول کی وجہ یہ پیش آئی کہ اسی دن اسلام قبول کرنے سے میرا یہ فعل معاف ہو جاتا کیونکہ اسلام تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ میں اس سے قبل اسلام کی حالت میں نہ ہوتا بلکہ اسی دن اسلام قبول کرتا۔ اور اس طرح مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے جنگ میں شرکت ہوئی اور نہ یہ قتل مجھ سے سرزد ہوتا۔

۱۳۶۱ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ میں نے ایک شخص پر ہتھیار اٹھایا اور اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا، اس نے لا الہ الا اللہ کہا مگر پھر بھی میں نے اس کو جلدی سے ختم کر ڈالا۔ یہ بات رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کے باوجود تم نے اس کو قتل کر ڈالا؟ تم کیا کرو گے جب قیامت کے روز "لا الہ الا اللہ" آئے گا؟ آپ ﷺ اس کو بار بار دہراتے رہے۔ حتیٰ کہ میرے دل میں

تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں اسی گھڑی اسلام کو قبول کرتا۔ الدار قطنی، الزوار

مصنف فرماتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی عن اسامة کا طریق کہیں اور نہیں ہے۔

۱۳۶۲ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اور ایک انصاری شخص نے مراد بن نہیک پر تلوار سونت لی، اس نے کہا "

اشهد ان لا الہ الا اللہ" لیکن ہم اس سے بچے نہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے اس کو قتل کر ڈالا۔ پھر جب ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے تو آپ ﷺ کو اس کی خبر دی۔ آپ نے فرمایا اے اسامہ! الہ الا اللہ" کے مقابلہ میں تیرا کون سا تھ دیکا میں نے عرض کیا اس نے قتل سے بچاؤ کے لئے

یہ کہا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا: اے اسامہ! الہ الا اللہ" کے مقابلہ میں تیرا کون سا تھ دیکا کہ آسندہ میں کسی لا الہ الا اللہ" کے قائل

ذات کی قسم! آپ اسی بات کو دہراتے رہے۔ حتیٰ کہ میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں اس سے قبل اسلام کی حالت میں نہ ہوتا بلکہ اسی دن اسلام قبول کرتا۔ اور اس طرح یہ قتل مجھ سے سرزد نہ ہوتا۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ عہد دیا کہ آسندہ میں کسی لا الہ الا اللہ" کے قائل

کو ہرگز قتل نہ کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا: میرے بعد، اے اسامہ۔ میں نے عرض کیا جی آپ کے بعد ابن عساکر

۱۳۶۳ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے روز مجھے اس خصم اور مد مقابل کے سوا کسی اور کا اس قدر خطرہ نہیں جس قدر

اس خصم اور مد مقابل کا خطرہ ہے کہ قیامت کے روز اس کی گردن کی رگیں خون کا فوارہ ابل رہی ہوں اور وہ مجھے میزان کے پاس گھیر لے، اور بارگاہ ذوالجلال میں فریاد کرے کہ پروردگار اپنے اس بندے سے پوچھ! کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ اور میں اس کے متعلق نہ کہہ سکوں کہ یہ کافر

تھا، کہ کہیں رب ذوالجلال فرمائیں کیا تم میرے بندے کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے؟ ابو نعیم

۱۳۶۴ از مسند عقبہ بن مالک۔ رسول اکرم ﷺ نے ایک سریہ کی مہم پر روانہ فرمایا۔ اس سریہ نے ایک قوم پر حملہ کیا۔ دوران جنگ اس قوم کا ایک شخص جدا ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سریہ کا بھی ایک سپاہی اس کے تعاقب میں تلوار سونتے ہوئے روانہ ہو گیا۔ اس بچ کر بھاگ نکلنے والے

نے پیچھے ان کو آواز دی کہ میں مسلمان ہوں۔ لیکن اس سپاہی نے اس کے باوجود اس کو قتل کر ڈالا۔ یہ بات حضور ﷺ تک پہنچی، حضور ﷺ نے اس پر سخت تنبیہ و تکلیف فرمائی۔ آپ کے متنبیہ فرمانے کے دوران ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! اس مقتول نے وہ بات اپنے قتل سے محفوظ ہونے کے لئے کہی تھی۔ آپ ﷺ نے اس سے اور اس کے ہم خیال افراد سے اعراض فرمایا۔ پھر دوبارہ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے قتل سے اپنی حفاظت کی غرض سے کہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے اور اس کے ہم خیال افراد سے اعراض فرمایا۔ اور اپنے خطبہ میں شروع ہو گئے۔ لیکن اس شخص سے نہ رہا گیا تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ اس نے قتل سے اپنی حفاظت کی غرض سے کہا تھا۔ پھر آپ ﷺ اس شخص کی

طرف متوجہ ہوئے اور ناگواری آپ کے رخ انور سے عیاں تھی، اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مؤمن کے قاتل کے لئے مجھ سے ممانعت فرمادی ہے۔

الخطیب فی المتفق والمفتقر

۱۳۶۵۔ مقداد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میرا اور کسی مشرک کا ٹکراؤ ہو جائے، اور دونوں جانبین سے تلوار چل پڑیں۔ اور وہ میرا ہاتھ کاٹ ڈالے، پھر جب میں اس کی طرف حملہ کی غرض سے بڑھوں تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ لے، تو میں اس کو قتل کر دوں یا یونہی چھوڑ دوں؟ فرمایا: چھوڑ دے۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا ہو؟ آپ نے فرمایا: ہاں خواہ اس نے ایسا کر دیا ہو۔ دو یا تین بار میرا اور آپ کا یہی مکالمہ ہوا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اس کو قتل کرتے ہو جبکہ وہ اس سے قبل لا الہ الا اللہ کہہ چکا ہے تو تم اس کے مثل سزاوار قتل ہو جاتے ہو اس کے لا الہ الا اللہ کہنے سے قبل۔ اور وہ تمہارے مثل معصوم الدم ہو جائے گا تمہارے اس کو قتل کرنے سے قبل۔ الشافعی، المصنف لعبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، السنن لأبی داؤد، النسائی

شرح:..... فرمایا: اگر تم اس کو قتل کرتے ہو جبکہ وہ اس سے قبل لا الہ الا اللہ کہہ چکا ہے۔ لہذا وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا موجب قصاص ہے لہذا اب اس کو قتل کرنے سے قصاص لازم آئے گا۔ اور وہ تمہارے مثل معصوم الدم ہو جائے گا تمہارے اس کو قتل کرنے سے قبل۔ کیونکہ جب تک تم نے اس کو قتل نہیں کیا تم پر قصاص نہیں بلکہ تمہارا خون کرنا حرام ہے۔ تو اب وہ بھی مسلمان ہونے کے ناطہ سے معصوم الدم ہے۔

ارتداد اور اس کے احکام

۱۳۶۶۔ از مسند عمر رضی اللہ عنہ۔ عبدالرحمن القاری فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے لوگوں کے حالات کے متعلق خیریت دریافت کی، تو اس نے خبر دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا: کہ کیا تمہارے درمیان کوئی نیا حادثہ رونما ہوا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں! ایک شخص اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کا مرتکب ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عرض کیا ہم نے اسے جا کر قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: کہ کیا تم نے اس کو تین یوم مہلت کی غرض سے محبوس رکھا تھا؟ اور ہر دن اس کو عمدہ کھانا مثلاً چپاتی وغیرہ کھلائی تھی؟ پھر اس کے بعد تم نے اس سے توبہ طلب کی تھی؟ شاید وہ تائب ہو جاتا اور اللہ کے امر دین میں واپس آ جاتا۔ اے اللہ! میں اس موقع پر حاضر تھا، اور نہ میں نے اس کا حکم دیا، اور بات مجھ تک پہنچی تو میں اس پر راضی بھی نہیں تھا۔

مالک، الشافعی، المصنف لعبد الرزاق، الغریب لابی عبید، بخاری و مسلم

مرتد وہ شخص ہے، جو اسلام کے دائرہ سے نکل کر کفر کے ظلمت کدہ میں چلا جائے۔ احناف کے نزدیک اس کا یہ حکم ہے، کہ اس پر اسلام کی دعوت دوبارہ پیش کی جائے اور اس کے اشکالات، جن کی وجہ سے وہ اسلام سے منحرف ہوا ہے، کو دور کیا جائے، اگرچہ یہ واجب نہیں ہے کیونکہ اسکو اسلام کی دعوت پہلے پہنچ چکی ہے۔ لیکن مستحب ضرور ہے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ اسکو تین یوم کے لئے قید کر دیا جائے، تاکہ اسکو کچھ مہلت مل جائے۔ اور بعض اہل علم کے نزدیک مہلت مرتد کی طلب پر منحصر ہے۔ ورنہ مہلت کی ضرورت نہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مہلت دینا واجب ہے۔ انجام کار اگر وہ راہ راست پر آ جائے تو یہی اسلام کا مطلوب ہے، ورنہ اسکو قتل کر دیا جائے۔

مرتد عورت کا حکم! اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو اس کو قتل نہ کیا جائے بلکہ جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے اس کو قید میں ڈال لے رکھا جائے اور ہر تیسرے دن اس کو بطور تنبیہ مارا جائے تاکہ وہ اپنے ارتداد سے توبہ کر کے دائرہ اسلام میں آ جائے لیکن اگر کوئی شخص کسی مرتد عورت کو قتل کر دے تو قاتل پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔

۱۳۶۷۔ عمر و رحمۃ اللہ علیہ بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے اور شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو

رضی اللہ عنہ بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سوال لکھا کہ ایک شخص اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کا مرتکب ہوا، اور پھر اسلام قبول کر کے دوبارہ کفر کا مرتکب ہوا ہے۔ حتیٰ کہ اس نے یہ حرکت کئی مرتبہ کی۔ تو اب اس کا اسلام لانا قبول کیا جائے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو لکھا کہ: جب تک اللہ اس سے اسلام کو قبول فرماتا ہے۔ تم بھی قبول کرتے رہو یعنی ہر بار اس کا اسلام قبول کر لو۔ اور اب اس کو اسلام پیش کرو اگر وہ قبول کرتا ہے تو چھوڑ دو، ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔

مسند ابن الحکم

۱۳۶۸ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فتح کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔ اور قبیلہ بکر بن وائل کے چھ افراد اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ان کی متعلق پوچھا: بکر بن وائل کے اس گروہ نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! وہ قوم اسلام سے برگشتہ ہو کر مشرکوں سے جا ملی ہے۔ لہذا اب ان کو قتل کے سوا چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں ان کو اسلام کی حالت میں پالوں تو مجھے یہ ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے خواہ وہ سونا چاندی ہو۔ میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! اگر آپ ان کو پالیں تو آپ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ آپ نے مجھے فرمایا: میں ان پر وہی دروازہ پیش کروں گا، جس سے وہ نکل گئے ہیں کہ وہ دوبارہ اس میں داخل ہو جائیں۔ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لوں گا۔ ورنہ ان کو قید خانہ کے سپرد کر دوں گا۔ المصنف لعبد الرزاق

۱۳۶۹ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتد کو دومتہ الجندل میں اس کے غیر اہل مذہب کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ المصنف لعبد الرزاق

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ کسی حکمت و سیاست پر مبنی تھا۔

۱۳۷۰ از مسند عثمان رضی اللہ عنہ۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جو ایمان کے بعد اپنی خوشی سے کفر کا مرتکب ہو جائے اس کو قتل کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم

۱۳۷۱ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بن موسیٰ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مرتد کو تین مرتبہ اسلام کی دعوت پیش فرماتے تھے۔ پھر عدم قبول کی صورت میں اس کو قتل فرمادیتے تھے۔ بخاری و مسلم

۱۳۷۲ سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بن موسیٰ سے مروی ہے کہ ان کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جانب سے یہ خبر پہنچی کہ کسی انسان نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ آپ نے اس کو تین مرتبہ اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن اس نے انکار کیا، تو آپ نے اس کو قتل فرمایا۔

المصنف لعبد الرزاق، بخاری و مسلم

۱۳۷۳ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اہل عراق کی ایک قوم جو اسلام سے برگشتہ ہو گئی تھی، کو پکڑا۔ اور ان کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھا، حضرت عثمان نے جواب میں لکھا کہ ان پر دو بن علی اور لا اللہ الا اللہ کی شہادت پیش کرو۔ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ورنہ ان کو قتل کر ڈالو۔ المصنف لعبد الرزاق، بخاری و مسلم

۱۳۷۴ ابو عثمان البہدی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک شخص سے، جو اسلام کے بعد کفر کا مرتکب ہو گیا تھا، ایک مہینہ تک توبہ کا مطالبہ فرماتے رہے۔ آخر تک وہ انکار کرتا رہا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل فرمایا۔ المصنف لعبد الرزاق

۱۳۷۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مرتد سے تین مرتبہ توبہ قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد بھی کفر کا مرتکب ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بخاری و مسلم

۱۳۷۶ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اس لشکر میں شامل تھا، جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بنی نادیہ کی طرف بھیجا تھا۔ ہم وہاں پہنچے ہم نے ان کو تین گروہوں میں بنا ہوا پایا۔ امیر لشکر نے ان میں سے ایک گروہ سے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم پہلے نصاریٰ تھے، پھر ہم نے اسلام قبول کر لیا اور اب اسی پر ثابت قدم ہیں۔ دوسرے گروہ سے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا: ہم پہلے بھی نصاریٰ تھے، اور اب تک

اسی پر ثابت قدم ہیں۔ تیسرے گروہ سے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم پہلے نصاریٰ تھے، پھر ہم نے اسلام قبول کر لیا لیکن پھر اپنے سابق مذہب نصرانیت کی طرف لوٹ گئے ہیں۔ کیونکہ ہم نے اس سے بہتر دین اور کوئی نہیں پایا۔ امیر لشکر نے اس تیسرے گروہ سے فرمایا: تم اسلام لے آؤ۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ امیر لشکر نے فرمایا: جب میں اپنے سر پر تین مرتبہ ہاتھ پھیروں تو تم ان پر ہلہ بول دینا۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور مرتدین کے جنگجوؤں کو تہ تیغ کر دیا اور ان کی آل و اولاد کو قید کر لیا۔ یہ قیدی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کئے گئے۔ پھر مستقلہ بن ہبیرہ آیا اور اس نے ان تمام قیدیوں کو دو لاکھ درہم میں خرید لیا۔ پھر صرف ایک لاکھ پیش کئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وصول فرمانے سے انکار کر دیا۔ مستقلہ نے اپنے درہم لئے اور ان قیدیوں کو آزاد کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جاملانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے لکھا آپ وہ درہم وصول فرمائیں۔ لیکن آپ نے فرمایا رہنے دو۔ اور آپ نے ان سے کچھ تعرض نہ کیا۔ بخاری و مسلم ۱۱۷۷۔

عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں: میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ قبیلہ بنی عجل کے ایک شخص مستورد بن قبیصہ کو آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: تمہارے متعلق مجھے کیا خبر ملی ہے؟ اس نے کہا میری طرف سے آپ کو کوئی اطلاع نہیں ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے خبر موصول ہوئی ہے کہ تم نے نصرانیت اختیار کر لی ہے؟ اس نے کہا: میں مسیح علیہ السلام پر قائم ہو گیا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ مسیح علیہ السلام پر تو میں بھی قائم ہوں، تیرا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی مخفی بات کہی، جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو ماریں اور روندیں۔ تو اس کو اتارا گیا کہ وہ جان گنوا بیٹھا۔ میں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے ایک شخص سے دریافت کیا کہ اس نے آہستہ سے کیا کہا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ: اس نے کہا تھا کہ میرا تو مسیح ہی پروردگار ہے۔ الدارقطنی، بخاری و مسلم

مرتد کا قتل

۱۳۷۸ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے یمن کی طرف بھیجا۔ کسی دن میرے پاس ایک ایسا یہودی بیٹھا تھا جو پہلے مسلمان تھا پھر یہودیت اختیار کر لی تو اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور کہا جب تک تم اس یہودی کی گردن نہ اڑاؤ گے میں تمہارے پاس ہرگز نہ بیٹھوں گا۔ چونکہ اس سے قبل اس کو چالیس یوم تک اسلام کی طرف دوبارہ لوٹ آنے کی مسلسل دعوت دی جاتی رہی تھی۔ ابن ابی شیبہ

۱۳۷۹ از مسند ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے عیینہ بن حصین کو زمین کا ایک ٹکڑا بطور جاگیر کے عطا فرمایا تھا۔ لیکن جب حضور ﷺ کی وفات کے بعد عیینہ دوبارہ کافر ہو گیا، تو حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے وہ زمین اس سے واپس لے لی۔ عیینہ دوبارہ مسلمان ہو گیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تاکہ اس کو جاگیر دوبارہ واپس کر دی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک رقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام لکھ دیا کہ اس کو اس کی زمین واپس کر دی جائے۔ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ خط لے کر پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خط پھاڑ دیا اور فرمایا کہ اگر تم اسلام سے مرتد نہ ہوتے تو تم کو زمین ضرور مل جاتی لیکن اب زمین واپس نہیں ہو سکتی۔ عیینہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ امیر آپ ہیں یا وہ عمر؟ انہوں نے وہ خط لے کر پھاڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان شاء اللہ امیر وہی ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ میرے اور تمہارے دونوں کے لئے بہتر اور سود مند ہے۔

المصنف لعبدالرزاق

۱۳۸۱ معمر بن قنادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے: کہ مرتد عورت کو قیدی بنایا جائے گا اور فروخت کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی

مرتدین کی خواتین کے ساتھ یہی سلوک فرمایا تھا، کہ ان کو فروخت کر ڈالا تھا۔ المصنف لعبدالرزاق

۱۳۸۱..... یزید بن ابی مالک الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو، جس کا نام ام قرقہ لیا جاتا تھا، اس

کے مرتد ہونے کی بناء پر اس کو قتل کر ڈالا۔ السنن لسعید، بخاری و مسلم
 ۱۲۸۲ سعید بن عبدالعزیز التتوخی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک عورت، جس کا نام ام قرفہ لیا جاتا تھا، اسلام کے بعد کفر کی مرتکب ہو گئی۔
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سے توبہ طلب کی، مگر اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر ڈالا۔

المدار قطنی، بخاری و مسلم

احکام متفرقہ

۱۲۸۳ از مسند عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا لوگوں کے ساتھ ہمیں وہی غرض ہے، جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے رہیں اور ادائیگی زکوٰۃ کرتے رہیں اور رمضان کے روزے رکھتے رہیں اور پھر ان کی بقیہ زندگی میں ان کو ان کے رب کے حوالہ کر کے ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔

ابو محمد بن عبداللہ بن عطاء الإبراہیمی فی کتاب الصلاة

۱۲۸۴ ابی عون محمد بن عبید النقی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں دونوں نے فرمایا: جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور وہ زمین کا مالک ہو تو ہم اس سے جزیہ لینا ختم کر دیں گے۔ فقط زمین کا خراج وصول کریں گے۔ ابن ابی شیبہ
 مسلمان کفار پر طاقت کے بل غلبہ حاصل کر لیں اور علاقہ کو فتح کر لیں تو امام وقت کو دو اختیار حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کافروں سے زمین لے لے اور مسلمانوں میں تقسیم کر دے۔ دوسرا اختیار یہ ہوتا ہے کہ کافروں کو وہی زمین واپس کر دے اور ان کے افراد پر فردا کچھ لازم کر دے اور ان کی زمینوں پر خراج لازم کر دے، یعنی پیداوار میں سے کچھ حصہ بدایہ ج ۱ ص ۱۱۶

۱۲۸۵ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: کہ اگر کسی مشرک کے پاس کوئی غلام ہو، پھر وہ غلام اسلام قبول کر لے تو اس غلام کو اس کے مشرک مالک سے چھین لیا جائے گا اور کسی مسلمان کے ہاتھوں فروخت کر دیا جائے گا اور اس کی قیمت اس مشرک مالک کو لوٹا دی جائے گی۔

ابن ابی شیبہ

۱۲۸۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: کہ اسلام میں گرجا گھری اور خصی ہو جانے کا کوئی تصور نہیں۔ ابو عبیدہ

گرجا گھری سے مقصود، دنیا سے کٹ کر بالکل علیحدہ ہو جانے کی ذمت مقصود ہے۔ اور خصی ہونے سے ممانعت کا مطلب ہے کہ آدمی نکاح سے اجتناب کرنے کے لئے خصی ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں نصاریٰ نے خود اختیار کی تھیں۔ اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔

۱۲۸۷ ابوامامہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب نے فرمایا: گھوڑوں کو جنگ کے لئے سداھاؤ اور بجمیوں کے اخلاق سے اجتناب کرو۔ خنزیریوں کے ماحول سے بچو۔ اور اس بات سے قطعاً احتراز کرو کہ تمہارے درمیان کہیں صلیب آویزاں نہ ہو۔ ابو عبیدہ

۱۲۸۸ عمر بن دینار سے مروی ہے کہ اہل شام کے ایک شیخ نے ان کو خبر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب نے ایک اہل کتاب عورت کو جو کسی مسلمان سے حاملہ ہوئی تھی، اس کے شکم کے مسلمان بچہ کی وجہ سے مسلمانوں ہی کے قبرستان میں دفن کیا۔

المصنف لعبدالرزاق، ابن ابی شیبہ، بخاری و مسلم

۱۲۸۹ از مسند ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے خالد بن الولید کو بنی جذیمہ کی طرف بھیجا۔ خالد بن الولید نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ لیکن وہ اپنی زبان کی وجہ سے اچھی طرح یوں کہنے پر قادر نہ ہو سکے کہ: اسلمنا یعنی ہم مسلمان ہو گئے۔ بلکہ

ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے لگے: صباانا، صباانا۔ یعنی ہم اپنے پرانے دین سے پھر گئے، ہم اپنے پرانے دین سے پھر گئے۔ حضرت خالد بن ان کا مطلب سمجھ نہ سکے وہ سمجھے کہ انہوں نے دین قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، لہذا آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل کرنے اور قیدی بنانے لگ گئے۔ اور ہم میں سے ہر شخص کو ایک ایک قیدی حوالہ کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک دن خالد بن الولید کہنے لگے کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کرے۔ میں نے

کہا اللہ کی قسم میں اپنے قیدی کو ہرگز قتل نہ کروں گا اور نہ میرے حامی ساتھیوں میں سے کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ ہم اسی حال میں حضور ﷺ کے پاس پہنچے اور خالد بن الولید کا ماجرا آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ حضور ﷺ نے سنتے ہی اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائے اور کہا: اے اللہ! میں خالد بن الولید کے اس فعل سے بری الذمہ ہوں۔ اے اللہ! میں خالد بن الولید کے اس فعل سے بری الذمہ ہوں۔

المصنف لعبدالرزاق

۱۳۹۰ از مسند ابی الدرداء رضی اللہ عنہ۔ ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایمان گھٹنا بڑھتا رہتا ہے۔ ابن عساکر
 ۱۳۹۱ از مسند ابی الطویل۔ ابی الطویل سطر الحمد و دیا شطب الحمد و د سے مروی ہے کہ وہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی رائے ہے کہ اگر کسی شخص نے ہر طرح کے گناہ انجام دیئے ہوں، کوئی گناہ اس کے کرنے سے نہ رہا ہو، کوئی خواہش نفسانی ایسی نہ ہو، جس کو اس نے لپک کر پورا نہ کیا ہو۔ تو اب فرمائیے کہ کیا ایسے شخص کے لئے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ فرمایا کیا تم مسلمان ہو؟ عرض کیا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمہا ہے اس کا کوئی ساجھی نہیں۔ اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا یا اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اسی طرح اللہ اکبر کہتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔

رواہ ابن عساکر

داجتہ یہاں مہمل المغنی ہے جس طرح پانی دانی میں دانی غیر مقصود لفظ ہے۔ الغریب لابن قتیبہ ج ۱ ص ۳۱۰
 ۱۳۹۲ مسند علی رضی اللہ عنہ۔ ابی الہیاج الاسدی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا: میں تم کو اسی کام کے لئے بھیج رہا ہوں، جس کام کے لئے حضور ﷺ نے مجھے بھیجا تھا یعنی تم جاؤ اور کسی گھر میں کوئی مورتی نہ چھوڑو مگر اس کا نام و نشان تک مٹاؤ۔ اور نہ کسی قبر کے قتبہ کو اونچا چھوڑو مگر اس کو زمین کے برابر کر دو۔

ابو داؤد الطیالسی، مسند احمد، العدنی، السنن لسعید، السنن لأبی داؤد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، الدورقی، ابن حریر
 ۱۳۹۳ از مسند طلق رضی اللہ عنہ بن علی۔ طلق رضی اللہ عنہ بن علی فرماتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا کہ ہمارے دیس میں ایک گرجا گھر ہے۔ ہمیں آپ اپنا وضو کا بچا ہوا پانی عطا فرمادیں۔ آپ ﷺ نے وضو کے لئے پانی منگوایا، اور وضو شروع فرمایا، اور کلی کر کے ہمارے برتن میں ڈال دی۔ پھر فرمایا کہ یہ اپنے ساتھ اپنے علاقہ میں لے جاؤ اور وہاں پہنچ کر اس گرجا گھر کو سمار کر ڈالو اور اس جگہ اس پانی کو چھڑک دو۔ پھر اس جگہ مسجد بنا لو۔ ابن ابی شیبہ

۱۳۹۴ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک ایسی نصرانیہ عورت کے لئے، جو کسی نصرانی کے عقد نکاح میں آئی تھی لیکن ابھی نصرانی نے اس سے مجامعت نہیں کی تھی کہ وہ عورت مشرف باسلام ہوگئی، فرمایا: کہ دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اور عورت کو کچھ بھی مہر نہ ملے گا۔

المصنف لعبدالرزاق

میاں بیوی دونوں مسلمان ہو جائیں تو نکاح برقرار رہے گا

۱۳۹۵ ابن جریج سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور ﷺ نے لوگوں کو اسلام سے قبل کے نکاح، طلاق اور میراث پر برقرار رکھا تھا؟ فرمایا ہمیں اس کے سوا کچھ خبر نہیں پہنچی کہ آپ نے انہی سابقہ عقدوں کو برقرار رکھا۔

المصنف لعبدالرزاق

۱۳۹۶ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اسلام نے چار عورتوں اور ان کے خاوندوں کے درمیان تفریق و جدائی کر دی ہے۔ جنیبہ بنت ابی طلحہ بن عبد العزی بن عثمان ابن عبدالدار، یہ خاتون پہلے خلف بن سعد بن عامر بن بیاضہ الخزاعی کے عقد نکاح میں تھی۔ پھر الا سود بن الخائف کے عقد نکاح میں چلی گئیں۔ اور فاختہ بنت الا سود بن

عبدالطلب بن اسد، یہ پہلے امیہ بن خلف کے عقد نکاح میں تھیں، پھر ابو قیس بن الأسلت ایک انصاری شخص کے عقد میں آ گئیں۔ اور ملیکہ بنت خارج بن سنان بن ابی خارج، یہ پہلے زبان بن سنان کے عقد میں تھیں، پھر منظور بن زبان بن سنان کے عقد میں آ گئیں۔ اور جب اسلام طلوع ہوا تو قیس بن حارث بن عمیرۃ الأسدی کے پاس آٹھ عورتیں تھیں۔ حضور ﷺ نے ان کو فرمایا: کہ چار کو اپنے پاس رکھ لو اور بقیہ کو طلاق دے کو فارغ کر دو۔ اور صفوان بن امیہ بن خلف کے پاس چھ عورتیں تھیں۔ اور عروہ بن مسعود کے پاس دس عورتیں تھیں۔ اور سفیان بن عبداللہ النخعی کے پاس نو عورتیں تھیں۔ اور ابوسفیان بن حرب کے پاس چھ عورتیں تھیں۔ المصنف لعبد الرزاق

فصل ششم..... عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت

۱۳۹۷ عبد اللہ بن عکیم سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے اس ہاتھ پر بیعت ہوا کہ میں جہاں تک ہو سکے سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ ابن سعد

۱۳۹۸ عمیر بن عطیہ اللیشی کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب سے بیعت کے لئے حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! اپنا ہاتھ بڑھائیے ”اللہ اس کو ہمیشہ بلند رکھے“ میں آپ کی اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا دست اقدس بڑھادیا اور فرمایا: ہمارے لئے تم پر حجت ہے، اگر تم اس بیعت کی پاسداری نہ کرو۔ اور تمہارے لئے ہم پر حجت ہے۔ اگر ہم تمہاری صحیح رہنمائی نہ کریں۔ ابن سعد

۱۳۹۹ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک سے مروی ہے کہ میں مدینہ آیا اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو چکی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کاندھوں پر خلافت کا بار آن پڑا تھا۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! میں آپ سے بیعت ہونے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم میرے امیر سے بیعت نہیں ہوئے، اس کی بیعت میری بیعت ہے۔ ابن سعد

یعنی تمہارے علاقے میں میرے مقرر کردہ عامل و امیر کی بیعت کرنا میری بیعت کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ اس کو میں نے بیعت پر اپنا وکیل و نائب بنایا ہے اور وکیل سے بیعت ہونا اور حقیقت مؤکل سے بیعت ہونا ہوتا ہے۔

۱۵۰۱ بشر بن خنیف سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اور ان الفاظ میں آپ سے بیعت ہونے لگا: کہ ہر اس چیز میں جو میری طبیعت کے موافق یا مخالف ہے، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں بلکہ یوں کہو کہ جس قدر مجھ سے ممکن ہے، اس کے مطابق میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ ابن سعد کیوں کہ ہر چیز میں کما حقہ اطاعت بجا لانا اس وقت انسانی وسعت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس صورت میں وعدہ شکنی لازم آتی ہے۔

۱۵۰۲ بشر بن خنیف سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کے پاس حاضر ہوا دیکھا کہ آپ کھانا کھانے میں مشغول ہیں۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں آپ سے بیعت ہونے کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم نے میرے امیر کی بیعت نہیں کی؟ عرض کیا کیوں نہیں، فرمایا اس کی بیعت میری بیعت ہے۔ اس شخص نے عرض کیا: لیکن میری خواہش ہے کہ میرے ہاتھوں کو آپ کے ہاتھوں کا لمس نصیب ہو۔ حاضرین مجلس بھی کھانے میں چونکہ شریک تھے، اس لئے فرمایا: اللہ کے بندو ہڈیوں سے سارا گوشت اچھی طرح نوح لیا کرو پھر آپ بھی اس میں منہمک ہوئے۔ اور ہڈی صاف کر کے ایک طرف ڈال دی اور ایک ہاتھ کو دوسرے سے پونچھا اور پھر فرمایا میں تم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم سنتے رہو گے اور اطاعت کرتے رہو گے۔ ابن جریر

۱۵۰۳ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو آپ نے انصاری خواتین کو ایک گھر میں جمع فرمایا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، میں تمہارے پاس تمہارے رسول کا رسول یعنی قاصد بن کر آیا ہوں۔ پھر فرمایا: کیا تم ان باتوں پر میری بیعت کرتی ہو کہ بدکاری نہ کرو گی؟ چوری نہ کرو گی؟ اپنی اولاد کو قتل

نہ کروگی؟ اور اپنے ہاتھوں پیروں سے کوئی جھوٹ گھڑ کر نہ لاؤ گی؟ اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہ کرو گی؟ ہم سب عورتوں نے کہا: بالکل، پھر ہم نے اپنے ہاتھ کمرے میں پھیلا دیئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمرے سے باہر اپنا ہاتھ دراز کر لیا۔ اور اس کے علاوہ ہم کو یہ حکم بھی دیا کہ ہم حائضہ اور قریب البلوغ عورتوں کو بھی نماز عیدین میں شریک کیا کریں۔ اور جنازوں کے پیچھے جانے سے ہم کو ممانعت فرمائی۔ اور فرمایا کہ ہم پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ کسی عورت نے کہا کہ وہ نیکی کی بات کوئی ہے، جس کی مخالفت نہ کرنے کا ہم سے عہد لیا گیا؟ فرمایا: یہ کہ تم مرنے والوں پر نوحہ بازی نہ کرو۔

ابن سعد، عبد بن حمید، الکجی فی سننہ، المسند لابی یعلیٰ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مردویہ، بخاری و مسلم، السنن لسعد، اپنے ہاتھوں پیروں سے کوئی جھوٹ گھڑ کر نہ لاؤ گی۔ یہ محاورہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی سے بدکاری کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی اور اس کو شوہر کے سر تھوپ دیا کہ یہ تمہارے تعلق سے ہے۔ پھر ہم نے اپنے ہاتھ کمرے میں پھیلا دیئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمرے سے باہر اپنا ہاتھ دراز کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر کمرے سے باہر تھے اور عورتیں اندر تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں کے ہاتھوں کو دیکھا یا چھوا، اور نہ ہی عورتوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو دیکھا یا چھوا۔ بلکہ جائین سے ہاتھ پھیلا کر محض بیعت کی شکل اختیار کر لی تھی۔

۱۵۰۳ از مسند عثمان رضی اللہ عنہ۔ سلیم ابی عامر سے مروی ہے کہ الحمراء کا ایک وفد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور وہ اس بات پر آپ رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ نماز قائم کریں گے۔ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ رمضان کے روزے رکھیں گے۔ اور مجوسیوں کی عید میں کسی طرح کی بھی شرکت سے باز رہیں گے۔ پھر جب انہوں نے ان باتوں پر اقرار کر لیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیعت لے لی۔ مسند احمد فی السنۃ

۱۵۰۵ از مسند اسود بن خلف الخزاعی۔ محمد بن الاسود بن خلف سے مروی ہے کہ ان کے والد اسود نے ان کو قرن عصقلہ کے پاس یہ روایت بیان کی کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو لوگوں سے بیعت لیتے ہوئے دیکھا کہ مرد اور عورتیں، بچے اور بوڑھے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام اور شہادتین پر آپ سے بیعت ہوئے۔ روایت کے ایک روای عبد اللہ بن عثمان بن عثیم کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ شہادۃ کیا چیز ہے؟ تو محمد بن الاسود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: شہادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

۱۵۰۶ از مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ میں اس ہاتھ سے آپ ﷺ سے اپنی سعی و امانکان بھر مع و طاعت پر بیعت ہوا۔ ابن جریر

۱۵۰۷ از مسند جریر رضی اللہ عنہ۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آپ سے انہی باتوں پر بیعت ہوئے جن باتوں پر عورتیں آپ سے بیعت ہوئیں۔ اور جس نے مرتے دم تک ان باتوں میں کمی کوتاہی نہ کی، آپ ﷺ اس کے لئے جنت کے ضامن بنے۔ اور جو اس حال میں مرا کہ اس سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی تھی، لیکن اس پر حد خداوندی کا اجراء ہو گیا تھا تو وہ حد اس کے لئے کفارہ ثابت ہوگی۔ اور جو اس حال میں مرا کہ اس سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی تھی، اور اس پر پردہ پڑا ہوا تو اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔

ابن جریر، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ
۱۵۰۸ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے مجھ سے نماز اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کا برتاؤ رکھنے پر بیعت لی۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ

ہر مسلمان پر خیر خواہی کا حکم

۱۵۰۹ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ سے اسلام پر بیعت ہونے حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے فرمایا مزید اور یہ کہ تم ہر

مسلمان سے خیر خواہی کا سلوک رکھو گے۔ ابن جریر رضی اللہ عنہ

۱۵۱۰ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میں سب وطاعت پر آپ کی بیعت کرنا

چاہتا ہوں۔ خواہ مجھے خوشگوار ہو یا ناگوار ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس کی استطاعت رکھتے ہو یا فرمایا کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو؟ یوں

کہنے سے احتراز کر دو اور یوں کہو جس قدر مجھ سے ہو سکا پھر آپ ﷺ نے مجھے مجملہ دیگر باتوں کے ساتھ اس بات پر بیعت فرمایا کہ تمام

مسلمانوں سے خیر خواہی کا برتاؤ کرو گے۔ ابن جریر

۱۵۱۱ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اپنا دست اقدس پھیلائیے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں؟

اور ساتھ میں شرط بھی غافلہ فرمادیجئے کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ شرط کو جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو،

نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو، مسلمانوں کے خیر خواہ رہو، اور مشرکین سے جدائی اختیار کرو۔ ابن جریر

۱۵۱۲ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے اس بات پر بیعت لی کہ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک رکھو گے

اور کافروں سے قتال جاری رکھو گے۔ ابن جریر

۱۵۱۳ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ سے اس بات پر بیعت ہوا کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ہر مسلمان

سے خیر خواہی رکھوں گا۔ ابن جریر

۱۵۱۴ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ سے سب وطاعت اور ہر مسلمان سے خیر خواہی رکھنے پر بیعت ہوا۔ ابن جریر

طاقت کے مطابق اطاعت گزاری

۱۵۱۵ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے جریر! اپنا ہاتھ دراز کرو، حضرت

جریر نے عرض کیا: بس بات کے لئے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی ذات اللہ کے سپرد کرو، اور ہر مسلمان سے خیر خواہی رکھو۔ حضرت جریر نے رخصت طلب

کی کہ یا رسول اللہ! جس کی میں استطاعت رکھوں؟ تو آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ یہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی عقل مندی تھی جس کی وجہ

سے ان کے بعد دوسرے لوگوں کے لئے بھی یہ رخصت متعین ہوگی۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ

۱۵۱۶ از مسند سہل بن سعد الساعدی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اور ابو ذر رضی اللہ عنہ، عبادۃ رضی اللہ عنہ بن الصامت،

ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ، محمد رضی اللہ عنہ بن مسلمہ اور ایک اور چھٹا شخص تھا، ہم حضور ﷺ سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ ہمیں اللہ کے بارے

میں کسی ملامت کنندہ کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ لیکن چھٹے شخص نے اس بیعت سے ہاتھ کھینچ لیا اور آپ ﷺ نے بھی اس سے بیعت واپس

لے لی۔ الشاشی، ابن عساکر

۱۵۱۷ از مسند عبادۃ رضی اللہ عنہ بن الصامت۔ عبادۃ بن الولید، عبادۃ رضی اللہ عنہ بن الصامت سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ ﷺ کی

اس بات پر بیعت کی کہ تنگدستی ہو یا فراخی، خوشگوار ہو یا ناگوار، اور خواہ ہم پر لوگوں کو ترجیح دی جائے ہر حال میں ہم امیر وقت کی بات

سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے۔ اور اہل حکومت سے حکومت کے لئے منازعت نہ کریں گے۔ اور جہاں کہیں ہوں گے (حق بات)

کہنے سے دریغ نہ کریں گے اللہ کے لئے کسی کام میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال ہرگز نہ کریں گے۔

ابن ابی شیبہ، ابن جریر، الخطیب فی المتفق والمفترق

۱۵۱۸ عبادۃ رضی اللہ عنہ بن الصامت سے مروی ہے کہ عقبہ اولیٰ میں ہم کل گیارہ افراد تھے۔ ہم حضور ﷺ سے عورتوں کی بیعت پر بیعت ہوئے، اور ابھی جہاد فرض نہ ہوا تھا۔ تو ہم نے بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ چوری نہ کریں گے۔ بدکاری نہ کریں گے۔ کوئی جھوٹ گھڑ کر نہ لائیں گے۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے۔ اور کسی نیک بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ سو جس نے ان کی پاسداری کی اس کے لئے جنت ہے۔ اور جس نے کچھ دھوکہ دہی سے کام لیا اس کا حساب اللہ پر ہے، چاہے تو عذاب دے یا مغفرت فرمادے۔ پھر آئندہ سال بھی اس بیعت کی تجدید کرنے کے لئے واپس آئے۔ ابن اسحاق، ابن جریر، ابن عساکر

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورتوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا اور اس میں جن جن باتوں پر بیعت لی گئی مردوں سے بھی ان باتوں پر بیعت لی جاتی تھی، یہی مطلب ہے کہ ہم عورتوں کی بیعت پر بیعت ہوئے گا۔

۱۵۱۹ عبادۃ رضی اللہ عنہ بن الصامت سے مروی ہے، فرمایا کہ میں ان ساتھیوں میں سے ہوں، جنہوں نے عقبہ اولیٰ میں حضور ﷺ کی بیعت کی۔ اور فرمایا کہ ہم ان باتوں پر آپ سے بیعت ہوئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ چوری نہ کریں گے۔ بدکاری نہ کریں گے۔ اور کسی جان کو قتل نہ کریں گے۔ جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہو، مگر کسی حق کی وجہ سے۔ اور نہ لوٹ مار کریں گے۔ اور نہ نافرمانی کریں گے۔ اور اگر ہم ان پر عملدرآمد رہے تو ہمارے لئے جنت ہے۔ اگر کسی چیز میں خیانت کے مرتکب ہوئے تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

الصحيح لمسلم

۱۵۲۰ عبادۃ رضی اللہ عنہ بن الصامت سے مروی ہے، کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے یونہی عہد و پیمان لیا، جس طرح عورتوں سے لیا تھا۔ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ بدکاری نہ کرو گے۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے۔ ایک دوسرے پر بہتان طرازی نہ کرو گے۔ کسی نیکی کا حکم کرو تو میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اور جو کسی قابل حد جرم کا مرتکب ہوا، اور اس کو دنیا ہی میں اس کی سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے گناہ کے لئے کفارہ ثابت ہوگی۔ اور جس کی سزا آخرت پر مل گئی۔ تو اس کا حساب اللہ پر ہے، چاہے تو عذاب سے دوچار کرے یا مغفرت فرمادے۔ دوسرے الفاظ میں چاہے رحم فرمادے۔ الرؤیانی، ابن جریر، ابن عساکر

۱۵۲۱ عبادۃ رضی اللہ عنہ بن الصامت سے مروی ہے، کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری اس بات پر بیعت کرو، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ چوری نہ کرو گے۔ بدکاری نہ کرو گے۔ جس نے ان عہد کو نبھایا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اور جو ان میں سے کسی بات کا مرتکب ہوا، اور دنیا ہی میں اس کو سزا دے دی گئی تو یہ سزا اس کے لئے کفارہ ہوگی۔ اور جو کسی بات کا مرتکب تو ہوا مگر اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تو اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، چاہے تو عذاب سے دوچار کرے یا مغفرت فرمادے۔ ابن جریر

۱۵۲۲ از مسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ سے مع و طاعت پر بیعت ہوتے تھے تو آپ ﷺ ہم کو تلقین فرماتے تھے کہ استطاعت بھر کی قید عائد کر لو۔ ابن جریر

۱۵۲۳ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ سے مع و طاعت پر بیعت ہوتے تھے تو آپ ﷺ ہم کو تلقین فرماتے تھے کہ جس قدر تم میں استطاعت ہے۔ السنائی

از مسند عقبہ بن عبد المطلب۔ عقبہ بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ سے سات بار بیعت ہو پانچ طاعت پر اور دو محبت پر تھیں۔

الغوی، ابو نعیم، ابن عساکر

بیعت عقبہ کا واقعہ

۱۵۲۴ از مسند عقبہ بن ابی طالب۔ عم رسول حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کا حضور ﷺ پر سے گزر ہوا اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ آپ ﷺ بیعت عقبہ کے نقبائز نفاذ سے مخوف تھے۔ حضرت عباس آپ کی آواز پہچان کر اپنی سواری سے

اتر آئے اور سواری باندھ کر رفقاء رسول ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور کہنے لگے: اے اوس و خزرج کی جماعتو! یہ میرا بھتیجا ہے۔ تمام انسانوں میں مجھے محبوب ترین ہے۔ سو اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو، اور اس پر ایمان لاتے ہو، اور مکہ سے نکال کر اپنے ہاں بسانا چاہتے ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ میں تم سے کچھ عہد و پیمان لوں، جس سے میری جان مطمئن ہو جائے۔ وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ کبھی رسوا نہ کرنا۔ اس کو دھوکہ نہ دینا۔ یقیناً تمہارے گرد و پیش یہودی آباد ہیں، اور وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اس وجہ سے میں اس بھتیجے کے بارے میں ان کے مکرو خداع سے مامون نہیں ہوں۔

اسعد بن زرارہ کو عباس کی باتیں شاق گذریں۔ کیونکہ حضرت عباس نے گویا ان پر اور ان کے رفقاء پر الزام عائد کیا تھا۔ تو اسعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں ان کو جواب دوں میری کسی بات سے آپ کے سینہ اطہر کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے گی۔ اور آپ کو ناگوار گزارنے والی کسی بات سے میں تعرض نہ کروں گا۔ فقط آپ کی دعوت پر ہمارے لبیک کہنے کی صداقت اور آپ پر ایمان لانے کی حقانیت واضح کروں گا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: جواب تو دو لیکن کسی تہمت زدہ بات سے احتراز کرو۔

اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی طرف رخ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ! ہر دعوت کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ خواہ وہ نرم ہو یا دشوار گزار ہو۔ آج آپ نے ہمیں ایسی دعوت دی ہے، جس سے لوگ ترش روئی کے ساتھ پیش آرہے ہیں۔ وہ دعوت لوگوں پر سخت اور گراں بار ہے۔ آپ نے ہمیں ہمارے دین کو چھوڑ کر اپنے دین میں آنے کی دعوت دی ہے، یقیناً یہ انتہائی کٹھن مرحلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے آپ کی دعوت پر صدق دل سے لبیک کہا۔ اور آپ نے ہم کو لوگوں سے رشتہ ناطہ، ہر طرح کی قرابت داری، قریب کی ہودو کی ہو جو بھی آپ کی دعوت میں آئے اس سے قطع تعلق کا حکم فرمایا، یہ بھی یقیناً بہت سخت اور انتہائی دشوار مرحلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ہر طرح کی مخالفت مول لے کر آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ اور آپ نے ہم کو دعوت دی، جبکہ ہم ایک عزت مند اور شان و شوکت اور طاقت والی جماعت ہیں، کوئی ہم پر فتح یابی کی طمع نہیں کر سکتا، چہ جائیکہ ایک ایسا شخص جس کو اس کی قوم نے تہا چھوڑ دیا ہو، اس کے بچاؤوں نے اس کو بے آسرا کر کے دوسروں کے حوالہ کر دیا ہو۔ وہ ہم پر سرداری کرے۔ یا رسول اللہ بلاشبہ یہ انتہائی مشکل اور صبر آزمایا مرحلہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے آپ کی دعوت پر سرور و فرحت کے ساتھ لبیک کہا۔ بے شک یہ تمام مراحل لوگوں کے نزدیک سخت اور ناپسند ہیں۔ سوائے ان اشخاص کے، جن کی بھلائی کے لئے اللہ نے عزم فرمایا ہو۔ اور جن کے لئے بہترین انجام مطلوب و مقصود ہو جائے۔ اور ہم نے اس بھلائی کی طرف اپنی زبانوں اور اپنے قلب و جگر کے ساتھ آپ کو لبیک کہا، جو آپ نے لا کر پیش فرمایا ہم اس پر ایمان لائے، اور اس معرفت کے ساتھ تصدیق کی جو ہمارے دلوں کی اقلیم میں جگہ پکڑ چکی ہے۔ پس ہم اس پر آپ سے بیعت ہوتے ہیں اور اللہ سے بیعت ہوتے ہیں جو ہمارا اور آپ کا پروردگار ہے، اس حال میں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں پر۔ اور ہمارے خون آپ کے مقدس خون کے لئے نچھاور ہیں۔ ہمارے ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے، جس سے اپنی جانوں کی اور اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہم اگر ان عہد و پیمان کی وفاداری کریں تو درحقیقت اللہ سے وفاداری کرنے والے ہوں گے۔ اور ہم اس وفاداری سے سعادت مند و نیک بخت ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم خدا نخواستہ غدر کریں تو بلاشبہ یہ اللہ کے ساتھ غدر ہوگا، اور ہم اس کی وجہ سے سختی و بد بخت ہو جائیں گے۔ بس یہ ہمارا صدق و اخلاص ہے، یا رسول اللہ! اور اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔

پھر حضرت اسعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ حضرت عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے حضور ﷺ کے متعلق ہم پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ بہتر جانتا ہے جو آپ کے دل میں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور لوگوں میں مجھے محبوب ترین ہے، تو ہم نے قریب اور دور کے سب رشتے ناطے اور قرابت داری آپ ﷺ کے لئے توڑ لی ہیں۔ اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنے طرف سے ان کو بھتیجا ہے۔ یہ کذاب نہیں ہیں۔ اور جو یہ لے کر آئے ہیں کسی بشر کے کلام کے مشابہ نہیں ہے۔ اور جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کے بارے میں میرا دل مطمئن نہیں ہوگا جب تک آپ ہم سے عہد و پیمان نہ لے لیں۔ تو یہ بات ہم رسول اللہ کے لئے کسی پر نہیں کریں گے بلکہ جو عہد

و بیان آپ لینا چاہیں بالکل لیں۔

پھر حضرت اسعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ آپ ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اپنے لئے جو عہد ہم سے لینا چاہیں ضرور لیں۔ اور اپنے رب کے لئے جو بھی شرط ہم پر عائد فرمانا چاہیں ضرور فرمائیں۔

آپ ﷺ نے فرمایا میں اپنے رب کے لئے تم سے یہ شرط لینا ہوں کہ تم اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے۔ اور جن چیزوں سے اپنی جان، اولاد اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو ان سے میری ذات کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ ہے۔ رفقاء نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کو اس کا پختہ عہد دیتے ہیں۔ ابو نعیم عن ابی اسحاق السبعی عن الشعبي عن عبد اللہ بن عمیر عن عبد اللہ بن عمر

عن عقیل بن ابی طالب ومحمد بن عبد اللہ بن اخی الزہری عن الزہری ان العباس بن عبد المطلب مر بالنبی ﷺ

۱۵۲۶ از مسند عوف بن مالک الأعمی رضی اللہ عنہ۔ عوف بن مالک الأعمی سے مروی ہے کہ ہم نوبیا آٹھ یا سات افراد رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر خدمت تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے، یہ بات آپ ﷺ نے تین مرتبہ دہرائی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ سے پہلے بیعت ہو چکے ہیں، اب دوبارہ کس بات پر بیعت ہوں؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانو گے۔ بچگانہ نمازوں کا اہتمام کرو گے۔ پھر آپ نے آہستہ آواز سے فرمایا اور یہ کہ کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرو گے۔

عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد ان ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کا کوڑا نیچے گرا ہو اور اس نے کسی سے اٹھانے کے لئے کہا ہو۔ الروایانی، ابن جویو، ابن عساکر

۱۵۲۷ مجاشع رضی اللہ عنہ بن مسعود سے مروی ہے کہ میں اور میرا بھائی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم سے ہجرت پر بیعت لیجئے۔ فرمایا ہجرت اپنے اہل کے ساتھ گذرگئی۔ میں نے عرض کیا پھر ہم کس بات پر آپ سے بیعت ہوں؟ یا رسول اللہ! فرمایا اسلام اور جہاد پر۔ راوی حدیث ابو عثمان مالک کہتے ہیں میں مجاشع کے بھائی سے ملا اور ان سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا مجاشع صحیح کہتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ، من مسند مالک بن عبد اللہ الخزاعی عن ابی عثمان مالک عن معاشع بن مسعود

۱۵۲۸ از مر اسیل شععی۔ شععی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس حضور ﷺ کے ہمراہ انصار کے پاس گئے۔ اور انصار سے فرمایا: بات شروع کر لیکن بات کو زیادہ طول مت دو۔ چاسوسوں کی آنکھیں تمہاری نگرانی کر رہی ہیں۔ اور مجھے تم پر کفار قریش کا بھی خطرہ ہے۔ تو حاضرین مجلس میں سے ایک شخص جس کی کنیت ابوامامہ تھی، اور وہ ان دنوں میں انصار کے خطیب سمجھے جاتے تھے۔ اور ان کا نام اسعد بن زرارہ تھا۔ وہ بات کرنا شروع ہوئے، اور آپ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم سے اپنے رب کے لئے سوال کیجئے۔ اور اپنی ذات کے لئے سوال کیجئے۔ اور اپنے اصحاب کے لئے بھی سوال کیجئے؟ اور ساتھ میں یہ بھی فرمادیتے تھے کہ ہم کو اس پر کیا ثواب حاصل ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تم سے اپنے رب کے لئے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اپنی ذات کے لئے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھ پر ایمان لاؤ، اور ان چیزوں سے میری حفاظت کرو جن سے تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اور میں اپنے اصحاب کے لئے تم سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ تم غم خواری کا معاملہ کرو۔ انصار نے عرض کیا اگر ہم ایسا کریں تو ہمارے لئے کیا ثواب ہوگا؟ فرمایا تمہارے لئے اللہ کے ذمہ جنت واجب ہوگی۔

ابن ابی شیبہ، ابن عساکر

۱۵۲۹ از مر اسیل عروۃ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عروۃ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بیعت عقبہ میں جب رسول اکرم ﷺ ستر انصاری صحابہ کرام سے وفاداری کا حلف لے رہے تھے تو اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ ﷺ کا دست اقدس تھاما ہوا تھا اور آپ نے انصار سے آپ ﷺ کے لئے کچھ معاہدے کئے اور چند شرائط بھی عائد کیں۔ اور اللہ کی قسم یہ اسلام کے طلوع کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا۔ اور ابھی تک کسی نے اعلانیہ اللہ کی عبادت نہ کی تھی۔ ابن عساکر

بیعت رضوان کا ذکر

۱۵۳۰ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بیعت شجرہ خصوصاً حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے لئے تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر کفار نے واقعہ عثمان کو قتل کر دیا ہے تو میں ان سے کئے معاہدہ کو توڑتا ہوں۔ پھر ہم آپ ﷺ سے بیعت ہوئے۔ بیعت میں صراحۃ موت کا ذکر نہ تھا بلکہ ہم نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم میدان جنگ سے آخرو دم تک راہ فرار اختیار نہ کریں گے۔ اور اس وقت ہماری تعداد تیرہ سو کے قریب تھی۔ الضعفاء للعقبیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر

۱۵۳۱ محمد بن عثمان بن حوشب اپنے والد عثمان سے اور عثمان محمد کے دادا یعنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ عزوجل نے محمد ﷺ کو ظاہر فرمایا تو میں نے چالیس شہسواروں کا دستہ عبدشرکی ہمراہی میں آپ ﷺ کی خدمت میں بھیجا۔ یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو عبدشر نے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم سے کہا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم نے آپ ﷺ کی طرف اشارہ کر دیا۔ عبدشر نے کہا کہ آپ فرمائیے کہ ہمارے پاس کیا لائے ہیں؟ اگر وہ سچ ہوا تو ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جانوں کا احترام کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ عبدشر نے کہا بے شک یہ چیز تو بہت اچھی ہے۔ لائے اپنا ہاتھ دراز کیجئے۔ (تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں) آپ ﷺ نے فرمایا: تیرا نام کیا ہے؟ عرض کیا: عبدشر یعنی شر کا بندہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں تم عبد خیر ہو یعنی خیر کے بندے ہو۔ پھر آپ ﷺ نے عبد خیر کو حوشب ذی ظلم کے لئے جواب لکھوا کر بھیجا تو حوشب بھی ایمان لے آئے۔ ابن مندہ ابن عساکر

ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حوشب ذی ظلم نے آنحضرت ﷺ کا مبارک زمانہ تو پایا لیکن زیارت سے مشرف نہ ہو سکے۔ حضور ﷺ نے ان کے ساتھ بذریعہ جریر بن عبد اللہ مرسلت بھی فرمائی۔ اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے مسلا روایت کیا ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ، احمد رحمۃ اللہ علیہ بن محمد بن عیسیٰ سے روایت کرتے ہوئے آگے ذکر فرماتے ہیں کہ احمد بن محمد نے ذی ظلم الحسانی حوشب کو حضور ﷺ کے زمانہ سے متصل طبقہ محدثین میں شمار کیا اور فرمایا کہ یہ حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور چونکہ نبی اکرم ﷺ ان کی تعریف فرما گئے تھے تو اس حوالہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو پہچان لیا۔

۱۵۳۲ ایسا بن سلمہ اپنے والد سلمہ سے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے خارجہ بن کرزولبطور ہراول دستہ کے آپ ﷺ کی طرف بھیجا تاکہ آپ کی عسکری قوت کے احوال و کوائف لے کر آئے۔ تو یہ اس مہم سے واپس آیا اور آپ ﷺ اور آپ کی عسکری کی مدح و ثناء کرنے لگا۔ قریش نے اس کو کہا کہ تو ایک دیہاتی آدمی ہے، انہوں نے اپنے اسلحہ وغیرہ کی جھکڑ سے تجھے مرعوب کر لیا، اسی میں تیرا دل اڑ گیا ہے۔ پھر قریش نے عروہ بن مسعود کو اس غرض کے لئے بھیجا۔ یہ آ کر آپ ﷺ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا: اے محمد! یہ کیا بات ہے؟ تم اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو اور اپنی قوم کے پاس اوباش قسم کے لوگوں کا انہو جمع کر لائے ہو؟ کوئی پتہ نہیں وہ کون ہیں کون نہیں ہیں۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس طرح تم صلہ رحمی کا ناطہ توڑو، اور اہل قرابت کی حرمتوں کو پامال کرو، ان کی جانوں اور مالوں سے کھیلو۔

حضور ﷺ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: بلکہ میری آمد کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے جوڑوں۔ اور یہ کہ اللہ میری قوم والوں کو ان کے دین سے بہتر دین مرحمت فرمائے۔ اور ان کو ان کی معیشت سے اعلیٰ معیشت عطا فرمائے۔ یہ شخص بھی بالآخر آپ کی مدح و ثناء گاتے ہوئے واپس پہنچا۔

حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ان مسلمان قیدیوں پر، جو مشرکین کے ہاتھوں میں تھے، ظلم و ستم کی چکی سخت ہو گئی۔ تو حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا: اے عمر! کیا تم اپنے مسلمان قیدی بھائیوں کو میرا پیغام پہنچا سکتے ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! نہیں کیونکہ اللہ کی قسم! مکہ میں مجھ سے بڑے خاندان والا کوئی نہیں ہے۔ اور میری وجہ سے ان کو گزند پہنچنے کا قوی امکان ہے۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا کر اس مہم پر روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر مشرکین کے

لشکر میں جا پہنچے۔ مشرکین نے آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ناز بپارتاؤ کیا اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ پھر آپ کے چچا زاد ابان بن سعید نے آپ کو پناہ دیدی۔ اور اپنے پیچھے زین پر بٹھالیا۔ پھر آپ کے اترنے پر آپ کے چچا زاد نے کہا: اے ابن عم! کیا بات ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ منکسر المزاج دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنے ازار کو بہت زیادہ اونچا کر رکھا ہے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ازار اس وقت نصف پنڈلیوں تک تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے ساتھی (حضور ﷺ) کا ازار اسی طرح ہوتا ہے۔

پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ میں کسی مسلمان قیدی کو آپ ﷺ کا پیغام پہنچانے بغیر نہ چھوڑا۔

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر ہم لوگ دو پہر کے وقت قیلولہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے منادی نے ندا دی: کہ اے لوگو! بیعت کی طرف بڑھو (بیعت کی طرف بڑھو)۔ جبریل امین کوئی حکم خداوندی لے کر اترے ہیں۔ تو ہم رسول اللہ ﷺ کی طرف تیزی سے لپکے۔ آپ ﷺ بول کے درخت کے سایہ میں تھے، تو وہیں ہم آپ ﷺ سے بیعت ہوئے۔ اور یہی واقعہ ہے جس کے متعلق فرمان الہی ہے:

﴿لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ﴾

”اے پیغمبر! جب مؤمن تم سے درخت کے نیچے بیعت ہو رہے تھے، تو اللہ ان سے خوش ہوا۔“

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بیعت میں آپ ﷺ نے حضرت عثمان کی جانب سے اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ سے بیعت لی۔ لوگوں نے کہا ابو عبد اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مبارک ہو کہ وہ تو بیت اللہ کے طواف میں مشغول ہوں گے، اور ہم ادھر اس سعادت سے محروم ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر وہ اتنے سالوں تک بھی وہاں ٹھہرے رہیں پھر بھی میرے بغیر ہرگز طواف نہ کریں گے۔

رواہ ابن ابی شیبہ

۱۵۳۳ ابو عقیل زہرہ بن معبد اپنے دادا عبد اللہ بن ہشام سے روایت کرتے ہیں، اور عبد اللہ بن ہشام نے نبی اکرم ﷺ کا زمانہ مبارک پایا تھا تو ان کی والدہ زینب بنت جمیل ان کو نبی اکرم ﷺ کے پاس لے کر گئیں۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس کو بیعت فرما لیجئے آپ ﷺ نے فرمایا: ابھی یہ بچہ ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا۔ اور ان کے لئے دعا بھی فرمائی۔ اور یہ عبد اللہ بن ہشام اپنے جمع اہل خانہ کے لئے ایک بکری قربانی کرتے تھے۔ ابن عساکر

۱۵۳۴ عقبہ بن عمرو والنصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں ہم سے رسول اللہ ﷺ نے عقبہ کی کھوہ میں یوم ضحیٰ کو عہد و پیمانہ لیا۔ ہم ستر اشخاص تھے۔ میں ان میں سب سے کم سن تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ہمارے پاس تشریف لا کر فرمایا: مختصر بات کرو، کیونکہ مجھے تم پر کفار قریش کا خطرہ ہے۔

ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہم سے اپنے رب کے لئے سوال کیجئے۔ اپنی ذات کے لئے سوال کیجئے۔ اور اپنے اصحاب کے لئے بھی سوال کیجئے۔ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ہمارے لئے اللہ پر اور آپ پر کیا اجر ہوگا؟ فرمایا: میں اپنے رب کے لئے تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور تم سے سوال کرتا ہوں کہ میری اطاعت و فرمان برداری کرو۔ میں تمہیں سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اور میں اپنے اور اپنے اصحاب کے لئے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم ہم سے غم خواری کا سلوک کرو۔ اور جن خطرات سے اپنی حفاظت کرتے ہو، ان سے ہماری بھی حفاظت کرو۔ جب تم یہ کر لو گے تو تمہارے اللہ اور میرے ذمہ جنت کا وعدہ ہے۔ انصار فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنے ہاتھ دراز کئے اور آپ ﷺ سے بیعت ہو گئے۔ ابن ابی شیبہ، ابن عساکر

۱۵۳۵ شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: بیعت رضوان میں سب سے پہلے جو شخص نبی اکرم ﷺ سے بیعت ہوا، وہ ابوسنان بن وہب الاسدی تھے۔ پہلے یہ بیعت ہوئے اس کے بعد لوگوں کا تانتا بندھ گیا اور سب نے ان کے بعد بیعت کی۔ ابن ابی شیبہ

الفصل السابع.....ایمان بالقدر کے بیان میں

۱۵۳۶ از مسند صدیق رضی اللہ عنہ۔ طلحہ رحمۃ اللہ علیہ بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عبد اللہ سے سنا، وہ بھی فرماتے تھے کہ ان کے والد عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! عمل کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے؟ یا عمل از سر نو انجام پاتا ہے۔ فرمایا: نہیں بلکہ عمل کے متعلق فیصلہ سے فراغت ہو گئی ہے۔ عرض کیا پھر عمل کرنے کا فائدہ؟ فرمایا: ہر انسان کو اسی عمل کی توفیق ہوتی ہے، جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابوزکریا بن مندہ فی جزء من روی عن النبی اھو وولده وولدولده ۱۵۳۷ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: آپ کا کیا خیال ہے کہ زنا کا تعلق بھی تقدیر سے ہے؟ فرمایا: بالکل۔ وہ شخص کہنے لگا تو اللہ نے اس کو مقدر میں لکھا پھر اس کی وجہ سے مجھے عذاب بھی کرتا ہے؟ فرمایا: بالکل، اے غیر مختون عورت کے بیٹے! اگر میرے پاس ابھی کوئی شخص ہوتا تو میں اس کو حکم کرتا کہ وہ تیری ناک کاٹ دیتا۔

ابن شاہین واللائکانی معاً فی السنۃ عرب عورتوں میں ختنہ کا رواج تھا۔ وہ پردہ بکارت سے اوپر ایک جھلی کو کٹا دیتی تھیں۔ اور غیر مختون عورت کے بیٹے ایسا اوقات ان کے ہاں برا بھلا کہتے وقت استعمال کرتے تھے۔

۱۵۳۸ ... عبد الرحمن بن سابط کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا۔ پھر وہ اس کی مٹھی میں آگئی۔ اللہ نے دائیں ہاتھ والی مخلوق کو فرمایا: تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور دوسرے ہاتھ والی مخلوق کو فرمایا: تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو قیامت تک اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ حسین بن اصروم فی الاستقامۃ واللائکانی فی السنۃ

۱۵۳۹ ... محمد بن عکاشہ الکرمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! ہمیں عبد الرزاق نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم! ہمیں سلمہ نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم! ہمیں عبد اللہ بن کعب نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم! ہمیں عبد اللہ بن عباس نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم! ہم سے علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم! ہمیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم! میں نے اپنے محبوب محمد ﷺ سنا۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کی قسم! میں نے جبرئیل امین علیہ السلام سے سنا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم! میں نے میکائیل علیہ السلام سے سنا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم! میں نے اسرافیل علیہ السلام سے سنا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم! میں نے لوح محفوظ سے سنا لوح محفوظ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے قلم سے سنا۔ قلم کہتا ہے اللہ کی قسم! میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا۔ بے شک میں اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں۔ جو مجھ پر ایمان لایا لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لایا تو وہ میرے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کر لے، میں اس کا پروردگار نہیں ہوں۔ الحافظ ابوالحسین علی بن الفضل المقدسی فی مسلسلہ

اس روایت میں محمد بن عکاشہ کذاب راوی ہے۔ ابوالقاسم محمد بن عبد الواحد نے اس روایت کو اپنے اس رسالہ میں ذکر کیا ہے جس کی احادیث کی اسناد میں چار چار صحابہ کرام راوی ہیں۔ اور عقبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدث ابوالقاسم بن بشکوال نے فرمایا کہ اس حدیث شریف کی اسناد میں چار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور عبد اللہ بن کعب بن مالک کی صحابیت میں اختلاف ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک ان کی صحابیت تسلیم ہے۔ تو اس طرح یہ اس روایت کے چار صحابہ میں سے چوتھے صحابی شمار ہوں گے۔ اور اس طرح کی اسناد اور الوجود ہیں۔

۱۵۴۰ ... عبد اللہ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ اللہ نے دو مٹھی مخلوق پیدا فرمائی اور ان

دائیں والوں کو فرمایا تم جنت میں خوشی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اور ان بائیں والوں کو فرمایا: تم جہنم میں جاؤ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔

حسین فی الإستقامة

۱۵۲۱ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دعا تھی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صبح و شام مانگا کرتے تھے:

اللهم اجعل خیر عمری آخره وخیر عملی خواتمه وخیر ایامی یوم القاک

”اے اللہ میری عمر کا بہترین حصہ آخری حصہ بنا۔ اور میرے اعمال میں عمدہ ترین اعمال خاتمے کے وقت کے بنا۔ اور میرے لئے بہترین دن وہ دن بنا جس میں میری آپ سے ملاقات ہو۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا: اے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں جبکہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھی اور ”ثانی اثینین فی الغار“ ہیں؟ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آدمی بسا اوقات زمانہ بھر اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ اہل جہنم کے عمل پر ہو جاتا ہے۔ اور بسا اوقات آدمی عرصہ دراز تک اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہو جاتا ہے۔ رواہ حسین

۱۵۲۲ سفیان بن عیینہ اپنی جامع میں عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی اور وہ دوٹھپی میں آگئی۔ دائیں ہاتھ والوں کو فرمایا تم جنت میں خوشی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اور بائیں ہاتھ والوں کو فرمایا: تم جہنم میں جاؤ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔

تقدیر کے متعلق بحث کرنے کی ممانعت

۱۵۲۳ از سند عمر رضی اللہ عنہ۔ یحییٰ بن یحییٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے تقدیر کے متعلق بصرہ میں جس نے بحث آرائی کی وہ معبد الجہنی تھا۔ تو میں حمید بن عبدالرحمن الحمیری کے ہمراہ نکلا۔ ہمارا ارادہ حج یا عمرہ کا تھا۔ ہم نے کہا کاش اگر کوئی صاحب رسول ﷺ مل جائے تو ہم ان سے تقدیر کے متعلق بحث کرنے والوں کے بارے میں سوال کریں۔ تو اتفاق سے ہمارا سامنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہو گیا، آپ رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ہم نے آپ کو جالیا، ہم میں سے ایک آپ رضی اللہ عنہ کی دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب ہو گیا۔ میرا غالب خیال یہی تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کرنے کا موقع مجھے دے گا لہذا میں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا: اے ابو عبدالرحمن! ہمارے دیار میں چند ایسے لوگ سر ابھار رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور علم کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اور بھی ان کے کچھ حالات گنوائے۔ نیز یہ کہ ان کا خیال ہے کہ تقدیر کا کوئی وجود نہیں، بلکہ ہر کام از سر نو انجام پاتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو یہ خبر دے دینا کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، میں ان سے بری، اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اور قسم ہے اس ہستی کی، کہ عبداللہ بن عمر جس کی قسم اٹھایا کرتا ہے! کہ اگر ان میں سے کوئی شخص احد پہاڑ برابر سونے کا مالک ہو، اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر ڈالے۔ تب بھی وہ اس کی جانب سے اس وقت تک ہرگز شرف قبولیت کو نہ پہنچے گا، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے بیان کیا کہ میرے والد عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب نے مجھے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر مجلس تھے کہ ایک ایسا شخص ہمارے پاس آیا کہ اس کے کپڑے انتہائی سفید، اور بال گھنے سیاہ تھے۔ اس کے جسم پر آثار سفر بھی نہ تھے۔ اور ہم میں سے کوئی شخص بھی ان کو پہچانتا نہ تھا۔ وہ اس قدر نبی ﷺ کے قریب آ کر بیٹھا کہ اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیئے۔ اور آپ ﷺ کی رالوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیئے۔ پھر کہنے لگا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کہ تم۔ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی شہادت دو۔ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ ماہ صیام کے روزے رکھو۔ اگر جانے کی استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے سچ فرمایا ہمیں اس کی بات سے تعجب ہوا کہ سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر استفسار کیا: مجھے خبر دیجئے کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر،

یوم آخرت پر ایمان لاؤ۔ اور ہر بھلی و بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر استفسار کیا: احسان کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو۔ ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ پھر کہا: مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجئے کہ کب واقع ہوگی؟ فرمایا: اس بارے میں مسئول سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ پھر کہا: اچھا مجھے اس کی علامات کے متعلق خبر دیجئے؟ فرمایا: یہ کہ باندی اپنی مالکہ کو جنم دینے لگے، اور عمارتیں فلک بوس ہونے لگیں۔ پھر وہ سائل شخص چلا گیا۔ پھر میں کچھ وقت ٹھہرا ہوا پھر آپ ﷺ نے پوچھا: اے عمر! جانتے ہو سائل کون تھا؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا: یہ جبرئیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔

ابن ابی شیبہ، مسند احمد، الصحيح لمسلم، السنن لأبی داؤد، الصحيح للترمذی، رحمة الله عليه، النسائی، ابن ماجہ، ابن جریر، ابن خزیمہ، ابوعوانہ، الصحيح لابن حبان، ق فی الدلائل

ابن خزیمہ اور ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: یہ کہ تم نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ حج و عمرہ کرو۔ غسل پاکی کرو۔ اور وضوء کو تمام کرو۔ اور ماہ صیام کے روزے رکھو۔ اور ابن حبان میں اس بات کا اضافہ ہے: لیکن اگر تم چاہو تو میں تم کو اس کی علامات کی خبر دے دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ جب تم دیکھو کہ فقیر لوگ، ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے، لمبی لمبی عمارتوں کے بنانے میں مقابلہ بازی کر رہے ہیں، اور وہ بادشاہ بن بیٹھے ہیں۔ پوچھا گیا: کہ ”العالة الخفاة العراة“ یعنی یہ فقیر لوگ، ننگے پاؤں والے، ننگے جسموں والے کون ہیں؟ فرمایا: عرب۔ اور یہ کہ تم باندی کو دیکھو کہ وہ اپنی مالکہ کو جنم دینے لگی ہے، تو جان لو کہ یہ قیامت کی علامات ہیں۔ اور الجامع الترمذی کے الفاظ یہ ہیں: پھر نبی اکرم ﷺ مجھ سے تین یوم بعد ملے تو مجھ سے دریافت کیا کہ اے عمر! جانتے ہو سائل کون تھا؟ پھر فرمایا: یہ جبرئیل تھے، تمہیں تمہارے دین کی بات سکھانے آئے تھے۔ اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں: اور باندیاں اپنی آقاؤں کو جنم دینے لگیں گی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس اس سائل کو تلاش کر کے لاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو تلاش کیا۔ لیکن وہاں اس کے کچھ آثار بھی نہ پاسکے۔ پھر آپ ﷺ ایک دن یاد دیا تین دنوں تک ٹھہرے رہے پھر پوچھا: اے ابن الخطاب! جانتے ہو وہ سائل کون تھا؟ پھر آگے وہی تفصیل ہے۔

”باندیاں اپنی آقاؤں کو جنم دینے لگیں گی“ کا مطلب یہ ہے کہ ماں جس اولاد کو جنم دے گی وہ اولاد ماں کی اس قدر نافرمان اور سرکش اور اس پر اپنا حکم چلانے والی ہوگی گویا ماں اس کی باندی سے اور وہ اولاد اس کی آقا ہے۔ گویا ماں نے بیٹے کو کیا جنم دیا۔ بلکہ اپنے مالک کو جنم دے دیا۔ یہ مطلب ہے کہ باندیاں اپنی آقاؤں کو جنم دینے لگیں گی۔

۱۵۴۴۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مزینہ باجینہ کے ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم کس بناء پر عمل کرتے ہیں! کیا عمل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کے متعلق فیصلہ ہو گیا اور وہ گزر گیا کہ انسان اس کو ضرور انجام دے گا؟ یا عمل از سر نو ہوتا ہے؟ کہ پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہوا بلکہ انسان کی مرضی پر منحصر ہے کہ کرے یا نہ کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اسی کے مطابق ہوتا ہے جو اس کے متعلق حکم صادر ہو چکا اور گزر گیا۔ تو اسی شخص نے یا قوم کے کسی اور فرد نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر عمل کا کیا فائدہ؟ فرمایا: اہل جنت کو اہل جنت ہی کے عمل میں لگایا جاتا ہے۔ اور اہل جہنم کو اہل جہنم ہی کے عمل میں لگایا جاتا ہے۔

مسند احمد، السنن لأبی داؤد، الشاشی، السنن لسعيد

۱۵۴۵۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں۔ یہ از سر نو ہوتا ہے یا اس سے فراغت ہوگئی ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو کیوں نہ پھر ہم تو کل کر کے بیٹھ جائیں؟ فرمایا ابن خطاب! عمل کرتا رہ۔ ہر شخص کو اسی کی توفیق ملتی ہے، جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ جو اہل سعادت سے ہے، وہ سعادت ہی کا عمل کرتا ہے۔ اور جو اہل شقاوت سے ہے وہ شقاوت ہی کا عمل کرتا ہے۔

ابو داؤد الطیالسی، مسند احمد

مسند نے اس روایت کو یہاں تک روایت کیا ہے ”وقد فرغ منه“ یعنی اس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور مزید یہ اضافہ بھی ہے۔ ”قلت ففیم العمل؟ قال لا ینال الا بالعمل قلت اذا نوحجتھ“ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر عمل کا کیا فائدہ؟

فرمایا: وہ نوشتہ تقدیر یعنی تقدیر کا فیصلہ بھی عمل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ عرض کیا تب تو ہم خوب سچی و محنت کریں گے۔ الشاشی، قط فی الأفراد، الرد علی الجهمیہ لعثمان بن سعید الدارمی، السنن لسعید، خلق افعال العباد للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر، الإستقامۃ لحسین ۱۵۳۶۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

”فمنهم شقی ومنهم سعید“
”ان میں بعض بد بخت ہیں اور بعض سعید۔“

تو میں نے رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی! ہم عمل کس بناء پر کریں آیا اس بناء پر کہ فیصلہ صادر ہو چکا ہے کہ کون شقی ہوگا اور کون سعید؟ یا نہیں ہوا؟ فرمایا بلکہ ہر چیز کے فیصلہ سے فراغت ہو گئی ہے۔ اور قلم ان پر چل چکے ہیں اے عمر! لیکن ہر ایک اسی عمل میں مصروف ہوتا ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث حسن غریب، المسند لابن یعلیٰ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، ابن مردویہ ۱۵۳۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے جابیہ کے مقام پر خطبہ دیا اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، پھر کہا اللہ جس کو بدایت پر گامزن رکھنا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور جس کو وہی گمراہ کر دے اس کو کوئی سیدھی راہ پر نہیں لاسکتا۔ اس موقعہ ایک عیسائی راہب نے، جو آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھا تھا، فارسی میں کچھ بات کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ترجمان سے دریافت کیا: یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس کا خیال ہے کہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا: اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا پھر اسی نے اب تجھ کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اور وہی تجھے جہنم رسید بھی کرے گا انشاء اللہ۔ اگر میں مصالحت نہ کر چکا ہوتا تو ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب اللہ نے آدم کو تخلیق فرمایا تو اسی وقت اس کی ذریت کو چوٹیوں کی شکل میں پھیلایا۔ اور اہل جنت اور ان کے اعمال لکھ دیئے۔ اور اہل جہنم اور ان کے اعمال لکھ دیئے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ مخلوق اس کیلئے ہے اور وہ اس کے لئے۔ تو تجھی سے لوگ مختلف بٹ گئے ہیں، اور ان کی تقدیر بھی مختلف ہے۔

ابوداؤد فی کتاب القدریۃ، ابن جریر، ابی حاتم، ابوالشیخ، ابوالقاسم بن بشران فی امالیہ، الرد علی الجهمیہ لعثمان بن سعید الدارمی، الإستقامۃ لحسین، اللالکائی فی السۃ الأصبہانی فی الحجۃ، ابن خسر، مسند ابی حنیفہ ۱۵۳۸۔ عبدالرحمن بن ابزی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ سے ذکر کیا گیا چند لوگ تقدیر کے متعلق بحث آرائی کرتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے۔ اور فرمایا: اے لوگو! تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے قعرِ ہلاکت میں پڑے کہ وہ تقدیر کے مسئلہ میں الجھنے لگ گئے۔ اور قسم ہے اس ہستی کی جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے کہ آئندہ میں کوئی بھی دو شخصوں کو تقدیر کے مسئلہ میں گفتگو کرتے نہ دیکھوں ورنہ ان کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ تو لوگ سر جھکائے اس مسئلہ سے بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر اس میں حرف زنی کسی نے نہ کی حتیٰ کہ پھر حجاج کے زمانہ میں ملک شام میں یہ بولنے والا معبر الجہنی پیدا ہوا۔

۱۵۳۹۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: کہ ہر چیز تقدیر کے ساتھ معلق ہے، حتیٰ کہ کم ہمتی اور دانائی بھی۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ

آدم اور موسیٰ علیہما السلام کا مناظرہ

۱۵۵۰۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار! آدم علیہ السلام سے میری ملاقات کرائیے، جنہوں نے ہم کو اپنے سمیت جنت سے نکلوا یا؟ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا سامنا کروا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ ہی ہمارے باپ آدم ہیں؟ فرمایا: جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: آپ ہی میں اللہ نے اپنی

روح پھونکی؟ اور تمام اسماء کی آپ کو تعلیم دی؟ اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: جی ہاں بالکل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: پھر کس بات نے آپ کو اس پر اسکا یا کہ آپ نے ہم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جنت سے نکلوایا؟

حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: اور تم کون ہو؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا: کیا تم وہی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہو، جن کو اللہ نے اپنے ساتھ بغیر کسی قاصد کے صرف پردے کے حجاب میں کلام کرنے کا شرف بخشا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو کیا تم نے اپنی کتاب میں نہیں پایا کہ یہ فیصلہ تو میری تخلیق سے قبل ہی میرے لئے لکھ دیا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا: جی ہاں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: تو پھر کس بات پر تم مجھے ملامت کرتے ہو کیا ایسی بات پر جس کا فیصلہ مجھ سے پہلے ہو گیا تھا۔

حضور ﷺ نے اس موقع پر فرمایا: پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔

السنن لأبى داؤد، ابن ابى عاصم فى السنة، ابن جرير، ابن خزيمة، ابو عوانه، الشاشى، ابن منده فى الرد على الجهميه، الأجرى فى الثمانين، الأصبهاني فى الحجة، السنن لسعيد

۱۵۵۱ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امر تقدیر کو اس حال میں پایا کہ مخلوق کی پیدائش سے قبل ہی اس کے متعلق فیصلہ سے فراغت ہو گئی ہے۔ اور مال کے جمع ہونے سے قبل اس کی تقسیم کر دی گئی ہے۔ اور لوگ تقدیر الہی کے موافق کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اور کوئی جی موت کے گھاٹ نہیں اترتا مگر اللہ کے ہاں اس پر حجت ہوتی ہے، اب وہ چاہے تو اس کو عذاب کرے اور چاہے تو مغفرت کرے۔

الإستقامة لحسين

۱۵۵۲ از مسند علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم بقیع الغرقد (جنت البقیع) میں کسی جنازہ کے ساتھ تھے، کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ کے گرد و پیش بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک چھری تھی، جس سے آپ زمین کو کھینچنے لگے۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی نگاہ اٹھائی، اور فرمایا: کوئی ایسا جی نہیں ہے، جس کے لئے جنت یا جہنم کا ٹھکانہ نہ لکھ دیا گیا ہو، جس کے لئے شقی یا سعید ہونا نہ لکھ دیا گیا ہو۔ قوم نے عرض کیا یا رسول اللہ! تو پھر کیوں نہ ہم اپنے متعلق لکھے ہوئے پر ٹھہر جائیں؟ اور عمل چھوڑ بیٹھیں؟ کیونکہ جو اہل سعادت سے ہوگا وہ سعادت ہی کی طرف لوٹے گا۔ اور جو اہل شقاوت سے ہوگا وہ شقاوت ہی کی طرف لوٹے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ عمل کرتے رہو۔ ہر ایک کو مصروف کر دیا گیا ہے۔ سو جو اہل شقاوت سے ہے، اسے اہل شقاوت ہی کے عمل کی توفیق دی گئی ہے۔ اور جو اہل سعادت سے تعلق رکھتا ہے اسے اہل سعادت ہی کے عمل کی توفیق دی گئی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنِيسِرْهُ لِيَسِرَى﴾

”سو جس نے راہ خدا میں عطا کیا، اور پرہیزگاری اختیار کی، اور نیکی کی بات کو سچ مانا تو ہم اس کو آسان راستے کی توفیق دیں گے۔“

ابو داؤد الطيالسي، مسند احمد، الصحيح للبخاري رحمة الله عليه، الصحيح لمسلم، السنن لأبى داؤد، الصحيح للترمذى رحمة

الله عليه، النسائي، ابن ماجه، خشيش فى الإستقامة، المسند لأبى يعلى، الصحيح لابن حبان، شعب الإيمان

۱۵۵۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اور اللہ کی حمد و ثناء بیان کی، اور فرمایا: ایک کتاب ہے جس میں اللہ نے اہل جنت اور ان کے اسماء اور انساب لکھے ہیں۔ اسی پر ان کو جمع کیا جائے گا! قیامت تک کبھی بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا: ایک کتاب اور ہے جس میں اللہ نے اہل جہنم اور ان کے اسماء اور انساب لکھے ہیں۔ اسی پر ان کو جمع کیا جائے گا! قیامت تک کبھی بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ صاحب جنت کا خاتمہ اہل جنت ہی کے عمل پر ہوگا خواہ کیسے ہی اعمال کرتا رہا ہو۔ صاحب جہنم کا خاتمہ اہل جہنم ہی کے عمل پر ہوگا خواہ کیسے ہی اعمال کرتا رہا ہو۔ کبھی اہل سعادت میں اہل شقاوت کا طریقہ رائج ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کہا جانے لگتا ہے کہ یہ لوگ کس بری طرح ان بدبختوں کے ہو رہے ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر سعادت ان کو جالیتی ہے اور ان کو اس سے نجات دیتی ہے۔ اور کبھی اہل شقاوت میں اہل سعادت کا طریقہ رائج ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کہا جانے لگتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر نیک بختوں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر شقاوت ان کو جالیتی ہے اور ان کو اس سے نکال لاتی ہے۔ جس کے لئے اللہ نے ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں سعید ہونا لکھ دیا ہے، اس

کو اللہ دنیا سے نہیں نکالے گا، جب تک کہ اس کو موت سے قبل اہل سعادت کے عمل میں نہ لگا دے خواہ وہ وقت اونٹنی کے دودھ دوہنے کی دودھاروں کے درمیانی وقفہ کے بقدر ہو۔ اور جس کے لئے اللہ نے ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں شقی ہونا لکھ دیا ہے، اس کو اللہ دنیا سے نہیں نکالے گا، جب تک کہ اس کو موت سے قبل اہل شقاوت کے عمل میں نہ لگا دے خواہ وہ وقت اونٹنی کے دودھ دوہنے کی دودھاروں کے درمیانی وقفہ کے بقدر ہو۔ پس اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه، ابوسهل الجندی سبوری فی الخماس من حدیثہ

۱۵۵۴۔ حضرت شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم کو خطبہ دیا اس میں فرمایا: اس شخص کا ہم سے کوئی سروکار نہیں جو اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ رکھے۔ ابن بشران

۱۵۵۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم کوئی جی دار نفس ایسا نہیں ہے، جس کے لئے بدبختی یا نیک بختی نہ لکھ دی گئی ہو۔ یہ سن کر ایک شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! پھر عمل کس لئے کریں؟ فرمایا عمل کرتے رہو۔ کیونکہ ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ملتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ السنۃ لابن ابی عاصم

تقدیر مبرم کا ذکر

۱۵۵۶۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: اللہ تعالیٰ امر مبرم کو بھی دفع فرمادیتے ہیں۔ جعفر الفریابی فی الذکر امر مبرم

تقدیر دو حصوں میں منقسم ہوتی ہے امر مبرم امر مطلق، امر مبرم کا مطلب ہے جس کا وقوع عظمیٰ یقینی ہو۔ اور امر مطلق کا مطلب ہے جو بندہ کے اختیار پر محمول ہو کہ اگر وہ ایسا کرے گا تب تو اس کا وقوع ہوگا ورنہ نہیں۔

۱۵۵۷۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان کسی کے قلب میں اخلاص کے ساتھ ہرگز اس وقت تک جگہ نہیں بنا سکتا جب تک کہ وہ مکمل یقین کے ساتھ، جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، اس بات کا یقین نہ کر لے کہ جو چیز اس کو بچنے والی نہ تھی اور وہ جو نہیں بچنے والی نہ تھی وہ ہرگز بچنے والی نہ تھی۔ اور ہر شی تقدیر کے ساتھ مقرر ہے۔ اللالکائی

۱۵۵۸۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ان کے پاس کسی نے تقدیر کا مسئلہ چھیڑا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت اور اس کے برابر والی انگلی اپنے منہ میں ڈالی اور پھر تھیلی کے میں ان کو پھیرا اور فرمایا: میں شہادت دیتا ہوں کہ ان دو انگلیوں کے ساتھ یہ لکھنا بھی یقیناً علم الکتاب یعنی لوح محفوظ میں تھا۔ اللالکائی

مقصود یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل خواہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری سب تقدیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔

۱۵۵۹۔ جعفر بن محمد اپنے والد محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جو مشیت یعنی قدرت میں کلام کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر مخاطب ہوئے اور فرمایا: اے اللہ کے بندے! بتا کہ اللہ نے جب چاہا تجھے پیدا کیا یا تو نے جب چاہا تب تجھے پیدا کیا؟ عرض کیا کہ جب اللہ نے چاہا پیدا کیا۔ دریافت فرمایا: جب وہ چاہتا ہے تب تجھے بیمار کرتا ہے یا جب تو چاہتا ہے تب تجھے بیمار کرتا ہے؟ عرض کیا جب وہ چاہتا ہے تب بیمار کرتا ہے۔ فرمایا: جب وہ چاہے گا تجھے موت دے گا یا جب تو چاہے گا تب تجھے موت دے گا؟ عرض کیا جب وہ چاہے گا موت دے گا۔ فرمایا پھر جہاں وہ چاہے گا تجھے داخل کرے گا یا جہاں تو چاہے گا داخل کرے گا؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس کے سوا کوئی اور جو ب دیتے تو میں تمہارا یہ سر قلم کر دیتا جس میں یہ دو آنکھیں ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ ﴿هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾

”تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو۔ وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔“

ابن ابی حاتم الأصبہانی، اللالکائی، الخلعی فی الخلیعۃ

قضاء و قدر کا مطلب

۱۵۶۰ محمد بن زکریا الحلانی سے مروی ہے کہ ہم کو عباس بن البرکات نے بیان کیا وہ حضرت عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین سے واپس تشریف لائے تو آپ کے اصحاب میں سے ایک شیخ نے کھڑے ہو کر سوال کیا اے امیر المؤمنین! ہمیں بتائیے کہ کیا ہمارا شام کی طرف یہ سفر کرنا قضاء و قدر کے موجب تھا؟ فرمایا تم ہے اس ہستی کی! جس نے دانے کو چاک کیا، جان کو پیدا کیا، ہم نے کوئی وادی طے کی، اور نہ کوئی نیلہ عبور کیا مگر سب قضاء و قدر کے موجب تھا۔ شیخ نے عرض کیا پھر تو میں اللہ کے ہاں اپنی جہد و سعی پر ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بلندی کو عبور کرنے اور کسی نشیب میں اترنے پر بھی اجر عظیم مرحمت فرمائیں گے۔ اور یہ یاد رکھو! کہ تم اپنے کسی بھی معاملہ میں کر لہو و جبر امصرف نہیں کئے جاتے! اس پر شیخ نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین تو کیا قضاء و قدر ہم کو اس طرف نہیں پھینکتی؟ فرمایا افسوس! شاید تم اس کو قضاء لازمی اور تقدیر حتمی سمجھ بیٹھے ہو؟ اگر یہ بات ہوتی تو خوشخبری و وعید کا عدم ہو جاتیں۔ اور کارخانہ ثواب و عذاب بے کار ہو جاتا۔ اور اللہ کی طرف سے کسی گناہ گار پر کوئی ملامت ہوتی، اور نہ ہی کسی محسن پر کوئی مدحت ہوتی۔ اور کوئی محسن احسان کی وجہ سے گناہ کی بجائے ثواب کا زیادہ مستحق نہ ہوتا۔ لہذا یہ بات کہ انسان مجبور محض ہو کر عمل سر انجام دیتا ہے بتوں کے پجاریوں کی بات ہے۔ اور شیطان کے کارندوں، رحمان کے دشمنوں کی بات ہے۔ اور یہ لوگ اس امت کے مجوسی اور قدریہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خیر کا اختیار بخشا، اور شر سے ڈرایا۔ اور کسی کو مغلوب و بے بس کر کے گناہ کروایا، اور نہ ہی کسی سے جبر اطاعت کروائی۔ اور نہ کسی کو مکمل مالک بنا دیا۔ اور نہ آسمان وزمین اور ان میں نظر آنے والی اشیاء کو بے مقصد پیدا کیا۔ یہ خیال کہ سب یونہی بے مقصد ہے، اور حساب کتاب کا وجود نہیں ان لوگوں کا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے۔ سو بلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو جنم کے انکاری ہیں۔ شیخ نے عرض کیا امیر المؤمنین! پھر کیا ہماری یہ آ مدورفت قضاء و قدر تھی؟ فرمایا اللہ کا امر اور اس کی حکمت تھی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی

﴿وقضی ربک الاتعبدوا الا ایاہ﴾

”تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم محض اسی کی پرستش کرو۔“ ابن عساکر

اس روایت کے دونوں راوی محمد بن زکریا الحلانی اور عباس بن البرکات کذاب ہیں۔

۱۵۶۱ حارث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا اے امیر المؤمنین! مجھے تقدیر کے متعلق کچھ بتادیتے، فرمایا یہ انتہائی تاریک راہ ہے، اس پر مت چل۔ عرض کیا: اے امیر المؤمنین! مجھے تقدیر کے متعلق کچھ بتادیتے، فرمایا یہ اتھاہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت گھس۔ عرض کیا اے امیر المؤمنین! مجھے تقدیر کے متعلق کچھ بتادیتے، فرمایا یہ اللہ کا راز ہے، اس سے پردہ اٹھانے کی کوشش مت کر۔ عرض کیا اے امیر المؤمنین! مجھے تقدیر کے متعلق کچھ بتادیتے، فرمایا اے سائل! اچھا بتا، جیسے پروردگار نے چاہا، تجھے پیدا کیا؟ یا جیسے تو نے چاہا پیدا کیا؟ عرض کیا جیسے اللہ نے چاہا پیدا کیا۔ فرمایا اور جیسے اللہ نے چاہا تجھے کام میں لگایا یا جیسے تو نے چاہا اس کے مطابق تجھے کام میں لگایا؟ عرض کیا: جیسے اس نے چاہا کام میں لگادیا۔ فرمایا قیامت کے روز جس حالت میں وہ چاہے گا تجھے اٹھائے گا یا جس حالت میں تو چاہے گا ویسے اٹھائے گا؟ عرض کیا: جس حالت میں وہ چاہے گا اٹھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا: اے سائل! بتا: کیا تو اللہ سے، جو تیرا رب ہے عافیت مانگتا ہے یا نہیں؟ عرض کیا ضرور۔ فرمایا تو کس چیز سے عافیت مانگتا ہے، آیا اس مصیبت سے جس نے تجھے گھیر رکھا ہے یا اس مصیبت سے جس نے کسی اور کو پریشان کر رکھا ہے؟ عرض کیا اس مصیبت سے جس نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ پھر فرمایا: اے سائل! تیرا اعتقاد ہے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی پر عمل پیرا ہونے کی قوت صرف اس ہستی کی بدولت ہے؟ بتا وہ کون سی ہستی ہے؟ عرض کیا: اللہ۔ جو عالی شان اور عظیم المرتبت ہے۔ فرمایا بس اسی کی تفسیر جان لے تیرا مقصود حل ہو جائے گا عرض کیا: اے امیر المؤمنین! اللہ نے جو آپ کو سکھایا مجھے بھی سکھادیتے۔ فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے کہ بندہ کو طاعت خداوندی کی قدرت ہے اور نہ ہی معصیت

خداوندی کی قوت، وہ دونوں معاملوں میں اللہ کا محتاج ہے۔ اے سائل! بتا کیا اللہ کی مشیت و ارادے کے ساتھ تیری مشیت بھی شامل ہے، پھر اگر تو کہتا ہے کہ تیری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے تو بس تجھے اپنی مشیت مشیت ایزدی کی طرف سے کفایت کرے گی۔ اور اگر خدا کا استہزایہ خیال ہے کہ تیری مشیت مستقل بالذات ہے جس میں خدائی مشیت کو کوئی دخل نہیں پھر تو تو یقیناً اللہ کے ساتھ اس کی مشیت میں دعویٰ، شرک کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اے سائل! اللہ ہی زحیٰ کرتا ہے پھر وہی اس کی دوا کرتا ہے۔ تو دوا دارو کا سرچشمہ وہی ہے تو دواء و مرض بھی اسی کی طرف سے ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سائل سے دریافت کیا کیا اب اللہ کے امر قدرت کو سمجھے؟ شیخ نے کہا: جی بالکل۔ پھر آپ نے دیگر حاضرین کو مخاطب ہو کر فرمایا: اب جا کے تمہارا بھائی مسلمان ہوا ہے، اٹھو اور اس سے مصافحہ کرو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میرے پاس کوئی قدری شخص وہ جس کا عقیدہ ہو کہ انسان مجبور محض ہے ہوتا تو میں اس کی گردن دو بوجہتا ... اور اس کو گلا گھونٹتے گھونٹتے مار ڈالتا۔ کیونکہ بے شک یہ لوگ اس امت کے یہودی، نصرانی اور مجوسی ہیں۔ ابن عساکر

۱۵۶۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ ہر بندہ پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں۔ جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، کہ کہیں اس پر کوئی دیوار نہ آگرے۔ یا یہ کسی کنویں میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یا کوئی جانور اس پر حملہ نہ کر بیٹھے۔ حتیٰ کہ جب تقدیر کا لکھا آجاتا ہے تو فرشتے اس کی راہ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو اللہ کو منظور ہوتی ہے، وہ مصیبت اس کو آلیتی ہے۔ السنن لابی داؤد فی القدر

۱۵۶۳ ابو بصیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ہاتھ میں نیزہ تھا ہے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم تو اس کو نہ پہچان سکے، مگر آپ رضی اللہ عنہ پہچان گئے۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین؟ فرمایا: جی عرض کیا: آپ اس وقت میں بے دھڑک نکلتے ہیں۔ جبکہ آپ سے جنگ چھڑی ہوئی ہے؟ فرمایا: اللہ کی طرف سے ایک ڈھال میری حفاظت پر مامور ہے جو میرے لئے قلعہ گاہ بھی ہے۔ پس جب نوحۃ تقدیر آ جائے گا تو کوئی چیز مفید نہ رہے گی۔ بے شک کوئی انسان ایسا نہیں ہے، جس پر کوئی نگہبان فرشتہ مقرر نہ ہو۔ کوئی بھی جانور یا کوئی اور شے اسے گزند پہنچانے کا ارادہ کرتی ہے تو وہ فرشتہ اسے کہتا ہے کہ ہٹو! ہٹو! پس جب قدرت کا فیصلہ آجاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی راہ چھوڑ دیتا ہے۔ ابو داؤد فی القدر، ابن عساکر

ہر آدمی پر حفاظتی فرشتے مقرر ہیں

۱۵۶۴ یعلیٰ بن مرۃ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رات میں مسجد جا کر نوافل ادا فرماتے تھے۔ تو ہم آپ کی چوکیداری کی غرض سے حاضر ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو ہمارے پاس تشریف لائے، اور فرمایا کس چیز نے تمہیں بٹھا رکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہم آپ کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ فرمایا: کیا آسمان والوں سے میری حفاظت کر رہے ہو یا زمین والوں سے؟ ہم نے عرض کیا زمین والوں سے۔ فرمایا: زمین میں کوئی شی نقصان رسال نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ آسمان پر اس کا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔ بے شک کوئی انسان ایسا نہیں ہے، جس پر دو نگہبان فرشتے مقرر نہ ہوں۔ جو اس سے ہر مصیبت کو دفع کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو اس کی حفاظت سپرد کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی تقدیر آ جاتی ہے، پس جب اس کی تقدیر آ جاتی ہے تو وہ فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے ایک ڈھال میری حفاظت پر مامور ہے جو میرے لئے قلعہ گاہ ہے۔ سو جب میرا وقت آ جائے گا تو مجھ سے یہ حفاظت اٹھ جائے گی۔ اور بے شک کوئی شخص ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں چکھ سکتا جب تک وہ اس بات کا یقین نہ کر لے کہ جو چیز اس کو پہنچی وہ ہرگز چوکنے والی نہ تھی اور وہ جو نہیں پہنچی وہ ہرگز پہنچنے والی نہ تھی۔ ابو داؤد فی القدر، عیشی فی الاستقامۃ، ابن عساکر

۱۵۶۵ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کی آخری رات آئی، تو آپ اپنی جگہ ٹھہرتے نہ تھے۔ اہل خانہ کو تشویش لاحق ہوئی، اور وہ آپس میں آپ کو روکنے کے لئے جیلہ سازی کرنے لگے۔ پھر جمع ہو کر آپ کو روک جانے کے لئے واسطے دیئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک کوئی انسان ایسا نہیں ہے، جس پر دو نگہبان فرشتے مقرر نہ ہوں۔ جو اس سے ہر فیتر

مقدر مصیبت کو دفع کرتے رہتے ہیں یا فرمایا جب تک کہ تقدیر نہیں آ جاتی۔ پس جب تقدیر آ جاتی ہے تو وہ فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف گئے اور شہید کر دیئے گئے۔ ابو داؤد فی القدر، ابن عساکر ۱۵۶۶۔ ابی جلیز سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز میں مشغول تھے۔ اس شخص نے آ کر عرض کیا اپنی حفاظت کا کچھ خیال کیجئے کیونکہ مراد کے لوگ آپ کے قتل کے درپے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک ہر آدمی پر دو نگہبان فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کی ہر غیر مقدر مصیبت کی طرف سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ پس جب تقدیر آ جاتی ہے تو وہ فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور موت خود انسان کے لئے ایک ڈھال اور قلعہ گاہ ہے۔

ابن سعد، ابن عساکر

۱۵۶۷ محمد بن ادریس الشافعی، یحییٰ بن سلیم سے۔ اور یحییٰ، جعفر بن محمد سے۔ جعفر اپنے والد عبداللہ بن جعفر سے۔ عبداللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: انسان کے اندر عجیب ترین شے اس کا دل ہے۔ جو حکمت و دانائی کا ذخیرہ ہے تو اس کی اضرار کے لئے بھی جائے پناہ ہے۔ اگر اس میں امید کو آسرا ملتا ہے تو طمع اس کو مجبور کر دیتی ہے۔ اور اگر طمع بھڑکتی ہے تو حرص اس کو ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اور اگر اس میں امید کی امید کا جھوم اس میں گھر بساتا ہے تو حسرت و افسوس اس کو قتل کئے دیتا ہے۔ اور اگر اس پر غصہ طاری ہوتا ہے، تو غضبناکی اس میں بھڑک اٹھتی ہے۔ اور اگر اس کو رضاء بالقضاء کی سعادت میسر ہوتی ہے تو یہ اپنی حفاظت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اگر خوف اس پر مسلط ہوتا ہے تو یہ حزن و ملال کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو آہ، واویلا اس کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اگر یہ مال حاصل کر لیتا ہے تو غنی و اسراف اس کو سرکشی میں مبتلا کئے دیتے ہیں۔ اگر اس کو فاقہ کا نشانہ ہے تو بلاء و مصیبت اس کو گھیر لیتی ہے۔ اور اگر بھوک اس کو لاچار کرتی ہے تو ضعف و کمپرسی اس کو لے بیٹھتی ہے۔ الغرض ہر کی اس کے لئے مضر ہے۔ اور ہر طرح کی فراوانی اس کے بگاڑ و فساد کا سرچشمہ ہے۔

ایک شخص جو جنگِ جمل میں آپ کے ہمراہ تھا کھڑا ہوا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! ہمیں تقدیر کے متعلق کچھ بتادیتے، فرمایا: یہ اتھاہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت گھس۔ اس نے پھر اصرار کیا اے امیر المؤمنین! ہمیں تقدیر کے متعلق کچھ بتادیتے، فرمایا: یہ خدائی راز ہے اس کی کلفت میں مت پڑ۔ اس نے پھر اصرار کیا اے امیر المؤمنین! ہمیں تقدیر کے متعلق کچھ بتادیتے، فرمایا: اگر تم نہیں مانتے تو سنو کہ یہ دوراہوں کے درمیان ایک راہ ہے۔ جس میں کلی جبر ہے، اور نہ مکمل اختیار و تفویض۔ اس نے عرض کیا: امیر المؤمنین! یہاں ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہے، جس کا خیال ہے کہ ہر شے کا تعلق بندہ کی استطاعت کے ساتھ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو سامنے لاؤ لوگوں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار چارا نگلیوں کے برابر بنایا سے سوئی اور اس سے دریافت فرمایا: کیا تم اللہ کے ساتھ ہو کر استطاعت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو یا اللہ کے بغیر استطاعت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اور یاد رکھو کسی ایک کے متعلق بھی ہاں کہی تو تم مرتد ہو جاؤ گے اور پھر میں تمہاری گردن اڑوں گا۔ اس شخص نے عرض کیا اے امیر المؤمنین! تو پھر میں کیا کہوں؟ فرمایا: کہو کہ میں استطاعت رکھتا ہوں اللہ کی مدد سے اگر وہ چاہتا ہے تو مجھے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ الحلہ

۱۵۶۸ یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی گئی کہ کیا ہم آپ کی حفاظت نہ کریں؟ فرمایا: موت انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اٹھلیہ یعنی جب تک موت کا وقت نہ آئے تو کوئی چیز گزندہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو گویا موت ہی اس کی حفاظت کرتی ہے۔

۱۵۶۹ از مسند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابوالا سود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ میرا اہل القدر تقدیر کے منکرین سے بھگڑا ہو گیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے تنگ کر ڈالا ہے۔ لہذا مجھے کوئی حدیث سنائیے شاید اس کے ذریعہ اللہ مجھے نفع دے۔ فرمایا: اگر میں کچھ کہوں تو شاید تمہارے کانوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے، گویا تم اس کو سنی ان سنی کردو۔ میں نے عرض کیا: میں اس لئے حاضر ہوں۔ تو آ۔ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین والوں

کو عذاب میں مبتلا فرمادیں تو اس کا ذرہ بھران پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر ان سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو اس کی رحمت سب کے گناہوں پر حاوی ہوگی۔ جیسا کہ اس ذات نے خود فرمایا:

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء

”وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے رحم کرے۔“

وہ جس کو بھی عذاب سے دوچار کرے، عین برحق ہے۔ اور جس پر بھی رحم کرے، عین برحق ہے۔

اگر سارے پہاڑ سونے یا چاندی کے ہو جائیں اور وہ شخص جو اچھی بری تقدیر کا منکر ہے، ان کو راہِ خدا میں صرف کر ڈالے تو تب بھی کچھ نفع نہ دے۔ اب تم جاؤ اور دیگر صحابہ سے بھی سوال کرو۔ ابوالا سود الدؤلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد کی طرف نکلا تو وہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو پایا۔ میں نے دونوں سے سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا اے ابی! اس کو بتاؤ۔ حضرت ابی نے فرمایا: آپ ہی فرمائیں اے ابو عبد الرحمن! تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عین اسی کے مثل فرمایا جو حضرت عمران بن حصین فرما چکے تھے، کچھ بھی گئی بیشی نہ فرمائی، گویا انہی سے سن کر جواب دیا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا اے ابی! کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا: بالکل۔ ابن جویر

۱۵۷۰۔ از مسند انتم بن الجون الخزامی رضی اللہ عنہ۔ ابوہیک رحمۃ اللہ علیہ، شبل بن خلید المرینی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ انتم بن ابی الجون سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں شخص قتال میں بڑا ہی جرات مند ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ تو جہنمی ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر وہ فلاں شخص اپنی عبادت اور جدوجہد اور نرم رویہ کے باوجود جہنمی ہے تو ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ فرمایا یہ شخص نفاق کی عجز و عساری ہے۔ اور یہ جہنم میں جائے گی۔ راوی کہتے ہیں: پھر ہم قتال میں ان کی خاص نگرانی رکھتے تھے تو دیکھا کہ اس کے پاس سے کوئی بھی شہسوار یا پیادہ یا گزرتا ہے تو یہ اس پر کود کر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ زخموں سے چور ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ہم بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! وہ تو شہید ہوا جاتا ہے؟ تب بھی آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جہنمی ہے۔ تو بالآخر جب وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا تو اس نے اپنی تلوار تھامی اور عین اپنے سینے کے درمیان رکھی اور پھر اس پر اپنا زور صرف کر ڈالا۔ حتیٰ کہ وہ تلوار اس کی پشت سے جاٹکی۔ انتم بن ابی الجون الخزامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، جبکہ وہ جہنمیوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور کبھی آدمی اہل جہنم کا عمل کرتا رہتا ہے، جبکہ وہ جنتیوں میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن روح نکلتے وقت اس کو شقاوت یا سعادت آ لیتی ہے۔ اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ابن مندہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو نعیم

ریش تھامنے کا واقعہ

۱۵۷۱۔ از مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ابن عسا کر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابوالحسن علی بن مسلم الفقیہ نے اپنی ریش تھامے ہوئے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبدالعزیز بن احمد نے اپنی ریش تھامے ہوئے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو عمرو عثمان بن ابی بکر نے اپنی ریش تھامے ہوئے خبر دی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں محمد بن اسحاق العبدی نے اپنی ریش تھامے ہوئے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں احمد بن مہران نے اپنی ریش تھامے ہوئے خبر دی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں سلیمان بن شعیب الکیسانی نے اپنی ریش تھامے ہوئے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں شہاب بن خراش نے اپنی ریش تھامے ہوئے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یزید الرقاشی نے اپنی ریش تھامے ہوئے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی ریش تھامے ہوئے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو اپنی ریش مبارک تھامے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھی بری، شیریں و تلخ ہر طرح کی تقدیر پر ایمان نہ

لائے۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی ریش مبارک کوٹھی میں پکڑتے ہوئے فرمایا: میں کبھی ہر تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بری، اور شیریں ہو یا تلخ، ایمان لاتا ہوں۔ اور سنو! آدمی بسا اوقات عرصہ دراز تک اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کی راہوں میں سے کوئی راہ پیش آ جاتی ہے۔ اور وہ اس پر گامزن ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر اسی پر اس کی موت آتی ہے۔ اور یہ محض اس لئے ہوتا ہے کہ اس کے مقدر میں یہی لکھا تھا۔ اور بسا اوقات آدمی عرصہ دراز تک اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے سامنے جہنم کی راہوں میں سے کوئی راہ پیش آ جاتی ہے۔ اور وہ اس پر گامزن ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ پھر اسی پر اس کی موت آتی ہے۔ اور یہ محض اس لئے ہوتا ہے کہ اس کے مقدر میں یہی لکھا تھا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت الغریس بن عمیرۃ

مسئلہ تقدیر میں بحث کرنا گمراہی ہے

۱۵۷۲ حضرت ثوبان سے مروی ہے کہ چالیس اصحاب رسول ﷺ جمع ہوئے اور قدرد جبر میں گفتگو کرنے لگے۔ انہی میں حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اسی اثناء میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ ﷺ کے پاس نازل ہوئے اور فرمایا: اے محمد! اپنی امت کی خبر لیجئے، وہ گمراہ ہو رہی ہے۔ آپ ﷺ اسی گھڑی ان کے پاس پہنچے۔ حالانکہ اس وقت آپ کبھی نہیں نکلتے تھے۔ صحابہ کرام کو یہ بات اجنبی محسوس ہوئی۔ اور آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کارنگ غصہ کی وجہ سے سرخی میں بھڑک رہا تھا۔ اور آپ کے رخسار مبارک ایسے محسوس ہو رہے تھے گویا ان پر ترش انار کے دانے نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ آپ ﷺ کی یہ حالت دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہتھیلیاں اور بازو خوف کے مارے پھڑ پھڑ اٹھے، اور وہ سب اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے اٹھے اور لجاجت آمیز لہجے میں بولے یا رسول اللہ! ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے تابع ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قریب تھا کہ تم جہنم کو اپنے پر واجب کر بیٹھتے۔ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے انہوں نے فرمایا: اے محمد! اپنی امت کی خبر لیجئے، وہ گمراہ ہو رہی ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ

۱۵۷۳ از مسند زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ ابن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کی طرف سے کچھ خلیجان واقع ہو گیا ہے، لہذا مجھے کچھ بیان کیجئے تاکہ وہ میرے دل کو صاف کر دے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آسمان اور زمین والوں کو عذاب میں مبتلا فرمادیں تو اس کا ذرہ بھران پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر ان سب کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو اس کی رحمت سب کے اعمال سے بڑھ کر ہوگی۔ اور اگر تو اس کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تب بھی اللہ اس کو تجھ سے اس وقت تک ہرگز قبول نہ فرمائیں گے، جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ اور اس بات کا اچھی طرح یقین نہ کر لے کہ جو چیز تجھ کو پہنچی وہ ہرگز چوکنے والی نہ تھی اور وہ جو نہیں پہنچی وہ ہرگز پہنچنے والی نہ تھی۔ اور اگر تو اس کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر مر گیا تو تو جہنم واصل ہوگا۔ ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی بعینہ اسی کے مثل بات بیان فرمائی۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی بعینہ اسی کے مثل بات بیان فرمائی۔ ابن حوریو

۱۵۷۴ از مسند اسہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ۔ اسہل بن سعد سے مروی ہے کہ ایک شخص جو عظیم مسلمانوں میں سے تھا، اس نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک غزوہ میں مسلمانوں کی حمایت میں لڑتے ہوئے خوب مشقت اٹھائی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا: جو کسی جہنمی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ تو تو قوما کا ایک شخص اس کی ٹوہ میں لگ گیا۔ دیکھا کہ وہ اسی سخت جانفشاری میں ہے، مشرکین پر حملوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ حتیٰ کہ وہ زخمی ہو گیا۔ لیکن تکلیف و مصیبت کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے موت کی از خود آرزو کی اور اپنی تلوار کی نوک عین سینے کے درمیان رکھ دی۔ حتیٰ کہ وہ اس کے شانوں سے جانکی۔ تو یہ شخص جو اس کی ٹوہ میں تھا، تیزی سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: کیا بات ہے؟ عرض

کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو کسی جہنمی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ جبکہ وہ ہم میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی حمایت میں مشقت اٹھانے والا تھا تو میں نے کہا کہ یہ شخص اس حالت پر نہیں مر سکتا۔ پس جب وہ زخمی ہو گیا تو اس نے از خود موت کی جلد آرزو کی۔ اور اپنے آپ کو قتل کر ڈالا۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی اہل جنت کا عمل کرتا رہتا ہے، جبکہ وہ جہنمیوں میں داخل ہوتا ہے۔ اور کبھی آدمی اہل جہنم کا عمل کرتا رہتا ہے، جبکہ وہ جنتیوں میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ السنن لأبی داؤد

۱۵۷۵ از مسند عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ۔ ولید بن عبادۃ سے مروی ہے کہ جب حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کے فرزند نے پوچھا: اے ابا جان مجھے کچھ وصیت فرمادیجئے فرمایا: اے بیٹے اللہ سے ڈرتے رہو اور تم اللہ سے ڈرنے کا مقام اس وقت تک پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ اور اللہ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لاؤ۔ اور اس بات کا یقین نہ کر لو کہ جو چیز تجھ کو پہنچی وہ ہرگز چوکے والی نہ تھی اور وہ جو نہیں پہنچی وہ ہرگز پہنچنے والی نہ تھی۔ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تقدیر یہی ہے۔ سو جو اس کے علاوہ پر مراء اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمادیں گے۔ ابن عساکر

۱۵۷۶ از مسند ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھوں میں کوئی شے لئے ہوئے باہر تشریف لائے۔ پھر آپ ﷺ نے دایاں ہاتھ کھولا اور فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحمن و رحیم کی کتاب ہے۔ اس میں اہل جنت کی تعداد اور ان کے حسب و نسب وغیرہ کے ہیں۔ اور اسی پر ان کو اٹھایا جائے گا۔

کبھی بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا دایاں ہاتھ کھولا اور فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رحمن و رحیم کی کتاب ہے۔ اس میں اہل جہنم کی تعداد اور ان کے حسب و نسب وغیرہ کے ہیں۔ اور اسی پر ان کو اٹھایا جائے گا۔ کبھی بھی اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ کبھی اہل شقاوت میں اہل سعادت کا طریقہ رائج ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کہا جائے لگتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر نیک بختوں کے مشابہ ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر شقاوت ان کو جالیتی ہے اور ان کو اس سے نکال لاتی ہے۔ کبھی اہل سعادت میں اہل شقاوت کا طریقہ رائج ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کہا جانے لگتا ہے کہ یہ لوگ کس بری طرح ان بد بختوں کے ہو ہو ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر سعادت ان کو جالیتی ہے اور ان کو اس سے نجات دیتی ہے۔ پس اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ پس اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ ابن حوریو

۱۵۷۷ از مسند عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ اہل شے جو اسلام کو اوندھا کر دے گی جس طرح کہ برتن کو اوندھا کر دیا جاتا ہے وہ لوگوں کا تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ ابن ابی شیبہ

۱۵۷۸ ابن الدہلیبی سے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے آپ کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قلم خشک ہو چکا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو تار یکی میں پیدا کیا۔ پھر اپنے نور میں سے ان پر نور ڈالا۔ سو جس کو چاہا اس کو وہ نور پہنچا اور جس کو چاہا نہیں پہنچا۔ اور پہنچنے والوں میں سے نہ پہنچنے والوں کو اللہ نے اچھی طرح جان لیا ہے۔ سو جس کو نور پہنچا وہ ہدایت یاب ہوا۔ اور جس کو خطا کر گیا وہ گمراہ ہوا۔ تو اس موقع پر میں کہتا ہوں کہ قلم خشک ہو چکا ہے۔

رواہ ابن حوریو

۱۵۷۹ از مسند ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ چار چیزوں سے فراغت ہو چکی ہے۔ تخلیق، اخلاق، رزق، اور موت۔ ابن عساکر

۱۵۸۰ راشد بن سعد سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن قتادہ السلمی نے بیان کیا جو اصحاب رسول ﷺ میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا پھر ان کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو لیا اور فرمایا یہ جنت میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں اور یہ جہنم میں جائیں گے اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ! پھر ہم عمل کس لئے کریں؟ فرمایا تقدیر کے وقوع کے لئے۔ ابن حوریو

۱۵۸۱ از مسند محمد بن عطیہ بن عروۃ السعدی۔ ابن عساکر زعمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منقول ہے کہ محمد بن عطیہ کو عروہ بن محمد السعدی سے

ملاقات حاصل ہے لہذا دونوں کے درمیان انقطاع نہ ہوگا۔ اور عروہ اپنے والد محمد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایک عورت سے نکاح کرنے کا خواہشمند ہوں سو میرے لئے دعا فرمائیے، آپ ﷺ نے اس سے اعراض فرمایا اس نے تین مرتبہ کہا اور ہر مرتبہ آپ ﷺ نے اعراض فرمایا۔ پھر آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور فرمانے لگے کہ اگر اسے اہل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور حاملین عرش مجھ سمیت تیرے لئے دعائیں تب بھی تیرا نکاح اسی عورت سے ہوگا جو تیرے لئے لکھ دی گئی ہے۔ ابن مندۃ، حدیث غریب ہے۔ ابن عساکر

۱۵۸۲۔ از مسند ابی الدرداء رضی اللہ عنہ۔ از اوائی رحمۃ اللہ علیہ، حسان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل دمشق نے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ کو پھولوں کی کمی کی شکایت کی، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے ان باغوں کی دیواروں کو طویل کر دیا ہے، اور ان پر پہریداری سخت کر دی ہے۔ جس کی وجہ سے اوپر سے ویاہ آگئی ہے۔ ابن حویو

۱۵۸۳۔ ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کی رائے سے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں ان کے وقوع کا فیصلہ ہو چکا ہے یا وہ عمل از سر نو ہوتا ہے؟ فرمایا: اس کے فیصلہ سے فراغت ہو چکی ہے۔ عرض کیا پھر فیصلہ ہو جانے کے بعد عمل کیسے ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر آدمی کو اسی عمل میں لگایا جاتا ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ابن حویو

۱۵۸۴۔ حسان بن عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اہل دمشق نے حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ کو پھولوں کی کمی کی شکایت کی، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے ان باغوں کی دیواروں کو طویل کر دیا ہے، اور ان پر پہریداری سخت کر دی ہے۔ جس کی وجہ سے اوپر سے ویاہ آگئی ہے۔

رواہ ابن عساکر

۱۵۸۵۔ از مسند ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: اے ابو ذر! اس شخص سے امید و آسرا قطع مت کر، جو شرمین لگا ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ خیر کی طرف لوٹ آئے اور پھر اسی حالت پر اس کی موت آ جائے۔ اور کسی خیر پر کار بند شخص سے بھی مطمئن مت ہو، ممکن ہے کہ وہ شر کی طرف واپس چلا جائے اور اسی پر اس کی موت آ جائے۔ یہ بات ذہن نشین رکھتا کہ یہ بات تجھے لوگوں سے اعراض کرتے اپنے آپ میں مشغول کر دے۔ ابن السنی بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۱۵۸۶۔ از مسند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آدم و موسیٰ علیہما السلام کا منظر ہوا۔ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے کسی وقت میں تمام مخلوق میں سے منتخب کیا؟ اور اپنے پیغامات کے ساتھ تمہیں مبعوث کیا؟ پھر تم نے کیا جو لیا یعنی ایک جان کو لے کر ڈالا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا آپ وہی ہیں تاں اگر اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ اور پھر آپ کو موجود بنا کر بنا دیا؟ پھر اپنی جنت میں آپ کو کونسا بخش؟ پھر آپ نے کیا جو کیا؟ اگر آپ وہ نہ کرتے تو آپ کی ذریت بھی جنت میں داخل ہو جاتی؟ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کیا تم مجھے ایسی بات پر ملامت کرتے ہو جس کا وقوع میری تخلیق ہی سے قبل مقدر ہو چکا تھا؟ آپ ﷺ نے تین بار فرمایا: پس آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ابن شاہین فی الأفراد

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واحد روایت ایسی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام وارد کرتے ہیں۔ ابن عساکر

۱۵۸۷۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے جنت کو تخلیق فرمایا، تو اس کے اہل کو بھی ان کے خاندان اور قبائل کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ سو ان میں کسی ایک فرد کی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی عرض کیا یا رسول اللہ! پھر عمل کس لئے؟ فرمایا: عمل کرتے رہو۔ کیونکہ ہر شخص کو اسی کی توفیق ہوتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ الخطیب

۱۵۸۸۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے جنت کو تخلیق فرمایا، تو اس کے اہل کو بھی ان کے خاندان اور قبائل کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ سو ان میں کسی ایک فرد کی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی عرض کیا یا رسول اللہ! پھر عمل کس لئے؟ فرمایا: عمل کرتے رہو۔ کیونکہ ہر شخص کو اسی کی توفیق ہوتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ الخطیب

۱۵۸۸۔ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے جنت کو تخلیق فرمایا، تو اس کے اہل کو بھی ان کے خاندان اور قبائل کے ساتھ تخلیق فرمایا۔ سو ان میں کسی ایک فرد کی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی عرض کیا یا رسول اللہ! پھر عمل کس لئے؟ فرمایا: عمل کرتے رہو۔ کیونکہ ہر شخص کو اسی کی توفیق ہوتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ الخطیب

الصحيح للحاجي، رحمة الله عليه، النسائي، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۵۸۹۔ از مسند ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ باہر تشریف لائے تو چند اصحاب رضی اللہ عنہم کو تقدیر کا ذکر کرتے سنا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم دو جانبوں میں بٹ گئے ہو اور ہر ایک اپنی جانب کی گہرائی میں اتر گیا ہے۔ اسی میں تو تم سے قبل اہل کتاب تباہ ہوئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی دن آپ نے ایک کتاب نکالی اور اس کو پڑھتے ہوئے فرمایا: یہ کتاب رحمن و رحیم کی ہے۔ اس میں اہل جہنم کے نام ان کی آباء و جداد اور خاندان و قبائل کے ناموں سمیت درج ہیں اسی پر ان کو جمع کیا جائے گا۔ ان میں کوئی کمی متصور نہیں۔ ایک فریق جنت میں اور دوسرا جہنم میں ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ایک اور کتاب نکالی اور فرمایا: یہ رحمن و رحیم کی ہے۔ اس میں اہل جنت کے نام ان کی آباء و جداد اور خاندان و قبائل کے ناموں سمیت درج ہیں۔ اسی پر ان کو جمع کیا جائے گا۔ ان میں کسی فرد واحد کی کمی بھی متصور نہیں۔ ایک فریق جنت میں اور دوسرا جہنم میں ہے۔ ابن جریر

۱۵۹۰۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے مجھے سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ پھر اپنا دست مبارک اپنی پشت کے پیچھے لاکر مجھے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا: اے لڑکے! کیا میں تجھے ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ اگر تو ان کی حفاظت رکھے تو اللہ تیری حفاظت رکھے؟ اللہ کے حقوق کی رعایت کر، تو تو اس کو ہر کھن وقت میں اپنے سامنے پائے گا۔ اقلام خشک ہو چکے ہیں۔ اور صحائف اٹھ چکے ہیں۔ پس جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر۔ اور جب تو مدد کا محتاج ہو تو اللہ ہی سے مدد کا طلب گار ہو۔ اور قسم ہے اس ذات کی! جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر ساری امت اس امر پر متفق ہو جائے کہ تجھے کسی چیز کا ہنر پہنچائے تو ہرگز وہ تجھ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی مگر اسی چیز کا جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دی ہے۔ اور اگر ساری امت تجھے نفع رسائی کا ارادہ کرے تو ہرگز تجھ کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اسی چیز کا جو اللہ نے تیرے لئے لکھ دی ہے۔ السنن لابی داؤد

۱۵۹۱۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آدم و موسیٰ علیہم السلام کی ملاقات ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا آپ وہی آدم ہیں ناں! کہ اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ اور پھر آپ کو موجود ملائکہ بنایا؟ پھر اپنی جنت میں آپ کو سکونت بخشی؟ پھر آپ نے ہم کو جنت سے نکلوا دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: آپ وہی موسیٰ ہیں ناں کہ اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے لئے منتخب کیا اور آپ کو از دنیا ز کے لئے اپنا قرب بخشا؟ اور آپ پر توراہ نازل کی؟ پس میں آپ سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے آپ کو یہ سب عطا فرمایا کہ کتنا عرصہ قبل یہ میرے لئے لکھ دیا گیا تھا؟ فرمایا میں تورات میں اس کو آپ سے دو ہزار سال قبل لکھا پاؤں ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔

۱۵۹۲۔ از مسند عمران بن حصین رضی اللہ عنہ۔ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اہل جنت کا اہل جہنم سے امتیاز کر دیا گیا ہے؟ فرمایا بالکل۔ عرض کیا پھر عمل کس لئے؟ فرمایا عمل کرتے رہو۔ کیونکہ ہر شخص کو اسی کی توفیق ہوتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ابن عساکر یا ابن جریر

۱۵۹۳۔ ابی بکر سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا اپنی حفاظت کا کچھ خیال کیجئے کیونکہ لوگ آپ کے قتل کے درپے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک ہر آدمی پر دو نگہبان فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کی ہر غیر مفید مصیبت کی طرف سے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ پس جب تقدیر آ جاتی ہے تو وہ فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور موت خود انسان کے لئے ایک ڈھال اور تلحہ گاہ ہے۔ ابن جریر

۱۵۹۴۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: کہ لوگوں کی راہ امت اپناؤ۔ آدمی طویل عرصہ تک اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ مرجائے تو تم یقیناً کہو کہ وہ خستی ہے۔ لیکن پھر وہ علم الہی کی وجہ سے منقلب ہو جاتا ہے۔ اور اہل جہنم کے عمل کرنے لگتا ہے۔ اور اسی حالت پر مر کر جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی آدمی طویل عرصہ تک اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا۔ لیکن پھر وہ علم الہی کی وجہ سے منقلب ہو جاتا ہے۔ اور اہل جنت

کے عمل شروع کر دیتا ہے اور اسی پر مر کر اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے۔ پس اگر تم بھروسہ کرنا ہی چاہتے ہو تو مردوں پر کرو نہ کہ زندوں پر۔

خشیش فی الإستقامة، ابن عبدالبر

۱۵۹۵ از مسند رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ۔ عمرو بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اصحاب مجلس نے ایک قوم کا ذکر چھیڑا کہ اس کا کہنا ہے کہ اللہ نے اعمال کے ماسواہر چیز کو مقدر فرمایا ہے۔ عمرو کہتے ہیں: اللہ کی قسم! میں نے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت سے زیادہ غضبناک کبھی نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شدت غضب سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرمایا لیکن پھر ٹھنڈے ہو گئے۔ اور فرمایا: ان کو کہو: کہ مجھے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے ایک قوم ہوگی جو اللہ اور قرآن کا انکار کرے گی، لیکن ان کو اس بات کا شعور بھی نہ ہوگا۔ جس طرح یہود و نصاریٰ نے کفر کا ارتکاب کیا: رافع کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ پر فداء ہوں یہ کس طرح ہوگا؟ فرمایا: وہ بعض تقدیر کا اقرار کریں گے تو بعض کا انکار کریں گے۔ میں نے عرض کیا وہ کیا نہیں گے؟ فرمایا: خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر ابلیس کی طرف سے، اور پھر وہ اس پر قرآن پڑھیں گے اور اس سے غلط استدلال کریں گے۔ اور یوں وہ ایمان و معرفت کے بعد قرآن کا بھی انکار کریں گے، اس میں میری امت کو ان کی طرف سے بغض و عداوت اور جنگ و جدال بھی پیش آئے گی۔ یہ اپنے وقت میں اس امت کے زندیق لوگ ہوں گے۔ سلطان وقت کا ظلم و ستم ان کا سایہ اور پناہ گاہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر طاعون کی وبا مسلط فرمادیں گے جو ان کی کثرت کو فنا کر دے گی۔ پھر ان کو زمین میں دھنسا لیا جائے گا۔ اور بہت کم اس سے بچ سکیں گے۔ مومن اس وقت قلیل تعداد ہوں گے۔ ان کی خوشی بھی شدت غم سے عبارت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان اکثر منکرین کی صورتوں کو بندروں اور خزیروں کی صورت سے مسخ فرمادیں گے۔ پھر اسی حالت میں خرد و جلال ہوگا۔ پھر آپ ﷺ رو پڑے، ہم بھی آپ کے رونے کی وجہ سے رو پڑے اور عرض کیا آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ فرمایا: ان کی بیخ کنی پر رحم کھاتے ہوئے کہ ان بتلائے عذاب میں عبادت گزار تہجد گزار بھی ہوں گے۔ اور یہ پہلے لوگ نہ ہوں گے جنہوں نے تقدیر کے انکار میں یہ بات کہی ہوگی، جس کے بوجھ کو اٹھاتے ہوئے ان کے ہاتھ شل ہو گئے۔ بلکہ اکثر بنی اسرائیل تقدیر کے جھٹلانے کی وجہ سے ہی گرفتار ہلاکت ہوئے۔ کہا یا رسول اللہ! میں آپ پر فداء ہو جاؤں! مجھے بتائیے کہ کیسے تقدیر پر ایمان لایا جائے؟ فرمایا: اللہ وحدہ پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ضرر نفع رسائی کا مالک نہیں ہے، اور جنت و جہنم پر ایمان لاؤ۔ اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ نے مخلیق خلق سے قبل ہی تقدیر کو پیدا فرمادیا تھا۔ پھر مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور جس کو چاہا جنت کا اہل بنایا اور جس کو چاہا جہنم کا اہل بنا دیا اور یہ بلا شک و شبہ اس کی طرف سے سراسر عدل و انصاف ہے۔ اور ہر ایک اسی پر عمل پیرا ہے جو اس کے لئے طے ہو چکا ہے۔ اور وہ اپنی تقدیر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول نے بالکل سچ فرمایا۔

علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو عمرو بن شعیب سے دو طریق کے ساتھ روایت فرمایا۔ پہلے میں ججاج بن نصیر ضعیف ہے۔ اور دوسرے میں ابن لہیعہ ہے۔ سوحدیث حسن ہے۔ اور حارث عقیلی نے اس کو دوسرے دو طریق کے ساتھ انہی سے روایت کیا۔ عقیلی اور علامہ خطیب نے اس کو اسند لابی یعلیٰ المستوفی و امفتراق میں حارث کے طریق سے روایت کیا اور اس کی اسناد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں سنی ایک جمہول رواۃ ہیں۔

فرع..... فرقہ قدریہ کے بیان میں

۱۵۹۷ از مسند علی رضی اللہ عنہ۔ حاتم بن اسماعیل سے مروی ہے کہ میں جعفر بن محمد کے پاس تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند لوگوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ اور کہنے لگی اے رسول اللہ کے فرزند! ہمیں بتائیے کہ ہم میں سے کس کی بات شرانگیز ہے؟ فرمایا: لاؤ تمہیں کیا بات پیش آئی؟ وہ کہنے لگے ہم میں سے ایک قدری ہے، اور دوسرا رجبی ہے، اور تیسرا اخباری ہے۔ حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مجھے میرے

والد محمد نے بیان کیا، وہ اپنے والد علی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والد بزرگوار حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو سنا آپ ﷺ امامتہ الباہلی رضی اللہ عنہ کو فرما رہے تھے کہ تو کسی قدر ہی کے پاس بیٹھ اور نہ ہی کسی مہجری کے پاس، اور نہ کسی خارجی کے پاس بیٹھ۔ وہ دین کو یوں لوندھا کرنے والے ہیں جس طرح برتن کو لوندھا کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ اس طرح غلو بازی سے کام لینے والے ہیں جس طرح یہود و نصاریٰ نے غلو بازی سے کام لیا۔ ہر امت میں کچھ مجوسی ہوتے ہیں اور اس امت کے مجوسی قدری ہیں۔ پس ان کی جماعت میں نہ جاؤ۔ خبردار وہ بتدروں اور خزیروں کی صورت میں مسخ کر دیئے جائیں گے۔ اور اگر میرے رب کا مجھ سے وعدہ نہ ہوتا کہ میری امت میں نصف زمین میں دھنسا یا جائیں ہوگا تو وہ اس دنیا میں ضرور نصف میں مبتلا ہو جاتے۔ اور مجھے میرے والد نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوارج دین سے یوں دور نکل گئے ہیں جس طرح تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ اپنی قبروں میں کتوں کی شکل میں ہو جائیں گے۔ اور روز قیامت بھی کتوں ہی کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ جہنم کے کتے ہیں۔ اور مجھے میرے والد نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے دو گروہوں کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی، مرجیہ اور قدریہ۔ قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، اور وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ اور مرجیہ وہ ہیں جو قول و عمل میں تفریق کرتے ہیں۔ اور یہ اس امت کے یہودی ہیں۔ السلفی فی انتخاب حدیث القراءہ مرجیہ کہتے ہیں کہ جس طرح کفر کے ساتھ کوئی عمل مقبول نہیں اسی طرح ایمان کے ساتھ کوئی معصیت معجز نہیں۔ فقط ایمان قول کا نام ہے، عمل کی حاجت نہیں اس طرح یہ عمل اور قول میں فرق کرتے ہیں، جبکہ ایمان عمل اور قول ہر دو کا نام ہے۔

سلسلہ سخنیں
پاکستان

قدریہ کے چہرے مسخ ہوں گے

۱۵۹۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، کہ لوگ تقدیر کا انکار کرنے لگیں گے۔ حتیٰ کہ کوئی عورت سامان لینے بازار نکلے گی اور واپس آ کر دیکھے گی کہ اس کے شوہر کا چہرہ تقدیر کے انکار کی وجہ سے مسخ ہو چکا ہے۔ اللالکنانی

۱۵۹۹ از مسند عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ ابوالزاہر بنیہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص، جن کو حضور ﷺ ان کے والد عمرو بن العاص پر بھی فوقیت دیتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس آئے اور قدریہ کے متعلق حدیث بیان فرمائی۔ ابن عساکر

۱۶۰۰ از مسند ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ۔ ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا "العادیات ضحیا" ان سرپیٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم! جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ سورہ العادیات کیا ہے؟ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے اس سے اعراض فرمایا۔ وہ شخص آئندہ روز پھر حاضر ہوا اور عرض کیا "المسورینات قدحاً" وہ جو پیٹھ پر نعل مار کر آگ نکالنے والے ہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے پھر اس سے اعراض برتا۔ پھر تیسرے روز حاضر ہوا اور عرض کیا "المغیرات صبحاً" جو صبح کو چھاپے مارنے والے ہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے چھڑی کے ساتھ اس کے سر سے عمامہ اور لوٹی اتاری تو دیکھا کہ وہ گھنے بالوں والا ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر میں اس کو بالوں سے بے نیاز پاتا تو اس سر کو اڑاتا، جس میں اس کی دو آنکھیں ہیں۔ حاضرین میں مجلس گھبرا گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا میری امت میں عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے بعض حصوں کو بعض حصوں کے ساتھ تغارض میں پیش کریں گے۔ تاکہ اس کو باطل کریں اور اس میں متشابہ آیات جن کی مراد صرف اللہ کو معلوم ہے ان سے تعرض کریں گے۔ اور وہ خیال کریں گے کہ ان کا دین میں اپنا نیارا سنا ہے۔ اور ہر دین میں مجوسی ہوتے ہیں اور یہ لوگ اس امت کے مجوسی اور جہنم کے کتے ہوں گے۔ آپ ﷺ فرماتے تھے کہ وہ قدری ہوں گے۔ ابن عساکر اس روایت میں ایک راوی البختری بن عبید ضعیف ہے۔

۱۶۰۱۔ ازمراسیل محمد بن کعب القرظی۔ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ یہ آیات اہل قدر کے بارے میں نازل ہوئیں ہیں: ﴿ان المجرمین فی ضلال وسعوا﴾ کہ یقیناً مجرمین گمراہی اور جہنم میں ہیں۔ ابن عساکر

۱۶۰۲۔ ازمراسیل مکحول رحمۃ اللہ علیہ۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیلان سے فرمایا: افسوس تجھ پر اے غیلان! مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اس امت میں غیلان نامی ایک شخص ہوگا جو شیطان سے زیادہ اس پر ضرر رساں اور بھاری ہوگا۔

ابوداؤد فی القدر، ابن عساکر

۱۶۰۳۔ ازمراسیل مکحول رحمۃ اللہ علیہ۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیلان سے فرمایا: افسوس تجھ پر اے غیلان! مجھے رسول اللہ ﷺ سے روایت پہنچی ہے کہ اس امت میں غیلان نامی ایک شخص ہوگا جو شیطان سے زیادہ اس پر ضرر رساں اور بھاری ہوگا۔ تو تو اللہ سے ڈراؤ وہ نہ بن۔ اللہ نے جو پیدا کرتا ہے وہ لکھ دیا ہے اور جس پر خلق کو عمل کرنا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ ابوداؤد فی القدر

آٹھویں فصل..... مؤمنین کی صفات میں

ابن عساکر

۱۶۰۴۔ ازمسند عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا تم مؤمن کو کذاب نہ پاؤ گے۔

ابن ابی الدنیا فی الصمت، شعب الایمان

۱۶۰۵۔ حارث بن عوف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا منافق اپنے نفس پر نفاق کا خوف نہیں کرتا۔ ابن حنبل

۱۶۰۶۔ محمد بن سلیم، یعنی ابوہلال رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابان نے حسن سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: تم نفاق کا خوف کرتے ہو؟ مجھے بھی اس سے امن نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ جعفر القریابی فی صفة المنافقین

۱۶۰۷۔ ازمسند علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا مؤمن مؤمن آپس میں ایک دوسرے کے لئے خیر خواہ اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ خواہ ان کے مراتب میں تفاوت ہو۔ اور فاسقین ایک دوسرے کے لئے دھوکہ باز اور خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، خواہ ان کے اجسام ایک جگہ جمع ہوں۔ الدیلمی

۱۶۰۸۔ ازمسند نضلة بن عمرو التماری۔ محمد بن معن بن نضلة اپنے والد معن سے اور وہ محمد کے دادا یعنی اپنے والد نضلة سے روایت کرتے ہیں

کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے مقام مران میں ملے۔ ان کے ساتھ چند اونٹ تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک برتن میں دودھ دوھا اور آپ کو پیش کیا تو رسول اللہ ﷺ نے صرف اس ایک برتن کے دودھ کو نوش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! اگر میں سات مرتبہ نہ پیوں تو میں سیر ہی نہیں ہوتا۔ اور نہ میرا پیٹ بھرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن

ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے۔ الصحیح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر فی تاریخہ، ابن مندہ البغوی
سات آنتوں کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں وہ سات آنتیں رکھتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے نام سے ابتدا نہیں کرتا جس کی وجہ شیطان اس کے ساتھ شریک طعام ہو جاتا ہے۔

۱۶۰۹۔ ابی املیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مؤمن دنیا میں چار طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مؤمن کے ساتھ جو اس سے رشک اور مسابقت کی کوشش رکھتا ہے۔ منافق، جو اس سے بغض رکھتا ہے۔ کافر، جو اس کے قتل کے درپے ہوتا ہے۔ شیطان، اس کے تو مؤمن کو الہی کر دیا جاتا ہے۔ ابن عساکر

۱۶۱۰۔ ازمسند ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی مثال کھجور کے درخت

۱۶۰۱۔ ازمراسیل محمد بن کعب القرظی۔ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ یہ آیات اہل قدر کے بارے میں نازل ہوئیں ہیں: ﴿ان المجرمین فی ضلال وسعور﴾ کہ یقیناً مجرمین گمراہی اور جہنم میں ہیں۔ ابن عساکر

۱۶۰۲۔ ازمراسیل مکحول رحمۃ اللہ علیہ۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیلان سے فرمایا: افسوس تجھ پر اے غیلان! مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ اس امت میں غیلان نامی ایک شخص ہوگا جو شیطان سے زیادہ اس پر ضرر رساں اور بھاری ہوگا۔

ابو داؤد فی القدر، ابن عساکر

۱۶۰۳۔ ازمراسیل مکحول رحمۃ اللہ علیہ۔ مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غیلان سے فرمایا: افسوس تجھ پر اے غیلان! مجھے رسول اللہ ﷺ سے روایت پہنچی ہے کہ اس امت میں غیلان نامی ایک شخص ہوگا جو شیطان سے زیادہ اس پر ضرر رساں اور بھاری ہوگا۔ تو تو اللہ سے ڈرا اور وہ نہ بن۔ اللہ نے جو پیدا کرنا ہے وہ لکھ دیا ہے اور جس پر خلق کو عمل کرنا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ ابو داؤد فی القدر

آٹھویں فصل..... مؤمنین کی صفات میں

۱۶۰۴۔ ازمسند عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا تم مؤمن کو کذاب نہ پاؤ گے۔

ابن ابی الدنیا فی الصمت، شعب الإیمان

۱۶۰۵۔ حارث بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا منافق اپنے نفس پر نفاق کا خوف نہیں کرتا۔ ابن خسرو

۱۶۰۶۔ محمد بن سلیم، یعنی ابو جلال رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابان نے حسن سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: تم نفاق کا خوف کرتے ہو؟ مجھے بھی اس سے امن نہیں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کا دھڑکا لگا رہتا تھا۔ جعفر القریابی فی صفة المنافقین

۱۶۰۷۔ ازمسند علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا مؤمن مؤمن آپس میں ایک دوسرے کے لئے خیر خواہ اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ خواہ ان کے مراتب میں تفاوت ہو۔ اور منافقین ایک دوسرے کے لئے دھوکہ باز اور خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، خواہ ان کے اجسام ایک جگہ جمع ہوں۔ الدیلمی

۱۶۰۸۔ ازمسند زہد بن عمرو الغفاری۔ محمد بن معن بن نضلة اپنے والد معن سے اور وہ محمد کے دادا یعنی اپنے والد زہد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے مقام مران میں ملے۔ ان کے ساتھ چند اونٹ تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے لئے ایک برتن میں دودھ دوہا اور آپ کو پیش کیا تو رسول اللہ ﷺ نے صرف اس ایک برتن کے دودھ کو نوش فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! اگر میں سات مرتبہ نہ بیوں تو میں سیر ہی نہیں ہوتا۔ اور نہ میرا پیٹ بھرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے۔ الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر فی تاریخہ، ابن مندہ البغوی

سات آنتوں کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت میں وہ سات آنتیں رکھتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ کے نام سے ابتداء نہیں کرتا جس کی وجہ شیطان اس کے ساتھ شریک طعام ہو جاتا ہے۔

۱۶۰۹۔ ابی املہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مؤمن دنیا میں چار طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مؤمن کے ساتھ جو اس سے رشک اور مسابقت کی کوشش رکھتا ہے۔ منافق، جو اس سے بغض رکھتا ہے۔ کافر، جو اس کے قتل کے درپے ہوتا ہے۔ شیطان، اس کے تو مؤمن حوالہ ہی کر دیا جاتا ہے۔ ابن عساکر

۱۶۱۰۔ ازمسند ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی مثال کھجور کے درخت

کی سی ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ رہو گے تو وہ تمہیں نفع پہنچائے گا۔ اور اگر اس سے مشاورت کرو گے تب بھی نفع پہنچائے گا۔ اور اگر اس کے ساتھ مجالست کرو گے تب بھی نفع پہنچائے گا۔ الغرض اس کی ہر شان نفع مند ہے۔ اسی طرح کھجور کی بھی ہر چیز نفع مند ہے۔ شعب الإیمان

۱۶۱۱ ججہ الغفاری سے مروی ہے کہ میں اپنی قوم کے چند لوگوں کے ساتھ جو اسلام لانا چاہتے تھے، آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر مغرب کی نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر جب آپ ﷺ نے نماز سے سلام پھیرا تو فرمایا: کہ ہر شخص اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ تھامنے کا مقصد تھا کہ اپنے اپنے ساتھ ایک ایک مہمان یا مستحق شخص لے جائے اور اس کی خاطر مدارات کرے۔ تو مسجد میں میرے اور رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی باقی نہ رہا، میں چونکہ بہت طویل قد و قامت والا تھا میرے سامنے کوئی نہ آیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ میرے لئے بکری کا دودھ دو ہا تو میں اس کو پی گیا حتیٰ کہ آپ ﷺ نے سات مرتبہ دو ہا میں سب پی گیا۔ چونکہ اس میں حضور ﷺ کا بھی حصہ تھا تو آپ ﷺ کی باندی ام ایمن بولی اللہ بھوکا ہی رکھے اسے، جس نے آج رسول اللہ ﷺ کو بھوکا رکھا۔ آپ ﷺ نے اس کو فرمایا: رکو اور کو ام ایمن، اس نے اپنا ہی رزق کھایا ہے۔ اور ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر صبح ہوئی تو آپ ﷺ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم جمع ہوئے۔ تو کوئی آدمی بیان کرنے لگا کہ اس کی کیا خاطر تو واضح ہوئی۔ میں نے بھی کہا کہ آپ ﷺ نے میرے لئے سات مرتبہ دو ہا اور میں سب پی گیا۔ اور ایک ہانڈی کھانا مزید میرے لئے تیار کیا گیا وہ بھی کھا گیا۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ اور آپ ﷺ نے پھر فرمایا: کہ ہر شخص اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہاتھ تھام لے۔ تو مسجد میں میرے اور رسول اللہ ﷺ کے سوا کوئی باقی نہ رہا، میں چونکہ بہت طویل قد و قامت والا تھا میرے سامنے کوئی نہ آیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ میرے لئے بکری کا دودھ دو ہا تو میں اسد فہ اسی کو پی کر سیر ہو گیا۔ ام ایمن بولی یا رسول اللہ! کیا یہ ہمارا وہی مہمان نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: لیکن بات یہ ہے کہ آج رات اس نے مؤمن کی آنت میں کھایا ہے۔ اور اس سے پہلے کافر کی آنت میں کھاتا رہا ہے۔ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے تو مؤمن ایک آنت میں۔

میں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابو نعیم

۱۶۱۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مؤمن بیٹھا خوشگوار طبیعت کا ہوتا ہے۔ اور بیٹھے کو پسند کرتا ہے۔ اور جس نے اس کو اپنے پر حرام کیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ کی کسی نعمت کو اور پاکیزہ اشیاء کو اپنے پر حرام نہ کرو۔ کھاؤ بیو اور شکر ادا کرو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو عقوبت الہی تمہیں لازم ہو جائے گی۔ الدیلمی

منافقین کی صفات

۱۶۱۳ از مسند حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ نفاق کیا چیز ہے؟ فرمایا: آدمی اسلام کا دعویٰ تو کرے مگر اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ ابن حجر

۱۶۱۴ ابو یحییٰ سے مروی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ منافق کون ہے؟ فرمایا: وہ جو اسلام کی باتیں تو کرے مگر اس پر عمل پیرا نہ ہو۔ ابن ابی شیبہ

۱۶۱۵ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آج جو منافقین تمہارے ساتھ ہیں یہ ان سے بدترین منافقین ہیں، جو رسول اللہ ﷺ کے عہد مبارک میں تھے۔ کیونکہ وہ تو اپنا نفاق مخفی رکھتے تھے۔ اور یہ اپنے نفاق کا اعلان کرتے ہیں۔ ابن ابی شیبہ

۱۶۱۶ ابوالجہتری سے مروی ہے کہ ایک شخص نے یوں بددعا کی کہ اے اللہ منافقین کو ہلاک فرما۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر وہ سب ہلاک ہو گئے تو کیا تم اپنے دشمنوں سے آدھے نہ ہو جاؤ گے؟ ابن ابی شیبہ

۱۶۱۷ از مسند ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہارا اور ابواہنیس کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہمارا اور اس کا یہ حال ہے کہ جب ہم اس سے ملاقات کرتے

ہیں تو اس کی دل پسند باتیں کرتے ہیں۔ اور جب اس کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو کچھ اور کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے تو اس کو نفاق شمار کرتے تھے۔ ابن عساکر

۱۶۱۸۔ از مسند عبد اللہ بن عمرو۔ رضی اللہ عنہ عبد اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ جس شخص میں یہ تین باتیں پائی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کے نفاق کی شہادت دو، جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کا مرتکب ہو۔ اور جو ایسا ہو کہ جب بات کرے تو سچائی اختیار کرے۔ اور وعدہ کرے تو وفا کرے اور جب امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس کو ادا کر دے۔ تو ایسے شخص کے متعلق مومن ہونے کی شہادت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن النجار

۱۶۱۹۔ از مسند عبد اللہ بن عمرو۔ رضی اللہ عنہ۔ عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: کہ تین اشخاص کے حق کی امانت کوئی کھلا منافق ہی کر سکتا ہے، امام عادل، بھلائی کی تعلیم دینے والا معلم اور وہ جس پر اسلام میں بڑھاپے کی سفیدی طاری ہوگی ہو۔ ابن عساکر

۱۶۲۰۔ سلیم بن عامر، معاویہ رضی اللہ عنہ الہذلی سے، جو اصحاب رسول ﷺ میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ منافق نماز پڑھتا ہے تب بھی اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ اور صدقہ کرتا ہے تب بھی اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ اور قاتل کرتا ہے، تو قتل ہو جانے پر جہنم جاتا ہے۔ ابن النجار

۱۶۲۱۔ صلہ بن زفر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے منافقین کو کیسے جان لیا؟ جب کہ نبی ﷺ کے اصحاب میں سے کوئی ان کو نہ جان سکتا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ بھی اس سے لاعلم رہے؟ فرمایا ایک مرتبہ میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے چلا جا رہا تھا تو آپ ﷺ اپنی سواری ہی پر سو گئے۔ میں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ اگر ہم اس محمد ﷺ کو سواری سے گرا دیں تو اس کی گردن ٹوٹ جائے گی اور اس طرح ہم اس سے آرام پا جائیں گے۔ تو یہ سن کر میں ان کے اور آپ ﷺ کے درمیان چلنے لگا اور با آواز بلند قرأت کرنے لگا حتیٰ کہ رسول اللہ ﷺ بیدار ہو گئے۔ اور آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا: حذیفہ۔ آپ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا: اور یہ کون ہیں؟ میں نے ان کو گواہ ہونے کہا کہ فلاں فلاں۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: اور وہ جو کچھ کہہ رہے تھے تم نے سنا؟ میں نے عرض کیا: جی اور اسی وجہ سے میں آپ کے اور ان کے درمیان چلنے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ منافق ہیں فلاں فلاں اور تم کسی کو بتانا مت۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ

حضور ﷺ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتادیئے تھے۔ اور یہ اس وجہ رسول اللہ ﷺ کے رازداں کہلاتے تھے۔

منافقین کے جنازے میں شرکت نہ کرنا

۱۶۲۲۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میرے پاس سے گزر ہوا میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا: اے حذیفہ! فلاں کا انتقال ہو گیا اس کے جنازہ میں حاضری دو۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ جب مسجد سے نکلنے کے قریب ہوئے تو پھر مجھ پر نظر پڑی تو دوبارہ میرے پاس لوٹ آئے دیکھا کہ میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہوں تو آپ رضی اللہ عنہ جان گئے کہ جنازہ کسی منافق کا ہے اور آپ رضی اللہ عنہ میرے پاس آ کر کہنے لگے اے حذیفہ! میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں خدا را بتا دو کہ کیا میں بھی ان منافق قوم میں تو شامل نہیں ہوں؟ میں نے کہا اللہ مددگار ہو، آپ ان میں شامل نہیں ہیں لیکن آئندہ آپ کے بعد ہرگز کسی کو برأت نامہ پیش نہیں کروں گا۔ پھر میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ کی آنکھیں بہہ پڑی ہیں۔ ابن عساکر

باب دوم..... کتاب وسنت کو تھامنے کا بیان

۱۶۲۳۔ از مسند صدیق رضی اللہ عنہ۔ عبید اللہ بن ابی زید سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی مسئلہ کی بابت سوال کیا جاتا تو اگر وہ قرآن میں صراحتہ موجود ہوتا آپ رضی اللہ عنہ اس سے جواب مرحمت فرمادیتے۔ اور اگر قرآن میں نہ ہوتا اور حدیث

رسول میں ہوتا تو اس سے جواب مرحمت فرمادیتے۔ اور اگر قرآن وحدیث دونوں میں نہ ہوتا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہوتا تو اس سے جواب مرحمت فرمادیتے۔ اور اگر ان میں سے کسی میں نہ ہوتا تو اپنی رائے سے جواب دے دیتے۔

ابن سعد فی السنۃ، العدنی وابن جریر

۱۶۲۳۔۔۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: آگاہ رہو! کہ جو طریقہ رسول اللہ ﷺ اور ان کے دوساقتیوں نے جاری کر دیا وہ عین دین ہے۔ ہم اس سے ابتداء کرتے ہیں تو اسی پر انتہاء بھی کرتے ہیں۔ اور ان کے سوا کے طریقہ کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں۔ ابن عساکر

۱۶۲۵۔۔۔ از مسند عمر رضی اللہ عنہ۔ خالد بن عرفطہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ عبدالقیس کے ایک شخص کو آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا تم فلاں عبدی ہو؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لکڑی کے ساتھ اس کو مارا۔ آدمی نے کہا اے امیر المؤمنین میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان آیات کی تلاوت فرمائی:

أَلَمْ تَلِكْ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ تَا الْعَافِلِينَ .

”آ کر، یہ کھلی کتاب کی آیات ہیں“

آپ نے ان آیات کی تین بار تلاوت فرمائی۔ اور تین بار اس شخص کو بھی مارا۔ اس نے کہا اے امیر المؤمنین میرا کیا قصور ہے؟ فرمایا تم نے ہی کتاب دنیا لیا کو نقل کر کے لکھا ہے؟ اس نے عرض کیا تو آپ اور حکم دیدیتجھے میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ فرمایا جاؤ اور اس کو گرم پانی اور ان کے ساتھ مٹاؤ لو۔ اور اس کو قطعاً نہ پڑھو اور نہ کسی اور کو پڑھاؤ۔ اگر مجھے اطلاع گئی کہ تم نے اس کو پڑھایا کسی کو پڑھایا ہے تو سخت سزا دوں گا۔

نزول قرآن سے دوسری آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئیں

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے اہل کتاب کا ایک نسخہ تیار کر کے چڑے میں لپیٹ کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: یہ کیا ہے؟ عرض کیا ایک کتاب کا نسخہ ہے، جو میں نے تیار کیا ہے، تاکہ ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو جائے۔ یہ سن کر رسول اللہ ﷺ اس قدر غضبناک ہوئے کہ آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے۔ پھر لوگوں کو جمع کرنے کے لئے نماز کا اعلان کیا گیا۔ انصار نے کہا شہارے نبی غضب ناک ہو گئے ہیں، اسلحہ لو! اسلحہ لو! لوگوں نے جلدی سے منبر رسول کو گھر لیا۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! مجھے جامع ترین اور آخری کلمات دیئے گئے ہیں۔ اور مجھے کلام کا خلاصہ اور نچوڑ دیا گیا۔ اور میں تمہارے پاس صاف ستھری شریعت لے کر آیا ہوں۔ پس تم تذبذب اور تردد کا اشتکار مت ہو جاؤ، اور یہ مضطرب لوگ یہود و نصاریٰ تمہیں حیران پریشان نہ کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور عرض کیا: ضیبت باللہ سا و بالاسلام دینا و بک رسول۔ کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ پھر آپ ﷺ منبر سے نیچے اتر آئے۔

المسنند لأبى يعلى ابن المنذر، ابن ابى حاتم الضعفاء للعقيلي رحمة الله عليه نصر المقدسي. السنن لسعيد في الحجة

اور اس کا ایک اور طریق بھی ہے۔

۱۶۲۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے توراہ کی تعلیم کے متعلق سوال کیا، فرمایا تم اس کو نہ سیکھو بلکہ جو تم پر نازل کیا گیا ہے اسی کو سیکھو اور اس پر ایمان لاؤ۔ شعب الإیمان حدیث ضعیف ہے۔

دوسری آسمانی کتابیں محرف ہیں

۱۶۲۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ دین میں اپنی رائے کو بچ سمجھو، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے امر میں بچ رائے ہوں۔ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حق سے سرمو احراف کرنے والے نہ تھے۔ اور یہ ابی جندل کے واقعہ والا دن ہے۔ کہ مصالحت نامہ آپ ﷺ اور اہل مکہ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ لکھو ﴿بسم اللہ الرحمن الرحیم﴾ اہل مکہ کہنے لگے آپ ہمیں کیا خیال کرتے ہیں اگر یہ لکھا گیا تب تو ہم نے آپ کی بات کی تصدیق کر لی۔ لہذا وہی لکھتے جو پہلے سے لکھتے آ رہے ہیں۔ یعنی باسمک اللهم۔ آپ ﷺ اس پر راضی ہو گئے، لیکن میں نے ان کو انکار کر دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جب میں راضی ہو گیا ہوں تو بھی تم انکار کرتے ہو؟

النزار، ابن جریر فی الأفراد، ابو نعیم فی المعرفة، اللالکائی فی السنة، الدیلنی ۱۶۲۸۔ جبیر بن نفیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کے زمانہ حیات میں چلا اور خیبر پہنچا۔ وہاں ایک یہودی کو پایا جو ایک بات کہتا تھا جو مجھے بہت پسند آئی میں نے اس کو کہا: کیا تم یہ بات میرے لئے لکھ دو گے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ تو میں ایک چمڑے کے پاس پہنچا اور وہ مجھے لکھوانے لگا۔ جب میں لوٹا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے ایک یہودی کو بہت اچھی بات کہتے ہوئے پایا تھا میرا خیال ہے آپ کے بعد کسی اور نے ایسی بات نہیں کہی۔ حضور ﷺ نے فرمایا امید ہے تم نے وہ لکھ لی ہوگی؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا لاؤ۔ تو میں گیا اور وہ تحریر لے کر آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بیٹھو اور اس کو پڑھ کر سناؤ۔ میں نے تھوڑی دیر اس کو پڑھا، پھر آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل چکا ہے۔ پھر تو مجھ پر ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی کہ مزید اس کا ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ پھر میں نے وہ تحریر آپ ﷺ کو دیدی۔ آپ ﷺ اس کے ایک ایک حرف کو اپنے لعاب مبارک سے محو فرمانے لگے۔ اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہے تھے: ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑو یہ تو راہ بھٹک چکے ہیں۔ اس طرح آپ ﷺ نے اس سارے کو مٹا ڈالا۔ الحلیہ

۱۶۲۹۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ نے کتاب نازل فرمائی۔ اور کچھ فرائض مقرر کئے، سوان میں کمی نہ کرو۔ اور کچھ حدود متعین فرمائی ہیں ان کو تبدیل مت کرو۔ اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے سوان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور کچھ چیزوں سے سکوت فرمایا ہے، بغیر کسی بھول کے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے سوا سے قبول کرو۔ اور اپنی رائے کو فوقیت دینے والے سنتوں کے دشمن ہیں۔ ان لوگوں کی یادداشت سے میری سنتیں سلب ہو جاتیں ہیں، اور انکے لئے ان کو محفوظ رکھنا عاجز کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ان سے سلب کر لی جاتی ہے کہ وہ لاعلمی کا اظہار کر سکیں پھر وہ سنن کا اپنی رائے سے مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ سوان سے بچو! بے شک حلال واضح ہے۔ اور حرام واضح ہے۔ اور ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چرانے والا قریب ہے کہ چراگاہ میں پھنس جائے۔ پس آگاہ رہو ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کی چراگاہ روزے زمین پر اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔ لہذا روایت میں ایک راوی ایوب بن سوید ضعیف ہے۔

۱۶۳۰۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رائے زنی و قیاس کرنے والوں سے اجتناب کرو۔

مسند احمد فی السقی اتباع الكتاب والسنة و ذم الراي، وابوعبید فی الغریب

۱۶۳۱۔ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا: امیر المؤمنین! ہم نے مدائن شہر فتح کیا تو وہاں مجھے ایک کتاب دریافت ہوئی، جس میں بہت عمدہ کلام ہے۔ پوچھا کیا اللہ کا کلام ہے؟ عرض کیا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈرہ منگوا لیا اور اس کو زد و کوب کرنے لگے۔ اور یہ آیت تلاوت فرمائی:

ألر تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا تا وان كنت من قبله لمن الغافلین
 "آر! یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔"

پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے علماء اور پادریوں کی کتابوں پر اس قدر جھک گئے کہ توراہ اور انجیل کو چھوڑ بیٹھے۔ حتیٰ کہ وہ دونوں کتابیں مٹ گئیں۔ اور ان کے اندر کا علم بھی چلا گیا۔ نصر
۱۶۳۲ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرمایا کہ کوفہ میں ایک شخص دانیال علیہ السلام کی کتابیں تلاش کرتا تھا۔ اور یہ اس کی عادت و طبیعت تھی۔ تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو ان کے پاس پیش کیا جائے۔ تو یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا آپ رضی اللہ عنہ نے اس پر ڈرہ اٹھالیا اور یہ آیات تلاوت فرمانے لگے۔

الر تلتک آیات الکتاب المبین تا الغافلین

اس نے کہا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصود سمجھ گیا اور عرض کرنے لگا اے امیر المؤمنین! مجھے چھوڑ دیجئے اللہ کی قسم! میں ان کتابوں میں سے کوئی کتاب نذر آتش کئے بغیر نہ چھوڑوں گا پھر آپ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا۔

المصنف لعبدالرزاق، ابن الضریس فی فضائل القرآن، العسکری فی المواعظ، الخطیب

۱۶۳۳ عبداللہ بن عکیم سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ اور آگاہ رہو سب سے اچھا طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور بدترین امور نبی پیدا کر دہ بدعتیں ہیں۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آگاہ رہو جب تک لوگ علم کو اپنے بڑوں سے حاصل کرتے رہیں گے اور چھوٹا بڑے پر کھڑا ہوگا۔ خیر میں رہیں گے۔ اور جب چھوٹا بڑے پر کھڑا ہو جائے گا تو خیر مفقود ہو جائے گی۔

الللالکانی فی السنۃ

۱۶۳۴ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کے شبہات کو لے کر تم سے جھگڑیں گے، تو تم ان کو سنتوں کے ساتھ پکڑنا۔ یقیناً سنتوں کا عالم کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والا ہے۔

الدارمی، نصر المقدسی فی الحجۃ، اللالکانی فی السنۃ، ابن عبدالبر فی العلم، ابن ابی زینب فی اصول السنۃ، الأصبہانی فی الحجۃ، ابن النحر
۱۶۳۵ از مسند علی رضی اللہ عنہ۔ ابو جحیفہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: کیا آپ کے پاس قرآن کے سوار رسول اللہ ﷺ کی طرف سے کچھ ہے؟ فرمایا: نہیں قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو چاک کیا اور جان کو پیدا کیا۔ کہ قرآن کی کجی بوجھ اور اس صحیفہ کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے عرض کیا اس صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا: دیت اور قیدی کی رہائی کے احکام اور ایک یہ بات کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے عوض قتل نہ کیا جائے۔ ابو داؤد الطیالسی، المصنف لعبدالرزاق، الحمیدی، مسند احمد العدنی والدارمی، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ،

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، النسائی، ابن ماجہ، المسند لابن یعلیٰ، ابن قانع، ۴ ابن الجارود، الطحاوی وابن جریر

۱۶۳۶ حارث اور رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، میرا مسجد سے گذر ہوا تو دیکھا کہ لوگ بحث و مباحثہ میں مشغول ہیں۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المؤمنین! کیا آپ لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ بحث و مباحثہ میں مصروف ہیں؟ آپ نے تاکید اور یافت فرمایا: کیا واقعی وہ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے نبی ﷺ سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا: اللہ کی کتاب، جس میں تم سے پہلے اور بعد والے لوگوں کی خبریں ہیں اور تمہارے درمیان کے اختلاف کا فیصلہ ہے۔ اور یہ فیصلہ کن کتاب ہے نہ کہ ہزل گوئی۔ جس نے بڑائی کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا اللہ اس کو ہلاک فرما دے گا۔ اور جس نے اسے چھوڑ کر نہیں اور ہدایت تلاش کی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور یہ ذکر اور دانائی کا کلام ہے۔ اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ خواہشات نفسانیہ اس میں کبھی پیدا کر سکتیں ہیں اور نہ ہی اس میں زبانوں کا التباس ہو سکتا ہے۔ علماء اس سے سیر نہیں ہوتے۔ بار بار پڑھنے سے اس کی تردید نہ ہوگی میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ وہی ہے کہ جنوں نے اس کو سنا تو نہ رہ سکے اور بے اختیار پکارا ٹھے۔

﴿انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشدا فامنا بہ﴾

”ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے۔ سو ہم اس پر ایمان لے آئے۔“

جس نے اس کے ساتھ بات کی، سچ بات کی۔ جس نے اس پر عمل کیا، اجر پایا۔ جس نے اس کے ساتھ فیصلہ کیا، عدل و انصاف کا تقاضہ پورا کیا۔ اور جس نے اس کی طرف دعوت دی، وہ ہدایت کی راہ پر گامزن ہوا۔

ابن حاتم، ابن الأباری فی المصاحف، ابن مردویہ، شعب الإیمان الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حمید بن زنجویہ فی ترغیبه، الدورقی و محمد بن نصر فی الصلاة،

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث غریبہ ہے اور اس کی اسناد مجہول ہے۔ اور حارث کی حدیث میں کلام ہے۔

۱۶۳۷ کندہ کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ نجران کا ایک پادری آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لئے جگہ کشادہ فرمادی۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! آپ اس (نصرانی) کے لئے کشادگی فرماتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ لوگ جب رسول ﷺ کے پاس آتے تھے تو آپ ﷺ بھی ان کے لئے کشادگی فرماتے تھے۔

پھر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے اس نصرانی سے پوچھا کہ اے اسقف! اب نصرانیت کتنے فرقوں میں بٹ چکی ہے؟ اس نے کہا بے شمار فرقوں میں بٹ چکی ہے، جو میرے شمار کرنے سے باہر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ کتنے فرقوں میں نصرانیت بٹ چکی ہے، اگرچہ یہ نصرانی ہے۔ وہ اکہتر فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ اور یہودیت بہتر فرقوں میں بٹ چکی ہے۔ اور تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ ملت حنیفیہ بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بہتر جنم میں جائیں گے اور صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ العدنی

۱۶۳۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: یہ امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور سب سے بدترین فرقہ وہ ہوگا جو ہمارے اندر تحریف کرے گا اور اس دین سے جدا ہو جائے گا۔ النحلیہ

سنت کی پیروی کرنے والا خیر میں ہے

۱۶۳۹ جبری بن کلیب سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ کسی چیز کا حکم فرما رہے ہیں اور حضرت عثمان اس سے منع فرما رہے ہیں۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ دونوں کے درمیان کچھ رنجش ہے؟ فرمایا: خیر کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن ہم میں سب سے زیادہ خیر والا وہ ہے جو اس دین کی زیادہ اتباع کرنے والا ہے۔ مسدد، ابو عوانہ، الطحاوی

۱۶۴۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تین چیزوں کے ساتھ کوئی عمل شرف قبولیت نہیں پاسکتا، شرک، کفر، اور کتاب و سنت کو چھوڑ کر رائے زنی کرنا۔ لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین! یہ رائے کیا ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو ترک کر کے اپنی رائے پر عمل کرنے لگو۔ ابن بشران

۱۶۴۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہود اکہتر فرقوں میں بٹ چکے تھے اور نصاریٰ بہتر فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ اور تم بہتر فرقوں میں بٹ جاؤ گے اور ان میں سب سے خبیث ترین فرقہ وہ ہوگا جو جدا گروہ بنا لے گا یا فرمایا جو شیعہ جدا گروہ ہو جائے گا۔

ابن ابی عاصم

۱۶۴۲ سوید بن غفلۃ سے مروی ہے، فرمایا: میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے چلا جا رہا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور ﷺ کا ارشاد ہے: کہ بنی اسرائیل نے باہم اختلاف کیا۔ پھر وہ اسی اختلاف پر قائم رہے حتیٰ کہ انہوں نے اپنے دو آدمیوں کو ثالث و فیصل بنایا، لیکن وہ دونوں خود بھی گمراہ ہو گئے اور انہوں نے اپنے تابعین کو بھی گمراہ کر دیا۔ اور عنقریب یہ امت بھی اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی اور ان کا اختلاف جاری ہوگا کہ یہ دو آدمیوں کو فیصل و ثالث بن کر بھیجیں گے لیکن یہ دونوں خود بھی گمراہ ہوں گے اور اپنے

متبعین کو بھی گمراہ کریں گے۔ السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ فی الدلائل

۱۶۴۳ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابو عمر! یہود کتنے فرقوں میں بٹ گئے تھے؟ میں نے عرض کیا: میں اس سے لاعلم ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اکثر فرقوں میں۔ اور وہ سوائے ایک فرقہ کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف وہ ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا۔ اور اس امت کے بارے میں جانتے ہو کہ یہ کتنے فرقوں میں بٹ جائے گی؟ میں نے عرض کیا: انہیں، فرمایا: اکثر فرقوں میں اور سوائے ایک فرقہ ناجی کے سب جہنم میں جائیں گے۔ اور نیز یہ امت بارہ فرقوں میں بھی بٹے گی جن میں سے صرف ایک فرقہ نجات یافتہ ہوگا اور تو بھی اسی میں سے ہے۔ ابن عساکر

اس روایت میں ایک راوی عطاء بن مسلم الحنفی ضعیف ہے۔

۱۶۴۴ سلیم بن قیس العامری سے مروی ہے، فرمایا کہ ابن الکوا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنت و بدعت اور جماعت و فرقہ بازی کے متعلق سوال کیا! تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب مرحمت فرمایا: اے ابن الکوا! تو نے اچھا سوال یاد کیا ہے، سو اس کا جواب بھی ذہن نشین کر لے۔ سنت! اللہ کی قسم سنت تو صرف محمد ﷺ کا طریقہ ہے۔ اور بدعت وہ ہے جو اس سنت سے کنارہ کش طریقہ ہو۔ اور جماعت! اللہ کی قسم! اہل حق سے اجتماعیت قائم رکھنا ہے۔ خواہ ان کی تعداد تھوڑی کیوں نہ ہو؟ اور فرقہ انگیزی! اہل بطلان سے اجتماعیت رکھنا ہے، خواہ ان کی تعداد کثیر ہو۔

رواہ العسکری

۱۶۴۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عنقریب ایک قوم رونما ہوگی۔ جو تم سے جھگڑے گی۔ تو تم سنتوں کے ساتھ ان کا تعاقب کرنا! کیونکہ اصحاب سنن ہی کتاب اللہ کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ اللالکائی فی السنۃ، الأصبہانی فی الحجۃ

۱۶۴۶ ابوالطفیل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: کہ انبیاء کے لائق ترین افراد وہ ہیں، جو ان کی پیش کردہ شرائع سے بخوبی واقف ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

﴿ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه و هذا النبی﴾

”ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ نبی آخر الزماں“۔ آل عمران ۶۸

یعنی محمد ﷺ اور آپ کے متبعین۔ سو ان میں تغیر و تبدل کی کوشش مت کرو۔ اور محمد ﷺ کا دوست وہ ہے جو اللہ کا مطیع ہے اور محمد ﷺ کا دشمن وہ ہے جو اللہ کا عاصی ہے۔ خواہ آپ سے اس کی قرابت و رشتہ داری ہو۔ اللالکائی

۱۶۴۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی امت آپ کے بعد فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اس سے خلاصگی کیا صورت ہوگی؟ فرمایا: کتاب خداوندی، جو غالب و برتر ہے۔ باطل اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، سامنے سے اور نہ ہی پیچھے سے۔ یہ صاحب حکمت و لائق حمد ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ابن مردودہ

۱۶۴۸ عبداللہ بن الحسن سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو حکم اور فیصلہ کنندگان کے بارے میں فرمایا: کہ میں تمہیں حکم بناتا ہوں اس شرط پر کہ تم کتاب اللہ سے رجوع کرو گے۔ اور تمام کتاب اللہ میرے حق میں ہے۔ پس اگر تم نے حل فیصلہ میں کتاب اللہ سے رجوع نہ کیا تو تمہاری حکومت کا عدم ہو جائے گی۔ ابن عساکر

۱۶۴۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا امام و حاکم قریش سے ہوں گے۔ اور جس نے باشت بھڑ بھی جماعت سے دوری اختیار کی، سو اس نے اسلام کی مالا اپنی گردن سے نکال پھینکی۔ بخاری و مسلم

۱۶۵۰ محمد بن عمر بن علی اپنے والد عمر رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ۔ ہ جا رہا ہوں، اگر تم اسے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہی میں نہ پڑو گے۔ کتاب اللہ! یہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا خدا کے دست قدرت میں ہے تو دوسرا تمہارے اور میرے اہل بیت کے ہاتھوں میں ہے۔ ابن جوزی

حدیث صحیح ہے۔

۱۶۵۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے انسانو! کیا بات ہے کہ تم اس راہ سے اعراض کر رہے ہو؟ جس پر تمہارے پیش رو کا مزن تھے، اور تمہارے نبی کی سنت بھی اسی کی راہ بتاتی ہے۔ یقیناً تم سے پہلے لوگ اسی بناء پر ہلاک کئے گئے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو بعض حصوں کے ساتھ مکرانا شروع کر دیا تھا۔ نصر

۱۶۵۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ابن النجار

۱۶۵۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ: میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اور فرمایا: اے محمد! تیری امت تیرے بعد اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ میں نے دریافت کیا: پھر اس سے گلو خلاصی کی کیا صورت ہے؟ اے جبرئیل علیہ السلام! فرمایا: کتاب خداوندی۔ جو ہر سرکش کو تباہ کر دے گی۔ اور جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا نجات پا جائے گا۔ جو اس کو چھوڑ بیٹھے گا برباد ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کن قول ہے۔ ہزل گوئی نہیں ہے۔ ابن مردودہ

۱۶۵۴ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے عین جنت کے درمیان میں سکونت بخشے؟ تو پھر تجھ پر جماعت کا دامن تھا ملازم ہے۔ ابن ابی شیبہ

۱۶۵۵ عبد اللہ بن ربیعہ سے مروی ہے انہوں نے ایک نصرانی کی بات ذکر کی، کہ کچھ لوگ ملک شام میں ایک نصرانی کے گرد جمع ہو گئے تو اس نے ان کو آپ ﷺ کے بعد آنے والے خلفاء کی صفات بیان کی۔ پھر یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کو پہنچی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے نصرانی کی باتیں دریافت کیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو بلوایا، اور ان سے دریافت فرمایا: کہ مجھے فلاں نصرانی کی بات بتاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی کا واقعہ بتایا جو آپ ﷺ کے مبارک عہد میں آپ ﷺ کے پاس وفد نجران کے ہمراہ آیا تھا۔ اور آپ ﷺ نے لوگوں کے اس نصرانی سے سوال کرنے کو ناپسند فرمایا تھا۔ ابن عساکر

حدود اللہ کی پابندی کرنا

۱۶۵۶ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں لہذا ان کو ضائع مت کرو۔ اور کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سو ان کی حرمت کو مت توڑو۔ اور بہت سی چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا ہے، بغیر کسی بھول کے سو ان کی تکلیف میں مت پڑو، یہ اللہ کی رحمت ہے اس کو قبول کر لو۔ آگاہ رہو! تقدیر اچھی ہو یا بری، ضرر رساں ہو یا نفع رساں اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ کسی بندے کو تقویٰ کی گئی اور نہ ہی بندے کی مشیت کو کامل اختیار دیا گیا۔ ابن النجار

۱۶۵۷ ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے انسانو! میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو تو میرے بعد ہرگز کبھی گمراہی کا شکار نہ بنو گے۔ ان میں سے ایک کار حجہ دوسری سے بڑھا ہوا ہے۔ وہ کتاب اللہ ہے، جو اللہ کی رسی ہے۔ آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور میری ال۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گی۔ حتیٰ کہ میرے پاس حوض پر آئیں۔ ابن جریر

۱۶۵۸ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اور یہ کہ شر ہے۔ (یعنی یہ کہا کرتے کہ اپنی طرف سے رائے زنی کرنا شر ہے) اپنی آراء کو غلط سمجھو۔ اور جماعت کو مضبوطی سے تھامو۔ کیونکہ اللہ امت محمد ﷺ کو کسی گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا۔ ابن ابی شیبہ

۱۶۵۹ معمر رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن سلام سے دریافت فرمایا: کہ بنی اسرائیل کتنے فرقوں بٹ گئی تھی؟ عرض کیا کہ بہتر فرقوں میں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: میری امت بھی اسی قدر یا اس سے بھی مزید ایک فرقہ زیادہ فرقوں میں بٹ جائے گی۔ سوائے ایک کے سب جہنم میں جائیں گے۔ المصنف لعبد الرزاق

۱۶۶۰ از مسند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم پر راہ الہی اور راہ سنت لازم ہے۔ پس روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں جو راہ الہی اور راہ سنت گامزن ہو، اور وہ رحمن کا ذکر کرے اور اس کی آنکھیں خشیتِ خداوندی سے بہہ پڑیں تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو عذاب کرے۔ اور روئے زمین پر کوئی بندہ ایسا نہیں جو راہ الہی اور راہ سنت گامزن ہو، اور وہ اللہ کا ذکر کرے اور اس پر خوفِ خداوندی سے کپکپی طاری ہو جائے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی خشک پتوں والا درخت ہے، اور باوجود صبران کو خوب جھاڑ دیتی ہے۔ تو اسی طرح اس بندہ کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں جس طرح درخت سے یہ پتے گرتے ہیں۔ اور راہ الہی میں معاش کی فکر کرنا راہ الہی کے سوا میں جہاد کرنے سے بھی افضل و بہتر ہے۔ سو دیکھو! کہ جہاد ہو یا فکرِ معاش انبیاء اور ان کی سنت کے مطابق اختیار کرو۔

الملائکاتی فی السنۃ

۱۶۶۱۔ از مسند انس بن مالک۔ یوسف بن عطیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: ہمیں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، مطر الورق رحمۃ اللہ علیہ اور عبد اللہ الدنانج رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ گھر کے دروازہ سے ہجرہ شریف میں جانے کے لئے نکلے تو ایک قوم کو دیکھا کہ قرآن کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کیا اللہ نے اس آیت میں یوں نہیں فرمایا؟ کیا اللہ نے اس آیت میں یوں نہیں فرمایا؟ رسول اللہ ﷺ نے حجرہ کا دروازہ اس غصہ کے عالم میں کھولا کہ گویا آپ کے رخ زیا پر کسی نے انار کے دانے چھوڑ دیئے ہوں۔ پھر فرمایا: کیا اسی کا تم کو حکم ملا ہے؟ کیا یہی تمہارا مقصود و مراد ہے۔ اسی طرح تو تم سے پہلے لوگ قعرِ ہلاکت میں پڑے۔ کہ انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض حصوں کے ساتھ ٹکرائنا شروع کر دیا تھا۔ تم کو اللہ نے جس بات کا حکم فرمایا: اس کی پیروی کر لو۔ اور جس بات سے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جاؤ۔

راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کسی کو بھی تقدیر کے متعلق بحث کرتے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو سب سے پہلے معبد الجحشی نے اس میں کلام شروع کیا تو حجاج بن یوسف نے اس کو پکڑوا کر تہ تیغ کر دیا۔

اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں: حضور ﷺ اپنے گھر سے نکلے تو ایک قوم کو سنا کہ تقدیر کے بارے مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ ﷺ ان کے پاس اس حال میں تشریف لے گئے، گویا آپ کے رخ زیا پر کسی نے انار کے دانے چھوڑ دیئے ہوں۔ پھر فرمایا: کیا اسی لئے تم پیدا کئے گئے ہو؟ کیا یہی تم سے مقصود و مطلوب ہے؟ اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے تو تم سے پہلے لوگ قعرِ ہلاکت میں پڑے۔ دیکھو! تم کو اللہ نے جس بات کا حکم فرمایا: اس کی پیروی کر لو۔ اور جس بات سے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جاؤ، بس۔

المدار قطنی فی الأفراد، الشیرازی فی الألقاب، ابن عساکر

۱۶۶۲ از مسند بريدة بن الحبيب الأسمی۔ بريدة بن الحبيب سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن باہر تشریف لائے تو تین مرتبہ نداء دی کہ اے لوگو! میری اور تمہاری مثال اس قوم کی سی ہے، جو کسی دشمن سے خوف زدہ ہے کہ کہیں وہ ان پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے ایک فرستادہ کو اس غرض سے بھیجا کہ وہ ان کے پاس دشمن کی خبر لائے۔ وہ اسی حال پر تھے کہ فرستادہ نے دشمن کو دیکھ لیا۔ وہ اپنی قوم کو متنبہ کرنے کے لئے متوجہ ہوا تو اسے یہ خطرہ دامن گیر ہوا کہ کہیں دشمن اس کے ڈرانے پہلے ہی ان کو نہ جالے۔ تو اس نے اپنے کپڑے اتارے اور چلانا ہوا پھینچا کہ لوگو! تم گھبر لئے گئے۔ تم گھبر لئے گئے۔ تم گھبر لئے گئے۔ الرامهر منزی فی الأمثال

عرب کے زمانہ جاہلیت میں انتہائی درجہ پر کسی خطرہ سے آگاہ کرنا مقصود ہوتا تو اعلان کنندہ لباس اتار کر ہاتھوں میں لئے خبردار کرتا ہوا آتا تھا۔

۱۶۶۳۔ از مسند بشیر رضی اللہ عنہ بن ابی مسعود۔ ابن حلیس سے مروی ہے کہ بشیر رضی اللہ عنہ بن ابی مسعود نے، جو اصحاب رسول میں سے تھے، فرمایا: جماعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیونکہ اللہ امت محمد ﷺ کو کسی گمراہی پر جمع نہ فرمائے گا۔ ابو العباس الأصم فی الثالث من فوائدہ

۱۶۶۴۔ از مسند جابر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ۔ عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے دست مبارک میں تلوار اور قرآن شریف تھا، اور وہ فرما رہے تھے: کہ ہمیں حضور ﷺ نے حکم فرمایا ہے کہ جو اس کی مخالفت کرے، ہم اس کو اس سے اڑادیں۔ ابن عساکر

۱۶۶۵۔ از مسند الحارث بن الحارث الأشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ الحارث بن الحارث الأشعری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تم کو پانچ باتوں کا حکم دوں: جہاد کرو۔ امیر کی بات سنو۔ اس کی اطاعت کرو۔ ہجرت اختیار کرو۔ اور جماعت! کہ جس نے جماعت سے ایک کمان کے بقدر بھی دوری اختیار کر لی تو اس کی نماز قبول ہوگی اور نہ روزہ۔ اور یہ لوگ جنم کا بندھن بنیں گے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابی مالک الأشعری

۱۶۶۶۔ از مسند حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ حذیفہ سے مروی ہے، فرمایا: کہ جس نے ایک بالشت جماعت سے بعد اپنایا اس نے اسلام کا طوق اپنی گردن سے نکال پھینکا۔ ابن ابی شیبہ

۱۶۶۷۔ از مسند زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تمہارے اندر اپنے دونوں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت۔ یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض پر آئیں گے۔ ابن جریر

۱۶۶۸۔ از مسند ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا: جس نے ایک بالشت جماعت سے بعد اپنایا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ابن ابی شیبہ

ایک زمانہ آئے گا سونا چاندی نافع نہ ہوگا

۱۶۶۹۔ از مسند ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: اس جماعت اور طاعت کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیونکہ یہ وہی اللہ کی رسی ہے، جس کا اس نے حکم فرمایا ہے۔ اور جو امور تمہیں جماعت میں ناپسند محسوس ہوں وہ فرقہ بازی کے محبوب اعمال سے بھی بہتر ہیں۔ اللہ نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا، مگر اس کی انتہاء بھی مقرر فرمادی۔ سو یہ دین بھی تام ہو چکا ہے، لہذا اب یہ نقصان و زوال کی طرف لوٹے گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ قرابت و رشتہ داری منقطع ہوں گی۔ مال ناحق وصول کیا جائے گا۔ خونریزی ہوگی۔ صاحب قرابت قرابت کا شکوہ کرے گا مگر خود اس کا خیال نہ کرے گا۔ بھکاری پھریں گے مگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہ دیا جائے گا۔ اسی دوران زمین گائے کی مانند ڈکارے گی، ہر انسان یہ محسوس کرے گا کہ یہ آوازان کے علاقہ کی طرف سے آرہی ہے۔ پھر اسی اثناء میں زمین اپنے جگر گوشے یعنی سونے چاندی باہر نکال پھینکے گی۔ لیکن اس کے بعد سونا سو مند ہوگا اور نہ ہی چاندی۔ ابن ابی شیبہ

۱۶۷۰۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا فرمایا: تو ہم دونوں چل پڑے حتیٰ کہ ایک جگہ پہنچے، تو رسول اکرم ﷺ نے ایک خط کھینچا اور مجھے فرمایا: اس کے درمیان ہی رہنا، اگر اس سے باہر نکلے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو میں اس میں ٹھہر گیا اور آپ ﷺ چلے گئے۔ یا فرمایا تھوڑی دور گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کے بیولے دیکھے چلنے کی طرح گھومتے ہوئے۔ ان پر کپڑے بھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی شرم گاہیں بھی نظر نہیں آتی۔ اونچے اونچے قد آور ہیں۔ جسموں پر معمولی معمولی سا گوشت ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو سوار کرایا اور رسول اللہ ﷺ ان پر قرآن کی تلاوت فرمانے لگے۔ اور کچھ میرے ارد گرد چکر لگانے لگے حتیٰ کہ وہ میری حد سے تجاوز کرنے لگے تو میں ان سے سخت گھبرا گیا اور بیٹھ گیا، غالباً آپ نے یہی فرمایا جو کچھ بھی فرمایا۔ پھر جب صبح کی پوچھی تو وہ جانے لگے۔ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، آپ تکان سے بوجھل اور تکلیف میں مبتلا تھے شاید انہوں نے آپ کو سوار کرا رکھا تھا اسی وجہ سے طبیعت گراں بار ہو گئی تھی۔ آکر آپ ﷺ نے فرمایا: میری طبیعت بھاری ہو گئی ہے، پھر آپ ﷺ میری گود میں سر اقدس رکھ کر استراحت پذیر ہو گئے۔ پھر دوبارہ کچھ ہولے نمودار ہوئے، اب کے ان کے جسموں پر سفید لباس تھے، قد آور جسموں کے مالک تھے۔ رسول اللہ ﷺ پردہ ہوشی طاری ہو چکی تھی۔ تو اس دفعہ میں پہلے سے زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ان میں سے کسی نے کہا: ان نے یعنی آپ ﷺ نے بھلی چیز عطا کی ہے، یہی کہا یا شاید کچھ اور کہا۔ پھر کہا: اس کی آنکھیں سورہی ہیں یا کہا کہ اس کی آنکھ سورہی ہے۔ اور دل اس کا بیدار ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ! اب اس کی کوئی مثال بیان کریں۔ ہم مثال بیان کرتے ہیں اور تم اس کی تعبیر بیان کرو یا تم مثال بیان کرو

اور ہم اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ تو بعض نے کہا: اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی سردار نے قلعہ نما عمارت تعمیر کروائی، پھر لوگوں کی طرف کھانے کے لئے دعوت بھیجی۔ سو جس نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا سردار اسے عذاب کرے گا۔ پھر دوسروں نے اس کی تعبیر کہی کہ سردار تو اللہ رب العالمین ہے۔ اور قلعہ نما عمارت اسلام ہے۔ کھانا جنت ہے۔ اور یہ نبی ﷺ داعی ہے۔ سو جس نے اس کی اتباع کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے اتباع نہ کی، وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔

پھر آپ ﷺ بیدار ہو گئے۔ اور مجھ سے دریافت کیا اے ام عبد! تم نے کیا کچھ دیکھا؟ عرض کیا ایسا ایسا ماجرا دیکھا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا انہوں نے جو کچھ کہا مجھ سے کچھ بھی مخفی نہ رہا۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ملائکہ کا ایک گروہ تھا یا فرمایا وہ ملائکہ تھے یا جو اللہ چاہے، وہی تھے۔

ابن عساکر ۱۶۷۱ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا: لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کہ رسول اللہ ﷺ کی قربت بھی حوض پر نفع مند نہیں ہوگی، اور لوگ کہیں گے: یا رسول اللہ! میں فلاں ابن فلاں ہوں، میں کہوں گا: نسب تو میں جان گیا ہوں لیکن تم نے میرے بعد یادین بنالیا تھا اور اٹھے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن النجار

۱۶۷۲ از مسند عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: یہ کیسے یا رسول اللہ! فرمایا: وہ دودھ پسند کرتے ہیں اور عیش و عشرت میں نماز کی جماعتوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو ضائع کرتے ہیں۔ نعیم بن حماد فی الفتن

۱۶۷۳ عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ستارہ شناسوں سے کچھ مت پوچھو۔ اور نہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرو۔ اور میرے اصحاب میں سے کسی کو سب و شتم نہ کرو۔ یہ چیز محض ایمان ہے۔ الخطیب فی کتاب النجوم

فصل بدعت کے بیان میں

۱۶۷۴ از مسند عمر رضی اللہ عنہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عنقریب ایسے لوگ آئیں گے، جو دجال کی تکذیب کریں گے۔ اور مغرب سے طلوع شمس کا انکار کریں گے۔ عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ شفاعت کا انکار کریں گے۔ حوض کا انکار کریں گے۔ اور اس قوم کا انکار کریں گے، جو جہنم سے جھلس جانے کے بعد نکلیں گے۔

المصنف لعبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، الحارث، بخاری و مسلم فی البعث

۱۶۷۵ از مسند حکم بن عمیر اشمالی۔ موسیٰ بن ابی حبیب حکم بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گھبراہٹ میں مبتلا کر دینے والا امر، کمر توڑ دینے والا بوجھ، اور نہ تم ہونے والا شر بدعتوں کا غلبہ ہے۔ الحسن بن سفیان، ابو نعیم

۱۶۷۶ از مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ابراہیم بن ہدیہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم کسی صاحب بدعت کو دیکھو، تو ترش روئی کے ساتھ اس سے پیش آؤ۔ کیونکہ اللہ ہر صاحب بدعت سے بغض رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی پل صراط سے نہیں گزرے گا مگر وہ جہنم میں پت جھڑ کے پتوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرے گا، جیسے ٹڈیوں اور مکھیوں کے بھٹ گماتے ہیں۔

رواہ ابن عساکر

۱۶۷۷ حدیث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: کہ میں دو جماعتوں کو جانتا ہوں جو جہنم میں جائیں گی۔ ایک وہ قوم جس کا کہنا ہے: ایمان سارا محض کلام ہے۔ جس میں عمل کی ضرورت نہیں۔ اور یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ اور دوسری قوم جو کہے گی کہ پانچ نمازوں کی کیا ضرورت ہے؟ دو نمازیں کافی ہیں۔ ابن حوزیر

۱۶۷۸ زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرمایا: تین جماعتیں ہیں جن کا امت محمد ﷺ سے کوئی واسطہ نہیں۔ بخیل، السنانی (احسان جتانے

باب سوم..... کتاب الایمان کا تتمہ و ملحقات

فصل..... صفات کے بیان میں

۱۶۷۹۔ از مسند علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ ارشاد حق سبحانہ و تقدس ہے کہ کوئی بندہ اس چیز کی ادائیگی کے سوا مجھ سے کسی اور چیز کے ساتھ زیادہ قرب نہیں پاسکتا جو میں نے خود اس پر فرض کر دی ہے۔ الخ ابن عساکر

۱۶۸۰۔ از مسند انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے، اور آپ حضرت جبرئیل علیہ السلام سے، اور حضرت جبرئیل اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے میرے دوست کو خوف زدہ کیا یا دوسرے الفاظ میں میرے دوست کی اہانت کی اس نے مجھے کھلے عام جنگ کی دعوت دیدی۔ اور کوئی بندہ اس چیز کی ادائیگی کے سوا مجھ سے کسی اور چیز کے ساتھ زیادہ قرب نہیں پاسکتا جو میں نے خود اس پر فرض کر دی ہے۔ اور بندہ مسلسل نقلی عبادت میں مشغول رہتا ہے تو وہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے لئے میں کان، آنکھ اور ہاتھ بن جاتا ہوں اور اس کا حمایتی و مددگار بن جاتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں مجھے پکارتا ہے پس میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ وہ مجھ سے سوال کرتا ہے اور میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اور وہ میرے لئے مخلص ہو جاتا ہے تو میں اس کے لئے مخلص و خیر خواہ ہو جاتا ہوں۔ اور میں کسی چیز میں تردد کا شکار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جب میرے بندے کا آخری وقت آ پہنچتا ہے، پھر وہ موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ میں اس کی برائی کو ناپسند کرتا ہوں۔ اور اس کے سوا چارہ کار نہیں۔ اور بعض میرے بندے اپنے لئے کسی عبادت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں مگر میں اس بات کے پیش نظر اس دروازے کو اس پر بند رکھتا ہوں کہ کہیں وہ عجب و پندار نفس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور یہ اس کے لئے تباہی کا پیش خیمہ بن جائے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان ان کو غنی و مالدار کے سوا کوئی چیز اس نہیں دیتا۔ اگر میں ان کو فقر میں مبتلا کر دوں تو وہ ان کو فتنہ و فساد کا شکار کر دے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان ان کو فقیر ہی میں درست رکھتا ہے۔ اگر میں ان کو غنی و مالدار بخش دوں تو یہی ان کی تباہی کا ذریعہ بن جائے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان ان کے لئے صحت و تندرستی کو خیر کا باعث بناتا ہے، اگر میں ان کو بیماری میں مبتلا کر دوں تو یہ بیماری ان کو خراب کر دے۔ اور بعض میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کا ایمان ان کو بیماری ہی میں مناسب رکھتا ہے۔ اگر میں ان کو صحت و تندرستی عنایت کر دوں تو وہ فساد و خرابی کا شکار ہو جائیں۔ میں اپنے بندوں کے دلوں کا بھید جانتے ہوئے ان کی تدبیر کرتا ہوں میں علیم و خبیر ذات ہوں۔

ابن ابی الدنیا فی کتاب الأولیاء، الحلیہ، ابن عساکر

اس میں صدقہ بن عبد اللہ ہے جس کو امام احمد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اور امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ محدثین میں صدق کا مرتبہ رکھتے ہیں یعنی کسی قدر ضعیف ہے، لیکن قدر یہ ہونے کا شبہ ہونے کی وجہ سے اس موضوع تقدیر کی روایت ان سے درست نہیں۔ اور علامہ ڈھمی کہتے ہیں کہ ان کی روایت کو بیان کرنے کی گنجائش ہے لیکن ان سے استدلال درست نہیں ہے۔ اس کے لئے اور نیز ان راوی کے متعلق مفصل جرح و فہم کے لئے دیکھئے سیر اعلام النبلاء ج ۷ ص ۳۱۶۔

۱۶۸۱۔ از مسند جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ زبیر سے مروی ہے کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پل صراط پر سے گزرنے کے متعلق پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ شرط کہ ہر مؤمن اس سے ضرور گزرے گا، مؤمنین کے لئے ہنستے مسکراتے پوری ہو جائے گی۔ الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد الطیالسی فی الصفات

۱۶۸۲۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ اکثر یہ دعا فرماتے تھے:

یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

”اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔“

اس پر آپ ﷺ کے بعض اہل خانہ نے سوال کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اب بھی ہم پر خوف کرتے ہیں، جبکہ ہم آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: دل ہمہ وقت رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے۔ اور رحمن یوں کرتا رہتا ہے، انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے فرمایا۔ الدار قطنی فی الصفات

۱۶۸۳ از مسند ابی رزین العقلی۔ ﴿وسع کرسیہ السموات والأرض﴾ کی تفسیر کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرمایا: کہ کرسی جائے قدمین ہے۔ اور عرش کی وسعت کا اندازہ کوئی شئی نہیں کر سکتی۔ الدار قطنی فی الصفات

۱۶۸۴ از مسند نواس رضی اللہ عنہ بن سمعان الکلابی۔ نواس رضی اللہ عنہ بن سمعان سے مروی ہے کہ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر ذل رب العالمین کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے۔ چاہے تو وہ اس کو سیدھا مستقیم رکھے اور چاہے تو کج رو کر دے۔ تو رسول اللہ ﷺ اسی وجہ سے فرماتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور میزان تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کو پست و بالا کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ دل اس کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ چاہے تو اسے سیدھا رکھے، چاہے تو اسے ٹیڑھا کر دے۔ اور میزان اس کے ہاتھ میں ہے۔ سو وہ اقوام کو رفعت عطا کرتا ہے اور پست کرتا ہے، اور قیامت تک یہی معاملہ جاری و ساری ہے۔

الدار قطنی فی الصفات

۱۶۸۵ از مسند ابی رزین العقلی۔ ابی رزین العقلی رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہمارا رب بندے کی یاس و قنوط اور اپنی رحمت اس کے قریب ہونے پر مسکراتا ہے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا پروردگار بھی مسکراتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ میں نے کہا پروردگار مسکرائے تو ہم خیر سے ہرگز محروم نہ ہوں گے۔ الدار قطنی فی الصفات

۱۶۸۶ شہر بن حوشب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ آپ ﷺ جب آپ کے پاس ہوتے تو آپ کی دعا اکثر کیا ہوتی تھی؟ فرمایا آپ کی دعا اکثر یہ ہوتی تھی:

یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

”اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔“

پھر آپ ﷺ نے ایک مرتبہ فرمایا: اے ام سلمہ! ہر آدمی کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے۔ چاہے تو وہ اس کو سیدھا مستقیم رکھے اور چاہے تو کج رو کر دے۔ ابن ابی شیبہ

۱۶۸۷ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ یہ دعا مانگتے تھے:

یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

”اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔“

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ﷺ اور یہ دعا مانگتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تو نہیں جانتی کہ ابن آدم کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے۔ چاہے تو وہ اسے ہدایت کی طرف پلٹ دے اور چاہے تو اسے گمراہی کی طرف لوٹا دے، تو وہ یوں پلٹ دینے پر قادر ہے۔

ابن ابی شیبہ

اسلام اپنے شباب کو پہنچا

۱۶۸۸ از مسند عمر رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص سے مروی ہے کہ میں مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کی مجلس میں موجود تھا کہ آپ رضی

اللہ عنہ نے اپنے کسی ہم نشین سے فرمایا: تم نے حضور ﷺ کو اسلام کی صفت کس طرح بیان کرتے ہوئے سنا؟ اس نے کہا میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اسلام اونٹ کے بچہ کی مانند نوزیدی و کسپیری کے عالم میں اٹھا۔ پھر اس کے سامنے کے ثنائی دانت نکلے۔ پھر برابر کے رباعی دانت نکلے۔ پھر رباعی کے بعد والے دانت نکلے۔ پھر اسلام اپنے عقوفان شباب کے آخری مرحلہ بزول پر آیا اور اس کے کچھلی والے دانت بھی نکل آئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: کہ بزول کے بعد سوائے نقصان و تنزلی کے کچھ نہیں رہ جاتا۔

مسند احمد، المسند لأبي يعلى، بروایت رجل

اس روایت میں مجھول راوی غالباً حضرت العلاء بن الحضرمی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور روایت میں اسلام کو ایک اونٹ کے بچے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے اس کی ارتقائی منازل کو بیان کیا گیا ہے۔ آخری مرحلہ بزول کا فرمایا حالت بزول میں اونٹ آٹھویں سال میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ اس کی قوت کا انتہائی اور بڑھاپے کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ بزول کے بعد سوائے نقصان و تنزلی کے کچھ نہیں رہ جاتا۔ یعنی عنقریب اسلام اس حالت میں پہنچ کر حاملین اسلام کی زبوں حالی کی وجہ سے اپنا عروج و اقبال کھو بیٹھے گا۔

۱۶۸۹ از مسند عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما۔ ابن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام اجنبی و پردہ سی حالت میں اٹھا اور عنقریب اسی طرح لوٹ جائے گا جس طرح اٹھا تھا۔ سو غرباء کے لئے خوشی کا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ غرباء کون ہیں؟ فرمایا: اپنے دین کی حفاظت کے لئے اس کو لے کر گناہوں کے مقام سے راہ فرار اختیار کرنے والے۔ ان کو اللہ تعالیٰ روز قیامت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے گا۔ ابن عساکر

۱۶۹۰ از مسند ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: اسلام کی تلوار میں کند پڑ گیا تو پھر اس کو کبھی کوئی چیز درست نہ کر سکے گی۔ ابن عساکر

یعنی اسلام کا انحطاط شروع ہو گیا تو پھر اس کی ترقی زوہ زوال ہی رہے گی۔

۱۶۹۱ از مسند عبدالرحمن بن سمرۃ بن حبیب العجمی۔ عبدالرحمن بن سمرۃ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! اسلام ان دو مسجدوں کی طرف اس طرح سمٹ کر منحصر ہو جائے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف لپک کر داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایمان مدینہ کی طرف یوں تیزی سے آئے گا جس طرح سیلاب نشیب میں آنا فنا تاثر جاتا ہے۔ پھر اسی اثناء میں عرب اپنے اعراب گنوار لوگوں سے اعانت کے طلب گار ہوں گے تو ان کی آواز پر پیش روں میں سے صلاح کار اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے معزز و اخیار لوگ اپنے مددگاروں کے ہمراہ نکلیں گے اور پھر ان کے اور روم کے مابین جنگ چھڑ جائے گی۔ لیکن جنگ ان پر حالت شکست میں الٹ جائے گی۔ پھر یہ انطاکیہ کے نشیبی مقام پر جمع ہوں گے اور وہاں جنگ چھڑے گی۔ اور تین دنوں تک جنگ کے شعلے بھڑکیں گے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دونوں فریقوں سے مدد اٹھائیں گے۔ حتیٰ کہ خون کا بازار اس قدر گرم ہوگا کہ گھوڑوں کے پاؤں مکمل خون میں ڈوب جائیں گے۔ تب ملائکہ بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے اے اللہ! تو کیوں اپنے بندوں کی مدد نہیں فرما رہا؟ پروردگار فرمائیں گے ابھی ان کے شہداء کی تعداد بڑھنے دو۔

پھر ان کے ایک تہائی لوگ شہادت پالیں گے۔ اور ایک تہائی نصرت یاب ہو جائیں گے اور ایک تہائی سختیء جنگ کی شکایت کرتے ہوئے منہ موڑ کر چلے جائیں گے اور یہ لوگ زمین میں دھنس جائیں گے۔

تب اہل روم کہیں گے کہ ہم تمہیں اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک کہ تم ہماری اصل کے (عجمی) لوگوں کو ہمارے سپرد نہ کر دو۔ تو عرب عجم سے کہیں گے کہ جاؤ تم اہل روم کے براتھ شامل ہو جاؤ۔ عجم کہیں گے: کیا ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہوتے ہو؟ کہ پہلے ہم کو اپنی حمایت میں جنگ کی بجلی میں پیسا اور اب انہی اغیار دشمن کے حوالہ کرتے ہو؟ تب عرب ان کی حمیت میں غضبناک ہوں گے۔ اور روم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اور قتال کریں گے۔ اور اس وقت اللہ بھی غصہ میں آئیں گے اور اپنی تلوار و نیزہ چلائیں گے۔ دریافت کیا گیا اے عبداللہ بن عمر

رضی اللہ عنہ اللہ کی تلوار ونیزہ کیا ہے؟ فرمایا: مؤمن کی تلوار وشیرہ۔ پھر تمام اہل روم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ سوائے کسی مجمر کے کوئی بچ کر نہ جاسکے گا۔ پھر یہ مسلمان روم کے شہروں کا رخ کریں گے۔ اور اس کے قلعوں اور شہروں کو فقط ”اللہ اکبر“ کی گونج ہی سے فتح کر لیں گے۔ تکبیر کہیں گے تو اس کی دیواریں گر پڑیں گی۔ ایک بارتکبیر کہیں گے تو اس کی ایک دیوار گر پڑے گی۔ ایک اور بارتکبیر کہیں گے تو دوسری دیوار بھی گرجائے گی۔ صرف بھیری دیوار گرنے سے رہ جائے گی۔ پھر یہ رومیہ کی طرف بڑھیں گے اور اس کو بھی تکبیر کے ساتھ فتح کر لیں گے۔ اور اس دن نیستت کا مال کثرت کی وجہ سے اندازے کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا۔ ابو نعیم

ابن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پانچ بڑی جنگیں چھڑیں گی دو ہو چکی ہیں اور بقیہ تین میں سے پہلی ترک کے ساتھ عظیم جنگ ہوگی۔ دوسری اعماق میں یعنی اہل روم کے ساتھ جس کا بھی ذکر ہوا۔ تیسری دجال کے ساتھ۔ ان کے بعد جنگ نہ ہوگی۔ اور روایت بالا کے شروع میں حضرت ابن عمرو کا کچھ فرمان جو یہاں مذکور نہیں ہے وہ یہ ہے کہ روم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو قدرتنا بہت جلد جوانی کی منازل طے کر لے گا وہ روم کی سلطنت کا مالک بنے گا اور کہے گا کہ یہ مسلمان آخر تک ہمارے علاقوں پر قابض رہیں گے سو یا تو میں نہ رہوں یا اس مذہب کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ اس کے مقابلے میں مصر شام وغیرہ کے لوگ نکلیں گے جن کے ساتھ مجم بھی ہوں گے یہ دیار عرب میں جمع ہو کر روم کے خلاف جنگ ترتیب دیں گے۔ اور عرب کے اعراب کو بھی مدد کے لئے پکاریں گے جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ یہ جنگوں میں سے سب سے عظیم ترین جنگ ہوگی۔ جس میں حیت بالا خرمسلمانوں کی ہوگی۔ اس فتح سے فراغت ہوتے ہی مسلمانوں کو خوش کن خبر ملے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں یہ لوگ بیت المقدس میں مقام ایلیاء پر آپ علیہ السلام سے جا کر ملیں گے۔ اور ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔

خلاصہ از ”الفتن، لنعم بن حماد“

فصل..... دل اور اس کے تغیرات کے بیان میں

۱۶۹۲۔ از مسند عمر رضی اللہ عنہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے انقطاعاً روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جو بسا اوقات حاضر دماغ رہتا ہو اور نہ حاضر عقل، اور اس کی یادداشت بھی برقرار نہ رہتی ہو؟ اور بسا اوقات اس کا دماغ اور عقل کام کرنے لگ جاتے ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہم نشینوں نے کہا: ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اے امیر المؤمنین! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دل بھی چاند کی مانند گرہن ہو جاتا ہے۔ پس جب یہ کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے تو اس کا دماغ، عقل اور یادداشت بھی مآؤف ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کیفیت کے باذل دل سے چھٹتے ہیں تو دماغ، عقل اور یادداشت سب دو بارہ لوٹ آتی ہیں۔ ابن ابی الدنیا فی کتاب الإسراف

۱۶۹۳۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہمیں کسی نے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: کہ میں اپنے دل کا تو مالک نہیں ہوں۔ لیکن اس کے سوا میں عدل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں۔ ابن جریر

۱۶۹۴۔ از مسند انس رضی اللہ عنہ۔ زید الرقاشی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ اکثر یہ دعا فرماتے تھے:

یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک

”اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔“

اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اب بھی ہم پر خوف کرتے ہیں، جبکہ ہم آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے ہیں؟ آپ ﷺ نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا: یعنی دل ہمہ وقت رحمن کی انگلیوں کے درمیان مٹھ کر رہتا ہے۔

ابن ابی شیبہ، الدارقطنی فی الصفات

۱۶۹۵... حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اکرم ﷺ اکثر یہ دعا فرماتے تھے:

ياقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

”اے دلوں کے پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔“

اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اب بھی ہم پر ڈرتے ہیں، جبکہ ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کے کلائے ہوئے دین پر یقین کر لیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم کیا جانو! تمام مخلوق کے دل اللہ عزوجل کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔

المدار قطنی فی الصفات

۱۶۹۶... از مسند حنظلہ بن الربیع الأسیدی۔ حنظلہ الأسیدی، جو رسول اللہ ﷺ کے کاتبین میں شامل ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم آپ ﷺ کے پاس حاضر تھے۔ آپ ﷺ نے جنت و جہنم کا ذکر کیا تو ہم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ گویا ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں کھڑا ہوا، اور اپنے اہل خانہ کی طرف چلا گیا۔ اور وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بنی ٹھیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر مجھے حضور ﷺ کی محفل میں طاری ہونے والی وہ کیفیت یاد آگئی۔ میں نکلا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملا۔ اور عرض کیا: اے ابو بکر! (اوہ) میں تو متناقض ہو گیا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا: کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا: ہم جب نبی ﷺ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ ہم سے جنت و جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو گویا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تو اولاد اور بیویوں کے ساتھ لہو و لعب اور بے کار چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اور اس وقت کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ پھر میں آپ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے حنظلہ! اگر اہل و عیال کے پاس بھی تمہاری وہی کیفیت برقرار ہے جو میرے ہاں ہوتی ہے تو فرشتے تم سے بستروں پر مصافحہ کرنے لگیں۔ دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: لیکن اے حنظلہ! یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ الحسن بن سفیان، ابو نعیم

۱۶۹۷... حنظلہ الأسیدی، سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اہل و عیال کے پاس بھی تمہاری وہی کیفیت برقرار ہے جو میرے ہاں ہوتی ہے تو فرشتے تم پر اپنے پردوں کا سایہ کرنے لگیں۔ ابو داؤد الطیالسی، ابو نعیم، ۴

اللہ تعالیٰ طلب مغفرت کو پسند فرماتے ہیں

۱۶۹۸... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے قلوب پر رقت طاری ہوتی ہے؟ اور دنیا سے ہم بے رغبت ہوتے ہیں؟ اور آخرت کا شوق ہمارے دلوں پر طاری ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر میرے پاس سے جانے کے بعد بھی تمہاری وہی کیفیت برقرار ہے جو میرے ہاں ہوتی ہے تو فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں۔ اور راہ چلتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ لیکن اگر تم سے گناہ ہونے معدوم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دوسری ایسی قوم کو لا بسائے گا جو گناہ کی مرتکب ہوگی حتیٰ کہ ان کے گناہ آسمان سے باتیں کرنے لگیں گے۔ پھر وہ اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں گے، تو ان سے جو کچھ بھی سرزد ہوا، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ابن النجار

۱۶۹۹... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو ہمارے قلوب پر رقت طاری ہوتی ہے؟ اور دنیا سے ہم بے رغبت ہوتے ہیں؟ اور آخرت کا شوق ہمارے دلوں پر طاری ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اسی حال پر رہو۔ جو میرے ہاں ہوتا ہے، تو فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں۔ اور راہ چلتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ لیکن اگر تم سے گناہ ہونے معدوم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ دوسری ایسی قوم کو لا بسائے گا جو گناہ کی مرتکب ہوگی حتیٰ کہ ان کے گناہ آسمان سے باتیں کرنے لگیں گے۔ پھر وہ اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں گے، تو ان سے جو کچھ بھی سرزد ہوا، ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور اسے

کوئی پرواہ نہیں۔ ابن النجار

۱۷۰۰ از مسند عبد اللہ بن رواحہ۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ میرا ہاتھ تھام کر فرماتے تھے: آؤ کچھ دیر ایمان تازہ کر لیں۔ کیونکہ دل اس ہانڈی سے زیادہ، جوشدت جوش سے ابل رہی ہو، متغیر ہوتا رہتا ہے۔ ابو داؤد الطیالسی

۱۷۰۱ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ ب مجھ سے ملاقات کرتے تو فرماتے عمیر! آؤ بیٹھو، چند گھڑی مذاکرہ کریں۔ تو ہم کچھ دیر بیٹھ کر ایمان کا مذاکرہ کرتے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ یہ ایمان کی مجلس ہے۔ اور ایمان کی مثال قیص کی سی ہے۔ کہ کبھی تم پہنی ہوئی قیص کو اتارتے ہو۔ اور کبھی اتاری ہوئی قیص کو پہن لیتے ہو۔ دل اس ہانڈی سے، جوشدت جوش سے ابل رہی ہو، زیادہ الٹ پلٹ ہوتا ہے۔ ابن عساکر

۱۷۰۲ از مسند ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: تمام بنی آدم کے دل ایک دل کی مانند رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان رہتے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو الٹا پلٹتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے دعا فرمائی:

اللهم مصروف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک

اے دلوں کے پھیرنے والے! ہمارے دل اپنی طاعت و فرماں برداری کی طرف پھیر دے۔ ابن عساکر

۱۷۰۳ از مسند ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: کہ دل کو کسی بات پر مجبور نہ کر کیونکہ دل کوئی جب مجبور کیا جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ محمد بن عثمان الأذرنی فی کتاب الوسوسہ

فصل..... شیطان اور اس کے وساوس کے بیان میں

۱۷۰۴ از مسند طلحہ رضی اللہ عنہ۔ ابوجاء العطار دی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ اور ہلکی نماز پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: مجھے وساوس نے گھیر لیا تھا۔ المصنف لعبدالرزاق

۱۷۰۵ از مسند زبیر رضی اللہ عنہ۔ ابوجاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو ہلکی نماز پڑھائی۔ عرض کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: مجھے وساوس جلد گھیر لیتے ہیں۔ المصنف لعبدالرزاق

۱۷۰۶ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہیں ایک شخص نے کہا: اے اصحاب رسول! یہ تم لوگوں کی کیا بات ہے کہ تم سب لوگوں سے زیادہ ہلکی نماز پڑھاتے ہو؟ فرمایا: ہمیں وساوس جلد گھیر لیتے ہیں۔ ابن عساکر، ابن النجار

۱۷۰۷ از مسند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! قسم ہے اس ذات کی، جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں اپنے دل میں ایسے ایسے وساوس پاتا ہوں کہ مجھے ان کو ظاہر کرنے سے جل کر کوئلہ بن جانا زیادہ محبوب ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں! یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس زمین میں اس کی دوبارہ پرستش کی جائے گی۔ لیکن وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے اعمال سے راضی ہو گیا ہے۔ ابن راہویہ

۱۷۰۸ از مسند ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ سے وسوسہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: یعیین ایمان ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر

۱۷۰۹ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے آپ ﷺ سے ایسے کسی شخص کے بارے میں سوال کیا، جو اپنے دل میں ایسے وسوسے جنم پاتا ہے کہ اس کو وہ وساوس زبان پر لانے سے زیادہ محبوب ہے کہ وہ آسمان سے نیچے گرے اور پرندے اس کو اچک لیں؟ فرمایا: یعیین ایمان ہے۔ یا فرمایا: یہ واضح ایمان ہے۔ ابن عساکر

۱۷۱۰ ... از مسند عبید بن رفاعہ - مروی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت پر شیطان کا اثر ہو گیا۔ شیطان نے اس کے اہل خانہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا علاج صرف فلاں راہب کے پاس ہے۔ اور راہب صومعہ میں رہتا تھا۔ اس عورت کے اہل خانہ نے اس راہب سے مسلسل بات چیت کی، حتیٰ کہ اس راہب نے عورت کو قبول کر لیا۔ پھر شیطان اس راہب کے پاس آ کر دوسرے انداز میں لگا، حتیٰ کہ وہ راہب عورت کے ساتھ غلط کاری میں ملوث ہو گیا اور اس کو حاملہ کر دیا۔ پھر شیطان آ کر کہنے لگا کہ اس کے اہل خانہ آئیں گے تو تو رسوا و فضیحت ہو جائے گا لہذا ایسا کر کہ اس عورت کو قتل کر کے دفن کر دے جب وہ آئیں تو کہہ دینا کہ وہ مر گئی تھی، میں نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ سو اس نے ایسا ہی کیا اور اس کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ اس کے اہل خانہ آئے تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس نے خود قتل کر کے اسے دفن کیا ہے۔ انہوں نے آ کر اس سے یہ سوال کیا۔ اس نے کہا وہ مر گئی تھی، میں نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ شیطان نے اس راہب کو مزید ورغلا یا کہ دیکھ! میں ہی اس عورت پر اثر انداز ہوا تھا۔ اور اس کے اہل خانہ کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ اس کا علاج صرف تیرے پاس ہے۔ پھر میں نے تجھے دوسرے میں مبتلا کیا، کہ اس کو قتل کر کے دفن کر دے۔ پھر میں نے ہی اس کے اہل خانہ کے دل میں ڈالا کہ تو نے اس کو خود قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ تو اب تو میری فوت کا اندازہ کر ہی چکا ہے۔ سو اب اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے نجات دلا سکتا ہوں۔ بس مجھے دو سجدے کر دے۔ راہب نے شیطان کو دو سجدے کر دیئے۔ یہی مطلب ہے اس فرمان باری کا:

﴿کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک﴾

”شیطان کی مثال تو یہ ہے کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر! جب وہ کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔“

ابن ابی الدنیافی مکائد الشیطان، ابن مردویہ، شعب الایمان

۱۷۱۱ ... عبید بن رفاعہ الزرقی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے نماز اور قرأت میں دوسرے ڈالتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس شیطان کا نام خنزیر ہے۔ پس جب تجھے اس کا احساس ہو تو اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دے۔ اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لے۔ المصنف، عند الرزاق، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، الصحيح لمسلم

۱۷۱۲ ... صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم اپنے دلوں میں ایسے وساوس محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا اور اس کا ساز و سامان مل جائے تب بھی ہم اس کے عوض ان خیالات کو زبان پر لانا پسند نہیں کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا واقعی تم ایسے خیالات پاتے ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو خالص ایمان ہے۔ محمد بن عثمان الأذری فی کتاب الوسوسۃ

۱۷۱۳ ... شہر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں اپنے ماموں کے ہزارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے ماموں نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا: اے ام المؤمنین! ہم میں سے کوئی شخص اپنے نفس میں ایسی بات پاتا ہے، کہ اگر اس کو ظاہر کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اگر مخفی رکھے تو اس کی آخرت خراب ہونے کا سوال ہے؟ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے تین بار اللہ اکبر کہا اور فرمایا: اس کا احساس بھی مؤمن ہی کو ہوتا ہے۔ محمد بن عثمان الأذری فی کتاب الوسوسۃ ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہئے۔

۱۷۱۴ ... حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا: کہ آدمی کی فقاہت میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اس بات کا اندازہ رکھے کہ دین کی فتنہ و سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ اور آدمی کی فہم و دانائی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ شیطان کے حملے کس کس جانب سے ہو رہے ہیں؟ محمد بن عثمان الأذری فی کتاب الوسوسۃ

۱۷۱۵ ... از مسندنا معلوم۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بنی حارثہ انصار کے بیٹی نامی کسی شخص نے ان کو خبر دی کہ حضور ﷺ کے کچھ صحابہ کرام حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ ہم شیطان کے ایسے دوسرے اپنے سینوں میں پاتے ہیں، کہ ہم میں سے کوئی ثریا ستارے کی بلندی سے نیچے گرے۔ اس کو یہ اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ اس دوسرے کو زبان پر لائے۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا: کیا واقعی تم یہ خیال پاتے ہو؟ عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: یہ تو کھلا ایمان ہے۔ شیطان تو اس سے بھی نیچے گرانا چاہتا ہے لیکن بندہ اگر اس سے محفوظ رہے تو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ محمد بن عثمان الأذری فی کتاب الوسوسۃ

۱۷۱۶... ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں دوران حج ایک حلقہ میں پہنچا تو اس میں ایسے دو شخصوں کو پایا جنہوں نے نبی ﷺ کو پایا تھا۔ دونوں بھائی تھے۔ میرا گمان ہے کہ ان میں سے ایک کا نام محمد تھا۔ وہ دونوں وسوسہ کے متعلق آپ ﷺ سے منقول حدیث کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ کہ کئی نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ اگر کوئی آسمان سے نیچے گر جائے، اس کو یہ اس سے زیادہ محبوب ہوگا کہ وہ ان وساوس کو نوک زبان پر لائے۔ آپ ﷺ نے دریافت کیا: یہ بات تم کو پیش آئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جی یا رسول اللہ! فرمایا: یہ تو عین ایمان ہے۔ ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر کہا: کاش! اللہ مجھے اس عین سے بھی نجات دے دے۔ اس پر ان دونوں بھائیوں نے مجھے سختی سے جھڑکا اور اس سے منع کیا، کہا کہ ہم تجھے رسول اللہ ﷺ کی حدیث نقل کر رہے ہیں اور تو ہے کہ اللہ مجھے اس سے بچا کر راحت میں رکھے۔ البغوی

حدیث غریب ہے۔

۱۷۱۷... عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: کہ شیطان انسان کو وضوء، بال اور ناخنوں جیسی معمولی معمولی باتوں میں مشغول رکھتا ہے۔ السنن لسعد

۱۷۱۸... ہشیم کہتے ہیں کہ ہمیں عوام بن حوشب نے خبر دی، وہ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کہا جاتا ہے کہ وسوسہ اندازی سب سے پہلے وضوء میں شروع ہوتی ہے۔ السنن لسعد

فصل..... اخلاقِ جاہلیت کی مذمت میں

۱۷۱۹... از مسند عمر رضی اللہ عنہ۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص، جس کو قیدیہ کہا جاتا تھا، سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بصرہ کے ایک مقام الخزیمہ میں عقبہ بن غروان کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے سورۃ البقرۃ کے اصحاب کے حوالہ سے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ ادھر دوسرا آدمی بھی آل شیبان کے حوالہ سے لوگوں کو پکارنے لگا اور یہ جاہلیت کا تقاضا وغرور تھا تو میں اس پر حملہ آور ہوا۔ اس نے بھی مجھ پر نیزہ تان لیا اور کہنے لگا مجھ سے دور رہو۔ میں نے اس کے نیزے کو اپنی کمان پر لیا۔ اور اس کی راڈھی اپنی ٹھٹی میں تھام لی۔ اور اسے پکڑ کر حضرت عقبہ کے پاس لے آیا۔ عقبہ نے ان کو مجبور کر لیا۔ اور اس کی روداد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہِ خلافت میں لکھ بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب ارسال فرمایا: کہ اگر وہ تمہارا قیدی ہے اور جاہلیت کے دعویٰ پر مصر ہے تو اس کی گردن اڑا دیتے، لیکن اگر وہ محض نظر بند ہے تو اس کو دعوت دو۔ اور اس سے بیعت لو، اور اس کی راہ چھوڑ دو۔ محمد بن شیبان القزازی فی حزبہ

۱۷۲۰... فضیلۃ الغفاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ایک شخص کو اپنی بڑائی کا دعویٰ کرتے ہوئے سنا کہ: میں بطحا (وہابی) مکہ کا فرزند ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس ٹھہر گئے اور فرمایا: اگر تو صاحب دین ہے تو واقعی مکرم ہستی ہے۔ اور اگر تو صاحب عقل و فراست ہے، تب بھی تو صاحب مروّت و عزت ہے۔ اور اگر تو صاحب مال ہے تو بھی تو صاحب شرافت ہے۔ اور اگر یہ کچھ بھی نہیں تو تیرے اور ایک گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ السنن لسعد فی الامثال

۱۷۲۱... از مسند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد نبوی ﷺ میں دو شخص آپس میں حسب نسب بیان کرنے لگے۔ ایک نے کہا میں فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں۔ لیکن بتاؤ کون ہے؟ تیری ماں تجھے کھو بیٹھے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عہد موسوی علیہ السلام میں دو آدمی آپس میں حسب نسب بیان کرنے لگے، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید آگے حدیث مکمل ذکر نہیں کی، چونکہ مکمل حدیث پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے۔

۱۷۲۲... از ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا: ہم کو حکم ہے، کہ جب ہم کسی کو جاہلیت کی طرف نسبت کرتے

دیکھیں تو اس کو باپ کے سوا، انہی کے ساتھ لازم ملزوم کر دیں۔ اور اس کو کنیت کے ساتھ نہ پکاریں۔

ابن عساکر، الخطیب فی المتفق والمفترق، النسائی، عمم، السنن لسعید، المستدلابی یعلیٰ

۱۷۲۳ عمر ورحمۃ اللہ علیہ بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد شعیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعیب اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے درمیان بات بڑھ گئی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان کو برا بھلا کہا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا: افسوس، اے ہصیص! عمرو رضی اللہ عنہ کے کسی جدا مجد کا نام ہے مجھے مغیرہ برا بھلا کہتا ہے؟ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے فرزند عبد اللہ بن عمرو نے اپنے والد سے عرض کیا: انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ نے جاہلی قبائل والا دعویٰ کیا؟ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے نام ہو کر تیس غلام آزاد کئے۔

ابن عساکر

۱۷۲۴ از مسند معاویہ بن حیدرہ رضی اللہ عنہ۔ ہز بن حکیم اپنے والد حکیم سے اور حکیم ہز کے دادا یعنی اپنے والد معاویہ رضی اللہ عنہ بن حیدرہ سے نقل کرتے ہیں، فرمایا: حضور ﷺ کے پاس دو آدمی فخر بازی کرنے لگے۔ ایک بنی مضر سے تھا دوسرا یمن سے تعلق رکھتا تھا۔ یمنی نے کہا: میں حمیر سے ہوں نہ کہ مضر ورتج سے ہوں۔ اس کو حضور ﷺ نے فرمایا: یہ تیرے نصیبہ و شرافت کی بدبختی ہے، تیرے دادا کی ہلاکت ہے اور تیرے پیغمبر سے تیری دوری ہے۔ ابن عساکر

۱۷۲۵ از مسند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرمایا: جب اہل نزار عصیت میں کہنے لگیں: اے نزار! اور اہل یمن کہنے لگیں: اے قحطان! تو ضرور شرا ترا تا ہے۔ اور مرد و نصرت اٹھ جاتی ہے۔ اور جنگ مسلط کر دی جاتی ہے۔ ابو نعیم

۱۷۲۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اور یوں کہنے لگا: معزز و شرفاء کے فرزند کو اجازت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کو اجازت دیدو۔ آنے پر اس سے دریافت فرمایا: تو کون ہے؟ کہا: میں فلاں بن فلاں بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہم السلام ہے؟ کہا: نہیں۔ فرمایا: پھر معزز و شرفاء کے فرزند تو وہ ہیں۔ تو بدترین لوگوں کا فرزند ہے، جن کا شمار اہل جہنم میں ہوتا ہے۔ المستدرک للحاکم

۱۷۲۷ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تھے۔ کہ ایک مہاجر بنی نے انصاری کو کسی بات پر دھتکار دیا۔ انصاری نے حمایت کے لئے پکارا: اے انصار! مہاجر بنی نے بھی پکارا: اے مہاجر بنی! رسول اللہ ﷺ نے سنا تو فرمایا: یہ کیا جاہلیت کے نعرے لگ رہے ہیں؟ لوگوں نے حقیقت حال کی خبر دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دعوے چھوڑ دو، یہ انتہائی متعفن اور غلیظ ہیں۔

تو چونکہ حضور ﷺ کے ہجرت فرمانے کے وقت مہاجر بنی قبیل تعداد میں تھے۔ پھر مہاجر بنی کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اور یہ بات بھی عبد اللہ بن ابی ریحس المنافقین کو پہنچی جو پہلے ہی سے مہاجر بنی کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خار کھائے بیٹھا تھا تو اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ اچھا! جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم معزز و شرفاء لوگ ان رذیلوں کو وہاں سے در بدر کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے اجازت دیجئے، کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: چھوڑو اس کو، لوگوں میں خہ میگوئیاں ہوں گی، کہ محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنے لگ گیا ہے۔ المصنف لعبد الرزاق

چوتھا باب..... امور متفرقہ کے بیان میں

۱۷۲۸..... از مسند عمر رضی اللہ عنہ۔ سعید بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر موصول ہوئی کہ ملک شام میں ایک شخص اپنے مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے امیر کو پیغام بھیجا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تو اپنے مؤمن ہونے کا دعویٰ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا: نفوہ! وہ

کیسے؟ عرض کیا کیا آپ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تین اصناف کے لوگ نہ تھے؟ مشرک، منافق، مؤمن۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کن میں سے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات کو سمجھ گئے اور ازراہ خوشی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شعب الإیمان

یہود کے میلہ اور تہوار میں شرکت کی ممانعت

۱۷۲۹..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرمایا: دشمن خدا لوگوں، یعنی یہود کی عید و محافل سرور میں جانے سے اجتناب کرو۔

التاریخ للبخاری رحمة الله عليه، بخاری ومسلم

۱۷۳۰..... حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو دعویٰ کرے کہ ”میں عالم ہوں“ درحقیقت وہ جاہل ہے۔ اور جو مؤمن ہونے کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ رستہ فی الإیمان حدیث غیر ثابتہ وموضوع ہے۔ دیکھئے: اللتی لا اصل لہا فی الإیمان ص ۲۹۲۔ نیز دیکھئے: تحذیر المسلمین، ۱۱۲، اور بہت سی کتب میں اس کو ضعیف وموضوع قرار دیا گیا ہے جن کا ذکر موجب طوالت ہے۔ ان کے حوالہ جات کی تفصیل کے لئے رجوع فرمائیے: موسوعۃ الأحادیث والأثر الضعیفۃ والموضوعۃ ج ۱۰ ص ۱۵۲۔

۱۷۳۱..... سعید بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر موصول ہوئی کہ ملک شام میں ایک شخص اپنے مؤمن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے امیر کو پیغام بھیجا کہ اس کو میرے پاس بھیج دو۔ جب وہ آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تو اپنے مؤمن ہونے کا دعویٰ ہے؟ عرض کیا آپ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تین اصناف کے لوگ نہ تھے؟ مؤمن کافر منافق؟۔ تو اللہ کی قسم میں کافر نہیں ہوں اور نہ میں نے نفاق کیا؟ حضرت عمر نے اس کی بات پر ازراہ خوشی فرمایا: ہاتھ دو۔

ابن ابی شیبہ فی الإیمان

۱۷۳۲..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے فرمایا: دشمن خدا لوگوں، یعنی یہود و نصاریٰ کی عیدوں میں ان کے مجمع کو جانے سے اجتناب کرو۔ کیونکہ ان پر خدائے تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ تم پر بھی نہ اتر جائے۔ اور یہ کہ تم ان کے باطن سے تو واقف ہو نہیں پھر کہیں انہی کے رنگ میں نہ رنگ جاؤ۔ التاریخ للبخاری رحمة الله عليه، شعب الإیمان

۱۷۳۳..... از مسند علی رضی اللہ عنہ۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ بن قیس سے مروی ہے، کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتے تھے: کوئی آدمی زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور کوئی آدمی چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور نہ کسی کی ذی شرف شی پر ڈاکہ ڈالتے وقت، حالانکہ لوگ اس کی طرف نگاہیں بھرے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مؤمن رہتا۔ اور کوئی آدمی شراب نوشی کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔

ایک شخص نے سوال کیا: اے امیر المؤمنین! تو کیا جس نے زنا کیا، کفر کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے کہ رخصت کی احادیث کو مبہم رکھیں۔ کوئی مؤمن زنا کے وقت مؤمن نہیں رہتا جبکہ وہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ زنا اس کے لئے حلال ہے۔ کیونکہ اس کی حلت پر ایمان لانا صریحاً کفر ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا جبکہ وہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ چوری اس کے لئے حلال ہے۔ کیونکہ اس کی حلت پر ایمان لانا صریحاً کفر ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی شراب نوشی کے وقت مؤمن نہیں رہتا جبکہ وہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ شراب نوشی اس کے لئے حلال ہے۔ کیونکہ اس کی حلت پر ایمان لانا صریحاً کفر ہے۔ اسی طرح کسی کی ذی شرف شی پر ڈاکہ ڈالتے وقت مؤمن نہیں رہتا، حالانکہ لوگ اس کی طرف نگاہیں بھرے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ وہ اعتقاد رکھتا ہو کہ یہ ڈاکہ زنی اس کے لئے حلال ہے۔ کیونکہ

اس کی حلت پر ایمان لانا صریحاً کفر ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، الصغیر للطبرانی رحمة الله عليه

اس میں ایک راوی اسماعیل بن یحییٰ امی متروک و متہم ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں۔

۱۷۳۴..... حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا: کہ ایمان دل میں ایک سپید نکتہ کی مانند شروع ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے

تو وہ سپیدی بھی پھیلتی جاتی ہے۔ پس جب ایمان کامل ہو جاتا ہے تو سارا دل سپید اور صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اور نفاق دل میں ایک سیاہ نکتہ کی مانند شروع ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے نفاق بڑھتا جاتا ہے، وہ دل کی سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ پس جب نفاق کامل ہو جاتا ہے تو سارا دل سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر تم کسی مؤمن دل کو چیر کر دیکھو تو اس کو سپید پاؤ۔ اور اگر تم کسی منافق دل کو چیر کر دیکھو تو اس کو سیاہ پاؤ گے۔

ابن المبارک فی الزهد، ابو عیید فی الغرب، رستہ وحسین فی الإستقامة، شعب الإیمان، اللالکائی فی السنة، الأصبہانی فی الحجۃ

اللہ تعالیٰ کی نہ ابتداء ہے نہ انتہاء

۱۷۳۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اور آپ سے سوال کیا کہ ہمارا رب کب سے ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ کے چہرہ کارنگ غصہ کی وجہ سے بدل گیا۔ اور فرمایا: جب کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا۔ اور جس طرح ازل میں تھا اسی طرح آج بھی ہے۔ اور وجود عدم کی کیفیات کچھ نہ تھیں وہ تب سے ہے۔ نہ ابتداء تھی اور نہ ہی کوئی انتہاء تھی، وہ تب سے ہے۔ اس کی ذات کے آگے تمام غایات ختم ہیں۔ بلکہ وہی ہر غایت کی غایت ہے۔

اس معجزانہ کلام نے یہودی پر وہ اثر کیا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ابن عساکر

۱۷۳۶ الأصبغ بن نباتہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا: یا امیر المؤمنین! اللہ کب سے موجود ہوا؟ ہم اس کی طرف لپکے اور اس قدر اس کو زد و کوب کیا، کہ قریب تھا کہ اس کی جان لے بیٹھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسکو چھوڑ دو۔ پھر خود اس سے مخاطب ہوئے، کہ اے یہود کے بھائی! جو میں تجھے کہوں اسے اپنے کانوں سے سن۔ اور دل میں اس کو محفوظ رکھ۔ میں تجھے تیری کتاب ہی سے، جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام لے کر آئے، جو اب دوں گا۔ اگر تو نے اپنی کتاب پڑھ کر یاد رکھی ہوگی تو تو میری بات کو اسی کی مانند پائے گا۔

سن ”وہ کب وجود میں آیا“ یہ اس ذات کے متعلق پوچھا جاسکتا ہے، جو پہلے موجود نہ ہو۔ پھر وجود میں آئی ہو۔ بہر حال جو ہستی لازوال ہو، وہ بغیر کسی کیفیت کے ہوتی ہے۔ اور بغیر حدوث وجود میں آئے موجود ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے لازوال ہے۔ وہ ابتداء سے بھی پہلے سے ہے۔ اور انتہاء سے بھی آخر میں ہے۔ وہ بغیر کسی کیفیت و غایت و انتہاء کے لازوال ہے۔ اس پر تمام غایات منقطع ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر غایت کی غایت ہے۔

اس بات کو سن کر یہودی رو پڑا۔ اور عرض کیا یا امیر المؤمنین! اللہ کی قسم! یہ بات حرفاً قرآناً اور آیت میں موجود ہے۔ سواب میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

الأصبہانی فی الحجۃ

۱۷۳۷ محمد بن اسحاق، نعمان بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ چالیس یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ہمیں اپنے رب کے اوصاف بیان کرو، جو آسمان میں ہے۔ کہ وہ کن کیفیات کے ساتھ ہے؟ کیسے وجود پذیر ہوا؟ کب ہوا؟ اور کس چیز پر وہ مستوی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے گروہ یہود! سنو مجھ سے۔ اور یہ پرواہ نہ کرو کہ کسی اور سے بھی سوال کرو گے۔

میرا پروردگار عز وجل وہ ایسی اول ترین ہستی ہے، جس کی کسی چیز سے ابتداء نہیں ہوئی۔ جس کی کسی چیز سے ترکیب نہیں ہوئی۔ وہ کسی موہوی کیفیت کا نام نہیں۔ اور نہ ہی کسی جسمانی ہیولے کا نام ہے، جو نظروں میں قریب دور ہو سکتا ہو۔ وہ کسی پردے میں محجوب نہیں کہ جگہ کا محتاج ہو۔ وہ کسی حادثے و وقوع سے وجود پذیر نہیں ہوا، کہ اس کو فانی کہا جاسکے۔ بلکہ وہ اس بات سے عظیم و بالاتر ہے کہ اشیاء کی کیفیات، خواہ جو بھی ہوں، کے ساتھ متصف ہو۔ وہ زوال پذیر ہوا، اور نہ کبھی ہوگا۔ نہ اس کی ایک شان فنا ہو کر دوسری سے تبدیل ہوگی۔ آخر اس کو کس طرح اجسام و اشیا کے ساتھ متصف کیا جاسکتا ہے؟ اور کیسے فصیح ترین زبانوں کے ساتھ اس کی صفات بیان کی جاسکتی ہیں؟ وہ اشیاء میں داخل ہی نہیں تھا کہ کہا جائے کہ اس نے وجود پایا۔ اور نہ کسی چیز سے اس کی بناء ہوئی کہ کہا جائے وہ بن گیا۔ بلکہ وہ ہر کیفیت سے آزاد ہے۔ وہ شرک سے قریب

تر ہے۔ جسم و شہادت میں ہر شے سے بعید تر ہے۔ اس پر بندوں کا ایک لحظہ، اور ایک لفظ کا ٹکنا، ایک قدم کا قریب ہونا، اور ایک قدم کا دور ہونا، خواہ انتہائی تاریک رات کے آخری پہر میں ہو تب بھی ان چیزوں کی نقل و حرکت اللہ سے مخفی نہیں رہتی۔ چودھویں رات کے ماہتاب اور بھڑکتے دن کے آفتاب کے اپنے اپنے محوروں کی گردش کا کوئی لمحہ، روشنی و شعاعوں سمیت اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اپنی ظلمتوں سمیت آنے والی رات اور اپنی ضیاء پاشیوں سمیت جانے والے دن کی کوئی کیفیت اس سے اوجھل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ اپنی قدرت تکوینیہ میں جو چاہے، اس پر پوری طرح حاوی و محیط ہے۔ وہ ہر کون و مکان، ہر لمحہ و گھڑی، ہر انتہاء و مدت کو خوب خوب جاننے والا ہے۔ مدت و عاقبت صرف مخلوق پر مسلط ہے۔ حدود کا دائرہ اس کے سواء ہر ایک کو محیط ہے۔ اس نے اشیاء کو پہلے سے کسی طے شدہ اصول کے مطابق تخلیق نہیں فرمایا۔ اور نہ اپنے سے اول ترین اشیاء کی مدد سے پیدا کیا۔ بلکہ جس کو جیسے چاہا پیدا کیا اور اس کی تخلیق کو مکمل قائم فرمایا، اور اس کی صورت گری کی۔ اور بہترین صورت بنائی۔ وہ اپنی علو شان میں یکتا ہے۔ کسی شے کی اس کو رکاوٹ نہیں۔ اس کو اپنی مخلوق کی طاعت سے ذرہ بھر نفع نہیں۔ پکارنے والوں کی حاجت روانی کرنا اس کا وظیفہ ہے۔ ملائکہ آسمان و زمین کی وسعتوں میں اس کی اطاعت پر سرگگندہ ہیں۔ بوسیدہ ہو جانے والے مردوں کے ذرہ ذرہ کا علم اس کو یوں ہے، جس طرح جیتے جی پھرنے والوں کے متعلق اس کا علم۔ بلند و بالا آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، اس کو اسی طرح معلوم ہے، جس طرح پست زمینوں کے ذرات تک کا علم ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کو آوازوں کے اختلاط سے چنداں حیرانی پریشانی کا سامنا نہیں۔ طرح طرح کی بولیاں اس کو ایک دوسرے سے مشغول نہیں کرتیں۔ وہ ہر طرح کی مختلف آوازوں کو سنتا و بھر پور سمجھتا ہے۔ وہ بغیر اعضاء و جوارح کے ان کے ساتھ مانوس ہے۔ صاحب تدبیر، بصیر اور تمام امور کا بخوبی جاننے والا ہے۔ زندہ پائندہ ہے، ہر عیب سے منزہ ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اعضاء و آلات کے بغیر اور ہونٹ اور دیگر مخارج اصوات کے بغیر کلام کیا۔ وہ پاکیزہ و عالی شان ہر طرح کی کیفیات سے مبرا و منزہ ہے۔ جس نے گمان کیا کہ ہمارا اللہ محدود و محدود ہے، وہ درحقیقت اپنے خالق و معبود سے جاہل ہے۔ اور جس نے کہا کہ کون و مکان اس کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ حیران پریشان اور ملتہس رہے گا۔ وہ تو بلکہ اس کے برعکس ہر مکان کو گھیرے ہوئے ہے۔ پس اگر اے مکلف انسان! تو رحمن کی صفات قرآن کے خلاف بیان کر سکتا ہے تو اتنا تہاہی کر کے دکھا کہ ہمیں جبرئیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کی صفات اور شکل و صورت بیان کر دے؟ صد افسوس تو اپنی مثل مخلوق کی ہیئت و صفت بیان نہیں کر سکتا تو خالق و معبود کی ہیئت و صفت بیان کرنے پر کیسے آدہ ہمت ہوا؟ تو ان ہیئت و آلات کے رب کی صفت کا ادراک ہی نہیں کر سکتا؟ چچ جائے کہ اس ذات کا ادراک کرے، جسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند، اور جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، اور ان کے درمیان ہے وہ سب اسی کا ہے۔ اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ الحلیہ

صاحب حلیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نعمان کی حدیث ہے۔ ابن اسحاق نے بھی اس کو اسی طرح مرسل روایت کیا ہے۔

۱۷۳۸۔ از مسند ابن عمر رضی اللہ عنہما۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما یوں کہنے کو ناپسند فرماتے تھے کہ میں اس اس بات میں اسلام لایا۔ کیونکہ اسلام تو محض اللہ ہی کے لئے۔ المصنف لعبدالرزاق
اسلام کے معنی ہیں کسی کے آگے کلی طور پر تسلیم خم ہو جانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معنی کے خیال سے لفظ اسلام کو دوسرے کے لئے استعمال کرنے کو ناپسند جانتے تھے۔

۱۷۳۹۔ فضالہ بن عبید رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرمایا: اسلام تین کمروں پر مشتمل ہے۔ نیچے والا، اوپر والا اور بالا خانہ۔ نیچے والا اسلام ہے۔ یعنی اس کے فرائض و واجبات۔ اوپر والا کمرہ نوافل کا ہے۔ اور بالا خانہ جہاد ہے۔ ابن عساکر

۱۷۴۰۔ از مسند ابی الدرداء رضی اللہ عنہ۔ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ایمان قیص کی مانند ہے کہ آدمی کبھی اس کو زیپ تن کر لیتا ہے اور کبھی اتار پھینکتا ہے۔ المصنف لعبدالرزاق

۱۷۴۱۔ مزائیل سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا: بندہ جب کسی شے کے متعلق کہتا ہے کہ اللہ کو پہلے اس کا علم تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ اس بات سے عاجز ہو گیا کہ جان لیتا کہ میرا رب جانتا ہے۔ ابن عساکر

۱۷۴۲۔ مزائیل قتادہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہ رسول اکرم ﷺ نے نبی نجران کے پادری سے فرمایا اے ابوالحارث

اسلام لے آیا اس نے کہا: میں دین حق کا مسلمان ہوں۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا: اسلام لے آیا اس نے کہا: میں آپ سے پہلے ہی مسلمان ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسلام سے تجھے تین باتیں مانع و رکاوٹ ہیں۔ اللہ کے لئے تیرا اولاد کو ماننا، تیرا خیر رکھنا، اور تیرا شراب پینا۔ ابن ابی شیبہ ۱۷۴۳ مسور بن حرمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسلام کو ظاہر فرمایا اور پھر ایک وقت تمام اہل مکہ مسلمان ہو گئے، جبکہ ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ اگر آپ سجدہ والی آیت تلاوت فرما کر سجدہ کرتے تو سب لوگ سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کہ کثرت ازدحام کی وجہ بعض لوگ سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن پھر سرداران قریش طائف سے آگئے ولید بن مغیرہ ابو جہل وغیرہ تو انہوں نے ان لوگوں کو کہا تم اپنے آبائی دین کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ پھر یہ لوگ کافر ہو گئے۔ ابن عساکر

۱۷۴۴ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص حبشی باندی لئے حاضر ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ! میری ماں مر گئی ہے اور اس کے ذمہ ایک مؤمن جان آزاد کرنا واجب ہے تو کیا یہ اس کی طرف سے کفایت کرے گی؟ آپ ﷺ نے اس باندی کے مؤمنہ ہونے کی تصدیق کرنے کے لئے اس سے باندی پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ باندی نے سر کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا میں کون ہوں؟ باندی نے عرض کیا: اللہ کے رسول۔ تو آپ ﷺ نے اس شخص سے فرمایا: اسی کو آزاد کر دو، کیونکہ یہ بھی مؤمنہ ہے۔

الضحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ

۱۷۴۵ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کے پاس باندی تھی جو اس کی بکریاں چراتی تھی۔ ریوڑ میں مالک کی ایک ایسی بکری بھی تھی جو اسے بہت مرغوب و پسندیدہ تھی۔ جس کے متعلق مالک کا ارادہ تھا کہ وہ بکری آپ ﷺ کو ہدیہ کر دے گا۔ لیکن سوء اتفاق سے بھیڑیے نے آ کر اسی بکری پر حملہ کیا اور اس کے تھن کھینچ لئے۔ مالک کو غصہ آیا تو اس نے جو وہی باندی کو منہ پر طمانچہ رسید کیا۔ لیکن پھر نام ہو کر آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اس کے ذمہ پہلے سے ایک مؤمن جان آزاد کرنا واجب تھا۔ تو طمانچہ مارتے وقت اسے خیال آیا کہ اب اسی کو آزاد کر دیا جائے؟ آپ ﷺ نے اس باندی کو بلوایا اور اس سے سوال کیا: کیا تو لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتی ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس بات کی بھی کہ مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس بات کی بھی کہ جنت و جہنم برحق ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ تو اس کے بعد آپ ﷺ نے مالک کو فرمایا: اس کو آزاد کر سکتے ہو اور روکنے کا بھی اختیار ہے۔ المصنف لعبد الرزاق

۱۷۴۶ یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی باندی کو تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا۔ اور آپ سے اس کی آزادی کے متعلق مشورہ طلب کیا۔ آپ ﷺ نے اس باندی کے مؤمنہ ہونے کی تصدیق کرنے کے لئے اس باندی سے پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ باندی نے سر کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا میں کون ہوں؟ باندی نے عرض کیا: اللہ کے رسول۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پھر آپ نے بعث بعد الموت اور جنت و جہنم کا تذکرہ بھی فرمایا پھر اس شخص سے فرمایا: اسی کو آزاد کر دو، کیونکہ یہ بھی مؤمنہ ہے۔ المصنف لعبد الرزاق

الکتاب الثانی

از حرف ہمزہ۔ ذکر واذکار از قسم الاقوال

یہ کتاب آٹھ ابواب پر مشتمل ہے۔

باب اول..... ذکر اور اس کی فضیلت کے بیان میں

۱۷۴۷ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اعمال نامہ لکھنے کے سوا زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، وہ اہل ذکر کو تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ ایسی قوم

کو جو ذکر اللہ میں مشغول ہو، پالیتے ہیں تو آپس میں پکارتے ہیں: آؤ تمہارا مقصود مل گیا۔ پھر وہ ان کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر صف بندی کرتے ہوئے آسمان تک جاتے ہیں۔ پھر فرشتے حتم مجلس پر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے احوال کو بخوبی جانتا ہے، کہ بتاؤ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: تیری تسبیح و تہجد اور تکبیر و تہمید کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں: نہیں اللہ کی قسم! دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں: تیری عبادت میں اور زیادہ منہمک ہو جاتے اور خوب تیری بڑائی بیان کرتے اور تیری تسبیح کثرت سے کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں: وہ آپ سے جنت کے طلب گار تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں: نہیں اللہ کی قسم! دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں: اور زیادہ اس کی حرص کرتے، اور شدت سے اس کی طلب میں لگ جاتے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں: جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں: نہیں اللہ کی قسم! دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: اگر دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ عرض کرتے ہیں: اور زیادہ اس سے دور بھاگتے، اور مزید اس کا خوف ان میں پیدا ہو جاتا۔ ارشاد ہوتا ہے: گواہ رہنا کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے: کہ ایک شخص ان میں شامل نہیں تھا لیکن اپنی کسی حاجت سے ان کے پاس آیا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے: یہ ایسی قوم ہے، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

مسند احمد، بخاری و مسلم، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۷۴۸۔ سب سے افضل ذکر "لا الہ الا اللہ" ہے۔ اور سب سے افضل دعاء "الحمد للہ" ہے۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، النسائی، ابن ماجہ، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم، بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۱۷۴۹۔ ذکر اللہ کی نعمت ہے۔ اس کی توفیق میسر ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ الفردوس للدمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت شبیب بن شریط

۱۷۵۰۔ وہ ذکر جس کو نگہبان فرشتے بھی نہ سن سکیں اس ذکر پر جس کو وہ فرشتے سن سکیں ستر درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

شعب الإیمان، بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۱۷۵۱۔ اللہ کا ذکر دلوں کی شفاء ہے۔ الفردوس للدمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۷۵۲۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان ذکر اللہ میں تر ہو۔

الصحيح لابن حبان، ابن السنی فی عمل الیوم واللیلۃ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الصحيح لابن حبان بروایت معاذ

۱۷۵۳۔ اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں۔

مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم، شعب الإیمان بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۷۵۴۔ اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں کہنے لگیں کہ یہ ریاء کا لوگ ہیں۔

السنن لسعید، مسند احمد فی الزهد، شعب الإیمان بروایت ابی الجوزاء مرسلًا

۱۷۵۵۔ اللہ کا ذکر کرو کہ یہ تمہارے مطلوب کام میں مددگار ہے۔ ابن عساکر بروایت عطاء بن ابی مسلم مرسلًا

۱۷۵۶۔ اللہ کا ذکر یوں کرو کہ منافق لوگ تمہیں کہنے لگیں کہ یہ ریاء کا لوگ ہیں۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۱۷۵۷۔ مصلح انداز میں اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے دریافت کیا گیا کہ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا: مخفی و پست آواز میں ذکر۔

ابن المبارک فی الزهد بروایت ضمیر بن حبیب مرسلًا

۱۷۵۸۔ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وسعدت مند وہ شخص ہوگا، جس نے دل کے اخلاص اور گہرائی کے ساتھ

"لا الہ الا اللہ" کہا ہوگا۔ الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۷۵۹ قیمت کے دن سب سے افضل المراتب بندے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں گے۔

مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۷۶۰۔ سب سے افضل علم ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔ اور سب سے افضل دعا استغفار ہے۔

الفردوس للذہبی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۷۶۱۔ ”لا الہ الا اللہ“ کی شہادت کثرت سے ادا کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی موت کا پردہ حائل ہو جائے۔ اور اپنے

مردوں کو اس کی تلقین کیا کرو۔ المسند لابی یعلیٰ، الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۷۶۲۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم پر ہر اس شخص کو حرام فرمادیا ہے، جس نے اللہ کی رضاء کے لئے ”لا الہ الا اللہ“ کہا ہو۔

بخاری ومسلم بروایت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ

۱۷۶۳۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، جب تک کہ وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر سے

متحرک رہیں۔ مسند احمد، ابن ماجہ، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۷۶۴۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا جو بھی بندہ میرا ذکر کرتا ہے، تو وہ اپنے دوست اللہ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عمارہ بن زعکرة

۱۷۶۵۔ ہر شی کی انتہا مقرر ہے۔ اور بنی آدم کی انتہا موت ہے۔ پس تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے۔ کیونکہ یہ تمہاری مشکل آسان کرے گا اور تم

کو آخرت کی رغبت دلانے گا۔ المغوی بروایت خلاص بن عمرو

۱۷۶۶۔ بندہ اپنے مولیٰ کے قریب ترین رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ پس اگر تجھ سے ہو سکے تو اس گھڑی میں اللہ کو ضرور یاد کرو۔

النسائی، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، الضعفاء للعقيلي رحمۃ اللہ علیہ، عمرو بن عسرة

۱۷۶۷۔ کیا میں تم کو سب سے بہتر عمل، جو تمہارے مالک کے نزدیک یا کیزہ عمل ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ ترقی کا سبب

ہے، اور اللہ کی راہ میں سونے چاندی کے خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور یہ کہ دشمنوں سے تمہاری مدد بھیڑ ہو اور تم ان کی گردن اڑاؤ اور وہ تمہاری

گردن اڑائیں، اس سے بھی بڑھ کر عمل وہ اللہ کا ذکر ہے۔

المستدرک للحاکم، بخاری ومسلم، ابن ماجہ، النسائی بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۱۷۶۸۔ ”لا الہ الا اللہ“ کی کثرت کے ساتھ اپنے ایمانوں کو تازگی بخشنے رہا کرو۔

مسند احمد، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۷۶۹۔ مجھے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ میرا قلعہ ہے۔ جو اس میں داخل ہو گیا، وہ میرے عذاب

سے مامون و محفوظ ہو گیا۔ ابن عساکر بروایت علی رضی اللہ عنہ

۱۷۷۰۔ ملک الموت ایک قریب المرگ شخص کے پاس حاضر ہوئے۔ اس کے اعضاء کو ٹٹول کر دیکھا لیکن کسی عضو سے کوئی نیک عمل انجام شدہ

نہیں پایا۔ پھر دل کو دیکھا، اس میں بھی کچھ بھلائی نہ ملی۔ اس کے جیروں کو دیکھا تو وہاں دیکھا کہ اس کی زبان کا کنارہ تالو کے ساتھ

چپکا ہوا تھا۔ اور وہ ”لا الہ الا اللہ“ کہہ رہا تھا۔ اللہ نے اسی کلمہ اخلاص پر اس کی بخشش فرمادی۔

ابن ابی الدنيا فی کتاب المحتضرين، شعب الإيمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۷۷۱۔ بہترین ذکر خفی ہے۔ اور بہترین رزق وہ ہے، جو بقدر کفایت ہو۔ مسند احمد، شعب الإيمان بروایت سعد

۱۷۷۲۔ بہترین عمل یہ ہے کہ دنیا سے تیرا اس حال میں کوچ ہو کہ تیری زبان ذکر الہی میں رطب اللسان ہو۔ الحلیہ بروایت عبد اللہ بن بشر

۱۷۷۳ مفردوں یعنی لوگوں سے پچھڑ کر ذکر اللہ ہی کے ہو کر رہ جانے والے سبقت لے گئے۔ یہ ذکر ان سے گناہوں کے بوجھ کو ہٹا دے گا۔ سو وہ قیامت کے روز ہلکے پھلکے حاضر ہوں گے۔

بخاری و مسلم، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ۱۷۷۴ چلو اس حمد ان پہاڑ پر اذکر اللہ کے شیدا کی جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں مرد ہوں یا عورتیں سب پر سبقت لے گئے۔

مسند احمد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۱۷۷۵ شیطان ابن آدم کے دل پر اپنا منہ لگائے و سوسہ اندازی کرتا ہے۔ پس جب بندہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے تو فوراً علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب غافل ہوتا ہے تو دوبارہ اپنی سوئڈ ڈال دیتا ہے۔ الحکیم بروایت انس رضی اللہ عنہ ۱۷۷۶ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ذکر اللہ سے محبت ہے۔ اور اللہ سے بغض کی علامت اللہ عزوجل کے ذکر سے بغض ہے۔

شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ ۱۷۷۷ ہر چیز کے لئے ایک صیقل ہوتا ہے۔ جو اس کے رنگ یا کسی بھی طرح کے میل کجیل کو زائل کرتا ہے اور دل کا صیقل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ خواہ تو تلوار اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے۔

شعب الإیمان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ ۱۷۷۸ جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کہا، یہ اپنے قائل کو اس کی زندگی میں موت سے پہلے کسی بھی دن کسی ناگہانی آفت سے نفع دے گا۔

البنار شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۱۷۷۹ جس نے اخلاص کے ساتھ ”لا الہ الا اللہ“ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ البنار بروایت ابی سعید ۱۷۸۰ جس شخص کا آخری کلام ”لا الہ الا اللہ“ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔

مسند احمد، ابو داؤد، المستدرک للحاکم بروایت معاذ رضی اللہ عنہ ۱۷۸۱ ”لا الہ الا اللہ“ سے کوئی عمل بازی نہیں لے جا سکتا اور نہ یہ کسی گناہ کو باقی چھوڑتا ہے۔ ابن ماجہ بروایت ام ہانی رضی اللہ عنہ ۱۷۸۲ شیطان ابن آدم کے دل پر اپنی سوئڈ لگائے و سوسہ اندازی کرتا ہے۔ پس جب بندہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا ہے تو فوراً علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب غافل ہوتا ہے تو دوبارہ اپنی سوئڈ ڈال دیتا ہے۔

ابن ابی الدنيا، شعب الإیمان، المستدرک لابی یعلیٰ بروایت انس رضی اللہ عنہ

اولیاء اللہ کی پہچان

۱۷۸۳ اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ الحکیم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما ۱۷۸۴ تم میں افضل ترین لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو محض دیکھنے کی وجہ سے اللہ یاد آ جائے۔ الحکیم بروایت انس رضی اللہ عنہ ۱۷۸۵ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور میری امت کے شریر ترین لوگ وہ ہیں، جو چغٹل خوری کرتے ہیں۔ دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ پاکیزہ لوگوں پر بہتان تراشی کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔

مسند احمد بروایت عبدالرحمن بن عاصم او ابن عثم الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عبادۃ بن الصامت ۱۷۸۶ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور تم میں شریر ترین لوگ وہ ہیں، جو چغٹل خوری کرتے ہیں۔ دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ پاکیزہ لوگوں پر بہتان تراشی کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ شعب الإیمان ابن عمر رضی اللہ عنہما ۱۷۸۷ تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ محض اس کا دیکھنا ہی تم کو خدا کی یاد تازہ کر دے۔ اور اس کا بولنا تمہارے علم میں اضافہ کا باعث

ہو۔ اور اس کا عمل تم کو آخرت کی رغبت دلائے۔ الحکیم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۷۸۸ سنو! کیا میں تم کو تم میں بہترین لوگوں کی خبر نہ دوں؟ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔

مسند احمد، ابن ماجہ بروایت اسماء بنت یزید

۱۷۸۹ کچھ لوگ یاد الہی کی چابیاں ہیں کہ ان کو دیکھو تو از خود اللہ یاد آ جاتا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۷۹۰ "لا الہ الا اللہ" جنت کی قیمت ہے۔ الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مردویہ بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

عند بن حمید فی تفسیرہ عن الحسن مرسلًا

۱۷۹۱ شروع وقت میں تم پر اللہ کا ذکر اور درود لازم ہے، اس سے اللہ عزوجل تمہارے عمل کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عریاض

۱۷۹۲ تم پر "لا الہ الا اللہ" اور استغفار لازم ہے۔ دونوں کی خوب کثرت کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے: میں نے لوگوں کو گناہوں میں تباہ و برباد

کر دیا۔ لیکن انہوں نے بھی مجھے "لا الہ الا اللہ" اور استغفار کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا۔ پس جب میں نے یہ صورت دیکھی تو ان کو ایسی خواہشات

میں ہلاک کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یاب ہی سمجھتے رہیں گے۔ المسند لأبی یعلیٰ بروایت ابی بکر

۱۷۹۳ محاسن ذکر کا مال غنیمت جنت ہے۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۷۹۴ تین چیزوں میں غفلت ہوتی ہے۔ ذکر اللہ سے، صبح کی نماز کے بعد طلوع شمس تک، اور انسان کی اپنے دین کے بارے میں غفلت۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۷۹۵ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ابن آدم! فجر عصر کے بعد چند گھڑی مجھے یاد کر لیا کر، میں تیری ان کے درمیانی اوقات میں کفایت کروں گا۔

الحلیۃ المصنف لعبد الرزاق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۷۹۶ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد نہیں کرتا مگر میں اس کو اپنے ملائکہ کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور کوئی بندہ کسی مجلس

میں مجھے یاد نہیں کرتا مگر میں رفیق اعلیٰ میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

۱۷۹۷ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے بندے جب تو مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے خلوت میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر تو مجھے مجلس میں

یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں اور زیادہ یاد کرتا ہوں۔ شعب الإیمان بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۱۷۹۸ دو کلمات ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کے مرتبے کی تو عرش تلے انتہاء ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا آسمان وزمین کے درمیانی خلا کو پُر

کر دیتا ہے۔ "لا الہ الا اللہ" اور "اللہ اکبر"۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

فجر اور عصر کے بعد ذکر کرنا

۱۷۹۹ میں کسی قوم کے ساتھ نماز صبح کے بعد طلوع شمس تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں یہ مجھے دنیا اور اس کے ساز و سامان سے زیادہ محبوب

ہے۔ اور کسی قوم کے ساتھ عصر کے بعد سے غروب شمس تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہوں یہ مجھے دنیا اور اس کے ساز و سامان سے زیادہ محبوب ہے۔

شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۸۰۰ میں کسی ایسی قوم کے ساتھ صبح کی نماز سے طلوع شمس تک بیٹھ جاؤں، جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو یہ مجھے اولاد اسماعیل کے چار غلام

آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اسی طرح میں کسی ایسی قوم کے ساتھ عصر کے بعد سے غروب شمس تک بیٹھ جاؤں، جو اللہ کے ذکر میں

مشغول ہو یہ بھی مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ الصحيح لابن حبان، ابو داؤد بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۸۰۱ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے۔ اور آسمانوں کی چابی "لا الہ الا اللہ" کہنا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معتقل بن یسار

۱۸۰۲ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں بیٹھا درہم تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا بہتر ہے۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابی موسیٰ رضی الله عنه

۱۸۰۳ ذکر صدقہ سے بہتر ہے۔ ابو الشیخ بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه

۱۸۰۴ کوئی صدقہ ذکر اللہ سے افضل نہیں ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابن عباس رضی الله عنہما

۱۸۰۵ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو سورتہ ”لا الہ الا اللہ“ کہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند ملتا ہوگا۔ اور اس دن اس عمل سے بڑھ کر کسی کا عمل اوپر نہیں جاتا، الا یہ کہ کوئی اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ

تعداد میں یہ کلمہ کہے۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابی الدرداء رضی الله عنه

۱۸۰۶ اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی چیز پر حسرت و افسوس نہیں ہوگا، جس میں وہ ذکر اللہ سے غافل رہے ہوں گے۔

الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، شعب الإیمان بروایت معاذ رضی الله عنه

۱۸۰۷ کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے نہیں بیٹھتی، مگر آسمان سے ایک منادی نداء دیتا ہے کہ اٹھو! تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

مستند احمد، الضیاء بروایت انس رضی الله عنه

۱۸۰۸ کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے نہیں بیٹھتی، پھر وہ فارغ ہوتی ہے، مگر یہاں تک ان کو کہا جاتا ہے کہ اٹھو! اللہ نے تمہارے گناہوں کی مغفرت

کر دی۔ اور تمہاری ہر ایسی کوئیوں سے بدل دیا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، شعب الإیمان بروایت سہیل بن الحنظلیہ

۱۹۸۰۹ کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہو کر نہیں بیٹھتی، پھر جب وہ جدا ہوتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے اٹھو! تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

الحسن بن سفیان بروایت سہیل بن الحنظلیہ

۱۸۱۰ جو قوم کسی مجلس میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر، نبی ﷺ پر درود بھیجے بغیر اٹھ جاتی ہے، وہ مجلس ان کے لئے قیامت کے دن حسرت و افسوس

کا باعث بنے گی۔ مستند احمد، الصحيح لا من حبان بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه

۱۸۱۱ کوئی قوم کسی مجلس میں نہیں بیٹھتی، پھر وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے اور نبی ﷺ پر درود بھیجتی ہے، مگر ان پر یہ وبال و نقصان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہے

تو ان کو عذاب کرے یا مغفرت فرمادے۔ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه، ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه و ابی سعید

۱۸۱۲ جو قوم کسی مجلس میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کئے بغیر اور نبی ﷺ پر درود بھیجے بغیر اٹھ جاتی ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے بدبودار مردار پر سے اٹھے ہوں۔

الطیالسی، شعب الإیمان بروایت حابہ رضی الله عنه

۱۸۱۳ جو قوم کسی مجلس میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر کئے بغیر اور نبی ﷺ پر درود بھیجے بغیر اٹھ جاتی ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے بدبودار مردار سے اٹھے ہوئے گدھے

پر سے اٹھے ہوں۔ مستند احمد بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه

۱۸۱۴ ابن آدم نے ذکر اللہ کے سوا ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا جو اس کو اللہ کے عذاب سے زیادہ نجات دینے والا ہو۔

مستند احمد بروایت معاذ رضی الله عنه

۱۸۱۵ کسی بندے نے اخلاص کے ساتھ ”لا الہ الا اللہ“ کبھی نہیں کہا مگر اس کلمہ کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے

ہیں۔ حتیٰ کہ وہ عرش پر پہنچ جاتا ہے جب تک کہ بندہ کبار سے اجتناب کرتا رہے۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه

۱۸۱۶ ”لا الہ الا اللہ“ سے بڑھ کر کوئی ذکر افضل نہیں ہے۔ اور استغفار سے بڑھ کر کوئی دعا افضل نہیں ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابن عمر رضی الله عنہما

قطعہ زمین کا مقرر ہونا

۱۸۱۷۔ جس کسی قطعہ زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ قطعہ زمین اللہ کے ذکر کی وجہ سے ساتوں زمینوں سے لے کر اپنی انتہاء تک خوش ہو جاتا ہے۔ اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کناں ہوتا ہے۔ اور جب مؤمن بندہ کسی زمین کو نماز کے لئے منتخب کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ زمین اس کے لئے سنور جاتی ہے۔ ابو الشیخ فی العظمة بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۸۱۸۔ وہ گھر جس میں اللہ کا نام لیا جائے، آسمان والوں کے لئے اس طرح چمکتا ہے، جس طرح زمین والوں کے لئے ستارے چمکتے ہیں۔

ابو نعیم فی المعرفة بروایت سابط

۱۸۱۹۔ ابن آدم پر جو گھڑی بھی بغیر ذکر اللہ کے بیت جاتی ہے، وہ اس کے لئے قیامت کے روز حسرت و افسوس کا سبب بنے گی۔

الحلیہ، شعب الإیمان بروایت عائشة رضی اللہ عنہا

۱۸۲۰۔ وہ گھر جس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور وہ گھر جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ زندہ اور مردہ کے مثل ہے۔

بخاری و مسلم بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۱۸۲۱۔ مجالس ذکر پر سیکنہ نازل ہوتی ہے۔ اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور اللہ عزوجل عرش پر ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ الحلیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۸۲۲۔ جو قوم اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور سیکنہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنے پاس والوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ابن ماجہ، صحیح الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۸۲۳۔ کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے نہیں چاہتی، مگر ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور سیکنہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنے پاس والوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ الصصحیح لابن حبان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۸۲۴۔ کوئی قوم اللہ کا ذکر کرنے نہیں چاہتی، مگر ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور سیکنہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ اپنے پاس والوں سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ مسند احمد، الصصحیح لمسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۸۲۵۔ جنت کی چابیاں "لا الہ الا اللہ" کی شہادت ہے۔ مسند احمد بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۱۸۲۶۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ خوا اس کی نماز روزے اور تلاوت قرآن قلیل ہی ہو۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت واقد

۱۸۲۷۔ جس نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، وہ نفاق سے بری ہو گیا۔ الصغیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۸۲۸۔ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ الدار قطنی بروایت عائشة رضی اللہ عنہا

۱۸۲۹۔ جو کسی چیز سے محبت رکھتا ہے، طبعاً کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عائشة رضی اللہ عنہا

۱۸۳۰۔ جس شخص نے اللہ کا ذکر کیا، پھر خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ حتیٰ کہ زمین پر بھی کچھ قطرات گر گئے، تو اللہ قیامت کے روز اس کو نذاب نہ فرمائیں گے۔ المستدرک للحاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۸۳۱۔ غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ غازیوں کے ہمراہ جہاد میں صبر کرنے والا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔ نصیحة الداعیة ص ۲۰

۱۸۳۲۔ غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال یوں ہے جیسے غازیوں کے ہمراہ قتال کرنے والے کی۔ اور غافلین کے درمیان

اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے تاریک گھر میں چراغ۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس مر سبز و شاداب درخت کی سی ہے جو پتے جھڑ درختوں کے جھنڈ میں ہو۔ جن کے پتے سردی کی وجہ سے جھڑ گئے ہوں۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی شناخت کروادیتے ہیں۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ ہر انسان و جانور کی تعداد برابر مغفرت فرماتے ہیں۔ الحلیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

حدیث ضعیف ہے۔ دیکھئے: ذخیرۃ الحفاظ ص ۲۹۰۹۔ الکشف الإلهی ص ۳۹۷۔

۱۸۳۳ خلوت میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کفار کی صفوں کے درمیان دشمنوں کو لالکارنے والا۔

الشیرازی فی الألقاب بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

حدیث میں ضعیف ہے۔

۱۸۳۴ میں طہارت کے بغیر اللہ کے ذکر کو ناپسند سمجھتا ہوں۔

ابوداؤد، النسائی، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم بروایت مہاجر بن قنفذ

۱۸۳۵ لوگوں میں عظیم ترین درجات کے مالک، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ شعب الإیمان بروایت ابی سعید

۱۸۳۶ ہر حال میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کو کوئی شئی محبوب نہیں اور بندے کے لئے بھی دنیا و آخرت میں

اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز عذاب سے زیادہ نجات دلانے والی نہیں۔ شعب الإیمان بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۱۸۳۷ اللہ کا ذکر شفاء ہے اور لوگوں کا ذکر بیماری ہے۔ شعب الإیمان بروایت مکحول مرسلہ

حدیث ضعیف ہے۔

۱۸۳۸ صحیح یا شام میں اللہ کا ذکر، جہاد میں تلواریں توڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ الفردوس للذہبی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔ دیکھئے الترمذی ص ۳۲۷۔ ذخیرۃ الحفاظ ص ۴۴۳۷۔ ذیل الروایۃ ص ۱۴۹

۱۸۳۹ وہ لوگ جو اپنی زبان اللہ کے ذکر میں تروتازہ رکھتے ہیں وہ جنت میں ہنستے مسکراتے داخل ہو جائیں گے۔

ابو الشیخ فی الثواب بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

کثرت کلام قساوت قلب کا سبب ہے

۱۸۴۰ ذکر اللہ کے سوا کثرت کلام سے اجتناب کرو۔ کیونکہ ذکر اللہ کے سوا کثرت کلام دل کو قساوت کا شکار کر دیتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ سے

سب سے زیادہ دور قسی القلب سخت دل شخص ہے۔ الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۸۴۱ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تروتازہ رہے۔

مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم بروایت عند اللہ بن بسر

۱۸۴۲ اے لوگو! اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ راجحہ صور اول گویا کہ آچکا۔ اس کے پیچھے پیچھے رادفہ صورت ثانی بھی آ گیا ہے۔ راجحہ آچکا۔ اس کے

پیچھے پیچھے رادفہ بھی آ گیا ہے۔ کیونکہ موت آئی تو ان سمیت آگئی۔

مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم بروایت ابی

راجحہ صور اول پیچھے نکلے جانے کا نام ہے، جس کا معنی زلزلہ و بھونچال ہے۔ کیونکہ صور اول کی وجہ سے اس سے بھی ہوانا کی کیفیت

پیدا ہوگی، اور تمام مخلوق فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ پھر چالیس سال بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس کو رادفہ کہا گیا جس کے معنی پیچھے آنے

والا۔ کیونکہ اول کے بعد یہ آئے گا اور اس سے تمام مردے جی اٹھیں گے۔

۱۸۴۳ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو، جس نے مجھے کسی دن بھی یاد کیا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه، المستدرک للحاکم بروایت انس رضی الله عنه

۱۸۴۴ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں، تو اس کا نام و مرتبہ عظیم و برتر ہو جاتا ہے۔ المستدرک للحاکم بروایت معاویہ رضی الله عنه

الاکمال

۱۸۴۵ قیامت کے روز اللہ کے نزدیک سب سے بلند مرتبہ وہ لوگ ہوں گے، جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ پوچھا گیا! کہ فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا: وہ جو کفار و مشرکین سے اس قدر شمشیر زنی کریں کہ ان کی شمشیر ٹوٹ جائے، اور خون آلود ہو جائے۔

تو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا اس سے بھی افضل درجہ میں ہوگا۔ مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمة الله عليه

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ ابن الشاہین فی الذکر بروایت ابی سعید رضی الله عنه

۱۸۴۶ فرمایا ان میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا!

مسند احمد الكبير للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت معاذ بن انس رضی الله عنه

حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سا مجاہد سب سے زیادہ اجر کا مستحق ہے؟ اور کون سا روزہ دار سب سے زیادہ اجر کا مستحق ہے؟ اسی طرح

نماز، زکوٰۃ، حج، اور صدقہ سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے سب کے جواب میں مذکورہ بالا ارشاد فرمایا۔

۱۸۴۷ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کیونکہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کو کوئی شے محبوب نہیں اور بندے کے لئے بھی دنیا و آخرت میں اللہ کے

ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز خوف و ڈر سے زیادہ نجات دلانے والی نہیں۔ لوگوں کو جس طرح ذکر کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ اس پر جمع ہو جائیں تو راہِ خدا میں

کوئی جہاد کرنے والا نہ رہے۔

شعب الإيمان بروایت معاذ رضی الله عنه حدیث ضعیف ہے۔

۱۸۴۸ ہر چیز کے لئے ایک صیقل ہوتا ہے۔ جو اس کے زنگ یا کسی بھی طرح کے میل پیکھل کو زائل کرتا ہے اور دلوں کا صیقل اللہ تعالیٰ

کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ خواہ تو تلوار اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے۔

شعب الإيمان بروایت ابن عمر رضی الله عنہما

۱۸۴۹ کیا میں تمہیں سب سے بہتر عمل، جو پاکیزہ، اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ ترقی کا سبب ہے، اور اللہ کی راہ میں سونے چاندی

کے خرچ کرنے سے بھی افضل ہے، اور یہ کہ تمہاری صبح کو دشمنوں سے بڑھ بھیر ہو اور تم ان کی گردن اڑاؤ اور وہ تمہاری گردن اڑائیں، اس سے بھی

بڑھ کر عمل وہ اللہ کا ذکر ہے۔ شعب الإيمان بروایت ابن عمر رضی الله عنہما

۱۸۵۰ صبح و شام اللہ کا ذکر، جہاد میں تلواریں توڑنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور خوب مال لٹانے سے بھی۔

ابن شاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت ابن عمر رضی الله عنہما ابن ابی شیبہ

موقوفاً ضعیف ہے۔ دیکھئے الترمذی ج ۲ ص ۳۲۷۔ ذخیرۃ الحفاظ ۴۳۳۔ ذیل المآلی ۱۳۹

۱۸۵۱ کسی آدمی نے ذکر اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل عذابِ خداوندی سے زیادہ نجات دینے والا نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض

ایا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا: نہ جہاد فی سبیل اللہ۔ لایہ کہ تم اپنی تلوار کے ساتھ اس قدر لڑو کہ وہ ٹوٹ جائے۔ پھر دوسری کے ساتھ

لڑو، اور وہ بھی ٹوٹ جائے۔ پھر تیسری کے ساتھ لڑو، اور وہ بھی ٹوٹ جائے۔

ابن ابی شیبہ، مسند احمد، الكبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت معاذ رضی الله عنه

۱۸۵۲ تم میں سے جو شخص اس بات سے عاجز ہو کہ رات کی مشقت برداشت کرے، اور مال خرچ کرنے سے بھی بخل رکاوٹ ہو، اور دشمن

سے جہاد کرنے سے بزدلی مانع ہو، تو اس کو چاہئے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔

۱۸۵۳ تم میں سے جو شخص رات کی مشقت برداشت کرنے سے ڈرتا ہو، اور دشمن سے جہاد کرنے سے بھی خوف مانع ہو، اور مال خرچ کرنے سے بھی بخل رکاوٹ ہو، تو اس کو چاہئے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ ابن الشاہین فی الترغیب بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 ۱۸۵۴ تم میں سے جو شخص رات کی مشقت برداشت کرنے سے ڈرتا ہو، اور مال خرچ کرنے سے بھی بخل مانع ہو، اور دشمن سے جہاد کرنے سے بھی بزدلی آڑے آئے، تو اس کو چاہئے کہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا رہے۔ کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک اس کی راہ میں سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ ابن الشاہین، ابن عساکر بروایت ابی امامہ
 ۱۸۵۵ غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ دوران جہاد راہ فرار اختیار کرنے والوں کے درمیان، جہاد میں صبر کرنے والا۔
 الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔ نصیحة الداعیۃ ص ۲۰

ذاکرین کی مثال

۱۸۵۶ غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ دوران جہاد راہ فرار اختیار کرنے والوں کے درمیان، جہاد میں صبر کرنے والا۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے تاریک گھر میں چراغ۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس کا ٹھکانہ شناخت کروا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس سے عذاب کو دفع کر دیا جاتا ہے۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کو ہر انسان و حیوان کے برابر جرماتا ہے۔ غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو عذاب نہ فرمائیں گے۔ اور بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے لئے ہر مال کے بدلے، قیامت کے دن ملاقات کے وقت ایک ایک نور ہوگا۔

شعب الإیمان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 ۱۸۵۷ غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال یوں ہے جیسے غازیوں کے ہمراہ قتال کرنے والے کی۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے تاریک گھر میں چراغ۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال اس سرسبز و شاداب درخت کی سی ہے جو پتے چھڑ و خشکوں کے جھنڈ میں ہو۔ جن کے پتے سردی کی وجہ سے چھڑ گئے ہوں۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ ہر انسان و جانور کی تعداد برابر مغفرت فرماتے ہیں۔ اور غافلین کے درمیان اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی شناخت کروا دیتے ہیں۔

الحلیہ شعب الإیمان، ابن صہری فی امالیہ، ابن النجار، ابن الشاہین فی الترغیب بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
 فرمایا کہ حدیث صحیح الا سناد اور عمدہ متن لیکن غریب و ضعیف الفاظ پر مشتمل ہے۔

۱۸۵۸ ذکر راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے سوگناہ زیادہ اجر رکھتا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

۱۸۵۹ ذکر صدقہ سے بہتر ہے۔ ذکر روزوں سے بہتر ہے۔ ابو الشیخ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۸۶۰ اگر کوئی شخص اپنے حجرہ میں بیٹھ کر درجہ خرچ کر رہا ہو اور دوسرے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا بہتر ہے۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

اس میں جابر بن الوزاع راوی ہے، جس سے امام مسلم نے روایت کی ہے۔ لیکن امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ منکر الحدیث ہے۔

۱۸۶۱ ذکر راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے سات سوگناہ زیادہ اجر رکھتا ہے۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

ابن ابیعتہ کے سوا اس روایت میں کوئی متکلم فرماوی نہیں ہے۔

۱۸۶۲ جو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، تسبیح و تحمید، تکبیر و تہلیل یہ سب عرش خداوندی کے گرد موجو گردش رہتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی مانند ان کی بھینٹناہٹ ہوتی ہے، اس طرح وہ اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ تو کیا اب بھی کوئی یہ پسند نہ کرے گا کہ رحمن کے ہاں ہمیشہ اس کا کوئی ذکر کرانے

والا رہے۔ الحکیم بروایت النعمان بن بشیر

۱۸۶۳ جو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، تسبیح و تحمید، تکبیر و تہلیل یہ سب عرش خداوندی کے گرد موجو گردش رہتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کی مانند ان کی بھینٹناہٹ ہوتی ہے، اس طرح وہ اپنے پڑھنے والے کا ذکر کرتی رہتی ہیں۔ تو کیا اب بھی کوئی یہ پسند نہ کرے گا کہ رحمن کے ہاں ہمیشہ اس کا کوئی

ذکر کرانے والا رہے۔ مسند احمد، ابن ابی شیبہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم بروایت النعمان بن بشیر

۱۸۶۴ جس طرح دونوں ہونٹ پر آپس میں نہیں ملتے، اسی طرح کوئی آسمان اس کلمہ کو اوپر جانے کے لئے بند نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہ عرش

پر جا پہنچتا ہے۔ اور شہد کی مکھی کی مانند اس کی آواز ہوتی ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کے لئے شفاعت کرتا ہے۔ الدیلمی بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۱۸۶۵ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ

السلام اللہ کے آگے سجدہ میں گر پڑے۔ اور عرض کیا: پروردگار! آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے

موسیٰ! کیا تجھے علم نہیں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور بندہ جہاں کہیں مجھے تلاش کرتا ہے، پالیتا ہے۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت جابر رضی اللہ عنہ

اس میں ایک راوی محمد بن جعفر المدائنی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: میں اس سے بھی روایت نہیں کرتا۔ اور محمد بن جعفر المدائنی

سلام بن مسلم المدائنی سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان کی روایت زید اعرجی سے روایت کرتے ہیں جو قوی نہیں ہے۔

۱۸۶۶ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب بندہ مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو خلوت میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے

تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۸۶۷ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: بندہ مجھے اپنے دل میں یاد نہیں کرتا مگر میں اس کو ملائکہ کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور کوئی بندہ کسی مجلس میں مجھے

یاد نہیں کرتا مگر میں رفیق اعلیٰ میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

۱۸۶۸ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے

تو میں اس کو اس سے بہتر اور بڑی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ ابن ابی شیبہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۸۶۹ تمہارے پروردگار عزوجل کا فرمان ہے: بندہ جب تک میرا ذکر کرتا رہتا ہے، اور اس کے ہونٹ میرے لئے متحرک رہتے ہیں، میں اس

کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ابن عساکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

ذکر کرنے والا اللہ کا محبوب ہے

۱۸۷۰ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں: اے پروردگار! میں جاننا چاہتا ہوں کہ کونسا بندہ تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تاکہ میں بھی اس سے

محبت رکھوں۔ فرمایا: جب تو کسی کو دیکھے کہ وہ کثرت کے ساتھ میرا ذکر کر رہا ہے، تو سمجھ لے کہ میں نے ہی اس کو اس میں مصروف کیا ہے۔ اور

میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ اور جب تو کسی بندہ کو دیکھے کہ وہ میرا ذکر نہیں کر رہا تو جان لے کہ میں نے ہی اس کو اس سے باز رکھا ہے۔ اور

میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ الدارقطنی فی الافراد، ابن عساکر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۸۷۱ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: اے پروردگار! کیا تو مجھ سے قریب ہے کہ میں تجھ سے سرگوشیاں اور مناجات

کروں؟ یا دور ہے کہ میں تجھے پکاروں؟ کیونکہ میں تیری آواز کو محسوس کر رہا ہوں، پر تجھے نہیں دیکھ پا رہا! سو تو کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا: میں

تیرے پیچھے بھی ہوں اور آگے بھی۔ تیرے دائیں بھی ہوں تو بائیں بھی۔ ابے موسیٰ! جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کا ہنسیں ہوتا ہوں۔ اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ الدیلمی بروایت ثوبان

۱۸۷۲۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں: جب بندہ زیادہ تر میرے ساتھ مشغول رہتا ہے تو میں اس کا مطلوب اور اس کی لذت اپنا ذکر بنا دیتا ہوں۔ پس جب اس کا مطلوب اور اس کی لذت میرا ذکر ہو جاتا ہے تو اسے مجھ سے عشق ہو جاتا ہے۔ اور مجھے اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ جب یہ منزل آ جاتی ہے تو میں اپنے اور اس کے درمیان سے پردے اٹھا دیتا ہوں۔ اور پھر اکثر وقت اس پر یہ کیفیت طاری کر دیتا ہوں اسی وجہ سے جب اور لوگ غفلت و بھول چوک کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کا کلام انبیاء کے کلام کے، مشابہ ہو جاتا ہے۔ یہی مردان حق ہیں۔ یہی ہیں کہ جب میں روئے زمین والوں پر عذاب مسلط کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر ان کا خیال آتا ہے اور میں اہل زمین سے عذاب کو ہٹا لیتا ہوں۔ الحلہ المسند لأبی یعلین الحسن مرسلًا

۱۸۷۳۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب بندہ میرے ذکر کی مشغولیت کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا تو میں اس کو مانگنے سے قبل ہی عطا کر دیتا ہوں۔

الحلیہ، الدیلمی بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ
۱۸۷۴۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب بندہ میرے ذکر کی مشغولیت کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ الصحیح للبخاری رحمة اللہ علیہ فی خلق افعال العباد، ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر، ابو نعیم فی المعرفة شعب

الإیمان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما المصنف لعبد الرزاق بروایت جابر رضی اللہ عنہ
۱۸۷۵۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب بندہ میرے ذکر کی مشغولیت کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا تو میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ ابن ابی شیبہ بروایت عمرو بن مروة مرسلًا

۱۸۷۶۔ اللہ عزوجل کے کچھ فرشتے سیر کرتے ہیں۔ اور ذکر کے حلقے تلاش کرتے ہیں۔ پس جب کسی ذکر کے حلقہ پر ان کا گزر ہوتا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں: آؤ بیٹھ جاؤ! پھر جب قوم دعائیں مشغول ہوتی ہے تو وہ ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جب قوم والے آپ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ آپ ﷺ پر درود بھیجتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو ان کے متعلق کہتے ہیں: ان کے لئے خوشی کا مقام ہے کہ یہ بخشے بخشائے واپس لوٹ رہے ہیں۔ ابن النجار بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

ذکر کی مجالس جنت کے باغات ہیں

۱۸۷۷۔ فرشتگان خدا کی کچھ جماعتیں فارغ رہتی ہیں۔ یہ زمین پر ذکر کی مجالس میں ٹھہرتی ہیں۔ سو تم جنت کے باغات میں چرا کرو۔ دریافت کیا گیا: جنت کے باغات کہاں ہیں؟ فرمایا: ذکر کی مجالس۔ پس تم بھی صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اور اپنے دلوں کو بھی اس کے ذکر سے منور کرو۔ جو اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ جانا چاہتا ہو، اس کو چاہئے کہ اپنے ہاں اللہ کا مرتبہ دیکھ لے! کیونکہ اللہ تعالیٰ بندہ کو اسی مرتبہ میں رکھتے ہیں جس میں بندہ اپنے دل میں اللہ کو مرتبہ دیتا ہے۔

عبد بن حمید، الحکیم المسند رک للحاکم، ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت جابر رضی اللہ عنہ
۱۸۷۸۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فاضل فرشتے ذکر کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں۔ جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر کی کسی مجلس میں پہنچتے ہیں تو اوپر تلے صف بندی کرتے ہوئے عرش خداوندی تک چلے جاتے ہیں۔ پھر فرشتے حتم مجلس پر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے احوال کو بخوبی جانتا ہے، کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: تیرے بندوں کے پاس سے جو تجھ سے جنت طلب کر رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اور تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے طلب گار تھے۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ جنت طلب کر رہے تھے، لیکن اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، لیکن اگر

جہنم دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ پس میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ عرض کرتے ہیں: پروردگار! آپ کا ایک گناہ گار بندہ ان میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی حاجت کے لئے آیا تھا۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں: یہ ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ابن الشاہین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر میں یہ حدیث احسن اور اصح السند ہے۔

۱۸۷۹ آپ ﷺ نے اپنے سامنے بیٹھی ایک مجلس کے متعلق فرمایا: یہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے تو سکینہ مثل قتبہ کے ان پر اتر رہی تھی، جب ان کے قریب پہنچی تو ان میں سے ایک شخص نے کوئی باطل بات کہہ دی جس سے وہ دوبارہ اٹھائی گئی۔ ابن عساکر بروایت سعد بن مسعود مرسلہ
۱۸۸۰ ہر ایسی مجلس جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں اللہ تمہیں برکت دے، ذکر اور زیادہ کرو۔ ذکر ان میں بڑھتا رہتا ہے، اور فرشتے ان پر پھیلانے رہتے ہیں۔ ابو الشیخ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۸۸۱ کوئی قوم اللہ کے ذکر پر جمع نہیں ہوتی، مگر ملائکہ ان پر چھا جاتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔
حدیث ضعیف ہے۔

رزق اللہ التمیمی فی المجلس الذی املاہ باصبہانی عن ابیہ عبدالوہاب عن ابیہ ابی الحسن عبدالعزیز عن ابیہ بکر بن الحارث عن ابیہ اسد عن ابیہ سلیمان عن ابیہ الاسود عن ابیہ سفیان عن ابیہ یزید، عن ابیہ اکنینہ عن ابیہ الہیثم عن ابیہ عبداللہ التمیمی، ورواہ ابن النجار من طریقہ، قال الذہبی اکثر هؤلاء الآباء لا ذکر لہم فی تاریخ ولا فی اسماء الرجال العلاء فی الوشی المعلم لہ
۱۸۸۲ اے لوگو! فرشتگان خدا کی کچھ جماعتیں زمین پر ذکر کی مجالس میں آتی اور ٹھہر جاتی ہیں۔ سو تم جنت کے باغات میں چرا کرو۔ دریافت کیا گیا: جنت کے باغات کہاں ہیں؟ فرمایا: ذکر کی مجالس۔ پس تم بھی صبح و شام اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اور اپنے دلوں کو بھی اس کے ذکر سے منور کرو۔ جو اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ جاننا چاہتا ہو، اس کو چاہئے کہ اپنے ہاں اللہ کا مرتبہ دیکھ لے! کیونکہ اللہ تعالیٰ بندہ کو اسی مرتبہ میں رکھتے ہیں جس میں بندہ اپنے دل میں اللہ کو مرتبہ دیتا ہے۔ المستدرک للحاکم،

ابن ماجہ نے اس پر کلام فرمایا ہے۔ مسند الزائر الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ شعب الإیمان ابن عساکر بروایت جابر رضی اللہ عنہ
۱۸۸۳ میں نے تم سے کسی قسم تم پر کسی تہمت و شک کی وجہ سے نہیں لی، بلکہ میرے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔

مسند احمد، ابن ابی شیبہ، الصحیح لمسلم، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، النسائی، الصحیح لابن حبان بروایت معاویہ رضی اللہ عنہ
۱۸۸۴ جب تمہارا جنت کے باغات سے گزر ہو تو وہاں بیٹھ جایا کرو۔ دریافت کیا گیا: جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا: اہل ذکر کے حلقے۔
ابن الشاہین بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۸۸۵ جب تمہارا جنت کے باغات سے گزر ہو تو ان میں خوب چرا کرو، دریافت کیا گیا: جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا: اہل ذکر کے حلقے۔ مسند احمد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث حسن غریب ہے۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر، شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ
۱۸۸۶ کہاں ہیں بازی لے جانے والے؟ جو محض اللہ کے ذکر ہی کے ہو رہے؟ جو جنت کے باغات میں چرنا چاہے، ذکر خوب کیا کرے۔
الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاذ رضی اللہ عنہ
۱۸۸۷ جو جنت کے باغات میں چرنا چاہے، اس کو چاہئے کہ ذکر زیادہ کیا کرے۔

ابن ابی شیبہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاذ بن جبل
۱۸۸۸ کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لئے نہیں بیٹھتی، مگر آسمان سے ایک منادی انہیں نداء دیتا ہے کہ اٹھو! تمہاری مغفرت کر دی گئی۔
مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۸۸۹۔ کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لئے مجتمع نہیں ہوتی، مگر آسمان سے ایک منادی انہیں نداء دیتا ہے کہ اٹھو! تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ شعب الایمان بروایت عبداللہ بن معقل

۱۸۹۰۔ کوئی قوم اللہ کے ذکر پر مجتمع نہیں ہوتی، مگر پھر وہ اٹھتی ہے تو ان کو کہا جاتا ہے اٹھو! تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

الحسن بن سفیان بروایت سهل بن الحنظلیۃ

۱۸۹۱۔ جو قوم اللہ عزوجل کا ذکر محض اس کی رضاء کے لئے کرنے بیٹھتی ہے تو ان کو آسمان سے نداء دی جاتی ہے: اٹھو! تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۸۹۲۔ جو قوم اللہ عزوجل کا ذکر محض اس کی رضاء جوئی کے لئے کرتی ہے تو ان کو آسمان سے نداء دی جاتی ہے: اٹھو! میں نے تمہاری بخشش کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ العسکری فی الصحابہ، ابو موسیٰ بروایت الحنظلیۃ العشمی

حدیث ضعیف ہے۔

۱۸۹۳۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایسی اقوام کو اٹھائیں گے، کہ ان کے چہروں میں نور عیاں ہوگا، وہ لوء لوء کے منبروں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ لوگ رشک آمیز نگاہیں ان پر اٹھائیں گے۔ لیکن وہ انبیاء ہوں گے اور نہ شہداء۔ وہ تو محض اللہ کی محبت میں مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کے لوگ ہوں گے، جو اللہ کے ذکر کے لئے جمع ہوئے ہوں گے۔ اور اس کا ذکر کرتے ہوں گے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۱۸۹۴۔ ذکر اللہ کے ساتھ کثرت کلام کرو۔ کیونکہ ذکر اللہ کے سوا کثرت کلام دل کو قساوت کا شکار کر دیتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور قسی القلب سخت دل شخص ہے۔ ابو الشیخ فی الثواب بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۸۹۵۔ ذکر اللہ کے سوا کثرت کلام سے اجتناب کرو۔ کیونکہ ذکر اللہ کے سوا کثرت کلام دل کو قساوت کا شکار کر دیتا ہے۔ اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور قسی القلب سخت دل شخص ہے۔ الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ،

نیز فرمایا حدیث غریب ہے۔ ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر، شعب الایمان، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۱۸۹۶۔ اے حفصہ کثرت کلام سے اجتناب کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے سوا کثرت کلام ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز دل کو زندہ رکھتی ہے۔ الدیلمی بروایت حفصہ رضی اللہ عنہا

۱۸۹۷۔ اس قدر اللہ کا ذکر کرو کہ کہا جانے لگے: تم تو ریا کار ہو۔ ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۱۸۹۸۔ اس کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ منافق تمہیں کہنے لگیں: تم تو ریا کار ہو۔

ابن ابی شیبہ، مسند احمد فی الزہد، شعب الایمان بروایت ابی الحوزاء مرسلأ

۱۸۹۹۔ اس امت کے بہترین لوگ وہ ہیں کہ ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور اس امت کے شری ترین لوگ وہ ہیں، جو چغخل خوری کرتے ہیں۔ دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ پاکیزہ لوگوں پر بہتان تراشی کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔

الخوائطی فی مکارم الأخلاق من طریق عبدالرحمن بن غنم عن ابی مالک الأشعری

۱۹۰۰۔ کیا میں تمہیں اس امت کے بہترین افراد نہ بتاؤں! وہ لوگ ہیں جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ اور جب ان لوگوں کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بھر پور محاورت کرتے ہیں۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت محمد بن عامر بن ابراہیم الأصبہانی عن ابیہ عن نہشل عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہما

یہ اسناد کمزور اور ناقابل اعتماد ہے۔

۱۹۰۱۔ اے لوگو! کیا میں تمہارے بہترین افراد کی نشاندہی نہ کروں! وہ لوگ ہیں کہ محض ان کا دیکھنا ہی تم کو خدا کی یاد تازہ کر دے۔ اور کیا میں تمہارے شری ترین افراد کی نشاندہی نہ کروں! وہ لوگ وہ ہیں، جو چغخل خوری کرتے ہیں۔ دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں۔ پاکیزہ لوگوں

پر بہتان تراشی کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت اسماء رضی اللہ عنہا بنت یزید
 ۱۹۰۲ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندوں میں میرے دوست، اور میری مخلوق میں سے میرے محبوب ترین افراد وہ ہیں کہ میرے
 ذکر کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے ذکر کے ساتھ میرا ذکر کیا جاتا ہے۔ الحکیم، الحلیہ بروایت عمرو بن الجموح
 ۱۹۰۳ یہ کہ شام ہو یا صبح ہر دم تمہاری زبان اللہ عزوجل کی یاد میں تروتازہ رہے۔ ابن النجار بروایت معاذ رضی اللہ عنہ
 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عرض کیا یا رسول اللہ! کونسا عمل سب سے بہتر؟ اور اللہ اور اس کے رسول کے اقرب ترین ہے؟ تو آپ ﷺ
 نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۱۹۰۴ وہ لوگ، جو اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ وہ جنت میں بنتے سکر اتے داخل ہوں گے۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی اللہ کبروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ ابو الشیخ فی الثواب بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ابن ابی شیبہ۔ موقرفاً

سب سے افضل ترین عمل

۱۹۰۵ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ قیامت کے روز اہل ارض میں سب سے افضل ترین عمل کس کا ہوگا! وہ شخص جو ہر روز اخلاص کے ساتھ سو بار
 ”لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ“ کا ورد کرے۔ الا یہ کوئی اس سے زیادہ یہ عمل کرے۔ وہ اس سے بڑھ سکتا ہے۔

الدیلمی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۹۰۶ تم ساری رات دن سمیت ذکر کرو، اور سارا دن رات سمیت ذکر کرو۔ کیا میں تجھے اس سے بھی بڑھ کر عمل نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ تم ان
 کلمات کا ورد کرو:

الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله مالا ما خلق، والحمد لله عدد ما في السموات والارض، والحمد لله
 عدد ما احصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله مالا كل شيء، وسبحان الله عدد ما خلق،
 وسبحان الله مالا ما خلق، وسبحان الله عدد ما في السموات والارض، وسبحان الله عدد ما احصى
 كتابه، وسبحان عقبتك من بعدك

”تمام تعریفیں مخلوقات کی تعداد بھر اللہ ہی کے لئے ہیں۔ تمام تعریفیں مخلوق بھر اللہ ہی کے لئے ہیں۔ آسمان وزمین میں جو کچھ ہے،
 سب کی تعداد برابر اللہ کی بڑائی ہو۔ لوح تقدیر میں جو کچھ ہے سب کے برابر اللہ کی بڑائی ہو۔ ہر چیز کے بقدر اللہ کی بڑائی
 ہو۔ ہر چیز بھر تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہوں۔ مخلوقات کی تعداد بھر اللہ کی پاکی ہو۔ مخلوق بھر اللہ کی پاکی ہو۔ آسمان وزمین میں جو کچھ
 ہے، سب کی تعداد برابر اللہ کی پاکی ہو۔ لوح تقدیر میں جو کچھ ہے سب کے برابر اللہ کی پاکی ہو۔ ہر چیز کی تعداد برابر اللہ کی پاکی
 ہو۔ ہر چیز بھر اللہ کی پاکی ہو۔ تم ان کلمات کو سیکھ لو اور اپنے علاوہ اوروں کو بھی سکھاؤ۔“

النسائی، وابن خزيمة الكبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ وسمویہ وابن عساکر، السنن لسعيد عن ابی امامة، الکبیر للطبرانی رحمۃ
 اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۱۹۰۷ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا: اے پروردگار! مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا، جس کے ذریعہ میں تجھے یاد کیا کروں اور اس
 کے وسیلہ تجھ سے مانگا کروں۔ ارشاد باری ہوا: اے موسیٰ علیہ السلام! ”لا الہ الا اللہ“ کہا کر۔ عرض کیا: اے پروردگار! یہ کلمہ تو تیرے سب بندے
 کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہوا: ”لا الہ الا اللہ“ کہا کر۔ عرض کیا: اے پروردگار! تیرے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن میں تو ایسا کلمہ جاننا چاہتا
 ہوں، جو آپ میرے لئے خاص کر دیں۔ ارشاد باری ہوا: اے موسیٰ علیہ السلام! اگر ساتوں آسمان اور ان میں میرے سوا جو کچھ آباد ہے، اور
 ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیئے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں ”لا الہ الا اللہ“ رکھ دیا جائے تو ”لا الہ الا اللہ“ والا پلڑا ان سب

پر بھاری ہو جائے گا۔ المسند لابن یعلیٰ، الحکیم، الصحیح لابن حبان، المستدرک للحاکم، الحلیہ فی الأسماء بروایت ابی سعید
۱۹۰۸۔ ”لا الہ الا اللہ“ سے افضل کوئی ذکر نہیں۔ اور استغفار سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۹۰۹ جو بندہ ”لا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی چوتھائی جان جہنم سے آزاد فرمادیتے ہیں۔ اور جو اس کلمہ کو دو مرتبہ کہتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کی نصف جان جہنم سے آزاد فرمادیتے ہیں۔ اور جو بندہ اس کلمہ کو چار مرتبہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے مکمل آزادی مرحمت

فرمادیتے ہیں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی لدرداء رضی اللہ عنہ

۱۹۱۰ اے معاذ دن میں تو اللہ کا کتنا ذکر کرتا ہے؟ کیا تو دس ہزار بار ذکر کرتا ہے؟ تو کیا میں اس سے آسان کلمات نہ بتاؤں، کہ وہ دس ہزار
اور دس ہزار سے بھی زیادہ ثواب رکھتے ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ تم یوں کہو:

لا الہ الا اللہ مخلوق خدا کے برابر لا الہ الا اللہ عرش خداوندی کے برابر۔ لا الہ الا اللہ آسمانوں کے برابر۔ لا الہ الا اللہ مزید اس کے
بقدر۔ اور اللہ اکبر اسی کے بقدر الحمد للہ اسی کے بقدر۔ اس اس قدر کے کوئی فرشتہ نہ اور کوئی اس کو شمار کر سکے۔ ابن النجار بروایت ابی شبل
بروایت اپنے دادا کے جو صحابی رسول تھے۔

۱۹۱۱ اے معاذ! کیا بات ہے کہ تم ہر صبح ہمارے پاس نہیں آتے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کے پاس حاضر ہونے سے قبل ہر صبح کو سات
ہزار بار تسبیح کرتا ہوں۔ فرمایا: کیا میں اس سے آسان کلمات نہ بتاؤں، جو میزان میں اس سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے؟ جن کا ثواب فرشتے شمار
کر سکیں گے اور نہ ہی اہل ارض۔ تو کہو:

لا الہ الا اللہ، اللہ کی رضا برابر لا الہ الا اللہ عرش خداوندی کے برابر۔ لا الہ الا اللہ مخلوق خدا کے برابر لا الہ الا اللہ آسمانوں بھر لا الہ
الا اللہ زمین بھر لا الہ الا اللہ آسمان وزمین کے درمیان جو کچھ ہے سب کے برابر۔ ابن برکان، الدیلمی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۱۹۱۲ ہر شجر و حجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ مسند احمد فی الزہد بروایت عطاء بن یسار مرسلًا
۱۹۱۳۔ تو جہاں کہیں ہو اللہ کا ذکر کرتا رہو۔ لوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے ساتھ پیش آ۔ جب بھی کوئی برائی سرزد ہو جائے اس کے بعد کوئی نیکی

انجام دے لے تاکہ وہ اس برائی کو مٹا کر دے۔ ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۱۹۱۴۔ اے بندگان خدا! ذکر الہی کرتے رہو۔ کیونکہ بندہ جب سب حسان اللہ و ب حمدہ کہتا ہے تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔
اور دس بار پڑھنے سے سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور سو بار پڑھنے سے ہزار نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور جو زیادہ کرتا ہے اللہ اس کا اجر بھی زیادہ

کرتا ہے۔ اور جو اللہ سے مغفرت کا طلب گار ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔ ابن شاہین بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

رواہ الخطیب اور اس میں یہ اضافہ مذکور ہے: جس کی سفارش حدود اللہ نافذ کرنے میں حائل ہوتی، وہ اللہ کی سلطنت میں اللہ سے خدا اور

دشمنی کرتا ہے۔ اور جس نے بغیر علم کے کسی خصوصیت و جھگڑے میں حمایت و مدد کی، اس نے اللہ کی ناراضگی مول لے لی۔ اور جس نے کسی مؤمن

مرد یا عورت کو تہمت زنی کی، اللہ اس کو ردغۃ الخیال جنہیوں کے خون و پیپ سے بھری ہوئی جہنم کی وادی میں قید فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ وہ اس

کا سبب و عذر لائے۔ اور جو اپنے اوپر قرض لے کر مرے، اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ کیونکہ وہاں درہم و دینار نہ ہوں گے۔

التاریخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

ذکر الہی شکر کی بجائے آوری ہے

۱۹۱۵ پروردگار عزوجل فرماتے ہیں: اے ابن آدم جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو درحقیقت میرا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب مجھ سے غفلت و بھول

میں پڑ جاتا ہے تو میری ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر، الخطیب، الدیلمی، ابن عساکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
لیکن اس روایت میں ایک راوی المعلیٰ بن الفضل ہے، جس کی احادیث منکر و ناقابل قبول ہوتی ہیں۔

۱۹۱۶ اہلبیس نے کہا: اے پروردگار! تو نے اپنی اور مخلوق کا رزق مقدر فرمایا، لیکن میرا رزق کیا ہے؟ ارشاد باری ہوا: جس پر میرا نام نہ لیا جائے،
وہ تیرا رزق ہے۔ ابو الشیخ فی العظیمہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۹۱۷ اہلبیس نے کہا: اے پروردگار! تو نے اپنی ہر مخلوق کی روزی اور معیشت مقرر فرمادی میرا رزق کیا ہے؟ ارشاد باری ہوا: جس پر میرا نام نہ
لیا جائے، وہ تیرا رزق ہے۔ الخلیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۹۱۸ کوئی شکار شکار ہوتا ہے تو شخص اس وجہ سے کہ اس کے ذکر کرنے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو پیدا فر
مادیتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ بھی اس پر مقرر فرمادیتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے۔ اور اسی طرح کوئی درخت
بھی اسی وقت کٹتا ہے، جب اس کے ذکر کرنے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یونہی کسی شخص کو ناگوار بات سمجھی پیش آتی ہے، جب اس سے کوئی
گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اور جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمادیتے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں۔

ابن عساکر بروایت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ
مصنف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث منکر ہے۔ اور اس کی اسناد میں دو راوی بالکل ضعیف و مجہول ہیں۔

۱۹۱۹ کوئی شکار شکار نہیں ہوتا ہے، اور کوئی درخت نہیں کٹتا۔ مگر ترک تسبیح کی وجہ سے۔ اور ہر مخلوق خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کی
ادائیگی میں اپنی تخلیق شدہ کیفیت سے بدل جاتی ہے۔ کبھی تم بھی بعض چیزوں کو سنتے ہو گے، وہی تسبیح ہوتی ہے۔

ابو نعیم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۹۲۰ کوئی شکار شکار نہیں ہوتا ہے، اور کوئی شاخ نہیں کٹتی، اور کوئی درخت نہیں کٹتا۔ مگر قلت تسبیح کی وجہ سے۔

ابن راہویہ بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ
اس روایت کی سند انتہائی ضعیف ہے۔

۱۹۲۱ تمام جانور خواہ وہ جوڑیں، چمچر، ٹڈی، گھوڑے، خچر اور گائیں وغیرہ سب کی موت تسبیح سے متعلق ہوتی ہے۔ جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی
ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ارواح قبض فرمالیتے ہیں۔ اور ملک الموت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

الضعفاء للعقبیٰ رحمۃ اللہ علیہ، ابو الشیخ بروایت انس رضی اللہ عنہ
علامہ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ روایت غیر ثابت الاصل ہے۔ اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوعات میں شمار فرمایا ہے۔

۱۹۲۲ جس قطعہ زمین پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ قطعہ زمین اللہ کے ذکر کی وجہ سے ساتوں زمین سے لے کر اپنی انتہاء تک خوش
ہو جاتا ہے۔ اور زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کتنا ہوتا ہے۔ اور جب مؤمن بندہ کسی زمین کو نماز کے لئے منتخب کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ
زمین اس کے لئے سنور جاتی ہے۔ ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت انس رضی اللہ عنہ

اس روایت میں ابن موسیٰ بن عبیدہ الرضی، یزید الرقاشی سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ دونوں راوی ضعیف ہیں۔
۱۹۲۳ وہ گھر جس میں اللہ کا نام لیا جائے، اور وہ گھر جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ زندہ اور مردہ کے مثل ہے۔

مسند احمد، الصحیح لمسلم، الصحیح لابن حبان بروایت یزید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
۱۹۲۴ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ خواہ اس کی نماز روزے اور تلاوت قرآن طویل ہی ہوں۔ اور جس نے اللہ کے
ذکر کو ترک کیا اس نے اللہ کی نافرمانی کی خواہ اس کی نماز روزے اور تلاوت قرآن بہت زیادہ کیوں نہ ہوں۔ الحسن بن سفیان، الکبیر للطبرانی
رحمۃ اللہ علیہ ابن عساکر بروایت واقد مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنن لسعید شعب الإیمان بروایت ابن ابی عمران مرسلًا

۱۹۲۵۔ جس نے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا، وہ نفاق سے بری ہو گیا۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

اس روایت کے راوی ثقہ لوگ ہیں۔

۱۹۲۶۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ذکر اللہ سے محبت ہے۔ اور اللہ سے بغض کی علامت، اللہ عزوجل کے ذکر سے بغض ہے۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت انس رضی اللہ عنہ

یہ روایت ضعیف ہے۔

۱۹۲۷۔ جب تک تو ذکر خدا میں مشغول رہے گا نماز و عبادت میں رہے گا، خواہ تو کھڑا ہو یا بیٹھا، بازار میں ہو یا مجلس میں، یا جہاں کہیں بھی ہو۔

شعب الإیمان بروایت یحییٰ بن ابی کثیر۔ مرسل

۱۹۲۸۔ اے مومنوں کی خواتین! تم پر تہلیل و تسبیح اور تقدیس لازم ہے۔ اور غفلت میں نہ پڑو، ورنہ رحمت سے بھی محروم ہو جاؤ گی۔ اور انگلیوں کے پوروں پر شمار کیا کرو، کیونکہ ان اعضاء سے بھی سوال ہوگا اور یہ کلام کریں گے۔

مسند احمد، ابن سعد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ہانیء بن عفان عن امہ حمیصۃ بنت یاسر عن جدتها یسیرۃ

۱۹۲۹۔ وہ ذکر جس کو نگہبان فرشتے بھی نہ سن سکیں، اس ذکر پر جس کو وہ فرشتے سن سکیں ستر درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

ابن ابی الدنیا، شعب الإیمان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

یہ حدیث ضعیف ہے۔

۱۹۳۰۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو، جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو۔ یا کسی مقام پر مجھ سے ڈرا ہو۔

ابن الشاہین فی الترغیب فی الذکر شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

اس میں ایک راوی مبارک بن فضالہ ہے، جس کو ایک جماعت نے ثقہ دوسری نے ضعیف قرار دیا ہے۔

۱۹۳۱۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: اب عنقریب مجمع کو اہل کرم کا علم ہو جائے گا! اوچھا جائے گا: اہل کرم کون ہیں؟ ارشاد ہوگا: وہ

جو مساجد میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ، السنن لسعید، الصحیح لابن حبان، ابن الشاہین فی الترغیب فی

الذکر شعب الإیمان بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۱۹۳۲۔ تم کیا باتیں کر رہے تھے؟ میں نے دیکھا کہ رحمت تم پر نازل ہو رہی ہے، تو مجھے بھی خواہش ہوئی کہ تمہارے ساتھ اس میں شریک ہو جاؤں۔

المستدرک للحاکم بروایت سلمان رضی اللہ عنہ

آپ رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول تھے، کہ آپ ﷺ کا ان کے پاس سے گزر ہوا اور آپ نے مذکورہ

ارشاد فرمایا۔

باب دوم..... اسماء حسنی کے بیان میں

۱۹۳۳۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء گرامی ہیں، یعنی سو سے ایک کم، جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا۔

بخاری و مسلم، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عساکر بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۱۹۳۴۔ اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء گرامی ہیں، یعنی سو سے ایک کم، جو ان کو یاد کر لے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند

کرتا ہے۔ بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۹۳۵۔..... اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء گرامی ہیں، یعنی سو سے ایک کم، اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ اور جو بندہ ان کے ساتھ اللہ کو یاد کرے

گا، اس کے لئے جنت واجب ہو جائے گی۔ الحلیہ بروایت علی رضی اللہ عنہ
۱۹۳۶ اللہ تعالیٰ کے ایک کم نانوے نام ہیں، جس نے ان کے ساتھ دعا کی اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔

ابن مردودیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۹۳۷ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو یاد کر لے جنت میں داخل ہوگا۔

ترجمہ:۔۔۔۔۔ وہ اللہ ہے۔ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نہایت مہربان۔ بہت رحم کرنے والا۔ بادشاہ۔ ہر عیب سے پاک۔ ہر آفت سے سلامت رکھنے والا۔ امن دینے والا۔ نگہبانی کرنے والا۔ زبردست۔ بدی کو طاقت سے دفع کرنے والا۔ بڑائی کا مالک۔ پیدا فرمانے والا۔ ٹھیک ٹھیک بنانے والا۔ صورت بنانے والا۔ بہت بخشنے والا۔ غلبہ رکھنے والا۔ خوب دینے والا۔ رزق رساں۔ بڑا فیصلہ کرنے والا۔ بہت جاننے والا۔ رزق وغیرہ تنگ کرنے والا۔ وسعت و فراخی بخشنے والا۔ پست کرنے والا۔ بلند کرنے والا۔ عزت دینے والا۔ ذلت دینے والا۔ سننے والا۔ دیکھنے والا۔ اہل فیصلہ والا۔ عین انصاف کرنے والا۔ بھیدوں کا جاننے والا۔ مکمل خبر رکھنے والا۔ بردبار۔ عظمت کا مالک۔ بے انتہاء بخشنے والا۔ قدر دان، اور تھوڑے پر بہت عطا کرنے والا۔ بلند مرتبہ والا۔ بہت بڑا حفاظت کرنے والا۔ خوراک رساں۔ حساب کرنے والا۔ بڑی بزرگی والا۔ بے مانگے عطا فرمانے والا۔ نگران۔ دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ وسعت والا۔ بڑی حکمت والا۔ بہت محبت والا۔ بڑی بزرگی والا۔ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا۔ حاضر و موجود۔ اپنی سب صفات کے ساتھ ثابت۔ کام بنانے والا۔ قوت والا۔ نہایت قوت والا۔ کارساز۔ مستحق حمد۔ ذرہ ذرہ کا شمار رکھنے والا۔ پہلی بار پیدا کرنے والا۔ دوبارہ پیدا کرنے والا۔ زندہ کرنے والا۔ موت دینے والا۔ ہمیشہ زندہ۔ سب کی ہستی قائم رکھنے والا۔ بالفعل ہر کمال سے متصف۔ بزرگی والا۔ ایک۔ بے نیاز۔ بہت زیادہ قدرت والا۔ آگے بڑھانے والا۔ پیچھے ہٹانے والا۔ سب سے اول۔ سب سے آخر۔ آشکارا۔ پوشیدہ۔ پوری کائنات کا متولی۔ صفات مخلوق سے برتر۔ بہت بڑا محسن۔ بہت توبہ قبول فرمانے والا۔ انعام کرنے والا۔ انتقام لینے والا۔ معاف فرمانے والا۔ بہت شفقت رکھنے والا۔ پورے ملک کا مالک۔ بزرگی و بخشش والا۔ بڑا انصاف والا۔ سب کو جمع کرنے والا۔ سب سے بے نیاز۔ دوسروں کو غنی بنانے والا۔ روکنے والا۔ نقصان پہنچانے والا۔ نفع پہنچانے والا۔ سب کو روشن کرنے والا۔ ہدایت دینے والا۔ بے مثال پیدا فرمانے والا۔ ہمیشہ رہنے والا۔ سب کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا۔ ہدایت والا۔ بہت برداشت کرنے والا۔

الاکمال

۱۹۴۰ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، تمام قرآن میں ہیں۔ جس نے ان کو یاد کر لیا جنت میں داخل ہوگا۔

ابن جریر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

فصل..... اللہ کے اسم اعظم کے بیان میں

۱۹۴۱ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے

﴿وَالْحَكَمَ اللَّهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

﴿إِلَهَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

مسند احمد، الصالح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ بروایت اسماء بنت یزید

۱۹۴۲ اللہ کا اسم اعظم وہ ہے، جس کے ذریعے سے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اور وہ قرآن کی تین سورتوں میں ہے۔ المقرة، ال عمران، طہ

ابن ماجہ، المستدرک للحاکم، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی امامة

۱۹۴۳ اللہ کا اسم اعظم وہ، جس کے ذریعہ سے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، وہ اس آیت میں ہے:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمَلِكِ﴾ الخ۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۹۴۴ اللہ کا اسم اعظم وہ، جس کے ذریعہ سے جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، جو مانگا جائے، عطا ہوتا ہے، وہ حضرت یونس بن متی کی دعا لا الہ

الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ ابن جریر بروایت سعد

۱۹۴۵ اللہ کا اسم اعظم سورہ حشر کی آخری چھ آیات ہیں۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۱۹۴۶ اے عائشہ! کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ نے مجھے وہ اسم بتا دیا ہے، جس کے ذریعہ جب بھی دعا کی جائے، قبول ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا: اے عائشہ! وہ تیرے لئے مناسب نہیں ہے۔ ابن ماجہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

الاکمال

۱۹۴۷ کیا میں تمہیں اللہ کا اسم اعظم بتاؤں؟ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ دعا حضرت یونس

علیہ السلام کے لئے خاص تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو نے اس کے بارے میں فرمان باری نہیں سنا:

﴿وَنَجِّنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾

”اور ہم نے اس یونس کو نجات دی۔ اسی طرح ہم اور مؤمنین کو بھی نجات دیتے ہیں۔“

اور جو مسلمان بھی اس دعا کو اپنے مرض میں چالیس مرتبہ پڑھے گا اگر اس کی اسی مرض میں موت آگئی تو شہادت کی موت مرے گا اور اگر صحت

یاب ہو گیا تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ المستدرک للحاکم بروایت سعد

۱۹۴۸ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، جس کے ذریعہ جو مانگا جاتا ہے، عطا ہوتا ہے۔ اور جب بھی اس کے ذریعہ دعا کی جاتی

ہے، قبول ہوتی ہے۔ ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابو داؤد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، النسائی، ابن ماجہ، الصحیح لابن حبان،

المستدرک للحاکم، السنن لسعید بروایت انس رضی اللہ عنہ

حضور ﷺ نے کسی شخص کو یوں دعا کرتے سنا تھا:

اللهم انی اسئلك بأن لك الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لك المنان بدیع السموات

والأرض ذو الجلال والإکرام

”اے اللہ میں تجھ سے اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تجھے ہی لائق۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تمہا ہے۔ تیرا کوئی

ساجھی نہیں۔ تو احسان کرنے والا ہے۔ آسمان وزمین کو بے مثل پیدا کرنے والا ہے۔ بڑی بزرگی و عظمت والا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ

اے ہر شے کو سنبھالنے والے!“

یہ سن کر آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۱۹۴۹ تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا تھا، جس کے ذریعہ جو مانگا جاتا ہے، عطا ہوتا ہے۔ اور جب بھی اس کے ذریعہ

دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ، الصحیح لابن حبان، المستدرک للحاکم بروایت بریدہ

حضور ﷺ نے کسی شخص کو یوں دعا کرتے سنا تھا:

اللهم انی اسئلك بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الأحد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد

”اے اللہ میں تجھ سے اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو تمہا بے نیاز ہے۔ جس نے

کسی کو جنم دیا ہے اور نہ خود اس کو جنم دیا گیا ہے۔“

یہ سن کر آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔
۱۹۵۰ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا، جس کے ذریعہ جب دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے ذریعہ جو مانگا جاتا ہے، عطا ہوتا ہے۔

مسند احمد، النسائی، الصحيح لابن حبان بروایت انس رضی اللہ عنہ

اللهم انى استلک بأن لک الحمد لاله الا انت الحنان المنان بديع السموات والأرض

ذوالجلال والإکرام

”اے اللہ میں تجھ سے اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں تجھے ہی لائق تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو بڑا شفقت فرمانے والا اور احسان کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین کو بے مش پید کرنے والا ہے۔ اے بڑی بزرگی و عظمت والے اے ہمیشہ زندہ اے ہر شے کو سنبھالنے والے!“

یہ سن کر آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

تیسرا باب الحوقلة کے بیان میں

۱۹۵۱ کیا میں تم کو وہ کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے خزینہ جنت سے ہے؟ یہ کلمہ تم کو:

”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

”بندہ جب یہ کلمہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرا بندہ مسلمان ہو گیا اور میرے سامنے سر تسلیم خم ہو گیا۔“

المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۹۵۲ کیا میں تم کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں؟ وہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ہے۔

مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم بروایت قیس بن سعد بن عبادة

۱۹۵۳ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کثرت سے کہا کرو۔ کیونکہ یہ ننانوے مضایب کے دروازے بند کرتا ہے۔ جن میں سے ادنیٰ غم ہے۔

الضعفاء للعقبلی رحمۃ اللہ علیہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۱۹۵۴ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ اہل آسمان کا کلام ہے۔ التاريخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۱۹۵۵ جس پر اللہ نے کوئی نعمت نازل فرمائی ہو، اور وہ اس کو آئندہ بھی باقی رکھنا چاہتا ہو تو اس کو کثرت سے ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

پڑھنا چاہئے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

۱۹۵۶ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ننانوے بیماریوں کی دواء ہے۔ جن میں سے ادنیٰ بیماری رن و غم ہے۔

ابن ابی الدنیافی الفرج عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۹۵۷ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کثرت سے کہا کرو۔ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔

الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک لابی یعلی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن ابی

۱۹۵۸ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کثرت سے کہا کرو۔ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔

الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۱۹۵۹ جنت میں کثرت سے درخت اگاؤ۔ کیونکہ اس کا پانی بیٹھا اور اس کی مٹی عمدہ ہے۔ تو ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ پڑھ کر کثرت

درخت اگاؤ۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۱۹۶۰ کیا میں تمہیں ”لاحول ولاقوة الا بالله“ کی تفسیر نہ بتاؤں؟ وہ یہ کہ مجھے کسی معصیت سے بچنے کی طاقت اللہ کی حفاظت کے بغیر نہیں ہے۔ اور کسی نیکی کی قوت اللہ کی مدد کے سوا نہیں ہے۔ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے یہی بتایا ہے، اے ابن ام عبد۔

۱۹۶۱ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابن النجار بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
”لاحول ولاقوة الا بالله“ کثرت سے کہا کرو۔ کیونکہ یہ نانوے مصائب کے دروازے بند کرتا ہے۔ جن میں سے ادنیٰ غم ہے۔

۱۹۶۲ ”لاحول ولاقوة الا بالله“ کثرت سے کہا کرو۔ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اور جو اس کو کثرت سے پڑھے گا، اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائیں، اسے دونوں جہاں کی بھلائیاں میسر ہوگیں۔

ابن عساکر بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ حدیث ضعیف ہے۔ دیکھئے: ذخیرۃ الحفاظ ۶۲۳۔ کشف الخفاء ۵۰۲۔

۱۹۶۳ روئے زمین پر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، جو کہے:

”لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لاحول ولاقوة الا باللہ“

”مگر اس کی تمام خطاؤں کا کفارہ ہو جائے گا۔ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے بقدر ہوں۔“

۱۹۶۴ مسند احمد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
اے ابو ذر! کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں! وہ ”لاحول ولاقوة الا باللہ“ ہے۔

۱۹۶۵ مسند احمد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، النسائی، ابن ماجہ، الصحیح لابن حبان، بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ
اے حازم ”لاحول ولاقوة الا باللہ“ کثرت سے کہا کرو۔ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔

۱۹۶۶ ابن ماجہ، بروایت حازم بن حرملة الأسلمی رضی اللہ عنہ
اے عبد اللہ بن قیس! تجھے ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں، جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ وہ ”لاحول ولاقوة الا باللہ“ ہے۔

مسند احمد، بخاری و مسلم بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

الاکمال

۱۹۶۷ ”لاحول ولاقوة الا باللہ“ کثرت سے کہا کرو۔ کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے سے نانوے مصائب کے دروازے بند کرتا ہے۔ جن میں سے ادنیٰ غم ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۱۹۶۸ ”لاحول ولاقوة الا باللہ“ اپنے پڑھنے والے سے نانوے مصائب کے دروازے بند کرتا ہے۔ جن میں سے ادنیٰ غم ہے۔

۱۹۶۹ ابن عساکر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
”لاحول ولاقوة الا باللہ“ جس نے کہا، اس کے لئے یہ نانوے بیماریوں کی دوا ہے۔ جن میں سے سب سے بلیکلی غم ہے۔

۱۹۷۰ ”لاحول ولاقوة الا باللہ“ کثرت سے کہا کرو۔ کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اس میں نانوے بیماریوں کی دوا ہے۔ جن میں سے سب سے اول بیماری غم ہے۔ میسرہ بن علی فی مشیختہ بروایت بھز بن حکیم عن ابیہ عن حدہ

۱۹۷۱ ”لاحول ولاقوة الا باللہ“ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جس نے اس کو کہا، اللہ تعالیٰ اس سے ستر شروء رفع فرمادیں گے۔ جن میں سے ادنیٰ غم ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عساکر، بروایت بھز بن حکیم عن ابیہ عن حدہ

۱۹۷۲ جب بندہ ”لا الہ الا اللہ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے سچ کہا اور جب بندہ ”لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہتا ہے تو اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوٹی۔

۱۹۷۳ المستدرک للحاکم فی تاریخہ، اسماعیل بن عبدالغافر الفارسی فی الأربعین، الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا میں تجھے جنت کا روزہ نہ بتاؤں؟ وہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ہے۔ مسند احمد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن سعد المستدرک للحاکم، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت قیس بن سعد بن عبادۃ، مسند احمد بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۱۹۷۴ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر میرا گدڑ ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا: آپ کے ساتھ یہ کون ہیں؟ پھر ان کے بتانے پر کہ یہ محمد ﷺ ہیں انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے سلام کیا۔ اور کہا اپنی امت کو کہنا کہ جنت میں کثرت سے درخت آگائیں۔ کیونکہ اس کی مٹی عمدہ ہے۔ اور زمین کشادہ ہے۔ میں نے کہا: جنت کے درخت کیا ہیں؟ فرمایا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ شعب الإیمان بروایت ابی ایوب

جنت میں درخت لگائیں

۱۹۷۵ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر میرا گدڑ ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا: آپ کے ساتھ یہ کون ہیں؟ کہا محمد۔ اس پر انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے سلام کیا۔ اور کہا اپنی امت کو کہنا کہ جنت میں کثرت سے درخت آگائیں۔ کیونکہ اس کی مٹی عمدہ ہے۔ اور زمین کشادہ ہے۔ میں نے کہا: جنت کے درخت کیا ہیں؟ فرمایا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

مسند احمد، المستدلابی یعلیٰ الصحیح لابن حبان، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ السنن لسعید بروایت ابی ایوب جس رات مجھے سیر کرائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر میرا گدڑ ہوا تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا: آپ کے ساتھ یہ کون ہیں؟ کہا محمد۔ اس پر انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو کہنا کہ جنت میں کثرت سے درخت آگائیں۔ کیونکہ اس کی مٹی عمدہ ہے۔ اور زمین کشادہ ہے۔ میں نے کہا: جنت کے درخت کیا ہیں؟ فرمایا: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

۱۹۷۷ الصحیح لابن حبان بروایت ابی ایوب کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں! وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ ہے۔

شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۱۹۷۸ کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں! وہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت زیدین اسحاق ۱۹۷۹ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں! وہ ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاذ رضی اللہ عنہ ۱۹۸۰ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں! وہ یہ کہ تم کثرت سے ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہا کرو۔

عندین حمیداً الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت زیدین ثابت رضی اللہ عنہ ۱۹۸۱ اے ایوب! کیا میں تجھے ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے! وہ یہ کہ کثرت سے ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہا کرو۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی ایوب رضی اللہ عنہ

۱۹۸۲ جو جنت کے خزانے چاہتا ہو، اس پر ”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“ لازم ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن النجار بروایت فضالہ بن عیید

۱۹۸۳ ”لا حول ولا قوة الا بالله“ کہے بغیر آسمان سے کوئی فرشتہ اتر سکتا ہے اور نہ چڑھ سکتا ہے۔

الدیلمی من طریق صفوان بن سلیم بروایت انس بن مالک عن ابی بکر الصدیق عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۹۸۴ اے معاذ! کیا میں تمہیں ”لا حول ولا قوة الا بالله“ کی تفسیر نہ بتاؤں؟ وہ یہ کہ مجھے کسی معصیت سے بچنے کی طاقت اللہ کی حفاظت
کے بغیر نہیں ہے۔ اور کسی نیکی کی قوت اللہ کی مدد کے سوا نہیں ہے۔ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے یہی بتایا ہے، اے معاذ!
الدیلمی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

باب چہارم..... تسبیح کے بیان میں

۱۹۸۵ ہردن، جب بندگانِ خدا صبح کرتے ہیں، ایک منادی نداء دیتا ہے: مقدس بادشاہ کی پاکی بیان کرو۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت الزبير
۱۹۸۶ ہر روز بندوں کی صبح کے وقت، ایک منادی نداء دیتا ہے: پاک ہے، وہ ذات، جو تمام سلطنتوں کا مالک اور مقدس صفات کا حامل ہے۔
الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت الزبير
۱۹۸۷ ہر صبح کے اجالے میں ایک چیخنے والا چیختا ہے: اے مخلوقِ خدا! مقدس بادشاہ کی پاکی بیان کرو۔ المسند لابن یعلیٰ، ابن السنی الزبير
۱۹۸۸ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا، اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم بروایت جابر رضی اللہ عنہ
۱۹۸۹ جس رات مجھے میر کرانی گئی، ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا: اپنی امت کو میرا سلام دیجو گا اور یہ
خبر بھی، کہ جنت کی مٹی عمدہ اور پانی میٹھا ہے۔ وہ چشیل میدان ہے۔ اس کے درخت ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ ہیں۔
الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۱۹۹۰ آیات الاسراء میں، میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! اپنی امت کو میرا سلام
کہتا اور ان کو یہ خبر دینا، کہ جنت کی مٹی عمدہ اور پانی میٹھا ہے۔ وہ چشیل میدان ہے۔ اس کے درخت ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله“ ہیں۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۱۹۹۱ جس نے ”سبحان اللہ و بحمدہ“ سورتیہ کہا، اس کی تمام خطائیں محو کر دی جائیں گی۔ خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

مسند احمد، بخاری و مسلم، النسائی ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۹۹۲ اللہ کو محبوب کلام، یہ ہے کہ بندہ ”سبحان اللہ و بحمدہ“ کہے۔

مسند احمد، الصحيح لمسلم الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۱۹۹۳ اللہ کے نزدیک محبوب کلمات چار ہیں ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ تم کسی کے ساتھ ذکر کی ابتدا کرو، کوڈ
خرج نہیں۔ مسند احمد، صحيح مسلم بروایت سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ
۱۹۹۴ چار کلمات افضل الکلام ہیں ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کسی سے ابتداء کرو، تمہیں کوئی ضرر نہیں۔

ابن ماجہ، بروایت سمرة رضی اللہ عنہ
۱۹۹۵ افضل ترین کلام ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ ہے۔ مسند احمد، بروایت رجل

۱۹۹۶ ”سبحان الملک القدوس، رب الملائکة والروح جللت السموات والأرض بالعزة والجبروت“
پاک ہے وہ ذات جو ملک کا مالک اور ہر عیب سے منزہ ہے۔ ملائکہ اور روح الامیں جبرئیل کا پروردگار ہے۔ بے شک تو نے آسمان و زمین

کو اپنی عزت و طاقت کے ساتھ عظیم کر دیا۔ کثرت سے پڑھا کرو۔

۱۹۹۷ ابن السنی الخرائطی فی مکارم الأخلاق، ابن عساکر بروایت البراء رضی اللہ عنہ
”سبحان اللہ وبحمدہ“ یہ دو متصل کلمے کثرت سے کہا کرو۔ التاریخ الخلفاء کم بروایت علی رضی اللہ عنہ

۱۹۹۸ ہم کو حکم ہے، کہ فرض نمازوں کے بعد تینتیس بار ”سبحان اللہ“ اور تینتیس بار ”الحمد للہ“ اور چونتیس بار ”اللہ اکبر“
کہا کریں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۱۹۹۹ اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے چار کلمات کو منتخب فرمایا ہے ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ سو جو شخص ”سبحان
اللہ“ کہتا ہے، اس کیلئے بیس سکی لکھی جاتی ہیں۔ اور بیس خطا میں مٹائی جاتی ہیں۔ اور جو ”اللہ اکبر“ کہتا ہے اس کو بھی اسی قدر اجر ملتا ہے۔
اور جو ”لا الہ الا اللہ“ کہتا ہے اس کو بھی اسی قدر اجر ملتا ہے۔ اور جو اپنی طرف سے ”الحمد للہ رب العالمین“ کہتا ہے، اس کیلئے تیس سیکھائی لکھی
جاتی ہیں۔ اور تیس خطا میں مٹائی جاتی ہیں۔ مسند احمد۔ المستدرک للحاکم الضیاء بروایت ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما

۲۰۰۰ کیا میں تجھے اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہہ لے۔ ہر کلمہ کے بدلہ جنت
میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ابن ماجہ، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۰۰۱ ”سبحان اللہ“ نصف میزان ہے۔ ”الحمد للہ“ اس کو بھر دیتا ہے۔ ”لا الہ الا اللہ“ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں، حتیٰ کہ اس
کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
۲۰۰۲ بہترین کلمات چار ہیں ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کسی سے ابتداء کرو کوئی ضرر نہیں۔

۲۰۰۳ ابن النجار بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ خطاؤں کو اسی طرح ختم کر دیتا ہے، جس طرح درخت موسم سرما میں تندو تیز
ہواؤں کی وجہ سے پتے گرا دیتے ہیں۔ مسند احمد، الحلیہ بروایت النسن رضی اللہ عنہ

۲۰۰۴ تجھ پر ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ لازم ہے۔ کیونکہ یہ کلمات گناہوں کو اس طرح ساقط کر دیتے ہیں، جیسے
درخت پتوں کو۔ ابن ماجہ، بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ
۲۰۰۵ تم پر ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ یہ پانچ کلمے لازم ہیں۔

۲۰۰۶ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
اے خواتین! تم پر ”سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس“ کا ورد لازم ہے۔ اور ان کو اپنی انگلیوں کے پوروں
پر شمار کرنے کا معمول بناؤ۔ کیونکہ ان سے بھی سوال ہوگا اور ان کو بلوایا جائے گا۔ غفلت میں نہ پڑو ورنہ تم بھی رحمت سے محروم ہو جاؤ گی۔

النسائی المستدرک للحاکم بروایت یسیرہ
۲۰۰۷ دو کلمے ایسے ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں۔ میزان میں گرانقدر ہیں۔ رحمن کے ہاں محبوب ترین ہیں۔
”سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم“

۲۰۰۸ مسند احمد ابن ماجہ بخاری و مسلم الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
مجھے ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کہنا، ان تمام چیزوں سے بدرجہا محبوب ہے، جن پر آفتاب اپنی کرنیں
ڈالتا ہے۔ مسند احمد الصحیح لمسلم، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۰۰۹ کوئی شکار دام صیاد نہیں آتا اور کوئی درخت نہیں کاٹا جاتا، مگر محض ان کی بیج کو ضائع کرنے کی وجہ سے۔
الحلیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۰۱۰ اللہ کو وہی کلام محبوب ہے، جس کو ملائکہ نے پسند فرمایا ہے، یعنی ”سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی

وبحمدہ" الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ المستدرک للحاکم الصحیح لابن حبان بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ
 ۲۰۱۱ اللہ تعالیٰ نے کلام میں سے تمہارے لئے چار کلمات پسند فرمائے ہیں۔ وہ قرآن تو نہیں، مگر قرآن میں سے ہیں: "سبحان اللہ
 والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر" اکبر للطرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ
 ۲۰۱۲ "الحمد للہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر" سے بندہ کے گناہ یوں جھڑتے ہیں، جس طرح اس درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔
 الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ
 ۲۰۱۳ "سبحان اللہ اور اللہ اکبر" صدقہ سے افضل ہیں۔ بخاری و مسلم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا
 ۲۰۱۴ "سبحان اللہ و بحمدہ" سو بار کہو۔ جس نے اس کو ایک بار کہا، اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جس نے دس بار کہا، اس
 کے لئے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جس نے سو بار کہا، اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو اضافہ کرتا جائے گا، اللہ بھی اس کو اجر میں
 اضافہ کرتے جائیں گے۔ اور جو اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوگا، اللہ اس کی مغفرت فرمادیں گے۔

الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
 ۲۰۱۵ میں نے اور نہ مجھ سے قبل انبیاء نے "سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر" سے بہتر کوئی تسبیح نہیں کہی۔
 الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۲۰۱۶ جس نے صبح کی نماز کے بعد سو بار "سبحان اللہ" کہا اور سو بار "لا الہ الا اللہ" کہا، اس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں، خواہ وہ
 سمندر کی جھاگ کے مثل ہوں۔ النسائی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۲۰۱۷ بخل جس کو مال خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہو اور نہ ہی اس میں رات کی مشقت برداشت کرنے کی ہمت ہو، تو اس کو "سبحان اللہ
 وحمدہ" پڑھنا چاہئے۔ ابو نعیم فی المعرفة بروایت عبداللہ بن حبیب
 ۲۰۱۸ "سبحان اللہ" نصف میزان ہے۔ "الحمد للہ" اس کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر آسمان وزمین کے درمیانی خلا کو پُر کر دیتا ہے۔ طہارت
 نصف ایمان ہے۔ روزہ نصف صبر ہے۔ مسند احمد، شعب الایمان بروایت رجل من بنی سلیم
 ۲۰۱۹ "سبحان اللہ" نصف میزان ہے۔ "الحمد للہ" اس کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر آسمان وزمین کے درمیانی خلا کو پُر کر دیتا ہے۔ روزہ نصف
 صبر ہے۔ طہارت نصف ایمان ہے۔ الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت رجل من بنی سلیم
 ۲۰۲۰ "سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر" مؤمن کے گناہوں کو یوں کھاتا ہے، جس طرح عضو کو سڑا دینے والی بیماری
 ابن آدم کے پہاڑ میں اس کو کھا جاتی ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ۲۰۲۱ "سبحان اللہ" نصف ایمان ہے۔ "الحمد للہ" میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر آسمان وزمین کو پُر کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے
 لئے اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ السحزی فی الإبانة بروایت ابن عمرو ابن عساکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

الإکمال

۲۰۲۲ اللہ کے نزدیک محبوب کلام "سبحان اللہ لا شریک لہ، لہ المملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قَدیر، لا حول
 ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ و بحمدہ" ہے۔ البخاری فی الأدب بروایت ابی ذر
 ۲۰۲۳ اللہ کے نزدیک محبوب کلام چار ہیں "سبحان اللہ، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ" کسی سے ابتداء کرو کوئی ضرر نہیں۔
 اپنے کسی لڑکے کا نام یسار، رباح، نجیح اور ارح نہ رکھو۔ کیونکہ تم پوچھو گے: کیا وہ وہاں ہے؟ مجیب کہے گا نہیں۔
 مسند احمد ابن ابی شیبہ الصحیح لمسلم الصحیح لابن حبان اکبر للطرانی رحمۃ اللہ علیہ ابن شاہین فی الترغیب فی

الذکر بروایت سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ
یسار کا معنی سہولت۔ رباح کا معنی نفع مند۔ سحج کا معنی کامیاب۔ اور اراج بھی اسی کے ہم معنی ہے۔ تو مثلاً سحج کے جواب میں کہا جائے گا کہ وہ نہیں ہے۔ تو گویا اس کے متعلق معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ کامیاب نہیں ہے۔
۲۰۲۴۔ افضل الکلام چار کلمات ہیں ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ تم کسی کے ساتھ ذکر کی ابتداء کرو کوئی حرج نہیں۔

ابن ابی شیبہ۔ الصحیح لابن حبان، بروایت سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ
۲۰۲۵۔ جب میں تم کو حدیث کہوں تو چار کلمات پر چنداں اضافہ نہ کرنا۔ وہ چار کلمات سب سے عمدہ کلام ہیں۔ قرآن نہیں ہیں۔ تم کسی کے ساتھ ذکر کی ابتداء کرو کوئی حرج نہیں۔ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ ابو داؤد الطیالسی بروایت سمرة رضی اللہ عنہ
۲۰۲۶۔ کیا میں تمہیں اللہ کے ہاں محبوب ترین کلمہ کا پتہ نہ بتاؤں؟ وہ سبحان اللہ وبحمدہ ہے۔

الصحیح لمسلم بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ
۲۰۲۷۔ اللہ کے کو پسندیدہ کلمہ یہ ہے کہ بندہ سبحان ربی وبحمدہ کہے۔ التسانی بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ
۲۰۲۸۔ چار کلمات کہنے میں جلی کو ممانعت ہے اور نہ کسی حائضہ کو ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“

التاریخ للحاکم رحمة اللہ علیہ ابو الشیخ الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
۲۰۲۹۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا کہ میری پاکی اور حمد بیان کی، جس کی تسبیح میرے سوا کسی اور کے لئے زیب نہیں۔ الدیلمی بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۰۳۰۔ جب تو نے سبحان اللہ کہا تو اللہ کا ذکر کیا پس اللہ نے بھی تیرا ذکر کیا۔ اور جب تو نے الحمد للہ کہا تو اللہ کا شکر ادا کیا پس اللہ تعالیٰ تیری نعمت میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ اور جب تو نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ ایسا کلمہ توحید ہے، کہ جو اس کو بغیر شک و شبہ اور بغیر بڑائی و سرکشی کے کہے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرمادیتے ہیں۔ التاریخ للحاکم رحمة اللہ علیہ بروایت الحکم بن عمیر الثمالی

۲۰۳۱۔ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ یہ باقیات صالحات باقی رہنے والے اعمال ہیں۔ جو گناہوں کو ایسے ہی گراتے ہیں، جیسے درخت پتوں کو۔ نیز یہ جنت کے خزانے سے ہیں۔

الراہرہرمزی فی الأمثال بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ
اس روایت میں عمر بن راشد یمانی ایک راوی ہے، جس کو ”المغنی“ میں ضعیف شمار کیا ہے۔
۲۰۳۲۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں اخلاق کو اسی طرح تقسیم فرمادیا ہے، جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم فرمادیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال ہر شخص کو عطا فرماتا ہے، خواہ اس سے محبت ہو یا نہیں۔ لیکن ایمان اس کو عطا فرماتا ہے، جس سے محبت ہو۔ سو جب وہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کو ایمان سے نوازتا ہے۔

باقیات الصالحات

بخل جس کو مال خرچ کرنے کی اجازت دیتا ہو اور نہ ہی اس میں رات کی مشقت برداشت کرنے کی ہمت ہو اور دشمن سے جہاد کرنے سے بھی خوف مانع ہو تو اس کو چاہئے کہ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ کثرت سے پڑھا کرے۔ کیونکہ یہ کلمات آگے سے، دائیں بائیں سے اور پیچھے سے حفاظت کریں گے۔ اور یہی باقیات صالحات باقی رہنے والے اعمال ہیں۔

شعب الإیمان بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۲۰۳۳۔ ”لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ اور سبحان اللہ“ گناہوں کو ایسے ہی گراتے ہیں، جیسے اس درخت کے پتے۔ اے

ابوالدرداء! ان کو محفوظ کر لے، اس سے قبل کہ تیرے اور ان کے درمیان کوئی شے حائل ہو جائے۔ کیونکہ یہ باقیاتِ صالحات ہیں۔ نیز یہ جنت کے خزانے سے ہیں۔ ابن عساکر بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۰۳۳ ”لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر گناہوں کو ایسے ہی زائل کرتے ہیں، جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔

ابن صہری فی امالیہ بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۲۰۳۵ ”تجھ پر ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ“ لازم ہے۔ کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے ہی گراتے ہیں، جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ ابن ماجہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۰۳۶ بندہ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرا بندہ

مسلمان ہو گیا اور میرے آگے سر تسلیم خم ہو گیا ہے۔ المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۰۳۷ بندہ جب ان کلمات کو کہتا ہے تو ایک فرشتہ ان کو اپنے پر میں رکھ کر آسمان کی طرف نکلتا ہے اور ملائکہ کی کسی جماعت پر سے گزر رہتا ہے

تو وہ ملائکہ ان کلمات پر اور ان کے قائلین پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے آگے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: ”سبحان اللہ

والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ اور بندہ کا ”سبحان اللہ“ کہنا، اللہ کو تمام نقائص سے منزہ گردانا ہے۔

ابن ابی شیبہ بروایت موسیٰ بن طلحہ ص ۱۰۰

درست لفظ غالباً تزیہ اللہ ہے۔

۲۰۳۸ جنت میں چٹیل میدان ہے۔ لہذا اس میں کثرت سے شجر کاری کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی شجر کاری

کیا ہے؟ فرمایا: ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت سلمان

۲۰۳۹ لیلۃ الاسراء میں، میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! اپنی امت کو میرا سلام

کہنا اور ان کو یہ خبر دینا، کہ جنت کی مٹی عمدہ اور پانی میٹھا ہے۔ وہ چٹیل میدان ہے۔ اس کے درخت ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ

واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ہیں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۰۴۰ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے

محمد! اپنی امت کو میرا سلام دے گا اور یہ خبر بھی، کہ جنت کا پانی میٹھا ہے۔ اس کا پینا خوشگوار ہے۔ جنت وہ چٹیل میدان ہے۔ اس کے درخت

”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“ ہیں۔ ابن شاہین فی الترغیب فی الذکر بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۰۴۱ جب اللہ عزوجل نے جنت کو پیدا فرمایا، اس کے درخت وغیرہ ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول

ولا قوۃ الا باللہ“ قرار دیئے۔ پھر جنت کو مخاطب ہو کر فرمایا: اے جنت مؤمنین فلاح پا گئے۔ تو مجھ سے کلام کر! جنت حکم ربی سے گویا ہوئی۔ آپ

اللہ ہیں۔ آپ کے سوا کوئی پرستش کا مستحق نہیں۔ آپ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہر شے کو قائم فرمانے والے ہیں۔ اور بقیناً جو مجھ میں داخل ہوا،

سعادت و فیروز مند ہوا۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: میں اپنی عزت اور مخلوق پر اپنی بڑائی کی قسم اٹھاتا ہوں! کہ اے جنت تجھ میں زناء پر مہر شخص،

ہر وقت شراب کا دھت اور چٹیل خورد داخل نہ ہوں گے۔ الشیرازی فی الألقاب بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۴۲ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا: اے پروردگار! جو تیری حمد بیان کرے، اس کی کیا جزا ہے؟ فرمایا: حمد شکر کی

چاہی ہے۔ شکر حمد و رب العالمین کے عرش تک لے جاتا ہے۔ پھر سوال عرض کیا: اور جو تیری تسبیح سبحان اللہ کرے، اس کی کیا جزا ہے؟ فرمایا: تسبیح کی

حقیقت اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۴۳ میں تمہارے لئے اس سے سہل و آسان اور افضل چیز بتاتا ہوں:

سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء، سبحان اللہ عدد ما خلق فی الأرض سبحان اللہ عدد ما هو خالق واللہ اکبر مثل ذالک الحمد للہ مثل ذالک ولا حول ولا قوۃ الا باللہ مثل ذالک

آسمانوں میں جو پیدا کیا، اس کے بقدر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ زمین میں جو پیدا کیا، اس کے بقدر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آئندہ اللہ پاک جو پیدا فرمانے والے ہیں اس کے بقدر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اور اللہ اکبر بھی اسی کے مثل۔ الحمد للہ بھی اسی کے مثل۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ بھی اسی کے مثل۔ ابو داؤد

عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ ایک عورت کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ اس کے آگے گٹھلیاں اور کنگریاں رکھی ہیں اور وہ ان پر تسبیح کر رہی ہے۔ تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۲۰۴۳۔ تم ساری رات، دن سمیت ذکر کرو، اور سارا دن، رات سمیت ذکر کرو۔ کیا میں تجھے اس سے بھی بڑھ کر عمل نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ تم ان کلمات کا ورد کرو:

سبحان اللہ عدد ما خلق، وسبحان اللہ ملا ما خلق، وسبحان اللہ عدد ما فی الأرض والسماء، سبحان اللہ ملا ما فی الأرض والسماء، سبحان اللہ عدد ما حصى کتابہ، سبحان اللہ عدد کل شیء والحمد للہ مثل ذالک مخلوقات کی تعداد بھر اللہ کی پاکی ہو۔ مخلوق بھر اللہ کی پاکی ہو۔ آسمان وزمین میں تمام تعریفیں مخلوقات کی تعداد بھر اللہ ہی کے لئے ہیں۔ تمام تعریفیں مخلوق بھر اللہ ہی کے لئے ہیں۔ آسمان وزمین میں جو کچھ ہے، سب کی تعداد برابر اللہ کی پاکی ہو۔ آسمان وزمین بھر اللہ کی پاکی ہو۔ لوح تقدیر میں جو کچھ ہے سب کے برابر اللہ کی پاکی ہو۔ ہر چیز کے بقدر اللہ کی پاکی ہو۔ ہر چیز بھر اللہ کی پاکی ہو۔ اسی کے بقدر اللہ کی تعریف ہو۔ الصحیح لابن حبان بروایت ابن امامۃ رضی اللہ عنہ

۲۰۴۵۔ تم نے جو چار کلمات تین مرتبہ دہرائے، وہ تمہارے تمام ذکر وادکار سے افضل ہیں:

سبحان اللہ عدد خلقہ، سبحان اللہ رضاء نفسه، سبحان اللہ زنة عرشه، سبحان اللہ ماداد کلماتہ۔
والحمد للہ مثل ذالک۔

اللہ کی مخلوق کی تعداد کے مطابق اس کی پاکی ہو۔ اس قدر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ اس کے عرش کے وزن کے بقدر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اس کے تمام کلمات کے بقدر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اسی قدر اس کی تعریف وثناء کرتا ہوں۔ مسند احمد بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۰۴۶۔ کیا تم میں سے کوئی ہر روز جمل احد کے بقدر سونا نہیں کما سکتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کون اس کی ہمت رکھ سکتا ہے یا رسول اللہ! فرمایا تم سب اس کی ہمت رکھتے ہو! سبحان اللہ احد سے بڑھ کر ہے۔ لا الہ الا اللہ احد سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر احد سے بڑھ

کر ہے۔ الحمد للہ احد سے بڑھ کر ہے۔ الکبیر للطیرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ الراعی۔ ابن النجار بروایت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ

۲۰۴۷۔ کیا میں تم کو حضرت نوح علیہ السلام کی، حالت مرگ میں کی ہوئی اپنے بیٹے کو وصیت نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا: میں تجھے چار کلمات دیئے جا رہا ہوں۔ آسمان وزمین کا قیام انہی کے مدار پر ہے۔ اللہ کے ہاں بچنے والے کلمات میں سب سے اول ہیں۔ اور نکلنے والے کلمات میں سے بھی سب سے آخر میں ہیں۔ اگر تمام بنی آدم کے اعمال ان کے ساتھ وزن کئے جائیں تو یہ کلمات ان سے زیادہ وزن دار ہوں گے۔ سوال پر عمل کرو اور ان کو مضبوطی سے تھام لے۔ حتیٰ کہ توجھ سے آئے وہ کلمات یہ ہیں:

سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر

قسم ہے اس ذات والا صفات کی، جس کے ہاتھ میں نوح کی جان ہے اگر آسمان وزمین اور جو کچھ ان کے من میں ہے اور جو ان کے نیچے ہے سب کا ان کلمات کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ کلمات ان سے وزن دار نکلیں گے۔ الحکیم، الدیلمی بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

۲۰۴۸۔ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں، جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائے تھے انہوں نے بیٹے کو فرمایا: میں تجھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قلیب کا حکم کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر سارے آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ تب بھی اس کلمہ کا وزن ان سے زیادہ ہوگا۔ اور اگر سب آسمان اس کے مقابلہ میں ایک حلقہ ہو جائیں تو یہ سب کو توڑ کر نکل جائے

گا۔ اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ یہ ساری مخلوق کی نماز و تسبیح ہے۔ اسی کی بدولت سب کو رزق مہیا ہوتا ہے۔

ابن ابی شیبہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۰۴۹۔ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے اور میزان عمل میں بھاری اور رحمن کے ہاں محبوب ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمة الله عليه. ابن ابی شیبہ الصحيح لمسلم الصحيح للترمذی رحمة الله عليه الصحيح لابن

حنان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۰۵۰۔ ”سبحان اللہ“ نصف میزان ہے۔ ”الحمد للہ“ اس کو بھر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ آسمان و زمین کے درمیانی خلا کو بھر کر دیتا ہے۔

طہارت نصف ایمان ہے۔ نماز نور ہے۔ زکوٰۃ برہان ہے۔ صبر روشنی ہے۔ قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ ہر انسان صبح کو

نکلتا ہے اور اپنی جان فروخت کر آتا ہے۔ یا تو اس کو جہنم سے آزاد کرانے والا ہوتا ہے یا شیطان کے ہاتھوں فروخت کر کے اس کو قعر ہلاکت میں

دھکیل دیتا ہے۔ عبدالرزاق بروایت ابی سلمہ بن عبدالرحمن

سو غلام آزاد کرنے والا

۲۰۵۱۔ جس نے سو مرتبہ ”سبحان اللہ و بحمدہ“ کہا اس کے لئے سو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ اور جس نے سو مرتبہ ”الحمد للہ“

کہا اس کے لئے سو گھوڑے مع زین و لگام کے راہ خدا میں دینے کا ثواب ہوگا۔ اور جس نے سو مرتبہ ”اللہ اکبر“ کہا اس کے لئے سواونٹ مکہ میں

قربان کرنے کا ثواب ہوگا۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه شعب الإيمان بروایت ابی امامة رضی اللہ عنہ

۲۰۵۲۔ جس نے صبح و شام ہر دو وقت ”سبحان اللہ و بحمدہ“ سو مرتبہ کہا اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ

سے بھی زیادہ ہوں۔ الصحيح لابن حبان المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۰۵۳۔ ”اللہ اکبر“ سو بار کہو، وہ تیرے لئے سواونٹ اپنے پالان سمیت جو مکہ کو ہو لئے ہوں، ان سے بھی بہتر ہے۔ ”الحمد للہ“ سو بار کہو،

وہ تیرے لئے سو گھوڑے مع زین و لگام کے راہ خدا میں دینے سے بھی بہتر ہے۔ ”سبحان اللہ“ سو بار کہو، وہ تیرے لئے بنی اسماعیل کے سو غلام

اللہ کے لئے آزاد کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کہو، تجھے کوئی گناہ نہ پہنچ سکے گا۔ اور کوئی عمل اس سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔

مسند احمد او الحلیہ بروایت ام ہانی

۲۰۵۴۔ ”سبحان اللہ“ سو بار کہو، وہ تیرے لئے اللہ کے واسطے سو غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ ”الحمد للہ“ سو بار کہو، وہ تیرے لئے

سو گھوڑے مع زین و لگام کے راہ خدا میں دینے کے برابر ہوگا۔ ”اللہ اکبر“ سو بار کہو، وہ تیرے لئے سواونٹ اپنے پالان سمیت جو مکہ کو ہو لئے

ہوں، کے برابر ہوگا۔ اور لا الہ الا اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت کہو، تو شرک کے بعد تجھے کوئی گناہ نہ پہنچ سکے گا۔

الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابی امامة

شرک کے بعد تجھے کوئی گناہ نہ پہنچ سکے گا۔ یعنی شرک کے سوا ہر گناہ قابل معافی ہوگا نہ کہ قابل ہلاکت۔

۲۰۵۵۔ جس نے سو مرتبہ ”لا الہ الا اللہ“ کہا، اور سو مرتبہ ”سبحان اللہ“ کہا، اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔

الأدب للبخاری رحمة الله عليه بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۵۶۔ تین کلمات کا کہنے والا یا فرمایا کرنے والا خائب و خاسر نہیں ہوگا۔ ہر فرض نماز کے بعد تینتیس بار ”سبحان اللہ“۔ تینتیس بار

”الحمد للہ“۔ چونتیس بار ”اللہ اکبر“ ابن النجار بروایت کعب بن عجرة

گناہوں کی بخشش ہوگی

۲۰۵۷ جس نے غروب شمس کے وقت ستر بار ”سبحان اللہ“ کہا اس کے سارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

الدیلمی بروایت بھزین حکیم عن ابیہ عن حدہ

۲۰۵۸ جس نے کہا، اس کے لئے جنت میں ہزار درخت اگادیئے جائیں گے جن کی جڑیں سونے کی اور شاخیں موتیوں کی اور خوشے کنواری عورتوں کے پستان کی مانند کھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ جب بھی ان سے کچھ توڑا جائے گا، پھر دوبارہ وہ اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ جائے گا۔ التاريخ للحاکم الیدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

حدیث موضوع ہے۔ اس کی اصل نہیں۔ دیکھئے المتناہیہ ۱۳۹۲

۲۰۵۹ جس نے ایک بار اللہ عزوجل کی تسبیح کی یعنی سبحان اللہ کہا۔ یا ایک بار حمد کی یعنی ”الحمد لله“ کہا۔ یا ایک بار ”لا اله الا الله“ کہا۔ یا ایک بار ”الله اکبر“ کہا، اس کے لئے جنت میں ایک درخت اگادیا جاتا ہے۔ جس کی جڑ میں موتیوں سے جڑا ہوا سرخ یا قوت ہوتا ہے۔ اور خوشے کنواری عورتوں کے پستان کی مانند شہد سے زیادہ میٹھے اور کھن سے زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت سلمان

۲۰۶۰ جس نے سبحان اللہ العظیم کہا، اس کے لئے جنت میں ایک درخت آگ آتا ہے۔ اور جس نے قرآن پڑھا اور اس کو مضبوطی سے تھاما اور جو اس میں ہے، اسپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے، جس کی روشنی چاند کو ماند کرنے والی ہوگی۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

۲۰۶۱ سبحان اللہ کہنا اللہ کو ہر عیب سے منزہ قرار دینا ہے۔ الیدیلمی بروایت طلحہ

۲۰۶۲ اے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ذات ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاویہ رضی اللہ عنہ

۲۰۶۳ پاک ہے وہ ذات سلطنت و بزرگی والی، پاک ہے وہ ذات عزت و قدرت والی، پاک ہے وہ ذات جو زندہ کبھی اس کو فنا نہیں۔

الیدیلمی بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

باب پنجم..... استغفار اور تعویذ کے بیان میں

یہ باب دو فصلوں پر مشتمل ہے۔

فصل اول..... استغفار کے بیان میں

۲۰۶۴ استغفار نامہ اعمال میں نور بن کر چمکتا رہتا ہے۔ ابن عساکر۔ الفردوس للیدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاویہ بن حنبل

۲۰۶۵ جس کی نشا و خواہش ہو کہ اس کا نامہ اعمال اس کے لئے خوشگوار ثابت ہو تو اس کو چاہئے کہ اس میں استغفار کی کثرت کرے۔

شعب الایمان، الضیاء بروایت زبیر

۲۰۶۶ جس نے ہر فرض نماز کے بعد اللہ سے یوں استغفار کیا:

استغفر اللہ الذی لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں، جس کے سوا کوئی پرستش کا مستحق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور ہر شے اسی کے دم سے قائم ہے۔ اور میں اسی کی طرف رجوع و توبہ تائب ہوتا ہوں۔ تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ خواہ جنگ سے بھاگنے کا گناہ

کیوں نہ ہو؟ المسند لابی یعلیٰ ابن السنی بروایت البراء رضی اللہ عنہ

۲۰۶۶ جس نے ہر روز ستر بار اللہ سے استغفار کیا، اس کو چھوٹے لوگوں میں سے نہ لکھا جائے گا۔ اور جس نے ہر رات ستر بار اللہ سے استغفار

کیا، اس کو فلیین میں نہ شمار کیا جائے گا۔ ابن السنی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۰۶۷ جس نے مؤمن مرد و عورتوں کے لئے ہر مؤمن مرد و عورت کے بدلے ایک ایک نیکی لکھی جائے گی۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عبادة رضی اللہ عنہ

۲۰۶۸ جس نے مؤمن مرد و عورتوں کے لئے ہر روز ستائیس بار اللہ سے استغفار کیا، اس کو ستیاب الدعوات میں لکھا جائے گا جن کی دعائیں

قبول ہوتی ہیں اور ان کے طفیل اہل ارض کو رزق رسائی ہوتی ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۰۶۹ جس نے استغفار کی کثرت کی، اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر مشکل آسان فرمادیں گے اور ہر تنگی سے نجات کا راستہ فراہم فرمائیں گے۔

اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے روزی پہنچے گی جہاں اس کا وہم و گماں تک نہ جائے گا۔

مسند احمد المستدرک للحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۰۷۰ اللہ کی قسم! میں ہر روز ستر سے زیادہ مرتبہ بارگاہِ الہی میں توبہ استغفار کرتا ہوں۔

الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۰۷۱ استغفار گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ

۲۰۷۲ شیطان نے کہا: تیری عزت و جلال کی قسم، اے پروردگار! میں تیرے بندوں کو جب تک روح ان کے جسموں میں موجود ہے،

بہکا تا رہوں گا۔ پروردگار نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم، میں بھی، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، بخشش کرتا رہوں گا۔

مسند احمد، المسند لابی یعلیٰ المستدرک للحاکم بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۲۰۷۳ پروردگار بندے پر ازراہ رحمت و محبت تعجب فرماتا ہے، جب وہ کہتا ہے: اے پروردگار! میرے گناہ بخش دے، اور جانتا ہے کہ میرے

سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ ابو داؤد الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۰۷۴ دل بھی لوہے کی مانند رنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ان کی جلاء استغفار ہے۔

الحکیم الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۷۵ میرے دل پر بھی پردہ سا آ جاتا ہے۔ اور میں ایک دن میں سو سے زائد بار استغفار کرتا ہوں۔

مسند احمد، الصحيح لمسلم۔ ابو داؤد النسائی بروایت اغر المزنی

۲۰۷۶ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، میں ہر دن میں سو سے زائد بار توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ البغوی بروایت اغر

۲۰۷۷ میں ایک دن میں ستر سے زائد بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۰۷۸ میں اللہ سے ایک دن میں ستر سے زائد بار توبہ کرتا ہوں۔ النسائی الصحيح لابن حبان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۷۹ میں نے کوئی دن ایسا بسر نہیں کیا، جس میں اللہ سے سو بار استغفار نہ کی ہو۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۲۰۸۰ اگر تم استغفار کی کثرت کر سکتے ہو تو دریغ نہ کرو۔ کیونکہ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ نجات دہندہ اور محبوب کوئی شے نہیں ہے۔

الحکیم بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۰۸۱ اللہ نے میری امت کے لئے مجھ پر وہاں نازل کی ہیں:

وما کان اللہ ليعذبهم وانت فيهم وما کان اللہ معذبهم وهم يستغفرون

”جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا اور جب تک وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہیں گے“

تب بھی اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرنے گا۔“

سو جب میں گذر جاؤں گا تو قیامت تک کے لئے عذاب الہی سے امن کے واسطے تمہارے اندر استغفار چھوڑ جاؤں گا۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابی موسیٰ رضی الله عنه

۲۰۸۲ کیا میں تجھے سید الاستغفار نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے:

اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت
”اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا۔ میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنی ہمت و وسعت کے بقدر تیرے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان پر کار بند ہوں۔ اور اپنے کاموں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیری مجھ پر نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقراری ہوں۔ پس میرے گناہوں کو بخش دے یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔“

جو بندہ شام کو یہ کہتا ہے اور پھر صبح سے قبل اس کی موت آجاتی ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ صبح کو یہ کہتا ہے اور پھر شام سے قبل اس کی موت آجاتی ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت شداد بن اوس
۲۰۸۳ جس نے استغفار کو اپنے لئے لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر گنہی سے نجات کا راستہ فراہم فرمائیں گے اور ہر مشکل آسان فرمادیں گے۔ اور اس کو ایسی ایسی جگہ سے روزی پہنچائیں گے، جہاں اس کا وہم و گمان تک نہ ہوگا۔ ابو داؤد، ابن ماجہ بروایت ابن عباس رضی الله عنہما
۲۰۸۴ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں، کہ جب تم انہیں کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمادیں گے، خواہ پہلے ہو چکی ہو۔ کہو:

لا اله الا الله العلی العظیم لا اله الا الله الخلیم الکریم لا اله الا الله سبحان رب السموات ورب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین

”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عالی شان اور عظیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بردبار اور کریم ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہر عیب سے پاک اور آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔“ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت علی رضی الله عنه
خطیب نے اس کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے: جب تم ان کلمات کو کہو اللہ تاریخ الخطیب رحمة الله عليه گے اور ذرات کے برابر تمہارے گناہ ہوں گے تب بھی اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو بخش دیں گے۔

۲۰۸۵ سب سے بہتر دعا استغفار ہے۔ التاريخ للحاکم رحمة الله عليه. بروایت علی رضی الله عنه

۲۰۸۶ میری امت کے بہترین افراد وہ ہیں، کہ جب ان سے برائی سرزد ہو جاتی ہے تو استغفار کر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی نیکی کا کام انجام پا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ اور جب سفر پر گامزن ہوتے ہیں تو خدا کی رخصت قبول کرتے ہوئے نماز میں قصر اور زوں میں افطار کرتے ہیں۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه بروایت جابر رضی الله عنه

۲۰۸۷ کیا میں تجھے سید الاستغفار نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے:

اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت
”اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا۔ میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنی ہمت و وسعت کے بقدر تیرے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان پر کار بند ہوں۔ اور اپنے کاموں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیری مجھ پر نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقراری ہوں۔ پس میرے گناہوں کو بخش دے یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے

والا کوئی نہیں۔“

جس نے دن کے وقت اس کلمہ کو دل کے یقین کے ساتھ کہا اور پھر شام سے قبل موت نے آیا تو وہ اہل جنت میں شمار ہوگا۔

مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ النسائی بروایت شداد بن اوس

نسائی میں یہ اضافہ ہے کہ اور جس نے اس کلمہ کو رات کے وقت دل کے یقین کے ساتھ کہا اور پھر صبح سے قبل موت نے آیا تو وہ اہل جنت میں شمار ہوگا۔

۲۰۸۸ واہ کیا ہی خوشی کا مقام ہوگا اس شخص کے لئے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے گا۔

ابن ماجہ بروایت عبد اللہ بن بسر الحلیہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ مسند احمد فی الزهد بروایت ابی الدرداء موقوفاً

۲۰۸۹ ہر مرض کی دوا ہے۔ اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ الصحيح لمسلم بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۰۹۰ کوئی بندہ یا بندگی ہر دن اللہ سے ستر بار استغفار نہیں کرتے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے لئے سات سو گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ اور خائب

و خاسر ہووے بندہ اور بندگی جو دن و رات میں سات سو سے بھی زیادہ گناہ کرتا ہو۔ شعب الایمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۹۱ جو بندہ حالت سجدہ میں تین مرتبہ کہتا ہے ”اللھم اغفر لی“، تو اس کے ستر اٹھانے سے قبل ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت والد ابی مالک الأشجعی

الإِکْمَالُ

۲۰۹۲ کیا میں تمہیں تمہارا مرض اور اس کی دوا نہ بتاؤں؟ تمہارا مرض گناہ ہیں اور تمہاری دوا استغفار ہے۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۰۹۳ زمین میں دوا امن نامے ہیں۔ میں امن ہوں۔ اور استغفار امن ہے۔ مجھے تو اٹھایا جائے گا۔ لیکن استغفار والا امن باقی رہ جائے

گا۔ پس تم پر ہر نئے وقوع اور ہر گناہ کے وقت استغفار لازم ہے۔ الدیلمی بروایت عثمان بن ابی العاص

در حقیقت یہ حدیث آیت ذیل کی تفسیر ہے:

وما کان اللہ ليعذبہم وانت فیہم وما کا اللہ معذبہم وهم یستغفرون

”جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا اور جب تک وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہیں گے

تو بھی اللہ ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔“

۲۰۹۴ بندہ مستقل عذاب الہی سے امن میں ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتا رہے۔

ابن عساکر بروایت یعقوب بن محمد بن فضالہ بن عبید عن ابنہ عن جدہ

۲۰۹۵ ادا کی حقوق اور حفظ امانات میرا اور مجھ سے قبل انبیاء کا قرض رہا ہے۔ اور تم کو وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں، جو تم سے قبل کسی امت کو نہیں

عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے استغفار کو قرب کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور تمہاری پانچ نمازوں کو اذان و اقامت کے ساتھ بنایا ہے، تم سے پہلے

کسی امت نے ان کو نہیں پڑھا۔ سو اپنی نمازوں پر محافظت کرو۔ اور جو بندہ فرض نماز کے بعد دس بار استغفار کرے گا تو اس کے اپنی جگہ سے

کھڑے ہونے سے قبل اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ خواہ وہ ریت کے ذرات سے اور تہامہ کے پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں۔

التاریخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

فرماتے ہیں یہ روایت بہت ہی منکر ناقابل اعتبار ہے۔ ابو عمرو القاسم بن عمرو بن عبد اللہ بن مالک بن ابی ایوب الأنصاری

۲۰۹۶ جب بندہ اللہ سے یوں استغفار کرتا ہے:

استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ

”میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں، جس کے سوا کوئی پرستش کا مستحق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور ہر شے اسی کے دم سے قائم ہے۔ اور میں اسی کی طرف رجوع و توبہ بتا رہا ہوں۔“

تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ خواہ جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیوں نہ ہو؟

التاریخ للخطیب رحمة الله عليه ابن النجار بروایت دینار ابن عساکر بروایت انس رضی الله عنه ۲۰۹۷۔ بندہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو کہتا ہے: اے پروردگار! میری بخشش فرمادے، فرشتے کہتے ہیں: اے رب! بندے کو یہ گناہ زریب نہیں دیتا۔ پروردگار عزوجل فرماتے ہیں: لیکن مجھے زریب دیتا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ الحکیم بروایت انس رضی الله عنه ۲۰۹۸۔ کوئی بندہ غروب شمس کے وقت جب دن کا اعمال نامہ بند ہوتا ہے، استغفار نہیں کرتا، مگر اس سے پہلے کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں۔

الدیلمی بروایت ابی الدر داؤد رضی الله عنه

غروب شمس کے وقت استغفار کرنا

۲۰۹۹ جو بندہ غروب شمس کے وقت ستر بار استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سات سو گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔ اور انشاء اللہ کوئی بندہ دن و رات میں سات سو سے بھی زیادہ گناہ نہ کرتا ہوگا۔ الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه

۲۱۰۰ ابلیس نے اپنے رب کو کہا: تیری عزت و جلال کی قسم، اے پروردگار! میں تیرے بندوں کو جب تک روح ان کے جسموں میں موجود ہے، بہکا تا رہوں گا۔ پروردگار نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم، میں بھی، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، بخشش کرتا رہوں گا۔

الحلیہ بروایت ابی سعید رضی الله عنه

۲۱۰۱ ماہِ رجب میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ کیونکہ اس ماہ کی ہر گھڑی میں اللہ کی طرف جہنم سے لوگوں کو آزا د کیا جاتا ہے اور بہت سے اللہ کے شہر ہیں، جن میں وہی داخل ہو سکتے ہیں، جو ماہِ رجب میں روزے رکھیں۔ الدیلمی بروایت علی رضی الله عنه

حدیث نہایت ضعیف ہے۔ دیکھئے: تذکرۃ الموضوعات ۱۱۶۔ التزییح ۲ ص ۳۳۵۔ ذیل المآلیٰ ۱۱۵۵ الفوائد مجموعۃ ۱۲۶۱

۲۱۰۲ دل بھی لوہوں کی مانند رنگ آلود ہو جاتا ہے۔ ان کی جلاء استغفار ہے۔ شعب الایمان بروایت انس رضی الله عنه

۲۱۰۳ ہرزنگ کے لئے کوئی جلاء بخشش کی چیز ہوتی ہے۔ اور دلوں کی جلاء بخشش چیز استغفار ہے۔ الدیلمی بروایت انس رضی الله عنه

۲۱۰۴ جس نے ہر نماز کے بعد اللہ عزوجل سے ستر مرتبہ استغفار کیا، اس کے کئے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ دنیا سے اس وقت تک نہ جائے گا جب تک کہ اپنی حقیقتی بیویوں اور اپنے محلات کو نہ دیکھ لے۔ الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه

۲۱۰۵ جس نے ستر مرتبہ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سات سو گناہ بخش دیں گے اور حجاب و خاسرہ ہو وہ شخص، جو ایک دن رات میں سات سو سے زیادہ گناہ کرے۔ الحسن بن سفیان الدیلمی بروایت انس رضی الله عنه

۲۱۰۶ جس نے تین بار کہا:

استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

”میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں، جو عظیم ہے، جس کے سوا کوئی پرستش کا مستحق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہر شے اسی کے دم سے قائم ہے۔ اور میں اسی کی طرف رجوع و توبہ بتا رہا ہوں۔“

تو اس کے تمام گناہ خواہ وہ ریت کے ذرات، سمندر کے جھاگ اور آسمان کے تاروں سے زیادہ ہوں۔ ابن عساکر بروایت ابی سعید جس نے تین بار کہا:

۲۱۰۷

استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه

”میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں، جس کے سوا کوئی پرستش کا مستحق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور ہر شے اسی کے دم سے قائم ہے۔ اور میں اسی کی طرف رجوع و توبہ تائب ہوتا ہوں۔“

تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ خواہ جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیوں نہ ہو؟

المستدرک للحاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۱۰۸ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ، واستغفر اللہ واتوب الیہ کہا، تو اس کلمہ کو اسی طرح لکھ دیا جاتا ہے، جس طرح کہنے والے نے کہا۔ پھر اس کو عرش خداوندی پر معلق کر دیا جاتا ہے۔ تاکہ بندہ کے کئے ہوئے گناہ معاف کرتا رہے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملے اور وہ اس کو اسی طرح مہر زدہ پائے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۱۰۹ جس نے کہا:

استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ

”میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں“ جس کے سوا کوئی پرستش کا مستحق نہیں۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے۔ اور ہر شے اسی کے سہارے قائم ہے۔ اور میں اسی کی طرف رجوع و توبہ تائب ہوتا ہوں۔“

تو اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ خواہ جنگ سے بھاگنے کا گناہ کیوں نہ ہو؟ الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ غریب ہے۔

ابن سعد البغوی ابن مسعود الباوردی الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ السنن لسعید ابن عساکر بروایت نلال بن یسار عن زید مولی رسول اللہ ﷺ عن ابیہ عن حدہ

قال البغوی میں بلال کی کوئی اور حدیث نہیں جانتا۔

ابن عساکر بروایت انس رضی اللہ عنہ، ابن ابی شیبہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ و معاذ موقرفاً علیہم

۲۱۱۰ اللہ کے ہاں بلند مقام کا کلمہ یہ ہے

اللہم انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت ذنبی ولا یغفر الذنوب الا انت ای رب فاغفر لی

”اے اللہ تو میرا رب ہے۔ میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا۔ سو میں اپنے گناہ کا معترف ہوں۔ اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ پس اے رب میرے گناہ معاف فرما دے۔“

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی مالک الأشعری

۲۱۱۱ تم سید الاستغفار سیکھو

اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من

شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی انه لا یغفر الذنوب الا انت

”اے اللہ تو ہی میرا رب ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہی مجھے پیدا کیا۔ میں تیرا بندہ ہوں۔ اپنی ہمت و وسعت کے بقدر

تیرے ساتھ کئے ہوئے عہد و پیمان پر کار بند ہوں۔ اور اپنے کاموں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تیری مجھ پر نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں

اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہی ہوں۔ پس میرے گناہوں کو بخش دے۔ یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔“

عبد بن حمید ابن السنی فی عمل الیوم واللیلۃ السنن لسعید المسند لابی یعلی بروایت حابر رضی اللہ عنہ

۲۱۱۲ بہترین دعا استغفار ہے۔ اور بہترین عبادت لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ الحاکم فی التاریخ بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۱۱۳ میں اللہ سے دن میں ستر بار توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ابن ماحہ بروایت ابی موسی رضی اللہ عنہ

۲۱۱۴ میں اللہ سے دن میں سو بار توبہ استغفار کرتا ہوں۔

ابن ابی شیبہ ابن ماحہ ابن السنی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی موسی رضی اللہ عنہ

۲۱۱۵ میں اللہ سے دن میں ستر سے زیادہ بار توبہ استغفار کرتا ہوں۔ مسند احمد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۱۶ اسے حذیفہ! تو استغفار کرنے سے کہاں رہ گیا؟ میں تو دن رات میں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔

مسند احمد، النسائی الصحيح للترمذی رحمة الله عليه. ابو داؤد الطيالسی. وهنا ابو داود، ابن ماجه. المستدرک للحاکم

المسند لأبى يعلى الرويانى شعب الإيمان الحلیه. السنن لسعيد بروایت حذیفه رضی اللہ عنہ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تیز زبان آدمی ہوں تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب فرمایا۔

۲۱۱۷ اے لوگو! اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہا کرو، میں بھی دن رات میں سو یا سو سے زائد بار توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ابن ابی شیبہ۔ مسند

احمد، الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه. ابن مردويه بروایت ابی بردة عن رجل من المهاجرين الحکیم بروایت ابی بردة عن الآخر

دوسری فصل..... تعوذ کے بیان میں

۲۱۱۸ جس نے اللہ کی پناہ مانگی، اس نے مضبوط جائے پناہ مانگی۔ مسند احمد بروایت عثمان و ابن عمر

۲۱۱۹ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ زندگی و موت کے فتنے سے اللہ کی

پناہ مانگو۔ الصحيح لمسلم النسائی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۲۰ شیطان کو برا بھلا کہنے کی بجائے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ الملخص بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۲۱ جن کلمات کے ساتھ تعوذ کیا جاتا ہے... کیا میں ان میں سب سے افضل کلام نہ بتاؤں؟ وہ قرآنی دو سورتیں ہیں ”قل اعوذ برب

القلق اور قل اعوذ برب الناس“ ہیں۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

۲۱۲۲ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کو کہہ لے تو جو وساوس وہ محسوس کرتا ہے، سب دفع ہو جائیں گے۔ ”اعوذ باللہ من

الشیطان الرجیم“ کہ اگر اس کو کہہ لے تو وساوس دور ہو جائیں گے۔ مسند احمد بخاری و مسلم، النسائی بروایت سلیمان بن صرد

۲۱۲۳ اعوذ باللہ الذی لا اله الا انت الذی لاتموت، والجن والإنس یموتون

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تجھے کبھی فنا نہیں۔ جبکہ جن و انس ہر مخلوق فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے۔

الصحيح للبخاری رحمة الله عليه بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۱۲۴ اعیذک باللہ الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد من شر ماتجد یا عثمان

”اے عثمان! میں تجھے اس بیماری سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو یکتا و بے نیاز ہے۔ جس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ اس کو جنم دیا گیا

ہے۔ اور کوئی اس کا ہمسرو تانی نہیں۔“

ان کلمات کے ساتھ تعوذ کر۔ تو نے ایسے کلمات کے ساتھ تعوذ نہیں کیا ہے۔

مسند احمد ابو داؤد الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

مریض خود تعوذ کرے تو اعیذک باللہ کے بجائے اعوذ باللہ کہے۔

۲۱۲۵ اعیذک باللہ الأحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد من شر ماتجد یا عثمان

”میں تجھے اس بیماری سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو یکتا و بے نیاز ہے۔ جس نے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ اس کو جنم دیا گیا ہے۔

اور کوئی اس کا ہمسرو تانی نہیں۔“

یہ سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جس نے اس کے ساتھ تعوذ کیا، اس نے اللہ کی اس نسبت کے ساتھ تعوذ کیا جس سے وہ اپنے

لئے خوش ہے۔ الحکیم بروایت عثمان

الاکمال

۲۱۲۶ ہاے ابو ذر! انس و جن کے شیاطین سے خدا کی پناہ مانگو۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ فرمایا: جی ہاں۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! نماز کیا ہے؟ فرمایا: بہترین عمل مقرر کیا گیا ہے۔ کوئی کم کرے یا زیادہ۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! روزہ؟ فرمایا: کفایت شعاری کا سبق انگیز فرض ہے۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! صدقہ؟ فرمایا: وہ عمل ہے جس میں اضافہ دراضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر کونسا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: تھوڑے میں سے تھوڑا خرچ کرنا۔ اور فقیر کو رازداری کے ساتھ دینا۔ عرض کیا: کون سے نبی اول اول تھے؟ فرمایا: آدم۔ عرض کیا: سب سے اول نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے؟ فرمایا: جی ہاں اور ان پر کلام یعنی صحیفہ بھی پیش کیا گیا تھا۔ عرض کیا: رسول کتنے گزرے ہیں؟ فرمایا: تین سو دس سے کچھ زائد۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر جو نازل کیا گیا، اس میں عظیم ترین شے کوئی ہے؟ فرمایا: آیۃ الکرسی۔ ابو داؤد الطیالسی۔ مسند احمد النسائی۔ المسند لأبی یعلیٰ المستدرک للحاکم۔ شعب الإیمان السنن

لسعید بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی امامۃ رضی اللہ عنہ

۲۱۲۷۔ جب شیطان پر لعنت کی جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے: وہ تو پہلے سے ملعون ہے، جس پر تو لعنت کر رہا ہے۔ اور لیکن اگر اعوذ باللہ پڑھ کر اس

سے اللہ کی پناہ مانگو تو وہ کہتا ہے: تو نے میری کمزوری۔ الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۲۸ آدمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم سڑ جائے گی اور اس کے حصے ایک دوسرے میں جکڑ جائیں گے۔ اس کیفیت کے ساتھ گویا وہ

اس شخص کو اپنے اندر جگہ دینے سے انکار کرے گی۔ حرم اس سے دریافت فرمائیں گے: کیا بات ہے؟ وہ کہے گی: یہ شخص مجھ سے پناہ

مانگتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے: میرے بندے کو چھوڑ دو۔ الدیلمی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۱۲۹۔ اے حابس! جن کلمات کے ساتھ تعوذ کیا جاتا ہے۔ کیا ان میں سب سے افضل کلام نہ بتاؤں؟ وہ قرآنی دو سورتیں ہیں "قل اعوذ

برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس" یہ معوذتین ہیں۔ شعب الإیمان بروایت ابو حابس الجہنی

۲۱۳۰۔ اے عقبہ! ان کے ساتھ تعوذ کرو۔ کیونکہ کسی معوذتے نے ان جیسے کلام کے ساتھ تعوذ نہیں کیا۔ یعنی سورۃ المعوذتین۔

ابو داؤد شعب الإیمان بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

۲۱۳۱۔ میں تیری ناراضگی سے تیری رضاء کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیرے غضب سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیرے عذاب سے تیری

رحمت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور تجھ سے تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ میں مکاحقہ تیری مدح و ثناء کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس تو ایسا ہی ہے، جیسا تو نے

خود اپنی توصیف بیان فرمائی۔ الدار قطنی فی الافراد بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۱۳۲۔ میں تیری ناراضگی سے تیری رضاء کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور تجھ سے تیری ہی پناہ

مانگتا ہوں۔ میں مکاحقہ تیری مدح و ثناء کرنے تک رسائی نہیں پاسکتا۔

المستدرک للحاکم السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۱۳۳۔ میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ زندگی و موت کے

فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ المستدرک للحاکم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۱۳۴۔ میں اس دل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو ڈرے نہیں۔ اور اس علم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو نفع نہ دے۔ اور اس دعا سے اللہ کی پناہ

مانگتا ہوں، جو سنی نہ جائے۔ اور اس نفس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جو کبھی سیر نہ ہو۔ اور بھوک سے، کہ وہ براسا سنی ہے۔

ابن ابی شیبہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۱۳۵۔ میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور ہلاکت ہے اہل جہنم کے لئے۔ ابن ماحہ ابو داؤد بروایت عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ

۲۱۳۶ میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ مسیح و جال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ زندگی و موت کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ابن ابی شیبہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۳۷ میں کفر اور قرض سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ عرض کیا گیا: کیا آپ کفر کو قرض کے برابر ٹھراتے ہیں؟ فرمایا: جی ہاں۔

مسند احمد، عبد بن حمید، المسند لأبى يعلىٰ الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم، السنن لسعيد بروایت ابى سعيد

باب ششم..... آپ ﷺ پر درود کے بیان میں

۲۱۳۸ میرے پاس میرے پروردگار کا ایک قاصد آیا اور کہا: آپ کی امت کا جو فرد آپ پر ایک درود بھیجے گا، اللہ اس کے لئے دس نیکیاں لکھیں گے اور دس برائیاں مٹا دیں گے اور اس کے دس درجات بلند فرمائیں گے۔ مسند احمد السنن لسعيد بروایت ابى طلحة رضی اللہ عنہ

۲۱۳۹ ہر جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ شعب الایمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

الکامل لابن عدی رحمة الله عليه بروایت انس رضی اللہ عنہ السنن لسعيد بروایت الحسن و خالد بن معدان

۲۱۴۰ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ کیونکہ وہ ملائکہ کی حاضری کا دن ہے۔ اور کوئی مجھ پر درود نہیں پڑھتا مگر وہ ضرور مجھ پر پڑھنے والے کی فراغت تک پیش کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۱۴۱ ہر جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ پس جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوتا ہے وہی مجھ سے قریب تر ہوتا ہے۔ شعب الایمان بروایت ابی امامة رضی اللہ عنہ

۲۱۴۲ ہر جمعہ کے دن اور اس کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ جو ایسا کرے گا میں روزِ محشر کو اس کے لئے گواہ اور شفاعت کنندہ بنوں گا۔

شعب الایمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۱۴۳ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ کیونکہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور میرے لئے درجہ و وسیلہ طلب کرو۔ کیونکہ میرے رب کے ہاں میرا مقام وسیلہ پر فائز ہونا تمہارے لئے شفاعت کا باعث ہوگا۔

ابن عساکر بروایت الحسن بن علی رضی اللہ عنہ

۲۱۴۴ لوگوں میں بخیل ترین شخص وہ ہے، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ الحارث بروایت عوف بن مالک

۲۱۴۵ روزِ محشر مجھ سے قریب تر وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔

التاریخ للبخاری رحمة الله عليه الصحيح للترمذی رحمة الله عليه الصحيح لابن حبان بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۱۴۶ لوگوں میں بخیل شخص وہ ہے، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمة الله عليه النسائی بروایت الحسن بن علی رضی اللہ عنہ

۲۱۴۷ تم جہاں کہیں بھی ہو، مجھ پر درود بھیجو۔ کیونکہ مجھ پر تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه بروایت الحسن بن علی رضی اللہ عنہ

۲۱۴۸ ہلاک ہووے شخص جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور ہلاک ہووے شخص جس پر ماہِ رمضان آجائے اور اس کی بخشش سے قتل چلا جائے۔ اور ہلاک ہووے شخص جس کے پاس اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ اس کو اس کی خدمت کی بدولت جنت میں داخل نہ کرادیں۔ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۴۹ مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور تابت ہوگا۔ سو جس نے جمعہ کے روز مجھ پر اسی مرتبہ درود بھیجا اس کے اسی سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ الأزدی فی الضعفاء الدار قطنی فی الأفراد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف الجامع ۳۵۶۲

- ۲۱۵۰ کہو ترجمہ اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود نازل فرمائے، جیسے کہ آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر جہاں میں درود نازل فرمایا۔ بے شک آپ مستحق حمد اور بزرگ صفات ذات ہیں۔ السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو داؤد النسائی ابن ماجہ بروایت کعب بن عجرہ
- ۲۱۵۱ بخل کے لئے اتنا کافی ہے کہ کسی کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ السنن لسعید بروایت الحسن مرسلہ
- ۲۱۵۲ اس شخص کے بخل میں کوئی دقیقہ نہیں، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۵۳ ہر دعا پڑھے میں ہوتی ہے جب تک کہ نبی ﷺ پر درود بھیجا جائے۔

- الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ شعب الإیمان بروایت علی رضی اللہ عنہ موقوفاً
- ۲۱۵۴ میری امت کا کوئی بندہ صدق دل کے ساتھ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، مگر اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے۔ اور اس کی دس برائیاں محو فرماتا ہے۔ العلیہ بروایت سعید بن عمرو الأنصاری
- ۲۱۵۵ کوئی بندہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، مگر ملائکہ اس پر اس وقت کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ پس بندہ کا اختیار ہے، اس میں کمی کرے یا اضافہ کرے۔ مسند احمد ابن ماجہ الضیاء بروایت عامر بن ربیعہ
- ۲۱۵۶ کس قدر ظلم ہے کہ کسی شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ المصنف لعبد الرزاق بروایت قتادہ مرسلہ
- ۲۱۵۷ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ یقیناً شقی انسان ہے۔ ابن السنی بروایت جابر رضی اللہ عنہ
- ۲۱۵۸ جس کے پاس میرا ذکر ہو، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے سے خطا کر جائے تو وہ شخص جنت کا راستہ بھی خطا کر جائے گا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت الحسن

- ۲۱۵۹ جس کے پاس میرا ذکر ہو، اسے چاہئے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے۔ کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ النسائی بروایت انس رضی اللہ عنہ
- ۲۱۶۰ جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اور حقیقت وہ جنت کا راستہ خطا کر گیا۔ ابن ماجہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
- ۲۱۶۱ کوئی مجھ پر سلام نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ میری روح مجھ میں لوٹاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔
- ابو داؤد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۲۱۶۲ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔

مسند احمد الصحیح لمسلم ۳ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

- ۲۱۶۳ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی دس برائیاں محو فرماتا ہے۔ اور دس درجات بلند فرماتا ہے۔ مسند احمد الأدب للنخاری رحمۃ اللہ علیہ النسائی المستدرک للحاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ
- ۲۱۶۴ جس نے صبح و شام کے وقت مجھ پر دس بار درود بھیجا روز قیامت اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

- ۲۱۶۵ جس نے میری قبر کے پاس درود پڑھا اسے میں خود سنوں گا اور جس نے دور سے مجھ پر درود پڑھا وہ مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔
- شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۲۱۶۶ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک قبر اطوار لکھیں گے۔ اور قبر اطوار کے برابر ہوگا۔
- المصنف لعبد الرزاق بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۱۶۷۔ مجھ پر درود پڑھو۔ کیونکہ مجھ پر تمہارا درود تمہارے لئے زکوٰۃ و پاکیزگی ہے۔

ابن ابی شیبہ، ابن مردویہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۶۸۔ مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ بروایت ابن عمرو و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما

۲۱۶۹۔ مجھ پر درود پڑھو اور دعائیں خوب الخراج و زاری کرو اور کہو۔

مسند احمد، النسائی، ابن سعد، سموہ البغوی، البارودی ابن قانع الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت زید بن خارجه

۲۱۷۰۔ اللہ کے انبیاء و رسل پر درود پڑھو۔ کیونکہ ان کو بھی اللہ ہی نے مبعوث فرمایا تھا، جس طرح مجھے مبعوث

فرمایا ہے۔ ابن ابی عمر شعب الایمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہمہ تاریخ اللخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۱۷۱۔ جب تم مجھ پر درود کا تذکرہ کرو تو دیگر انبیاء پر بھی درود پڑھو۔ کیونکہ وہ بھی مبعوث کئے گئے ہیں جیسے مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔

الشاشی ابن عساکر بروایت وائل بن حجر

۲۱۷۲۔ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا: اے محمد! کیا آپ اس پر خوش نہیں کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا: آپ پر آپ کی

امت کا کوئی فرد ایک بار درود نہیں بھیجے گا مگر میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا۔ آپ کی امت کا کوئی فرد آپ پر ایک بار سلام نہیں کرے گا مگر میں

اس پر دس سلامتی بھیجوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اس پر کیوں خوش نہ ہوں؟ اے پروردگار!

مسند احمد، النسائی، الصحیح لابن حبان المستدرک للحاکم الضیاء بروایت ابی طلحة

۲۱۷۳۔ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا: اے محمد! آپ کی امت کا جو فرد آپ پر ایک درود بھیجے گا، اللہ اس کے لئے دس

نیکیاں لکھیں گے اور دس برائیاں مٹادیں گے اور اس کے دس درجات بلند فرمادیں گے۔ اور فرشتہ بھی اس کو یوں ہی دعا دے گا جس طرح اس نے

آپ پر درود بھیجا۔ میں نے پوچھا اے جبرئیل! وہ فرشتہ کونسا ہے؟ جواب دیا کہ جب سے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا ہے آپ کی بعثت تک آپ

پر درو فرشتے مقرر فرمادیئے ہیں کہ جو بھی آپ کی امت کا فرد آپ پر درود بھیجے تو وہ فرشتہ اس کو کہے: اللہ بھی تجھ پر رحمت نازل فرمائے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی طلحة رضی اللہ عنہ

۲۱۷۴۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا: اے محمد! کیا آپ اس پر خوش نہیں کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا: آپ پر آپ کی امت کا کوئی فرد

ایک بار درود نہیں بھیجے گا مگر میں اس پر دس رحمتیں نازل کروں گا۔ آپ کی امت کا کوئی فرد آپ پر ایک بار سلام نہیں کرے گا مگر میں اس پر دس

سلامتی بھیجوں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اس پر کیوں خوش نہ ہوں؟ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی طلحة رضی اللہ عنہ

۲۱۷۵۔ جس کی خواہش ہو کہ اس کا اعمال نامہ بڑی ترازو میں ٹلے، تو اسے چاہئے کہ جب وہ ہم اہل بیت پر درود بھیجے تو یوں کہے:

”اے اللہ! محمد پر اور آپ کی ازواج امہات المؤمنین پر اور آپ کی ال پر اور آپ کے گھر والوں پر یونہی درود و رحمت بھیج، جس طرح

آپ نے ال ابراہیم پر بھیجا۔ بے شک آپ ستودہ صفات بزرگ ہستی ہیں۔“ النسائی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۷۶۔ ہر جمعہ کے دن اور اس کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ الشافعی بروایت صفوان بن سلیم

۲۱۷۷۔ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جن کے ساتھ چاندی کے صحیفے اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ

جمعرات دن کو اور جمعہ کی رات کو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ ابن عساکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۷۸۔ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ کیونکہ جمعہ کے دن جو مجھ پر درود پڑھا جاتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

المستدرک للحاکم شعب الایمان بروایت ابی مسعود الأنصاری

۲۱۷۹۔ جمعہ کے دن اور اس کی شب مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔

بیہقی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۱۸۰۔ جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ شعب الایمان بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۱۸۱ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو کیونکہ اللہ نے میری قبر کے ایک فرشتہ کو مقرر فرمایا ہے۔ پس جب میری امت کا کوئی فرد مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے: اے محمد! فلاں بن فلاں نے اس وقت آپ پر درود پڑھا ہے۔ الفر دوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی بکر

الاکمال

۲۱۸۲ مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا تمہارے لئے پاکیزگی کا سبب ہے۔ اور اللہ سے میرے لئے مقام وسیلہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جسے ایک شخص کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں۔ ہنا ابو داؤد البزار بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۸۳ ان کلمات کو جبریل علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں شمار کیا اور کہا کہ اسی طرح یہ پروردگار رب العزت کی طرف سے نازل کئے گئے ہیں:

”اے اللہ! محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔ بے شک آپ سزاوار حمد اور بزرگ ہستی ہیں۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک آپ سزاوار حمد اور بزرگ ہستی ہیں۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک آپ سزاوار حمد اور بزرگ ہستی ہیں۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر سلامتی نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر سلامتی نازل فرمائی۔ بے شک آپ سزاوار حمد اور بزرگ ہستی ہیں۔“

شعب الإیمان حدیث ضعیف ہے۔ الدیلمی بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۲۱۸۴ کہو

”اے اللہ! محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر سلامتی نازل فرمائی۔ بے شک آپ سزاوار حمد اور بزرگ ہستی ہیں۔“ شعب الإیمان حدیث ضعیف ہے۔ الدیلمی بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۲۱۸۵ کہو

”اے اللہ! محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔ اور محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم پر جہاں میں برکت نازل فرمائی۔“

اور سلام کس طرح بھیجے وہ تم کو معلوم ہے۔ عبدالرزاق بروایت محمد بن عبد اللہ بن یزید

۲۱۸۶ کہو

”اے اللہ! اپنی رحمتیں اور برکتیں محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک آپ سزاوار حمد اور بزرگ ہستی ہیں۔“ مسند احمد بروایت بريدة

حدیث ضعیف ہے۔

۲۱۸۷ کہو

”اللہ! محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر برکت نازل فرما جیسے آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک آپ سزاوار حمد اور بزرگ ہستی ہیں۔“

اور سلام کس طرح بھیجے وہ تم کو معلوم ہے۔ ابن عساکر بروایت الحکم بن عبد اللہ عن القاسم عن عائشہ رضی اللہ عنہا

پس منظر! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! ہمیں جمعہ کی رات اور دن کو آپ پر کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ اور ہمارے پڑھنے کا سب سے اچھا درود وہی ہے جو آپ پسند کریں تو آپ بتائیے ہم کو سادہ درود پڑھیں تب آپ ﷺ نے ارشاد بالا فرمایا۔

اس روایت کا راوی الحکم انتہائی جھوٹا شخص ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تمام مرویات من گھڑت ہیں۔ جس نے محمد ﷺ پر درود بھیجا اور یوں کہا:

”اے اللہ! ان کو قیامت کے روز اپنے پاس مقرب ٹھکانہ بخشے، تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔“

مسند احمد ابن قانع بزواہد روایع بن ثابت

۲۱۸۹ جس نے کہا:

”اے اللہ! محمد پر درود نازل فرما اور ان کو قیامت کے روز اپنے پاس مقرب ٹھکانہ بخشے، تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔“

مسند احمد الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، البغوی بروایت روایع بن ثابت

۲۱۹۰ اللہ سے میرے لئے مقام وسیلہ مانگو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جسے ایک شخص کے سوا کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مردويه بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۹۱ اللہ سے میرے لئے مقام وسیلہ مانگو۔ کیونکہ کوئی بندہ دنیا میں میرے لئے اس کی دعائیں کرتا مگر قیامت کے روز میں اس کے لئے گواہ اور سفارشی بنوں گا۔ ابن ابی شیبہ، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مردويه بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

اس میں ایک راوی موسیٰ بن عبیدہ ہے۔

۲۱۹۲ جس نے اللہ سے میرے لئے مقام وسیلہ مانگا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہوگی۔ ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۱۹۳ جب تم مجھ پر درود پڑھو تو اچھی طرح درود پڑھو۔ کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ وہ مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ برطابق منتخب کے آئندہ حدیث اسی کے ساتھ متصل ہے۔ اس صورت میں اس کا حوالہ اس کے لئے کافی ہے۔

۲۱۹۴ کہو:

”اے اللہ! اپنی رحمتیں اور برکتیں سید المرسلین پر نازل فرما، جو امام المتقین، خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بندے اور رسول ہیں امام الخیر، قائد الخیر اور امام الرحمة ہیں۔ اے اللہ! ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما، جس پر اولین و آخرین رشک کریں گے۔“

الدیلمی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ظاہر یہ ہے کہ یہ روایت آپ رضی اللہ عنہ پر موقوف ہو۔

۲۱۹۵ تم مجھ پر اپنے ناموں اور علامات کے ساتھ پیش کئے جاتے ہو، سو مجھ پر اچھی طرح درود پڑھو۔

عبد الرزاق بروایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ

یہ حدیث مرسل صحیح ہے۔

۲۱۹۶ کوئی بندہ میری قبر کے پاس مجھ پر درود نہیں بھیجتا، مگر اللہ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمادیتے ہیں جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اور اس بندہ کے دنیا و آخرت کے کاموں کی کفالت کردی جاتی ہے۔ اور قیامت کے روز میں اس کے لئے گواہ اور شفاعت کنندہ بنوں گا۔

شعب الإیمان بزواہد روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۹۷ جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھا میں خود اس کو سنوں گا اور جس نے دور سے پڑھا، اللہ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ اور اس بندہ کے دنیا و آخرت کے کاموں کی کفالت کردی جاتی ہے۔ اور میں اس کے لئے گواہ اور شفاعت کنندہ

بنوں گا۔ شعب الإیمان. الخطیب بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۹۸... جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھا میں خود اس کو سنوں گا اور جس نے دور سے پڑھا، اس کا بھی مجھے علم ہو جائے گا۔

ابو الشیخ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۱۹۹... میری قبر کو عید نہ بناؤ، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور تم جہاں کہیں ہو مجھ پر درود و سلام بھیجو۔ تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچ جائے گا۔

الحکیم بروایت علی بن الحسین عن ابیہ عن جدہ

میری قبر کو عید نہ بناؤ، کا مطلب ہے کہ اس کو اس قدر مرجح نہ بناؤ کہ اس پر شرک و بدعت پرستی شروع کر دو۔ جیسا کہ فی زمانہ اولیاء کے مقبروں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔

۲۲۰۰... کوئی مجھ پر سلام نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ میری روح مجھ میں لوٹاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔

ابوداؤد السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۲۰۱... کوئی بندہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، مگر ملائکہ اس پر اس وقت تک کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ پس

بندہ کا اختیار ہے، اس میں کمی کرے یا اضافہ کرے۔ شعب الإیمان بروایت عامر بن ربیعہ

۲۲۰۲... تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں آدم کی تخلیق ہوئی۔ پھر اسی میں ان کی روح قبض ہوئی۔ اسی میں صور ابل و ثانی پھونکا جائے گا۔ سو اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول

اللہ! ہمارا درود پڑھنا آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ فرمایا: اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسم حرام فرمادیئے ہیں۔

مسند احمد ابن ابی شیبہ. السنن ابوداؤد. ابن ماجہ الدارمی. ابن خزیمہ. الصحیح لابن حبان. المستدرک للحاکم

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ. السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ. السنن لسعید بروایت اوس بن اوس الثقفی

مصنف نے یہی روایت ”کتاب الصلاة“ میں بیان کی تو وہاں شہاد بن اوس راوی کا حوالہ دیا ہے۔ امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ

مصنف کا وہم ہے۔

۲۲۰۳... کوئی بندہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، مگر ملائکہ اس پر اس وقت کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ پس

بندہ کا اختیار ہے، اس میں کمی کرے یا اضافہ کرے۔ شعب الإیمان بروایت عامر بن ربیعہ

۲۲۰۴... کوئی بندہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا، مگر ایک فرشتہ اسے لے کر آسمان پر جاتا ہے، حتیٰ کہ رحمن کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتے ہیں: اس کو میرے بندے کی قبر پر لے جاؤ، یہ اس کے پڑھنے والے کے لئے استغفار کرے گا اور میرے بندے کی آنکھیں اس سے ٹھنڈی

ہوں گی۔ الدیلمی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۲۰۵... جس نے مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پس تمہارا اختیار ہے، اس میں کمی کرو یا اضافہ کرو۔

الحاکم فی الکنی شعب الإیمان بروایت عامر بن ربیعہ

۲۲۰۶... جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پس بندہ کا اختیار ہے، اس میں کمی کرے یا کثرت کرے۔

شعب الإیمان بروایت ابی طلحہ

۲۲۰۷... جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے، جو اس درود کو مجھ تک

پہنچائے گا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۲۲۰۸... جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، وہ مجھ پر درود پڑھے اور جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔

ابوداؤد الطیالسی. السنن ابی حاتم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۰۹... جبرئیل علیہ السلام میرے پاس میرے رب کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے اور کہا اللہ عزوجل نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو خوشخبری

سناؤں کہ آپ کی امت کا کوئی بندہ آپ پر ایک بار درود نہیں پڑھے گا مگر اللہ اور اس کے فرشتے اس پر دس بار رحمتیں بھیجیں گے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس ابی طلحة

۲۲۱۰... جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اللہ عزوجل نے فرمایا ہے کہ جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا میں اور میرے فرشتے اس پر دس بار رحمتیں بھیجیں گے۔ اور جو آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا میں اور میرے فرشتے اس پر دس بار سلامتی بھیجیں گے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس ابی طلحة

۲۲۱۱... جبرئیل ابھی میرے پاس آئے اور کہا اپنی امت کو خوشخبری سنائیے کہ جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور دس برائیاں مٹائی جائیں گی۔ اور دس درجات بلند کئے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو یوں ہی جواب مرحمت فرمائیں گے، جس طرح اس نے کہا۔ اور وہ درود آپ پر روز قیامت پیش کیا جائے گا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ عنہ

۲۲۱۲... جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اے محمد آپ کے رب فرماتے ہیں: کیا آپ اس سے خوش نہیں ہیں؟ آپ کی امت کا کوئی بندہ آپ پر ایک بار درود نہیں پڑھے گا مگر میں اللہ اس پر دس بار رحمتیں بھیجوں گا۔ اور آپ کی امت کا کوئی بندہ آپ پر ایک بار سلام نہیں بھیجے گا مگر میں اللہ اس پر دس بار سلامتی بھیجوں گا۔ السنائی بروایت عبد اللہ بن ابی طلحة عن ابیہ

۲۲۱۳... جبرئیل ابھی میرے پاس آئے اور کہا اے محمد! جو آپ پر ایک بار درود پڑھے گا، اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور دس برائیاں مٹائی جائیں گی۔ اور دس درجات بلند کئے جائیں گے۔ ابن النجار السنن لسعید بروایت سهل بن سعد

۲۲۱۴... مجھے جبرئیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمتیں بھیجے گا۔

الضعفاء للعقبلی رحمۃ اللہ علیہ فی تاریخہ بروایت عبدالرحمن بن عوف

پس منظر:..... حضور ﷺ نے ایک مرتبہ عجدہ انتہائی طویل فرمایا۔ پھر جب آپ ﷺ نے عجدہ سے سر اقدس اٹھایا تو آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے اس حدیث کے مانند الفاظ ارشاد فرمائے۔ علامہ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح ہے اور تخمین کی شرائط پر اترتی ہے۔ لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجدہ شکر کے متعلق اضافہ بھی صحت کو پہنچتا ہے یا نہیں واللہ اعلم۔

۲۲۱۵... جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیں گے۔

مسند احمد، الصحیح لابن حبان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۲۱۶... میرے پاس میرے پروردگار کا ایک قاصد آیا اور خبر دی ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت فرمائیں گے۔ شعب الإیمان بروایت انس ابی طلحة

ایک بار درود دس رحمتوں کا سبب ہے

۲۲۱۷... مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھو کیونکہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت فرمائیں گے۔

ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۱۸... اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی اور وہ قیامت تک کے لئے میری قبر پر کھڑا ہے۔ کوئی مجھ پر درود نہیں پڑھتا، مگر وہ فرشتہ اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ مجھے کہتا ہے کہ اے محمد! فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ضمانت دی ہے کہ میں اس پر ہر درود کے بدلے دس بار رحمت بھیجوں۔ ابن النجار بروایت عمار بن یاسر

۲۲۱۹... جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اے محمد میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آپ کی امت کی طرف سے کیا عطا کیا اور آپ کی امت کو آپ کی بدولت کیا عطا ہوا؟ جو شخص آپ پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائیں گے۔

اور جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ اس پر سلامتی فرمائیں گے۔ ابن عساکر بروایت عبدالرحمن بن عوف
۲۲۲۰ میں جب بستان میں داخل ہوا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا: اے محمد میں آپ کو خوشخبری
دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ پر سلام بھیجے گا، میں بھی اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ اور جو آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل
کروں گا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں یہ سن کر میں بطور شکرانہ کے اللہ کے لئے سجدہ ریز ہو گیا۔

مسند احمد السنن للبيهقي رحمة الله عليه المستدرک للحاکم بروایت عبدالرحمن بن عوف

۲۲۲۱ مجھ سے جبرئیل نے کہا: جو آپ پر درود بھیجے گا اس کو دس نیکیاں ملیں گی۔ البخاری فی تاریخہ ابن عساکر بروایت انس رضی اللہ عنہ
۲۲۲۲ مجھ سے جبرئیل نے کہا: آپ کی امت کا جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس کے لئے دس بار دعائے رحمت کروں گا اور جو آپ
پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر دس بار سلام بھیجوں گا۔ ابن قانع بروایت ابی طلحة
۲۲۲۳ میری امت کا کوئی فرد اپنے دل کی سچائی سے مجھ پر ایک بار درود نہیں بھیجے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت فرمائیں گے اور اس کے
لئے دس نیکیاں لکھیں گے اور اس کے دس درجات بلند فرمادیں گے۔ اور اس کی دس برائیاں مٹا دیں گے۔

الکبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابی بردة بن یسار

۲۲۲۴ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر ستر بار رحمت بھیجیں گے۔ وہ کمی کرے یا کثرت کرے۔

مسند احمد بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۲۲۵ اور مجھے کیا مانع ہے؟ جبکہ جبرئیل علیہ السلام ابھی میرے ہاں سے نکل کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے، کہ جو بندہ مجھ
پر ایک بار درود بھیجے، اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے دس درجات بلند کئے جائیں گے اور اس کی دس برائیاں مٹا دی
جائیں گی۔ نیز جیسے اس نے درود پڑھا، وہ اسی طرح مجھ کو پیش کر دیا جائے گا اور اس کا جواب بھی مجھ پر لوٹا یا جائے گا۔

عبدالرزاق بروایت ابی طلحة رضی اللہ عنہ

ابی طلحة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ انتہائی مسرور و خوش ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی
تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۲۲۲۶ اے ابو طلحة! مجھے کیا مانع ہے، کہ میں یوں خوشی نہ کروں؟ جبکہ جبرئیل علیہ السلام ابھی ابھی مجھ سے جدا ہو کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا:
اے محمد! آپ کے رب نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اور یہ فرمایا: آپ کی امت کا جو فرد آپ پر ایک درود بھیجے گا، اللہ اس کے لئے دس نیکیاں
لکھیں گے اور دس برائیاں مٹا دیں گے اور اس کے دس درجات بلند فرمادیں گے۔ اور اس درود کے عرش باری تک پہنچنے کے لئے کوئی انتہاء
نہیں ہوگی۔ اور وہ درود جب بھی کسی فرشتہ کے پاس سے گزرے گا وہ کہے گا اس کے قائل کے لئے بھی دعائے رحمت کرو۔ جس طرح اس نے
محمد پر رحمت کی دعا کی۔ الخطیب بروایت انس رضی اللہ عنہ عن ابی طلحة

فرمایا کہ ابو الجنید الحسین بن خالد الضریر اس روایت میں متفرد تھا ہیں، اور چونکہ وہ ثقہ نہیں ہیں لہذا ان کے تفرد پر اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

۲۲۲۷ اے عمار اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو ساری مخلوق کی آواز سننے کی طاقت دی اور وہ میری موت سے قیامت تک کے لئے میری
قبر پر کھڑا ہے۔ کوئی مجھ پر درود نہیں پڑھتا، مگر وہ فرشتہ اس کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ مجھے کہتا ہے کہ اے محمد! فلاں بن فلاں
نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس پر ہر درود کے بدلے دس بار رحمت نازل فرمائیں گے۔

الکبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت عمار بن یاسر

۲۲۲۸ اے لوگو! قیامت کی ہولناکیوں اور اس کے سخت مقامات سے تم میں سب سے زیادہ نجات یافتہ وہ شخص ہوگا، جو دنیا میں مجھ پر سب
سے زیادہ کثرت سے درود خوانی کرتا ہوگا۔ اللہ اور اس کے ملائکہ کے لئے یہی چیز کافی تھی، بھیجی فرمایا:

ان الله وملائكته يصلون على النبي

”اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں“۔

۲۲۲۹ اسی وجہ سے مومنین کو اس کا عزم دیا تاکہ اس پر ان کو اجر سے نوازے۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ جس کی خواہش و منشا ہو کہ کل روز قیامت اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے، کہ وہ اس پر خوش ہو تو اس کو چاہئے کہ مجھ پر درود کی

کثرت کرے۔ الدیلمی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۲۳۰ تب تو اللہ تعالیٰ تیرے دنیا و آخرت کے سارے غموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ مسند احمد۔ عبد بن حمید کسی شخص نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر میں اپنے نفل نماز کا سارا وقت آپ پر درود کے لئے صرف کروں تو کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ عبدان۔ ابن شاہین

ایوب بن بشر الانصاری سے منقول ہے کہ میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے عزم کیا ہے کہ اپنا سارا نفل وقت آپ پر درود کے لئے وقف کروں تو آپ ﷺ نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ

محمد بن حبان بن منقذ عن ابیہ عن جدہ طریق سے روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر میں اپنے نفل نماز کا سارا وقت آپ پر درود کے لئے صرف کروں تو کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ شعب الإیمان محمد بن یحییٰ بن حبان مرسل تیز فرمایا یہ مرسل حدیث عمدہ سند کے ساتھ ہے۔

۲۲۳۱ علم الفرائض کا اہتمام کرو۔ کیونکہ یہ بیس غزوات سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ اور مجھ پر درود پڑھنا ان سب کے برابر ہے۔

۲۲۳۲ جس نے مجھ پر دن میں سو مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی سوجا جات پوری فرمائیں گے۔ ستر آخرت سے اور تیس دنیا سے متعلق ہوں گی۔ ابو الیلمی بروایت عبد اللہ بن الجراد

۲۲۳۳ جس نے مجھ پر دن میں ہزار مرتبہ درود پڑھا، وہ اس دنیا سے کوچ نہ کرے گا۔ حتیٰ کہ اس کو جنت کی بشارت نمل جائے۔ ابن النجار بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۲۳۴ جب جمعہ کا دن اور اس کی رات ہو، مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ الشافعی فی المعرفة بروایت صفوان بن سلیم

۲۲۳۵ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ کیونکہ جمعہ کے دن کا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

المستدرک للحاکم۔ شعب الإیمان بروایت ابی مسعود الأنصاری

۲۲۳۶ جمعہ کے روشن دن اور اس کی روشن رات کو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۲۳۷ روز قیامت ہر مقام پر تم میں سے مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ جس نے مجھ

پر جمعہ کے دن اور اس کی رات میں سو مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی سوجا جات پوری فرمائیں گے۔ ستر آخرت سے اور تیس دنیا سے متعلق ہوں

گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس درود پر ایک فرشتہ مقرر فرمائیں گے جو اس درود کو لے کر میری قبر میں آئے گا جس طرح تمہارے لئے کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے۔ اور پھر وہ فرشتہ پڑھنے والے کا اور اس کے والد کا نام اور قبیلہ تک کا نام لے کر مجھے خبر دے گا۔ اور میں اس کو اپنے پاس موجود ایک

سفید بیاض میں محفوظ کر لوں گا۔ شعب الإیمان ابن عساکر بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۳۸ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ ہیں جو نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ وہ صرف جمعہ کے دن اور اس کی رات کو زمین پر اترتے ہیں ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کی دوات اور نور کی بیاض ہوتی ہیں۔ وہ صرف مجھ پر پڑھا گیا درود لکھتے ہیں۔ الدیلمی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۲۳۹ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن درود پڑھا، یہ اس کے لئے قیامت کے روز میرے پاس شفاعت بنے گا۔

الدیلمی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۲۳۰ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن میں سومرتبہ درود پڑھا، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کو محیط ہو جائے۔ الحلیہ بروایت علی بن الحسن بن علی بن ابیہ عن جدہ۔
 ۲۲۳۱ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن میں دو سومرتبہ درود پڑھا، اس کے دو سو سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

الدیلمی بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۲۲۳۲ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن اور اس کی رات میں سومرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی سوجا جات پوری فرمائیں گے۔ ستر آخرت سے اور میں دنیا سے متعلق ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس درود پر ایک فرشتہ مقرر فرمادیں گے جو اس درود کو لے کر میری قبر میں آئے گا جس طرح تمہارے لئے کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے۔ اور میری موت کے بعد بھی میرا علم حیات کی طرح کامل درست ہے۔

الدیلمی بروایت حکامۃ عن ابیہا عن عثمان بن دینار عن اخیہ مالک بن دینار عن انس رضی اللہ عنہ

۲۲۳۳ جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود پڑھا یعنی اس میں لکھا تو ملائکہ اس وقت تک اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے جب تک وہ درود وہاں لکھا ہوا ہے۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۲۳۴ جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو کیونکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ
 ۲۲۳۵ اللہ کے دیگر انبیاء و رسل پر بھی درود پڑھو۔ جیسے مجھ پر پڑھتے ہو۔ کیونکہ ان کو بھی اللہ ہی نے مبعوث فرمایا تھا، جس طرح مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ ابو الحسن احمد بن یحییٰ بن مہزیار فی فوائدہ الخطیب بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۲۲۳۶ لوگوں میں بخیل ترین شخص وہ ہے، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۲۳۷ آدمی کے بخل کے لئے یہ کافی ہے کہ اس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔

المستدرک للحاکم فی تاریخہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۲۳۸ جبرئیل علیہ السلام نے سوئے عرش سے مجھے نداء دی اے محمد! رحمن عزوجل آپ کو فرماتا ہے: جس کے رو برو آپ کا تذکرہ ہو، اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ شخص جہنم واصل ہوگا۔ الدیلمی بروایت عبد اللہ بن الحواد
 ۲۲۳۹ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھی بھٹک جائے گا۔ شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۲۲۵۰ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کی راہ بھی بھٹک جائے گا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبدالرزق بروایت محمد بن علی مرسلہ

۲۲۵۱ کوئی قوم اللہ عزوجل کے ذکر کے لئے نہیں بیٹھتی اور پھر اپنے نبی پر درود پڑھے بغیر مجلس برخواست کر دیتی ہے، تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لئے وبال جان ہوگی۔ اور کوئی قوم ذکر اللہ کے بغیر اٹھ جاتی ہے تو وہ مجلس بھی ان کے لئے حسرت و شرمندگی کا باعث بنے گی۔

المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۲۵۲ مجھے سوار کے پیالہ کی مانند محض ضرورت کی شے نہ بناؤ۔ کہ سوار پیالہ میں پانی بھرتا ہے اور اس کو کسی جگہ لٹکا دیتا ہے۔ پھر اپنے کام سے فراغت پر پیالہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر پینے کی خواہش ہوتی ہے تو پنی لیتا ہے۔ اور اگر پینے کی طلب نہیں ہوتی تو اس سے ہاتھ منہ دھو لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو زمین پر انڈیل دیتا ہے۔ سو اپنے رسول کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو بلکہ اپنی دعا کے اول و آخر اور گاہے بگاہے مجھے یاد رکھو۔ شعب الإیمان بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۲۵۳ مجھے سوار کے پیالہ کی مانند کوئی ضرورت کی شے نہ بناؤ۔ کہ جب مسافر سفر کا قصد کرتا ہے تو ضروریات سفر لیتا ہے۔ اور پیالہ کو پانی سے لبریز کر لیتا ہے۔ پھر اگر وضوء کی حاجت ہوتی ہے تو وضوء کر لیتا ہے۔ اور اگر پینے کی طلب ہوتی ہے تو پنی لیتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بھی ضرورت

نہیں ہوتی تو اس کو زمین پر اٹھیل دیتا ہے۔ بلکہ اپنی دعا کے اول و آخر اور درمیان میں اور گاہے بگاہے مجھے یاد رکھو۔

عبدالرزاق، عبدبن حمید بروایت جابر رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

۲۲۵۴ مجھے سوار کے پیار کی مانند بناؤ کہ وہ پیالہ کو پانی سے لہریز کر لیتا ہے۔ پھر اگر پینے کی طلب ہوتی ہے تو پی لیتا ہے۔ ورنہ بہا دیتا ہے۔

بلکہ اپنی دعا کے اول و آخر اور درمیان میں مجھے یاد رکھو۔ ابن النجار بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۲۵۵ تین مواقع پر مجھے یاد نہ کرو۔ کھانے پر بسم اللہ کہتے وقت۔ جانور زبح کرتے وقت اور چھینک آنے پر۔

السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عبدالرحمن بن زید العمی عن ابیہ مراسلاً

حدیث ضعیف ہے۔

۲۲۵۶ تین مواقع پر مجھے یاد نہ کرو۔ چھینک آنے پر۔ جانور زبح کرتے وقت اور تعجب کے وقت۔ المستدرک للحاکم فی تاریخہ

باب ہفتم..... تلاوت قرآن اور اس کے فضائل کے بیان میں

یہ پانچ فصول پر مشتمل ہے۔

فصل اول فضائل قرآن میں

۲۲۵۷ جب کوئی شخص اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہے تو قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔

التاریخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ، الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۵۸ بندہ جب قرآن ختم کرتا ہے تو ختم قرآن کے موقع پر ساٹھ ہزار ملائکہ قاری کے لئے دعائے رحمت کرتے ہیں۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عمرو بن شعیب

۲۲۵۹ میری امت کے برگزیدہ لوگ حاملین قرآن، اصحاب قرآن اور شب زندہ دار ہیں۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۲۶۰ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار شخص وہ، جو سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۲۶۱ لوگوں میں سب سے غنی افراد حاملین قرآن۔ جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو آباد کر دیا ہے۔

ابن عساکر بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

۲۲۶۲ آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دو۔ یعنی قرآن میں دیکھو اور اس میں غور و تدبر کرو اور اس کے عجائبات سے درس عبرت لو۔

الحکیم، الصحیح لانس حنان بروایت ابی سعید

۲۲۶۳ افضل ترین عبادت، تلاوت قرآن ہے۔ ابن قانع بروایت اسیر بن جابر۔ السجزی فی الإبانۃ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۶۴ میری امت کی افضل ترین عبادت، تلاوت قرآن ہے۔ شعب الإیمان بروایت الیعمان بن بشر

۲۲۶۵ میری امت کی افضل ترین عبادت، نظروں کے ساتھ تلاوت قرآن ہے۔ الحکیم بروایت عبادۃ بن الصامت

۲۲۶۶ قرآن کا ماہر، نیکو کار کا پ قرآن فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ شخص جو قرآن کو انک انک کر پڑھتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، اس کو دہرا

اجر ہوگا۔ بخاری و مسلم، ابو داؤد بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۲۶۷۔ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اس میں ماہر ہے۔ وہ کاتبین، نیکو کار اور سردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ شخص جو قرآن کو مشقت کے

ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لئے دو گنا اجر ہے۔ مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۲۶۸۔ قرآن کا قاری خیانت دار ہونا ناممکن ہے۔ ابن عساکر بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۶۹۔ قرآن سیکھو۔ اس کو پڑھو اور پھر سنو۔ قرآن کی مثال ایسی ہے کہ جس شخص نے اس کو سیکھا پھر پڑھا اور اس کے ساتھ رات کو نوافل میں پڑھتے ہوئے قیام کیا۔ وہ شخص مشک کی اس تھیلی کی مانند ہے، جس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اور اس کی خوشبو سارے مکان میں مہک رہی ہے۔ اور اس شخص کی مثال جس نے قرآن کو سیکھا۔ پھر سینے میں لئے ہوئے سو گیا وہ اس مشک کی تھیلی کی مانند ہے، جس کا منہ بند ہو۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ النسائی۔ ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۲۷۰۔ قرآن پڑھو اور اس پر عمل پیرا ہو۔ اس سے اعراض نہ کرو۔ نہ اس میں خیانت سے کام لو۔ اس کے ساتھ دنیا نہ کھاؤ اور نہ اس کو مال جمع

کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ مسند احمد، المسند لأبی یعلیٰ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شعب الإیمان۔ بروایت عبدالرحمن بن شبل

۲۲۷۱۔ قرآن پڑھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب سے دوچار نہیں کرتے، جس نے قرآن کو یاد رکھا ہو۔ تمام بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۲۲۷۲۔ جنت کے درجات، آیات قرآنیہ کے بقدر ہیں۔ سو جو قاری قرآن جنت میں داخل ہو اس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہوگا۔

ابن مردویہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۲۷۳۔ جنت کے درجات، آیات قرآنیہ کے بقدر ہیں۔ سو جو قاری قرآن جنت میں داخل ہو اس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہوگا۔

شعب الإیمان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۲۷۴۔ حاملین قرآن کا احترام کرو۔ جس نے ان کا احترام کیا، گویا میرا احترام کیا۔ الفردوس للذہبی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۲۷۵۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی بدولت بہت سی اقوام کو رفعت و بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سی اقوام کو پستی و ذلت کا شکار کرتے ہیں۔

الصحيح لمسلم۔ ابن ماجہ بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۲۲۷۶۔ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہیں ہے، وہ ویران و اجڑے گھر کی مانند ہے۔

مسند احمد الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ المستدرک للحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۲۷۷۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے گھر والے ہیں۔ وہ اہل اللہ اور اس کے خواص ہیں۔

مسند احمد النسائی۔ ابن ماجہ۔ المستدرک للحاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۷۸۔ اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ ابو القاسم بن حیدر فی مشیختہ بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۲۷۹۔ اہل قرآن اہل اللہ ہیں۔ الخطیب فی رواۃ مالک بن انس رضی اللہ عنہ

۲۲۸۰۔ صاحب قرآن کی ہر شتم پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جنت میں ایک درخت ہے۔ اگر کو اس کی جڑ سے اڑے تو بڑھاپے تک اس کی

شاخوں کی انتہا تک نہیں پہنچ سکے گا۔ التاریخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۸۱۔ صاحب قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس کا اختیار ہے، خواہ دنیا میں مجلت سے کام لے یا آخرت کے لئے کچھ مانگ لے۔

ابن مردویہ بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۲۸۲۔ ایک فرشتہ قرآن پڑھے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو درست نہیں پڑھ سکتا تو وہ فرشتہ اس کو درست کر کے اوپر لے

جاتا ہے۔ ابو سعید السمان فی مشیختہ۔ الرافعی فی تاریخہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۲۸۳۔ ایک فرشتہ قرآن پر مامور ہے۔ جو جو بھی یا عربی قرآن پڑھتا ہے اور اس کو درست نہیں پڑھ سکتا تو وہ فرشتہ اس کو درست کر کے صحیح حالت

میں اوپر لے جاتا ہے۔ الشیرازی فی الألقاب بروایت انس رضی اللہ عنہ

- ۲۲۸۴ قاری جب قرآن پڑھتا ہے اور چھوٹی یا بڑی غلطی کرتا ہے یا وہ جحی ہے تو فرشتہ اس کو اسی طرح لکھتا ہے، جس طرح نازل کیا گیا تھا۔
 الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ۲۲۸۵ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ سو جتنا ہو سکے لے لو۔ المستدرک للحاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے

- ۲۲۸۶ ہر میزبان اپنا دسترخوان پیش کرنا پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کا دسترخوان قرآن ہے۔ سو اس کو مت چھوڑو۔ شعب الإیمان بروایت سمرة
 ۲۲۸۷ تم اللہ کے پاس اس سے بہتر کوئی شے نہیں لے جا سکتے، جو خود اس سے نکلے ہے۔ یعنی قرآن۔
 مسند احمد فی الزهد الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت جیب بن نفیر مرسلًا۔ المستدرک للحاکم بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ
 ۲۲۸۸ اہل قرآن اہل جنت کے نقباء و سرداران ہوں گے۔ الحکیم بروایت ابی مامہ
 ۲۲۸۹ حاملین قرآن قیامت کے روز اہل جنت کے نقباء ہوں گے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت الحسین بن علی رضی اللہ عنہ
 ۲۲۹۰ قرآن لوگ اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ ابن جمیع فی معجمہ الضیاء بروایت انس رضی اللہ عنہ
 ۲۲۹۱ وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اہل آسمان کے لئے ایسے چمکتا ہے، جیسے اہل ارض کے لئے ستارے۔
 شعب الإیمان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا
 ۲۲۹۲ حامل قرآن منازل جنت پر آخر تک ترقی کرتا جائے گا۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عثمان
 ۲۲۹۳ کتاب اللہ کے حامل کے لئے مسلمانوں کے بیت المال میں ہر سال دو سو دینار ہیں۔

- الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت سلیم العطفانی
 ۲۲۹۴ حامل قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے۔ جس نے اس کی توقیر و عزت کی، اس نے اللہ کی توقیر و عزت کی۔ اور جس نے اس کی اہانت کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ
 اس روایت میں ایک راوی الکتبی ہے جو اہل صدق میں سے نہیں ہے۔ الجرح والتعديل ج ۸ ص ۱۲۲
 ۲۲۹۵ حاملین قرآن اولیاء اللہ ہیں۔ جس نے ان سے دشمنی مول لی، اس نے درحقیقت اللہ سے جنگ مول لی۔ جس نے ان سے دوستی
 نبھائی، درحقیقت اللہ سے دوستی کی۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ ابن النجار بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
 ۲۲۹۶ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ ابن ماجہ بروایت سعد
 ۲۲۹۷ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور اس کو پڑھائیں۔ ابن الضریس۔ ابن مردویہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 ۲۲۹۸ کیا ہی خوشی کا مقام ہے، اس شخص کے لئے، جو قیامت کے روز اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کا اندر قرآن علم الفرائض اور علم دین سے پُر ہو۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۲۲۹۹ حامل قرآن کی فضیلت اس شخص پر جو حامل قرآن نہیں ہے، ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر۔

- الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 ۲۳۰۰ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کو امام اور پیشوا بناؤ۔ کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وہی اس کا منبع ہے اور وہی معاد۔ سو اس کی تشابہ آیات پر کھوج میں پڑے بغیر ایمان لے آؤ اور اس کے امثال سے عبرت حاصل کرو۔
 ابن شاہین فی السنۃ ابن مردویہ بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۳۰۱ قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے، جیسے رحمن کی فضیلت تمام مخلوق پر۔

المسند لأبي يعلى في معجمه شعب الإيمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

دیکھ کر قرآن پڑھنے کی فضیلت

۲۳۰۲ قرآن دیکھ کر قرآن پڑھنے کی فضیلت، اس شخص پر جو بغیر دیکھے قرآن پڑھ رہا ہے، ایسی ہے جیسے فرض کی فضیلت نفل پر۔

ابن عبید فی فضائلہ بروایت بعض الصحابة

۲۳۰۳ نماز میں قرآن کی تلاوت غیر نماز کی حالت سے فضیلت رکھتی ہے۔ اور غیر نماز میں قرآن کی تلاوت دیگر تسبیح و تکبیر پر فضیلت رکھتی ہے۔ اور تسبیح صدقہ سے فضیلت رکھتی ہے۔ صدقہ روزے سے فضیلت رکھتا ہے۔ اور روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔

الدارقطنی فی الافراد، شعب الإيمان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۳۰۴ آدمی کا یادداشت کے زور پر تلاوت قرآن ہزار درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت دو ہزار درجہ تک فضیلت پالیتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإيمان بروایت اوس بن اوس الثقفی

۲۳۰۵ تیرا دیکھ کر قرآن پڑھنا یادداشت کے زور پر پڑھنے سے ایسے ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، جیسے فرض نفل پر فضیلت رکھتا ہے۔

ابن مردویہ بروایت عمرو بن اوس

۲۳۰۶ قرآن ایسا شفاعت کنندہ ہے، جس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے اور ایسا مدعی ہے، جس کا دعویٰ تسلیم کیا جاتا ہے۔ جس نے اس کو اپنے آگے آگے رکھا، یہ اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ اور جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اسے جہنم تک ہانک کر آئے گا۔

الصحيح لابن حبان، شعب الإيمان بروایت جابر رضی اللہ عنہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإيمان بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔ ذخیرۃ الحفاظ ۳۸۸۰

۲۳۰۷ قرآن ایسی غنی و مال داری ہے، جس کے حصول کے بعد فقر و افلاس کا شائبہ نہیں۔ اور اس کے بغیر غنی کا تصور نہیں۔

المسند لأبي يعلى محمد بن نصر بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۰۸ قرآن دس لاکھ ستائیس ہزار حروف کا مجموعہ ہے۔ جس نے اس کو صبر اور ثواب کی امید کے ساتھ پڑھا اس کیلئے ہر حرف کے بدلہ ایک حور مین ہوگی۔

الصغير للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عمر رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔ المغیر ۱۰۶

۲۳۰۹ قرآن کھلا نور ہے، حکمت و دانائی کا ذکر ہے اور راہ مستقیم ہے۔ شعب الإيمان بروایت رحل

۲۳۱۰ قرآن دواء ہے۔ السنجزی فی الابانہ۔ القضاعی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۳۱۱ قرآن کی ہر آیت جنت کا ایک درجہ ہے اور تمہارے گھروں میں ایک روشن چراغ ہے۔ الحلیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۳۱۲ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو آگ اس کو جلانہ سکے گی۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عقبہ بن عامر و بروایت عصمۃ بن مالک

۲۳۱۳ اگر قرآن کو کسی چمڑے میں بند کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے نہ جلائیں گے۔

الصحيح لابن حبان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۱۴ ہر ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے۔ شعب الإيمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۱۵ حامل قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی امامۃ

۲۳۱۶ جس نے قرآن کی ایک آیت کی طرف سننے کے لئے کان لگائے، اس کے لئے ایک ایسی نیکی لکھی جائے گی، جو چند در چند ہوتی جائے گی۔ اور جس نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، وہ روز قیامت اس کے لئے نور ثابت ہوگی۔

مسند احمد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۱۷ جس کو اللہ نے اپنی کتاب یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی، پھر اس نے کسی اور دنیاوی شان و شوکت والے کے متعلق گمان کیا کہ وہ اس سے افضل نعمت ہے۔ تو درحقیقت اس نے افضل ترین نعمت کی حقارت و ناقدری کی۔

التاریخ للبخاری رحمة الله عليه شعب الإيمان بروایت رحاء العنوی مرسلًا

۲۳۱۸ جس نے قرآن کو محفوظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عقل کے ساتھ منفع فرماتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کا وقت آخری آجائے۔

الکامل لابن عدی رحمة الله عليه بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۱۹ جو شخص صبح کے وقت ختم قرآن کرے ملائکہ شام تک اس کے لئے دعا گورتے ہیں۔ اور جو شام کو ختم کرے اس کے لئے صبح تک دعا گورتے ہیں۔ الحلیہ بروایت سعد

۲۳۲۰ کوئی قوم کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت و رد نہیں کرتی، مگر ان پر یکینہ نازل ہوتی ہے۔ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود ملائکہ سے کرتے ہیں۔ ابو داؤد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۲۱ قرآن پڑھتے رہو، اجر پاؤ گے۔ میں نہیں کہتا کہ "الم" ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے۔ جس پر دس نیکیاں ملیں گی۔ لام ایک حرف ہے۔ جس پر دس نیکیاں ملیں گی۔ میم ایک حرف ہے۔ جس پر دس نیکیاں ملیں گی۔ اس طرح کل تیس نیکیاں ہوں گی۔

ابو جعفر النحاس فی الوقف والابتداء والسجزی فی الإبانة التاریخ للخطیب رحمة الله عليه بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۲۳۲۲ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اس کے لئے ایک نیکی ہے۔ اور ہر نیکی کا اجر دس گنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ "الم" ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے۔ لام ایک حرف ہے۔ میم ایک حرف ہے۔

التاریخ للبخاری رحمة الله عليه الصحيح للترمذی رحمة الله عليه المستدرک للحاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۲۳۲۳ قرآن کی مثال مشک کی اس سر بند تھیلی کی طرح ہے۔ کہ اگر تم اس کا منہ کھولو گے تو مشک کی خوشبو مہک جائے گی۔ ورنہ مشک اپنی جگہ رکھی ہے۔ اسی طرح قرآن ہے پڑھو، ورنہ سینے میں بند رہے گا۔ الحکیم بروایت عثمان رضی اللہ عنہ
۲۳۲۴ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ صبح تڑکے وادی، بطنان، حقیق جائے اور دوسرے، کوہان والی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے؟ تو وہ شخص صبح سویرے مسجد کو جائے اور کتاب اللہ کی دو آیات پڑھ کر یا سیکھ کر آجائے۔ یہ اس کے لئے ان دو اونٹنیوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ اسی طرح تین آیتیں تین اونٹنیوں سے اور چار چار سے، اسی طرح اونٹنیوں کی تعداد سے آیات کی تعداد بہتر ہے۔

مسند احمد الصحيح لمسلم ابو داؤد بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

۲۳۲۵ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر لوٹے تو وہاں تین موٹی تازی گا بھن اونٹنیاں پائے۔ پس کسی کا تین آیات پڑھنا، تین موٹی تازی گا بھن اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ الصحيح لمسلم ابن ماحہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۲۶ قرآن کے ساتھ تبرک کو کیونکہ وہ کلام الہی ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه بروایت الحکم بن عمیر
۲۳۲۷ حامل قرآن جو اس پر عمل پیرا ہو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام گردانتا ہو۔ وہ اپنے اہل خانہ میں سے دس ایسے افراد، جن

کے لئے جنم واجب ہو چکی تھی، ان کی شفاعت کا حقدار ہوگا۔ الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه بروایت جابر رضی اللہ عنہ
۲۳۲۸ قرآن قیامت کے روز فق رنگ پھل (کبھی بیماری یا بیداری کی وجہ سے اڑے ہوئے رنگ کے چہرے والے) کی صورت میں آئے گا۔ اور اپنے ساتھی سے کہے گا: میں نے تیری راتیں، بیدار رکھیں، تیرے دن پیاسے رکھے۔ ابن ماجہ المستدرک للحاکم بروایت بریدہ

قرآن پڑھنے والے کو تاج پہنایا جائے گا

۲۳۲۹ قرآن قیامت کے روز آئے گا اور کہے گا: اے پروردگار! اس کو خلعتِ عزت سے نوازیں۔ پھر اس پڑھنے والے کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن کہے گا: اللہ میدا اضافہ فرمائے! پھر اس کو مکمل خلعتِ عزت زیب تن کر دی جائے گی۔ قرآن کہے گا: اللہ اب اس کو اپنی رضاء و خوشنودی کا پروانہ عطا کر دیجئے تو پروردگار اس سے راضی ہو جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا: پڑھتا جاؤ پڑھتا جاؤ اور اس کو ہر حرف کے عوض ایک نیکی دی جائے گی۔ صحیح الترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۳۰ صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھتا جاؤ پڑھتا جاؤ اور دھیرے دھیرے یونہی پڑھ، جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیری منزل وہ آخری درجہ ہے جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہو۔ مسند احمد۔ ابن ماجہ ابن حبان۔ المستدرک للحاکم بروایت ابن عمرو

۲۳۳۱ صاحب قرآن جب جنت میں داخل ہوگا، اس کو کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جاؤ اور ترقی کرتا جاؤ۔ تو وہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ ترقی کرتا جائے گا۔ حتیٰ کہ اپنے پاس محفوظ کلام اللہ میں سے آخری آیت پڑھے۔ مسند احمد۔ ابن ماجہ بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۲۳۳۲ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب بندہ میرے ذکر کی مشغولیت اور قرآن کی وجہ سے سوال نہیں کر سکتا تو میں اس کو مانگنے والوں سے افضل عطا کرتا ہوں۔ قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے، جیسے حُسن کی فضیلت تمام مخلوق پر۔

۲۳۳۳ الصصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ جو شخص قرآن پڑھنے کے بعد اس کو بھول جائے، اسے قیامت کے روز کئے ہوئے ہاتھ پاؤں والا اور بغیر حجت کے اٹھایا جائے گا۔

۲۳۳۴ مسند احمد۔ الدارمیٰ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ الصصحیح لابن حبان بروایت سعد بن عبادہ جس نے قرآن پڑھا پھر حفظ کیا اور اس کی نگہداشت رکھی۔ اس کے خلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے اہل خانہ میں سے دس ایسے افراد، جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی تھی، کے لئے اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔

۲۳۳۵ الصصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن ماجہ بروایت علی رضی اللہ عنہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی اس آفتاب کی روشنی کو ماند کرنے والی ہوگی۔ تو پھر خود عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا حال ہے؟

۲۳۳۶ مسند احمد، ابو داؤد المستدرک للحاکم بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ قرآن کو سفر میں ساتھ مت لے جاؤ، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں دشمن اس کو نہ چھین لے۔ الصصحیح لمسلم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۳۳۷ اس مؤمن کی مثال، جو قرآن پڑھتا ہے، اس اترجہ پھل کی مانند ہے، جس کی خوشبو بھی عمدہ اور ذائقہ بھی اچھا۔ اور اس مؤمن کی مثال، جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی مانند ہے۔ جس کا ذائقہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن خوشبو وہمک سے محروم ہوتا ہے۔ اور اس فاسق کی مثال، جو قرآن نہ پڑھتا ہے، ریحانہ پھول کی طرح ہے۔ جس کی خوشبو عمدہ لیکن ذائقہ تلخ۔ اور اس فاسق کی مثال، جو قرآن نہیں پڑھتا ایلوے کی طرح ہے۔ ذائقہ تلخ تو خوشبو بھی ندارد۔

۲۳۳۸ اچھے ہم نشین کی مثال مشک والے کی طرح ہے۔ اگر مشک نہ لگی تو خوشبو ضرور پینچے گی۔ اور برے ہم نشین کی مثال لوہار کی دھونکنی والے کی مانند ہے۔ اگر کوئی شعلہ نہ لگا دھواں تو پینچ کر رہے گا۔ ابو داؤد السنائی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۳۸ اس مؤمن کی مثال، جو قرآن پڑھتا ہے، اس اترجہ پھل کی مانند ہے، جس کی خوشبو بھی عمدہ اور ذائقہ بھی اچھا۔ اور اس مؤمن کی مثال، جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی مانند ہے۔ جس کا ذائقہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن خوشبو وہمک سے محروم ہوتا ہے۔ اور اس فاسق کی مثال، جو قرآن نہ پڑھتا ہے، ریحانہ پھول کی طرح ہے۔ جس کی خوشبو عمدہ لیکن ذائقہ تلخ۔ اور اس فاسق کی مثال، جو قرآن نہیں پڑھتا ایلوے کی طرح ہے۔ ذائقہ تلخ ہے۔

تو خوشبو بھی نڈارد۔ مسند احمد، بخاری و مسلم ۴ بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

حسد صرف دو قسم لوگوں پر جائز ہے

۲۳۳۹ غبطہ و رشک دو شخصوں کے سوا کسی میں جائز نہیں۔ ایک وہ، جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہا۔ دوسرا وہ شخص، جس کو اللہ نے مال خوب عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرنے میں مصروف ہو۔

۲۳۴۰ مسند احمد، بخاری و مسلم، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ابن ماجہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما غبطہ و رشک دو شخصوں کے سوا کسی میں جائز نہیں۔ ایک وہ، جس کو اللہ نے قرآن سکھایا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مصروف ہو۔ اس کا پڑوسی اس کو سنے اور کہے: کاش مجھے بھی یہ عطا ہوتا تو میں بھی یوں ہی عمل کرتا۔ دوسرا وہ شخص، جس کو اللہ نے مال خوب عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کو راہ حق میں خرچ کرنے میں مصروف ہو۔ تو کوئی اس کو دیکھ کر کہے: کاش مجھے بھی یہ عطا ہوتا تو میں بھی یوں ہی عمل کرتا۔

مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

الاکمال

۲۳۴۱ ال قرآن اہل اللہ ہے۔ خطیب فی روایۃ مالک من طریق محمد بن بزیع المدنی عن مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ عنہ ابن بزیع جمہول راوی ہے۔ اور میزان میں اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ باطل راوی ہے۔

۲۳۴۲ انسانوں میں دو گروہ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں۔ دریافت کیا گیا: وہ کون ہیں! فرمایا: وہ اہل اللہ اور اس کے خواص لوگ ہیں۔ ابو داؤد الطیالسی مسند احمد النسائی ابن ماجہ الدارمی ابن الضریس، العسکری فی الأمثال، المستدرک للحاکم

الصحيح لابن حبان، الحلیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ ابن النجار بروایت النعمان بن بشیر ۲۳۴۳ حاملین قرآن کی توقیر و عزت کرو، جس نے ان کی عزت کی، اس نے اللہ کی توقیر و عزت کی۔ خبر دار! ان حاملین قرآن کی حق تلفی نہ کرنا۔ کیونکہ وہ اللہ کے ہاں ایسے مرتبہ پر فائز ہیں کہ قریب تھا وہ انبیاء ہو جاتے، مگر ان کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔

الدیلمی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما ۲۳۴۴ حامل قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے۔ جس نے اس کی توقیر و عزت کی، اس نے اللہ کی توقیر و عزت کی۔ اور جس نے اس کی اہانت کی، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ الفردوس للذیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی امامۃ رضی اللہ عنہ اس روایت میں ایک راوی الکردی ہے جو اہل صدق میں سے نہیں ہے۔ الجرح والتعديل ج ۸ ص ۱۲۲ ۲۳۴۵ حاملین قرآن کلام اللہ سکھانے والے ہیں اور اللہ کے نور کو پہننے والے ہیں۔ جس نے ان سے دوستی کی، درحقیقت اللہ سے دوستی کی۔ جس نے ان سے دشمنی مول لی، اس نے درحقیقت اللہ سے جنگ مول لی۔

المستدرک للحاکم فی تاریخہ بروایت علی رضی اللہ عنہ ۲۳۴۶ جس نے تہائی قرآن یاد کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا اس نے تہائی امر نبوت حاصل کر لیا۔ اور جس نے نصف قرآن یاد کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا اس نے نصف امر نبوت حاصل کر لیا۔ اور جس نے مکمل قرآن یاد کر لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا اس نے مکمل امر نبوت حاصل کر لیا۔

ابن الأثیر فی المصاحف شعب الإیمان بروایت الحسن مرسلاً ۲۳۴۷ جس نے قرآن پڑھا، اس نے نبوت کو اپنی پیلیوں کے درمیان لے لیا۔ صرف یہ کہ اس پر وحی نہیں اترتی۔ صاحب قرآن

کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ کسی غصہ ور کے ساتھ غصہ کرے۔ اور کسی جاہل کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے۔ جبکہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے۔
المستدرک للحاکم شعب الإیمان بروایت ابن عمرو

جنت میں صاحب قرآن کا اونچا مقام

۲۳۴۸ جس نے تہائی قرآن یاد کر لیا اس کو تہائی امر نبوت عطا کر دیا گیا۔ اور جس نے دو تہائی قرآن یاد کر لیا اس کو دو تہائی امر نبوت عطا کر دیا گیا۔ اور جس نے مکمل قرآن یاد کر لیا اس کو مکمل امر نبوت عطا کر دیا گیا۔ صرف یہ کہ اس پر وحی نہیں اترتی۔ اور اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا پڑھتا جا۔ پھر وہ ہر آیت پر ایک ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کا آخری مقام آجائے گا۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ اپنی منہی بند کر۔ وہ منہی بند کرے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا جاننے ہو تمہاری منہی میں کیا ہے؟ دیکھے گا تو ایک ہاتھ میں جنت الخلد کا پروانہ اور دوسری میں جنت النعیم کا پروانہ ہے۔

ابن الأنباری فی المصاحف شعب الإیمان ابن عساکر بروایت ابی امامة رضی اللہ عنہ
علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو من گھڑت روایات میں شمار کیا ہے۔ لیکن یہ بات درست نہیں۔

الخطیب بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۳۴۹ جس نے قرآن پڑھا، اس نے نبوت کو اپنی پسلیوں کے درمیان لے لیا۔ صرف یہ کہ اس پر وحی نہیں اترتی۔ اور جس نے قرآن پڑھا، پھر اس نے کسی اور دنیاوی شان و شوکت والے کے متعلق گمان کیا کہ وہ اس سے افضل نعمت ہے۔ تو درحقیقت اس نے ذلیل و پست چیز کو عظیم خیال کیا۔ اور افضل ترین نعمت کی حقارت و ناقدری کی۔ اور حامل قرآن کو مناسب نہیں کہ کسی بے وقوف کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے اور یہ کہ کسی غصہ ور کے ساتھ غصہ کرے۔ اور کسی سخت طبع کے ساتھ سختی و تیزی کا سلوک کرے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ فضیلت قرآنیہ کی وجہ سے عفو درگزر سے کام لے۔

محمد بن نصر الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمرو رضی اللہ عنہ ابن ابی شیبہ عنہ موقوفاً

۲۳۵۰ جس نے قرآن پڑھا، پھر اس نے کسی اور دنیاوی شان و شوکت والے کے متعلق گمان کیا کہ وہ اس سے افضل نعمت ہے۔ تو درحقیقت اس نے ذلیل و پست چیز کو عظیم خیال کیا۔ اور افضل ترین نعمت کی حقارت و ناقدری کی۔ اور حامل قرآن کو مناسب نہیں کہ کسی سخت طبع کے ساتھ سختی و تیزی کا سلوک کرے۔ اور نہ یہ کہ کسی جاہل کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے۔ بلکہ اسے چاہئے کہ عظمت قرآنیہ کی وجہ سے عفو درگزر سے کام لے۔ الخطیب بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۳۵۱ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ ابن عساکر بروایت عثمان

۲۳۵۲ تم میں بہترین اور معزز شخص وہ ہے، جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ ابن عساکر بروایت عثمان

۲۳۵۳ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ اور قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے، جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ نیز یہ کہ قرآن کا بیج بھی وہی ذات قدسی ہے۔ ابن الضریض شعب الإیمان بروایت عثمان

۲۳۵۴ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۳۵۵ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ حامل قرآن کی دعا قبول ہوتی ہے وہ جو مانگتا ہے قبول ہوتا ہے۔ شعب الإیمان بروایت ابی امامة رضی اللہ عنہ

شعب الإیمان بروایت ابی امامة رضی اللہ عنہ

۲۳۵۶ یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ سو جتنا ہو سکے، سیکھ لو۔ اور یہ قرآن اللہ کی رسی اور واضح نور ہے۔ شفاء دینے والا نفع مند ہے۔ جس نے اس کو تھاواہ محفوظ ہو گیا۔ جس نے اس کی پیروی کی، اس کے لئے نجات دہندہ ہے۔ اس کی راہ کج نہیں ہوتی، جس کو درست کیا جائے۔ نہ جاہ حق سے منحرف ہوتی کہ اس کو واپس لایا جائے۔ اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ بار بار دہرانے سے بوسیدہ نہیں ہوتا۔ اس کی تلاوت

کرو۔ اللہ تمہیں ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں مرحمت فرمائے گا۔ میں نہیں کہتا کہ ”الم“ ایک حرف ہے۔ بلکہ الف ایک حرف ہے۔ جس پر دس نیکیاں ملیں گی۔ لام ایک حرف ہے۔ اور میں کسی کو نہ پاؤں کہ وہ ٹانگ پر ٹانگ دھرے نخوت و غرور سے سورہ بقرہ کو ترک کئے بیٹھا ہے۔ اس کی تلاوت کرو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ گھروں میں سے خالی و ویران گھر وہ دل ہے، جو کتاب اللہ سے خالی ہو۔

ابن ابی شیبہ، محمد بن نصر، ابن الأنباری فی کتاب المصاحف المستدرک للحاکم، شعب الإیمان بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۳۵۷ افضل ترین عبادت تلاوت قرآن ہے۔ ابن قانع بروایت اسیر بن جابر سمعی۔ ابونصر السجزی فی الإبانة بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۵۸ میری امت کی افضل ترین عبادت دیکھ کر تلاوت قرآن کرنا ہے۔ الحکیم بروایت عبادة بن الصامت

۲۳۵۹ میری امت کی افضل ترین عبادت قرأت قرآن ہے۔ شعب الإیمان السجزی فی الإبانة بروایت النعمان بن بشیر

۲۳۶۰ قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے، جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ ابن الضریس بروایت شہر بن حوشب مرسلًا

۲۳۶۱ قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے، جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ کیونکہ وہی اس کا منبع و سرچشمہ ہے اور وہی انتہاء و معاد۔

ابن النجار بروایت عثمان

تم اس کے پاس ہرگز اس سے بہتر چیز نہیں لے جا سکتے جو خود اس کی ذات سے نکلی ہے یعنی قرآن۔

المستدرک للحاکم بروایت جبیر بن نفیر عن ابن عامر

قرآن پاک افضلیت کا بیان

۲۳۶۲ قرآن اللہ کے سوا ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے، جیسے اللہ کی فضیلت تمام مخلوق پر۔ جس نے قرآن

کی توقیر کی، اس نے اللہ کی توقیر کی۔ جس نے قرآن کی توقیر نہ کی، اس نے اللہ کے حق کی اہانت کی۔ اللہ کے ہاں قرآن کی حرمت و عظمت ایسی

ہے، جیسے کہ والد کے ہاں اپنی اولاد کی۔ قرآن ایسا شفاعت کنندہ ہے، جس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے اور ایسا مدعی ہے، جس کا دعویٰ تسلیم

کیا جاتا ہے۔ جس کے لئے قرآن نے شفاعت کی، سن لی گئی۔ جس کے خلاف جھگڑا کیا، اسے تسلیم کیا گیا۔ جس نے اس کو اپنے آگے آگے

رکھا، یہ اس کو جنت تک پہنچا دے گا۔ اور جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا، اسے جہنم تک ہانک کر آئے گا۔ حاملین قرآن ہی اللہ کی رحمت کے

سائے میں ہیں۔ اس کے نور کے ساتھ متصف ہیں۔ کلام الہی کو سیکھنے والے ہیں۔ جس نے ان سے دشمنی مول لی، اس نے درحقیقت اللہ سے

جنگ مول لی۔ جس نے ان سے دوستی نبھائی، درحقیقت اللہ سے دوستی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے حاملین کتاب اللہ! اس کی کتاب کی

عزت و عظمت قائم کرو، اور اللہ کی اس پکار کا جواب دو۔ وہ تم سے بڑھ کر محبت کرے گا اور اپنی مخلوق کے ہاں بھی تم کو ہر دلعزیز کر دے گا۔ سننے کے

لئے قرآن کی طرف کان لگانے والے سے دنیا کی تکلیف دفع کر دی جاتی ہے۔ اور پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبت دفع کر دی جاتی

ہے۔ قرآن کی ایک آیت سننے والے کے لئے یہ سونے کے پہاڑ سے بہتر ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت تلاوت کرنے والے کے لئے یہ آسمان

کے تلے کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے، جس کو اللہ کے ہاں عظیم سے پکارا جاتا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ کے

ہاں بلا یا جائے گا اور یہ سورت اس کے لئے قبیلہ ربیعہ و مضر سے زیادہ افراد کے بارے میں شفاعت کرے گی۔ اور یہ ”سورۃ یس“ ہے۔

السجزی فی الإبانة بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

یہ حدیث حسن ہے اس کی اسناد میں مقبول سے کم سے کم درجہ راوی نہیں ہے۔ الحکیم بروایت محمد بن علی، مرسلًا

المستدرک للحاکم فی تاریخہ بروایت محمد بن الحنفیہ عن علی بن ابی طالب موصولًا

۲۳۶۳ قرآن اللہ کے ہاں آسمان وزمین اور جو کچھ ان میں ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ابونعیم بروایت ابن عمرو

- ۲۳۶۴ قرآن کے ساتھ تبرک لو کیونکہ وہ کلام الہی ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن قانع بروایت الحکیم بن عمیر
 ۲۳۶۵ خود اللہ سے جو چیز نکلی ہے، بندہ اس کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ اللہ کا زیادہ تقرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی قرآن۔
 مطین۔ ابن مندہ بروایت زید بن ارطاة عن جبر بن نوفل رضی اللہ عنہ
 ۲۳۶۶، بندے اس کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ اللہ کا زیادہ تقرب حاصل نہیں کر سکتے جو خود اس سے نکلی ہے، یعنی قرآن۔
 ابن السنی بروایت زید بن ارطاة عن ابی امامة
 ۲۳۶۷ قرآن کو مضبوطی سے شام لو۔ کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وہی اس کا شیخ ہے۔ اور اس کے امثال سے عبرت حاصل کرو۔
 ابو عمرو الدانی فی طبقات القراء بروایت علی رضی اللہ عنہ

اس کی اسنادی حیثیت کمزور ہے۔

- ۲۳۶۸ تم پر قرآن سیکھنا، اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اس کے عجائبات میں غور و فکر کرنا لازم ہے۔ اس طرح تم جنت کے عالی درجات تک رسائی پا لو گے۔ ابو الشیخ و ابو نعیم بروایت علی رضی اللہ عنہ
 ۲۳۶۹ قرآن سیکھو۔ اس کے عجائب کی جستجو کرو۔ اس کے عجائب فرائض ہیں۔ فرائض حدود ہیں۔ حدود حلال، حرام ناقابل تاویل آیات و احکام، مشتبہ یعنی آیات اور امثال کو محیط ہیں۔ سوا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانو۔ ناقابل تاویل آیات و احکام پر عمل پیرا ہو۔ متشابہ آیات پر کھوج میں پڑے بغیر ایمان لے آؤ اور امثال سے عبرت حاصل کرو۔ الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

قرآن کے مختلف مضامین

- ۲۳۷۰ قرآن مختلف مضامین پر نازل ہوا ہے، امر، نہی، حلال، حرام، محکم اور متشابہ وغیرہ۔ سوا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانو۔ جس کا حکم ہوا ہے، اس کی تعمیل کرو۔ جس سے ممانعت کی گئی ہے، اس سے باز رہو۔ محکم یعنی ناقابل تاویل آیات و احکام پر عمل پیرا ہو۔ متشابہ یعنی مشتبہ یعنی آیات پر کھوج میں پڑے بغیر ایمان لے آؤ۔ اور یوں کہو ”ہم اس پر ایمان لے آئے اور یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔“
 الدیلمی بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ
 ۲۳۷۱ اول کتاب ایک ہی عنوان اور ایک ہی لغت میں نازل ہوئی تھی۔ جبکہ قرآن سات عنوان اور سات لغات پر نازل ہوا ہے۔ نہی، امر، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ سوا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانو۔ جس کا حکم ہوا ہے، اس کی تعمیل کرو۔ جس سے ممانعت کی گئی ہے، اس سے باز رہو۔ امثال سے عبرت حاصل کرو۔ محکم یعنی ناقابل تاویل آیات و احکام پر عمل پیرا ہو۔ متشابہ یعنی مشتبہ یعنی آیات پر کھوج میں پڑے بغیر ایمان لے آؤ۔ اور یوں کہو ”ہم اس پر ایمان لے آئے اور یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔“

- المستدرک للحاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 ۲۳۷۲ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ علم الفرائض میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ کیونکہ مجھے ایک وقت اٹھایا جائے گا۔ اور علم بھی اٹھ جائے گا۔ فتنے رونما ہو جائیں گے۔ دین سے اس قدر لاعلمی ہو جائے گی کہ دو آدمیوں کا کسی میراث کے مسئلہ میں اختلاف ہو جائے گا لیکن کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ المستدرک للحاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 ۲۳۷۳ کتاب اللہ سیکھو اور اس کی نشر و ترویج کا کام انجام دو۔ اس کی حفاظت کرو اور اس کو خوش الحانی سے پڑھو۔ پس قسم ہے اس ہستی کی، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! یہ لوگوں کے سینوں سے فوراً نکل جانے والا ہے، اونٹنی کے اپنی رسی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ۔

- الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الصحیح لابن حبان، شعب الإیمان بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ
 ۲۳۷۴ قرآن سیکھو اور لوگوں کو پڑھاؤ۔ اور جو آسانی سے ہو سکے پڑھو۔ پس قسم ہے اس ہستی کی، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! یہ لوگوں

کے سینوں سے فوراً نکل جانے والا ہے، اونٹنی کے اپنی رسی سے بھی زیادہ۔

جان لو جس نے رات کے پہرے پچاس آیات کی تلاوت کر لی، اسے نفلین میں شمار نہ کیا جائے گا۔ جس نے سو آیات کی تلاوت کر لی، اسے قاتلین اطاعت شعار بندوں میں لکھا جائے گا۔ اور جس نے دو سو آیات کی تلاوت کر لی، اس رات کے متعلق قرآن اس کے خلاف حجت نہیں کرے گا۔ اور جس نے رات کے وقت پانچ سو سے ہزار تک آیات کی تلاوت کر لی، اس کے لئے جنت کا خزانہ ہوگا۔

ابو نصر بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۷۵ لویا درکھو! جس نے قرآن سیکھا اور اسے اوروں کو سکھایا اور اس پر عمل پیرا ہو، پس میں اس کو جنت تک لے جانے کا ذمہ دار اور رہنما ہوں۔

ابن عساکر بروایت ابراہیم بن ہدیبہ عن انس رضی اللہ عنہ

قرآن سیکھنے سکھانے کی فضیلت

۲۳۷۶ جس نے قرآن سیکھا اور اسے اوروں کو سکھایا۔ اس کے احکام کو لیا، تو میں اس کے لئے شفاعت کنندہ اور جنت کی راہ بتانے

والا ہوں گا۔ ابن عساکر بروایت ابی ہدیبہ عن انس رضی اللہ عنہ

۲۳۷۷ اے علی! قرآن سیکھ، اور لوگوں کو سکھا۔ تجھے ہر حرف پر دس نیکیاں ملیں گی۔ اگر اسی پر مرنا تو شہید مرے گا۔ اے علی! قرآن سیکھ، اور لوگوں کو سکھا۔ اگر اسی پر مرنا تو ملائکہ تیری قبر کا طواف کیا کریں گے، جیسے انسان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ ابو نعیم بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۳۷۸ قرآن سیکھا اور اس کی تلاوت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حرف پر دس نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور میں تمہیں کہتا کہ الم ایک حرف ہے۔

۲۳۷۹ قرآن سیکھا اور اس کی بدولت اللہ سے جنت کا سوال کرو قبل اس کے کہ وہ قوم آجائے، جو اس کی بدولت دنیا کا سوال کریں

گے۔ قرآن پڑھنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اس کے ساتھ دوسروں پر فخر و غرور کرتا ہے۔ دوسرا وہ جو اس کے ذریعہ کھاتا ہے۔ تیسرا وہ، جو اسے محض اللہ کے لئے پڑھتا ہے۔ ابن نصر، شعب الإیمان بروایت ابی سعید

۲۳۸۰ جو قرآن پڑھے، وہ اس کے ذریعہ اللہ سے سوال کرے۔ عنقریب ایسی اقوام آئیں گی، جو قرآن پڑھیں گی اور اس کے ذریعہ لوگوں

سے سوال کریں گی۔ ابن ابی شیبہ، ابو داؤد الطیالسی، شعب الإیمان، مسند البزار بروایت عمر بن حصین

۲۳۸۱ جس نے قرآن کو جوانی میں پڑھا، یہ اس کے گوشت پوست اور رگ و پے میں رچ جائے گا۔ جس نے اس کو بڑھاپے میں پڑھا، یہ

اس سے نکلے گا وہ دوبارہ پڑھے گا تو یوں بھی دگنا اجر پائے گا۔ المستدرک للحاکم، التاريخ للبخاری، رحمة الله عليه المرهبي في طلب العلم،

ابو نعیم، شعب الإیمان، المصنف لعبد الرزاق، ابن النجار، المسند لأبي يعقوب ابو هريره رضی اللہ عنہ

۲۳۸۲ جس نے کسی شخص کو قرآن پڑھا دیا، وہ اس کا آقا ہے۔ لیکن اب اس کو رسوا نہ کرے اور نہ اس پر اوروں کو ترجیح دینے لگ جائے۔

شعب الإیمان بروایت حماد

۲۳۸۳ جس نے ایک آیت یا دین کا ایک مسئلہ کسی کو سکھا دیا، اللہ اس کے لئے ثواب کی ایک مٹھی بھر دیں گے۔ اور اللہ کے ہاں اس سے افضل

کوئی شی نہیں جو خود اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ الحلیہ بروایت الأوزاعی مرسلاً

۲۳۸۴ جس نے کسی غلام کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھادی وہ اس کا مولیٰ ہے۔ لیکن اس کو لائق نہیں کہ اس کو اب رسوا نہ کرے اور نہ اس

پر اوروں کو ترجیح دینے لگ جائے۔ اگر ایسا کرے گا تو اسلام کے مضبوط رشتے کو کاٹنے والا ہوگا۔

الکامل لابن عدی، رحمة الله عليه، الكبير للطبرانی، رحمة الله عليه، ابن مردويه، شعب الإیمان ابن النجار بروایت ابی امامة

۲۳۸۵ جس نے کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھادی وہ آیت اس کو قیامت کے روز پائے گی اور اس کے ساتھ ہنس مسکرائے گی۔ بشرطیکہ

اس شخص نے اس پر کوئی اجرت نہ لی ہو۔ ابن النجار بروایت ابی امامتہ

۲۳۸۶۔ جس نے اپنی اولاد کو قرآن سکھایا اللہ تعالیٰ اس والد کو ایسا ہار پہنائیں گے جس پر اولین و آخرین سب رشک کریں گے۔

ابونعیم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۸۷۔ جس نے قرآن پڑھا، اس کو سکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے روز اس کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، جو چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اس کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا، ساری دنیا جس کی قیمت پیش کرنے سے قاصر ہوگی۔ وہ عرض کریں گے ہمیں کس وجہ سے یہ فضیلت لباس آیا

گیا کہا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن یاد کرنے کی وجہ سے۔ المستدرک للحاکم بروایت عبداللہ بن بريدة عن ابیہ

۲۳۸۸۔ ایک فرشتہ قرآن پر مامور ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کو درست نہیں پڑھ سکتا تو وہ فرشتہ اس کو درست کر کے اوپر لے جاتا ہے۔

ابوسعید السمان فی مشیختہ، و الرافعی فی تاریخہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۸۹۔ جس نے قرآن پڑھا اور اچھا کر کے پڑھا اس کے لئے ہر حرف کے عوض چالیس نیکیاں ہوں گی۔ اور جس نے کچھ صحیح اور کچھ غلط

پڑھا اس کے لئے ہر حرف کے عوض بیس نیکیاں ہوں گی۔ اور جس نے مجبوراً سارا غلط پڑھا اس کے لئے ہر حرف کے عوض دس نیکیاں ہوں گی۔

ابوعثمان الصابونی فی المائین شعب الإیمان بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۲۳۹۰۔ جس نے قرآن پڑھا اور اچھا کر کے پڑھا اس کے لئے ہر حرف کے عوض بیس نیکیاں ہوں گی۔ اور جس نے مجبوراً سارا بغیر تجوید کے

پڑھا اس کے لئے ہر حرف کے عوض دس نیکیاں ہوں گی۔ شعب الإیمان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۳۹۱۔ جس نے قرآن کو تجوید سے پڑھا، اس کو شہید کا ثواب ہوگا۔ ابونعیم بروایت حدیفہ رضی اللہ عنہ

۲۳۹۲۔ جس نے قرآن پڑھا اور اچھا کر کے نہ پڑھ سکا اس پر ایک فرشتہ مامور ہے جو اس کو ویسے ہی درست لکھے گا جیسے نازل ہوا تھا اور اس کے

لئے ہر حرف کے عوض دس نیکیاں ہوں گی۔ اور اگر اس نے کچھ صحیح اور کچھ غلط پڑھا اس پر دو فرشتے مامور ہیں وہ اس کے لئے ہر حرف کے عوض بیس

نیکیاں لکھیں گے۔ اور اگر اس نے سارا قرآن اچھا کر کے پڑھا اس پر چار فرشتے مامور ہیں وہ اس کے لئے ہر حرف کے عوض ستر نیکیاں لکھیں گے۔

ابن الأباری فی الوقف بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۳۹۳۔ جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت تلاوت کی، وہ روز قیامت اس کے لئے نور ثابت ہوگی۔ جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت کی

طرف سننے کے لئے کان لگائے، اس کے لئے ایک ایسی نیکی لکھی جائے گی، جو چند در چند ہوتی جائے گی۔

شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۹۴۔ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، اس کے لئے اللہ ایک نیکی لکھ دیں گے۔ اور میں نہیں کہتا کہ ”بسم اللہ“ سارا ایک حرف ہے۔

بلکہ باء، سین، میم جدا جدا حرف ہیں۔ اور میں نہیں کہتا کہ ”الم“ ایک حرف ہے۔ بلکہ الف، لام، میم جدا جدا حرف ہیں۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ

۲۳۹۵۔ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا، اس کے لئے اللہ ایک نیکی لکھ دیں گے۔ اور میں نہیں کہتا کہ ”الم ذالک الكتاب“ ایک ہی

ہے۔ بلکہ الف، لام، میم، ذال، لام، کاف جدا جدا حرف ہیں۔ المصنف لعبد الرزاق بروایت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ

۲۳۹۶۔ جس نے قرآن پڑھا، اس کے لئے اللہ ہر حرف کے عوض دس نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور جس نے قرآن سنا، اس کے لئے اللہ ہر حرف

کے عوض ایک نیکی لکھ دیں گے۔ اور اس کو ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو پڑھتے جائیں گے اور منزل ترقی عبور کرتے جائیں گے۔

الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۹۷۔ قسم ہے اس ہستی کی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! قرآن کی ایک آیت سننا سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب

رکھتا ہے۔ اور ایک آیت پڑھنا عرش کے تلے کی تمام اشیاء سے افضل ہے۔ ابوالشیخ، والدیلمی بروایت صہیب

۲۳۹۸۔ جس نے قرآن پڑھا اور شب و روز اس کی تلاوت کی۔ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اللہ تعالیٰ اس کے گوشت و خون کو

جہنم کی آگ پر حرام فرمادیں گے۔ اور کاتین، نیکو کار اور سردار فرشتوں کی رفاقت میسر فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ قرآن

اس کے لئے حجت ہوگا۔ الصغیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۳۹۹ جس نے قرآن پڑھا، اللہ پر لازم ہے کہ آگ اس کو نہ کھائے۔ بشرطیکہ اس نے اس میں خیانت نہ کی ہو۔ اس کے ساتھ دنیا نہ کھائی

ہو۔ اس کے ذریعہ دکھاوے وریا کاری میں مبتلا نہ ہو اور اس کو کسی غیر کے سپرد نہ کر دیا ہو۔ الدیلمی بروایت ابی عتبۃ الحمصی

۲۴۰۰ یہ قرآن جو تمہارے ہاں آویزاں ہیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں کہ تم ان کو بھول جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے دل کو عذاب

میں مبتلا نہیں کرتا۔ جس نے قرآن کو محفوظ کر رکھا ہو۔ الحکیم بروایت ابی امامۃ رضی اللہ عنہ

۲۴۰۱ اللہ اس بندے کو عذاب نہ فرمائیں گے جس نے قرآن کو یاد کر رکھا ہو۔ الدیلمی بروایت عقبۃ بن عامر

۲۴۰۲ اگر قرآن کو کسی چمڑے میں کر دیا جائے اور آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو جلانہ سکے گی۔ مسند احمد بروایت عقبۃ بن عامر

۲۴۰۳ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو آگ اس کو جلانہ سکے گی۔ ابن الضریس الحکیم بروایت عقبۃ بن عامر

۲۴۰۴ اگر قرآن کسی چمڑے میں ہو تو آگ اس کو چھو نہ سکے گی۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت سہل بن سعد شعب الإیمان بروایت عقبۃ بن عامر

۲۴۰۵ جس نے قرآن مصحف شریف قرآن میں دیکھ کر پڑھا، اس کے لئے دو ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جس نے قرآن مصحف شریف

میں دیکھے بغیر پڑھا، اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت اوس الثقفی

۲۴۰۶ جس نے مصحف شریف میں دیکھنے پر پابندی و دوام کیا جب تک دنیا میں رہے گا اس کو آنکھوں سے فائدہ پہنچتا رہے گا۔

ابو الشیخ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۴۰۷ جس نے قرآن دیکھ کر پڑھا اس کی بینائی محفوظ رہے گی۔ ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۴۰۸ جس نے ہر روز قرآن کی دو سو آیات دیکھ کر پڑھیں، اس کی قبر کے آس پاس والی سات قبروں کے لئے اس کی شفاعت قبول کی جائے

گی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین سے عذاب ہلکا کر دیں گے خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہوں۔

ابی داؤد فی المصاحف، الدیلمی بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

اس روایت میں اسمعیل بن عیاش، یحییٰ بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔ اور محدثین کا خیال ہے کہ اسمعیل کی روایت جازئین سے درست

نہیں ہوتی بخلاف شامیین کے۔ لیکن علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں فی الجملہ ان کی روایت کو قابل استدلال تسلیم

نہیں کرتا۔ من تکلم فیہ ج ۲ ص ۷۷

۲۴۰۹ جس نے دو سو آیات کی تلاوت کر لی اس نے بہت بڑا عمل انجام دیا۔ ابو نعیم بروایت المقدم

۲۴۱۰ جس نے راہ خدا میں ہزار آیات کی تلاوت کر لی، قیامت کے روز اس کا نام ثمنین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ لکھا جائے

گا۔ جن کی رفاقت کا کیا ہی کہنا؟ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، مسند احمد ابن السنی، المستدرک للحاکم، الصحیح للترمذی رحمۃ

اللہ علیہ بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

۲۴۱۱ جس نے رات کے پہر چالیس آیات کی تلاوت کر لی، اسے غافلین میں شمار نہ کیا جائے گا۔ اور جس نے سو آیات کی تلاوت کر لی،

اسے قانتین اطاعت شعرا بندوں میں لکھا جائے گا۔ اور جس نے دو سو آیات کی تلاوت کر لی، اس رات کی بابت قرآن اس کے خلاف حجت

نہیں کرے گا۔ اور جس نے رات کے وقت پانچ سو آیات کی تلاوت کر لی، اس کے لئے جنت کا خزانہ ہوگا۔

شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۴۱۲ جس نے رات کو تیس آیات کی تلاوت کی، اس رات کوئی درندہ یا چور اس کو ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ بلکہ وہ اور اس کے اہل خانہ اور مال سب

خیر و عافیت میں رہیں گے حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ الدیلمی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۳۱۳ ... جس نے رات کو ”الم سجده، اقربت الساعة، تبارک الذی“ ان تین سورتوں کی تلاوت کی، تو یہ اس کے لئے شیطان اور اس کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گی اور اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے درجات بلند فرمائیں گے۔ ابو الشیخ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا ۲۳۱۴ ... جس نے دل کی یادداشت کے ساتھ یاد رکھ کر قرآن کا ختم کیا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت عطا فرمائیں گے۔

ابن مردویہ بروایت ابن الزبیر

۲۳۱۵ ... جس نے دل کی یادداشت کے ساتھ یاد رکھ کر قرآن پڑھا حتیٰ کہ پورا کر لیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک ایسا درخت اگا دیں گے، اگر کوئی کو اس کے پتے میں اٹھے دے۔ پھر وہ اٹھے اور اڑنے لگے تو اس کو موت آجائے گی مگر اسی پتے کی مسافت قطع نہیں ہو سکے گی۔
الرافعی بروایت حذیفہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم تعقب شعب الإیمان وابن مردویہ بروایت ابن الزبیر

سات دن میں ختم قرآن

۲۳۱۶ ... جس نے سات دن میں قرآن ختم کر لیا، اللہ اس کو محسنین میں لکھ دیں گے۔ لیکن تین دن سے کم میں ختم نہ کرو بلکہ جو پڑھنے میں نشاط و رغبت محسوس کرے تو وہ حسن تلاوت میں وقت لگائے۔ الدیلمی بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ
۲۳۱۷ ... جس نے سات دن میں قرآن ختم کیا تو یہ مقررین کا عمل ہے۔ اور جس نے پانچ دن میں قرآن ختم کیا تو یہ صدیقین کا عمل ہے۔ اور جس نے تین دن میں قرآن ختم کیا تو یہ نبیین کا عمل ہے اور پُر از مشقت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم اس کی طاقت رکھو گے۔ لایہ کہ کوئی رات بھر مشقت اٹھائے، یا سورۃ شروع کر لے اور اس کو آخر تک پہنچانے کا ارادہ کر لے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا تین دن سے کم میں بھی ختم کیا جاسکتا ہے؟ فرمایا: نہیں بلکہ جو پڑھنے میں نشاط و رغبت محسوس کرے تو وہ حسن تلاوت میں وقت لگائے۔

الحکیم بروایت مجاہد مرسلا

۲۳۱۸ ... جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اور جماعتِ مسلمین کے ساتھ ہی مر گیا اللہ اس کو قیامت کے روز کا تین فرشتوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ابونصر السجزی فی الإبانۃ بروایت معاذ
حدیث حسن غریب ہے۔

۲۳۱۹ ... جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اور جماعتِ مسلمین کے ساتھ ہی مر گیا اللہ اس کو قیامت کے روز کا تین اور سردار فرشتوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور جس نے قرآن پڑھا اور وہ اس میں اکتا ہے لیکن پھر بھی چھوڑتا نہیں تو اس کو گناہ جبر ہوگا۔ اور جو قرآن کا حریص ہے لیکن اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا اور چھوڑتا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اس کے خاندان کے اشراف و معزز لوگوں میں اٹھائیں گے۔ اور ان کو مخلوق پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہوگی، جیسی سرخاں کو تمام پرندوں پر ہے۔ اور جیسے چراگاہ میں چشمہ کو آس پاس کی ساری زمین پر فوقیت ہوتی ہے۔ پھر ایک منادی نداء دے گا: کہاں ہیں وہ لوگ، جن کو جانوروں کا چرانا میری کتاب کی تلاوت سے مانع نہیں ہوتا تھا؟ وہ کھڑے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کو کرامت و عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پروانہ نور اس کے دائرے میں ہاتھ اور پروانہ خلد بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے والدین مسلمان ہوں گے تو ان کو دنیا اور اس کے ساز و سامان سے قیمتی جوڑا پہنایا جائے گا۔ وہ کہیں گے: یہ کس سبب سے؟ کہا جائے گا: تمہاری اولاد کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ ابن زنجویہ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ شعب الإیمان بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۳۲۰ ... جس نے قرآن پڑھا اور دن رات اس کی تلاوت کی۔ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اللہ تعالیٰ قرآن اس کے گوشت پوست اور رگ و پے میں بساتیں گے۔ اور کا تین، نیکو کار اور سردار فرشتوں کی رفاقت میسر فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ قرآن اس کے لئے حجت ہوگا۔ اور قرآن بارگاہِ رب العزت میں کہے گا: اے پروردگار! ہر شخص دنیا میں عمل کر کے اپنی اجر ت لیتا تھا سوائے اس شخص کے۔ یہ شب و روز مجھ ہی میں مصروف رہتا تھا۔ میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا۔ پس پروردگار! اس کو نواز دیجئے۔ پھر اس شخص

کوبادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا اور عزت و کرامت کا حملہ زیب تن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائیں گے: کیا اب تو راضی ہے؟ وہ کہے گا: پروردگار! میں تو اس کے لئے اس سے زیادہ کا خواہشمند تھا۔ تب اللہ تعالیٰ پروانہ سلطنت اس کے دائیں اور پروانہ ابدالآباد بائیں ہاتھ میں مرحمت فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمائیں گے: کیا اب تو راضی ہے؟ وہ کہے گا: پروردگار! جی پروردگار! اب میں راضی ہوں۔ اور جو شخص اس قرآن کو سن رسیدگی کے بعد حاصل کرے گا اور اس میں اٹکے گا اللہ تعالیٰ اس کو دھراجر مرحمت فرمائیں گے۔

شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۲۱۔ جو شخص اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے، تو قیامت کے روز اس کے والدین کو بادشاہت کا تاج اور ایسا لباس پہنائیں گے، کہ کسی انسان کی

نظر سے ایسا لباس نہ گذرا ہوگا۔ ابن عساکر بروایت ابان بن ابی عیاش: عن رجاء بن حیوة عن معاذ بن جبل

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے۔ ابان راوی ضعیف ہے۔ نیز رجاء کی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت نہیں۔

۲۳۲۲۔ قرآن اپنے قاری کے لئے قیامت کے روز کیا ہی بھلا شفاعت کنندہ ہوگا؟ بارگاہ رب العزت میں کہے گا: اس کے ساتھ اکرام کا

معاملہ فرمائیے! اس کو عزت و کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا پروردگار! ابھی اور اضافہ فرمائیے۔ پھر اس کو عزت و کرامت کا مکمل

لبادہ پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا پروردگار! اب یوں اور اضافہ فرمائیے، کہ اس کو اپنی رضاء کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ کیونکہ اللہ کی رضاء کے بعد

کوئی شے بڑی نہیں۔ ابو نعیم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ابن ابی شیبہ عنہ موقوفاً

۲۳۲۳۔ قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا تو قرآن کہے گا: یارب! اس کو خلعت مرحمت فرمائیے۔ اس کو عزت و کرامت کا تاج

پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا پروردگار! اب یوں اور اضافہ فرمائیے، کہ اس کو اپنی رضاء کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ تو پروردگار اس کو رضاء

کا پروانہ عطا فرمادیں گے۔ اور اس کو کہا جائے گا: قرآن پڑھتا اور اس کو ہر آیت کے بدلے ایک ایک نیکی عطا کی جائے گی۔

بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۲۴۔ جنت کے درجات کی تعداد آیات قرآنیہ کے بقدر ہے۔ قارئین قرآن میں سے جو فرد جنت میں داخل ہوگا اس سے اوپر کوئی درجہ نہ ہوگا۔

ابن مردویہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

جنت کے درجات کی تعداد

۲۳۲۵۔ جنت کے درجات کی تعداد آیات قرآنیہ کے بقدر ہے۔ ہر آیت کے مقابلہ میں ایک ایک درجہ ہے۔ قرآن کی آیات چھ ہزار دو سو سولہ

ہیں۔ جنت کے ہر دو درجوں کے درمیان آسمان وزمین کی مسافت ہے۔ اس طرح یہ جتنی شخص قرآن کے ذریعہ جنت کے اعلیٰ علیین سب سے

بلند درجہ تک پہنچ جائے گا۔ جس کے ستر ہزار ستون ہیں۔ اور وہ مکمل عمارت ایک یا قوت ہے۔ جو کئی دن و رات کی مسافت سے روشن

نظر آتا ہے۔ الدیلمی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۳۲۶۔ قرآن دس لاکھ ستائیس ہزار حروف کا مجموعہ ہے۔ جس نے اس کو صبر اور ثواب کی امید کے ساتھ پڑھا اس کے لئے ہر حرف کے بدلہ

ایک حور عین ہوگی۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن مردویہ۔ ابو نصر السجزی فی الإبانۃ بروایت عمر رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے مصنف فرماتے ہیں ابو نصر کی روایت سند متین دونوں ضعیف رکھتے ہیں۔ نیز اس میں قرآن کے مضمون کی مخالفت بھی

ہے۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ تلاوت منسوخ ہوگئی ہو جبکہ مضمون کی افادیت یونہی موجود ثابت ہو۔

خلاصہ کلام:..... احقر عرض کرتا ہے حدیث ضعیف ہے، دیکھئے المغیر ۱۰۶۔

۲۳۲۷۔ جس نے حالت قیام میں نماز میں قرآن پڑھا، اس کے لئے ہر حرف کے عوض سو نیکیاں ہوگی۔ جس نے بیٹھ کر نماز میں قرآن پڑھا،

اس کے لئے ہر حرف کے عوض پچاس نیکیاں ہوگی۔ جس نے بغیر نماز کے پڑھا اس کے لئے ہر حرف کے عوض دس نیکیاں ہوگی۔ جس نے قرآن

کو سنا اس کے لئے ہر حرف کے عوض ایک نیکی ہوگی۔ الذیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۳۲۸ نماز میں قرآن پڑھنا غیر نماز میں قرآن پڑھنے سے افضل و بہتر ہے۔ غیر نماز میں قرآن پڑھنا دوسرے ذکر و اذکار سے بہتر ہے۔ ذکر صدقہ سے بہتر ہے۔ صدقہ روزے سے بہتر ہے۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے۔ عمل کے بغیر قول کا اعتبار نہیں۔ عمل اور قول ہر دو کا نیت کے بغیر اعتبار نہیں۔ عمل، قول اور نیت کسی چیز کا اتباع سنت کے بغیر اعتبار نہیں۔ ابونصر السجزی فی الإبانۃ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کا مضمون وسند ہر دو ضعیف ہیں۔

۲۳۲۹ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف سنا، اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ دس خطائیں محو کی جائیں گی۔ دس درجات بلند کئے جائیں گے۔ جس نے بیٹھ کر نماز میں قرآن پڑھا، اس کے لئے ہر حرف کے عوض پچاس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ پچاس خطائیں محو کی جائیں گی۔ پچاس درجات بلند کئے جائیں گے۔

اور جس نے حالت قیام میں نماز میں قرآن کا ایک حرف پڑھا، اس کے لئے اس کے عوض سو نیکیاں لکھی جائیں گی۔ سو خطائیں محو کی جائیں گی۔ سو درجات بلند کئے جائیں گے۔ اور جس نے اتنا پڑھا کہ ختم تک پہنچا دیا اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے خواہ تاخیر کیوں نہ ہو جائے۔

الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
۲۳۳۰ جو قرآن کی فاتحہ میں یعنی کسی کے قرآن شروع کرتے وقت حاضر ہوا وہ گویا کہ راہ خدا میں کسی معترکہ کی فتح میں شریک ہوا۔ جو ختم قرآن پر حاضر ہوا وہ گویا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر ہوا۔ محمد بن نصر۔ ابن الصریمین بروایت ابی قلابہ مرسلاً

۲۳۳۱ جو قرآن کی فاتحہ میں حاضر ہوا وہ گویا کہ راہ خدا میں لڑے جانے والے معرکوں کی فتح میں شریک ہوا۔ جو ختم قرآن پر حاضر ہوا وہ گویا کہ مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر ہوا۔ ابوالشیخ۔ الذیلمی بروایت مختلف اسناد کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔
۲۳۳۲ قرآن پڑھتا رہے، قرآن پر سیکھنا نازل ہوتی ہے۔

مسند احمد الصحیح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ الصحیح لمسلم بروایت البراء رضی اللہ عنہ
ایک شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی تو گھر میں بندھا ایک جانور بدکنے لگا دیکھا تو ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ اس کا ذکر آپ ﷺ سے کیا تو آپ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

سورہ کہف کی فضیلت

۲۳۳۳ اے اسید پڑھتا رہتا۔ کیونکہ ملائکہ تیری آواز سن رہے تھے۔ اگر تو یوں ہی پڑھتا رہتا تو آسمان وزمین کے درمیان بادل کا سا سائبان رونما ہو جاتا، جسے تمام لوگ دیکھتے اور اس میں ملائکہ ہوتے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت محمود بن لید عن اسید بن حضیر
حضرت اسید رضی اللہ عنہ بن حضیر سے مروی ہے کہ انہوں نے رات کے پہر تلاوت شروع کی۔ ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ اپنے دائرے میں چکر کاٹنے لگا۔ تو انہوں نے تلاوت موقوف کر دی اور حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب مرحمت فرمایا۔

۲۳۳۴ اے اسید پڑھتا رہتا۔ کیونکہ یہ تو ایک فرشتہ تھا، جو قرآن سن رہا تھا۔ المصنف لعبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سلمۃ حضرت اسید رضی اللہ عنہ بن حضیر شرب کو نماز میں مشغول تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں: اچانک میں نے دیکھا کہ مجھے ابے کے نکلنے نے ڈھانپ لیا اور اس میں چراغ سے جل رہے ہیں۔ تو میں نے نماز موقوف کر دی۔ اور حضور ﷺ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب مرحمت فرمایا۔

۲۳۳۵ کوئی قوم مجتمع ہو کر کتاب اللہ کا آپس میں دور نہیں کرتی، مگر وہ اللہ کی مہمان بن جاتی ہے۔ اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اس مجلس سے کھڑے ہو جائیں یا کسی اور گفتگو میں مصروف ہو جائیں۔

اور جو بندہ اس خطرہ کے پیش نظر، کہ کہیں علم ناپید ہو جائے، علم کی تلاش و جستجو میں نکل کھڑا ہوا۔ یا کوئی بندہ اس خوف کے دامن گیر ہونے پر کہ کہیں علم مٹ جائے، اس کو لکھنے اور نقل کرنے کی غرض سے نکلا۔ وہ شب و روز جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف غازی کی طرح ہوگا۔ اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے، اس کا حسب نسب اس کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الرزین

۲۴۳۶ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم مجتمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت اور آپس میں اس کا درس نہیں دیتی، مگر ان پر سیکھنا نازل ہوتی ہے۔ رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر اپنے پاس حاضر ملائکہ سے فرماتے ہیں۔ اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ جائے، اس کا حسب نسب اس کو کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ المصنف لعبدالرزاق بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۴۳۷ جس گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، اس مبارک گھر میں ملائکہ حاضری دیتے ہیں۔ شیاطین اور آسپی اثرات وہاں سے دفعان ہو جاتے ہیں۔ اس گھر والوں میں وسعت و فراخی خوب ہو جاتی ہے۔ خیر بڑھ جاتا ہے، شر کم ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی شیاطین اور برے اثرات اس گھر میں ڈیرہ ڈال لیتے ہیں۔ ملائکہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس گھر والوں کے مال و رزق وغیرہ میں عسرت و تنگدستی ہو جاتی ہے۔ خیر کم ہو جاتا ہے۔ شر بڑھ جاتا ہے۔

محمد بن نصر بروایت انس رضی اللہ عنہ ابن ابی شیبہ محمد بن نصر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ موقوفاً

۲۴۳۸ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا: اے بنی اسرائیل! اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے: اس کی کتاب پڑھو۔ اور اس کی کتاب پڑھنے والوں کی مثال یوں ہے کہ ایک قوم اپنے قلعہ میں ہے۔ ان کا دشمن اس قلعہ کا رخ کرتا ہے۔ اہل قلعہ قلعہ کے ہر گوشہ میں پہرا بٹھا دیتے ہیں۔ دشمن آ کر جس جانب کا بھی رخ کرتا ہے وہاں محافظین قلعہ کو چوکس پاتا ہے، جو اس کو ہر اطراف سے دھکیل دیتے ہیں۔ تو بس یہی مثال قرآن پڑھنے والوں کی ہے۔ جو اپنے قلعہ و حفاظت گاہ میں محفوظ و پرامن ہیں۔

السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۴۳۹ اے معاذ! اگر تو خواہشمند ہے سعادت مندوں کی زندگی کا! شہیدوں کی موت کا! یوم حشر کی نجات کا! یوم خوف سے امن کا! تاریکیوں کے دن روشنی کا! تپتے دن سائے کا! پیاس و تشنگی کے دن سیرابی کا! بے سرو سامانی کے دن وزن اعمال کا! گمراہی و بھٹکنے کے دن سیدھی راہ کا! تو قرآن کو سینے سے لگا اور اس کو پڑھ۔ بے شک وہ رحمن کا ذکر ہے۔ شیطان سے حفاظت ہے اور میزان عمل میں گراں وزن ہے۔

الدیلمی بروایت غصیف بن الحارث

۲۴۴۰ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: جس کو تلاوت قرآن نے مجھ سے دعا و سوال کرنے سے مشغول رکھا، میں اس کو شکر گزاروں سے افضل عطا کروں گا۔ ابن الانباری فی الوقف و ابو عمرو الدانی فی طبقات القراء بروایت ابی سعید

۲۴۴۱ دل بھی لوہے کی مانند رنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! ان کی جلا کیا ہے؟ فرمایا: تلاوت قرآن۔

محمد بن نصر، الخرائطی فی اعتلال القلوب، الحلیہ، شعب الإیمان، الخطیب بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۲۴۴۲ اس کی تلاوت قرآن کریم عنقریب اس کو اس سے روک دے گی۔ السنن لسعید بروایت جابر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں آپ ﷺ کو کسی نے کہا کہ فلاں شخص رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے لیکن صبح کو چوری کرتا ہے تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۲۴۴۳ جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تفسیر و معانی کو بھی جان لیا لیکن پھر بھی اس پر عمل نہ کیا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

ابونعیم بروایت انس رضی اللہ عنہ

قرآن کریم کی شفاعت

۲۴۴۳ روز قیامت قرآن آدمی کے حلیہ میں آئے گا۔ پس ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، جس نے اس قرآن کو آدمی کے حلیہ میں اٹھا رکھا ہوگا۔ لیکن اس اٹھانے والے نے اس کا حق نہ ادا کیا ہوگا۔ تو وہ اس کے خلاف مدعی بنے گا اور کہے گا: اے پروردگار! اس نے مجھے اٹھایا۔ لیکن یہ برا اٹھانے والا ہے۔ اس نے میری حدود کو پامال کیا۔ میرے فرائض کو ضائع کیا۔ میری نافرمانی کا ارتکاب کیا۔ میری طاعت کو خیر آباد کہا۔ سو اس طرح قرآن اس کے خلاف طرح طرح کے الزامات عائد کرے گا۔ آخر اس کو کہا جائے گا: تمہارا اختیار ہے، اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا۔ جب تک کہ اس کو منہ کے بل جہنم میں نہ گرا دے۔ پھر ایک نیکو کار شخص کو لایا جائے گا اس نے بھی اس کو اٹھا رکھا ہوگا۔ اور اس کے حقوق کی حفاظت کی ہوگی۔ اس کے لئے اس پر سو قرآن حمایتی بن کر سامنے آئے گا اور کہے گا: اس نے مجھے اٹھایا اور میری حدود کی رعایت کی۔ میرے فرائض پر عمل کیا۔ میری نافرمانی سے اجتناب کیا۔ میری طاعت کا قیام رہا۔ اس طرح قرآن اس کے حق میں طرح طرح کی خوبیاں شمار کرے گا۔ حتیٰ کہ اسے کہا جائے گا: جاتا ہوں، اس کے ساتھ جو چاہے کرو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اس وقت تک نہیں چھوڑے گا۔ جب تک کہ اس کو ریشم کا حلیہ زیب تن نہ کر دے اور بادشاہت کا تاج اس کے سر پر نہ رکھو دے اور جام

شراب نہ پلوادے۔ ابن ابی شیبہ ابن الضریس بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ

۲۴۴۵ جس نے کسی امیر کے پاس مخصوص کے تقاضا سے کتاب اللہ پڑھی، اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اس پر لعنت فرمائیں گے۔ اور پھر اس پر یہ ایک لعنت دس لعنتیں بن کر برسیں گی۔ اور روز قیامت قرآن اس سے جھگڑے گا۔ تب یہ شخص اپنی ہلاکت کو روئے گا۔ انہی لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے ”آج اپنے لئے صرف ایک ہلاکت پر اکتفاء نہ کرو بلکہ اپنے لئے بہت سی ہلاکتیں پکارو۔“ الآیۃ۔

المسند لأبی یعلیٰ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما الدیلمی بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

دیلمی کی روایت میں ایک راوی عمرو بن بکر السلسکی ہے۔ اور یہ راوی غیر معتبر ہے اس کی مرویات منکر ہیں۔ مزید تفصیل دیکھئے میزان

الإعتدال ج ۵ ص ۳۰۰۔

۲۴۴۶ چاہت و رشک دو شخصوں کے سوا کسی میں جائز نہیں۔ ایک وہ، جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہا۔ دوسرا وہ شخص، جس کو اللہ نے مال خوب عطا کیا ہو اور وہ دن و رات اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔

محمد بن نصر فی الصلاة بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۴۴۷ قرآن پڑھنے والے کے لئے فقر و افلاس کا شائبہ نہیں۔ اور اس کے بغیر غنی کا تصور نہیں۔ ابن ابی شیبہ بروایت الحسن مرسلاً

۲۴۴۸ اے حاملین قرآن اہل آسمان اللہ کے ہاں تمہارا ذکر کرتے ہیں۔ پس تم مزید خوب کتاب اللہ کی تلاوت کر کے اس کے ہاں مقام

محبت پیدا کرو۔ اور وہ اپنی محبوبیت کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے ہاں بھی تم کو محبوب بنا دے۔ ابو نعیم بروایت صحیب

۲۴۴۹ جس نے قرآن پڑھنا شروع کیا لیکن حفظ کرنے سے قبل ہی موت نے اسے آلیا، تو اس کی قبر میں ایک فرشتہ اس کو پڑھائے گا حتیٰ کہ

وہ حافظ ہو جائے۔ ابو الحسن بن بشران فی فوائدہ وابن النجار بروایت ابی سعید

۲۴۵۰ جس نے قرآن پڑھا۔ اپنے رب کی حمد و ثناء کی۔ اپنے پیغمبر ﷺ پر درود بھیجا۔ اور اپنے رب سے استغفار کی، تو اس نے خیر کو صحیح جگہ

تلاش کر لیا۔ شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

یہ حدیث ضعیف ہے۔

۲۴۵۱ جس نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اسے جنت میں ایک درجہ نصیب ہوا اور نور کا چراغ اس کے لئے روشن ہوا۔

شعب الإیمان بروایت ابن عمرو

۲۴۵۲ جس نے حد بلوغت سے قبل ہی قرآن پڑھ لیا، اسے بچپن ہی میں حکمت و دانائی عطا ہوگئی۔

ابن مردویہ: شعب الإیمان بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۴۵۳ جس نے قرآن یاد کر لیا اللہ کے ہاں اس کی ایک دعا ضرور قبول ہوگی اب اس کا اختیار ہے خواہ دنیا ہی میں اس سے کچھ مانگ لے یا آخرت کے لئے کچھ مانگ کر ذخیرہ کر لے۔ عبدالجبار الخولانی فی تاریخ داریا بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۴۵۴ جو اولین و آخرین کا علم جمع کرنے کا خواہشمند ہو، وہ قرآن میں غور و تدبر کرے۔ الدیلیمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۴۵۵ قرآن کا ماہر، نیکو کار کتاب قرآن فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ شخص، جو قرآن کو پڑھتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، اس کو دہرا اجر ہوگا۔

الصحيح لابن حبان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۴۵۶ جس شخص کو قرآن اور ایمان کی دولت عطا ہوئی، وہ اس اترجہ پھل کی مانند ہے، جس کا ذائقہ بھی اچھا اور خوشبو بھی عمدہ۔ اور جو شخص قرآن

اور ایمان ہر دو کی دولت سے محروم رہا وہ ایلوے کی طرح ہے۔ ذائقہ تلخ تو خوشبو بھی نادر۔ اور اس شخص کی مثال، جس کو ایمان تو عطا ہوا لیکن قرآن کی

دولت سے محروم ہے کھجور کی مانند ہے۔ جس کا ذائقہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن خوشبو و مہک نہیں ہوتی۔ اور اس شخص کی مثال، جس کو قرآن عطا ہوا لیکن

ایمان کی دولت سے محروم ہے، ریحانہ پھول کی طرح ہے۔ جس کا ذائقہ تلخ، لیکن خوشبو عمدہ۔ الصحيح لابن حبان بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۲۴۵۷ قرآن اور انسانوں کی مثال اس پیاسی زمین اور بارش کی سی ہے۔ جو بغیر مردہ ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس پر بارش برسائی تو وہ زمین

لہلہا اٹھی۔ اللہ نے مزید موسلا دھار بارش برسائی تو زمین مزید شاداب و تر و تازہ ہوگئی۔ مینہ مسلسل برستا رہا۔ حتیٰ کہ وادیاں بہہ پڑیں اور زمین

کی سوتوں سے بیج نکل آئے اور اگنا شروع ہوئے۔ اللہ نے زمین سے اس کی زیب و زینت اور انسانوں اور جانوروں کا رزق نکالا تو بس قرآن

نے بھی انسانوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا۔ ابو نعیم والدیلیمی بروایت ابی سعید

۲۴۵۸ کوئی مؤمن مرد یا عورت ایسا نہیں جس کا جنت میں کوئی نائب نہ ہو۔ اگر مؤمن قرآن پڑھتا ہے تو وہ اس کے لئے محل تعمیر کرتا

ہے۔ اگر تسبیح کرتا ہے تو اس کے لئے درخت اگاتا ہے۔ مؤمن اگر قرآن و تسبیح کی رسد رسائی سے رک جاتا ہے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔

الصحيح للسخاوی رحمة الله عليه فی تاریخه الدیلیمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

اس میں ایک راوی یحییٰ بن حمید ہے، ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی مرویات درست نہیں۔

۲۴۵۹ اول کتاب ایک ہی عنوان اور ایک ہی لغت میں نازل ہوئی تھی۔ جبکہ قرآن سات عنوان اور سات لغات میں نازل ہوا ہے۔ نبی، امر،

حلال، حرام، محکم، تشابہ اور امثال۔ سو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانو۔ جس کا حکم ہوا ہے، اس کی تعمیل کرو۔ جس سے ممانعت کی گئی ہے،

اس سے باز رہو۔ امثال سے عبرت حاصل کرو۔ محکم یعنی ناقابل تاویل آیات و احکام پر عمل پیرا ہو۔ تشابہ یعنی مشتبہ المعنی آیات پر کھوج میں

پڑنے بغیر ایمان لے آؤ۔ اور یوں کہو ہم اس پر ایمان لے آئے اور یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔

ابن حزم۔ الفردوس للذیلیمی رحمة الله عليه. المستدرک للحاکم. ابو نصر السجزی فی الإبانة بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۴۶۰ تم پر تلاوت قرآن لازم ہے۔ شعب الإیمان

واخلة رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کو شکایت کی کہ اس کے حلق میں تکلیف ہے تو آپ ﷺ نے یہ فرمایا۔

۲۴۶۱ اللہ عزوجل نے کوئی ایسی آیت نازل نہیں کی، جس کا ظاہری و باطنی معنی نہ ہو۔ ہر حرف کی ایک حد ہے اور ہر حد کی ابتداء ہے۔

ابو عیید فی فضائلہ ابو نصر السجزی فی الإبانة بروایت الحسن مرسلا

۲۴۶۲ قرآن محض تلاوت کا نام نہیں علم محض روایت کرنے کا نام نہیں بلکہ قرآن ہدایت اور علم درایت سمجھنے کا نام ہے۔

الدیلیمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۴۶۳ جنت میں ایک نہر ہے، جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ اس پر مرجان کا ایک شہر آباد ہے۔ اس کے سونے چاندی کے ستر ہزار دروازے

ہیں۔ وہ حامل قرآن کے لئے ہوگا۔ ابن عساکر بروایت انس رضی اللہ عنہ

اس میں ایک راوی کثیر بن حکیم متروک ہے۔

۲۴۶۴ حاملین قرآن اہل جنت کے لقباء ہیں جن کا درجہ سردار سے قدرے کم ہوتا ہے اور شہداء اہل جنت کے دل ہیں۔ اور انبیاء اہل جنت کے سردار ہیں۔ ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۴۶۵ قرآن سارا درست ہے۔ البخاری رحمۃ اللہ علیہ فی تاریخہ بروایت رجل صحابی

۲۴۶۶ قرآن کسکسہ یا کشکشہ میں نازل نہیں ہوا بلکہ خالص عربی میں نازل ہوا ہے۔ ابو نعیم بروایت بریدۃ

عرب ہی کا قبیلہ بنی بکر سین کوکاف سے اور قبیلہ تمیم شین کوکاف سے بدل دیتا تھا۔ یہ کسی بھی وجہ سے ہو، فصاحت سے مانع ہے۔ اس وجہ قرآن میں اس کو استعمال نہیں کیا گیا۔ الغریب لابن قتیبہ ج ۲ / ص ۴۰۴

۲۴۶۷ قرآن اس شخص پر مشکل اور دشوار ہے، جو اس سے طبیعت میں کراہت و گرانی رکھتا ہو۔ اور آسان ہے اس شخص پر جو اس کا تتبع ہو۔ اور یہ فیصلہ کن قول ہے۔ اور میری حدیث بھی اس شخص پر مشکل اور دشوار ہے، جو اس سے طبیعت میں کراہت و گرانی رکھتا ہو۔ لیکن جس نے میری حدیث کو مضبوطی سے تھا ما اور اس کو سمجھا، حفظ کیا تو یہ بھی قرآن کے ساتھ آئے گی۔ اور جس نے قرآن و حدیث میں سستی و کاہلی برتی، اس نے دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھایا۔ ابو نعیم بروایت الحکم بن عمیر

قرآن و حدیث سے محبت کرو

۲۴۶۸ قرآن اس شخص پر دشوار ہے، جو اس سے طبیعت میں گرانی رکھتا ہو۔ اور آسان ہے اس شخص پر جو اس کا تتبع ہو۔ اور میری حدیث بھی اس شخص پر دشوار ہے، جو اس سے طبیعت میں کراہت رکھتا ہو۔ لیکن اپنے تتبع پر آسان ہے۔ جس نے میری حدیث کو سنا سمجھا اور حفظ کیا۔ پھر اس پر عمل بھی کیا تو یہ حدیث روز قیامت قرآن کے ساتھ آئے گی۔ جس نے میری حدیث میں لاپرواہی کا ثبوت دیا اس نے قرآن میں بھی تساہل سے کام لیا اور جس نے قرآن و حدیث میں سستی و کاہلی برتی، اس نے دنیا و آخرت میں خسارہ اٹھایا۔

الخطیب فی الجامع بروایت الحکم بن عمیر الثمالی

۲۴۶۹ قرآن مختلف مراتب و حیثیات رکھتا ہے۔ پس تم عمدہ حیثیات میں اس کے حامل بن جاؤ۔ ابو نعیم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۴۷۰ قرآن اللہ عزوجل کا کلام ہے۔ پس صاحب قرآن محارم الہیہ سے اجتناب کر کے اپنے رب کی عظمت کرے۔

ابو نعیم بروایت جویسر عن الضحاک بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۴۷۱ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ صبح تڑکے وادیء بطنان و عقیق جائے اور دوسرے کو بان، والی اونٹنیاں بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے؟ تو وہ شخص صبح سویرے مسجد کو جائے اور کتاب اللہ کی دو آیات پڑھ کر یا سیکھ کر آجائے۔ یہ اس کے لئے ان دو اونٹنیوں سے بدرجہا بہتر ہے۔ اسی طرح تین آیتیں تین اونٹنیوں سے اور چار چار سے، اسی طرح اونٹنیوں کی تعداد سے آیات کی تعداد بہتر ہے۔

ابو داؤد، المسند لأبی یعلیٰ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

۲۴۷۲ آگاہ رہو جو اپنے رب کا مشتاق ہے وہ اس کا کلام سنے۔ کیونکہ قرآن کی مثال مشک کی اس تھیلی کی سی ہے جس کا مزہ کھول

دیا گیا ہو اور اس کی خوشبو و مہک ہر سو پھوٹ پڑی ہو۔ الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۴۷۳ کیا میں تم کو تجارت میں اس سے زیادہ نفع اٹھانے والا نہ بتاؤں، وہ شخص جو قرآن کی دس آیات سیکھ لے۔

المسند لأبی یعلیٰ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، شعب الإیمان، السنن لسعید بروایت ابی امامۃ رضی اللہ عنہ

۲۴۷۴ قرآن ایسا شفاعت کنندہ ہے، جس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے اور ایسا مدعی ہے، جس کا دعویٰ تسلیم کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن

جس کے لئے قرآن نے شفاعت کر دی وہ نجات پا گیا۔ اور اس روز جس کے خلاف دعویٰ کر دیا اللہ اس کو جہنم میں اوندھا گردا دیں گے۔

محمد بن نصر بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۴۷۵ جب صاحب قرآن اپنی قبر سے اٹھے گا یہ قرآن خود رونو و جوان کی شکل میں اس سے ملے گا اور کہے گا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ فنی میں جواب دے گا۔ قرآن کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ میں نے تجھے گرمیوں شدید و پھر میں تشنہ رکھا تیری راتوں کو بیدار رکھا اور ہر شخص دنیا میں تجارت کر کے اپنا نفع لیتا تھا۔ سو آج میں تیرے لئے ہر تجارت سے زیادہ نفع مند بنوں گا۔ پھر پروانہ سلطنت اس کے دائیں اور پروانہ ابدلاً بادبائیں ہاتھ میں مرحمت کر دیا جائے گا۔ اور اس کے سر پر وقار و عظمت کا تاج رکھ دیا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسا لباس زیب تن کیا جائے گا۔ کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ والدین کہیں گے یہ کس وجہ سے؟ کہا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات اور بالا خانوں پر ترقی کرتا جا تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا خواہ

سبک روی سے پڑھے یا دھیرے دھیرے۔ ابن ابی شیبہ، محمد بن نصر، ابن الضریس بروایت بریدۃ

۲۴۷۶ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے پاس آئے گا جس وقت وہ اس کے سخت محتاج ہوں گے۔ وہ مسلمان سے کہے گا: میں وہی ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے اور اس کی جدائی تم پر شاق گذرتی تھی۔ جو تمہیں بھوکا پیاسا اور مسلسل محنت و مشقت میں ڈالے رکھتا تھا۔ وہ بندہ کہے گا شاید تو قرآن ہے؟ پھر قرآن اس کو ساتھ لے کر پروردگار عزوجل کے ہاں پہنچے گا۔ پھر پروانہ سلطنت اس کے دائیں اور پروانہ ابدلاً بادبائیں ہاتھ میں مرحمت کر دیا جائے گا۔ اور اس کے سر پر وقار و عظمت کا تاج رکھ دیا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسا لباس زیب تن کیا جائے گا، کہ ساری دنیا کئی گنا ہو کر بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ والدین کہیں گے یہ کس وجہ سے جبکہ ہمارے اعمال تو اس درجہ تک نہ تھے؟ کہا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ ابن الضریس بروایت ابی امامۃ

۲۴۷۷ اول کتاب ایک ہی عنوان اور ایک ہی لغت میں نازل ہوئی تھی۔ جبکہ قرآن سات عنوان اور سات لغات پر نازل ہوا ہے۔ نبی، امر، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال۔ سو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جان۔ جس کا حکم ہوا ہے، اس کی تعمیل کر۔ جس سے ممانعت کی گئی ہے، اس سے باز رہو۔ محکم یعنی ناقابل تاویل آیات و احکام پر عمل پیرا رہو۔ متشابہ یعنی آیات پر کھوج میں پڑے بغیر ایمان لے آؤ اور توقف اختیار کرو۔ امثال سے عبرت حاصل کرو۔ اور جان رکھو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عمر بن سلمۃ

۲۴۷۸ جس دل میں کچھ بھی قرآن نہیں وہ ویران و اجڑے گھر کی مانند ہے۔ مسند احمد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، نیز فرمایا: حسن صحیح ہے۔

ابن منیع، ابن الضریس، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم، ابن مردودہ، شعب الإیمان، السنن لسعید بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۴۷۹ جو قرآن کو اونچی آواز سے پڑھتا ہے وہ اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اور جو پست آواز میں قرآن پڑھتا ہے وہ خفیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی امامۃ

۲۴۸۰ بے شک کترین و بے وقعت گھر وہ ہے جس میں کچھ بھی کلام الہی نہیں۔ قرآن پڑھتے رہو، ہر حرف پر دس نیکیاں ملیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ ”الہم“ ایک حرف ہے۔ بلکہ الف۔ لام۔ میم جدا جدا حرف ہیں۔ شعب الإیمان بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۴۸۱ مؤمنین کے گھر عرش والوں کے ہاں روشن چراغ ہیں، جن کو ساتوں آسمان کے ملائکہ مقررین جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ مؤمنین کے گھر ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ الحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۴۸۲ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی اقوام کو نعت و بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سی اقوام کو ہستی و ذلت کا شکار کرتے ہیں۔

الصحیح لابن حبان بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۲۴۸۳ اللہ تعالیٰ غضب میں نہیں آتے اور جب آتے ہیں تو ملائکہ غضب الہی کی وجہ سے سبج میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر جب

پروردگار زمین کی طرف دیکھتے ہیں اور بچوں کو قرآن پڑھتا پاتے ہیں تو خوشی سے بھر جاتے ہیں۔

الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، الشیرازی فی الألقاب، الدیلمی، ابن عساکر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
مصنف فرماتے ہیں حدیث منکر ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو من گھڑت احادیث میں شمار کیا ہے۔

۲۴۸۴ جب اللہ تعالیٰ غضب میں آتے ہیں تو ملائکہ غضب الہی کی وجہ سے تسبیح میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر جب پروردگار حاملین قرآن
کی طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے بھر جاتے ہیں۔ الدیلمی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۴۸۵ اللہ تعالیٰ قرآن کے لئے توجہ فرماتے ہیں اور اس کو اس کے اہل سے سنتے ہیں۔ الدیلمی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۴۸۶ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بذات خود قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، تو لوگوں کو محسوس ہوگا آج سے پہلے کبھی سنا ہی
نہیں۔ پھر مؤمنین اس کو یاد کر لیں گے اور منافقین بھول جائیں گے۔ الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۴۸۷ قرآن کا اکرام کرو۔ اس کو کچے کپکپھروں پر نہ لکھو۔ بلکہ ایسی اشیاء پر لکھو جن سے مٹایا جاسکے، اور اس کو تھوک سے نہ مٹاؤ بلکہ پانی
سے مٹاؤ۔ الدیلمی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۴۸۸ جب حامل قرآن مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرماتے ہیں اس کا گوشت نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے: الہی! میں کیسے اس کا گوشت
کھا سکتی ہوں؟ جبکہ تیرا کلام اس کے پیٹ میں ہے۔ الدیلمی بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۴۸۹ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ الدیلمی بروایت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ

فصل دوم..... سور و آیات قرآنیہ اور بسم اللہ کے فضائل میں

۲۴۹۰ ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ ہر کتاب کی مفتاح ہے۔ الخطیب فی الجامع بروایت ابی جعفر مرسلًا

۲۴۹۱ ہر مہتمم بالشان امر، جس کی ابتداء ”بِسْمِ اللّٰهِ“ سے نہ کی جائے، وہ بے برکت رہتا ہے۔

عبدالقادر الرہاوی فی الأربعین بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

الاکمال

۲۴۹۲ سنو، کیا میں تمہیں ایسی آیت نہ بتاؤں، جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد میرے سوا کسی پر نازل نہیں ہوئی وہ ”بِسْمِ

اللہ الرحمن الرحیم“ ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت سلیمان بن بویدہ عن ابیہ

۲۴۹۳ مسجد سے نہ نکلتا تا وقتیکہ میں تمہیں ایک سورۃ کی ایسی آیت نہ بتاؤں، جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے بعد میرے سوا کسی
پر نازل نہیں ہوئی۔ پھر آپ ﷺ نے اسی شخص سے دریافت کیا: تم کس چیز سے اپنی نماز و قرأت کی ابتداء کرتے ہو؟ عرض کیا ”بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ سے فرمایا: بس یہی یہی۔ الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت بویدہ

حدیث ضعیف ہے۔

۲۴۹۴ جس نے ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ چھوڑ دی اس نے کتاب اللہ کی ایک آیت چھوڑ دی۔ مجھ پر ام الکتاب کی جو آیات نازل

ہوئیں انہی میں ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ بھی ہے۔ الدیلمی بروایت طلحہ بن عبید اللہ

سورہ فاتحہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرَ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ ۝ آمِیْن

۲۳۹۵ سورہ فاتحہ تہائی قرآن کے مساوی ہے۔ عبد بن حمید بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۳۹۶ اللہ تعالیٰ نے انجیل و توراہ میں بھی ام القرآن جیسی سورت نازل نہیں فرمائی اور وہ بار بار پڑھی جانے والی سات آیات ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے۔ اس میں جو بندے کے سوال ہیں وہ اس کو عطا ہوں گے۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه، النسائی بروایت ابی رضی اللہ عنہ

۲۳۹۷ قسم ہے اس ہستی کی، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! قرآن میں، نذریہ میں، نذائیل میں اور نذرفرقان حمید میں ام القرآن کی مثل کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اور وہ بار بار پڑھی جانے والی سات آیات ہیں، اور قرآن عظیم جو مجھے عطا کئے گئے۔

مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۳۹۸ فاتحہ الکتاب اس چیز کی طرف سے بھی کفایت کرتی ہے جس کے لئے قرآن کافی نہیں۔ اگر فاتحہ الکتاب کو ایک پلے میں اور قرآن کو دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو فاتحہ قرآن پر سات مرتبہ بھاری ہوگی۔

الفردوس للديلمی رحمة الله عليه بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۳۹۹ فاتحہ الکتاب زہر سے بھی شفاء دیتی ہے۔ السنن لسعيد، الصحيح لابن حبان او شعب الإيمان بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ ابو الشیخ فی الثواب بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی سعید رضی اللہ عنہ

۲۵۰۰ فاتحہ الکتاب ہر بیماری سے شفاء ہے۔ شعب الإيمان عبدالملک بن عمیر مرسلاً

۲۵۰۱ فاتحہ الکتاب عرش کے نیچے خزانے سے نازل کی گئی ہے۔ ابن راہویہ بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۵۰۲ بندہ کسی گھر میں فاتحہ الکتاب اور آیۃ الکرسی پڑھے تو اس دن اس گھر والوں کو کسی انسان یا جن کی نظر بد نہیں لگ سکتی۔

الفردوس للديلمی رحمة الله عليه بروایت عمران بن حصین

۲۵۰۳ افضل القرآن فاتحہ الکتاب ہے۔ المستدرک للحاکم، شعب الإيمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۵۰۴ چار چیزیں عرش کے نیچے خزانے سے اتری ہیں، ام الکتاب سورہ فاتحہ آیۃ الکرسی، سورہ بقرہ کی اختتامی آیات اور سورہ کوثر۔

الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه، ابو الشیخ، الضیاء بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

سورۃ البقرۃ کی آخری آیات کا جہاں بھی ذکر ہو اس سے امن الرسول سے آخر تک کی آیات مراد ہیں

۲۵۰۵ الحمد للہ رب العالمین ام القرآن، ام الکتاب اور سبع المثانی بار بار پڑھی جانے والی سات آیات ہے۔

ابوداؤد، الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

فاتحہ بندہ اور رب کے درمیان منقسم ہے

۲۵۰۶ اللہ نے مجھ پر جن چیزوں کا خاص احسان فرمایا ہے، انہی میں مجھے فرمایا: میں تجھے فاتحہ الکتاب عطا کرتا ہوں اور یہ میرے عرش

کے نیچے خزانوں میں سے ہے۔ اس کو میں نے اپنے اور تیرے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے۔

ابن الضریس، شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

نصف نصف تقسیم کر لیا ہے۔ یعنی الحمد سے مالک یوم الدین میں رب کی توصیف و ثناء ہے۔ ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین

مشترک ہے اور اھدنا سے آخر تک بندہ کے لئے دعا ہے۔

۲۵۰۷ ام القرآن اپنے سوا ہر شیء کا بدل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا بدل کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ الدار قطنی، المستدرک للحاکم بروایت عبادۃ

۲۵۰۸ کیا میں تمہیں قرآن کی سورتوں میں سب سے بہتر سورت نہ بتاؤں؟ وہ الحمد للہ رب العالمین ہے۔

مسند احمد بروایت عبداللہ بن حابر البیاض

۲۵۰۹ ہر ہتم بالشان اور اہم کام، جس کی ابتداء ”الحمد للہ“ سے نہ کی جائے، وہ بے برکت رہتا ہے۔ بیہقی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۵۱۰ ہر ذی شان اور اہم کام، جس کی ابتداء الحمد للہ اور مجھ پر درود سے نہ کی جائے وہ بے برکت اور دم بریدہ انجام تک نہ پہنچے والا رہتا

ہے۔ اس سے ساری برکت اٹھ جاتی ہے۔ الرھاوی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۵۱۱ ہر ہتم بالشان جس میں الحمد للہ سے ابتداء نہ کی جائے وہ اذھور رہتا ہے۔ ابو داؤد بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۵۱۲ امین بندگان مؤمنین کی زبان پر رب العالمین کی مہر ہے۔

الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ فی الدعاء بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

یعنی دعا اور سورۃ فاتحہ کے اخیر میں امین کہنا، گویا اس کی قبولیت پر اللہ سے مہر لگوا لینا ہے۔

الاکمال

۲۵۱۳ قرآن میں سب سے عظیم سورت الحمد للہ رب العالمین ہے۔ بروایت ابی سعید بن المعلی

۲۵۱۴ کیا میں تجھے افضل القرآن نہ بتاؤں؟ وہ الحمد للہ رب العالمین ہے۔

سمویہ، ابن ابی شیبہ المستدرک للحاکم شعب الإیمان ضض بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۵۱۵ اے عبداللہ بن جابر! کیا میں تمہیں فرقان کی سورتوں میں سب سے بہترین سورۃ نہ بتاؤں؟ وہ الحمد للہ رب العالمین ہے۔

مسند احمد، السنن لسعید بروایت عبداللہ بن جراد البیاضی

عبداللہ بن جراد البیاضی کے متعلق کوئی ذکر نہیں کہ وہ کیا شخص تھا لہذا اس کی روایت درست نہیں۔ میزان ج ۲ ص ۲۰۰

۱۵۱۶ اے جابر! کیا میں تمہیں وہ بہترین سورۃ نہ بتاؤں، جو قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ وہ فاتحہ الکتاب ہے۔ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔

شعب الإیمان بروایت جابر

۲۵۱۷ کیا میں تمہیں وہ بہترین سورۃ نہ بتاؤں جو توراہ میں اور نہ زبور میں، اور نہ ہی انجیل و قرآن میں نازل ہوئی؟ عرض کیا کیوں نہیں۔ تو

آپ ﷺ نے پوچھا تم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا فاتحہ الکتاب۔ فرمایا بس وہی وہی۔ اور یہ بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے۔ یہ اور قرآن مجھے عطا کیا گیا ہے۔

عبد بن حمید، الدارمی، ابن خزیمہ، الزوائد لابن احمد المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ

۲۵۱۸ تورات و انجیل میں ام القرآن جیسی کوئی سورت نہیں۔ اور یہ بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے۔ اس میں جو بندے کے سوال ہیں وہ اس کو عطا ہوں گے۔

الصحيح لابن حبان بروایت ابی رضی اللہ عنہ بن کعب

۲۵۱۹ الحمد لله رب العالمین سات آیات ہیں ان میں سے ایک ”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ ہے۔ اور یہ سبع مثانی اور قرآن کریم ہے۔ یہی ام القرآن ہے۔ یہی فاتحہ الكتاب ہے۔ السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ضعیف ہے۔ النافلہ ص ۱۳۵

۲۵۲۰ اللہ نے مجھ پر جن چیزوں کا خاص احسان فرمایا ہے، انہی میں مجھے فرمایا: میں تجھے فاتحہ الكتاب عطا کرتا ہوں اور یہ میرے عرش کے نیچے خزانوں میں سے ہے۔ اس کو میں نے اپنے اور تیرے درمیان نصف نصف تقسیم کر لیا ہے۔

ابن الضریس، شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ نصف نصف تقسیم کر لیا ہے۔ یعنی الحمد سے مالک یوم الدین میں رب کی توصیف و ثناء ہے۔ ایسا کہ نعبد و ایسا کہ نستعین مشترک ہے اور اھدنا سے آخر تک بندہ کے لئے دعا ہے۔

۲۵۲۱ فاتحہ الكتاب عرش کے نیچے خزانوں میں سے نازل ہوئی ہے۔ الدیلمی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۵۲۲ جس نے ام القرآن اور قل هو اللہ احد پڑھی، گویا اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا۔ ابو نعیم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

سورة البقرة

۲۵۲۳ قرآن میں افضل ترین سورت سورة البقرة ہے۔ اور اس میں عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ شیطان جس گھر میں سورة البقرة پڑھی جاتی سن لے، اس سے نکل جاتا ہے۔ الحاوت و ابن الضریس، محمد بن نصر بروایت الحسن مرسلًا اپنے گھروں میں سورة البقرة پڑھا کرو، کیونکہ شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس میں سورة البقرة پڑھی جاتی ہو۔

المستدرک للحاکم، شعب الإیمان بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۲۵۲۵ قرآن میں افضل ترین سورت سورة البقرة ہے۔ اور افضل ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ البغوی فی معجمہ بروایت ربیعۃ الجرشی ۲۵۲۶ جس نے اپنے گھر میں رات کے پہر سورة البقرة پڑھی، شیطان اس گھر میں تین رات تک داخل نہ ہوگا۔ اور جس نے اس کو اپنے گھر دن میں پڑھا تین دن تک داخل نہ ہوگا۔

المسنلدأبی یعلی، الصحیح لابن حبان، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت سهل بن سعد ۲۵۲۷ ہر چیز کی کوہان بلندی ہوتی ہے۔ اور قرآن کی کوہان سورة البقرة ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، جو آیات قرآنیہ کا سردار ہے۔ وہ آیت الکرسی ہے۔ الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۲۵۲۸ مجھے پہلے صحائف سے سورة البقرة دی گئی اور الواح موسیٰ علیہ السلام یعنی انجیل کی تختیوں سے طہ، طواسین اور حوامیم عطا کی گئی ہیں۔ اور سورة الفاتحة اور سورة البقرة کی آخری آیات عرش کے نیچے سے عطا کی گئیں۔

التاریخ للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن الضریس بروایت الحسن مرسلًا ۲۵۲۹ مجھے یہ سورة البقرة کی آخری آیات عرش کے نیچے سے عطا ہوئی ہیں، جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ مسند احمد بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ ۲۵۳۰ اپنے گھروں میں سورة البقرة پڑھا کرو۔ اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس نے سورة البقرة پڑھی اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔

شعب الإیمان بروایت الصلصال بن دھمس ۲۵۳۱ جس نے سورة البقرة پڑھی اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ شعب الإیمان بروایت الصلصال

۲۵۳۲ جس سورت میں ”بقرة“ لگائے کا ذکر ہے، وہ سورت قرآن کا خیمہ ہے۔ اس کو سکھو۔ اس کا سیکھنا موجب برکت۔ اس کا ترک کرنا

موجب حسرت ہے۔ باطل لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ
 ۲۵۳۳ مجھے آیۃ الکرسی تحت العرش سے ملی ہے۔ التاريخ للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابن الضریس بروایت الحسن مرسلًا
 ۲۵۳۴ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی، اس کو دخول جنت سے موت کے سوا کوئی شے مانع نہیں۔

الصحيح لابن حبان بروایت ابی امامة

۲۵۳۵ جس نے رات کے پہر سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات پڑھیں، یہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گی۔ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
 ۲۵۳۶ آیۃ الکرسی چوتھائی قرآن ہے۔ ابو الشیخ فی الثواب
 ۲۵۳۷ دو آیاتیں وہی قرآن ہیں۔ وہ شفاعت کرنے والی ہیں۔ اللہ ان کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ وہ سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات ہیں۔

الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۵۳۸ سورۃ البقرۃ کی ان دو آخری آیات کو پڑھو۔ میرے رب نے مجھے یہ عرش کے نیچے سے عطا کی ہیں۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عقبہ بن عامر

۲۵۳۹ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت آیۃ الکرسی ہے۔ سب سے عدل والی آیت ”ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان“ الخ۔ سب
 سے خوف زدہ کرنے والی آیت ”فمن یعمل مثقال ذرۃ خیراً یرہ، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرّاً یرہ“۔ سب سے زیادہ امید رساں اور دل
 کو تقویت بخش آیت ”قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لاتقنطوا من رحمۃ اللہ“ ہے۔

الشیرازی فی الألقاب، ابن مردویہ، الہروی فی فضائلہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۵۴۰ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرۃ کا اختتام ایسی دو آیات پر فرمایا ہے، جو اس نے مجھے تحت العرش خزانے سے عطا کی ہیں۔ پس تم خود بھی ان
 کو دیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ۔ کیونکہ وہ درود قرآن اور دعا سب کچھ ہے۔ المستدرک للحاکم بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ
 ۲۵۴۱ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تخلیق کرنے سے دو ہزار سال قبل ایک کتاب لکھی؟ جو عرش کے پاس ہے۔ اسی سے دو آیات نازل کیں جن پر سورۃ
 بقرہ کا اختتام فرمایا۔ یہ دو آیات کسی گھر میں نہیں پڑھی جاتی مگر شیطان تین رات تک اس گھر کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔

بخاری و مسلم، النسائی، المستدرک للحاکم، المسند لأبی یعلین النعمان بن بشیر

۲۵۴۲ جس نے رات کے پہر سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات پڑھیں، یہ اس کے لئے کافی ہو جائیں گی۔

مسند احمد بخاری و مسلم ابن ماجہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

سورۃ ال عمران

۲۵۴۳ جس نے روز جمعہ کو وہ سورت پڑھی، جس میں ال عمران یعنی حضرت عمران اور ان کی دختر مریم علیہ السلام علیہ السلام اور نواسے عیسیٰ
 علیہ السلام وغیرہ کا ذکر ہے، تو غروب شمس تک اللہ اور اس کے ملائکہ اس پر رحمت بھیجیں گے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۵۴۴ قرآن پڑھو کیونکہ یہ روز قیامت اپنے اصحاب کے لئے شفاعت کا رکن کر آئے گا۔ درویش سورتیں یعنی سورۃ البقرۃ و سورۃ ال عمران
 پڑھو۔ کیونکہ وہ روز حشر اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی مانند چھا جائیں گی یا صف در صف پرندوں کے غول کی مانند آئیں گی اور اپنے پڑھنے
 والوں کی حمایت میں جھگیں گی۔ سورۃ البقرۃ پڑھو۔ کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت اور ترک کرنا باعث حسرت و ندامت ہے۔ باطل لوگ اس
 کی ہمت نہیں رکھتے۔ مسند احمد، الصحيح لمسلم بروایت ابی امامة

۲۵۴۵ قرآن اور اس کے اپنے پڑھنے والے آئیں گے۔ سورۃ البقرۃ اور سورۃ ال عمران آگے آگے ہوں گی وہ یوں ہوں گی گویا بادل کے دو

نکلے ہیں اور ان کے بیچ سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ یاد دہانی بادل ہیں۔ یا صاف درصاف پرندوں کے دونوں ہیں جو اپنے صاحبان کی طرف سے جھگڑ رہے ہیں۔ مسند احمد الصبیح لمسلم الصبیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت النواس بن سمان ۲۵۴۶ اللہ تعالیٰ اس بندے کو خواب و خاسر نہ فرمائیں گے جو رات کے اندھیرے میں اٹھے اور نماز شروع کر دے اور اس میں سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران شروع کر دے۔ پس مرد مؤمن کے لئے سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران کی عظیم خزانہ ہے۔

الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ الحلیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

الاکمال

۲۵۴۷ قرآن میں افضل ترین سورت سورۃ البقرۃ ہے۔ اور افضل ترین آیت آیۃ الکرسی ہے۔ البغوی فی معجمہ بروایت ربیعۃ الجرجسی
۲۵۴۸ سورۃ البقرۃ قرآن کی کوہان اور اس کی بلندی و عظمت ہے۔ اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی اسی ملائکہ نازل ہوتے ہوئے ہیں۔ اور ”اللہ لا الہ الاہو الحی القیوم“ غرش کے نیچے سے نازل ہوئی ہے۔ اور اسی تک پہنچتی ہے۔ اور سورۃ بس قرآن کا دل ہے۔ کوئی شخص اللہ کی رضاء اور آخرت سنوارنے کے لئے نہیں پڑھتا مگر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمادیتے ہیں۔ اس کو اپنے مردوں پر بھی پڑھا کرو۔

مسند احمد الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالشیخ بروایت معقل بن یسار

۲۵۴۹ ہر شیء کی ایک کوہان یعنی عظمت و بلندی کی چیز ہوتی ہے۔ قرآن کی کوہان اور اس کی بلندی و عظمت سورۃ البقرۃ ہے۔ جس نے اپنے گھر میں رات کے پہر سورۃ البقرۃ پڑھی، شیطان اس گھر میں تین رات تک داخل نہ ہوگا۔ اور جس نے اس کو اپنے گھر دن میں پڑھا تین دن تک داخل نہ ہوگا۔ المسند لأبی یعلیٰ، الصحیح لابن حبان، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان السنن لسعید بروایت سهل بن سعد
۲۵۵۰ قرآن پڑھو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے! کہ جس گھر میں سورۃ البقرۃ پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۵۵۱ میں کسی کو نہ پاؤں کی وہ ٹانگ پر ٹانگ دھرے نخوت و غرور سے گانا گارہا ہے اور سورۃ بقرہ کو ترک کئے بیٹھا ہے۔ اس کی تلاوت کرو کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ گھروں میں سے خالی دویران گھر وہ دل ہے، جو کتاب اللہ سے خالی ہو۔ شعب الإیمان بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۵۵۲ جس سورت میں ”بقرۃ“ گائے کا ذکر ہے، وہ سورت قرآن کا خیمہ ہے۔ اس کو یکھو۔ اس کا یکھنا موجب برکت ہے اور اس کا ترک کرنا موجب حسرت ہے۔ باطل لوگ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ
۲۵۵۳ اپنے گھروں میں سورۃ البقرۃ پڑھا کرو۔ اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ شعب الإیمان بروایت الصلصال
۲۵۵۴ جس نے سورۃ البقرۃ پڑھی اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔

شعب الإیمان بروایت محمد بن نصر عن الصلصال بن دھمس عن ابیہ عن حدہ

۲۵۵۵ جس نے سورۃ البقرۃ پڑھی اسے جنت میں تاج پہنایا جائے گا۔ ابونعیم بروایت ابن عمرو

آیۃ والہکم..... از الاکمال

۲۵۵۶ مردود سرکش جنوں کے لئے سورۃ البقرۃ کی ان دو آیات ”والہکم اللہ واحد“ سے بڑھ کر کوئی سخت چیز نہیں ہے۔

الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

آیۃ الکرسی..... از الاکمال

- ۲۵۵۷ سورۃ البقرۃ جس میں قرآن کی تمام آیات کی سردار آیت ہے کسی گھر میں نہیں پڑھی جاتی، مگر شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ سردار آیت آیۃ الکرسی ہے۔ المستدرک للحاکم، شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۲۵۵۸ البقرۃ جس میں قرآن کی تمام آیات کی سردار آیت ہے۔ کسی ایسے گھر میں نہیں پڑھی جاتی جس میں شیطان ہو مگر وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اور وہ سردار آیت آیۃ الکرسی ہے۔ المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۲۵۵۹ اے ابومنذر! کیا جانتے ہو کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے؟ عرض کیا: آیۃ الکرسی۔ فرمایا: اے ابومنذر! یہ علم تجھے مبارک ہو۔ تم ہے اس ہستی کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اقیامت کے دن اس کی ایک زبان ہوگی دو ہونٹ ہوں گے اور یہ پایۂ عرش کے پاس خداوند بادشاہ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ ابو داؤد الطیالسی، مسند احمد، عبد بن حمید، شعب الإیمان بروایت ابی بن کعب
- اس روایت کا شروع حصہ عن ابی سے یا ابوالمنذر تک مسلم، ابوداؤد اور مستدرک للحاکم نے بھی ذکر کیا ہے۔
- ۲۵۶۰ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت آیۃ الکرسی ہے۔ سب سے عدل والی آیت ”ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان“ الخ۔ سب سے خوف زدہ کرنے والی آیت ”فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ“۔ سب سے زیادہ امید رساں اور دل کو تقویت بخش آیت ”قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ“ ہے۔
- الشیرازی فی الألقاب، ابن مردویہ، الہروی فی فضائلہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
- ۲۵۶۱ بہر حال وہ سچ کہہ گیا اگرچہ وہ ہے جھوٹا ہے مسلسل تین راتوں سے کون تیرا مخاطب تھا عرض کیا نہیں، فرمایا وہ شیطان تھا۔
- الصحیح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۲۵۶۲ وہ تجھ سے سچ کہہ گیا اگرچہ وہ جھوٹا ہے۔
- المستدرک للحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی اسید
- ۲۵۶۳ مجھے آیۃ الکرسی عرش کے نیچے سے عطا ہوئی ہیں، جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ الدیلمی بروایت علی رضی اللہ عنہ
- ۲۵۶۴ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی، دوسری نماز تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور اس پر نبی یا صدیق یا شہید کے سوا کسی نے بھی مواظبت نہیں کی۔ شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ
- حدیث ضعیف ہے۔
- ۲۵۶۵ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی، دوسری نماز تک وہ اللہ کی حفاظت اور ذمہ میں رہے گا۔
- الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت الحسن بن علی رضی اللہ عنہ، الدیلمی بروایت علی رضی اللہ عنہ
- ۲۵۶۶ جس نے آیۃ الکرسی پڑھی اللہ کے سوا کوئی اس کی روح قبض نہ فرمائے گا۔ الخطیب بروایت ابن عمرو رضی اللہ عنہ
- ۲۵۶۷ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی، ذوالجلال والاکرام کے سوا کوئی اس کی روح قبض نہ کرے گا۔ اور یہ شخص انبیاء و رسل کی طرف سے لڑنے والے کی طرح ہوگا جو حتمی لگہ شہید ہو گیا ہو۔ الحکیم بروایت زید لمروزی
- سند روایت میں انقطاع ہے۔

ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا

۲۵۶۸..... جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی، ذوالجلال والاکرام کے سوا کوئی اس کی روح قبض نہ کرے گا۔ اور یہ شخص انبیاء و رسل کی

طرف سے لڑنے والے کی طرح ہوگا جو حتیٰ کہ شہید ہو گیا ہو۔ ابن السنی والدیلمی بروایت ابی امامة رضی اللہ عنہ
 ۲۵۶۹..... جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی، اس کو دخول جنت سے موت کے سوا کوئی شے مانع نہیں۔ اور جس نے اس کو بستر پر لیٹتے
 وقت پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور آس پاس کے گھروں کی حفاظت فرمائیں گے۔

شعب الإیمان بروایت علی رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

۲۵۷۰..... جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی، اس کو دخول جنت سے موت کے سوا کوئی شے حائل نہیں ہوگی۔

ابن السنی بروایت ابی امامة رضی اللہ عنہ

۲۵۷۱..... جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی پڑھی، اس کو دخول جنت سے موت کے سوا کوئی شے مانع نہیں۔ وہ مرتے ہی جنت میں داخل
 ہو جائے گا۔ شعب الإیمان بروایت الصلصال

۲۵۷۲..... جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی اور قل هو اللہ احد پڑھی، اس کو دخول جنت سے موت کے سوا کوئی شے مانع نہیں۔

الکبیر للطبرانی رحمة اللہ علیہ بروایت ابی امامة رضی اللہ عنہ

۲۵۷۳..... مجھے سورۃ البقرۃ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے عطا کی گئیں ہیں۔ اور یہ مجھ سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں۔

مسند احمد شعب الإیمان السنن لسعید بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

سورۃ البقرۃ کی آخری آیات کا جہاں بھی ذکر ہو اس سے امن الرسول سے آخر تک کی آیات مراد ہیں۔

۲۵۷۴..... جس نے رات کو سورۃ البقرۃ کی آخری آیات ختم تک پڑھیں اس کے لئے یہ اس رات کے نوافل کی طرف سے کافی ہو جائیں گی۔

الدیلمی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

سورۃ ال عمران..... از الاکمال

۲۵۷۵..... جس نے ال عمران کی آیات ”من شهد اللہ انه لا الہ الا هو والملائکة واولو العلم تا عند اللہ الإسلام“ تک پڑھیں

پھر کہا وانا اشهد بما شهد اللہ به واستودع اللہ هذه الشهادة وهي لی عند اللہ وذیعة ”اور میں بھی شہادت دیتا ہوں جس کی اللہ شہادت
 دیتے ہیں اور اپنی یہ شہادت اللہ کے ہاں بطور امانت رکھواتا ہوں۔“ تو جب قیامت کا دن ہوگا اور اس بندے کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ
 فرمائیں گے: اس بندے نے میرے پاس ایک امانت رکھوائی تھی اور میں سب سے زیادہ عہد کے وفا کرنے کا حق دار ہوں۔ پس میرے بندے

کو جنت میں داخل کرو۔ ابو الشیخ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۵۷۶..... افسوس اس شخص پر جس نے یہ آیت پڑھی:

”ان فی خلق السماوات والارض“ الخ ال عمران ۱۹۰

”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“

لیکن اس میں کچھ غور و فکر نہ کیا۔ الدیلمی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

دوروشن سورتیں..... از الاکمال

۲۵۷۷..... دوروشن سورتیں یعنی سورۃ البقرۃ وسورۃ ال عمران پڑھو۔ کیونکہ وہ روز حشر اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی مانند چھا جائیں گی یا صف

در صف پرندوں کے دوغولوں کی مانند آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی حمایت میں جھگڑیں گی۔ سورۃ البقرۃ پڑھو۔ کیونکہ اس کا پڑھنا باعث

برکت اور ترک کرنا باعثِ حسرت و ندامت ہے۔ باطل لوگ اس کی ہمت نہیں رکھتے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ ۲۵۷۸ سورۃ البقرۃ پڑھو۔ کیونکہ اس کا پڑھنا باعثِ برکت اور ترک کرنا باعثِ حسرت و ندامت ہے۔ باطل لوگ اس کی ہمت نہیں رکھتے۔ دوروشن سورتیں یعنی سورۃ البقرۃ و سورۃ آل عمران پڑھو۔ کیونکہ وہ روزِ حشر اپنے پڑھنے والوں پر بادل کی مانند چھا جائیں گی یا صاف درصاف پرندوں کے دوغولوں کی مانند آئیں گی۔ جب صاحبِ قرآن اپنی قبر سے اٹھے گا یہ قرآن خور بنو جوان کی شکل میں اس سے ملے گا اور کہے گا کیا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ نفی میں جواب دے گا۔ قرآن کہے گا میں تیرا ساتھی قرآن ہوں۔ میں نے تجھے گرمیوں کی شدید دوپہر میں تشنہ رکھا تیری راتوں کو بیدار رکھا اور ہر شخص دنیا میں تجارت کر کے اپنا نفع لیتا تھا۔ سو آج میں تیرے لئے ہر تجارت سے زیادہ نفع مند بنوں گا۔ پھر پروانہ سلطنت اس کے دائیں اور پروانہ ابدالآباد بائیں ہاتھ میں مرحمت کر دیا جائے گا۔ اور اس کے سر پر وقار و عظمت کا تاج رکھ دیا جائے گا اور اس کے والدین کو ایسا لباس زیب تن کیا جائے گا۔ کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ والدین کہیں گے یہ کس وجہ سے؟ کہا جائے گا تمہاری اولاد کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات اور بالا خانوں پر ترقی کرتا جا تو جب تک وہ پڑھتا رہے گا چڑھتا رہے گا خواہ سب روئی سے پڑھے یا دھیرے دھیرے۔ مسند احمد، الدارمی، الروسانی، الضعفاء للعقيلي رحمۃ اللہ علیہ،

المستدرک للحاکم، شعب الإیمان بروایت عبد اللہ بن زید اور بريدة عن ابیہ ابن ماجہ نے اس کو مختصر اورایت کیا ہے۔

۲۵۷۹۔۔۔ قرآن اور اس کے اپنے پڑھنے والے آئیں گے۔ سورۃ البقرۃ اور سورۃ آل عمران آگے آگے ہوں گی وہ یوں ہوگی گویا بادل کے دو ٹکڑے ہیں اور ان کے بیچ سے روشنی چھوٹ رہی ہے۔ یاد دہیہ بادل ہیں۔ یا صاف درصاف پرندوں کے دوغول ہیں جو اپنے صاحبان کی طرف سے جھگڑ رہے ہیں۔ مسند احمد الصحیح لمسلم بروایت النواس بن سمرعان

سورۃ الإناعام..... ازالہ کمال

۲۵۸۰۔ اس سورت نے ملائکہ سے انفق کو بھر دیا۔ یعنی سورۃ الإناعام نے۔ المستدرک للحاکم تعقیبہ شعب الإیمان بروایت جابر

السبع الطوال

۲۵۸۱ اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کے بدلے سبع مثنائی عطا کیں۔ اور انجیل کے بدلے آراءت سے طو اسین تک عطا کیں۔ اور زبور کے بدلے طو اسین و حوامیم کی درمیانی سورتیں عطا کیں۔ مزید حوامیم اور مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت عطا ہوئی، یہ سورہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئیں۔

محمد بن نصر بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۵۸۲ مجھے تورات کے بدلے سبع مثنائی عطا ہوئیں۔ اور زبور کے بدلے مبین عطا ہوئیں۔ اور انجیل کے بدلے مثنائی عطا ہوئیں۔ اور مفصل

مجھے زائد عطا کی گئیں۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت واثلة

۲۵۸۳ جس نے سبع طوال کو یاد کر لیا یہ بہت بہتر ہے۔ المستدرک للحاکم شعب الإیمان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

الاکمال

۲۵۸۴ جس نے قرآن کی سبع اول یاد کر لیں وہ بہت بہتر ہے۔ مسند احمد، الخطیب بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۵۸۵ مجھے تورات کے بدلے رب نے سبع مثنائی عطا کیں۔ انجیل کے بدلے مبین عطا فرمائیں۔ مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت

عطا کی۔ الکبیر للطبرانی، رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

سورۃ ہود علیہ السلام

۲۵۸۶ مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں نے سفید بالوں والا کر دیا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ
آپ ﷺ کا یہ فرمان مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں نے سفید بالوں والا کر دیا اس بناء پر ہے کہ ان سورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔
اور بہنوں سے مراد دوسری چند سورتیں ہیں جن کا ذیل کی احادیث میں ملاحظہ فرمائیں۔
۲۵۸۷ مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں سورۃ الواقعہ، سورۃ الحاقۃ، سورۃ کورت نے سفید بالوں والا کر دیا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت سہل بن سعد

۲۵۸۸ مجھے ہود، واقعہ، مرسلات، عم پتسا، لون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔

المستدرک للحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ المستدرک للحاکم بروایت ابی بکر ابن مردویہ بروایت سعد

۲۵۸۹ مجھے بڑھاپے سے قبل ہی سورۃ ہود اور اس کی بہنوں نے سفید بالوں والا کر دیا۔ ابن مردویہ بروایت ابی بکر

۲۵۹۰ مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں سورۃ الواقعہ، سورۃ القارعہ، سورۃ الحاقۃ، سورۃ کورت اور سورۃ سأل سأل نے سفید بالوں والا کر دیا۔

ابن مردویہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۵۹۱ مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں اور اگلی اقوام کے حالات نے بوڑھا کر دیا۔ (ابن عساکر بروایت محمد بن علی مرسلہ) اگلی اقوام کے حالات

نے بوڑھا کر دیا سورۃ ہود میں اگلی اقوام کے حالات مذکور ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔

۲۵۹۲ مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں اور قیامت کے ذکر اور اگلی اقوام کے حالات نے بوڑھا کر دیا۔

الزوائد لابن احمد، ابو الشیخ فی تفسیرہ بروایت ابی عثمان الجونی مرسلہ

سورۃ سبحان

۲۵۹۳ آیۃ العزت ”الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا“ الخ، بنی اسرائیل ۱۱۱ ہے۔ جس کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس

نے کوئی بیٹا نہیں اپنایا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت معاذ بن انس

الاکمال

۲۵۹۴ جس نے صبح یا شام کو ”قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن“ بنی اسرائیل ۱۱۲ کو سورت کے اخیر تک پڑھا اس دن اور رات اس

کا دل مردہ نہ ہوگا۔ ترجمہ آیت کہ دو تم خدا کو جس نام سے پکارو اللہ سے یا رحمن سے اس کے سب نام اچھے ہیں۔

الدیلمی بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

سورۃ الکہف

۲۵۹۵... کیا میں تم کو ایسی سورت نہ بتاؤں جس کی عظمت سے آسمان وزمین کا خلاء بھی پُر ہے۔ اور اس کے لکھنے والے کو بھی اتنا ہی

اجر ملتا ہے۔ اور جو اس کو جمعہ کے روز پڑھتا ہے، ہرے جمعہ تک اور مزید تین یوم کے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور جو شخص سوتے

وقت اس کی آخری پانچ آیات پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جس وقت بھی وہ چاہے بیدار فرمادیتے ہیں۔ وہ سورت سورۃ الکہف ہے۔

ابن مردویہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۵۹۶ سورۃ الکہف کو تورات میں ”حائلہ“ کہا گیا کیونکہ یہ اپنے قاری اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔

شعب الإیمان بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۵۹۷ سورۃ الکہف، جس کو تورات میں ”حائلہ“ کہا گیا یہ اپنے قاری اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔

شعب الإیمان، الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۵۹۸ جس نے جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے گھر کے درمیان تک نور روشن فرمادیں گے۔

شعب الإیمان بروایت ابی سعید

۲۵۹۹ جس نے سورۃ الکہف کی آخری دس آیات پڑھیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ او النسائی بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۶۰۰ جس نے سورۃ الکہف کی اول تین آیات پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۶۰۱ جس نے سورۃ الکہف کی اول دس آیات حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔

مسند احمد، الصحيح لمسلم، ابو داؤد، النسائی بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

الاکمال

۲۶۰۲ کیا میں تم کو ایسی سورت نہ بتاؤں جس کی عظمت سے آسمان وزمین کا خلاء بھی پُر ہے۔ اور اس کے لکھنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ اور جو اس کو جمعہ کے روز پڑھتا ہے، دوسرے جمعہ تک اور مزید تین یوم کے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اور جو شخص سوتے وقت اس کی آخری پانچ آیات پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جس وقت بھی وہ چاہے بیدار فرمادیتے ہیں۔ وہ سورت سورۃ الکہف ہے۔

ابن مردویہ الدیلمی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۶۰۳ جس نے سورۃ الکہف کی دس آیات پڑھ لیں، وہ از سر تا پا ایمان سے بھر جائے گا اور جس نے اس کو جمعہ کی رات پڑھا اس کے لئے

صنعا و بصری کے درمیان جتنا نور ہوگا اور جس نے اس کو جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے یا اس کے بعد پڑھا اس کی دوسرے جمعہ تک حفاظت کی

جائے گی۔ اگر ان دونوں جمعوں کے درمیان خروج دجال ہو گیا تو وہ اس کا پیچھا نہ کر سکے گا۔ ابو الشیخ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

اس میں ایک راوی سوار ہے۔

۲۶۰۴ جس نے کہف جمعہ کے دن پڑھی وہ آٹھ دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر دجال نکلا اس سے بھی مامون رہے گا۔

ابن مردویہ السنن لسعید بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۶۰۵ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی، اس کے قدموں سے آسمان تک نور چمکے گا جو قیامت کے دن اس کے لئے روشن ہو جائے

گا۔ اور دونوں جمعوں کے درمیان گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ ابن مردویہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۶۰۶ جس نے سورت الکہف پڑھی، تین دن تک گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ ابن النجار بروایت ابی رضی اللہ عنہ

۲۶۰۷ جس نے سورۃ الکہف کی آخری دس آیات پڑھیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔

ابو عبیدہ فی فضائلہ، مسند احمد، الصحيح لمسلم، النسائی، ابن ماجہ، الصحيح لابن حبان بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۶۰۸... جس نے سورۃ الکہف کی اول تین آیات پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابی الدرداء رضی الله عنه

حدیث حسن صحیح ہے۔

۲۶۰۹... جس نے سوتے وقت کھف کی دس آیات پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور جس نے کھف کی آخری آیات سوتے وقت

پڑھیں، قیامت کے دن وہ ازسرتا پانور میں نہایا ہوگا۔ ابن مردویہ بروایت عائشہ رضی الله عنها

۲۶۱۰... جس نے سورۃ الکہف پڑھی، جیسے وہ نازل ہوئی تھی، تو قیامت کے دن اس کے مقام سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا۔ اور جس نے اس کی

آخری دس آیات پڑھ لیں اور پھر دجال آ گیا تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه المستدرک للحاکم ابن مردویہ السنن للبیہقی رحمة الله عليه السنن لسعيد بروایت ابی سعید

۲۶۱۱... جس نے سورۃ الکہف کا اول و آخر پڑھا قیامت کے دن وہ ازسرتا پانور میں ہوگا۔ اور جس نے اس کو مکمل پڑھا اس کے لئے آسمان تا

زمین نور ہی نور ہوگا۔ مسند احمد الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه ابن السنن ابن مردویہ بروایت معاذ بن انس رضی الله عنه

۲۶۱۲... جس نے سورۃ الکہف پڑھی، جیسے وہ نازل ہوئی تھی، تو اس کے پڑھنے کے مقام سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا۔ اور جس نے وضو کے وقت

”سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک“ اے اللہ میں آپ کی پناہ کی بیان کرتا ہوں

اور آپ کی حمد کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں سو میں آپ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ تو ان کلمات کو ایک سختی پر لکھ کر

عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کا پڑھنے والا قیامت کے دن اس کو پالے گا۔ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابی سعید

۲۶۱۳... جس گھر میں سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے شیطان اس رات گھر اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔

الكبير للطبرانی رحمة الله عليه ابن مردویہ ابو الشیخ فی الثواب بروایت عبد اللہ بن مغفل

۲۶۱۴... سورۃ الکہف، جس کو قورات میں ”حائلہ“ کہا گیا یہ اپنے قاری اور جنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ الدیلمی بروایت ابن عمرو

اس میں سلیمان بن قارح مکر الحدیث ہے۔

۲۶۱۵... سورۃ الکہف جب نازل ہوئی اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے۔ الدیلمی بروایت انس رضی الله عنه

۲۶۱۶... اگر میری امت پر سورۃ کھف کی آخری آیات کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہی ان کے لئے کافی تھا۔ ابو نعیم بروایت ابی حکیم

سورۃ الحج

۲۶۱۷... سورۃ الحج کو بقیہ قرآن پر دو سجدوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔

المستدرک للحاکم ابو داؤد فی مراسیلہ حقق بروایت خالد بن معدان

۲۶۱۸... سورۃ الحج کو دو سجدوں کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے۔ سو جو یہ سجدے بھی ادا نہ کرے تو وہ ان کو نہ پڑھے۔

مسند احمد بخاری و مسلم المستدرک للحاکم الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه بروایت عقبہ بن عامر

قد افلح یعنی سورۃ المؤمنون

۲۶۱۹... مجھ پر دس ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان پر عمل کیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ شروع آیت ”قد افلح“ سے دس آیات تک۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت عمر رضی الله عنه

۲۶۲۰۔ مجھ پر دس ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان پر عمل کیا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ”قد افلح“ سے دس آیات تک۔

مسند احمد المستدرک للحاکم بروایت عمر رضی اللہ عنہ

الحوامیم..... ہر وہ سورت جس کی ابتداء حم سے ہو

۲۶۲۱۔ حوامیم سات ہیں۔ جنہم کے دروازے بھی سات ہیں۔ ہر حوامیم ایک ایک دروازے پر کھڑی ہو جائے گی۔ اور کہے گی: اے اللہ! جو بھی

مجھ پر ایمان لایا اور میری قرأت کی اسے اس دروازے سے داخل نہ کیجئے۔ شعب الإیمان بروایت الخلیل بن مرة مرسلًا

۲۶۲۲۔ حوامیم قرآن کا ریشم ہے۔ ابو الشیخ فی الثواب بروایت انس رضی اللہ عنہ۔ المستدرک للحاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۶۲۳۔ حوامیم جنت کے باغات ہیں۔ ابن مردویہ بروایت سمرہ

سورۃ یس

۲۶۲۴۔ ہر شے کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یس ہے۔ جس نے یس پڑھی اللہ اس کی قرأت پر دس قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔

الدارمی، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۶۲۵۔ جس نے ہر رات یس پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۶۲۶۔ جس نے رات کو یس پڑھی صبح کو بخشش شدہ اٹھے گا۔ الحلہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۶۲۷۔ جس نے ایک بار یس پڑھی گویا دو مرتبہ قرآن پڑھ لیا۔ شعب الإیمان بروایت ابی سعید

۲۶۲۸۔ جس نے ایک بار یس پڑھی گویا دس مرتبہ قرآن پڑھ لیا۔ شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۶۲۹۔ جس نے اللہ کی رضا کے لئے یس پڑھی اللہ اس کے گلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ پس اس کو اپنے مردوں پر بھی پڑھا کرو۔

شعب الإیمان بروایت معقل بن یسار

سورۃ الزمر

۲۶۳۰۔ مجھے یہ ہرگز پسند نہیں کہ مجھے ساری دنیا اس آیت کے عوض دے دی جائے: ”قل یاعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم

لاتقنطوا من رحمۃ اللہ“ مسند احمد بروایت ثونان

سورۃ الدخان

۲۶۳۱۔ جس نے کسی رات حم الدخان پڑھی، وہ صبح کو اس حال میں اٹھے گا کہ ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۶۳۲۔ جس نے جمعہ کی رات حم الدخان پڑھی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ والنسائی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۶۳۳۔ جس نے کسی رات حم الدخان پڑھی، اس کے گلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ ابن الضریس بروایت الحسن مرسلًا

۲۶۳۳ جس نے جمعہ کی رات یا اس کے دن حم الدخان پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔

الکبیر للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابی امامة رضی الله عنه

انا فتحنا..... یعنی سورة الفتح

۲۶۳۵ اس رات مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے ہر اس شیء سے زیادہ محبوب ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہو۔ وہ ہے ”انا فتحنا لک

فتحنا مینا“ مسند احمد الصالح البخاری رحمة الله عليه بخاری و مسلم بروایت ابن عمر رضی الله عنہما

۲۶۳۶ مجھ پر ایسی سورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ ہے ”انا فتحنا لک فتحنا مینا“

الصحيح لسلم بروایت انس رضی الله عنه

”اقتربت الساعة“..... یعنی سورة قمر

۲۶۳۷ ”اقتربت“ کا قاری کو تورات میں المہیضہ کہا گیا ہے۔ یعنی جس دن بہت سے چہرے سیاہ پڑے ہوں گے اس دن اس کا قاری سفید

چہرے والا ہوگا۔ شعب الإيمان بروایت ابن عباس رضی الله عنہما

سورة الرحمن

۲۶۳۸ ہر ایک شے کی دہن ہوتی ہے اور قرآن کی دہن سورة الرحمن ہے۔ شعب الإيمان بروایت علی رضی الله عنه

۲۶۳۹ میں نے لیلۃ الجن میں سورة الرحمن جنوں پر پڑھی تھی۔ وہ تم سے زیادہ اچھا جواب دینے والے نکلے۔ میں جب بھی ”فبأی الآء ربکما

تکذبن“ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پڑھتا وہ کہتے ”ولا بشیء من نعمک ربنا نکذ فلوک الحمد“ پروردگار ہم

تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے تیرے ہی لئے ساری تعریفیں ہیں۔ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت خابر رضی الله عنه

سورة الواقعة

۲۶۴۰ جس نے ہزرات سورة الواقعة پڑھی، اسے فاقہ کبھی نہ چھو سکے گا۔ شعب الإيمان بروایت ابن مسعود رضی الله عنه

۲۶۴۱ اپنی عورتوں کو سورة الواقعة سکھاؤ کیونکہ یہ سورة الغنی ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمة الله عليه بروایت انس رضی الله عنه

۲۶۴۲ سورة الحدید اور سورة الواقعة کا پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہائشی پکارا جاتا ہے۔

شعب الإيمان الفردوس للدیلمی رحمة الله عليه بروایت فاطمة رضی الله عنه

سورة الحشر

۲۶۴۳ جس نے سورة حشر کی آخری آیات دن یارات کے کسی پہر پڑھ لیں اور اس دن یارات اس کا انتقال ہو گیا، تو اس نے اپنے لئے

جنت واجب کر لی۔ الكامل لابن عدی رحمة الله عليه شعب الإيمان بروایت ابی امامة رضی الله عنه

سورة الطلاق

۲۶۴۳ اے ابو ذر! میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر ساری انسانیت اس کو لے لے تو یہ سب کو کفایت کر جائے گی۔ وہ ہے ”وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ“ کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لئے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے، جہاں اس کا وہم و گمان تک نہ ہوگا۔

مسند احمد، النسائی، ابن ماجہ، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ

سورة تبارک الذی

۲۶۴۵ قرآن کی ایک سورت تیس آیات پر مشتمل ہے۔ وہ اپنے پڑھنے والے کے لئے شفاعت کرتی ہے حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔

مسند احمد، الکامل لابن عدی، رحمة اللہ علیہ، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۶۴۶ کتاب اللہ کی ایک سورت جو تیس آیات پر مشتمل ہے، اپنے پڑھنے والے کے لئے شفاعت کرتی ہے حتیٰ کہ اس کو جہنم سے

نکلوا کر جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۶۴۷ یہ عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے، یعنی تبارک الذی، الخ

صحيح للترمذی رحمة اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۶۴۸ میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مؤمن کے دل میں ہو۔

المستدرک للحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۶۴۹ سورة تبارک عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ ابن مردويه بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

سورة اذالزلزلت

۲۶۵۰ اذالزلزلت نصف قرآن کے برابر ہے۔ اور قل یا ایہا الکفرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن

کے برابر ہے۔ النسائی، المستدرک للحاکم، شعب الإيمان بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۶۵۱ جس نے اذالزلزلت پڑھی اس کو نصف قرآن کا ثواب حاصل ہوگا اور جس نے قل یا ایہا الکفرون پڑھی اس کو چوتھائی قرآن

کا ثواب حاصل ہوگا۔ اور جس نے قل هو اللہ احد پڑھی اس کو تہائی قرآن کا ثواب حاصل ہوگا۔

الصحيح للترمذی رحمة اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

الحاکم التکاثر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْهٰکُمْ التَّکَاثُرُ ۝ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ

عَلَّمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝
 ۲۶۵۲۔ الہاکم التکاثیر پڑھنے والا عالم ملکوت میں حق شکر ادا کرنے والا پکارا جاتا ہے۔

الفردوس للذیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت اسماء بنت عمیس

قل هو اللہ احد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

۲۶۵۳۔ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔

مالک مسند احمد الصحیح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ الصحیح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ بروایت قتادہ الصحیح لمسلم بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ النسائی بروایت ابی ایوب مسند احمد ابن ماجہ بروایت ابی مسعود الأنصاری الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ومعاذ رضی اللہ عنہ مسند احمد ام کلثوم بنت عقبہ البزار بروایت جابر رضی اللہ عنہ ابو عیبیدہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۶۵۴۔ قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور قل یا ایہا الکفرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۶۵۵۔ جس نے قل هو اللہ احد پڑھی گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا۔ مسند احمد، النسائی، الضیاء بروایت ابی رضی اللہ عنہ

۲۶۵۶۔ جس نے قل هو اللہ احد تین بار پڑھی گویا اس نے پورا قرآن پڑھا۔ الضعفاء للعقیلی رحمۃ اللہ علیہ بروایت رجاء الغنوی

۲۶۵۷۔ جس نے قل هو اللہ احد دس بار پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائیں گے۔

مسند احمد بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

۲۶۵۸۔ جس نے قل هو اللہ احد بیس بار پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائیں گے۔ ابن زنجویہ بروایت خالد بن زید

۲۶۵۹۔ جس نے قل هو اللہ احد پچاس بار پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرمادیں گے۔

ابن نصر بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۶۶۰۔ جس نے نماز یا غیر نماز میں سو دفعہ قل هو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہنم سے برأت کا پروانہ لکھ دیں گے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت فیروز

۲۶۶۱۔ جس نے قل هو اللہ احد سو بار پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرمادیں گے، بشرطیکہ وہ چار باتوں سے اجتناب

کرتا رہے ناسخ خوریزی۔ ناجائز مال۔ زنا، کاری اور شراب نوشی۔ الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ۔

۲۶۶۲۔ جس نے قل هو اللہ احد دو سو بار پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کے گناہ معاف فرمادیں گے۔

شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۶۶۳۔ جس نے دن میں دو سو بار قل هو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے ڈیڑھ ہزار نیکیاں لکھ دیں گے، لایکہ اس پر کوئی قرض ہو۔

المصنف لعبد الرزاق، شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

یعنی قرض اور حقوق العباد کسی عبادت سے معاف نہیں ہوں گے۔

۲۶۶۳ جس نے قل ہو اللہ احد ہزار بار پڑھی، اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی جان خرید لی۔

الخيازي في فوائد بروايت حذيفة رضى الله عنه

۲۶۶۵ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی بنیاد قل ہو اللہ احد پر قائم ہے۔ تمام بروايت انس رضى الله عنه

۲۶۶۶ شمار کرنا، میں تم پر ابھی تہائی قرآن پڑھتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے قل ہو اللہ احد پڑھی۔ اور فرمایا: یاد رکھو یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔

مسند احمد، الصحيح لمسلم، الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروايت ابو هريره رضى الله عنه

۲۶۶۷ بے شک سورۃ الاخلاص قل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ الحايه بروايت ابن عمر رضى الله عنهما

۲۶۶۸ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے ایک حصہ قل

هو الله احد ہے۔ مسند احمد، الصحيح لمسلم بروايت ابى الدرداء رضى الله عنه

۲۶۶۹ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لیا کرے۔ کیونکہ جس نے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد پڑھی اس نے اس

رات تہائی قرآن پڑھ لیا۔ مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمة الله عليه، النسائي بروايت ابى ايوب

۲۶۷۰ قل هو الله احد اور معوذتین صبح و شام تین تین بار پڑھ لینا یہ تیرے لئے ہر شے سے کافی ہو جائے گا۔ عبد اللہ بن حبيب

۲۶۷۱ قل هو الله احد اللہ عزوجل کا حسب و نسب ہے۔ الفردوس للدیلمی رحمة الله عليه بروايت ابو هريره رضى الله عنه

۲۶۷۲ جس نے ہر دن میں دو سو بار قل ہو اللہ احد پڑھی، اس کے پچاس سال کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ الا یہ کہ اس پر کوئی

قرض ہو۔ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروايت انس رضى الله عنه

یعنی قرض اور حقوق العباد کسی عبادت سے معاف نہیں ہوں گے۔

معوذتین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِیْ یُوسَّوْسُ فِیْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

۲۶۷۳ مجھ پر چند ایسی آیات نازل ہوئیں ہیں، جن کی مثال کوئی نہیں دیکھی گئی۔ ”قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس“

الصحيح لمسلم، مسند احمد، الصحيح للترمذی رحمة الله عليه، النسائي بروايت عقبة بن عامر

۲۶۷۴ معوذتین پڑھو کیونکہ تم نے ان جیسی کوئی سورت نہ پڑھی ہوگی۔ الكبير للطبرانی رحمة الله عليه بروايت عقبة بن عامر

یعنی ”قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس“

۲۶۷۵ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے کہا: کہو! قل اعوذ برب الفلق میں نے پڑھ دی پھر کہا کہو! قل اعوذ برب الناس تو میں نے وہ بھی

پڑھ دی۔ مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمة الله عليه، النسائي بروايت ابى رضى الله عنه

۲۶۷۶ اللہ کے ہاں قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ بیخ چیز نہیں پڑھی گئی۔ النسائي بروايت عقبة بن عامر

۲۶۷۷ اے عقبہ! سب سے بہترین دو سورتیں نہ بتاؤں؟ وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اے عقبہ! جب بھی

سونے اور اٹھنے لگوتو ان کو پڑھ لیا کرو۔ کسی سائل نے ان سے بہتر سوال اور کسی پناہ مانگنے والے ان جیسی پناہ نہیں مانگی۔

مسند احمد، النسائی، المستدرک للحاکم بروایت عقبہ بن عامر

۲۶۷۸ اے عقبہ ان کے ساتھ تعوذ کر، کسی نے ان جیسی آیات سے تعوذ نہ کیا ہوگا۔ ابن ماجہ بروایت عقبہ بن عامر

۲۶۷۹ اے عقبہ اقل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کہہ کیونکہ ان جیسی آیات سے تعوذ نہ کیا ہوگا۔

النسائی بروایت عقبہ بن عامر

۲۶۸۰ ہر فرض نماز کے بعد معوذات پڑھ۔ ابو داؤد الصلیح لاین حبان بروایت عقبہ بن عامر

بقیہ متفرق سورتوں کے فضائل..... از الاکمال

طہ

۲۶۸۱ اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ اور یس کو آدم کی تخلیق سے دو ہزار سال قبل پڑھا۔ ملائکہ نے اس قرآن کو سنا تو پکارا اٹھے! واہ خوشخبری ہو اس امت کو جس پر یہ قرآن نازل ہوگا اور خوشخبری ہو ان سینوں کو جو اس کو یاد رکھیں گے۔ اور خوشخبری ہو ان زبانوں کو جو اس کو پڑھیں گی۔

الدارمی، ابن ابی عاصم، ابن خزیمہ، الضعفاء للعقیلی رحمۃ اللہ علیہ، الأوسط للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الکامل لاین عدی رحمۃ اللہ علیہ، ابن مردودہ، شعب الإیمان، الخطیب فی المتفق والمفترق بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

علامہ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں ابراہیم بن المہاجر بن مسمار منکر الحدیث ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ لیکن علامہ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ان کی کثرت فرمائی ہے۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

سورۃ المؤمنین .. از الاکمال

۲۶۸۲ اگر کوئی شخص دن کے یقین کے ساتھ ان آیات کو ”افحسبتہم انما خلقناکم عتاً“ الخ کیا تم سمجھتے ہو کہ یونہی بے کار پیدا کئے گئے ہو؟ آخر آیت تک پہاڑ پڑھی پڑھو تو وہ اپنی جگہ سے اٹ جائے۔ الحلہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۶۸۳ جو شخص اپنے گھر میں ”الم تنزیل الکتان لاریب فیہ من رب العالمین“ تو تین دن تک شیطان اس گھر کا رخ نہ کرے گا۔ الدیلمی بروایت ابی فروق الأشععی

۲۶۸۴ جس نے ”الم تنزیل السجدۃ اور تبارک“ دونوں سورتیں سونے سے قبل پڑھیں تو عذاب قبر سے نجات پا جائے گا اور فتنہ انگیزوں سے بھی مامون رہے گا۔ اور جس نے سورہ بکف کی دس آیات پڑھیں وہ از سر تا قدم ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔

ابو الشیخ، الدیلمی بروایت البراء رضی اللہ عنہ

اس میں ایک راوی مصعب متروک جس کا اعتبار نہیں۔

۲۶۸۵ یس پڑھو۔ کیونکہ اس میں دس برکات و فوائد ہیں۔ کوئی بھوکا اس کو پڑھے تو سیر ہو جائے۔ کسی ننگے پر پڑھی جائے تو لباس میں لمبے ہو جائے۔ مجرد پڑھے تو شادی ہو جائے۔ خوف زدہ پڑھے تو آسناں پا جائے۔ رنجیدہ و غمگین پڑھے تو مسرور و خوش ہو جائے۔ مسافر پڑھے تو سفر میں مدد ہو۔ کوئی اپنی کسی گمشدہ شے پر پڑھے تو اس کو پائے۔ میت پر پڑھی جائے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ تشنگان پڑھے تو پیہر ہو جائے۔ اور مریض پڑھے تو چنگا بھلا ہو جائے۔ الدیلمی بروایت علی رضی اللہ عنہ

روایت میں مسعد بن ابی السرح کذاب شخص ہے۔

سورہ یس

۲۶۸۶ تورات میں اس کو معمر کہا گیا ہے یعنی اپنے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی کامیابیاں دلانے والی اور اس سے دنیا و آخرت کی مشقت و مصیبت دور کرنے والی۔ آخرت کی ہولناکیوں کو دفع کرنے والی۔ اسی کو الذائقہ اور القا ضیہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ یہ اپنے پڑھنے والے سے ہر برائی اور تکلیف کو دور کرتی ہے۔ اس کی تمام حاجات پوری کرتی ہے۔ جو اس کو پڑھے یہ اس کے لئے دس حجوں کے برابر ہوگی۔ جو اس کو چھنسنے، پیاس کے لئے ہزار دینار راہ خدا میں دینے کے برابر ہوگی۔ جو اس کو لکھ کر اس کا پانی نوش کرے اس کے شکم میں ہزار بیماریوں کی دوا دوائیں، ہزار نور، ہزار یقین، ہزار برکات اور ہزار رحمتیں داخل ہو جائیں گی، اور اس سے ہر کھوٹ اور بیماری نکال لی جائے گی۔

الحکیم، شعب الایمان بروایت ابی بکر

حدیث ضعیف ہے۔

۲۶۸۷ تورات میں ایک سورت سے جس کو عزیزہ اور اس کے پڑھنے والے کو عزیز کہا گیا ہے۔ وہ یس ہے۔ الدیلمی بروایت صحیب

۲۶۸۸ جس نے یس لکھی پھر اس کو گھول کر پی لیا اس کے شکم میں ہزار نور، ہزار برکات اور ہزار بیماریوں کی دوا دوائیں داخل ہو جائیں گی۔ اور اس سے ہزار بیماریاں نکل جائیں گی۔ الرافعی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۶۸۹ جس نے یس پڑھی، گویا اس نے دس ہار قرآن پڑھا۔ شعب الایمان بروایت حسان بن عطیہ مرسلاً

۲۶۹۰ جس نے اللہ کی رضاء کے لئے رات کو یس پڑھی اللہ رات ہی کو اس کی مغفرت فرمادیں گے۔

شعب الایمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۶۹۱ جس نے اللہ کی رضاء کے لئے رات کو یس پڑھی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

الصحیح لابن حبان السنن لسعید بروایت الحسن بن جندب الجلی، الدارمی، الضعفاء للعقیلی رحمۃ اللہ علیہ، ابن السنی، ابن

مردوویہ بروایت الحسن بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درست ہے۔

۲۶۹۲ جس نے یس پڑھی، گویا اس نے دوا قرآن پڑھا۔ شعب الایمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۶۹۳ جس نے رات کو یس پڑھی، وہ یس کے سوا بقیہ قرآن پر دس درجہ زیادہ ہوگی۔ اور جس نے اس کو شروع دن میں پڑھا پھر اپنی حاجت

پیش کی تو اس کی حاجت روائی ہوگی۔ ابو الشیخ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۶۹۴ جس نے جمعہ کے روز یس اور صافات پڑھیں، پھر اللہ سے اپنا سوال مانگا اس کو ضرور عطا ہوگا۔

ابن ابی الدنیافی فضائلہ، ابن الجار بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

لیکن ابن النجار کی روایت ضعیف ہے۔

سورۃ الزمر

۲۶۹۵ میں تم پر سورۃ الزمر کی آخری آیات پڑھتاؤں، جو ان پر روایاں کے لئے جنت واجب ہوگی۔ پس جس کو روانہ آئے وہ رونے کی

کوشش کرے۔ پھر آپ ﷺ نے ”وما قدروا اللہ حق قدرہ“ سے آخر سورت تک پڑھا۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت حبریر

۲۶۹۶ جو چاہتا ہو کہ جنت کے باغات میں کھائے، پئے اور گھومے پھرے وہ جو امیم کی تلاوت کرے۔

ابونعیم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

حواشی وہ سورتیں جن کی ابتداء میں تم آتا ہے۔

سورة الدخان

۲۶۹۷ جو جمعہ کی رات سورة الدخان پڑھے، صبح کو مغفرت کی حالت میں اٹھے گا اور حور عین سے اس کا عقد کیا جائے گا۔

الدیلمی بروایت ابی رافع

۲۶۹۸ جو جمعہ کی رات سورة تم الدخان اور سورہ یس پڑھے، صبح کو مغفرت کی حالت میں اٹھے گا۔ ابن الضریس شعب الایمان،

بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ضعیف ہے۔

الواقعة

۲۶۹۹ اپنی عورتوں کو سورة الواقعة سکھاؤ کیونکہ یہ سورة انجی ہے۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۰۰ جس نے ہر رات سورة الواقعة پڑھی اسے کبھی فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے گی۔ اور جس نے ہر رات ”لا اقسیم بیوم القيامة“ پڑھی، وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی مانند ملتا ہوگا۔

ابن عساکر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۷۰۱ جس نے ہر رات سورة الواقعة پڑھی اسے کبھی فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے گی۔

ابن السنی شعب الایمان ابن عساکر بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

سورة الحديد

۲۷۰۲ سورة الحديد سہ شنبہ منگل کے روز نازل ہوئی۔ اور اللہ نے لوہے کو بھی اسی دن پیدا کیا اور ابن آدم نے اپنے بھائی کو اسی دن قتل کیا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

سورة الحشر

۲۷۰۳ جس نے سورة حشر کا خیر حصہ ”لوانزلنا هذا القرآن علی جبل“ آخرت تک پڑھا اور اسی رات انتقال ہو گیا تو شہادت کی موت مرا۔

ابوالشیخ بروایت ابی امامہ

سورة الملك تیس آیات

۲۷۰۴ سورة الملك عذاب قبر کو روتی ہے۔ اور تورات میں اس کا نام مانعہ ہے۔ الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۷۰۵ قرآن میں ایک سورة جو صرف تیس آیات پر مشتمل ہے، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑتی ہے حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل

کرواتی ہے۔ اور وہ سورة تبارک ہے۔ الصغیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ السنن لسعید بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۰۶ قرآن میں ایک سورة جو تیس آیات پر مشتمل ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی مغفرت

کردی جاتی ہے۔ اور وہ ”تبارک الذی بیدہ الملک“ ہے۔ الصحیح لابن حبان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۲۷۰۷ قرآن میں ایک سورۃ جو تیس آیات پر مشتمل ہے، اپنے پڑھنے والے کے لئے مسلسل شفاعت کرتی ہے حتیٰ کہ اس کی مغفرت کردی جاتی ہے۔ اور وہ ”تبارک الذی بیدہ الملک“ ہے۔

مسند احمد، ابو داؤد المستدرک للحاکم، شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۲۷۰۸ میں کتاب اللہ میں ایک ایسی سورت پاتا ہوں، جو تیس آیات کی ہے۔ جو اس کو سونے سے قبل پڑھے اس کے لئے تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تیس برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ اور تیس درجات بلند کئے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس پر اپنے پر پھیلائے رکھتا ہے اور اس کے بیدار ہونے تک ہر مصیبت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ قبر میں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھکرتی ہے اور وہ ”تبارک الذی بیدہ الملک“ ہے۔ الدیلمی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۷۰۹ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ امید و دھارس بندھانے والی کوئی آیت نازل نہیں فرمائی۔ ”ولسوف یعطیک ربک فترضی“ کہ آپ کا رب آپ کو عنقریب اس قدر عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو میں نے یہ وعدہ قیامت کے روز اپنی امت کے فائدہ کے لئے ذخیرہ کر رکھا ہے۔ الدیلمی بروایت علی رضی اللہ عنہ اس میں ایک راوی حرب بن شریح ہے جس میں قدرے ضعف ہے اور بقیہ روایات ثقہ ہیں۔

سورة القدر

۲۷۱۰ جس نے ”انا انزلناه فی لیلة القدر“ پڑھی، یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہوگی۔ الدیلمی نزوایت انس رضی اللہ عنہ

لم یکن یعنی سورة البینة

۲۷۱۱ اللہ تعالیٰ ”لم یکن الذین کفروا“ کی قرأت سنتے ہیں، تو فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میری عزت ہی قسم! میں تجھے جنت میں ایسا ٹھکانہ مرحمت کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ ابو نعیم فی المعرفة اس طریق سے عبد اللہ بن سلم، ابن شہاب سے، وہ اسماعیل بن ابی حکیم المدنی سے، پھر بنی فضل کے کسی شخص سے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ روایت منقطع سے درمیان میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے۔ کیونکہ اسماعیل تابعی ہیں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ بنی فضیل کے کسی شخص پر موقوف ہو۔ لیکن اس سے صرف نظر کریں تب بھی عبد اللہ آخری راوی کو امام دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے۔

سورة الزلزلة

۲۷۱۲ جس نے رات کو اذاز لزلت الأرض زلوا لھا پڑھی یہ اس کے لئے نصف قرآن کے برابر ہوگی۔ اور جس نے قبل یا ایھا الکفرون پڑھی یہ اس کے لئے نصف قرآن کے برابر ہوگی۔ اور جس نے قل هو اللہ احد پڑھی یہ اس کے لئے تہائی قرآن کے برابر ہوگی۔

ابن السنی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

سورة الهاکم

۲۷۱۳ کیا تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر روز ایک ہزار آیات قرآنیہ پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اس

میں اس کی ہمت ہو سکتی ہے؟ فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی ہمت بھی نہیں رکھتا کہ الہاکم النکاثہ پڑھ لیا کرے۔

المستدرک للحاکم، شعب الإیمان بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
 ۲۷۱۴ جس نے رات کو ہزار آیات پڑھیں، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، کہ پروردگار اس سے مسکراتے ہوئے پیش
 آئیں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! کون ہزار آیات کے پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے؟ آپ ﷺ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور اس
 کے بعد الہاکم النکاثہ آخراً تک پڑھی۔ پھر فرمایا: تم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق دے کر بھیجا کہ یہ ہزار آیات کے برابر ہے۔

الدیلمی رضی اللہ عنہ، الخطیب فی المتفق والمفتقر بروایت عمر

لیکن فرماتے ہیں یہ حدیث غیر ثابت الاصل ہے۔

۲۷۱۵ میں تم پر ایک سورۃ پڑھتا ہوں، جو اس پر رویا اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔ پس جس کو روانہ آئے وہ رونے کی کوشش کرے۔

شعب الإیمان بروایت عبد الملک بن عمیر مرسل

۲۷۱۶ میں تم پر سورۃ الہاکم پڑھتا ہوں، جو اس پر رویا اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں جو اس پر رویا اس کے
 لئے جنت واجب ہوگی، پس جس کو روانہ آئے وہ رونے کی کوشش کرے۔ الہاکم والمنتخب، شعب الإیمان
 یہ روایت جریر سے ضعیف ہے۔

الکافرون

۲۷۱۷ قل یا ایہا الکفرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اذ انزلت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح چوتھائی

قرآن کے برابر ہے۔ شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۱۸ جس نے قل یا ایہا الکفرون پڑھی گویا اس نے چوتھائی حصہ قرآن پڑھا۔ جس نے قل هو اللہ احد پڑھی گویا اس نے تہائی حصہ قرآن پڑھا۔

شعب الإیمان بروایت سعد

۲۷۱۹ جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ساتھ دوسو تیس قل یا ایہا الکفرون اور قل هو اللہ احد ہوں تو اس پر حساب

کتاب شہ ہوگا۔ ابو نعیم بروایت زید بن ارقم

قل هو اللہ احد

۲۷۲۰ تمہیں کیا بات مانع ہے کہ ہر رات قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ یہ پورے قرآن کے برابر ہے۔

ابن الأباری فی المصاحف بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۲۱ جس نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ لیا گویا تہائی قرآن پڑھ لیا۔ الكبير للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۷۲۲ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی قل هو اللہ احد۔

الصحيح لابن حبان بروایت ابی سعید

۲۷۲۳ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لیا کرو؟ عرض کیا: ہم واقعی اس سے عاجز اور ضعیف ہیں۔ فرمایا: اللہ

تعالیٰ نے قرآن کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے ایک حصہ قل هو اللہ احد ہے۔

مسند احمد، الصحيح لمسلم بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۷۲۳ کیا کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت بڑی محسوس ہوئی تو آپ نے فرمایا: وہ قیل ہو اللہ احد پڑھے یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ المسند لأبی یعلی بروایت ابی سعید الصحيح لابن حبان، ابن السنی الحلہ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود شعب الإیمان بروایت ابی ایوب الخطیب بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۷۲۵ کیا تم میں سے کوئی اس بات کی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر رات تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟

۲۷۲۶ کیا ہی بہترین ہیں دوسو تین قیل ہو اللہ احد یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ قیل یا ایہا الکفرون یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۷۲۷ کوئی اس وقت تک نہ سوئے جب تک کہ تہائی قرآن نہ پڑھ لے! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا: کیا اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ قیل ہو اللہ احد، قیل اعدو برب الفلق، قیل اعدو برب الناس پڑھ لیا کرے؟ المستدرک للحاکم شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۷۲۸ جس نے ایک بار قیل ہو اللہ احد پڑھ لی گویا تہائی قرآن پڑھ لیا۔ جس نے دو بار پڑھ لی گویا دو تہائی قرآن پڑھ لیا۔ اور جس نے تین بار پڑھ لی گویا پورا قرآن پڑھ لیا۔ الرافعی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۷۲۹ جس نے رات یادن میں تین بار قیل ہو اللہ احد پڑھ لی تو یہ قرآن کی مقدار ہوگئی۔ ابن النجار بروایت کعب بن عجرہ

۲۷۳۰ جس نے تین بار قیل ہو اللہ احد پڑھ لی گویا پورا قرآن پڑھ لیا۔ الضعفاء للعقیلی رحمۃ اللہ علیہ بروایت رجاء الغنوی

۲۷۳۱ جس نے دس بار قیل ہو اللہ احد پڑھ لی اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تب تو ہم بہت گھر بنا لیں گے فرمایا: اللہ اس سے بھی زیادہ اور اچھا عطا کرنے والا ہے۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن السنی بروایت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

۲۷۳۲ جس نے ہر فرض نماز کے بعد دس بار قیل ہو اللہ احد پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے اپنی رضا و مغفرت واجب فرمادیں گے۔

ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۳۳ جس نے فجر کے بعد کے بعد بارہ بار قیل ہو اللہ احد پڑھی گویا اس نے چار بار قرآن پڑھ لیا۔ اور یہ اس دن روئے زمین پر ترقی

ترین شخص ہوگا بشرطیکہ تقویٰ اختیار کئے رکھے۔ شعب الإیمان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۷۳۴ جس نے صبح کی نماز کے بعد کسی سے گفتگو کرنے سے قبل سو بار قیل ہو اللہ احد پڑھی، اس روز اس کے لئے پچاس صدیقین کا عمل لکھا جائے گا۔ البراء بن عازب اس میں ایک راوی سلیمان بن ربیع ہیں وہ کادح بن رحمۃ سے روایت میں ضعیف ہے اور خود کادح کذاب شخص ہے۔ لہذا اس روایت پر اعتماد نہیں۔

۲۷۳۵ جس نے نماز کی طرح کامل وضوء و طہارت کے ساتھ سورہ فاتحہ سے ابتداء کر کے سو بار قیل ہو اللہ احد پڑھی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے

ہر حرف پر دس نیکی لکھیں گے۔ اور ہر حرف پر دس برائیاں منائیں گے اور ہر حرف پر دس درجات بلند فرمائیں گے۔ اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا لیں گے۔ اور اس دن اس کے لئے سارے بنی آدم کے اعمال کے بقدر ثواب لکھیں گے۔ اور اس کا عمل ایسا ہوگا گویا کہ قرآن تین تیس بار پڑھا۔ نیز شرک سے برائت اور ملائکہ کا قرب، شیطان سے بچد لکھ دیں گے۔ اور اس کے لئے عرش کے نزدیک کچھ آوازیں ہوں گی جو اپنے پڑھنے والے کا ذکر کریں گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے اور جب اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لیں گے تو کبھی اس کو عذاب سے دوچار نہ کریں گے۔ الکامل لابن عدی رحمۃ اللہ علیہ شعب الإیمان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۳۶ کوئی مسلم بندہ مرد یا عورت ایسا نہیں جو دن و رات میں دوسو مرتبہ قیل ہو اللہ احد پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے پچاس سال کے

گناہوں کی مغفرت فرمادیں گے۔ ابن السنی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۳۷... جو شخص عرفہ کی شام ہزار مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی مانگے عطا فرمادیں گے۔

ابوالشیخ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۷۳۸... جس نے ایک بار قل ہو اللہ احد پڑھی، اس پر برکت نازل کی جائے گی۔ اگر دو مرتبہ پڑھی اس پر اور اس کے اہل خانہ برکت نازل کی جائے گی۔ اگر تین مرتبہ پڑھی، تو اس پر اور اس کے اہل خانہ اور اس کے ہمسایوں پر بھی برکت نازل کی جائے گی۔ اگر بارہ مرتبہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں بارہ گھر بنا دے گا۔ اور محافظ فرشتے آپس میں کہیں گے چلو اپنے بھائی کے گھر دیکھ کر آئیں۔ اگر سو مرتبہ پڑھی تو پچیس سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا سوائے خون اور اموال کے۔ اگر دو سو مرتبہ پڑھی تو پچاس سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا سوائے خون اور اموال کے۔ اگر تین سو مرتبہ پڑھی تو چار ایسے شہیدوں کا ثواب لکھ دیں گے، جن کے گھوڑے زمی ہو گئے ہوں اور ان کا خون بہہ گیا ہو۔ اگر ہزار مرتبہ پڑھی تو وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔

ابن عساکر بروایت ابان عن انس رضی اللہ عنہ

۲۷۳۹... جس نے گھر میں داخل ہوتے وقت قل ہو اللہ احد پڑھی، اس کے گھر اور اس کے ہمسایوں کے ہاں سے فقر و افلاس اٹھ جائے گا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت جریر

۲۷۴۰... تیری اس سے محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ یعنی قل ہو اللہ احد سے۔

مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً الدارمی عبد بن حمید، الصحيح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن غریب

المسند لأبی یعلیٰ ابن خزیمہ، الصحيح لابن حبان، المستدرک للحاکم، ابن السننی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۴۱... جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا: اے محمد! معاویہ بن معاویہ مرنی وفات پا گئے ہیں کیا آپ ان کی نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ پھر جبرئیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا جس سے درمیان کے تمام شجر و حجر صاف ہو گئے اور ان کے جنازہ کی چار پائی سامنے آ گئی۔ پھر آپ ﷺ نے ملائکہ کی دو صفوں کے ساتھ ان پر نماز پڑھی ہر صف ستر ہزار ملائکہ پر مشتمل تھی۔ میں نے کہا اے جبرئیل! ان کو یہ مقام کس وجہ سے حاصل ہوا؟ کہا ان کی قل ہو اللہ احد کے ساتھ محبت کی وجہ سے، یہ آتے جاتے، بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں اس کو پڑھتے رہتے تھے۔

سمویۃ السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

المعوذتین

۲۷۴۲... مجھ پر آج رات ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل کوئی نہیں دیکھی گئی۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس

النسائی بروایت عقبہ بن عامر

۲۷۴۳... دو سورتوں کی کثرت کیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی بدولت تمہیں آخرت میں بلند درجات تک پہنچا دے گا وہ معوذتین ہیں۔ جو قبر کو روشن کرتی ہیں اور شیطان کو بھگاتی ہیں۔ نیکیوں اور درجات میں اضافہ کراتی ہیں۔ میزان عمل کو وزن دار کرتی ہیں اور اپنے پڑھنے والے کو جنت کا رستہ دکھلاتی ہیں۔ الدیلمی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۷۴۴... اے جابر! "قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس" پڑھ۔ تو نے ان کی مثل کوئی سورت نہ پڑھی ہوگی۔

النسائی، الصحيح لابن حبان بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۷۴۵... اے عقبہ بن عامر! تو نے کوئی سورت اللہ کے ہاں "قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس" سے زیادہ محبوب اور زیادہ پہنچ والی نہیں پڑھی ہوگی! پس اگر تجھ سے ہو سکے کہ یہ تجھ سے نماز میں نہ چھوٹیں تو کر لے۔

الصحيح لابن حبان، الكبير للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ المستدرک للحاکم، شعب الإيمان بروایت عقبہ بن عامر

۲۷۴۶ تو نے اللہ کے ہاں قل اعوذ برب الفلق سے زیادہ مرتبہ والی کوئی سورت نہ پڑھی ہوگی۔

۲۷۴۷ الصبیح لابن حنان، شعب الإیمان، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عقبہ بن عامر کسی سائل نے معوذتین جیسا سوال نہیں کیا اور کسی پناہ مانگنے والے نے ایسی پناہ نہیں مانگی۔ ابن ابی شیبہ بروایت عقبہ بن عامر

فصل سوم..... تلاوت کے آداب میں

۲۷۴۸ لوگوں میں سب سے اچھی قرأت والا شخص وہ ہے جب قرآن پڑھے تو اس میں رنجیدہ و سنجیدہ ہو۔

۲۷۴۹ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں میں سب سے اچھی قرأت والا شخص وہ ہے جب قرآن پڑھے تو اس میں رنجیدہ ہو۔

۲۷۵۰ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما لوگوں میں سب سے اچھی قرأت والا شخص وہ ہے جب تو اس کو پڑھتا دیکھے تو سمجھے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔

محمد بن نصر فی کتاب الصلاة، شعب الإیمان، التاريخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما السجزی فی الإبانة بروایت ابن عمرو الفردوس للدیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا ۲۷۵۱ تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں سوان کو مسواک کے ساتھ صاف کر لیا کرو۔

ابو نعیم فی کتاب السواک والسجزی فی الإبانة بروایت علی رضی اللہ عنہ ۲۷۵۲ اپنے مونہوں کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں۔

الکجی فی سننہ بروایت وضین مرسلہ لسجزی فی الإبانة عنہ عن بعض الصحابة ۲۷۵۳ اپنے مونہوں کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں۔ شعب الإیمان بروایت سمرۃ

۲۷۵۴ صاحب قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی طرح ہے۔ اگر وہ اس کی نگہبانی کرے گا تو روکے رکھے گا اور چھوڑے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ مالک، مسند احمد، بخاری و مسلم، النسائی، ابن ماجہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۷۵۵ قرآن کی حفاظت کرتے رہو، میری جان کے مالک کی قسم! وہ لوگوں کے دلوں سے اونٹ کے اپنی رسی سے زیادہ جلدی نکل جانے والا ہے۔ مسند احمد، بخاری و مسلم بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۲۷۵۶ کتاب اللہ دیکھو اور اس کی نگہبانی کرو اور اس کو خوش الحانی سے پڑھو۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! وہ اونٹنی کے اپنی رسی سے زیادہ جلد نکل جانے والا ہے۔ مسند احمد بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

۲۷۵۷ قرآن کی دیکھ بھال رکھو۔ وہ لوگوں کے دلوں سے جانور کے اپنی رسی سے زیادہ جلدی نکل جانے والا ہے۔ مسند احمد، بخاری و مسلم، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ، النسائی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۷۵۸ آواز سے قرآن پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ اور پست آواز سے قرآن پڑھنے والا خفیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ابو داؤد الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ النسائی بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ المستدرک للحاکم بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۷۵۹ کم سن بچے کا قرآن حفظ کرنا ایسا ہے جیسے پتھر پر نقش۔ اور سن رسیدہ کا قرآن حفظ کرنا ایسا ہے جیسے پانی پر لکھنا۔ الخطب فی الجامع بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۷۶۰ جس کی خواہش ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو وہ قرآن دیکھ کر پڑھے۔ الحلیہ، شعب الإیمان بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۷۶۱ کبھی اس میں تو کبھی اس میں، یعنی قرآن اور شعر۔ ابن الأبناری فی الوقف بروایت ابی بکرۃ
 ۲۷۶۲ اللہ تعالیٰ اس حسن الصوت بندے کی آواز زیادہ اہتمام سے سنتے ہیں جو قرآن کو اچھی آواز میں سنوار سنوار کر اور اونچی آواز سے
 پڑھے، نسبت اس شخص کے جو اپنی گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔

الصحيح لابن حبان المستدرک للحاکم شعب الإيمان بروایت فضالة بن عبيد
 ۲۷۶۳ اللہ تعالیٰ اچھی و بلند آواز میں قرآن پڑھنے والے ایک نبی کی آواز پر جتنا کان لگاتے ہیں، اتنا کسی چیز پر کان نہیں لگاتے۔

مسند احمد ابو داؤد بخاری ومسلم النسائی بروایت ابو هريره رضى الله عنه
 ۲۷۶۴ حسین آواز قرآن کی زینت ہے۔ الكبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابن مسعود رضى الله عنه
 ۲۷۶۵ اپنی اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھو۔ کیونکہ حسن صوت قرآن کے حسن کو نکھارتا ہے۔

الدارمی ابن نصر فی الصلاة بروایت البراء
 ۲۷۶۶ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ زینت بخشو۔ مسند احمد ابو داؤد النسائی الصحيح لابن حبان المستدرک للحاکم بروایت
 البراء ابونصر السجزی فی الإبانة بروایت ابو هريره رضى الله عنه. الدار قطنی فی الأفراد الكبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابن
 عباس رضى الله عنه الحلیہ بروایت عائشه رضى الله عنها

۲۷۶۷ قرآن کو اچھی آواز کے ساتھ زینت بخشو، کیونکہ حسن صوت قرآن کے حسن کو دو بالا کر دیتا ہے۔ المستدرک للحاکم بروایت البراء
 ۲۷۶۸ ہر چیز کا زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور عمدہ آواز ہے۔ المصنف لعبد الرزاق، الضیاء بروایت انس رضى الله عنه
 ۲۷۶۹ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو سنوار کر نہ پڑھے۔

الصحيح للبخاری رحمة الله عليه بروایت ابو هريره رضى الله عنه مسند احمد ابو داؤد الصحيح لابن حبان المستدرک للحاکم بروایت
 سعد ابو داؤد بروایت ابی لبابة بن المنذر المستدرک للحاکم بروایت ابن عباس رضى الله عنه ابو داؤد بروایت عائشه رضى الله عنها
 ۲۷۷۰ قرآن ہر حال میں پڑھو، بلا یہ کہ تم غسل کی حاجت میں ہو۔ ابو الحسن بن صخر فی فوائدہ بروایت علی رضى الله عنه
 ۲۷۷۱ ہر ماہ میں ایک قرآن پڑھ لو۔ ہر دن میں ایک قرآن پڑھ لو۔ ہر ہفتہ میں ایک قرآن پڑھ لو۔ بس اس سے کم دن میں پورا نہ کرو۔

بخاری ومسلم ابو داؤد بروایت ابن عمر رضى الله عنهما
 ۲۷۷۲ ہر ماہ میں ایک قرآن پڑھ لو۔ ہر پچیس دن میں ایک قرآن پڑھ لو۔ ہر پندرہ دن میں ایک قرآن پڑھ لو۔ ہر دن میں ایک قرآن
 پڑھ لو۔ ہر ہفتہ میں ایک قرآن پڑھ لو۔ اور جس نے تین دن سے کم میں قرآن پڑھ لیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔

مسند احمد بروایت ابو هريره رضى الله عنه
 ۲۷۷۳ چالیس دن میں ایک قرآن پڑھ لو۔ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابن عمر رضى الله عنهما

۲۷۷۴ پانچ دن میں ایک قرآن پڑھ لو۔ الكبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابن عمر رضى الله عنهما
 ۲۷۷۵ اگر ہو سکے تو تین دن میں قرآن پڑھ لو۔ مسند احمد الكبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت سعد بن المنذر

۲۷۷۶ قرآن پڑھتا رہے جب تک کہ وہ تجھے مسح کرے اور باز رکھے۔ پس اگر وہ تجھے مسح نہیں کرتا تو تو قرآن نہیں پڑھ رہا۔ الفردوس للذہبی
 رحمة الله عليه بروایت ابن عمر رضى الله عنه مقصود یہ کہ اپنے من میں قرآن کی تاثیر پیدا کرو کہ وہ تمہیں گناہوں سے روکنے لگ جائے اگر یہ کیفیت
 پیدا نہیں ہو رہی تو اس کو پیدا کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔

۲۷۷۷ قرآن حزن و ملال کے ساتھ پڑھو، کیونکہ یہ اسی طرح نازل ہوا ہے۔

المسند لأبى يعلى الحلیة الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه بروایت بریدة

۲۷۷۸ قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس سے مانوس رہیں۔ جب اضطراب پیدا ہو جائے تو اٹھ جاؤ۔

مسند احمد، بخاری و مسلم، النسائی بروایت جندب

یہ حکم ایسے لوگوں کے لئے ہے جو قرآن پڑھنے کے دلدادہ ہیں، ان کو اگر وقتی نا مانوسیت پیدا ہو جائے تو کچھ وقفہ کر لیں۔ ورنہ جو لوگ پڑھتے ہی نہیں ان کو چاہئے کہ ذرا جبر کر کے پہلے قرآن سے محبت و انس پیدا کریں۔

۲۷۷۹ عرب کے لہجے اور آواز میں قرآن پڑھو۔ اہل کتاب اور فساق لوگوں کے لہجے اختیار کرنے سے اجتناب کرو۔ عنقریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، جو قرآن کو گانے اور اہل کتاب اور نوہ کرنے والوں کی طرح پڑھیں گے۔ یہ قرآن ان کے حلقوں سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ان کے دل فتنہ زدہ ہوں گے اور جن کو ان کی آواز اچھی لگے گی ان کو بھی فتنہ میں مبتلا کریں گے۔

الأوسط للطبرانی رحمة الله عليه شعب الإيمان بروایت حدیفة رضی الله عنه

۲۷۸۰ قرآن پڑھو اور اس کے ذریعہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے متلاشی رہو، بل اس سے کہ ایک ایسی قوم آئے، جو قرآن کے الفاظ کو تیر کی طرح سیدھا کریں گے، لیکن وہ اس کا معادضہ دنیا ہی میں جلد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور آخرت کی تاخیر چھوڑ دیں گے۔

مسند احمد، ابو داؤد بروایت جابر رضی الله عنه

۲۷۸۱ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور اس کے معانی و غرائب میں غور کرو۔

ابن ابی شیبہ المستدرک للحاکم شعب الإيمان بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه

۲۷۸۲ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور اس کے معانی و غرائب میں غور کرو۔ اس کے غرائب ہی اس کے فرائض و حدود ہیں۔ کیونکہ قرآن پانچ عنوان میں نازل ہوا ہے، حلال، حرام، محکم، تشابہ اور امثال۔ پس حلال پر عمل کرو۔ حرام سے اجتناب برتو۔ محکم صریح المعنی کے پیچھے لگوانا پر عمل اور غور و فکر کرو۔ اور تشابہ غیر واضح المعنی پر بغیر کھوج میں پڑے ایمان لے آؤ۔ اور امثال سے عبرت پکڑو۔

شعب الإيمان بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه

۲۷۸۳ روزمرہ کی اپنی گفتگو صاف لہجے میں کیا کرتا کہ قرآن بھی اچھا کر کے پڑھ سکو۔

ابن الأباری فی الوقف والمرہبی فی فضل العلم بروایت ابی جعفر معضلا

۲۷۸۴ جب تم میں سے کوئی قرآن ختم کرے تو یہ دعا پڑھے "اللهم انس وحشتی فی قبری" اے اللہ مجھے قبر میں سامان اس عطا فرما۔

الفردوس للدیلمی رحمة الله عليه بروایت ابی امامة

۲۷۸۵ جب صاحب قرآن کھڑا ہو کر دن رات اس کو پڑھتا رہتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے۔ اور اگر اس کی نگہبانی نہ کرے تو بھول جاتا ہے۔

محمد بن نصر فی الصلاة بروایت ابن عمر رضی الله عنہما

۲۷۸۶ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل منزل پا کر پھر کوچ کر دینے والا عمل ہے۔ یعنی قرآن کے اول سے سفر شروع کرتا ہے اور آخر تک پہنچتا ہے تو پھر آخر سے اول کی طرف چل پڑتا ہے۔ گویا جیسے ہی منزل پائی پھر کوچ کر لیا۔

الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابن عباس رضی الله عنہما ابو داؤد بروایت زرارة بن ابی اوفی مرسلًا

یہ صحیح ہے۔

۲۷۸۷ قرآن پڑھو اور اس کے ذریعہ اللہ سے سوال کرو بل اس سے کہ ایسی قوم آئے جو اس کو پڑھ کر لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرے۔

مسند احمد شعب الإيمان الكبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت عمران بن حصین

۲۷۸۸ لوگوں میں سب سے اچھی قرأت والا شخص وہ ہے جب تو اس کو پڑھتا دیکھے تو سمجھے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔

ابن ماجہ بروایت جابر رضی الله عنه

۲۷۸۹ یہ وزن و کرب کے عالم میں نازل ہوا، پس جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو۔ اگر رونہ آئے تو جکلف رویا کرو۔ اور اس کو حسن صوت کے

ساتھ پڑھو۔ جو اس کو سنوار کر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ابن ماجہ، محمد بن نصر فی کتاب الصلاة، شعب الایمان بروایت سعد ۲۷۹۰۔ مجھ پر قرآن کا ایک حصہ اترا، تو میں نے اسے پورا کرنے سے قبل نکلنے کو ناپسند خیال کیا۔

۲۷۹۱۔ دیکھو! تم میں ہر کوئی اپنے رب سے مناجات کرتا ہوگا سو آپس میں ایک دوسرے کو ایذا رسانی سے اجتناب کرو۔ اور ایک دوسرے سے بلند آواز میں قرآن نہ کرو۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ بروایت اویس بن حذیفہ

۲۷۹۲۔ جو شخص سورۃ التین والزیتون پڑھے اور اس کے ختم ”الیس اللہ باحکم الحاکمین“ پر پہنچے تو اس کو کہنا چاہئے ”بلی وانا علی ذالک من الشاہدین“ آیت کے آخر حصہ کا معنی ہے: کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ جس کا جواب دے: کیوں نہیں میں بھی اس پر شہادت دیتا ہوں کہ آپ ہی احکم الحاکمین ہیں۔ اور جو سورۃ قیامہ پڑھے اور آخر میں اس آیت پر پہنچے ”الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتی“ تو کہے ”بلی“۔ آیت کے آخر حصہ کا معنی ہے: کیا وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو جواب دے: کیوں نہیں۔ اور جو سورۃ مرسلات پڑھے اور آخر میں اس آیت پر پہنچے ”فبای حدیث بعدہ یؤمنون“ تو کہے امنابا اللہ۔ آیت کے آخر حصہ کا معنی ہے: اس بات کے سوا اور کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ جواب ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ ابو داؤد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ۲۷۹۳۔ اللہ فلاں بندہ پر رحم کرے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلانی جو میں فلاں سورۃ سے بھول گیا تھا۔

مسند احمد، بخاری و مسلم، ابو داؤد بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

الاکمال

۲۷۹۴۔ قرآن پڑھو اور حالتِ گریہ طاری کرو۔ اگر رونانہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو اچھی طرح نہ پڑھے۔

ابن نصر بروایت سعد بن ابی وقاص

۲۷۹۵۔ اللہ تعالیٰ اس عمدہ آواز شخص کے قرآن پڑھنے پر کان لگاتا ہے جو قرآن کو خوش الحانی سے پڑھ رہا ہو۔

المصنف لعبدالرزاق بروایت البراء

۲۷۹۶۔ قرآن عالمِ حزن ہی میں نازل ہوا ہے۔ سو اس کو حزن و ملال کے ساتھ پڑھو۔ ابن مردویہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۷۹۷۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوش آوازی سے نہ پڑھے۔

المصنف لعبدالرزاق، ابن ابی شیبہ، ابو داؤد الطیالسی، مسند احمد، عبد بن حمید، العدنی والدارمی، ابو داؤد وابوعوانة، الصحیح لابن حبان، المستدرک للحاکم، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، السنن لسعید بروایت سعد بن ابی وقاص، ابو داؤد، البغوی وابن قانع الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی لبابة بن عبد المنذر، الخطیب وابن نصر فی الإبانة المستدرک للحاکم، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم ابو نصر فی الإبانة بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابو نصر بروایت ابن الزبیر، ابن النضر وابو نصر، المستدرک للحاکم بروایت عائشہ الخطیب فی المتفق والمفترق بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۷۹۸۔ اللہ تعالیٰ اتنا کسی چیز میں کان نہیں لگاتے جتنا اس بندہ کی آواز پر کان لگاتے ہیں جو قرآن کو عمدہ آواز سے پڑھ رہا ہو۔

المصنف لعبدالرزاق بروایت ابی سلمة مرسلًا وابو نصر السجزی فی الإبانة بروایت ابی سلمة

۲۷۹۹۔ اللہ تعالیٰ اتنا کسی چیز میں کان نہیں لگاتے جتنا اس بندہ کی آواز پر کان لگاتے ہیں جو قرآن کو عمدہ آواز سے پڑھ رہا ہو۔

ابن ابی شیبہ بروایت ابی سلمة

۲۸۰۰ اللہ تعالیٰ اتنا کسی چیز میں کان نہیں لگاتے جتنا اس بندہ کی آواز پر کان لگاتے ہیں جو قرآن کو بلند آواز اور خوش الحانی سے پڑھ رہا ہو۔

الصحيح لابن حبان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۸۰۱ افسوس تجھ پر اے شہاب! تو قرآن کو اچھی آواز میں کیوں نہیں پڑھتا؟ ابو نعیم بروایت زید بن ارقم عن سالم بن ابی سلام

۲۸۰۲ قرآن تو اسی شخص سے سنا جاتا ہے جو رغبت اور خوفِ الہی سے پڑھ رہا ہو۔

ابن المبارک بروایت طاؤس مرسلًا ابو نصر السجزی فی الإبانة عن طاؤس عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

قرآن کی اشاعت کرنے کا حکم

۲۸۰۳ اہل قرآن قرآن کے ساتھ تکیہ نہ لگاؤ۔ اور جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کی شب و روز تلاوت کرو۔ اس کی نشر و اشاعت کرو۔ خوش الحانی سے پڑھو۔ اس میں غور و فکر کرو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے اور دنیا ہی میں اس کی اجر ت طلب نہ کرو کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب ملنے والا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ شعب الإيمان ابو نعیم ابن عساکر بروایت عبیدۃ الملیکی

۲۸۰۴ اپنے منہ صاف ستھرے رکھو کیونکہ یہ قرآن کے راستے ہیں۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۲۸۰۵ قرآن پڑھتے رہو جب تک اس محسوس کرتے رہو جب طبیعت بے چین ہو تو اٹھ جاؤ۔



الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ الحلیہ بروایت جنذب

۲۸۰۶ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھو۔ الرافی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۸۰۷ پڑھتا رہے معاذ! اور تاریخ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ جھکے نہ مار۔ تاریخ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۸۰۸ جس طرح حفظ کرنا سیکھتے ہو اسی طرح خوش الحانی اور عمدہ آواز پیدا کرنا بھی سیکھو۔ الدیلمی بروایت ابی رضی اللہ عنہ

۲۸۰۹ اپنے بھائی کی رہنمائی کرو۔ المستدرک للحاکم بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہما آپ ﷺ نے ایک شخص کو غلط قرآن پڑھتے سنا تو آپ

ﷺ نے دوسرے اصحاب کو فرمایا۔

۲۸۱۰ جب قرآن کی کوئی آیت مشتبہ ہو جائے کہ یہ لفظ مؤنث ہے یا مذکر تو قرآن کو دیکھ کر یاد کرو۔

ابن قانع بروایت بشیر او بشیر بن الحارث

۲۸۱۱ جب کوئی رات کو نفل نماز کے لئے کھڑا ہو لیکن قرآن پڑھنے سے عاجز ہو جائے، پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو وہ واپس سو جائے۔

المصنف لعبد الرزاق، مسند احمد، الصحيح لمسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، الصحيح لابن حبان بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۸۱۲ افضل الأعمال منزل پا کر پھر کوچ کر دینے والا عمل ہے۔ پوچھا گیا اس کا مطلب تو فرمایا: یعنی قرآن ختم کر کے پھر شروع کرنا۔

محمد بن نصر من طریق ابن المبارک

۲۸۱۳ ہمیں اسکندریہ کے ایک شخص نے حدیث بیان کی: افضل الأعمال منزل پا کر پھر کوچ کر دینے والا عمل ہے۔ یعنی قرآن کے اول سے

سفر شروع کرتا ہے اور آخر تک پہنچتا ہے تو پھر آخر سے اول کی طرف چل پڑتا ہے۔ گویا جیسے ہی منزل پائی پھر کوچ کر لیا۔

المستدرک للحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

اس پر المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے تعاقب فرمایا۔

۲۸۱۴ تجھ پر منزل پا کر پھر کوچ کر دینے والا عمل ہے۔ یعنی قرآن کے اول سے سفر شروع کرتا ہے اور آخر تک پہنچتا ہے تو پھر آخر سے اول کی

طرف چل پڑتا ہے۔ گویا جیسے ہی منزل پائی پھر کوچ کر لیا۔ شعب الإيمان بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما

۲۸۱۵ فرمایا: ہر ماہ میں ایک قرآن پڑھ لو عرض کیا: میں اس سے زیادہ قوت پاتا ہوں فرمایا: دن راتوں میں ایک قرآن پڑھ لو عرض کیا: میں اس سے زیادہ قوت پاتا ہوں فرمایا: سات رات میں ایک قرآن پڑھ

زیادہ قوت پاتا ہوں فرمایا: دن راتوں میں ایک قرآن پڑھ لو عرض کیا: میں اس سے زیادہ قوت پاتا ہوں فرمایا: سات رات میں ایک قرآن پڑھ

لو اور اس سے زیادہ مت کرو۔ الصحيح للبخاری رحمة الله عليه الصحيح لمسلم ج ۲ ص ۸۱۲ ابو داؤد بروایت ابن عمرو
۲۸۱۶ فرمایا: ہر ماہ میں ایک قرآن پڑھ لو عرض کیا: میں اس زیادہ قوت پاتا ہوں فرمایا: تین راتوں میں ایک قرآن پڑھ لو۔

ابو داؤد الحلیہ بروایت ابن عمرو

۲۸۱۷ چالیس دن میں ایک قرآن پڑھ لو۔ الصحيح للترمذی رحمة الله عليه حسن غریب بروایت ابن عمرو

۲۸۱۸ پانچ دن میں ایک قرآن ختم کر لو۔ الكبير للطبرانی رحمة الله عليه بروایت ابن عمرو

۲۸۱۹ اتنا بوجھ نہ اٹھا جس کو سہار نہ سکے۔ بلکہ تم پر سجدے لازم ہیں۔ الكبير للطبرانی رحمة الله عليه ابن عساکر بروایت ابی ریحانہ
انہوں نے عرض کیا کہ قرآن مجھ سے چھوٹ جاتا ہے اور پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے تو آپ ﷺ نے یہ فرمایا۔

۲۸۲۰ قرآن پڑھو اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو۔ الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی الله عنه

۲۸۲۱ قرآن پڑھو اور اس کے ذریعہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے متلاشی رہو، قبل اس سے کہ ایک ایسی قوم آئے، جو قرآن کے الفاظ کو تپیر کی طرح
سیدھا کریں گے، لیکن وہ اس کا مواضع دنیا ہی میں جلد حاصل کریں گے اور آخرت سے سرد کار نہ رکھیں گے۔

ابن ابی شیبہ بروایت محمد بن المنکدر مرسلأ

۲۸۲۲ تیرے قرآن کو دیکھ کر قرآن پڑھنے کی فضیلت، بغیر دیکھے قرآن پڑھنے پر ایسی ہے، جیسے فرض کی فضیلت نفل پر۔

ابن مردویہ بروایت عثمان بن عبد اللہ بن اوس الثقفی بروایت عمرو بن اوس

۲۸۲۳ کیا بات ہے میں تم کو بالکل خاموش دیکھ رہا ہوں؟ جواب دینے میں تم سے جن زیادہ بہتر تھے۔ میں جب بھی ”فبأی الآء ربکما
تکذبن“ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پڑھتا وہ کہتے ”ولابشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد“ پروردگار
ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے تیرے ہی لئے ساری تعریفیں ہیں۔

الحسن بن سفیان، المستدرک للحاکم، شعب الإیمان بروایت جابر رضی الله عنه

۲۸۲۴ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو تلاوت قرآن سے اشکبار ہو جائے، مگر وہ قیامت کے دن ٹھنڈی ہو جائے گی۔

الدیلمی بروایت انس رضی الله عنه

۲۸۲۵ یوں مت کہو کہ سورۃ البقرۃ سورۃ آل عمران۔ جس کا معنی ہے گائے کی سورۃ آل عمران کی سورۃ۔ بلکہ یوں کہا کرو: وہ سورۃ جس میں
بقرہ کا ذکر ہے وہ سورۃ جس میں آل عمران کا ذکر ہے۔ اسی طرح تمام قرآن میں کہا کرو۔ شعب الإیمان بروایت انس رضی الله عنه ضعیف

۲۸۲۶ مجھے قرآن سناؤ عرض کیا یا رسول اللہ! میں اور آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے! فرمایا: میری خواہش ہے کہ
میں کسی اور سے سنوں۔ الصحيح للبخاری رحمة الله عليه الصحيح لمسلم ابو داؤد بروایت ابن مسعود رضی الله عنه
تم دیکھ رہے ہو میں نے اللہ کے فضل سے نبی رات کو سب طویل پڑھیں۔

ابن خزیمہ المسند لأبی یعلیٰ الصحيح لابن حبان المستدرک للحاکم شعب الإیمان السنن لسعید بروایت انس رضی الله عنه

فصل..... تلاوت کے مکروہات اور چند حقوق کے بیان میں

۲۸۲۷ میری امت میں ایسی قوم بھی آئے گی، جو قرآن کو ردی کھجوروں کی طرح پڑھے گی۔ المسند لأبی یعلیٰ بروایت حذیفہ رضی الله عنه

۲۸۲۸ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، جس نے تین دن سے کم میں قرآن پورا کر دیا۔

ابو داؤد الصحيح للترمذی رحمة الله عليه ابن ماجہ بروایت ابن عمر رضی الله عنه

۲۸۲۹ قرآن کو طہارت کے بغیر مت چھوؤ۔ الكبير للطبرانی رحمة الله عليه الدار قطنی المستدرک للحاکم بروایت حکیم بن حزام

۲۸۳۰ قرآن کو با وضوء شخص کے سوا کوئی نہ مس کرے۔ ابو داؤد الصحيح للترمذی رحمة الله عليه بروایت ابن عمر رضی الله عنہما

- ۲۸۳۱ یوں کہنا کتنا برا ہے میں نے فلاں آیت بھلا دی۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے مجھے فلاں آیت بھول گئی یا بھلا دی گئی۔
مسند احمد، السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
- ۲۸۳۲ کوئی یوں کہے میں نے فلاں فلاں آیت بھلا دی۔ بلکہ اسے بھلا دی گئی۔ الصحیح لمسلم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
- ۲۸۳۳ مجھ پر اپنی امت کے اجر پیش کئے گئے۔ حتیٰ کہ اس تیکے کا اجر بھی، جو کسی مسجد سے نکال دے۔ اور مجھ پر اپنی امت کے گناہ بھی پیش کئے گئے اور میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی سورت یا دکی پھر بھلا دی۔
- ۲۸۳۴ ابو داؤد، الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ
نہیں کوئی شخص جو قرآن سیکھے پھر اسے بھلا دے مگر وہ قیامت کے دن اللہ سے کوڑھی حالت میں ملاقات کرے گا۔
- ۲۸۳۵ الصحیح لمسلم، الدارمی، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، شعب الإیمان بروایت سعد بن عبادة
نہیں کوئی شخص جو قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے مگر وہ قیامت کے دن اللہ سے کوڑھی حالت میں ملاقات کرے گا۔
- ۲۸۳۶ قرآن میں جھگڑا مت کرو کیونکہ اس میں جھگڑنا کفر ہے۔ الطیالسی، شعب الإیمان بروایت ابن عمرو
- ۲۸۳۷ قرآن میں جھگڑا وجدال کرنا کفر ہے۔ ابن ماجہ، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۲۸۳۸ قرآن میں تنازعہ کرنا کفر ہے۔ ابو داؤد، المستدرک للحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۲۸۳۹ قرآن میں تنازعہ سے ممانعت کی گئی ہے۔ السجوی فی الإبانة بروایت ابی سعید
- ۲۸۴۰ دشمنان دین کی سرزمین میں قرآن لے کر سفر کرنے سے ممانعت کی گئی ہے۔ بخاری و مسلم ابو داؤد ابن ماجہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
- ۲۸۴۱ جس نے قرآن کی تعلیم پر ایک کمان بھی لی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کی کمان گلے میں ڈالیں گے۔
- الحلیہ، بیہقی بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ
- ۲۸۴۲ جس نے قرآن پر اجرت لی، بس قرآن سے اس کا یہی حصہ ہوگا۔ الحلیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
- ۲۸۴۳ جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے کھاتا ہے، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا اس کا چہرہ محض ہڈیوں کی کھوپڑی ہوگی، اس پر گوشت نام کی کوئی شے نہ ہوگی۔ شعب الإیمان بروایت بریدہ
- ۲۸۴۴ وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا، جس نے اس کی حرام کردہ اشیاء کو حلال ٹھہرایا۔
- الصحیح للترمذی رحمۃ اللہ علیہ بروایت صہیب رضی اللہ عنہ
- ۲۸۴۵ دنیا میں غریب ترین چار چیزیں ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں وہ قرآن، جو کسی ظالم کے سینے میں ہے۔ کسی قوم کے محلہ کی وہ مسجد، جس میں نماز نہ ادا کی جاتی ہو۔ کسی گھر میں وہ قرآن جس کی تلاوت نہ کی جاتی ہو۔ اور وہ نیکو کار شخص، جو برے لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہو۔
- الفردوس للذیلمی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

الاکمال

- ۲۸۴۶ عظیم ترین گناہ جو قیامت کو میری امت کا میرے سامنے آئے گا وہ کتاب اللہ کی وہ سورت ہوگی جو کسی کو یاد تھی لیکن اس نے بھلا دی۔
محمد بن نصر بروایت انس رضی اللہ عنہ
- ۲۸۴۷ مجھ پر گناہ پیش کئے گئے۔ لیکن میں نے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن عطا ہوا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا۔
ابن ابی شیبہ بروایت الولید بن عبد اللہ بن ابی مغیث

۲۸۴۸ نہیں کوئی شخص جو قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے مگر وہ قیامت کے دن اللہ سے کوڑھی حالت میں ملاقات کرے گا۔

محمد بن نصیر بروایت سعد بن عبادہ

۲۸۴۹ یوں کہنا کتنا برا ہے میں نے فلاں آیت بھلا دی۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے مجھے فلاں آیت بھلا دی گئی۔ قرآن کو یاد کرتے رہو، پس قسم ہے اس ہستی کی، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! یہ لوگوں کے سینوں سے فوراً نکل جانے والا ہے، بنسبت جانور کے اپنی رسی سے زیادہ جلد۔

مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، الصحيح لمسلم، النسائی، الصحيح لابن حبان بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۲۸۵۰ قرآن کی نگہبانی کرتے رہو۔ یہ جلد نامانوس ہو جانے والا ہے۔ وہ اونٹ کے اپنی رسی سے زیادہ جلدی لوگوں کے سینوں سے نکل جانے والا ہے۔ اور کوئی یوں ہرگز نہ کہے میں نے فلاں آیت بھلا دی، یا بھول گیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے مجھے فلاں آیت بھلا دی گئی۔

محمد بن نصر، الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، المستدرک للحاکم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن ابی شیبہ موقوفاً
۲۸۵۱ کوئی یوں ہرگز نہ کہے میں نے فلاں آیت بھلا دی، یا بھول گیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے مجھے فلاں آیت بھلا دی گئی۔ کیوں کہ وہ نہیں بھولتا بلکہ بھلا دیا جاتا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۲۸۵۲ قرآن کی نگہبانی کرتے رہو۔ پس قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! یہ لوگوں کے سینوں سے جلد نکل جانے والا ہے، اس بد کے ہوئے جانور سے زیادہ جلد جو اپنی رسی سے چھوٹ کر اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ، الخطیب بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن ابی شیبہ موقوفاً
۲۸۵۳ قرآن کی نگہبانی کرتے رہو۔ پس قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! یہ جانور کے اپنی رسی سے زیادہ جلدی لوگوں کے سینوں سے نکل جانے والا ہے۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۲۸۵۴ قرآن کی مثال جب اس کی کوئی نگہبانی کرتا ہو اور دن رات اس کو پڑھتا ہو اس اونٹ کی طرح ہے جس کو اس کے مالک نے رسی سے باندھ رکھا ہے۔ پس اگر باندھے رکھے گا تو حفاظت کر لے گا ورنہ رسی چھوڑے گا تو اونٹ فوراً نکل جائے گا۔ سوائی طرح قرآن ہے۔

ابن ابی شیبہ، مسند احمد، الصحيح للبخاری رحمۃ اللہ علیہ، الصحيح لمسلم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
۲۸۵۵ قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کی مانند ہے۔ اگر اس کا مالک اس کی رسی کی حفاظت رکھے گا تو روک رکھے گا ورنہ غفلت میں پڑے گا تو وہ چلا جائے گا۔ تو جب صاحب قرآن اس کو شب و روز پڑھتا رہے گا یا درہے گا چھوڑ بیٹھے گا تو بھلا دیا جائے گا۔

الرامہرمزی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
۲۸۵۶ شیطان کو بھگا! شیطان کو بھگا! شیطان کو بھگا! اے عمر۔ قرآن سارا درست ہے۔ جب تک کہ مغفرت کو عذاب نہ بنائے اور عذاب کو مغفرت نہ بنائے۔ النعوی بروایت اسحاق بن حارثۃ الأنصاری عن ابیہ عن حدہ
یعنی شیطان کے وسوسہ میں پڑ کر بہت زیادہ عین تیر کی مانند سیدھا کرنے کے پیچھے لگ کر تلاوت ترک نہ کر دو بلکہ صحیح ادا ہونے کا لحاظ رکھو۔

۲۸۵۷ اے عمر! قرآن سارا درست ہے۔ جب تک کہ مغفرت کو عذاب نہ بنائے اور عذاب کو مغفرت نہ بنائے۔

مسند احمد، سمویہ بروایت اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن ابیہ عن حدہ
۲۸۵۸ قرآن میں اختلاف و تنازعہ کرنے کو چھوڑ دو۔ تم سے قبل امتیں بھی ملعون ہوئیں جب انہوں نے قرآن میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ بے شک قرآن میں اختلاف و انتشار کفر ہے۔ ابو نصر السجزی فی الإبانۃ

۲۸۵۹ قرآن کے ساتھ جھگڑا مت کرو۔ اور نہ بعض کو بعض کے ساتھ ٹکراؤ۔ اللہ کی قسم مومن جھگڑتا ہے غالب آ جاتا ہے اور منافق جھگڑتا ہے تو ماخوذ ہوتا ہے۔ اور اس سے غلط رائے قائم کرنے کی جواہد ہی کرنا ہوتی ہے۔ الدیلمی بروایت عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابیہ عن جدہ
۲۸۶۰ قرآن میں جھگڑا مت کرو۔ بے شک قرآن میں اختلاف و انتشار کفر ہے۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت زید بن ثابت الحسن بن سفیان بروایت سعد مولیٰ عمرو بن العاص

حسن بن سفیان کے متعلق تابعی ہونے کا قول ہے۔

۲۸۶۱ اے قوم! تم سے قبل امتیں بھی اسی وجہ سے قعر ہلاکت میں پڑیں۔ قرآن تو بعض بعض کی تصدیق ہی کرتا ہے۔ پس قرآن کو آپس میں

بعض کو بعض کے ساتھ متنگراؤ۔ الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عمرو

ابن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ ایک قوم کے پاس تشریف لائے دیکھا کہ وہ قرآن میں جھگڑ رہے ہیں تو آپ نے یہ فرمایا۔

۲۸۶۲ قرآن کا کچھ حصہ بھی دشمن کی سرزمین میں مت لے جاؤ۔ ابن ابی داؤد فی المصاحف بروایت ابن عمرو ہے۔

۲۸۶۳ دشمنان دین کی سرزمین میں قرآن لے کر سفر نہ کرو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں دشمن اس کو چھین نہ لے۔

الحلیہ ابن ابی داؤد فی المصاحف المستدرک للحاکم بروایت ابن عمرو

۲۸۶۴ اگر تو نے اس پر کمان لی تو گویا جہنم کی کمان لی۔ بیہقی بروایت ابی بن کعب ضعیف ہے

کہتے ہیں میں نے کہا: میں نے کسی کو قرآن سکھایا تھا اس نے مجھے یہ کمان ہدیہ کی ہے۔ تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب فرمایا۔

۲۸۶۵ تیرے شانوں کے درمیان ایک انگارہ ہے جو تو گردن میں ڈالے گا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ المستدرک للحاکم السنن للبیہقی رحمۃ اللہ علیہ بروایت عبادة بن الصامت

عرض کیا: میں نے کسی کو قرآن سکھایا تھا اس نے مجھے یہ کمان ہدیہ کی ہے۔ تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب فرمایا۔

۲۸۶۶ اگر تو چاہتا ہے کہ اس کے بدلے جہنم کی آگ کی ایک کمان اپنی گردن میں ڈالے تو قبول کر لے۔

مسند احمد ابن منیع عبد بن حمید الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ المستدرک للحاکم السنن لسعيد السنن للبیہقی رحمۃ اللہ

علیہ ابو داؤد ابن ماحہ المسند لابی یعلیٰ بروایت عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ

۲۸۶۷ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے آگ کی ایک کمان گردن میں ڈالے تو قبول کر لے۔ الحلیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

۲۸۶۸ جس نے قرآن کی تعلیم پر ایک کمان لے لی، اللہ تعالیٰ اسے آگ کی ایک کمان گردن میں ڈالے گا۔

الکبیر للطبرانی رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۸۶۹ جس نے قرآن کی تعلیم پر اجرت لی، اس نے اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں جلد وصول کر لیا۔ اب قیمت کے دن قرآن اس سے جھگڑے گا

ابونعیم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۸۷۰ قرآن تین حصوں میں ہے۔ حلال، اس کی اتباع کرو۔ حرام، اس سے اجتناب کرو۔ تشابہ، جس کا معنی تم پر مشتبہ ہو جائے، اسے

کے عالم کے سپرد کرو۔ الدیلمی بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

۲۸۷۱ جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اور وہ با وضو تھا تو اسے چاہئے کہ دوبارہ وضوء کر لے۔

الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۸۷۲ میری امت کی ہلاکت کتاب اور دودھ میں ہے۔ کتاب میں یوں کہ وہ اسے پڑھتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کی غلط تاویل کر۔

ہیں اور دودھ میں یوں کہ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کے لئے دیہاتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر جمعوں جماعتوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔

مسند احمد شعب الایمان ابو نصر السجزی فی الإبانة بروایت عقبہ بن عاص

۲۸۷۳ جہنمی حالت میں قرآن مت پڑھ۔ الزوار بروایت علی رضی اللہ عنہ و ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۲۸۷۴ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں مت چھو۔ ابن ابی داؤد فی المصاحف بروایت عثمان بن العاص

۲۸۷۵ اللہ لعنت کرے اس پر جس نے یہ کیا۔ قرآن کو اس کی جگہ رکھو۔ الحکیم بروایت عمر بن عبد العزیز

حضور ﷺ زمین پر پڑے ہوئے قرآن کے ٹکڑے کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے اس کے مرتب پر لعنت فرمائی۔

۲۸۷۶ کتاب کو پاؤں کے ساتھ مت مٹاؤ۔ ابو نصر السجزی فی الإبانة

حدیث غریب ہے۔

۲۸۷۷ اے حامل قرآن! قرآن کے ساتھ زینت اپنا۔ اللہ تجھے مزین کرے گا۔ اور لوگوں کے لئے اس کو زینت مت بنا، اللہ تجھے ذلیل و معیوب کر دے گا۔ حامل قرآن کو چاہئے کہ رات کو طویل نماز پڑھے۔ اور لوگوں میں طویل حزن و ملال والا ہو جبکہ لوگ خوش ہوں اور تجھے مار رہے ہوں۔

۲۸۷۸ ایک دوسرے پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ یہ بات نمازی کو ایذا پہنچاتی ہے۔ الخطیب بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۸۷۹ ہاں میں اس کو لٹن سے پڑھتا ہوں اور تم اس کو پشت سے پڑھتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا لٹن سے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: میں اس کو پڑھتا ہوں اور غور و فکر کرتا ہوں اور اس پر عمل کرتا ہوں اور تم پڑھتے ہو تو یوں استغنائی اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا۔

محمد بن نصر عن عمیر بن ہانی

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا بات ہے! کہ ہم خلوت میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کیفیات محسوس نہیں کرتے جو آپ کرتے ہیں؟ تب آپ نے یہ فرمایا۔

حاملین قرآن کی تین قسمیں

۲۸۸۰ حاملین قرآن تین طرح کے ہیں۔ ایک، جس نے اس کو ذریعہ تجارت بنا لیا۔ دوسرا، جس نے اس کو فخر و مہابات کا ذریعہ بنا لیا وہ منبر پر گانے بجانے کی طرح خوب فخر کرتا ہے کہتا ہے اللہ کی قسم مجھ سے غلظتی نہیں ہو سکتی کوئی ایک حرف بھی مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ تو یہ گروہ میری امت کے بدترین گروہ ہیں۔ اور ایک اور گروہ نے اس کو اٹھایا اور اس کا سینہ اس کے ساتھ ٹھنڈا ہوا اور اس کے دل میں اس کا الہام ہوا اور اس نے اپنے دل کو حراب بنا لیا۔ پس یہ عافیت میں ہے لیکن اس کا نفس مصیبت میں ہے۔ اور ایسے لوگ میری امت میں کبریت احمر کی طرح قلیل التعداد ہیں۔

ابو نصر السجزی فی الإبانة ابو السنن والدیلمی بروایت الحسن عن انس رضی اللہ عنہ

ابو نصر کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے اور اس کو مؤمل بن عبد الرحمن کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا۔ اور اس میں کلام ہے۔ البتہ حسن سے ان کا قول محفوظ ہے۔

۲۸۸۱ حاملین علم دنیا میں انبیاء کے خلفاء اور آخرت میں شہداء ہیں۔ الخطیب بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما

۲۸۸۲ قرآن کے قاری تین ہیں۔ ایک وہ شخص، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو سامان رزق بنا لیا یا وراثت ہوں کے ہاں اس کی حرمت کو پامال کیا۔ لوگوں کو اس کے ذریعہ مائل کیا۔ دوسرا وہ شخص، قرآن پڑھا اس کے حروف کو خوب خوب سیدھا کیا۔ لیکن اس کی قائم کردہ حدود کو ضائع کر دیا۔ تو قارئین قرآن کے یہ گروہ بہت ہیں اللہ ان کو برکت نہ دے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو اپنے دل کے مرض کی دوا بنا لیا۔ پس قرآن نے اس کی راتوں کو بیدار رکھا اس کے دنوں کو پیاسا رکھا۔ وہ لوگ مسجدوں میں کھڑے رہتے ہیں اپنے لباس میں سہارا لئے اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پس یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلاؤں اور خطرات کو ٹال دیتے ہیں۔ دشمنوں کو دفع کر دیتے ہیں۔ آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں۔ پس اللہ کی قسم! یہ قرآن کبریت احمر سے زیادہ نایاب ہیں۔

الصحیح لابن حبان فی الضعفاء، ابو نصر السجزی فی الإبانة والدیلمی بروایت بریدة

سجزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حدیث میں ضعف ہے۔ اس کو احمد بن متیم کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا اور وہ بھی متکلم فیہ ہے۔

شعب الإیمان بروایت الحسن رحمۃ اللہ علیہ

اللہ کے فضل و کرم سے جزء اول مکمل ہوا۔ اب اس کے ساتھ انشاء اللہ تعالیٰ دوسرا

جزء شروع ہو رہا ہے، اس کی پہلی فصل تفسیر کے بیان میں ہے



اردو ترجمہ کنز العمال

حصہ دوم

مترجم

محمد اصغر مغل

فاضل جامعہ دارالعلوم، کراچی

فصل چہارم..... تفسیر کے بیان میں

مذکورہ فصل قرآن اور اس کے فضائل سے متعلق ساتویں باب کی فصلوں میں سے مذکورہ باب حرف الہزہ کی دوسری کتاب کتاب الاذکار میں سے ہے۔

کتاب الاذکار قسم الاقوال میں سے ہے۔ جو کہ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال کی ایک قسم ہے۔

۲۸۸۳ سورۃ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں ہیں جو مجھے قرآن عظیم کے ساتھ عطا کی گئی ہیں۔ بخاری، ابو داؤد، بروایت سعید بن المعلی

تشریح: نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لئے اس کو "السبع المثانی" بار بار پڑھی جانے والی سات آیت کا نام دیا گیا۔

۲۸۸۴ السبع المثانی سے مراد فاتحہ الکتاب ہے۔ (المستدرک للحاکم بروایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ

تشریح: سورۃ فاتحہ کو فاتحہ الکتاب اس لئے کہا گیا کیونکہ یہ کتاب اللہ کے لئے بمنزلہ دروازہ کے ہے اسی سے کتاب اللہ کا افتتاح ہوتا ہے۔

۲۸۸۵ سورۃ فاتحہ میں "مغضوب علیہم" جن پر غضب (خداوندی) کیا گیا سے مراد قوم یہود ہے۔ اور "الضالین" گمراہ ہوجانے والے سے مراد نصاریٰ ہیں۔ ترمذی بروایت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ

تشریح: یہود سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہٹ دھرمی سے حق کا انکار کرتے تھے اس وجہ سے ان پر خدا کا غضب اترا جبکہ نصاریٰ

جہالت کی وجہ سے حق سے منحرف ہو گئے۔ یہود کو ہٹ دھرمی کا یہ ثمرہ ملا کہ حق کی طرف ان کا آنا بہت محال ہو گیا جبکہ نصاریٰ سے جب بھی جہالت کی دبیز تہہ ہٹی وہ حق کی طرف آتے گئے۔ مذکورہ تین احادیث سورۃ فاتحہ سے متعلق وارد ہوئی ہیں جو مستند اسناد سے مروی ہیں۔

۲۸۸۶ سورۃ بقرہ۔ بنی اسرائیل کو کہا گیا:

ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة بقرہ: ۵۸۰

"(شہر کے) دروازے میں (عاجزی کے ساتھ) جھکتے ہوئے اور مغفرت (مغفرت) کہتے ہوئے داخل ہو۔"

لیکن انہوں نے بات کو بدل دیا اور اپنی سرینوں کے بل اُکڑتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے حبة فی شعيرة (حبة فی شعيرة)

شعيرة) گندم جو میں، گندم جو میں۔ مسند احمد، بخاری و مسلم، ابو داؤد ترمذی بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

(اصل کے حاشیہ اور منتخب کنز العمال اور نسخہ انتظامیہ کے حواشی میں ابو سعید ہے۔)

تشریح: مذکورہ فرمان قوم بنی اسرائیل سے متعلق نازل ہوا تھا جب کہ وہ ایک ہی قسم کا کھانا "من و سنوی" کھاتے کھاتے آتے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر خدا سے دعا کرائی کہ ان کو دیگر اقسام کے کھانے بھی عطا کئے جائیں۔ تب پروردگار نے ان کو شہر میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ یہ لوگ خدا کے حکم کا تمسخر اڑاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔

امت محمدیہ ﷺ معتدل امت ہے

۲۸۸۷ وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. بقرة ۱۴۳

اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ (اور رسول تم پر گواہ بنیں) قیامت کے روز نوح اور اس کی امت آئے گی۔ اللہ پاک نوح علیہ السلام کو فرمائیں گے: کیا تم نے پیغام رسالت پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں اے پروردگار! پروردگار ان کی قوم سے پوچھیں گے کیا تم کو پیغام مل گیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ پروردگار حضرت نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائیں گے: کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام محمد (ﷺ) اور آپ (ﷺ) کی امت کا نام لیں گے۔ یہی مذکورہ فرمان الہی کا مطلب ہے۔ پھر امت کو بلایا جائے گا اور تم پیغمبر کے حق میں پیغام رسالت پہنچانے کی گواہی دو گے اور میں تم پر گواہی دوں گا۔ مسند احمد، بخاری ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بروایت ابو سعید رضی اللہ عنہ

اس حدیث کی مزید وضاحت ذیل کی حدیث سے ہوتی ہے۔

۲۸۸۸ قیامت کے روز ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ فقط ایک امتی ہوگا اور کسی نبی کے ساتھ دو امتی ہوں گے اور کسی نبی کے ساتھ تین امتی ہوں گے۔ اور کسی کے ساتھ اس سے زیادہ ہوں گے پس اس نبی سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں پھر اس کی قوم کو بلایا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا: کیا تم کو اس نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ تب پیغمبر سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا کون گواہ ہے؟ وہ کہے گا محمد (ﷺ) اور اس کی امت۔ پس محمد (ﷺ) اور اس کی امت کو بلایا جائے گا۔ ان سے پوچھا جائے گا کیا اس پیغمبر نے اپنی قوم تک پیغام خداوندی پہنچا دیا تھا؟ امت محمدیہ عرض کرے گی جی ہاں! امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا: تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ وہ کہیں گے ہمارے نبی نے ہمیں خبر دی تھی کہ تمام رسولوں نے اپنی قوموں تک پیغام خداوندی پہنچا دیا ہے۔ لہذا ہم نے اپنے پیغمبر (ﷺ) کی تصدیق کی۔ پس یہی اس فرمان باری (وکل لک جعلناکم) کا مطلب ہے۔

مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ

ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا لطیفہ

۲۸۸۹ حتی یتبین لکم الخیط الابيض من الخیط الاسود من الفجر بقرہ: ۱۸۷

حتی کہ رات کے سیاہ دھاگہ سے صبح کا سفید دھاگہ واضح ہو جائے۔

آپ (ﷺ) نے فرمایا: تب تو تمہارا تکیہ بڑا طویل و عریض ہے۔ اس سے مراد تو رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی ہے۔

مسند احمد، ابوداؤد، بروایت عدی رضی اللہ عنہ بن ح

روزے کے متعلق جب مذکورہ حکم نازل ہوا کہ اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ تو ایک صحابی اس کا لفظی معنی مراد پا ہوئے اپنے تکیے کے نیچے دو دھاگے ایک سفید اور سیاہ رکھ کر سو گئے کہ جب تک یہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو جائیں کھانے پینے گنجائش ہے۔

صبح کو جب یہ واقع حضور اکرم (ﷺ) کی خدمت میں گوش گزار کیا گیا تو آپ (ﷺ) نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت لمبا چوڑا ہے جس کے نیچے رات اور دن آگئے۔ اس سے مراد صبح کی شفق کی کارات کی تاریکی سے ممتاز ہونا ہے۔

۲۸۹۰ آل عمران۔ ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلاً۔ آل عمران ۹۷

اور لوگوں پر اللہ کے لئے اس کے گھر کا حج ہے۔ جو شخص اس کی راہ کی طاقت رکھتا ہو اور سوار ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: استنبیل توشہ اور سواری ہے۔

(الشافعی، ترمذی، ابن عمر رضی اللہ عنہ سنن البیہقی عائشہ رضی اللہ عنہ

تشریح: یعنی جو شخص آنے جانے کے خرچ اور سواری کی طاقت رکھتا ہو اور پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال کے خرچ کا بندوبست کر بیت اللہ کو جا سکتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ مزید تفصیلات کے لئے فقہی کتب ملاحظہ فرمائیں۔

امانت داری کا حکم

۲۸۹۱... القنطار سے مراد ہزار اوقیہ ہے۔ المستدرک للحاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ

تشریح:..... ومنہم من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لایؤدہ الیک آل عمران: ۷۵ اور بعض اہل کتاب وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے (قنطار) ڈھیر مال کا تو ادا کر دیں تجھ کو اور بعضے ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں۔

اوقیہ سات مثقال کا ایک مقرر وزن ہوتا ہے۔ جو رطل کا پار ہواں حصہ بنتا ہے۔

حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ میں سے کچھ تو ایسے امانت دار ہیں کہ اگر ان کے پاس ہزار اوقیہ کے برابر سونا بھی امانت رکھو ادا یا جائے تو واپس کر دیں گے۔

۲۸۹۲... قنطار بارہ ہزار اوقیہ ہے اور ہزار اوقیہ آسمان وزمین کے درمیان کے خزانے سے بہتر ہے۔

ابن حیان، ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

تشریح:..... یعنی جو امانت واپس کر دی جائے اس کا ثواب آسمان وزمین کے درمیان کے خزانے کو راہ خدا میں خیرات کرنے سے بہتر ہے۔

۲۸۹۳... قنطار بارہ ہزار اوقیہ ہے۔ ابن جریر بروایت ابی رضی اللہ عنہ

کلام:..... اس روایت کو سنداً ضعیف کہا گیا ہے۔ دیکھئے ضعیف الجامع ۴۱۴۲

۲۸۹۴... قنطار بارہ ہزار دینار ہیں۔ ابن جریر بروایت مرسل از حسن

کلام:..... ضعیف ہے۔ ضعیف الجامع ۴۱۴۲

۲۸۹۵... سورۃ الانعام۔ اللہ پاک یہود پر لعنت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر چربیوں کو حرام قرار دیا تو انہوں نے اس کو پگھلا کر فروخت کیا اور اس کے پیسے سے کھانے لگے۔

مسند احمد، بخاری مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی بروایت جابر رضی اللہ عنہ۔ بخاری، مسلم بروایت ابو ہریرہ

رضی اللہ عنہ، مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، عمر رضی اللہ عنہ

تشریح:..... ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما اولہما یا او ما اختلط بعظم (۱۴۶)

اور گائے اور بکری میں سے حرام کی گئی ان کی چربی مگر جو گئی ہو پشت پر یا آنتوں پر یا جو چربی ملی ہو ہڈی کے ساتھ۔

اللہ عزوجل نے یہود بنی اسرائیل پر بطور سزا مذکورہ جگہوں کے علاوہ گائے اور بکری کی چربی حرام قرار دی تھی۔ مگر انہوں نے اس کو پگھلا کر تیل بنایا اور اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھانے پینے لگے۔ جیسے کہ آجکل بعض لوگ اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو مختلف حیلے بہانوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ان پر آپ ﷺ نے مذکورہ حدیث میں لعنت فرمائی ہے۔

مسلمانوں کے لئے مذکورہ چربی بالکل حلال ہے جو کہ یہود کے لئے حرام کی گئی تھی۔

۲۸۹۶... طوفان موت ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

تشریح:..... فارسلنا علیہم الطوفان۔ الاعراف: ۱۳۳

پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان۔

فاخذہم الطوفان وهم ظالمون۔ العنکبوت: ۱۴

پھر پکڑ ان کو طوفان نے اور وہ ظالم تھے۔

مذکورہ آیات میں طوفان سے مراد موت کو قرار دیا گیا ہے۔

کلام: حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف الجامع ۳۶۶۰

۲۸۹۷ (سورۃ الاعراف) اصحاب الاعراف وہ قوم ہے جو اپنے آباء و اجداد کی معصیت کی وجہ سے خدا کی راہ میں قتل ہوئے۔ لہذا جہنم میں جانے سے ان کو خدا کی راہ میں مرنے نے روک لیا اور جنت میں جانے سے ان کے ان کے آباء و اجداد کی معصیت نے روک لیا۔

السنن لسعيد بن منصور، عبد بن حميد ابن منيع، الحارث، الطبرانی فی الكبير، السنن للبيهقي بروایت عبدالرحمن المزني

کلام: مذکورہ روایت ضعیف ہے۔ دیکھئے ضعیف الجامع ۸۸۳

۲۸۹۸ جب حواء علیہا السلام حاملہ ہوئیں تو ایلین ان کے پاس آیا۔ حضرت حواء کا کوئی بچہ زندہ نہ بچتا تھا۔ ایلین نے آپ کو کہا: بچے کا نام عبدالخارث رکھ دینا، پھر وہ بچہ جسے گا۔ حضرت حواء نے بچے کا نام عبدالخارث رکھا تو واقعی وہ جیا۔ یہ شیطان کے بہکانے سے ہوا۔

مسند احمد، ترمذی، مستدرک الحاکم ایضاً بروایت حضرت سمرة بن حذاب

تشریح مع کلام: فلما تغشها حملت حملاً خفيفاً فمرت به. الاعراف ۱۸۹۰

جب مرد نے عورت کو ڈھانکا تو حمل رہا یا کاسا حمل تو چلتی پھرتی رہی اس کے ساتھ۔

اس آیت کی تفسیر میں مذکورہ روایت نقل کی جاتی ہے۔ صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرفوع روایت کیا ہے جس کے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ تین وجہ سے معلول ہے (لہذا اس سے دلیل پکڑنا درست نہیں)۔

اس کے علاوہ باقی آثار ہیں اور غالباً وہ اہل کتاب سے ماخوذ ہیں۔ چنانچہ آیت میں جو آگے فرمان ہے کہ پھر وہ ماں باپ بچے کی پیدائش کے بعد شرک کرنے لگتے ہیں اس سے مراد حضرت آدم اور حضرت حواء علیہما السلام نہیں ہو سکتے کیونکہ پیغمبروں سے شرک جیسا بڑا گناہ سرزد ہونا محال ہے۔ شروع آیت میں حضرت آدم و حواء علیہما السلام ہی کا ذکر ہے بعد میں علم سے جنس کی طرف تخیل ہوئی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں بعض مقامات پر ایسا ہوا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔ تفسیر عثمانی بذیل. سورۃ الاعراف ۱۸۹

۲۸۹۹ سورۃ الانفال آگاہ رہو! طاقت پھینکنے میں ہے۔ آگاہ رہو! طاقت پھینکنے میں ہے۔

مسند احمد، مسلم، ابوداؤد، ابن ماجہ بروایت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

ترمذی میں یہ اضافہ منقول ہے: خبردار! عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لئے زمین فتح فرمائے گا۔ اور تم مشقت سے بچ جاؤ گے۔ پس کوئی شخص

اپنے تیر و کمان اور دیگر اسلحہ جات سے کھیلنا نہ بھولے۔

تشریح: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى (الانفال: ۱۷)

اور (اے محمد!) جس وقت تم نے ننگریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔

مذکورہ آیت میں رمی سے متعلق فرمان باری کی توضیح و شرح مذکورہ بالا روایت میں کی گئی ہے۔

۲۹۰۰ اے ابی جب میں نے تم کو پکارا تو کس چیز نے تمہیں مجھے جواب دینے سے روکا اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر وحی فرمائی ہے، کیا اس میں یہ حکم نہیں پاتے۔

استجيبوا الله وللرسول اذا دعاكم لما يحيبكم. الانفال ۲۴۰

اللہ اور رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں اس کام کے لئے جس میں تمہاری زندگی ہے۔

(مسند احمد، ترمذی، مستدرک الحاکم بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ)

تشریح: حضرت ابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ ﷺ نے ان کو آواز دی وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے پائے تو بعد میں آپ ﷺ نے ان کو یہ ارشاد فرمایا۔

۲۹۰۱ سورۃ التوبہ۔ حج اکبر کا دن قربانی کا دن ہے۔ ترمذی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۲۹۰۲ چھوڑو مجھے اے عمر! مجھے اختیار دیا گیا تھا چنانچہ میں نے اختیار کر لیا۔ مجھے کہا گیا:

استغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن يغفر الله لہم. التوبہ: ۸۰۔
تم ان کے لئے بخشش مانگو یا نہ مانگو (بات ایک ہے) اگر ان کے لئے ستر دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہ بخشے گا۔
پھر فرمایا:..... اگر مجھے علم ہوتا کہ ستر دفعہ سے زیادہ استغفار کرنے پر اس کی مغفرت ہو جائے گی تو زیادہ بھی استغفار کرتا۔

ترمذی، نسائی بروایت عمر رضی اللہ عنہ

تشریح:..... رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو آپ علیہ السلام اپنی قمیص میں اس کو کفن دلایا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا۔ نماز جنازہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کا دامن مبارک پکڑ کر التجاء کی کہ اس منافق کو اس قدر اعزاز نہ بخشیں تب آپ ﷺ نے مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا۔

پھر بعد میں ارشاد خداوندی نازل ہوا:

”اور (اے پیغمبر!) ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے (جنازے) پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر (جا کر) کھڑے ہونا۔“

سورة التوبہ: ۸۴

۲۹۰۳ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا اور فرمایا:

استغفر لہم او لاتستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة. التوبہ: ۸۰۔

چنانچہ میں ستر سے زیادہ مرتبہ بھی استغفار کروں گا۔ مسلم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۲۹۰۴ ”السائحون“ سے مراد صائموں یعنی روزہ دار ہیں۔ (مسند ترمذی الحاکم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

تشریح:..... فرمان الہی ہے: التائبون العابدون الحامدون السائحون الخ. التوبہ: ۱۱۲۔

توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے۔

یعنی قرآنی آیت میں ”السائحون“ سے مراد الصائمون روزہ دار ہیں۔

کلام:..... یہ روایت معلول ہے دیکھئے: ذخیرۃ الحفاظ ۳۲۸۲۔ ضعیف الجامع ۳۳۳۰۔

فرعون کا ایمان غیر معتبر ہے

۲۹۰۵..... سورہ یونس۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو وہ بولا میں ایمان لایا اس بات پر کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! آپ مجھے اس وقت دیکھتے کہ میں نے سمندر کی کچھڑ اٹھائی اور اس کے منہ میں ٹھونسے لگا۔ اس ڈر سے کہ کہیں اس پر خدا کی رحمت نہ آجائے۔ مسند احمد، ترمذی بروایت ابن عباس

کلام:..... الجامع المصنف ۴۲ میں اس روایت پر جرح کی گئی ہے۔

۲۹۰۶..... مجھے جبریل نے کہا: آپ مجھے اس وقت دیکھتے میں سمندر کی کچھڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس رہا تھا اس ڈر سے کہ کہیں اس کو رحمت الہی نہ پہنچ جائے۔ مسند احمد، مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف ہے۔ ذخیرۃ الحفاظ ۳۰۳۰۔

۲۹۰۷..... سورۃ الاسراء۔ زوال شمس سے مراد سورج کا ڈھلنا ہے۔ مسند الفردوس للذہبی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

تشریح:..... سورۃ الاسراء آیت ۸۷ میں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے، فرمان الہی ہے:

اقم الصلوٰۃ للذلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. الاسراء: ۸۷۔

(اے محمد) سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک (ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی) نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو۔
مذکورہ حدیث میں ’ذلوک‘ لفظ کی تشریح ہے کہ اس کے معنی زوال اور ڈھلنے کے ہیں۔

کلام:..... ضعیف الجامع ۶/۳۱۷ پر اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔

۲۹۰۸..... ہر انسان کی قسمت (کا پرندہ) اس کی گردن میں ہے۔ ابن جریر بروایت جابر رضی اللہ عنہ
تشریح:..... فرمان الہی ہے:

وکل انسان الزمنا طائرہ فی عنقه۔ الاسراء: ۱۳

اور ہر آدمی کو ہم نے اس کے اعمال (بصورت کتاب) اس کے گلے میں لٹکا دیے ہیں۔
یعنی ہر انسان کے عمل اس کی گردن میں آویزاں ہیں جو قیامت میں کھلی کتاب کی شکل میں ہوں گے۔

۲۹۰۹..... ہر بندے کی قسمت اس کی گردن میں ہے۔ عبد بن حمید بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۲۹۱۰..... سورۃ الکہف۔ جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کیا جس دن اس کو پیدا کیا گیا کا فر پیدا کیا گیا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کو بھی

سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ مسلم، ترمذی، ابو داؤد بروایت ابی رضی اللہ عنہ

تشریح:..... سورۃ الکہف آیت ۸۲ میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں جا رہے تھے راستے میں
ایک بچہ ملا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اس طرح کے دو اچھے واقعے اور پیش آئے بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کو بچہ قتل کرنے کی وجہ بتائی کہ اگر وہ مزید زندہ رہتا تو اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا۔

۲۹۱۱..... سورۃ مریم۔ اورود سے مراد دخول ہے۔ کوئی نیک بچہ کا نہ فا جرم جہنم (کے راستے) میں ضرور داخل ہوگا۔ پس وہ مؤمنین پر ٹھنڈی
اور باعث سلامتی ہو جائے گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ مؤمنوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے جہنم کی چینیں نکلیں گی۔ پھر اللہ
تعالیٰ متقین کو اس سے نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں اوندھے منہ چھوڑ دیں گے۔

مسند احمد، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم بروایت جابر رضی اللہ عنہ

تشریح:..... فرمان الہی ہے:

وان من منکم الا وادھا کان علی ربک حتما مقضیا۔

اور تم میں کوئی (شخص) نہیں مگر اس کو اس پر گزرنہا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔

ثم تنجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیہا جثیا۔ مریم ۷۱-۷۲

پھر ہم پر ہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔
مذکورہ حدیث اس آیت کریمہ کی تشریح ہے۔ جس میں ہر شخص کے بل صراط سے گزرنے کا ذکر ہے۔

کلام:..... علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع ۶/۶۱۰ پر اس روایت کو ضعیف شمار کیا ہے۔

۲۹۱۲..... جب پروردگار عزوجل کسی بندہ سے محبت فرماتے ہیں تو جبرئیل کو فرماتے ہیں:

میں فلاں شخص کو محبوب رکھتا ہوں تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں۔ پھر اس کی محبت
زمین والوں (کے دلوں) میں اتر جاتی ہے۔ پس یہی فرمان باری عزاسمہ:

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا۔ مریم: ۹۶

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے خدا ان کی محبت (مخلوقات کے دل میں) پیدا کر دے گا۔

آگے فرمایا: اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے نفرت فرماتے ہیں تو جبرئیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں: میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں۔
چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام آسمان میں اس کا اعلان فرمادیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے زمین (دلوں کے دلوں) میں اس سے نفرت

پیدا ہو جاتی ہے۔ ترمذی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
 ۲۹۱۳..... سورۃ المؤمنون۔ تم میں سے ہر شخص کے دو گھر ہیں۔ ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ پس جب وہ مر کر جہنم میں داخل ہوتا ہے تو اہل
 جنت اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ یہی فرمان باری ہے:

أولئك هم الوارثون. المؤمنون: ۱۰

یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں۔ ابن ماجہ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

رملہ فلسطین کا ذکر

۲۹۱۲..... ”الرہوبہ“ سے مراد الرملہ ہے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ بروایت مرۃ البہری رضی اللہ عنہ
 تشریح و کلام:..... فرمان الہی ہے:

وجعلنا ابن مریم وامه اية و اوينهما الى ربوة ذات قرار ومعين. المؤمنون: ۵۰

اور ہم نے مریم کے بیٹے (عیسیٰ) اور ان کی ماں کو (اپنی) نشانی بنایا تھا۔ اور ان کو رہنے کے لائق ایک اونچی جگہ میں جہاں ٹھہرا ہوا پانی جاری
 تھا پناہ دی تھی۔

آیت میں ربوۃ مقام کا جو ذکر ہے اس سے رملہ فلسطین کا شہر مراد ہے۔ یہی حدیث کا مطلب ہے لیکن اس روایت کو ضعیف الجامع ۳۱۲۸ پر
 ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

شاید یہ وہی ٹیلہ یا اونچی زمین ہو جہاں وضع حمل کے وقت حضرت مریم تشریف رکھتی تھیں۔ چنانچہ سورۃ مریم کی آیات ”فسناداها من
 تحتها ان لا تعزنی قد جعل ربک تحتک سریا و ہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنبا“ دلالت کرتی
 ہیں کہ وہ جگہ بلند تھی۔ نیچے چشمہ یا نہر بہ رہی تھی۔ اور کھجور کا درخت نزدیک تھا (کذا افسرہ ابن کثیر رحمہ اللہ) لیکن عموماً مفسرین لکھتے
 ہیں کہ یہ حضرت مسیح کے بچپن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم بادشاہ ہیردوس نامی نجومیوں سے سن کر کہ حضرت عیسیٰ کو سرداری ملے گی، لڑکپن ہی میں ان
 کا دشمن ہو گیا تھا اور قتل کے درپے تھا۔ حضرت مریم الہام ربانی سے ان کو لے کر مصر چلی گئیں اور اس ظالم کے مرنے کے بعد پھر شام واپس چلی
 آئیں۔ چنانچہ ”انجیل متی“ میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے اور مصر کا اونچا ہونا باعتبار فرود نیل کے ہے ورنہ غرق ہو جاتا اور ”ماء معین“ فرود نیل سے بعض
 نے ”ربوۃ“ (اونچی جگہ) سے مراد شام یا فلسطین لیا ہے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ جس ٹیلہ پر ولادت کے وقت موجود تھیں وہیں اس خطرہ کے وقت
 بھی پناہ دی گئی ہو۔ واللہ اعلم۔ بہر حال اہل اسلام میں کسی نے ”ربوۃ“ سے مراد کشمیر نہیں لیا۔ نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر کشمیر میں بتلائی۔ البتہ
 ہمارے زمانہ کے بعض زانغین نے ”ربوۃ“ سے کشمیر مراد لیا ہے اور وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتلائی ہے جس کا کوئی ثبوت تاریخی حیثیت
 سے نہیں۔ محض کذب و دروغ بیانی ہے۔ محلہ ”خان یار“ شہر سری نگر میں جو قبر ”یوز آسف“ کے نام سے مشہور ہے اور جس کی بابت ”تاریخ
 اعظمی“ کے مصنف نے محض عام افواہ نقل کی ہے کہ ”لوگ اس کو کسی نبی کی قبر بتاتے ہیں وہ کوئی شہزادہ تھا اور دوسرے ملک سے یہاں آیا“ اس کو
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بتانا پر لے درجہ کی بے حیائی اور سفاہت ہے۔ ایسی انگلی پچو قیاس آرائیوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کو
 باطل ٹھہرانا بجز خط اور جنون کے کچھ نہیں اگر اس قبر کی تحقیق مطلوب ہو اور یہ کہ ”یوز آسف“ کون تھا تو جناب شی حبیب اللہ صاحب امرتسری کا
 رسالہ دیکھو جو خاص اس موضوع پر نہایت تحقیق و تدقیق سے لکھا گیا ہے اور جس میں اس مہمل خیال کی وجہیاں کھیر دی گئی ہیں۔ فجزاہ اللہ

تعالیٰ عنا و عن سائر المسلمین احسن الجزاء۔ بحوالہ تفسیر عثمانی

کلام:..... حدیث بالا ضعیف ہے۔ دیکھئے ضعیف الجامع ۳۱۲۸۔

۲۹۱۵..... سورۃ النور۔ فاحشائیں وہ عورتیں ہیں جو اپنا نکاح بغیر گواہوں کے خود ہی کر لیتی ہیں۔ ترمذی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف الترمذی ۱۸۸۔ضعیف الجامع ۲۳۷۵۔

۲۹۱۲...سورۃ النحل۔ بلقیس کے ماں باپ میں سے ایک جن تھا۔

ابو الشیخ فی العظمة، ابن مردویہ فی التفسیر۔ ابن عساکر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف ہے۔ ذخیرۃ الحفاظ ۱۲۱۔ضعیف الجامع ۱۷۵۔الضعیفۃ ۱۸۱۸۔

۲۹۱۷...سورۃ القصص۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کونسی مدت پوری کی تھی؟ فرمایا: دونوں میں سے کامل اور تام۔

مسند ابی یعلیٰ، مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

تشریح:.....سورۃ القصص میں آیت ۲۲ سے ۲۸ تک میں اس واقعہ کا ذکر ہے جس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مہر پر کر دیا تھا کہ تم آٹھ سال تک میرا کام کاج کرو گے۔ اور اگر تم دس سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی میری طرف سے کوئی دباؤ نہیں۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال پورے فرمائے۔

۲۹۱۸...سورۃ الروم۔ البضع تین سے نو تک پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ (طبرانی فی الکبیر، ابن مردویہ بروایت دینار بن مکرم

تشریح:.....سورۃ الروم کی ابتدائی آیات میں بضع سنین کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں چند سال۔ اس چند سے یعنی بضع سے کیا مراد ہے اس کا مطلب حدیث بالا میں بیان کیا گیا ہے۔

۲۹۱۹...کیا نہیں شمار کیا تم نے اے ابوبکر؟ بضع تو تین سے نو سال پر بولا جاتا ہے۔ ترمذی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

تشریح:.....فرمان باری ہے:

ألم تر ان الفلک تجرى فی البحر بنعمة اللہ لیریکم من اینته. لقمان: ۳۱

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا کی نعمت (مہربانی) سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔

اس آیت میں سمندر میں کشتیوں کا چلنا اور نہ ڈوبنا خدا کی نعمت قرار دیا۔ اس نعمت کے لفظ پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اور سب سے بڑی

نعمت جہنم سے خلاصی اور جنت میں دخول ہے۔ اور بے شک یہی سب سے بڑی نعمت ہے جس کے طفیل خدا کا دیدار بھی میسر ہوگا اور اس کی رضا حاصل ہوگی۔

کلام:.....ضعیف الجامع ۵۲۹۶۔

پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے

۲۹۲۱...پانچ چیزیں ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وہ بارش کب برسائے گا، وہی جانتا ہے جو (ماؤں

کے) رحموں میں ہے اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کل وہ کیا کمائے گا۔ (اور اسے کل کیا کچھ پیش آئے گا) اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ مرے گا۔

مسند احمد، الرویانی، بروایت بریدہ رضی اللہ عنہ

تشریح:.....سورۃ لقمان کی آخری آیات کی ترجمان یہ حدیث ہے۔

۲۹۲۲...غیب کی چابیاں ہیں۔ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہوگا سوائے اللہ کے۔ نیز اللہ کے سوا کوئی نہیں

جانتا کہ رحموں میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کو کیا کمائے گا اور کوئی نہیں

جانتا کہ کون سی زمین میں مرے گا۔ سوائے اللہ کے اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی سوائے اللہ کے۔

مسند احمد، بخاری بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

حضور ﷺ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت

۲۹۲۳ میں تجھے ایک بات ذکر کروں گا اور تو اس میں فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا حتیٰ کہ اپنے والدین سے مشورہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

ياايها النبي قل لازواجك... الى قوله عظيمًا. ترمذی، نسائی، ابن ماجہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریح:..... حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب ہو کر مذکورہ ارشاد فرمایا تھا کہ خدا کا یہ حکم نازل ہوا ہے اس میں غور کر کے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا فرمان الہی کا ترجمہ ہے:

”اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواہش رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دوں اور اچھی طرح سے رخصت کروں۔ اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر (جنت) کی طلبگار ہو تو تم میں سے تمہاری جانی والی میں ان کے لئے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ بعض بیویوں نے حضور علیہ السلام فداہ ابی وائی سے زیادہ نان و نفقہ کا مطالبہ کیا تھا۔“

احزاب ۲۸-۲۹

جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام تنگ دل ہوئے تو عرش والے کو بھی بیویوں کا مطالبہ ناگوار گزرا اس لئے فرمان نازل کیا۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت تھی اس لئے آپ علیہ السلام نے انکو فرمایا کہ فیصلہ میں جلدی نہ کرنا اور والدین سے مشورہ کر لینا کیونکہ وہ یہی مشورہ دیں گے کہ اللہ و رسول کو نہ چھوڑو۔ بلکہ تھوڑی دنیا پر قناعت کر لو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً فرمایا اس میں مشاورت کی کیا ضرورت میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی، زندگی جیسے بھی گزرے گزروں گی۔ اس جواب پر آپ ﷺ فداہ ابی وائی بہت خوش ہوئے۔

ساٹھ سال کی زندگی بڑی مہلت ہے

۲۹۲۴... سورۃ فاطر۔ جب قیامت کا روز ہوگا نداء دی جائے گی: کہاں ہیں ساٹھ سال عمر والے؟ اور یہ وہی عمر ہے جس کے بارے میں فرمان الہی ہے:

اولم نعمو کم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ فاطر: ۳۷

کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا سوچ لیتا۔

الحکیم، المعجم الکبیر للطبرانی، شعب الایمان للبیہقی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام:..... یہ روایت ضعیف ہے۔ دیکھئے ضعیف الجامع ۶۶۸۔

۲۹۲۵ ہمارا سابق تو سابق ہے۔ ہمارا ایمانہ رنجات یافتہ ہے۔ اور ہمارا ظالم مغفرت پائے گا۔

ابن مردویہ والبیہقی فی البعث بروایت عمر رضی اللہ عنہ

تشریح:..... فرمان الہی ہے: ثم اورثنا الکتب الذین اصطفینامن عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرت باذن اللہ. فاطر: ۳۲

پھر ہم نے ان لوگوں (امت محمدیہ) کو کتاب کا وارث بنایا جن کو اپنے بندوں میں سے منتخب کیا تو کچھ ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔

مذکورہ حدیث اسی فرمان الہی کی تفسیر ہے۔

کلام: اس حدیث پر ضعف کی وجہ سے کلام کیا گیا ہے دیکھئے الجامع المصنف ۲۳ ضعیف الجامع ۳۱۹۹

۲۹۲۶ . سورة السجدة - لوگوں نے پہلے کہا لپا لیکن پھر اکثروں نے انکار کر دیا۔ پس جو موت تک اس پر ثابت قدم رہے وہی لوگ استقامت والے ہیں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ۔ بروایت انس رضی اللہ عنہ)
تشریح: فرمان الہی ہے:

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بلجنة التي كنتم توعدون . خم السجدة ۳۰

”جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے (اور کہیں گے) کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ۔“
مذکورہ بالا حدیث اسی فرمان ایزدی کی تشریح و تفسیر ہے۔

کلام: ضعیف الجامع ۳۰۷۹

۲۹۲۷ . سورة الواقعة - اگر کوئی فرش کی بالائی سے پھینکا جائے تو وہ سو سال کے عرصہ میں نیچے پہنچ کر جگہ پکڑے گا۔ یہی فرمان الہی ہے ”و فرش مرفوعة“ (واقعہ ۳۴) اور اونچے کچھونے۔ المعجم الکبیر بروایت حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ
کلام: ضعیف الجامع ۳۸۲۶ اس روایت کو ضعیف شمار کیا ہے۔

۲۹۲۸ (نئی جوانی پر) اٹھائی گئی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں بوڑھی چندھیائی اور بیپ زدہ آنکھوں والی تھیں۔ ترمذی بروایت انس رضی اللہ عنہ فرمان الہی ہے:

انا انشاءنهن انشاء . فجعلنهن ابكاراً عرباً اتراباً . لاصحاب اليمين ۳۵ ۳۷

”ہم نے اٹھالیا ان عورتوں کو ایک اچھی اٹھان پر کیا ان کو کنواریاں پیار دلانے والیاں (اور) ہم عمر اصحاب الیمین کے لئے۔“
مذکورہ آیت کی تشریح و تفسیر ہی سے متعلق حدیث بالا وارد ہوتی ہے۔

کلام: روایت سنداً ضعیف کے درجہ میں ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۱۹۹۷۔

ادبار نجوم کی تفسیر

۲۹۲۹ . سورة طور - فجر کی نماز سے پہلے دو رکعت (سنتیں) ادبار النجوم (ستاروں کا پیٹھ دے کر چلے جانا) ہے اور مغرب کے بعد دو رکعت (سنتیں) ادبار السجود (سجدہ کے بعد والی) ہیں۔ مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
تشریح: فرمان الہی ہے:

وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل فسبحه وادبار النجوم (الطور: ۳۸ ۳۹)

”اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے۔ اور کچھ رات میں لوگ اس کی پاکی اور پیٹھ پھرتے وقت تاروں کے۔“
دوسری جگہ فرمان باری ہے:

ومن الليل فسبحه وادبار السجود . ق: ۴۰

اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی۔ اور پیٹھ سجدہ کے۔

مذکورہ فرمان نبوی ﷺ ان دو فرمادات الہیہ کی تفسیر ہے۔ یعنی ستاروں کے جانے (ادبار النجوم) کے بعد پاکی بیان کر یعنی صبح کی دو سنتیں ادا

کر اور (ادبار السجود) سجدہ کے بعد یعنی مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پاکی بیان کر یعنی دو سنتیں ادا کر۔

مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: ... ضعیف الجامع ۳۱۶۵۔

۲۹۳۰۔ ادبار السجود فجر سے پہلے دو رکعات ہیں اور ادبار السجود مغرب کے بعد دو رکعات ہیں (الخطیب التاریخ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ)

کلام: ... ضعیف الجامع ۲۳۸۔ ضعیف الترمذی ۲۳۵۔ الضعیفۃ ۲۱۷۸۔

۲۹۳۱۔ سورہ القم۔ مہینے کا آخری بدھ دائمی منحوس دن ہے۔

وکیع فی الغرر ابن مردویہ فی التفسیر، التاریخ للخطیب بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

تشریح: ... فرمان الہی ہے

کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر۔ انا ارسلنا علیہم ریحاً صروراً فی یوم نحس مستمر

سورہ قمر ۱۸۰ ۱۹

”عاد نے بھی تکذیب کی تھی۔ سو (دیکھ لو) میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی۔“

یہ دن اگرچہ بدھ کا ہو لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر بدھ یا مہینے کا آخری بدھ منحوس ہو جائے۔ یہ منحوس ہونا صرف عاقوم کے لئے ہی تھا۔ کیونکہ اس روز وہ تباہ و برباد ہوئے۔ اب اگر اس دن کسی قوم یا فرد کو خدا کی نعمتیں ملیں تو یہی دن اس کے لئے باعث خیر اور نیک فال ہوگا۔ اور حدیث بالاسر ضعیف اور من گھڑت ہے۔

کلام: ... حدیث مذکور موضوع اور من گھڑت ہے۔ دیکھئے اسنی المطالب ۲۔ الاتقان ۱۵۹۵۔ تنذیر المسلمین ۱۲۔ التزییہ ۵۵/۲۔ ضعیف الجامع ۳۔ الضعیفۃ ۱۵۸۱۔ الکشف الالہی ۱۱۹۔ کشف الخفاء ۳۔ اللالی ۳۸۵۔ الموضوعات ۳۲۲۔ التواریخ ۸۔

۲۹۳۲۔ سورہ القلم۔ الغسل الزنیم سے مراد فحش اور لہیم (کمینہ) انسان ہے۔ ابن ابی حاتم بروایت مرسل موسیٰ بن عقبہ

تشریح: ... سورہ القلم کی ابتدائی آیات میں کافر کی صفات میں مذکورہ الفاظ آئے ہیں۔ جن کی تشریح حدیث میں کی گئی۔

کلام: ... ضعیف الجامع ۳۸۴۷۔

۲۹۳۳۔ الغسل ہر بڑے پیٹ والا، بڑے حلق والا، بہت کھانے پینے والا، مال جمع کرنے والا اور مال میں بخل کرنے والا ہے۔

ابن مردویہ بروایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ

کلام: ... ضعیف الجامع ۳۸۴۸۔

جبرائیل علیہ السلام کا دیدار

۲۹۳۴۔ سورہ المدثر۔ مجھ سے وحی ایک زمانہ تک منقطع رہی۔ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا کہ آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حراء میں مجھے ملا تھا۔ آسمان وزمین کے درمیان ایک (عظیم) تخت پر (جلوہ افروز) ہے۔ میں گھبراہٹ کے مارے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اور زمین بوس ہو گیا۔ پھر میں (اس فرشتے کے جانے کے بعد) خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور بولا: ”تسروسی وترونی“ مجھے چادر اڑھاؤ۔ چنانچہ مجھے چادر اڑھادی گئی پھر جبرائیل علیہ السلام (دوبارہ) تشریف لائے اور مجھے لات لگا کر کہنے لگے:

یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهرو والرجز فاهجر۔ سورۃ المدثر ابتدائی آیات

اے (محمد) جو چادر لپیٹے پڑے ہو۔ اٹھو اور (لوگوں کو) ڈراؤ۔ اور اپنے پروردگار کی تعریف بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اور ناپاکی

سے دو رز ہو۔ الطیالسی، مسند احمد، صحیح مسلم بروایت جابر رضی اللہ عنہ
۲۹۳۵..... الصعود: آگ کا ایک پہاڑ ہے۔ کافر اس پر ستر سال تک چڑھے گا۔ پھر اسی طرح (اتنے عرصے میں) اترے گا۔

مسند احمد، ترمذی، ابن حبان، مستدرک الحاکم بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ
تشریح:..... سورۃ المدثر کی ۷۱ نمبر آیت میں کافر سے متعلق فرمان الہی ہے: سارہقہ صعوداً ہم اے صعود پر چڑھا میں گے۔ اس صعود کی
تشریح مذکورہ بالا حدیث میں فرمائی گئی ہے۔

کلام:..... ضعیف الترمذی ۶۵۷۔ ضعیف الجامع ۳۵۵۲۔ پر اس کو ضعیف شمار کیا گیا ہے۔

۲۹۳۶..... سورۃ النازعات۔ فرعون نے دو کلمات (کفر) کہے تھے۔ ایک ما علمت لکم من الہ غیری (القصص: ۳۸) میں اپنے سوا
تمہارے لئے کوئی معبود نہیں جانتا اور دوسرا کلمہ انار یکم الاعلیٰ (النازعات: ۲۴) میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ ان دونوں کلمات کے
درمیان چالیس سال کا عرصہ تھا۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرة والاولیٰ۔ پھر اللہ نے اس کو پکڑ لیا آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔

ابن عساکر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۴۲۶۔

۲۹۳۷..... سورۃ المطففین۔ ویل (لممکذبین) (جھٹلانے والوں کے لئے ویل ہے) ویل جنہم میں ایک وادی ہے۔ کافر اس پر ستر سال
تک نیچے گرتا رہے گا پھر جا کر وہ اس کی گہرائی میں گرے گا۔

مسند احمد، ترمذی، ابن حبان، مستدرک الحاکم بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الترمذی ۶۱۷۔ ضعیف الجامع ۶۱۸۔



گناہگار کے دل میں سیاہ نقطہ

۲۹۳۸ ”المران“ جس کا اللہ نے اپنے فرمان میں ذکر کیا: کلاب ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ مطففین: ۱۴

دیکھو یہ جو (اعمال بد) کرتے ہیں۔ ان کا ان کے دلوں پر رنگ بیٹھ گیا ہے۔

مسند احمد، ترمذی، مستدرک الحاکم، نسائی ابن ماجہ، ابن حبان، شعب اللیہقی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

تشریح:..... تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں یہ حدیث مکمل ذکر کی گئی ہے جس سے اس کا مطلب یونہی طرح سمجھ آ جاتا ہے۔
فرمان نبوی علیہ السلام ہے: بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے پس اگر وہ توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ سے
استغفار کر لے تو اس کا صیقل و صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ (بجائے توبہ و استغفار کے) دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ
ہوتے ہوتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پس یہی ران ہے یعنی رنگ۔

۲۹۳۹ سورۃ البروج۔ الیوم الموعود (جس دن کا وعدہ کیا گیا) وہ قیامت کا دن ہے۔ اور الشاہد (حاضر ہونے والا) جمعہ کا دن ہے۔ (جو

تمام لوگوں کے پاس حاضر ہو جاتا ہے) اور المشہود (جس دن لوگ (عرفہ) میں داخل ہوتے ہیں) وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور جمعہ کا دن اللہ نے
ہمارے لئے ذخیرہ کہا ہے (جو کسی اور قوم کو نہیں ملا) اس طرح صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز بھی ہمارے لئے ذخیرہ کر رکھی تھی۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ

۲۹۴۰ الیوم الموعود قیامت کا دن ہے۔ الیوم المشہود عرفہ کا دن ہے اور الشاہد جمعہ کا دن ہے۔ اور اس سے افضل کسی دن پر سورج طلوع

ہوتا ہے نہ غروب۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی بندہ مسلمان اللہ سے خیر کی دعا نہیں کرتا مگر اللہ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور کسی

چیز سے پناہ نہیں مانگتا مگر اللہ پاک اسے ضرور پناہ عطا فرماتے ہیں۔ ترمذی، السنن للبیہقی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

تشریح: وہ خیر کی گھڑی جمعہ کے دو خطبوں کے درمیان ہے اور عصر اور مغرب کے درمیان۔
 کلام: ذخیرۃ الحفاظ ۶۵۹۷ میں ضعف کے حوالہ سے اس روایت پر کلام کیا گیا ہے۔
 ۲۹۴۱ الشاہد عرفہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن اور المشہور قیامت کا دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔

مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: حدیث ضعیف ہے ضعیف الجامع ۳۴۲۔

۲۹۴۲ سورۃ الطارق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو چار اشیاء کا ضامن بنایا ہے (کہ ان کی حفاظت کریں) نماز، زکوٰۃ، روزہ اور جنابت سے غسل کرنا۔ اور سرائر ہیں۔ جن کے متعلق فرمان بری ہے:

یوم تبلی السرائر۔ سورۃ الطارق

جس دن رازوں کو کھول دیا جائے گا۔ شعب الایمان للبیہقی بروایت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ

۲۹۴۳ سورۃ الفجر۔ دس راتوں سے مراد صبحی قربانی والے ماہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ وتر عرفہ کا دن ہے شفع قربانی کا دن ہے۔

مستدرک الحاکم، مسند احمد بروایت جابر رضی اللہ عنہ

تشریح: فرمان الہی ہے

والفجر ولیال عشر والشفع والوتر

قسم ہے دس راتوں کی اور جنت اور طاق کی۔

یعنی ذوالحجہ کی ابتدائی دس راتوں کی قسم ہے اور شفع (جنت) کی یعنی قربانی کے دن کی جو دس ذوالحجہ ہوتا ہے اور طاق عرفہ کی قسم ہے جو ذوالحجہ

ہوتا ہے۔

کلام: دیکھئے جامع ۳۸۶۲۔

۲۹۴۴ عشرہ سے مراد عشرۃ ذی الحجہ ہے۔ وتر عرفہ کا دن ہے اور شفع قربانی کا دن ہے۔ (مسند احمد، بروایت جابر رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۱۵۰۸۔

۲۹۴۵ سورۃ الشمس۔ لوگوں میں سب سے بد بخت قوم شہود کی اونٹنی کی کوچیں کاٹنے والا تھا۔ اور آدم کا وہ بیٹا (قائیل) جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ زمین پر کوئی خون نہیں بہایا جاتا مگر اس کا گناہ اس کو بھی ملتا ہے کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کی سنت جاری کی۔

الطبرانی فی الکبیر مستدرک الحاکم، حلیہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۸۷۸۔ الضعیفۃ ۱۹۸۷۔

۲۹۴۶ سورۃ الم نشرح۔ ایک مشکل دو آسانیوں پر کبھی غالب نہیں آسکتی۔ فرمان الہی ہے: ان مع العسر یسراً ان مع العسر یسراً۔ بے

شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ مستدرک الحاکم بروایت مرسلاً حسن رضی اللہ عنہ

تشریح: قرآنی آیت کے طرز کلام اور عربی گرامر کے اصول کے لحاظ سے واقعی یہ مطلب نکلتا ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں اور دو آسانیوں پر ان شاء اللہ ایک تنگی غالب نہیں آسکتی لیکن یہ کلام حدیث کا نہیں ہے بلکہ بزرگوں سے منقول ہے اس کو حدیث کہنا موضوع اور خود ساختہ ہے کنز العمال میں بعض بعض مقامات پر ایسی روایات درج ہیں۔ انشاء اللہ ہم ان سے آگاہ کرتے چلیں گے وبعونہ سبحانہ و تعالیٰ۔

کلام: یہ روایت حدیث نہیں ہے۔ خود ساختہ اور من گھڑت حدیث ہے۔ دیکھئے الاقان ۱۴۷۳۔ استی المطالب ۱۱۶۲۔ تذکرۃ الموضوعات

۱۹۰۔ التمجیز ۱۳۲۔ اشذرة ۷۵۰۔ ضعیف الجامع ۸۴۸۔ الضعیفۃ ۱۲۰۳۔ الغمانہ ۲۱۹۔ الکشف الاضحی ۷۳۰۔ کشف الخفاء ۲۰۹۔ مختصر المقاصد

۸۱۲۔ اشھر ۵۱۔ المقاصد الحسنہ ۸۷۷۔ النواضح ۱۵۲۱۔

۲۹۴۷ اگر ایک تنگی آجائے اور اس سورخ میں داخل ہو جائے پھر آسانی آکر اس سورخ میں داخل ہو جائے تو یقیناً تنگی کو نکال باہر کرے گی۔

مستدرک الحاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف۔ الاقان ۱۵۰۸۔ ضعیف الجامع ۲۸۲۰۔

۲۹۴۸ اگر تنگی کسی سورخ میں داخل ہو جائے (یعنی نکلنے کا نام نہ لے تب بھی) آسانی آکر اس کو نکال دے گی۔

الطبرانی فی الکبیر، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

کلام:..... الاقان ۱۵۰۸۔ ضعیف الجامع ۲۸۳۲۔

۲۹۴۹ سورۃ الزلزال۔ یومئذ حدث اخبارها۔ جس دن زمین اپنی سب چیزیں بیان کر دے گی۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہیں۔

اس کی خبریں یہ ہیں کہ یہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی ہر اس عمل کی جو اس نے اس کی پشت پر کیا ہوگا۔ زمین کہے گی اس نے مجھ پر فلاں

فلاں دن یہ عمل کیا۔ یہ اس کی خبریں ہیں۔ مسند احمد، ترمذی، مستدرک الحاکم بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۹۵۰ سورۃ العادیات۔ (سورۃ میں ہے کہ انسان اپنے رب کا کوند ہے) الکنودہ شخص ہے جو اکیلا کھائے اپنے ساتھ والوں سے روکے اور

اپنے غلام کو مارے۔ الطبرانی فی الکبیر۔ بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف الجامع ۲۳۰۲۔ ضعیف ہے۔

امت میں فتح کی علامت کا دیکھنا

۲۹۵۱ سورۃ النصر۔ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں اپنی امت میں علامت (فتح) دیکھوں گا۔ پس جب میں وہ دیکھوں تو یہ کلمات

کثرت سے پڑھوں گا۔ سبحان اللہ وبحمده۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ چنانچہ میں نے وہ علامت (فتح) دیکھی لی۔ فرمان الہی ہے:

اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسيح بحمد ربك واستغفره انه

كان تواباً.

جب اللہ کی مدد اور فتح ملے آجائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا دیکھ لے (اور یہی نشانی ہے آپ ﷺ کے

دنیا سے بلاوے کی) تو اپنے رب کی حمد بیان کر اور اس سے استغفار کر بے شک وہ تو یہ قبول کرنے والا ہے۔

مسلم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۲۹۵۲ سورۃ الاخلاص۔ الصمد (بے نیاز) وہ ذات ہے جس کا جو (بیٹا) نہ ہو۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام:.....روایت ضعیف ہے۔ دیکھے ضعیف الجامع ۳۵۵۸۔ ذخیرۃ الحفاظ ۳۳۳۳۔

۲۹۵۳ الموعود تین۔ فلق جہنم میں منہ ڈھکا ہوا ایک کتوال ہے۔ ابن جریر، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۲۹۵۴ فلق جہنم میں ایک قید خانہ ہے جس میں سرکش اور تکبروں کو قید کیا جائے گا۔ جہنم اس قید خانہ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہے۔

ابن مردویہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۲۹۵۵ اے عائشہ! اس غاسق سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ وہی غاسق (رات کو چھانے والا اندھیرا) ہے۔

(مسند احمد، ترمذی، مستدرک الحاکم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا)

فصل..... (رابع) کے متعلقات کی ایک فرع

۲۹۵۶ قرآن دس حروف (یہاں حروف سے مضامین مراد ہیں) پر نازل کیا گیا ہے۔ (بشیر) خوشخبری دینے والا۔ (نذیر) ڈرانے والا۔

(ناسخ) حکم بدلنے والا۔ (منسوخ) تبدیل شدہ حکم (موقوفہ) نصیحت والا۔ (مثل) مثالوں والا۔ (محکم) واضح اور کھلے حکم والا۔ (تشافیہ) مخفی معنی والا۔ حلال اور حرام۔ السجزی فی الابانہ بروایت علی رضی اللہ عنہ
کلام:.....ضعیف الجامع ۱۳۳۹۔

۲۹۵۷.....جس نے اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کیا پھر وہ درست بھی ہوا تب بھی اس نے خطا کی۔

ترمذی، ابوداؤد، نسائی بروایت جندب رضی اللہ عنہ

سلف صالحین کے اقوال کا لحاظ کرنا

تشریح:.....قرآن کی تفسیر اور اس کے معنی وہی بیان کرنے چاہئیں جو تفاسیر میں سلف صالحین سے منقول ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے احادیث اور قرآن کو طوطا رکھ کر تشریح کی ہے۔ اپنی طرف سے بیان کردہ تشریح کو تفسیر درست بھی ہوتی ہے اور بھی بیان کرنے والا خطا کار ہے۔ کیونکہ اس نے کلام اللہ پر جرات اور جرات کا مظاہرہ کیا کہ وہ خدا کے کلام کو از خود سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

۲۹۵۸.....جس نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کہی وہ ٹھکانا جہنم میں بنالے۔ ابوداؤد، ترمذی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۹۵۹.....قرآن کا ہر وہ مضمون جس میں قنوت کا ذکر ہو اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری ہے۔

مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ، صحیح ابن حبان بروایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

کلام:.....روایت محل کلام ہے۔ دیکھئے ضعیف الجامع ۳۲۲۵۔

۲۹۶۰.....قرآن کی ترتیب و تدوین تمام من جانب اللہ ہے۔ جبرئیل میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے حکم دیا کہ اس آیت (ان اللہ یأمر بالعدل

والاحسان) (النحل ۹۰) کو فلاں سورت کی اس جگہ رکھوں۔ مسند احمد، بروایت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ

تشریح:.....قرآن پاک ایسی آسانی کتاب ہے جو تیس سال کے عرصے میں موقع بہ موقع حسب ضرورت نازل ہوئی ہے۔ نزول قرآن موجودہ ترتیب کے مطابق نہیں ہوا۔ یہ ترتیب بعد میں من جانب اللہ نازل کردہ ہے۔

کلام:.....ضعیف الجامع ۶۶۔

۲۹۶۱.....میرا کلام (حدیث رسول) اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے اور اللہ کا کلام بعض بعض کو منسوخ کر سکتا ہے۔ الکامل لابن عدی سنن دارقطنی بروایت خابری رضی اللہ عنہ

کلام:.....حدیث ضعیف ہے۔ ذخیرۃ الحفاظ ۲۳۰۶ ضعیف الجامع ۳۲۸۵. الکشف الالہی ۶۷۰. المشاہیہ ۱۹۰. المغیرا ۱۱۱

۲۹۶۲.....ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئے۔ تو رات چھ رمضان کو نازل ہوئی۔ زبور شریف

اٹھارہ ۱۸ رمضان کو نازل ہوئی۔ اور قرآن شریف چوبیس ۲۴ رمضان کو نازل ہوا۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت واثلہ رضی اللہ عنہ

تشریح:.....قرآن ایک مرتبہ آسمان دنیا پر نازل ہوا۔ تاریخ میں نازل ہو گیا جبکہ روئے زمین پر محمد ﷺ پر تیس سال کے عرصے میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ جبکہ دیگر کتب سماوی اور صحائف پیغمبروں پر ایک ایک مرتبہ ہی نازل ہوئے ہیں۔

۲۹۶۳.....اسماعیل علیہ السلام کی زبان ناپید ہو گئی تھی۔ پھر جبرئیل علیہ السلام اسے لے کر میرے پاس آئے اور مجھے یاد کرا دی۔

الغظریف فی جزئہ ابن عساکر بروایت عمر رضی اللہ عنہ

تشریح:.....یعنی قرآن پاک اصل عربی زبان میں نازل شدہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔

کلام:.....روایت ضعیف الجامع ۱۹۱۹۔ الضعیفۃ ۳۶۵۔

۲۹۶۴.....اے ابن آدم! کیا تو جانتا ہے تمام نعمت کیا ہے؟ تمام نعمت جہنم سے خلاصی اور جنت کا داخلہ ہے۔

مسند احمد، ادب البخاری، ترمذی بروایت معاذ بن الاکوع

نوٹ: ما قبل میں بیان کردہ حدیث ۲۹۲۰ پر اس کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔
۲۹۲۶: جہد البلاء قتل الصبر۔ اشد ترین مصیبت ظلماً قتل کیا جانا ہے۔

ابو عثمان الصابونی المانتین، فردوس للدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ
تشریح: جبکہ یہی روایت قلتہ الصبر کے الفاظ کے ساتھ بھی منقول ہے جس کے معنی ہوں گے عظیم ترین مصیبت صبر کا فقدان ہے۔
کلام: ضعیف الجامع ۲۶۲۰۔
تفسیر (قرآن کریم) زوائد جامع صغیر۔

۲۹۲۷: سورۃ فاتحہ۔ الصراط المستقیم یعنی سیدھا راستہ دین اسلام ہے۔ حج کا راستہ ہے اور راہ خدا میں غزوہ و جہاد کرنا ہے۔

الفردوس للدیلمی بروایت جابر رضی اللہ عنہ
۲۹۲۸: اے عدی بن حاتم! کیا تو اس بات سے بھاگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا؟ بتا کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ کیا تو اللہ اکبر کہنے سے بھاگ رہا ہے بتا کیا اللہ سے بڑی کوئی شے ہے؟ (یاد رکھا!) یہود پر غضب خداوندی اترا (اور وہ مغضوب علیہم کے مصداق ٹھہرے) اور نصاریٰ راہ راست سے بھٹکے (اور وہ الضالین کے مصداق ٹھہرے)۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت عدی بن حاتم

رب العالمین سے ہمکلامی

۲۹۲۹: تیرے رب نے فرمایا ہے اے ابن آدم! تجھ پر سورۃ فاتحہ کی سات آیات نازل کی گئی ہیں۔ تین میرے لئے ہیں اور تین تیرے لئے جبکہ ایک آیت میرے اور تیرے درمیان ہے۔

الحمد لله رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ ملک يوم الدين میرے لئے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے اور تیرے درمیان ہے، تیری طرف سے تو عبادت ہے اور مجھ پر تیری مدد لازم ہے۔ اور اهدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تیرے لئے ہیں۔ الامام الطبرانی فی الصغیر۔ بروایت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
۲۹۷۰: سورۃ البقرہ۔ یہ تورات کی تاریکی اور دن کی سفیدی ہے یعنی فرمان الہی الخیط الابيض من الخیط الاسود (سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے)۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد بروایت عدی بن معاتم رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ
نوٹ: اس روایت کی تشریح اسی جلد میں حدیث نمبر ۲۸۸۹ پر ملاحظہ فرمائیں۔

۲۹۷۱: الوفت کے معنی الاعراب اور تعریض للنساء بالجماح کے ہیں یعنی عورتوں سے فحش کلام کرنا اور صحبت و جماع کے لئے ان کے درپے ہونا اور فسوق تمام قسم کے گناہوں کو شامل ہے اور ”الجدال“ کسی شخص کا اپنے ساتھ والے سے جھگڑنا۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
تشریح: فرمان ایزدی عزوجل ہے:

فمن فرض فیہن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ بقرہ ۱۹۷

”پھر جس نے لازم کر لیا ان (ایام حج) میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانہ میں۔“
مذکورہ آیت میں رفت فسوق اور جدال تین الفاظ آئے ہیں جن کی تشریح مذکورہ حدیث میں کی گئی ہے۔

کلام: ضعیف الجامع ۳۱۵۷۔

۲۹۷۲: مؤمن کی نیکی میں لاکھ تک بڑھادی جاتی ہے۔ (الدیلمی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)

۲۹۷۳: فقط سوار سطل ہیں اور سطل بارہ اوقیہ ہے اور اوقیہ سات دینار ہیں اور دینار چوبیس قیراط کا ہے۔ الدیلمی بروایت جابر رضی اللہ عنہ

نوٹ: ۲۸۹۱ پر روایت کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔

کلام:..... اس روایت کے روایت میں ایک راوی غلیل بن مرہ ہیں جن کو امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔ لہذا اس بنا پر یہ روایت محل کلام اور ضعیف ہے۔

تکالیف گناہوں کا کفارہ ہے

۲۹۷۴۔ سورۃ النساء۔ اے عائشہ! اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بندہ کو یوں دیتا ہے کہ اس کو بخار، بڑھا پا اور سامان گم ہونا وغیرہ پیش آجاتا ہے۔ کوئی سامان اپنی آستین (جیب) میں رکھتا ہے پھر دیکھتا ہے تو گم پاتا ہے لیکن پھر اس کو پالیتا ہے۔ اس طرح (معمولی تکالیف میں) وہ مومن اپنے گناہوں سے یوں نکل آتا ہے جس طرح بھٹی سے سرخ سونا (صاف تھرا) نکال لیا جاتا ہے۔ ابن جریر بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریح:..... فرمان الہی ہے: من يعمل سوناً یجزیہ۔ جو کوئی بر اعل کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ اس آیت کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے مذکورہ بالا فرمان جواب دیا۔

۲۹۷۵۔ سورۃ المائدہ۔ جس کے پاس گھر اور خادم ہو وہ بادشاہ ہے۔ الزبیر بن بکر فی الموفقیات، ابن جریر بروایت مرسل ازید بن اسلم ۲۹۷۶۔ اے اہل مدینہ! اللہ تعالیٰ شراب کا تذکرہ فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا ممکن ہے اس کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمادیں۔ پھر (کچھ عرصہ) بعد میں فرمایا اے اہل مدینہ! اللہ تعالیٰ نے مجھ پر شراب کی حرمت نازل کر دی ہے۔ پس جو شخص یہ آیت جانتا ہو اور اس کے پاس شراب ہو وہ اس میں سے شپے۔ شعب الایمان للیہقی بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

شراب کی حرمت میں حکمت و تدبیر الہی

تشریح: فرمان الہی ہے:

یا ایہا الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون ہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوٰۃ فهل انتم منتہون۔ المائدہ: ۹۰ ۹۱

”اے ایمان والو! شراب اور جو اور بت اور پانے (یہ سب) ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں۔ سو ان سے بچتے رہنا تا کہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور بغض ڈلوادے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے تو تم کو (ان کاموں سے) باز رہنا چاہئے۔“

”انصاب“ اور ”ازلام“ کی تفسیر اسی سورت کی ابتداء میں ”وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام“ کے تحت میں گزر چکی ہے۔

اس آیت سے پہلے بھی بعض آیات خمر (شراب) کے بارہ میں نازل ہو چکی تھیں۔ اول یہ آیت نازل ہوئی۔ یسنلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما (بقرہ: رکوع ۲۷) گو اس سے نہایت واضح اشارہ تحریم خمر کی طرف کیا جا رہا تھا مگر چونکہ صاف طور اس کے چھوڑنے کا حکم نہ تھا اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا اللہم بین لنا بیانا شافیا اس کے بعد دوسری آیت آئی یا ایہا الذین امنوا لاتقربوا الصلوٰۃ وانتم سکار حی الہی آخر الآیۃ (نساء رکوع ۶) اس میں بھی تحریم خمر کی تصریح نہ تھی۔ گو نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوئی اور یہ قرینہ اسی کا تھا کہ غالباً یہ چیز عنقریب کلیہ حرام ہونے والی ہے۔ مگر چونکہ عرب میں شراب کا رواج انتہاء کو پہنچ چکا تھا اور اس کا دفعہ چھڑا دینا مخاطبین کے لحاظ سے اہل نہ تھا اس لئے نہایت حکیمانہ تدریج سے اولاً قلوب میں اس کی نفرت بھلائی گئی

اور آہستہ آہستہ حکم تحریم سے مانوس کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دوسری آیت کو سن کر پھر وہی لفظ کہے اللہم بین لنا بیانا شافیا آخر کار مادہ کی یہ آیتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں ”یا ایہا الذین امنوا“ سے ”فہل انتم منتہون“ تک نازل کی گئیں جس میں صاف صاف بت پرستی کی طرح اس گندی چیز سے بھی اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ”فہل انتم منتہون“ سنتے ہی چلا اٹھے ”انتھینا انتھینا“ لوگوں نے شراب کے ٹکے توڑ ڈالے، خے خانے برباد کر دیے۔ مدینے کی گلی کوچوں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھرتی تھی۔ سارا عرب اس گندی شراب کو چھوڑ کر مغفرت ربانی اور محبت و اطاعت نبوی کی شراب طہور سے خمور ہو گیا اور ام النجاشٹ کے مقابلہ پر حضور ﷺ کا یہ جہاد ایسا کامیاب ہوا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ جس چیز کو قرآن کریم نے اتنا پہلا اتنی شدت سے روکا تھا آج سب سے بڑے شراب خوار ملک امریکہ وغیرہ اس کی خرابیوں اور نقصانات کے محسوس کر کے اس کے منادینے پر تلے ہوئے ہیں۔ فلسفہ الحمد والمنة۔

۲۹۷۷ تمہاری قوم کی اوستیوں نے صحیح کانوں والے بچے جنے ہوں کیا تم چھری لے کر ان کے کان کاٹ دو گے پھر کہو گے یہ بچہ اس کا دودھ ہے۔ بتوں کے نام اور ان کی کھالیں کاٹ دو گے اور کہو گے یہ حرم (حرام) ہیں پھر تم ان کو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر حرام کر لو گے۔ جس کو اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے۔ اللہ کا بازو تمہارے بازو سے زیادہ مضبوط ہے اور اللہ کی چھری تمہاری چھری سے زیادہ تیز ہے۔

مسند احمد، الطبرانی فی الکبیر ابن حبان، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی، بروایت ابی الاحوص عن ابیہ تشریح:..... مشرکین عرب کسی جانور کا دودھ بتوں کے نام وقف کر دیا کرتے تھے اس کو بچہ کہتے تھے۔ اور کسی جانور کو بت کے نام وقف کر کے اس کا کھانا اور اس سے کسی بھی طرح کا نفع اٹھانا اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے۔ اس کی ممانعت مذکورہ حدیث میں کی گئی ہے۔ یہ حدیث سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۱۰۳ کی تشریح ہے۔ جبکہ آیت میں اور بھی انواع مذکور ہیں جن کو مشرکین اپنے لئے حرام تصور کرتے تھے۔ مذکورہ آیت کی تفسیر میں مزید تفصیل ملاحظہ کیجئے۔ آخر میں حدیث میں سمجھایا گیا ہے کہ اگر یوں کان کاٹ کر یا کھال کاٹ کر کوئی چیز حرام کی جاسکتی ہے تو کیا خدا یہ نہیں کر سکتا اس کا بازو اور اس کی چھری تمہارے بازو اور تمہاری چھری سے زیادہ طاقتور ہیں۔

۲۹۷۸ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مناظرہ کیا اور اپنے رب پر غالب آگئے اور اللہ ہی نے ان کو (غالب آنے کے لئے) صحت دلیل تلقین فرمائی تھی۔ لقولہ: اأنت قلت للناس اتخذونی وامی اللہین من دون اللہ الخ الدیلمی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ واذ قال اللہ یعیسیٰ ابن مریم ء انت قلت للناس اتخذونی وامی اللہین من دون اللہ قال سبحانک ما یكون لی ان اقول مالیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیداً ما دمست فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید ان تعد بہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم المائدہ ۱۱۷-۱۱۸

”اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے مجھے کب شایاں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا (کیونکہ) جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا بے شک تو علام الغیوب ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ جز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ اور جب تک میں ان میں رہا ان (کے حالات) کی خبر رکھتا رہا جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھایا تو تو ان کا گمراہ تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ اور اگر بخش دے تو (تیری مہربانی ہے) بے شک تو غالب (اور) حکمت والا ہے۔“

مذکورہ حدیث انہی آیات کی تفسیر و تشریح ہے۔

عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہیہ

۲۹۷۹ جب قیامت کا دن ہوگا انبیاء اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا اللہ پاک ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا اقرار فرمائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے:

یعسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔
جب خدا (عیسیٰ سے) فرمائے گا: اے عیسیٰ بن مریم! میرے ان احسانوں کو یاد کر جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے جب میں نے روح القدس (جبرئیل) سے تمہاری برکتی۔
پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے:

أأنت قلت للناس اتخذوني وامی المهین من دون الله۔

کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا انکار فرمائیں گے کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا۔ پھر نصاریٰ کو بلایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا وہ کہیں گے: جی ہاں انہی نے ہم کو حکم دیا تھا۔ (اس بات کو سن کر غم و غصہ کی وجہ سے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بال (کھڑے ہو کر) اس قدر لمبے ہو جائیں گے کہ آپ کے سر اور بدن کے ایک ایک بال کو ایک فرشتہ تھاے گا پھر اللہ تعالیٰ کے روبرو ہزار سال تک ان کا حساب کتاب ہوگا حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حجت نصاریٰ پر غالب آجائے گی۔ پھر نصاریٰ کے لئے (ایک صلیب بلند کی جائے گی جس کے پیچھے چل کر وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ابن عساکر بروایت ابی بردہ بن ابی موسیٰ عن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ

۲۹۸۰۔ سورۃ الانعام۔ بہر حال یہ آنے والا تھا لیکن بعد میں ٹال دیا گیا۔ مسند احمد، ترمذی بروایت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص فائدہ:۔۔۔۔۔ جب فرمان الہی نازل ہوا:

قل هو القادر علی ان یربعث علیکم عذابا من فوقکم۔ الانعام: ۶۵

”کہہ دے اس کو قدرت ہے اس پر کہ عذاب بھیجے تم پر۔“

تو نبی کریم ﷺ نے اس پر مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تم پر عذاب بھیجنے پر پوری طرح قادر ہے لیکن اس کی رحمت ہے کہ اس نے تم پر بھیجنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

کلام:۔۔۔۔۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن غریب قرار دیا ہے یعنی ایک طریق سے یہ روایت حسن ہے اور قابل اعتبار۔

۲۹۸۱۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں سنی: ان الشرک لظلم عظیم، بخاری، مسلم بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ
فائدہ:۔۔۔۔۔ فرمان الہی ہے:

الذین امنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اؤلئک لهم الامن وهم مہتدون۔

جو لوگ یقین لے آئے اور نہیں ملایا اپنے ایمان میں کوئی ظلم انہی کے واسطے ہے۔ جمعہ اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔

جب مذکورہ فرمان باری نازل ہوا تو صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ تب آپ ﷺ نے فرمایا یہاں ظلم سے شرک مراد ہے یعنی ایمان لانے کے بعد شرک سے کلی اجتناب برتا۔ یونہی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا: اے بیٹے شرک نہ کرنا۔ اللہ کی قسم شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورۃ لقمان: ۱۳

۲۹۸۲۔ ہلاکت ہوئی اسرائیل کی۔ اللہ نے ان پر چریوں کو حرام کیا۔ انہوں نے ان کو نرم کیا اور اس کو فروخت کر کے اس کے پیسے سے کھانے

لگے۔ یونہی تم (مسلمانوں) پر اللہ نے شراب حرام فرمائی ہے۔ (الطبرانی فی الکبیر بروایت عمر رضی اللہ عنہ

یہود کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت

فائدہ:..... نبی ﷺ کا فرمان ہے تم بھی ان کے قدم بقدم چلو گے اگر وہ (یہود) ایک سوراخ میں گھے تھے تم بھی اس میں گھسو گے۔ اللہ معاف فرمائے آج مسلمان بھی شراب کو مختلف ناموں اور مختلف شکلوں میں استعمال کرنے لگے ہیں۔ نشہ آور شے ہر طرح حرام ہے اس سے احتراز واجب ہے۔

۲۹۸۳..... یہود پر اللہ لعنت فرمائے۔ یہود پر اللہ لعنت فرمائے۔ گائے اور بکریوں کی جو چربیاں ان پر حرام کی گئی تھیں انہوں نے ان کو لے کر پگھلایا اور اپنی کھانے والی اشیاء کے بدلے فروخت کر دیا۔ (یاد رکھو!) شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے اور اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ (مسند احمد بروایت عبدالرحمن بن ٹھیم۔

۲۹۸۴..... اللہ یہود پر لعنت فرمائے ان پر بکریوں کی چربی حرام کی گئی تو وہ اس کی قیمت کھانے لگے۔

مسند ابی یعلیٰ ہشیم بن کلیب الشاشی، مستدرک الحاکم، سنن سعید بن منصور بروایت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ

۲۹۸۵..... اللہ عزوجل نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے اس دروازے کا عرض (چوڑائی) ستر سال کی مسافت کے بقدر ہے۔ وہ باب التوبہ ہے۔ وہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو اور یہی فرمان باری عزوجل ہے:

یوم یأتی بعض آیات ربک لاینفع نفساً ایمانها. الانعام: ۱۵۸

جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آجائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہ لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔

ابن زنجویہ بروایت صفوان بن عسال

۲۹۸۶..... اے عائشہ رضی اللہ عنہا! ان الذین فرقوا دینہم وکانوا اشیعا. الانعام: ۱۵۹

جنہوں نے راہیں نکالیں اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے۔ ایسے لوگ بدعت والے اور خواہش پرست لوگ ہیں۔ ان کی کوئی توبہ نہیں (گر اسی پر قائم رہتے ہوئے) میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔

الطبرانی فی الصغیر بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۲۹۸۷..... اے عائشہ رضی اللہ عنہا! جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور وہ بہت سے گروہوں میں بٹ گئے وہ بدعت اور گمراہی ہیں پڑنے والے ہیں۔ (گر اہیوں میں پڑے ہوئے) ان کی کوئی توبہ قبول نہیں جب کہ ہر گناہ گار کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہے سوائے ان اصحاب البدعت اور خواہش پرستوں کے۔ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں۔

الحکیم ابن ابی حاتم، ابوالشیخ فی التفسیر، حلیۃ الاولیاء، شعب للبیہقی بروایت عمر رضی اللہ عنہ

اصحاب الیمین، اصحاب الشمال

۲۹۸۸..... سورة الاعراف۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا فرمائی اور فیصلہ فرما دیا اور پیغمبروں سے عہد لیا۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ نے اہل یمین کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اصحاب الشمال کو بائیں ہاتھ میں لیا اور جن کے دونوں ہاتھ یمین (صاحب برکت) ہیں۔ پھر فرمایا: اے اصحاب الیمین! (انہوں نے جواب میں عرض کیا) لیک رہنا وسعدیک۔ حاضر ہیں ہم اے پروردگار! اور تمام بھلائیاں تجھ ہی سے ہیں۔ پروردگار نے فرمایا: الست برسکم؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے پروردگار! بے شک آپ ہی ہمارے

پروردگار ہیں۔ (اصل نسخہ میں آئندہ کا اضافہ نہیں لیکن منتخب کنز العمال یہ اضافہ موجود ہے۔) پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اصحاب الشمال! انہوں نے عرض کیا: حاضر ہیں اے ہمارے پروردگار! اور تو ہی تمام سعادتوں کا سرچشمہ ہے۔ فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کیا: کیوں نہیں۔ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے اصحاب الاعراف! انہوں نے بھی عرض کیا لیبیک ربنا وسعدیک۔ فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ منتخب کنز العمال

پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ کسی نے ان میں سے کہا: اے پروردگار! ہمیں (اچھوں اور برے کو) ایک دوسرے کے ساتھ کیوں خلط ملط کر دیا؟ ارشاد خداوندی ہوا: تمام لوگوں کے سامنے ان کے اپنے اپنے اعمال ہیں جن پر ہر ایک کا رہند ہے۔ (یہ سب سوال و جواب میں نے اس لئے کیا) کہیں تم قیامت کے دن کہو، ہم اس سے غافل تھے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آدم علیہ السلام کی پشت میں لوٹا دیا۔ پس اہل جنت جنت ہی کے اہل ہیں اور اہل جہنم جہنم ہی کے لائق ہیں۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ! (جب جنت اور جہنم ہر ایک کے لئے اس کے اہل لکھے جا چکے ہیں) پھر عمل کا کیا فائدہ؟ فرمایا: ہر قوم اپنے مرتبہ (جنت یا جہنم) کے مطابق ہی عمل کرتی ہے۔

عبد بن حمید، الضعفاء للعقیلی، العظمت لابی الشیخ، ابن مردویہ بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ
نوٹ: اس حدیث مضمون کی مکمل تفصیل سورۃ الاعراف ۲۷ پر تفصیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

کلام: ذخیرۃ الحفاظ ۲۷۸۹ پر یہ روایت معمولی اختلاف کے ساتھ نقل کی گئی ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔
۲۹۸۹ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان کا فیصلہ کر دیا (کہ کون جنت یا جہنم میں جائے گا تو) پھر اہل یمن (جنت والوں) کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیا اور اہل شمال (جہنم والوں) کو بائیں ہاتھ میں لیا پھر فرمایا: اے اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین نے جواب دیا لیبیک وسعدیک۔ فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ بولے: بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر فرمایا: اے اصحاب الشمال! اصحاب الشمال بولے: لیبیک وسعدیک فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عرض کیا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم خلط ملط کر دیا۔ ایک نے سوال کیا: یا رب! ان کو آپس میں ملا جلا کیوں دیا۔ فرمایا: ہر ایک کے اپنے اپنے اعمال ہیں (جن سے وہ ممتاز ہو جائیں گے)۔ اب تم یہ نہ کہہ سکو گے قیامت کے دن کہ ہم تو اس سے لاعلم تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو آدم کی پشت میں واپس کر دیا۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام: دیکھئے ۲۷۸۹ ذخیرۃ الحفاظ۔

۲۹۹۰ اللہ یا ک موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ یقیناً سنی ہوئی خبر کا حال خود آنکھوں دیکھا جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی کہ ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ تب (غصہ میں) تورات کی تختیاں نہیں پھینکی لیکن جب واپس آ کر خود دیکھا اور ان کا معائنہ کیا تو (غصہ کے مارے) تورات کی تختیاں پھینک دیں۔ مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
نوٹ: سورۃ الاعراف آیت ۱۵۰ پر یہ واقعہ مذکور ہے۔

حواء علیہ السلام کی نذر

۲۹۹۱ حضرت حواء کا بچہ زندہ نہ رہتا تھا۔ پھر آپ نے نذر مانی کہ اگر اس کا بچہ جنے گا تو اس کا نام عبدالخارث رکھیں گی۔ چنانچہ ان کا بچہ زندہ رہا اور حواء نے اس کا نام عبدالخارث رکھ دیا۔ اور یہ سب شیطان کے بہراؤ کی وجہ سے تھا۔ مستدرک الحاکم بروایت سمرة رضی اللہ عنہ
نوٹ: اسی جلد کے گذشتہ صفحات میں حدیث ۲۸۹۸ پر اس حدیث کی مکمل تفصیل و تشریح ملاحظہ فرمائیں۔

۲۹۹۲ سورۃ البراءۃ المتز بصون وہ گناہ گار ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ الدیلمی بروایت عبد اللہ بن جراد

فائدہ:..... سورہ براءت ۹۸ میں اللہ پاک بدو منافقین کی مذمت کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ وہ تم مسلمانوں پر مصیبت پڑنے کے منتظر رہتے ہیں بترصب بحکم الدوائر ایسے لوگ فقط نام کے مسلمان ہیں ورنہ وہ خدا کے ہاں منافق اور جہنم کے مستحق ہیں۔

۲۹۹۳..... سورہ یونس۔ اللہ عزوجل قیامت کے دن ایک منادی کو کھڑا کریں گے جو اہل جنت کو نداء دے گا جس کی نداء اول و آخر سب لوگ سنیں گے۔ وہ کہے گا:

اللہ تعالیٰ نے تم سے حسنیٰ اور زیادتی کا وعدہ فرمایا تھا، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ. یونس: ۲۶

”جن لوگوں نے نیکو کاری کی تھی ان کے لئے بھلائی ہے اور (مزید برآں) اور بھی۔“

پس حسنیٰ جنت ہے اور زیادتی رحمن کے چہرے کی زیارت ہے۔ ابن جریر بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۲۹۹۴..... جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد! آپ مجھے دیکھتے کہ میں ایک ہاتھ سے فرعون کو ڈور رہا تھا اور دوسرے سے اس کے منہ میں کچھ ٹھونس رہا تھا اس ڈر سے کہ کہیں اس کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو خدا کی رحمت نہ پہنچ جائے اور اس کی بخشش کر دی جائے۔

ابن جریر، شعب الایمان للبيهقي بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

نوٹ:..... یہی روایت گذشتہ صفحات میں رقم الحدیث ۲۹۰۵ کے تحت گزر چکی ہے۔

۲۹۹۵..... جبرئیل علیہ السلام فرعون کے منہ میں کچھ ٹھونس رہے تھے اس ڈر سے کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لے جس کی وجہ سے اللہ اس پر رحم نہ فرمادیں۔

ابن جریر، مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۹۹۶..... مجھے جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! تیرا پروردگار اس قدر کسی پر غضب ناک نہیں ہوا جس قدر کہ فرعون پر ہوا جب اس نے یہ کہا: انا ربکم الاعلیٰ۔ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ پس جب وہ غرق ہونے لگا اور اس نے خدا کو پکارنا چاہا تو میں اس کا منہ بند کرنے لگا اس

ڈر سے کہ کہیں اس کو رحمت الہی نہ پہنچ جائے۔ ابن عساکر بروایت عمر رضی اللہ عنہ

۲۹۹۷..... جبرئیل علیہ السلام فرعون کے منہ میں مٹی ٹھونس رہے تھے اس ڈر سے کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لے۔

مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۲۹۹۸..... سورہ ہود۔ الاواہ کے معنی سے مراد خشوع کرنے والا اور عاجزی کرنے والا ہے۔

ابن جریر بروایت عبد اللہ بن شہاد بن الہاد مرسلًا

فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

ان ابراهيم لحليم اواه منيب. سورہ ہود: ۷۵

”بے شک ابراہیم بڑے محل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔“

اس آیت میں اواہ کا لفظ آیا ہے۔ اسی کی تشریح مذکورہ بالا حدیث میں مقصود ہے۔

مؤمنین اور کافرین کی شفاعت کرنے والے

سورہ ابراہیم۔ جب اللہ پاک اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما کر فارغ ہو جائیں گے تو مؤمنین عرض کریں

گے: ہمارا پروردگار ہمارے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے۔ پس کون ہمارے رب کے ہاں ہماری شفاعت کا بیڑہ اٹھائے گا؟ پھر آپس میں کہیں

گے: چلو آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ہمارے والد ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا ہے اور ان کو ہم کلام ہونے کا

شرف بخشا ہے۔

لہذا اتمامِ مومنین ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے بات چیت کریں گے کہ وہ چل کر ان کی شفاعت کریں! حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے: تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ (وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے) نوح علیہ السلام ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتائیں گے۔ موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیں گے پھر مومنین عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے: میں تم کو نبی امی کے پاس جانے کا کہتا ہوں (انشاء اللہ وہاں سے تم ناامید نہ ہوں گے)۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں: چنانچہ مومنین میرے پاس آئیں گے۔

پس اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت مرحمت فرمائیں گے۔

چنانچہ میرے بیٹھنے کی جگہ ایسی خوشبو سے معطر ہو جائے گی جو کبھی کسی نے نہ سونگھی ہوگی۔ پھر میں اپنے پروردگار عز و جل کے حضور میں حاضر ہوں گا (متخب میں ہے پھر میں اپنے پروردگار کی ثناء بیان کروں گا۔ پس پروردگار مجھے سفارش کا موقع عنایت فرمائیں گے۔ اور مجھے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک نور سے منور فرمادیں گے۔

پھر کافر کہیں گے کہ مومنوں کو تو ان کا سفارشی مل گیا ہمارا کون سفارشی بنے گا؟ پس وہ ابلیس ہی ہو سکتا ہے جس نے ہمیں گمراہ کیا ہے چنانچہ وہ ابلیس کے پاس آئیں گے اور اس کو کہیں گے: مومنوں نے تو اپنے لئے سفارشی پالیا پس تو بھی کھڑا ہو اور ہمارے لئے سفارش کر۔ کیونکہ تو نے ہی ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا یا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھے گا تو اس کی جگہ سخت ترین بدبو سے متعفن ہو جائے گی۔ ایسی بدبو کبھی کسی نے نہ سونگھی ہوگی۔ پھر وہ جہنم میں جانے کے لئے بہت موٹا ہو جائے گا۔ فرمان الہی ہے:

وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ لِمَ قَضَى الْأَمْرَ أَنْ اللَّهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقُّ وَوَعَدْتَكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ ۲۲

جب (حساب کتاب کا) فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا (جو) وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا (وہ تو) سچا (تھا) اور (جو) وعدہ میں نے تم سے کیا

تھا وہ جھوٹا تھا۔ ابن المبارک، ابن جریر، ابن ابی حاتم، طبرانی، ابن مردویہ، ابن عساکر بروایت عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر کلام: علامہ عداء الدین ہندی (مؤلف کنز العمال) فرماتے ہیں: اس روایت میں ایک راوی عبدالرحمن بن زیاد ضعیف ہے۔

امت کے بہترین لوگ

۳۰۰۰ میری امت کے بہترین لوگ جیسا کہ مجھے ملاء اعلیٰ (فرشتوں کی جماعت) نے خبر دی وہ لوگ ہیں۔ جو اپنے پروردگار کی رحمت کی فراخی اور کشادگی پر کھلے بندوں ہنستے اور خوش ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے عذاب کے ڈر سے چھپ چھپ کر روتے ہیں۔ یا کبیرہ گھروں یعنی مساجد میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ شوق اور ڈر میں اپنی زبانوں کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس سے مانگتے ہیں دلوں کے ساتھ خدا کے حضور بار بار متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کا بوجھ لوگوں پر ہلکا ہے۔ اپنی جانوں پر زیادہ ہے۔ زمین پر عاجزی کے ساتھ ننگے پاؤں چلتے ہیں جیسے چیونٹی ریگتی ہے نہ اکڑ نہ اتر اہٹ۔ اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ وسیلہ (طفیل انبیاء و بزرگان دین) کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں۔ موٹا چھوٹا پہننے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ان پر فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ نگہبان آنکھ ان کی حفاظت کرتی ہے۔

بندوں کو اندر سے جانتے ہیں۔ زمین اور کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ان کی جانیں دنیا میں جبکہ دل آخرت میں اٹکے ہوتے ہیں۔ ان کو آگے کے سوا کوئی فکر نہیں۔ انہوں نے قبروں کے لئے سامان سفر تیار کر لیا ہے۔ آخرت کے سفر کے لئے پروانہ (ویزا) حاصل کر لیا ہے۔ خدا کے آگے کھڑے ہونے کے لئے مستعد ہو چکے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

ذَلِكْ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

”یہ انعام اس شخص کے لئے ہے جو میرے آگے کھڑا ہونے سے ڈرا اور میری سزا سے ڈرا۔“

حلیۃ الاولیاء، مستدرک النحاکم ابن النجار، بروایت عیاض بن سلیمان

کلام: امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث منکر اور ناقابل اعتبار ہے۔ اس کا راوی عیاض کا کچھ علم نہیں وہ کون ہے؟ جبکہ ابن النجار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ مدینی نے ان (عیاض راوی) کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے۔ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے حافظ نے اس پر گرفت فرمائی ہے اور اس کو غلط قرار دیا ہے۔

۳۰۰۱۔ مؤمن گواہی دیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جانتا ہے کہ محمد اپنی قبر میں (بقید حیات و سالم جسم) ہیں اور یہ فرمان باری عزوجل کا مطلب ہے:

يُثِبْتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ابراهيم: ۲۷
خدا مؤمنوں کے دلوں کو (صحیح اور) سچی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔

(صحیح ابن حبان بروایت براء رضی اللہ عنہ)

۳۰۰۲۔ (وہ پانی) اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا وہ اس سے کراہت کرے گا۔ جب وہ پانی اس کے منہ کے قریب ہوگا اس کا چہرہ جھلس جائے گا اور اس کے سر کی کھال گر جائے گی جب اس کو پئے گا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کر اس کے پاخانہ کے مقام سے نکل جائیں گی۔

ترمذی، مستدرک الحاکم بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

فائدہ: فرمان الہی ہے: وَيَسْقِي مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. ابراهيم: ۷۱

اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا (اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پئے گا
مذکورہ حدیث اسی آیت مبارکہ کی تفسیر ہے۔) (اعاذنا اللہ من ماء جہنم)

کلام: امام ترمذی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ وقال غریب۔

۳۰۰۳۔ (ایک وقت) اہل جہنم کہیں گے: چلو ہم صبر کرتے ہیں۔ پھر وہ پانچ سو سال صبر کریں گے۔ لیکن جب دیکھیں گے کہ یہ صبر ان کے کسی کام کا نہیں تو پھر کہیں گے: آؤ ہم چیخ و پکار کریں۔ چنانچہ وہ پانچ سو سال تک چیخ و پکار کرتے رہیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا رونا دھونا کبھی انہیں کچھ فائدہ نہیں دے رہا ہے تب وہ کہیں گے: فرمان الہی ہے:

سواء علينا اجز عنا ام صبرنا مالنا محيص. ابراهيم: ۲۱

اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے۔ کوئی جگہ (چھنکارے اور) کراہائی کی ہمارے لئے نہیں ہے۔

الطبرانی فی الکبیر روایت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک

۳۰۰۴۔ سورۃ النحل۔ قیامت سے قبل مغرب کی طرف سے تم پر ایک سیاہ بادل چھا جائے گا جیسے تلوار کی ڈھال ہو۔ وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا ہوا پھیلتا رہے گا حتیٰ کہ سارے آسمان کو بھر دے گا۔ پھر ایک منادی نداء دے گا اے لوگو!

اتى امر الله فلا تستعجلوه. النحل: ۱

خدا کا حکم (عذاب) آپہنچا تو اس کے لئے جلدی مت کرو۔

پس قسم سے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے: درخش کپڑا پھیلائیں گے لیکن اس کو پلیٹ نہ پائیں گے۔ کوئی شخص اپنے حوض کی لیبائی کرے گا لیکن کبھی اس سے کچھ پی نہ سکے گا اور کوئی شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہے گا مگر کبھی بھی اس کو پی نہ سکے گا۔ (کیونکہ اس سے پہلے ہی

خدا کا عذاب ان کو اپنی پلیٹ میں لے لے گا۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر

۳۰۰۵۔ قیامت سے قبل تم پر مغرب کی جانب سے ایک سیاہ بادل ڈھال کی مانند آئے گا، وہ آسمان کی طرف بلند ہوتا جائے گا حتیٰ کہ سارا آسمان اس بادل سے چھپ جائے گا۔ پھر ایک منادی نداء دے گا: اے لوگو! لوگ اس آواز کو سن کر متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے کو کہیں گے ہم نے یہ آواز سنی؟ کوئی ہاں کرے گا اور کوئی شک کرے گا۔ وہی آواز پھر بلند ہوگی، اے لوگو! تم نے سنا؟ لوگ کہیں گے: ہاں ہاں۔ چنانچہ نداء آئے گی اے لوگو! اتی امر الله فلا تستعجلوه (النحل: ۱) اللہ کا حکم (عذاب) آپہنچا ہے پس جلدی نہ کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی

جس کے دست قدرت میں میری جان ہے دو شخصوں نے کپڑا کھولا ہوگا (جس طرح کپڑا فروش خریدار کو معائنہ کرانے کے لئے تھان بھولتے ہیں) پھر وہ پیٹ نہ پائیں گے۔ ایک شخص نے اپنے حوض کا چونا کیا ہوگا لیکن وہ اس سے پانی پی نہ سکے گا اور ایک شخص نے اپنی اونٹنی کا دودھ نکالا ہوگا لیکن وہ پی نہ پائے گا اس طرح تمام لوگ اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہوں گے (کہ حکم عذاب آجائے گا)۔

مستدرک الحاکم بروایت عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر

۳۰۰۶ سورة الاسراء۔ اس (وقت پڑھے جانے والے قرآن) پر دن اور رات کے ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔

ترمذی حسن صحیح بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

فائدہ:..... تہجد میں پڑھے جانے والے قرآن کی فضیلت مذکورہ حدیث صحیح میں بیان کی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے:

ان قرآن الفجر کان مشہوداً. الاسراء: ۷۸

بے شک صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور (ملائکہ) ہے۔

اس وقت رات کے فرشتے انسان کے اعمال نامہ دن کے فرشتوں کے حوالہ کر کے واپس جاتے ہیں۔ گویا اس مقرب وقت میں دن اور رات کے ملائکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تہجد میں قرآن سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے منقول ہے کہ تہجد صالحین کا شعار ہے۔ ہر نیک انسان کو اسے اپنی زندگی کا جزو لازم پڑھانا چاہئے۔

۳۰۰۷ سورة الکہف۔ خضر علیہ السلام نے لڑکے کو دیکھا تو اس کا سر تھام کر اس کی گردن کو جوڑ کا دیا اور اسے قتل کر دیا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرمان الہی ہے:

أقتلت نفساً کبیرة بغير نفس. سورة الکہف

(موسیٰ نے) کہا آپ نے ایک بے گناہ شخص کو (ناحق) بغیر قصاص کے مار ڈالا۔ ابو داؤد بروایت ابی ذر رضی اللہ عنہ وہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا وہ کافر پیدا ہوا تھا اور اس کے والدین کو اس کی محبت دلوں میں جاگزیں ہو گئی تھی۔

السنن لدارقطنی، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ عن ابی رضی اللہ عنہ

۳۰۰۹ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائیں، اگر آپ جلدی نہ فرماتے تو (خضر) اس سے زیادہ قصبے بیان فرماتے۔

مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۰۱۰ قیامت کے روز ایک انتہائی لمبے چوڑے، بہت زیادہ کھانے اور پینے والے شخص کو حاضر کیا جائے گا۔ لیکن وہ اللہ کے ہاں چھڑ کے پر سے زیادہ وزن نہیں رکھے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو:

فلانقیم لهم یوم القیامة وزناً. الکہف: ۱۰۵

پس ہم قیامت کے دن ان کے لئے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔

الکامل لابن عدی، شعب الایمان للبیہقی۔ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام:..... روایت ضعیف ہے کیونکہ ابن عدی کی کتاب الکامل ضعیف احادیث پر مشتمل ہے۔ نیز ذخیرۃ الحفاظ ۳۶۳۹ پر بھی اس روایت کا ضعف ملاحظہ فرمائیں۔ جبکہ شعب الایمان میں صحیح ضعیف وغیرہ ہر طرح کی روایات ہیں۔

۳۰۱۱ سورة مریم۔ بچوں نے یحییٰ بن زکریا علیہا السلام کو کہا آؤ کھیلیں کو دین! یحییٰ علیہ السلام نے (جو اس وقت تک بچے تھے) فرمایا کہا ہم کھیل کود کے لئے پیدا کئے گئے ہیں؟ آؤ ہم نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ پس یہی فرمان خداوندی ہے:

واتیناہ الحکم صبیئاً. مریم: ۱۲

اور ہم نے ان (یحییٰ علیہ السلام) کو لڑکین ہی میں دانائی عطا کی تھی۔

التاریخ للحاکم بروایت نھشل بن سعید عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

مومن کی قبر کی حالت

۳۰۱۲ سورہ طہ۔ مومن کی قبر کے اندر ایک سبز باغ میں ہوتا ہے۔ جو ستر ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اور چودہویں رات کے چاندنی ماہ انداس کے لئے قبر روشن کر دی جاتی ہے۔ کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی: فان له معيشة ضحڪا (طہ: ۲۴) اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ عذاب قبر کے بارے میں ہے۔ قسم ہے میری جان کے مالک کی! اس پر ننانوے اژدھے ایسے مسلط کر دیئے جائیں گے جن میں سے ہر ایک اژدھے کے نو سر ہوں گے۔ وہ اس پر دھکارتے رہیں گے، ڈستے رہیں گے اور اس کو ہر بار بار گوشت آتا رہے گا (اور وہ اس کو کھاتے رہیں گے)۔ الحکیم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ... یہ روایت حکیم ترمذی کی ہے جو انہوں نے نوادر الاصول میں بیان فرمائی ہے اور غیر مستند ہے۔

جہنمیوں کی تعداد میں کثرت

۳۰۱۳ سورہ حج۔ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ (روح المعانی میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواباً عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں) پھر فرمایا یہ دن وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے: اے آدم علیہ السلام! کھڑا ہو اور جہنم کا حصہ نکال۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے پروردگار! جہنم کا حصہ کتنا ہے؟ پروردگار فرمائیں گے: ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم ہیں اور ایک جنت کے لئے ہے۔

یہ بات مسلمانوں کو شاق گزری تب آپ ﷺ نے فرمایا: سیدھے سیدھے رہو، قریب قریب رہو اور مجھ سے خوشخبری سنو! قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگوں میں ایسے ہو جیسے اونٹ کے پہلو میں تل یا جانور کے ہاتھ میں معمولی گھاس۔ اور یقین کرو تمہارے ساتھ دو ایسی چیز پیدا کی گئی ہیں جو کسی کے ساتھ بھی ہوں اس کو کثیر تعداد کر دیتی ہیں۔ یا جوج ماجوج اور جن وانس کے کفار۔ (اور نو سو ننانوے انہی میں سے ہوں گے اور ایک مسلمانوں میں سے ہوگا انشاء اللہ)۔ عبد بن حمید، مستدرک الحاکم بروایت انس فرمایا: جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی:

يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شىء عظيم. الحج: ۱

اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا جھٹکا عظیم شے ہے۔

تب آپ ﷺ نے مذکورہ بالا ارشاد صادر فرمایا۔

مسند احمد، السنن الترمذی حسن صحیح، الطبرانی فی الکبیر، مستدرک الحاکم، بروایت عمران بن حصین مستدرک ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۰۱۴ اللہ عزوجل قیامت کے دن ایک منادی کو کھڑا فرمائیں گے جو نداء دے گا: اے آدم! اللہ پاک آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لئے حصہ نکالے۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے: اے پروردگار! کتنے میں سے کتنا؟ کہا جائے گا: ہر سو میں سے ننانوے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تم جانتے ہو لوگوں میں تمہاری کیا نسبت ہے؟ تم لوگوں میں (تعداد کے اندر یوں ہو جیسے اونٹ کے پہلو میں تل)۔

مسند احمد بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

امت محمدیہ کی کثرت

فائدہ: دوسری روایات میں آیا ہے کہ امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے زیادہ تعداد والی ہے، جب یہ قیامت کے روز سامنے آئے گی تو

افق کو بھردے گی۔ جبکہ مذکورہ حدیث میں قلت کی طرف اشارہ ہے۔ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کیونکہ اس حدیث میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والے تمام مسلمانوں کے لئے کہا گیا ہے کہ یہ سب دوسری قوموں کی نسبت اونٹ کے جسم میں تل کے برابر ہیں۔ دوسرے تمام کفار اور یا جوج ماجوج اور جن کفار یہ سب اس قدر تعداد میں ہوں گے جیسے تل کے مقابلے میں پورا جسم۔ پھر تمام مسلمانوں میں امت محمدیہ کے مسلمان اسی قدر زیادہ ہیں جیسے ایک تل کے مقابلے میں پورا جسم۔ دیگر تمام انبیاء کے مسلمان اسی تل کی مانند ہیں اور امت محمدیہ ﷺ کے امتی پورے جسم کے مانند ہیں۔ الحمد للہ علی ذلک۔

۳۰۱۵ قیامت کے روز اللہ عزوجل آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے، کھڑے ہو اور اپنی اولاد میں سے (ہر ہزار میں سے) نو سو ننانوے جہنم کے لئے اور ایک جنت کے لئے نکال دے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میری امت دیگر امتوں میں کالے بیل کے جسم میں سفید بال کی مانند ہے۔ مسند احمد بروایت الدر داء رضی اللہ عنہ

۳۰۱۶ اللہ تبارک وتعالیٰ قیامت کے روز فرمائیں گے: اے آدم! اٹھ اور اپنی اولاد میں سے (ہزار میں سے) نو سو ننانوے جہنم کے لئے اور ایک جنت کے لئے نکال۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور رونے لگے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے سر اٹھاؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری امت دیگر امتوں کے مقابلے میں یوں ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم میں سفید بال۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت اب الدر داء رضی اللہ عنہ

فائدہ: ان دونوں حدیثوں میں امت محمدیہ کی نسبت سفید بال کی بتائی گئی ہے۔ یہاں تمام اقوام کے تمام لوگوں جن وانس اور یا جوج ماجوج کے مقابلے میں یہ نسبت ملحوظ ہے۔ اس سے سابقہ تشریح مزید واضح ہو جاتی ہے۔

۳۰۱۷ ہاں، اور جو شخص ان مقامات پر سجدہ نہ کرے تو وہ ان کی تلاوت بھی نہ کرے۔ ابو داؤد بروایت عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر فائدہ: حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا سورۃ حج میں دو سجدے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے مذکورہ بالا ارشاد صادر فرمایا۔

ابلیس کو سب سے پہلے آگ کا لباس پہنایا جائے گا

۳۰۱۸ سورۃ الفرقان۔ سب سے پہلے جس شخص کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے۔ اس کے کاندھے پر وہ لباس ڈال دیا جائے گا اور وہ اس کو اپنے پیچھے کھینچتا چلا جائے گا اور اس کے پیروکار اس کے پیچھے پیچھے لیں گے۔ ابلیس یہ نداء دیتا ہوگا: ہائے ہلاکت و بربادی! اس کے پیروکار بھی یہی پکارتے ہوں گے: ہائے ہلاکت و بربادی! حتیٰ کہ شیطان ابلیس جہنم کے کنارے جا کھڑا ہوگا اور وہ اور اس کے پیروکار اپنی تباہی و بربادی کو کوس رہے ہوں گے۔ تب ان کو لہا جائے گا

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا الْفُرْقَانِ ۱۴۰

آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو۔ مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام: روایت محل کلام ہے دیکھئے الضعیفۃ ۱۱۴۳۔

۳۰۱۹ ”القرن“ قرن چالیس سال کا عرصہ کہلاتا ہے۔ ابن جریر بروایت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مرسلاً

فائدہ: فرمان الہی ہے

وَعَادُوا ثَمُودَ وَأَصْحَابَ الْوَسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا الْفُرْقَانِ ۳۸

اور عا د اور ثمود اور کونو میں والوں اور ان کے درمیان بہت سے زمانے والوں کو ہلاک کیا۔

آیت بالا میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے بہت سے زمانے والوں کو ہلاک کیا۔ اس کے لئے لفظ قرون استعمال کیا جو قرن کی جمع ہے اور قرن

کے بارے میں حدیث بالا میں وضاحت کی گئی ہے کہ قرن چالیس سال کا عرصہ ہوتا ہے۔

۳۰۲۰ سورۃ القصص۔ اللہ عزوجل نے تورات کے زمین پر نازل کرنے کے بعد آسمانی عذاب کے ساتھ کس قوم، اہل زمانہ، امت اور کسی بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا۔ سوائے اس ایک بستی کے جس کے اہل کو اللہ عزوجل نے بندروں کی شکل کر دی تھی۔ کیا تم نے اللہ عزوجل کا یہ فرمان نہیں پڑھا:

ولقد اتینا موسیٰ الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى. القصص: ۲۳
”اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔“

نسائی، ابن المنذر، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۳۰۲۱ اگر تم سے سوال کیا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ تو کہو دونوں میں سے بہتر اور کامل اور اگر سوال کیا جائے کہ موسیٰ نے دونوں بہنوں میں کس سے شادی کی تھی؟ تو کہو چھوٹی سے، جو موسیٰ کو بلانے آئی تھی اور اسی نے اپنے والد (شعیب علیہ السلام) کو کہا تھا: اے ابا جان اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے۔ الرویانی بروایت ابو فر رضی اللہ عنہ
نوٹ: سورۃ القصص آیت ۲۲ تا ۲۸ پر اس واقعہ کی مکمل تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔

۳۰۲۲ اگر اس دن فرعون کہہ دیتا یہ بچہ (موسیٰ) میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جس طرح تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسا کہ اس کی بیوی (آسیہ) نے کہا تھا تو اللہ پاک ضرور اس کو بھی ہدایت سے نواز دیتے جیسے اس کی بیوی کو نوازا تھا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی ہدایت سے محروم کر دیا گیا تھا اللہ نے اسے محروم ہی رکھا۔ فی المبتدا الاسحاق بن بشر، ابن عساکر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
فائدہ: فرمان عزوجل ہے:

وقالت امرات فرعون قرۃ عین لی ولک. القصص: ۹

اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ (یہ بچہ) میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

اس کے جواب میں فرعون نے کہا تھا کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لئے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ کیونکہ یہ بچہ میری بے ادبی تھی۔ بے ادب محروم ماند افضل رب
اس وجہ سے اللہ نے اس کی گستاخی کی بدولت اس کو ہدایت سے محروم کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں انبیاء و اولیاء کی بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔

۳۰۲۳ سورۃ لقمان۔ کیا تم جانتے ہو تمام نعمت کیا ہے؟ تمام نعمت (نعمت کی انتہاء) جنت کا داخلہ اور جہنم سے نجات ہے۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

نوٹ: حدیث ۲۹۲۰ پر یہ روایت گزر چکی ہے تفسیر وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

استغفار سے گناہ مٹ جاتا ہے

۳۰۲۴ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ﷺ سے سوال کیا: فرمان الہی: واسبع علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ (لقمان ۲۰) اور اللہ نے تم پر

اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا:
ظاہری نعمتیں تو اسلام اور تمہارا اچھا اخلاق اور خدا کا تمہیں دیا ہوا رزق ہے۔ جبکہ باطنی نعمتیں اے عباس کے فرزند! وہ ہیں کہ پروردگار نے تمہارے عیوب لوگوں سے پردہ میں رکھے۔ نیز یہ کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں: میں نے مومن کی وفات کے بعد اس کے مال کا ایک تہائی حصہ اس کے لئے چھوڑ دیا ہے (کہ وہ چاہے تو اس کو راہ خدا میں وصیت کر جائے) جس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ نیز پروردگار

فرماتے ہیں: میں مؤمن مردوں اور عورتوں کو اس کے لئے استغفار میں لگا دیتا ہوں اور اس کے ایسے ایسے گناہ چھپا لیتا ہوں کہ اگر اس کے گھر والوں کو بھی اس کا علم ہو جائے تو وہ اس کو چھوڑ دیں۔ (یہ خدا کی باطنی نعمتیں ہیں)۔

ابن مردویہ، شعب الایمان للبیہقی، الدیلمی، ابن النجار بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۰۲۵۔ (جبرئیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت دیگر صحابہ کرام بھی خدمت میں موجود تھے انہی کی تعلیم کے لئے حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ سے سوال کیا: یا رسول اللہ! مجھے قیامت کا بتائیے کب آئے گی؟ تو آپ ﷺ نے ذیل کا فرمان ارشاد فرمایا:

سبحان اللہ! یہ غیب کی پانچ چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا: ان اللہ عندہ علم الساعة، وینزل الغیث، ویعلم ما فی الارحام، وماندری نفس ما ذاتکسب غداً وماندری نفس بای ارض تموت ان اللہ علیم خبیر

لقمان: آخری آیت

خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بینہ برساتا ہے اور وہی (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ زہے یا مادہ) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی تنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک خدا ہی جانتے والا (اور) خبردار ہے۔

مذکورہ آیت تلاوت فرما کر آپ ﷺ نے جبرئیل علیہ السلام کو فرمایا: اگر تم جاہلو تو میں تم کو قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں نہ کہ حتی وقت۔ وہ یہ کہ تو بائیں کو دیکھے گا کہ وہ اپنے آقا کو جنے گی۔ (یعنی اولاد ماں پر یوں حکم چلائے گی گویا وہ ان کی باندی ہے نہ کہ ماں) اور تم بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اور تم گنلوں اور بھوکوں کو لوگوں کا سردار بننے دیکھو گے۔ پس یہ قیامت کی علامات اور اس کی نشانیاں ہیں۔ مسند احمد، مسند البزار بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسند احمد بروایت ابی عامر رضی

اللہ عنہ وابی مالک رضی اللہ عنہ، ابن عساکر بروایت ابن تمیم رضی اللہ عنہ

۳۰۲۶۔ بنی عامر کے ایک شخص نے حضور ﷺ سے بہت سے سوالات کئے پھر عرض کیا: کیا علم کی کوئی ایسی شے باقی ہے یا رسول اللہ! جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے؟ تب رسول اکرم ﷺ نے ذیل کا فرمان ارشاد فرمایا:

ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وماندری نفس ما ذاتکسب غداً وماندری

نفس بای ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. لقمان: آخری آیت

خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بینہ برساتا ہے اور وہی (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ زہے یا مادہ) اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا اور کوئی تنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک خدا ہی جانتے والا (اور) خبردار ہے۔

مسند احمد، عن رجل من بنی عامر

۳۰۲۷۔ سورۃ الاحزاب۔ یہ ایک پوشیدہ بات تھی اگر تم اس کے بارے میں سوال نہ کرتے تو میں تم کو نہ بتاتا، اللہ عزوجل نے دو فرشتے مجھ پر مقرر فرمائے ہیں۔ کسی بھی مسلمان بندے کے پاس میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ بندہ مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ دو فرشتے اس سے کہتے ہیں: اللہ تیری مغفرت کرے اور اللہ اور دوسرے فرشتے ان دو فرشتوں کو کہتے ہیں: آمین۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت حکم بن عبد اللہ بن خطاب عدا مانیس بنت الحسین بن علی عن ابیہ

فائدہ: فرمان الہی ہے:

ان اللہ وملائکة یصلون علی النبی. الاحزاب ۵۶

اللہ اور اس کے فرشتے نبی (ﷺ) پر درود بھیجتے ہیں۔

اس آیت کے متعلق صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے سوال کیا تھا۔ جس کے بارے میں آپ ﷺ نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۳۰۲۸۔ سورۃ سنا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی امر (کام) کو وحی فرمانا چاہتے ہیں تو اس کا کلام کرتے ہیں پس جب پروردگار (وحی کا) کلام

فرماتے ہیں تو آسمانوں پر سخت پکپی طاری ہو جاتی ہے بوجہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے۔ اور جب آسمان والے اس کلام کو سنتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر (ہوش میں آنے کے بعد) سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے حضرت جبرئیل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ ان کو وحی فرماتے ہیں۔ جبرئیل اس وحی کو لے کر فرشتوں کے پاس آتے ہیں۔ جس جس آسمان پر ان کا گزر ہوتا ہے اس کے اہل جبرئیل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں: ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ اے جبرئیل! جبرئیل علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہ نے حق کہا اور وہ بلند شان والی بڑی ذات ہے۔ چنانچہ تمام فرشتے جبرئیل علیہ السلام کی طرح ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں۔ پھر جبرئیل علیہ السلام اس حکم کو لے کر آسمان وزمین میں جہاں کا حکم ہوتا ہے لے کر جاتے ہیں۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ فی العظمة، ابن مردویہ، البیهقی فی الاسماء والصفات، الطبرانی فی الکبیر بروایت نواس بن سمان فائدہ: فرمان الہی ہے:

یعلم ما یلیج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل السماء وما یخرج فیها وهو الرحیم الغفور۔ سورہ ساء ۶۰
جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔

وما ینزل من السماء اور جو آسمان سے اترتا ہے یعنی کائنات میں تصرف کے حوالہ سے ہر حکم خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے اسی کے متعلق مذکورہ حدیث میں تشریح بیان کی گئی ہے۔

سلیمان علیہ السلام کے سامنے درخت اگنا

۳۰۲۹ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی اپنے جائے نماز میں کھڑے ہوتے اپنے آگے ایک نیا درخت اگا دیکھتے۔ آپ اس سے پوچھتے تیرا نام کیا ہے؟ وہ عرض کرتا: یہ نام ہے۔ آپ دریافت فرماتے: کس چیز کے لئے تم پیدا کئے گئے ہو؟ درخت کہتا: فلاں فلاں کام کے لئے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔

چنانچہ اگر وہ دوا کے لئے استعمال کا ہوتا تو اس کے لئے لکھ لیتے اور اگر اگانے کے لئے ہوتا تو اس کو اگا لیتے۔ یونہی ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے کہ سامنے ایک نیا درخت دیکھا آپ نے اس کا نام پوچھا تو اس نے خرئوب بتایا۔ آپ نے پوچھا تم کس کام کے لئے پیدا ہوئے ہو؟ درخت نے عرض کیا: اس گھر کو ویران اور خراب کرنے کے لئے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التجا کی۔ اے اللہ! میری موت کو جنوں پر نغنی رکھ! تاکہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ جن غیب کا علم نہیں جانتے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس درخت میں سے لاشی بنائی اور اس پر ٹیک لگائی۔ (اور آپ کی روح قبض ہو گئی) پھر دیمک نے آپ کی لاشی اندر سے کھوکھی کر دی اور اس میں ایک سال کا عرصہ لگ گیا پھر لاشی ٹوٹی اور آپ کا لاشہ زمین پر گرا۔ تب انسانوں کو معلوم ہوا کہ جن اگر غیب کا علم جانتے تو ایک سال تک کام کی مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ چنانچہ جنوں نے دیمک کا شکر ادا کیا۔ پس اسی شکرانہ میں جن لیکے پاس پانی پہنچاتے ہیں جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔

مستدرک الحاکم، ابن السنی، الطب لابی نعیم، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

فائدہ: خرئوب اور خروب کاٹے دار سیب کے درخت کی مانند ایک درخت ہے جس پر سینگوں کی طرح کے بد مزہ پھل لگتے ہیں۔ اس کے پتے ہمیشہ رہتے ہیں۔ جانوروں کے چارے کے لئے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں یہ درخت پایا جاتا ہے۔ کتب تقاسیر میں اس قسم کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔

کلام: روایت ضعیف ہے دیکھئے الضعیفۃ ۱۰۳۳۔

۳۰۳۰ سباز مین کا نام ہے اور نہ کسی عورت کا۔ سباعرب کا ایک مرد تھا جس کی دس نرینہ اولاد تھی۔ چھان میں سے صاحب برکت اور سعادت

مند نکلے اور چار بد بخت۔ المعجم الکبیر، مستدرک الحاکم

فائدہ:..... اس کی تشریح دوسری روایات میں یوں آئی ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا: یا رسول اللہ! ہمیں سہا کا تابیے (جس کے نام پر قرآن کی سورت ہے) کہ وہ کیا شئی ہے؟ کوئی زمین ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ تب آپ ﷺ نے فرمایا: مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا۔

مسند احمد، عبد بن حمید، الكامل لابن عدی، مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، الطبرانی فی الکبیر بروایت

یزید بن حصین السلمی

۳۰۳۱ سورہ فاطر۔ فرمان الہی ہے:

ثم اورثنا الکتب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات
بإذن اللہ. فاطر: ۳۲

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ روی اور کچھ خدا کے حکم سے نیکوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔

(آخری قسم) آگے نکل جانے والے وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اور (درمیانی قسم) میانہ روہ لوگ ہیں جن سے آسان حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے (پہلی قسم) وہ لوگ ہیں جو محشر میں آخر تک روکے جائیں گے۔ آخر میں پروردگار اپنی رحمت کے ساتھ ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پس یہی لوگ ہیں جو کہیں گے:

الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دارالمقامۃ من فضلہ لایمسنا فیہا

نصب و لایمسنا فیہا لغوب. فاطر: ۳۲، ۳۵

تمام تبریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا (اور) قادر دان ہے۔ جس نے اپنے فضل سے ہم کو ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تھکان ہی ہوگی۔

مسند احمد، بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

دیدار الہی کا ذکر

۳۰۳۲ سورہ یس۔ (روزمرہ کی طرح) اہل جنت اپنی عیش و عشرت میں مصروف ہوں گے کہ اچانک نور روشن ہوگا۔ وہ اپنا سراٹھا سکیں گے تو دیکھیں گے کہ پروردگار اوپر سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ پروردگار فرمائیں گے: السلام علیکم یا اہل الجنة۔ یہی پروردگار کا فرمان ہے:

سلام قولاً من رب رحیم. یس: ۵۸

پروردگار مہربان کی طرف سے سلام۔

پس پروردگار ان کو دیکھیں گے اور کسی نعمت کی طرف ذرہ بھر التفات نہ کریں گے۔ مسلسل وہ دیدار الہی کرتے رہیں گے۔ حتیٰ کہ پروردگار فرمائیں گے۔ اور پروردگار باقی رہے گا اور اس کی برکتیں اہل جنت کے گھروں میں رہیں گی۔ اس صحاحہ، نسائی، ابن ابی الدنیا فی صفۃ اہل

الجنة الشریعة لابن ابی حاتم و الاحمری، ابن مردویہ، السنن لسعید بن منصور بروایت جابر رضی اللہ عنہ

کلام:..... روایت ضعیف ہے۔ دیکھئے: ضعیف ابن ماجہ ۳۳۔ مع اختلاف یسیر فی ترتیب الموضوعات ۱۱۴۲، ۱۱۴۵، التقریب ۳۸۴۲۔ القدسیہ

۶۲۔ الآلی ۲۶۰۲۔

۳۰۳۳ سورۃ الصافات۔ جو شخص کسی کو کسی کام کی دعوت دے گا وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہرگز جدا نہ ہوگا (جب تک

اس دعوت کے بارے میں سوال نہ کر لے) پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: وَقَفَوْهُمِ انْهَمِمْ مَسْتَوْلُونَ. الصافات: ۲۳۔ اور ان کو ٹھہرائے رکھ ان سے (کچھ) پوچھنا ہے۔ الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ
 ۳۰۳۴۔ جو کسی کو کسی چیز کی طرف بلائے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ کھڑا رہے گا اور اس سے جدا نہ ہوگا خواہ کسی نے کسی کو بھی بلایا ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَقَفَوْهُمِ انْهَمِمْ مَسْتَوْلُونَ. البخاری فی التاریخ، سنن الدارمی، ترمذی غریب، مستدرک الحاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ
 کلام: روایت ضعیف ہے دیکھئے، ضعیف الترمذی ۶۳۲۔ ضعیف الجامع ۵۱۷۰۔

۳۰۳۵۔ سورہ ص۔ الاواب یعنی خدا کی طرف رجوع کرنے والا وہ شخص ہے جو بیت الخلاء میں (بھی) اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے پس اللہ اس کی مغفرت فرمادیتے ہیں۔ مسند الدیلمی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
 ۳۰۳۶۔ اذواذ علیہ السلام نے اس مقام پر توبہ کے لئے سجدہ کیا تھا اور ہم اس مقام پر سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔

القدیم للشافعی بروایت عمر بن ذر عن ابیہ مرسلًا

فائدہ: سورہ ص میں آیت ۲۴ پر سجدہ ہے اسی کے متعلق فرمایا کہ یہ سجدہ شکر ہے اور اس مقام پر سجدہ کرنا واجب ہے۔
 کلام: ضعف الدارقطنی ۳۵۵۔

۳۰۳۷۔ تم نے اچھا دیکھا ہے اور اچھا ہی ہوگا تمہاری آنکھ سو گئی اور (اب) نبی کی توبہ کو یاد کرو۔ اور تم اس کے ساتھ مغفرت تلاش کرو۔ اور ہم بھی تمہارے لئے اسی شے کی جستجو کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو۔ ابن السنی فی عمل الیوم والیلة بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

کافر کے اعمال صالحہ کا بدلہ

۳۰۳۸۔ سورہ غافر۔ جس کسی مسلمان یا کافر نے کوئی اچھائی اور نیکی کی ہوگی اللہ پاک اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کافر کو کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا: اگر اس نے صلہ رحمی کی ہوگی یا کوئی صدقہ کیا ہوگا یا کوئی بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اللہ پاک اس کو اس کے بدلہ میں مال، اولاد، صحت و تندرستی اور اس طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا پھر آخرت میں اس کو کیا بدلہ ملے گا؟ فرمایا: عذاب در عذاب۔

پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

ادخلوا آل فرعون اشد العذاب سورہ غافر المؤمن ۴۶۔
 فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔

مستدرک، شعب للبیہقی، الخمر ائطی فی مکارم، ابن شاہین بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۰۳۹۔ سورہ السجدہ۔ پہلے لوگوں نے (کلمہ ایمان) کہہ لیا۔ پھر ان میں سے اکثر نے کفر کیا۔ پس جو اسی کلمہ پر مر اور ثابت قدم رہا وہ صاحب استقامت لوگوں میں سے ہے۔ ترمذی غریب، نسائی بروایت انس رضی اللہ عنہ
 نوٹ: گذشتہ صفحات میں ۲۹۲۶ رقم الحدیث پر یہی روایت گزر چکی ہے تشریح و فائدہ اس مقام پر ملاحظہ فرمائیں۔
 کلام: روایت ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۴۷۹۔

۳۰۴۰۔ سورہ الشوریٰ۔ اے عثمان تم سے پہلے کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا۔ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا تھا کہ لہ مقالید السموات والارض (الشوریٰ ۱۲۰) آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اس کی کیا تفسیر ہے؟ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا) اس کی تفسیر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمده استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ الاول والاخر

والظاہر والباطن بیدہ الخیر یحی و یمیت وهو علی کل شیء قدیور۔ (بے یعنی آسمانوں اور زمین کی کنجیاں یہی ہیں) اے عثمان! صبح و شام جس شخص نے یہ کلمات دس دس مرتبہ کہہ لئے اللہ پاک اس کو چھ حصلیں عطا فرمائے گا۔ پہلی یہ کہ ابلیس اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ دوسری ایک قطار اس کو اجر مرحمت فرمائے گا (یعنی ہزار اوقیہ)۔ تیسری خصلت یہ کہ جنت میں اس کا درجہ بڑھا دیا جائے گا۔ چوتھی یہ کہ حور عین سے اس کی شادی کروادی جائے گی۔ پانچویں یہ کہ موت کے وقت بارہ ہزار فرشتے اس کے استقبال کے لئے حاضر ہوں گے۔ چھٹی خصلت یہ کہ اللہ پاک اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے گویا اس نے قرآن، تورات، انجیل اور زبور سب کی مکمل تلاوت کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا ایسے حج و عمرہ کا جو بارگاہ خدا میں قبول کر لئے گئے ہوں۔ پس اگر وہ اس دن مرا تو شہداء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔

یوسف القاضی فی سننہ، مسند ابی یعلی، الضعفاء للعقلی، ابن ابی لیلة، ابن مردویہ، نسائی فی الاسماء بروایت عثمان رضی اللہ عنہ کلام:..... مصنف فرماتے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع روایات میں شمار کیا ہے۔ اور یہ غیر تسلیم شدہ امر ہے۔ ۳۰۴۱ سورہ دخان۔ ہر مومن کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کا عمل آسمان پر چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔

پس جب بندہ مومن وفات پا جاتا ہے تو دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ یہی اس فرمان باری کا مطلب ہے:

فما بکت علیہم السماء والارض۔ سورہ دخان: ۲۹

پھر نہ تو آسمان ان پر روتا نہ زمین۔ ترمذی، غریب ضعیف بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:..... امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کو غریب اور ضعیف قرار دیا ہے۔ لہذا یہ غیر مستند ہے۔

۳۰۴۲ سورہ الاحقاف۔ قوم عاد جس ہوا سے ہلاک ہوئے وہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ان پر صرف انگٹھی کے بقدر چھوڑی تھی۔ اس ہوائے قوم عاد کے اہل دیہات اور ان کے مویشیوں کو اٹھایا اور زمین و آسمان کے درمیان لے گئی۔ پس جب قوم عاد کے شہروالوں نے اپنے اوپر بھرا ہوا بادل دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر پانی برسائے گا۔ لیکن ہوانے ان پر دیہات والوں کو اور ان کے مویشیوں کو اٹھا کر پھینکا (اور اہل دیہات اور اہل شہر سب کو نیست و نابود کر دیا)۔ مسند ابی یعلی، الکبیر للطبرانی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ نوٹ:..... سورہ الاحقاف ۲۱ تا ۲۶ ایک پورا رکوع اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تفاسیر میں رجوع فرمائیں۔

۳۰۴۳ سورہ محمد۔ ہر بندہ کے چہرہ پر دو آنکھیں ہیں جن سے وہ دنیا کے معاملات کو دیکھتا ہے اور دو آنکھیں دل میں ہیں جن سے وہ آخرت کو دیکھتا ہے۔ لہذا جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمالتے ہیں تو اس کے دل کی دونوں آنکھیں کھلوا کر دیتے ہیں۔ پس وہ ان غائب کی چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے جن کا اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔

چنانچہ وہ غیب پر غیب کے ساتھ ایمان لے آتا ہے۔ اور اگر خدا کو اس کے ساتھ بھلائی منظور نہ ہوتی تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

ام علی قلوب افعالہا۔ سورہ محمد: ۲۲

یا (ان کے) دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ مسند الدیلمی عن معاذ رضی اللہ عنہ

کلام:..... روایت ضعیف ہے کیونکہ مسند الفردوس علامہ ردیلمی کی ضعیف روایات کا مجموعہ ہے۔

۳۰۴۴ سورہ الحجرات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم

لوگواہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کرو (اور) خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
پس کسی عربی کو کسی بھی پر فضیلت نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے مگر تقویٰ کے ساتھ۔ اے گروہ قریش! تم دنیا کو کانڈھے پر لادے ہوئے نہ آنا کہ اور لوگ آخرت کو لے کر آئیں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت عداد بن خالد

فائدہ: عداد بن خالد مقام رنج میں وفات پانے والے آخری صحابی رسول ہیں۔ اللہ پاک ہم کو تقویٰ کے ساتھ برتری عطا فرمائے۔ آمین۔

۳۰۴۵ سورہ طور۔ اللہ تعالیٰ مؤمن کی اولاد کو بھی مؤمن تک بلند فرمادیں گے حتیٰ کہ اس کے درجہ میں اولاد کو بھی جگہ عطا فرمادیں گے۔ خواہ اس سے عمل میں کم تر کیوں نہ ہو۔ تاکہ اس طرح مؤمن کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ مسند الفردوس للدیلمی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما
فائدہ: یہ روایت اگرچہ مسند الدیلمی کی ہے لیکن قرآن پاک سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے فرمان الہی ہے:

والذین امنوا و اتبعتہم ذریعتہم بایمان الحقناہم ذریعتہم وما اللہ یمنہم من شیء۔ الطور: ۲۱

”اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی (راہ) ایمان میں ان کے پیچھے چلی ہم ان کی اولاد کو بھی (ان کے درجے) تک پہنچادیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کی نہ کریں گے۔“

بڑی آنکھوں والی حور

۳۰۴۶ سورہ الرحمن۔ ”حور“ جنتی حور گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی، اس کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید اور سیاہی انتہائی ہوگی۔ بڑی بڑی پلکیں یوں ہوں گی گویا باز کے پروہ یوں صاف شفاف چمکتی ہوں گی گویا صدف میں موتی جس کو ابھی کسی نے چھوا تک نہ ہو۔

وہ ”خیرات حسان“ ہیں (نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں) ہیں جو عمدہ اخلاق کی مالک ہیں۔ ایسے خوبصورت چہروں کی مالک ہیں گویا چھپا کر رکھے گئے انڈے۔ اور ان کی کھال ایسی نازک اور پتلی ہوگی جیسے انڈے کے اندر کی جھلی۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
۳۰۴۷ گویا وہ (حوریں) یا قوت اور مرجان ہیں۔ ان کے چہرے آئینوں سے زیادہ صاف شفاف ہوں گے جن میں چہرہ دیکھا جاسکے ان پر کم تر سے کم تر موتی جو ہوگا وہ مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا۔ ایک حور پر ستر ستر لباس ہوں گے۔ لیکن ایسے نفیس کہ نظر ان سب میں سے گزر کر اس کی پنڈلی کے گودے تک پہنچے گی۔ مستدرک بروایت امی سعید خدری رضی اللہ عنہ

۳۰۴۸ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان (رحمن ۶۰)۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ کیا تم جانتے ہو تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے جس پر ہم نے تو حید کے ساتھ انعام فرمایا اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ ابو نعیم والدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ
۳۰۴۹ اللہ عزوجل نے سورہ الرحمن میں یہ آیت اجمالاً نازل فرمائی تھی، کافر اور مسلمان دونوں کے لئے

ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابو الشیخ، ابن مردویہ، شعب الایمان للبیہقی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: روایت ضعیف ہے دیکھئے ذخیرۃ الحفاظ ۶۹۔

۳۰۵۰ سورہ الواقعة: اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو دو قسموں میں پیدا کیا ہے اور مجھے ان دونوں میں سے اچھی قسم میں شامل فرمایا ہے۔ پس فرمان باری تعالیٰ میں انہی دو اقسام کی طرف اشارہ ہے:

اصحاب الیمین واصحاب الشمال الواقعة

دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔

چنانچہ میں اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں۔ اور داہنے ہاتھ والوں میں سے بھی بہترین لوگوں میں سے ہوں۔ اسی طرح پروردگار سبحانہ و تعالیٰ نے گھروں کی بھی دو قسمیں بنائی ہیں اور مجھے ان میں سے اچھے گھر والا بنایا ہے۔ فرمان الہی ہے:

واصحاب الیمینۃ ما صاحب الیمینۃ واصحاب المشئمۃ ما صاحب المشئمۃ والسابقون السابقون

سورة الواقعة ۸۰

تو داہنے ہاتھ والے (سبحان اللہ) داہنے ہاتھ والے کیا (ہی چین میں) ہیں اور بائیں ہاتھ والے (افسوس) بائیں ہاتھ والے کیا (گرفتار عذاب) ہیں۔ اور آگے بڑھنے والے ہیں (ان کا کیا ہی کہنا) وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔

پس میں سابقین میں سے بہتر ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو قبائل میں تقسیم فرمایا۔ چنانچہ مجھے بہترین قبیلہ کا فرد بنایا۔ اور وہ یہ فرمان

الہی ہے

وجعلناکم شعوبا وقبائل حجرات ۱۳۰

اور ہم نے تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے۔

سو میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ صاحب التقویٰ ہوں۔ اور خدا کے ہاں سب سے زیادہ مکرم ہوں لیکن مجھ کو اس پر کوئی بڑائی مطلوب نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قبائل کو گھروں میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین گھر والا بنایا۔ فرمان باری عز اسمہ ہے:

انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم تطہیرا الاحزاب ۲۳

اے (رسول کے) گھر والو! خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی (میل پچیل) دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔

الطبرانی فی الکبیر، ابن مردویہ، ابو نعیم والبیہقی فی الدلائل بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

جنتی فرش کی اونچائی

۳۰۵۱ قسم ہے اس پاک پروردگار کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے جنتی فرش کی اونچائی ایسے ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ۔ اور آسمان و زمین کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔

مسند احمد، مسلم، اہل نحد میں مسلم کا حوالہ ہے لیکن منتخب میں نہیں ہے۔ ترمذی، غریب، نسائی، مسند ابی یعلیٰ، صحیح ابن حبان، العظمت لابی

الشیخ، البیہقی فی البعث، ابن ماجہ الضیاء المقدسی بروایت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ

فائدہ: فرمان الہی ہے و فرش مرفوعة جنتی بلند ہوں گے۔ اس آیت کی تشریح میں یہ حضور ﷺ کا فرمان ہے۔ ۲۹۲۷ رقم الحدیث پر یہ وضاحت گزر چکی ہے۔

کلام: ضعیف الجامع ۶۱۰۹ پر روایت پر کلام کیا گیا ہے۔ لہذا یہ روایت محل کلام ہے۔

۳۰۵۲ اگر جنتی فرش کی بلندی سے کوئی شے کرائی جائے تو نیچے تک سو سال میں پہنچے گی۔ الطبرانی فی الکبیر بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام: دیکھیے ضعیف الجامع ۲۸۲۶۔

۳۰۵۳..... فرمان الہی ہے: فی سدر مخصود (واقعة) بغیر کانوں کی بیری (میں وہ عیش کریں گے) اللہ تعالیٰ اس کے کانوں کو ختم فرما دیں

گے۔ اور ہر کانے کی جگہ پھل پیدا فرما دیں گے۔ وہ بیری ایسے پھل اگائیں گی کہ ہر پھل میں بہتر بہتر ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے ذائقے

سے مختلف ہوگا۔ مستدرک الحاکم، البعث للبیہقی بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۰۵۴..... سورة الانطار۔ جب اللہ تعالیٰ کسی جان کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں تو آدمی عورت سے جماع کرتا ہے۔ پس اس شخص کا پانی اس کی ہر رگ

اور پٹھے میں پہنچ جاتا ہے۔ جب ساتواں دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو عورت میں جمع فرماتے ہیں پھر اس کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان تمام پرکھوں کی رگوں کو حاضر کرتے ہیں پھر فی ائی صورتہ ماشاء ربک (الانفطار) جس صورت میں چاہتے ہیں اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ آدم علیہ السلام تک اپنے کسی نہ کسی باپ دادے وغیرہ کی شکل سے مشابہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر قریمی باپ دادا بہن بھائی وغیرہ کی شکل پر ہوتا ہے ورنہ اوپر کسی نہ کسی کے مشابہ ہوتا ہے جو والدین کے علم میں نہیں ہوتا۔

الطبرانی فی الکبیر، ابو نعیم فی الطب بروایت مالک بن الحویرث

۳۰۵۵۔ نطفہ جب رحم ماڈ میں ٹھہر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے اور آدم علیہ السلام کے درمیان کے تمام نمبوں کو حاضر فرماتے ہیں اور پھر ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت میں اس کو پیدا فرمادیتے ہیں۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی:

فی ای صورتہ ماشاء ربکک جس صورت میں چاہا اس کو ترکیب دیا۔ بخاری فی التاریخ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن شاہین، ابن

قانع، الباوردی، الطبرانی فی الکبیر، ابن مردویہ بروایت موسیٰ بن علی بن رباح عن ابیہ عن جدہ

۳۰۵۶۔ سورۃ المطففین۔ اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ المطففین

وہ لوگ اٹھائے جائیں گے ایک عظیم دن (میں پیشی) کے لئے۔ جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔

تمہارا یہ سوال کہ لوگ رب العالمین کے حضور (کننے عرصے) کھڑے ہوں گے اور مومن کو اس مقام پر کیا مشقت پیش آئے گی تو جان لو کہ قیامت کے دن ایک ہزار سال تک تو کسی کو (خدا سے بولنے اور وہاں سے لٹنے کی) اجازت نہیں ہوگی۔ پھر مومن کی دو قسمیں ہیں مؤمنین سابقین تو ان دو شخصوں کی طرح ہیں جو آپس میں سرگوشی کرنے لگیں اور ان کی بات چیت لمبی ہو جائے پھر وہ مکر جنت میں داخل ہو جائیں۔

جنت اور جہنم کے درمیان ایک حوض ہے اس کے کنارے ایک طرف جنت پر ہیں اور دوسری طرف جہنم پر۔ اس حوض کی لمبائی اور چوڑائی ایک ایک ماہ کی مسافت کے بقدر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حوض میں چاندی اور نیشوں کے پیالے ہیں۔ جو شخص اس حوض سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا وہ پیاس محسوس کرنے کا اور نہ بھوک حتیٰ کہ بندوں کے درمیان حساب کتاب ہو کر فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ المعجم الکبیر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

مؤمن کی بیماری دفع درجات کا سبب ہے

۳۰۵۷۔ سورۃ الانشقاق۔ اے عائشہ! کیا نہیں جانتی کہ مؤمن کو جو تکلیف پہنچتی ہے جو کاٹا لگتا ہے پس اس سے اس کے برے عمل کو معاف کر دیا جاتا ہے اور جس سے حساب کیا گیا وہ گرفتار عذاب ضرور ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے:

فسوف یحاسب حساباً یسیراً۔ الانشقاق

پس عنقریب آسان حساب کتاب لیا جائے گا؟

آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو صرف پیشی ہوگی اے عائشہ اور نہ جس سے بھی حساب ہو وہ مبتلائے عذاب ضرور ہو گیا۔

ابوداؤد بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۰۵۸۔ مؤمن کو اس کے اپنے برے عمل کے بدلے مرض، مشقت اور مصیبت دی جاتی ہے (تاکہ اس کے برے عمل معاف ہو جائیں)۔ اے عائشہ! قیامت کے دن جس شخص سے بھی حساب لیا گیا وہ عذاب میں پکڑا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے:

یحاسب حساباً یسیراً

اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ فرمایا یہ صرف (خدا کے سامنے) پیشی (اور حضوری) ہے۔ ورنہ جس سے پوچھ گچھ کی گئی وہ عذاب میں جکڑ لیا گیا۔ ابن جریر بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۰۵۹ کیا تو جانتی ہے یہ حساب کیا ہے؟ جس سے حساب کتاب میں پوچھ گچھ اور تفتیش کی گئی وہ خدا کے سامنے مورد الزام ٹھہر گیا۔

مستدرک الحاکم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں دعا کر رہی تھی: اے اللہ مجھ سے آسان حساب کیجئے گا! اسی دوران رسول اللہ ﷺ کا میرے پاس سے گذر ہوا۔ (تو میری دعا سن کر مذکورہ ارشاد صادر فرمایا)

۳۰۶۰ سورۃ الفجر تمہاری موت کے وقت فرشتہ اس آیت کو کہے گا۔ الحکیم بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی:

يا ايها النفس المطمئنة... الفجر

تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ آیت کس قدر عمدہ ہے!!! تو آپ ﷺ نے مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا۔

۳۰۶۱ سورۃ الشمس - اذ انعت اشقاها (الشمس) جب اس قوم کا ایک سرکش، بدخوا اور ذلیل انسان اپنی زمعہ کی طرح کا کھڑا ہوا (اور اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں)۔ (مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی بروایت عبد اللہ بن زمعہ، اصل نسخہ میں عبد اللہ بن ابی ربیعہ ہے) صالح علیہ السلام کی اونٹنی (کو مار ڈالنے) کے لئے اپنی قوم کا ایک بڑا اور سرکش انسان ابو زمعہ کی طرح کا آگے بڑھا۔

بخاری بروایت عبد اللہ بن زمعہ

۳۰۶۳ سورۃ الم نشرح۔ اگر مشکل اور تنگی ایک سوراخ میں ہو تو اس میں آسانی اور کشادگی بھی ضرور داخل ہوگی حتیٰ کے اس تنگی کو نکال دے گی۔ پھر آپ ﷺ نے تلاوت فرمائی:

ان مع العسر يسرا (الم نشرح) بے شک تنگی کے ساتھ آسانی (بھی) ہے۔

المعجم الكبير، ابن مردويه بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

کلام: الاتقان ۱۵۰۸ - ضعیف الجامع ۲۸۳۴ - ضعیف ہے۔

۳۰۶۴ العاديات - کیا تم جانتے ہو الکنو د کیا ہے وہ رب کا ناشکر ہے۔ جو کہیں بھی اکیلا رہتا ہے، اپنے ساتھ والوں سے نکل کر رہتا ہے، اپنا اوج (شکم) بھرتا ہے اور اپنے غلام کو بھوکا پیٹ رکھتا ہے۔ مصیبت میں قوم (کی مدد نہیں کرتا اور ان) کو کچھ دیتا نہیں ایسے لوگوں میں سے ایک ولید بن مغیرہ بھی ہے۔ مسند الفردوس للذہبی بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۰۶۵ سورۃ النصر - اے ابن مسعود (اس سورت میں) مجھے اپنی موت کی خبر سنائی گئی ہے۔ مسند احمد بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فائدہ: سورۃ نصر آخری نازل ہونے والی آیات میں سے ہے جس کا مضمون حضور علیہ السلام کو آپ کے سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ کیونکہ جب افواج کی افواج لوگ مسلمان ہونے لگے اور مکہ فتح ہو گیا اور لوگوں کو خدا سے روشناس کرا دیا گیا تو آپ کو حکم ملا کہ بس اب خدا کی طرف رجوع کرو اور بقیہ اوقات توبہ و استغفار میں صرف کرو۔

تفسیر کے ذیل میں۔

ازالاکمال

۳۰۶۶ قرآن تین جگہ نازل ہوا ہے۔ مکہ، مکہ مدینہ اور شام۔ ابن عساکر بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

فائدہ: زیادہ تر قرآن پاک مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا شام میں صرف اس وقت نازل ہوا ہے جب آپ ﷺ نے بغرض جہاد تبوک کا سفر

کیا تھا اور شام تشریف لے گئے تھے۔

۳۰۶۷ مجھ پر تین مقامات میں قرآن نازل کیا گیا: مکہ مدینہ اور شام۔ یعقوب بن سفیان، ابن عساکر بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

پانچویں فصل

ملحق باب۔ اس میں تین فروع ہیں۔

پہلی فرع..... قرأت سب سے بیان میں

۳۰۶۸ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے ایک حرف پر قرآن پڑھایا تھا۔ پھر میں نے ان سے رجوع کیا اور مزید حرفوں کا تقاضا کرتا رہا اور وہ بڑھاتے رہے حتیٰ کہ سات حرفوں تک پہنچ گئے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
فائدہ:..... سات حرفوں سے کیا مراد ہے اس میں انتہائی زیادہ اختلافات ہیں۔ ان میں سے اکثر اختلافات تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب علوم القرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر راجح ترین قول کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جس کو ہم ذیل میں من و عن بغیر کسی ترمیم کے نقل کرتے ہیں۔ جزاہ اللہ عنا خیر الجزاء

”سب سے احرف“ کی راجح ترین تشریح

ہمارے نزدیک قرآن کریم کے ”سات حروف“ کی سب سے بہتر تشریح اور تعبیر یہ ہے کہ حدیث میں ”حروف کے اختلاف“ سے مراد ”قراءتوں کا اختلاف“ ہے اور سات حروف سے مراد ”اختلاف قرأت“ کی سات نوعیتیں ہیں، چنانچہ قراءتیں تو اگرچہ سات سے زائد ہیں، لیکن ان قراءتوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ سات اقسام میں منحصر ہیں، (ان سات اقسام کی تشریح آگے آرہی ہے)۔
ہمارے علم کے مطابق یہ قول متقدمین میں سے سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ملتا ہے، مشہور مفسر قرآن علامہ نظام الدین فی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر غرائب القرآن میں لکھتے ہیں کہ احرف سب سے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب منقول ہے اس سے مراد قراءت میں مندرجہ ذیل سات قسم کے اختلافات ہیں:

- ۱ مفرد اور جمع کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں لفظ مفرد آیا ہو اور دوسری میں صیغہ جمع، مثلاً و تمت کلمۃ ربک، اور کلمات ربک۔
- ۲ تکویر و تانیث کا اختلاف، کہ ایک میں لفظ مذکر استعمال ہو اور دوسری میں مؤنث جیسے لایقبل اور لا تقبل۔
- ۳ وجوہ اعراب کا اختلاف، کہ زیر بر و غیرہ بدل جائیں۔ مثلاً هل من خالق غیر اللہ اور غیر اللہ
- ۴ صرفی ہیئت کا اختلاف، جیسے یعرضون اور یعرضون۔
- ۵ ادوات (حروف نحویہ) کا اختلاف، جیسے لکن الشیاطین اور لکن الشیاطین۔
- ۶ لفظ کا ایسا اختلاف جس سے حروف بدل جائیں، جیسے تعلمون اور یعلمون اور نشزھا اور نشزھا،
- ۷ لہجوں کا اختلاف، جیسے تخفیف، حیم، امالہ، مد، تصر، اظہار اور ادغام وغیرہ۔

النیشاپوی رحمۃ اللہ علیہ: غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ہاش ابن جرییر، ص ۲۱ ج ۱ المطبعة المیمنة مصر
پھر یہی قول علامہ ابن تہیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابوبکر بن الطیب باقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور محقق ابن الجزری رحمہم اللہ نے اختیار فرمایا ہے (ابن تہیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، فتح الباری،

ص ۲۵، ۲۶ ج ۹، اور اتقان ص ۴۷ ج ۱ میں موجود ہیں۔ اور قاضی ابن الطیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول تفسیر القرطبی رحمۃ اللہ علیہ ص ۴۵ ج ۱ میں دیکھا جاسکتا ہے (محقق ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جو قرأت کے مشہور امام ہیں اپنا یہ قول بیان کرنے سے قبل تحریر فرماتے ہیں:

”میں اس حدیث کے بارے میں اشکالات میں مبتلا رہا، اور اس پر تیس (۳۰) سال سے زیادہ غور و فکر کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کی ایسی تشریح کھول دی جو ان شاء اللہ صحیح ہوگی۔“ - النشر فی القراءات العشر، ص ۲۶ ج ۱

یہ سب حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث میں ’سات حروف‘ سے مراد اختلاف قرأت کی سات نوعیتیں ہیں، لیکن پھر ان نوعیتوں کی تعیین میں ان حضرات کے اقوال میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے قرأت کا استقراء اپنے طور پر الگ کیا ہے، ان میں جن صاحب کا استقراء سب سے زیادہ منضبط مستحکم اور جامع و مانع ہے، وہ امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ قرأت کا اختلاف سات اقسام میں منحصر ہے:

۱... اسما کا اختلاف، جس میں افراد، تشنیہ و جمع اور تذکیر و تانیث دونوں کا اختلاف داخل ہے، (اس کی مثال وہی تمت کلمۃ ربک ہے، جو ایک قرأت میں تمت کلمات ربک بھی پڑھا گیا ہے)۔

۲... افعال کا اختلاف، کہ کسی قرأت میں صیغہ ماضی ہو، کسی میں مضارع اور کسی میں امر (اس کی مثال ربنا باعد بین اسفارنا ہے کہ ایک قرأت میں اس کی جگہ ربنا بعد بین اسفارنا بھی آیا ہے)۔

۳... وجوہ اعراب کا اختلاف، جس میں اعراب یا حرکات مختلف قرأتوں میں مختلف ہوں (اس کی مثال ولا یضار کاتب اور لا یضار کاتب اور ذوالعرش المجید اور ذوالعرش المجید)۔

۴... الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ کم اور دوسری میں زیادہ ہو (مثلاً ایک قرأت میں وما خلق الذکر والانثیٰ ہے اور دوسری میں والذکر والانثیٰ ہے اور اس میں وما خلق کاللفظ نہیں ہے، اسی طرح ایک قرأت میں تجری من تحتہ الانہر اور دوسری میں تجری تحتہ الانہر)

۵... تقدیم و تاخیر کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں کوئی لفظ مقدم اور دوسری میں موخر ہے (مثلاً و جاءت سکرۃ الموت بالحق اور جاءت سکرۃ الحق بالموت)

۶... بدلیت کا اختلاف، کہ ایک قرأت میں ایک لفظ ہے اور دوسری قرأت میں اس جگہ دوسرا لفظ (مثلاً ننشزھا اور ننشزھا، نیز فیتینوا، فیتینوا اور طلع اور طلح)

۷... لہجوں کا اختلاف، جس میں تعجیم، ترقیق، امالہ قصر، مد، ہمر، اظہار اور ادغام وغیرہ کے اختلافات شامل ہیں۔ الفتح الباری ص ۲۳ ج ۹ (مثلاً، موسیٰ ایک قراءت میں امالہ کے ساتھ ہے، اور اسے موسیٰ کی طرح پڑھا جاتا ہے، اور دوسری میں بغیر امالہ کے ہے)۔

علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابوطیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ وجوہ اختلاف بھی اس سے ملتی جلتی ہیں، البتہ امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ کا استقراء اس لئے زیادہ جامع معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف چھوٹا نہیں ہے۔ اس کے برخلاف باقی تین حضرات کی بیان کردہ وجوہ میں آخری قسم یعنی لہجوں کا اختلاف تو بیان کیا گیا ہے، لیکن الفاظ کی کمی بیشی، تقدیم و تاخیر اور بدلیت کے اختلافات کی پوری وضاحت نہیں ہے، اس کے برخلاف امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ کے استقراء میں یہ تمام اختلافات وضاحت کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، محقق ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تیس سال سے زائد غور و فکر کرنے کے بعد سات احرف کو سات وجوہ اختلاف پر محمول کیا ہے انہوں نے بھی امام ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑی وقعت کے ساتھ نقل فرمایا ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بلکہ ان کے مجموعی کلام سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ انہیں امام ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کا استقراء خود اپنے استقراء سے بھی زیادہ پسند آیا ہے (النشر فی القراءات العشر، ص ۲۵ ج ۱) اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ان تینوں اقوال میں امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ کے استقراء کو ترجیح دی ہے، کیونکہ انہوں نے علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے لکھا ہے کہ ہذا وجہ حسن (یہ

اچھی توجیہ ہے) پھر امام ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ سات وجوہ بیان کر کے تحریر فرمایا ہے:

قلت وقد اخذ كلام ابن قتيبه ونقحه

میرا خیال ہے کہ امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن قتیبہ کا قول اختیار کر کے اسے اور نکھار دیا ہے۔ فتح الباری ص ۲۴ ج ۹
آخری دور میں شیخ عبدالعظیم الزرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انہی کے قول کو اختیار کر کے اس کی تائید میں متعلقہ دلائل پیش کئے ہیں۔

مناهل العرفان فی علوم القرآن ص ۵۴ تا ۵۶ ج ۱

بہر کیف! استقرائے کی وجوہ میں تو اختلاف ہے لیکن اس بات پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ، محقق ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی باقلانی پانچوں حضرات متفق ہیں جو سات نوعیتوں میں منحصر ہیں۔

احقر کی ناچیز رائے ہیں ”سبعة احرف“ کی یہ تشریح سب سے زیادہ بہتر ہے، حدیث کا منشاء یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھا جاسکتا ہے اور یہ مختلف طریقے اپنی نوعیتوں کے لحاظ سے سات ہیں۔ ان سات نوعیتوں کی کوئی یقین چونکہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے اس لئے یقین کے ساتھ تو کسی کے استقرائے کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا کہ حدیث میں وہی مراد ہے لیکن بظاہر امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ کا استقرائے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ موجودہ قراءت کی تمام انواع کو جامع ہے۔

اس قول کی وجوہ ترجیح

”سبعة احرف“ کی تشریح میں جتنے اقوال حدیث تفسیر اور علوم قرآن کی کتابوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان سب میں یہ قول (کہ سات حروف سے مراد اختلاف قراءت کی سات نوعیتیں ہیں) سب سے زیادہ راجح، قابل اعتماد اور اطمینان بخش ہے اور اس کی مندرجہ ذیل وجوہ ہیں:

۱۔ اس قول کے مطابق ”حروف“ اور ”قراءت“ کو دو الگ الگ چیزیں قرار دینا نہیں پڑتا، علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں ایک مشترک الجھن یہ ہے کہ یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت میں دو قسم کے اختلافات تھے، ایک حروف کا اختلاف اور دوسرے قراءت کا اختلاف، حروف کا اختلاف اب ختم ہو گیا، اور قراءت کا اختلاف باقی ہے، حالانکہ احادیث کے اتنے بڑے ذخیرہ میں کوئی ایک ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ ”حروف“ اور ”قراءت“ دو الگ الگ چیزیں ہیں، احادیث میں صرف حروف کے اختلاف کا ذکر ملتا ہے اور اسی کے لئے کثرت سے ”قراءة“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ”قراءت“ ان ”حروف“ سے الگ ہوتی تو کسی نہ کسی حدیث میں ان کی طرف کوئی اشارہ تو ہونا چاہئے تھا آخر کیا وجہ ہے کہ ”حروف“ کے اختلاف کی احادیث تو تقریباً تو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور قراءت کے جداگانہ اختلاف کا ذکر کسی ایک حدیث میں بھی نہیں ہے؟ محض اپنی قیاس سے یہ کہہ دینا کیوں کر ممکن ہے کہ اختلاف حروف کے علاوہ قرآن کریم کے الفاظ میں ایک دوسری قسم کا اختلاف بھی تھا؟

مذکورہ بالا قول میں یہ الجھن بالکل رفع ہو جاتی ہے، اس لئے کہ اس میں ”حروف“ اور ”قراءت“ کو ایک ہی چیز قرار دیا گیا ہے۔

۲۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ سات حروف میں سے چھ حروف منسوخ یا متروک ہو گئے، اور صرف ایک حرف قریش باقی رہ گیا، (موجودہ قراءت اسی حرف قریش کی ادائیگی کے اختلافات ہیں) اور اس نظریہ کی قیامتیں ہم آگے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے مذکورہ بالا آخری قول میں یہ قیامتیں نہیں ہیں، کیونکہ اس کے مطابق ساتوں حروف آج بھی باقی اور محفوظ ہیں،

۳۔ اس قول کے مطابق ”سات حروف“ کے معنی بلا تکلف صحیح ہو جاتے ہیں جبکہ دوسرے اقوال میں یا ”حروف“ کے معنی میں تاویل کرنی پڑتی ہے یا ”سات“ کے عدد میں۔

۴۔ ”سبعة احرف“ کے بارے میں جتنے علماء کے اقوال ہماری نظر سے گذرے ہیں، ان میں سب سے زیادہ حلیل القدر اور عمدہ رسالت ﷺ

سے قریب تر ہستی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور وہ علامہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق اسی قول کے قائل ہیں۔
 ۵ علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور محقق ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ دونوں علم قرأت کے مسلم الثبوت امام ہیں، اور دونوں اسی قول کے قائل ہیں، اور مؤرخ خالد ذکر کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے کہ انہوں نے تیس (۳۰) سال سے زائد اس حدیث پر غور کرنے کے بعد اس قول کو اختیار کیا ہے۔

اس قول پر وارد ہونے والے اعتراضات اور ان کا جواب

اب ایک نظر ان اعتراضات پر بھی ڈال لیجئے جو اس قول پر وارد ہو سکتے ہیں یا وارد کئے گئے ہیں:
 ۱ اس پر ایک اعتراض تو یہ کیا گیا ہے کہ اس قول میں جتنی وجوہ اختلاف بیان کی گئی ہیں وہ زیادہ تر صرفی اور نحوی تقسیمات پر مبنی ہیں، حالانکہ آنحضرت ﷺ نے جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی اس وقت صرف و نحو کی یہ فی اصطلاحات اور تقسیمات رائج نہیں ہوئی تھیں، اس وقت اکثر لوگ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے ایسی صورت میں ان وجوہ اختلاف کو ”سبعۃ احرف“ قرار دینا مشکل معلوم ہوتا ہے، حافظ ابن حجر نے یہ اعتراض نقل کر کے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ:

ولا يلزم من ذلك توہين ماذهب اليه ابن قتيبة رحمة الله عليه لاحتمال ان يكون الانحصار المذکور في ذلك وقع اتفاقاً وانما اطلع عليه بالاستقراء وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يخفى

فتح الباری، ص ۲۴ ج ۹

”اس سے ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی کمزوری لازم نہیں آتی۔ اس لئے کہ یہ ممکن ہے کہ مذکورہ انحصار اتفاقاً ہو گیا ہو، اور اس کی اطلاع استقراء کے ذریعے ہو گئی ہو۔ اور اس میں جو حکمت بالغہ ہے وہ پوشیدہ نہیں۔“

ہماری ناچیز فہم کے مطابق اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ درست کہجے عہد رسالت میں یہ اصطلاحات رائج نہ تھیں۔ اور شاید یہی وجہ ہو کہ آنحضرت ﷺ نے ”سبعۃ احرف“ کی تشریح اس دور میں نہیں فرمائی۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ فی اصطلاحات جن مفہام سے عبارت ہیں وہ مفہام تو اس دور میں بھی موجود تھے، اگر آنحضرت ﷺ نے ان مفہام کے لحاظ سے وجوہ اختلاف کو سات میں منحصر قرار دے دیا ہو تو اس میں کیا تعجب ہے؟ ہاں اس دور میں اگر سات وجوہ اختلاف کی تفصیل بیان کی جاتی۔ تو شاید عامۃ الناس کی سمجھ سے بالاتر ہوتی، اس لئے آپ ﷺ نے اس کی تفصیل بیان فرمانے کے بجائے صرف اتنا واضح فرمادیا کہ یہ وجوہ اختلاف کل سات میں منحصر ہیں بعد میں جب یہ اصطلاحات رائج ہو گئیں تو علماء نے استقراء تام کے ذریعہ ان وجوہ اختلاف کو اصطلاحی الفاظ سے تعبیر کر دیا، یہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ کسی خاص شخص کے استقراء کے بارے میں یقین کامل سے یہ کہنا تو مشکل ہے کہ رسول اقدس ﷺ کی مراد یہی تھی، لیکن جب مختلف لوگوں کا استقراء یہ ثابت کر رہا ہے کہ وجوہ اختلاف کل سات ہیں تو اس بات کا قریب قریب یقین ہو جاتا ہے کہ ”سبعۃ احرف“ سے آپ ﷺ کی مراد سات وجوہ اختلاف تھیں، خواہ ان کی تفصیل بعینہ وہ نہ ہو جو بعد میں استقراء کے ذریعہ معین کی گئی ہے، بالخصوص جبکہ ”سبعۃ احرف“ کی تشریح میں کوئی اور صورت معقولیت کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے۔

سات حروف کے ذریعہ کیا آسانی پیدا ہوئی؟

(۲)..... اس قول پر دوسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کو سات حروف پر اس لئے نازل کیا گیا، تاکہ امت کے لئے تلاوت قرآن میں آسانی پیدا کی جائے، یہ آسانی علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ عرب میں مختلف قبائل کے لوگ تھے اور ایک قبیلے کے

لئے دوسرے قبیلے کی لغت پر قرآن پڑھنا مشکل تھا لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے اس قول پر تو ساتوں حروف ایک لغت قریشی ہی سے متعلق ہیں، اس میں یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جب قرآن کریم ایک ہی لغت پر نازل کرنا تھا تو اس میں قرأت کا اختلاف باقی رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟

اس اعتراض کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آنحضرت ﷺ نے تلاوت قرآن میں سات حروف کی جو سہولت امت کے لئے مانگی تھی اس میں قبائل عرب کا اختلاف لغت آپ ﷺ کے پیش نظر تھا، حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بناء پر ”سات حروف“ کو سات لغات عرب کے معنی پہنائے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ بات ہے جس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی، اس کے برعکس ایک حدیث میں سرکارِ دو عالم ﷺ نے صراحت و وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمادیا ہے کہ سات حروف کی آسانی طلب کرتے ہوئے آپ ﷺ کے پیش نظر کیا بات تھی؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ:

لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِئِلَ عِنْدَ الْحِجَارِ الْمَرْوَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبْرِئِلَ: إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيَّ أُمَّةً أَمِينِينَ فِيهِمُ الشَّيْخُ الْفَانِي وَالْعَجُوزُ الْكَبِيرَةُ وَالْهَلَامُ، قَالَ فَمَرَّهُمْ فليقرءوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ. بحواله النشر في القراءات العشر، ص ۲۰ ج ۱

”رسول اللہ ﷺ کی ملاقات مردہ کے پتھروں کے قریب حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ ﷺ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا: میں ایک ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں، جس میں لب گور بوڑھے بھی ہیں، اور بچے بھی حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو حکم دیجئے کہ وہ قرآن کو سات حروف پر پڑھیں۔“

ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا:

انِي بَعَثْتُ إِلَيَّ أُمَّةً أَمِينِينَ مِنْهُمْ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ وَالْكَبِيرُ وَالْعَلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالذِّي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ

جامع الترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ص ۱۳۸ ج ۲، قرآن محل کراچی

”مجھے ایک ان پڑھ امت کی طرف بھیجا گیا ہے، جن میں بوڑھیاں بھی ہیں، بوڑھے بھی، سن سرسیدہ بھی، بڑے کے بھی اور لڑکیاں بھی اور ایسے لوگ بھی جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔“

اس حدیث کے الفاظ صراحت اور وضاحت کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہ امت کے لئے سات حروف کی آسانی طلب کرنے میں آنحضرت ﷺ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ آپ ﷺ ایک امی اور ان پڑھ قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، جس میں ہر طرح کے افراد ہیں، اگر قرآن کریم کی تلاوت کے لئے صرف ایک ہی طریقہ متعین کر دیا گیا تو امت مشکل میں مبتلا ہو جائے گی، اس کے برعکس اگر کئی طریقے رکھے گئے تو یہ ممکن ہوگا کہ کوئی شخص ایک طریقہ سے تلاوت پر قادر نہیں ہے تو وہ دوسرے طریقے سے انہی الفاظ کو ادا کر دے، اس طرح اس کی نماز اور تلاوت کی عبادات درست ہو جائیں گی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھوں، بوڑھیوں یا ان پڑھ لوگوں کی زبان پر ایک لفظ ایک طریقہ سے چڑھ جاتا ہے اور اس کے لئے زیر زبر کا معمولی فرق بھی دشوار ہوتا ہے، اس لئے آپ ﷺ نے یہ آسانی طلب فرمائی کہ مثلاً کوئی شخص معروف کا صیغہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کی جگہ دوسری قرأت کے مطابق مجہول کا صیغہ ادا کر لے، یا کسی کی زبان پر صیغہ مفر نہیں چڑھتا تو وہ اسی آیت کو صیغہ جمع سے پڑھ لے، کسی کے لئے لہجہ کا ایک طریقہ مشکل ہے تو دوسرا اختیار کر لے، اور اس طرح اس کو پورے قرآن میں سات قسم کی آسانیاں مل جائیں گی۔

آپ نے مذکورہ بالا حدیث میں ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اس میں آنحضرت ﷺ نے سات حروف کی آسانی طلب کرتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ میں جس امت کی طرف بھیجا گیا ہوں وہ مختلف قبائل سے تعلق رکھتی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی لغت جدا ہے، اس لئے قرآن کریم کو مختلف لغات پر پڑھنے کی اجازت دی جانے، اس کے برخلاف آپ ﷺ نے قبائلی اختلافات سے قطع نظر ان کی عمروں کا تفاوت اور ان کے امی ہونے کی صفت پر زور دیا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سات حروف کی آسانی دینے میں بنیادی عامل قبائلی کا لغوی اختلاف نہ تھا، بلکہ امت کی ناخواندگی کی پیش نظر تلاوت میں ایک عام قسم کی سہولت دینا پیش نظر تھا، جس سے امت کے تمام افراد فائدہ اٹھا سکیں۔

سبعہ احرف کی وضاحت

(۳) اس قول پر تیسرا اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اختلاف قرأت کی جو سات نو عتیں بیان کی گئی ہیں وہ خواہ امام ناگد رحمۃ اللہ علیہ یا ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کی ہوئی ہوں یا علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ، محقق ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو الطیب رحمۃ اللہ علیہ کی، بہر حال ایک قیاس اور تخمینہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اسی وجہ سے ان حضرات میں سے ایک نے ان سات وجوہ اختلاف کی تفصیل الگ الگ بیان کی ہے، ان کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کیونکر باور کر لیا جائے کہ آنحضرت ﷺ کی مراد یہی تھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ”سبعۃ احرف“ کی کوئی واضح تشریح کسی حدیث یا کسی صحابی کے قول میں نہیں ملتی، اس لئے اس باب میں جتنے اقوال ہیں، ان سب میں روایات کو مجموعی طور پر جمع کر کے کوئی نتیجہ نکالا گیا ہے اس لحاظ سے یہ قول زیادہ قرین صحت معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس پر کوئی بنیادی اعتراض واضح نہیں ہوتا، روایات کو مجموعی طور پر دیکھنے کے بعد میں معلوم ہوا اس اختلاف قرأت کی سات نو عتیں ہیں، رہی ان نو عیتوں کی تعیین و تخیص، سو اس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ اسے معلوم کرنے کا ذریعہ استقراء کے سوا اور کوئی نہیں، امام ابو الفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ کا استقراء ہمیں جامع و مانع ضرور معلوم ہوتا ہے، مگر یقین کے ساتھ ہم کسی کے استقراء کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، کہ حضور کی مراد یہی تھی لیکن اس سے یہ اصولی حقیقت مجروح نہیں ہوتی کہ ”سبعۃ احرف“ سے آنحضرت ﷺ کی مراد اختلاف قرأت کی سات نو عتیں تھیں، جن کی تفصیل کا یقینی علم حاصل کرنے کا نہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے اور نہ اس کی کوئی چنداں ضرورت ہے۔

۴ اس قول پر چوتھا اعتراض یہ ممکن ہے کہ اس قول میں ”حروف سبعۃ“ سے الفاظ اور ان کی ادائیگی کے طریقوں کا اختلاف مراد لیا گیا ہے، معانی سے اس میں بحث نہیں ہے، حالانکہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد سات قسم کے معانی ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں:

كان الكتاب الاول ينزل من باب واحد على حروف واحد ونزل القرآن من سبعة ابواب على سبعة

اخرا زاجر و امر و حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال، الخ

پہلے کتاب ایک باب سے ایک حرف پر نازل ہوتی تھی اور قرآن کریم سات ابواب سے سات حروف پر نازل ہوا۔ وہ سات حروف یہ ہیں:

۱ زاجر (کسی بات سے روکنے والا) ۲ امر (کسی چیز کا حکم دینے والا)

۳ حلال ۴ حرام

۵ محکم (جس کے معنی معلوم ہیں) ۶ متشابه (جس کے یقینی معنی معلوم نہیں) ۷ امثال

اسی بناء پر بعض علماء سے منقول ہے کہ انہوں نے سات حروف کی تفسیر سات قسم کے معنی سے کی ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ بالا روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی سند پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حالانکہ ابوسلمہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی۔ مشکل الآثار، ص ۱۸۵ ج ۴

اس کے علاوہ قدیم زمانہ کے جن بزرگوں سے اس قسم کے اقوال منقول ہیں، ان کی تشریح کرتے ہوئے حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کا مقصد ”سبعۃ احرف“ والی حدیث کی تشریح کرنا نہیں تھا، بلکہ ”سبعۃ احرف“ کے زیر بحث مسئلہ سے بالکل الگ ہو کر یہ کہنا چاہتے تھے کہ قرآن کریم اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہے۔ تفسیر ابن حریز، ص ۱۵ ج ۱

رہے وہ لوگ جنہوں نے ”سبعۃ احرف“ والی حدیث کی تشریح ہی میں اس قسم کی باتیں کہی ہیں، ان کا قول بالکل بدیہی البطلان ہے، اس لئے کہ پیچھے جتنی احادیث نقل کی گئی ہیں، ان کو سمری ظہری سے و کچھ کر ایک معمولی عقل کا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ حروف کے اختلاف سے

مراد معانی اور مضامین کا اختلاف نہیں، بلکہ الفاظ کا اختلاف ہے چنانچہ محقق علماء میں سے کسی ایک نے بھی اس قول کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اس کی تردید کی ہے۔ تفصیلی تردید کیلئے ملاحظہ ہوا لاتقان ص ۴۹ ج ۱ نوع ۱۶ اور النشرفی القراءت العشر لابن الحزری رحمۃ اللہ علیہ ص ۲۵ ج ۱ بشکریہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب از علوم القرآن

آپ کا پروردگار آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو سات حرفوں پر قرآن پڑھائیے۔ پس ان میں سے جس حرف پر بھی وہ قرآن پڑھیں گے درست کریں گے۔ ابو داؤد، نسائی بروایت ابی رضى الله عنه بن کعب

۳۰۷۵ میرے پاس جبرئیل (پیغامبر وحی) اور میکائیل (کائنات کا نظام سنبھالنے والے دونوں فرشتے) حاضر ہوئے۔ جبرئیل علیہ السلام میرے دائیں طرف بیٹھ گئے اور میکائیل علیہ السلام بائیں طرف۔ جبرئیل علیہ السلام فرمانے لگے اے محمد! قرآن ایک حرف پر پڑھو۔ میکائیل علیہ السلام بولے! آپ زیادتی طلب کیجئے۔ چنانچہ میں نے کہا: مجھے مزید حروف عطا کریں۔ جبرئیل علیہ السلام بولے دو حرفوں پر پڑھو۔ میکائیل علیہ السلام پھر مجھے مخاطب ہوئے: زیادتی طلب کرو۔ میں نے کہا: مزید اضافہ کرو۔ جبرئیل علیہ السلام بولے تین حرفوں پر پڑھو۔ میکائیل علیہ السلام بولے: زیادتی طلب کرو۔ میں نے کہا: مزید اضافہ کرو۔ اسی طرح اضافہ ہوتا رہا حتیٰ کہ جبرئیل علیہ السلام سات حرفوں پر پہنچ گئے اور فرمایا سات حرفوں (یعنی سات قرأت) پر قرآن پڑھو۔ ہر ایک کافی بشارتی ہے۔ مسند احمد، عبد بن حمید نسائی، مسلم بروایت ابی بن کعب مسند احمد، المعجم الکبیر بروایت ابی بکر۔ ابن الضریس بروایت عبادة رضى الله عنه بن الصامت

قرآن کریم کی سات لغات

۳۰۷۶ میرے پروردگار نے میری طرف پیغام بھیجا کہ قرآن ایک حرف پر پڑھو، میں نے اپنی امت پر آسانی کا سوال کیا تو مجھے دو حرفوں پر پڑھنے کا حکم ملا۔ میں نے مزید آسانی کا سوال کیا تو فرمایا کہ سات حرفوں پر قرآن پڑھو۔ اور تمہارے لئے ہر مرتبہ سوال کرنے پر ایک ایک دعا قبول کی جاتی ہے۔ پس میں نے کہا اے اللہ! میری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ! میری امت کی مغفرت فرما۔ اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لئے ذخیرہ کر لی ہے جس دن ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف امید لگائیں گے۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، نسائی بروایت ابی رضى الله عنه

فائدہ: حضور علیہ السلام نے تین مرتبہ خدا سے حروف میں زیادتی کا سوال کیا تا کہ امت پر نرمی اور آسانی ہو۔ اللہ پاک نے تین کے بجائے سات حروف پر پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور مزید ہر مرتبہ سوال کرنے پر ایک دعا کی قبولیت بھی نوازی۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے تین مرتبہ سوال کیا تھا لہذا تین دعائیں قبول ہونے کی بشارت سنائی گئی وہ دعائیں تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کے لئے فرمائیں جبکہ تیسری قیامت میں ساری مخلوق کیلئے محفوظ فرمائی۔ جزى الله عنا محمدًا ما هو اهلہ صلى الله عليه وسلم

۳۰۷۷ جو شخص چاہتا ہو کہ قرآن کو بعینہ اسی طرح پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود) کی قرأت پر قرآن پڑھے۔

مسند احمد، مسلم، مستدرک بروایت ابی بکر و عمر رضى الله عنه

۳۰۷۸ اے ابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی فرمائی کہ قرآن کو ایک حرف پر پڑھو۔ میں نے خدا سے رجوع کیا کہ میری امت پر نرمی کا معاملہ فرمائیں تو مجھے دوبارہ وحی فرمائی کہ دو حرفوں پر قرآن پڑھو۔ میں نے پھر نرمی کا مطالبہ کیا تو اللہ پاک نے تیسری مرتبہ وحی فرمائی کہ سات حروف پر قرآن پڑھو۔ اور فرمایا تمہارے لئے ہر مرتبہ جو تم نے سوال کیا ایک دعا مقبول ہے تو میں نے عرض کیا اللھم اغفر لامتی۔ اللھم اغفروا امتی اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لئے ذخیرہ کر لی جس دن ساری مخلوق حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف آس لگائے ہوں گے۔ مسند احمد، مسلم بروایت ابی رضى الله عنه

۳۰۸۹ اے ابی! مجھ پر سات حروف میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کافی بشارتی ہے۔ نسائی بروایت ابی رضى الله عنه

۳۰۸۰ اے ابی! مجھے ایک حرف یاد دہنوں پر قرآن پڑھایا گیا۔ میرے ساتھ والے فرشتے نے مجھے کہا: کہو دو حرفوں پر۔ میں نے کہا دو حرفوں پر۔ چنانچہ مجھے کہا گیا دو حرفوں پر یا تین حرفوں۔ فرشتے نے پھر کہا: کہو تین حرفوں پر۔ میں نے کہا تین حرفوں پر حتیٰ کہ (رخصت) سات حرفوں پر پہنچ گئی پھر کہا کہ ان میں ہر ایک کافی شافی ہے اگر تم سے سمجھ لیں، عزیز اور حکیم ذات کو کہا۔ جب تک کہ آیت عذاب کو رحمت کے ساتھ اور رحمت کو عذاب کے ساتھ ختم نہ کیا۔ ابو داؤد بروایت ابی رضی اللہ عنہ

فائدہ: قرأت کا اختلاف جب تک ہے جیسا کہ شروع میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہوا اس وقت قرآن رحمت ہی رحمت اور شافی کافی ہے۔ لیکن اگر آیت رحمت کو عذاب کے ساتھ یا اس کے برعکس کر دیا تو یہ باعث عذاب ہے۔

۳۰۸۱ قرآن کو چار اشخاص سے حاصل کرو۔ ابن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل اور ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔

(ترمذی، مستدرک بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ)

۳۰۸۲ قرآن تو سات حرف پر پڑھایا جاتا ہے اور تم قرآن میں بگھڑا مت کرو۔ کیونکہ قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔

مسند احمد بروایت ابی جہیم

۳۰۸۳ قرآن سات حرف پر نازل کیا گیا ہے۔

مسند احمد، ترمذی بروایت ابی رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ

۳۰۸۴ قرآن سات ابواب سے سات حرف پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے ہر ایک کافی شافی ہے۔ المعجم الکبیر بروایت معاذ رضی اللہ عنہ فائدہ: سات ابواب سے سات مضامین مراد ہیں مثلاً امر، نہی، حلال، حرام، بشیر، نذیر اور ناخ منسوخ وغیرہ یا جنت کے سات دروازے مراد ہیں اور ثانی الذکر معنی زیادہ قرین قیاس ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ سات قرأت جنت کے سات دروازوں سے نکلے ہیں اور سات احرف سے مراد سات قرأت مراد ہیں۔

۳۰۸۵ قرآن سات حرف پر نازل کیا گیا جو شخص ان میں سے کسی ایک حرف پر پڑھنا شروع کرے وہ دوسرے حرف کی طرف منتقل نہ ہو

بوجہ پہلے سے منہ موز کر۔ المعجم الکبیر بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

فائدہ: یعنی کسی قرأت سے اکتا کر دوسری قرأت شروع نہ کرے۔ اسی طرح جب نماز میں ایک قرأت پر قرآن شروع کیا تو آخر تک وہی قرأت برقرار رکھے۔

کلام: روایت پر ضعف کا کلام کیا گیا ہے دیکھئے بضعیف الجامع ۱۳۳۷۔

۳۰۸۶ قرآن سات حرف پر نازل کیا گیا ہے۔ ہر حرف کے لئے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حرف کے لئے ایک حد ہے اور مطلع ہے۔

الطبرانی فی الکبیر بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ مسلم برقم ۸۱۸

۳۰۸۷ قرآن تین حرف پر نازل کیا گیا ہے۔ مسند احمد، المعجم الکبیر، مستدرک بروایت سمرہ رضی اللہ عنہ

کلام: روایت ضعیف ہے دیکھئے ذخیرۃ الحفاظ: ۷۷۔ ضعیف الجامع ۱۳۳۵۔

۳۰۸۸ قرآن تین حرف پر نازل کیا گیا ہے۔ لہذا تم اس میں اختلاف نہ کرو۔ اور اس میں جھگڑا نہ کرو۔ کیونکہ ہر ایک حرف مبارک ہے۔ پس

تم کو جیسے قرآن پڑھایا جائے ویسے ہی پڑھتے رہو۔ ابن الضریس بروایت سمرہ رضی اللہ عنہ

کلام: روایت ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۱۳۳۶۔

۳۰۸۹ قرآن عظیم تم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ ابن الانباری فی الوقت، مستدرک بروایت زید رضی اللہ عنہ بن ثابت

فائدہ: عظیم سے مراد لہجوں کا اختلاف ہے۔ اور عظیم سے لغوی مراد الفاظ کو پر کر کے پڑھنا بھی ہے یعنی جو حرف تجوید میں عظیم ہیں ان کو عظیم کے ساتھ یعنی پر کر کے پڑھنا۔

کلام: روایت محل کلام ہے، مسند نہیں۔ دیکھئے الکشف الالہی ۱۰۵۔

الاکمال

۳۰۹۰ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: قرآن ایک حرف پر پڑھو۔

ابن منیع، سنن سعید بن منصور بروایت سلیمان بن صرد

۳۰۹۱ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: قرآن سات حرفوں پر پڑھو۔ ابن الضریس بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۰۹۲ مجھے حکم ہے کہ قرآن سات حرفوں پر پڑھوں۔ ان میں سے ہر ایک حرف کافی ثنائی ہے۔ ابن جریر بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۰۹۳ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے اور قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔ پس جو تم کو معلوم ہے اس پر عمل کرتے رہو اور جس بات سے

جاہل اس کو اسکے عالم پر پیش کرو۔ ابن جریر، ابن حبان، الحجۃ لنصر المقدسی، الابانہ، الخطیب بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۰۹۴ حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ قریشی صحابی کسی قرأت پر قرآن پڑھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو اس کو مختلف

پایا جبکہ دونوں کو حضور علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو بارگاہ نبوت میں لے گئے۔ ایسے مواقع

پر آپ علیہ السلام نے مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۳۰۹۴ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے ہر ایک حرف ثنائی اور کافی ہے۔ ابن جریر بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۰۹۵ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے جس حرف پر بھی پڑھو گے درست ہوگا۔

(مسند احمد، ابن جریر، الکبیر، الابانہ بروایت ام ایوب رضی اللہ عنہا)

۳۰۹۶ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے امر (حکم دینے والا) زاجر (روکنے والا) ترغیب (خوشخبری دینے والا) ترہیب (ڈرانے

والا) جدل (مناظرہ کرنے والا) قصص اور مثالیں۔ ابن جریر بروایت ابی قلابہ رضی اللہ عنہ

۳۰۹۷ اس حدیث اور اس کی دوسری روایات اور اقوال سے بعض علماء نے سات حرفوں سے سات قرأت مراد نہیں لی ہیں بلکہ سات معانی

اور مضامین مراد لئے ہیں۔ یہ رائے محل نظر اور بدیہی البطلان ہے۔ کیونکہ اس مضمون کی مرویات سے مراد صرف قرآن کے مضامین بیان کرنا

مقصود ہیں نہ کہ قرأت۔ یہ دونوں بالکل جدا گانہ چیزیں ہیں۔ کیونکہ حرفوں سے متعلق پیچھے جس قدر مرویات گزری ہیں سرسری نظر میں ان سے

واضح ہو جاتا ہے کہ ان سے الفاظ کا اختلاف مراد ہے نہ کہ معانی کا۔ نیز مضامین سے متعلق روایت جیسا کہ ابھی گزری اکثر درجہ صحت سے نیچے

ہیں اور وہ بھی کم ہیں جبکہ حرفوں سے متعلق مرویات جن سے قرأت مراد ہیں تو اتر کے ساتھ کثیر تعداد میں منقول ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۳۰۹۷ قرآن چار حرفوں پر نازل کیا گیا ہے ایک تو حلال و حرام ہے اس سے جہالت کی وجہ سے کوئی معذور نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اور ایک تفسیر

ہے جو عرب تفسیر کریں اور وہ تفسیر جو علماء بیان کریں۔ اور ایک حرف تشابہ ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اللہ کے سوا جو اس کو جاننے

کا دعویٰ کرے وہ کاذب ہے۔ ابن جریر، الابانہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند میں نظر ہے اور اس کو روایت کیا ہے ابن جریر، وابن المنذر اور ابن

الانباری نے الوقت میں روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔

۳۰۹۸ اللہ عزوجل نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ ایک حرف پر قرآن پڑھاؤ۔ میں نے عرض کیا: اے پروردگار! میری امت پر آسانی کا معاملہ

فرمائیے۔ پروردگار نے فرمایا: دونوں پر پڑھاؤ۔ اور (پھر) مجھے حکم دیا کہ سات حرفوں پر قرآن پڑھاؤ۔ جو جنت کے سات دروازوں سے نکلے

ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کافی ثنائی ہے۔ ابن جریر بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۰۹۹ قرآن سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے۔ پس تم قرآن میں نزاع مت کرو کیونکہ اس میں نزاع کفر ہے۔

ابن جریر والباوردی ابونصر فی الابانہ بروایت ابن حہیم بن الحارث بن الصمۃ الانصاری

- ۳۱۰۰ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ پس جو حرف آسان لگے اس پر قرآن پڑھو۔ بخاری، نسائی بروایت عمر رضی اللہ عنہ
- ۳۱۰۱ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ پس جس حرف کی تم تلاوت کرو صحیح ہے۔ لیکن اس میں نزاع مت کرو۔ کیونکہ اس میں نزاع کفر ہے۔
- ۳۱۰۲ یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ پس (کسی حرف پر بھی) پڑھو کوئی حرج نہیں۔ لیکن رحمت کے ذکر کو عذاب کے ساتھ نہ جمع کرو اور نہ عذاب کا ذکر رحمت کے ساتھ۔ ابن جریر بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
- نوٹ: ۳۰۸۰ رقم الحدیث پر اسی مضمون کی روایت گزری ہے تشریح ملاحظہ فرمائیں۔
- ۳۱۰۳ یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے پس جس حرف کو پڑھو درستی پر رہو گے لیکن اس میں جھگڑا مت کرو۔ کیونکہ اس میں جھگڑا کرنا کفر ہے۔ مسند احمد، بروایت عمر رضی اللہ عنہ وبن العاص
- ۳۱۰۴ یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ لہذا اس میں نزاع مت کرو۔ کیونکہ اس میں نزاع باعث کفر ہے۔

- البغوی فی المشکوٰۃ شعب الایمان للبیہقی بروایت ابی جہیم الانصاری
- ۳۱۰۵ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: آپ کی امت سات حروف پر قرآن پڑھے گی۔ پس جو شخص ایک حرف پر قرآن پڑھے وہ ایسے ہی اپنے علم کے مطابق پڑھتا رہے اور اس سے دوسرے حرف کی طرف نہ لوٹے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے فرمایا: آپ کی امت میں ضعیف بھی ہیں۔ پس جو ایک حرف پر شروع کرے وہ اس سے اکتا کر (متنفر ہو کر) دوسرے حرف پر پڑھنا نہ شروع کر دے۔
- مسند احمد، بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ
- ۳۱۰۶ ہمارے قرآنوں کو قریش یا ثقیف کے لڑکوں کے علاوہ اور کوئی نہ قریب لگیں۔

- (الخطیب بروایت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ)
- فائدہ: جن دنوں میں قرآن لکھا جا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قریش اور ثقیف کے نوجوان ہی قرآن پاک لکھوائیں ان کی فصیح زبان ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ اور کوئی چھوٹے بھی نہ۔
- کلام: اس کو متفرق بیان کرنا صرف احمد بن ابی احوز سے منقول ہے۔ یعنی یہ حضور ﷺ سے منقول ہونا موصوف کے علاوہ کسی اور سے ثابت نہیں۔ جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے یہ قول ثابت اور محفوظ ہے۔
- فائدہ: اس زمانے میں پڑھے لکھے حضرات زیادہ تر انہی دو قبائل سے تعلق رکھتے ہوں گے اس وجہ سے ایسا فرمایا۔ کیونکہ ان پڑھ قرآن کو کچھ کا کچھ پڑھیں گے۔ لہذا پڑھے لکھے حضرات خود پڑھ کر ان پڑھوں کو پڑھائیں اس کے بعد ان کے لئے مصاحف قرآن چھونے کی اجازت ہے۔ اس مضمون کی تائید ذیل کی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔
- ۳۱۰۷ میں جبرئیل علیہ السلام سے مرآء (قباء) کے پتھروں کے پاس ملا۔ میں نے کہا: اے جبرئیل علیہ السلام! مجھے ایسی ان پڑھ قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جس میں مرد، عورت، غلام، لونڈی اور قریب المرگ بوڑھے ہیں جو کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا، قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ مسند احمد، بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ

دوسری فرع سجدۃ تلاوت کے بیان میں

- ۳۱۰۸ جب ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے پھر اس موقع پر سجدہ بھی کر لیتا ہے تو شیطان اس سے ہٹ کر روتا ہوا کہتا ہے: ہائے تباہی و بربادی! ابن آدم کو سجدہ کا حکم ملا، اس نے سجدہ کر لیا پس اس کے لئے جنت واجب ہوگئی۔ اور مجھے سجدہ کا حکم ملا لیکن میں نے انکار کر لیا پس میرے لئے جہنم واجب ہوگئی۔ مسند احمد، مسلم، ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۱۰۹ ... سورہ صحن میں موجود جحدہ داؤد علیہ السلام نے توبہ کے واسطہ کیا تھا اور ہم یہ جحدہ (پروردگار کے) شکر میں ادا کرتے ہیں۔

الکبیر، حلیہ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۱۱۰ یہ ایک نبی کی توبہ ہے یعنی سورہ صحن کا جحدہ۔ ابو داؤد، مستدرک بروایت ابوسعید رضی اللہ عنہ

تیسری فرغ..... حفظ قرآن کی نماز کے بیان میں

کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کے ساتھ اللہ تجھے نفع دے جس کو تو آگے سکھائے اس کو بھی نفع دے۔ جمعہ کی رات کو چار رکعت پڑھ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ یس تلاوت کر۔ دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورہ دخان تلاوت کر۔ تیسری رکعت میں فاتحہ اور سورہ الم تنزیل جحدہ تلاوت کر اور چوتھی رکعت میں سورہ تبارک الذی تلاوت کر۔ پس جب تو آخری رکعت کے قعدہ میں تشہد سے فارغ ہو جائے تو اللہ کی حمد و ثناء کر، تمام پیغمبروں پر درود پڑھ۔ اور مؤمنین کے لئے استغفار کر۔

پھر یہ دعا پڑھو۔

اللهم ارحمني بترك المعاصي ابدا ما بقيتي وارحمي ان اتكلف ما لا يعينني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني، اللهم بديع السموات والارض ذالجلال والاکرام والعزة التي لا ترام، اسئلك يا الله يارحمنا بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني ان اتلوه على النحو الذي يرضيك عني واسئلك ان تنور بالكتاب بصري وتطلق به لساني وتفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري وتستعمل به بدني وتقويني على ذلك وتعينني عليه۔ فانه لا يعينني على الخير غيرك ولا يوفق له الا انت۔

”اے مجھ پر رحم فرما کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں جب تک تو مجھے زندہ رکھے۔ اور مجھ پر رحم فرما کہ میں غیر مفید کاموں میں نہ لگوں اور مجھے ان کاموں میں مشغول رکھ جو تجھ کو مجھ سے راضی کریں۔ اے اللہ! آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، بزرگی اور عظمت کے مالک اور ایسی عزت کے مالک جو کبھی سرنگوں نہ ہوگی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ! اے رحمن! تیرے جلال کے طفیل، تیرے چہرے کے نور کے صدقہ یہ کہ تو میرے دل کو اپنی کتاب کے حفظ کرنے میں لازم کر دے۔ جیسے کہ تو نے مجھے وہ کتاب سکھائی ہے اور مجھے توفیق بخش کہ میں اس کی اسی طرح تلاوت کرتا ہوں جس طرح تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی کتاب کے ساتھ میری آنکھوں کو منور کر دے، میری زبان کو کھول دے، میرے دل کو کھول دے اور میرا سینہ کشادہ کر دے، اسی کتاب میں میرے بدن کو مصروف رکھ اور اس کتاب پر مجھ کو قوت دے اور میری مدد فرما دے کیونکہ کسی خیر کے کام پر تیرے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا اور تیرے سوا کوئی خیر کی توفیق نہیں بخش سکتا۔“

یہ عمل تو تین جمعہ یا پانچ جمعہ یا سات جمعہ تک کر، ان شاء اللہ تو کتاب اللہ کو حفظ کر لے گا اور جو مومن یہ عمل کرے گا انشاء اللہ وہ حفظ کرنے سے پیچھے نہ رہے گا اور اس کا حفظ خطانہ ہوگا۔ ترمذی، الکبیر، مستدرک بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: ... ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوعات (خود ساختہ) احادیث میں شمار کیا ہے۔ مؤلف کتاب الجامع الصغیر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن ان کی یہ بات صائب نہیں ہے۔

نیز اس روایت پر ضعف کا کلام کرتے ہوئے الکشف الالہی ۱۰۸ اور ضعیف الجامع ۲۱۷۲ میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

توت حافظہ کا نسخہ

۳۱۱۲ اے ابوالحسن (حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت) میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا جن کے ساتھ اللہ تجھے نفع دے اور یہ کلمات تو جس کو سکھائے اس کو بھی نفع دے اور جو تو سیکھے تیرے سینے میں ازبر کر دے۔

پس جب جمعہ کی رات ہو اگر ہو سکے تو رات کے آخری تیسرے پہر میں کھڑا ہو جا کیونکہ یہ وقت فرشتوں کی حضوری کا ہے اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا سو ف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم میں عنقریب تمہارے لئے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ لہذا انہوں نے جمعہ کی رات (اس گھڑی) میں دعا کی۔ لیکن اگر اس وقت نہ ہو سکے تو درمیان رات میں کھڑا ہو جا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو شروع رات میں کھڑا ہو جا۔ اور چار رکعت نماز پڑھ۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور پڑھ۔ دوسری میں فاتحہ اور سورہ دخان پڑھ تیسری میں فاتحہ اور الم تزیل السجدۃ پڑھ اور چوتھی رکعت میں فاتحہ اور تبارک الذی پڑھ۔ پس جب تو تشہد سے فارغ ہو جائے تو اللہ کی حمد کر اور اچھی طرح اس کی ثناء بیان کر اور مجھ پر اچھی طرح درود بھیج اور تمام انبیاء پر درود بھیج اور اللہ سے تمام مؤمن مردوں اور عورتوں اور اپنے بھائیوں کے لئے استغفار کر جو تجھ سے پہلے جا چکے ہیں۔ پھر آخر میں یہ دعا پڑھ:

اللھم ارحم منی بترک المعاصی ابدًا ما بقیتنی وارحمنی ان اتکلف ما لا یعیننی وارزقنی حسن النظر
فیما یرضیک عنی، اللھم بدیع السموات والارض ذالجلال والاكرام والعزۃ النبی لاترام اسألك
یا اللہ یا رحمن بجلالک ونور وجهک ان تنور بکتابک بصری وان تطلق به لسانی وان تفرج به عن
قلبی وان تشرح به صدري وان تعمل به بدنی فانه لا یعیننی علی الحق غیرک ولا یؤتیه الا أنت ولا حول
ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.

اے ابوالحسن! اللہ کے حکم سے تم یہ عمل تین یا پانچ یا سات جمعوں تک کر دو۔ تم ہے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کرنے والے کی ایہ عمل کسی مؤمن کو حفظ سے خطا نہیں کرے گا۔

ترمذی حسن غریب، الکبیر ابن السنی فی عمل الیوم واللیلۃ، مستدرک و تعقب بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
کلام:۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع من گھرت احادیث میں شمار کیا ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کل نظر ہے۔ علامہ ذہبی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث منکر اور شاذ ہے۔ اور مجھے اس کے موضوع ہونے کا اندیشہ ہے۔ مؤلف کتاب فرماتے ہیں واللہ مجھے اس
روایت کی عمدہ سند نے تمیر کر دیا ہے۔

اس کو امام ترمذی نے ابن عباس عن علی کے طریق سے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے
مال باپ قربان ہوں یہ قرآن میرے سینے سے نکلا جاتا ہے اور میں اس پر قادر نہیں ہو پاتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تجھے ایسے کلمات نہ
سکھاؤں جو تجھے بھی اور جس کو سکھائے اسے بھی اللہ ان کے ساتھ نفع بخشے اور جو تو سیکھے اسے تیرے سینے میں مضبوط کر دے تو حضرت علی رضی اللہ
عنہ نے عرض کیا: بالکل یا رسول اللہ!

آٹھواں باب

سکھ سکھ

حصہ اول: لفظ آٹھواں صفحہ نمبر ۸۔

دعا کے بارے میں اس کی چھ فصلیں ہیں۔

پہلی فصل..... دعا کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں

- ۳۱۱۳ دعا ہی عبادت ہے۔ مستند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، الادب للبخاری، ترمذی، ابو داؤد، نسائی ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک بروایت نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر مسند ابی یعلیٰ، بروایت براء رضی اللہ عنہ
فائدہ:..... عبادت سے مقصود خدا کے سامنے انتہائی درجہ کا تدلل اور خشوع و خضوع ہے جو دعا میں بدرجہ اتم حاصل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ خدا مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔
- ۳۱۱۴ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ابن ماجہ، ترمذی بروایت انس رضی اللہ عنہ
کلام:..... روایت ضعیف ہے۔ دیکھئے احادیث القصاص ۴۴۲۔ ضعیف الترمذی: ۲۶۹۔ ضعیف الجامع ۳۰۰۳۔ الشهر ۱۷۸۔ نصیحة الداعیہ ۲۱۔
- ۳۱۱۵ عبادت میں سب سے اشرף عبادت دعا ہے۔ البخاری فی الادب بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
۳۱۱۶ دعا رحمت (الہی) کی چابی ہے، وضو نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی۔ الفردوس للدیلمی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
کلام:..... روایت ضعیف ہے ۳۰۰۴۔
- ۳۱۱۷ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مسند ابی یعلیٰ، مستدرک بروایت علی رضی اللہ عنہ
کلام:..... روایت ضعیف اور محل نظر ہے دیکھئے: الاقنان ۷۷۷۔ تہیض الصحیفہ ۲۳۔ ذخیرۃ الحفاظ ۲۹۰۱۔ ضعیف الجامع ۳۰۰۱۔ الضعیفۃ ۱۷۹۔ نصیحة الداعیہ ۲۱۔
- ۳۱۱۸ دعا قضاء کو بھی ٹال دیتی ہے۔ نیکی رزق میں زیادتی کا سبب بنتی ہے اور بندہ اپنے گناہ کے سبب سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
مستدرک الحاکم بروایت ثوبان رضی اللہ عنہ
کلام:..... اسنی المطالب ۶۷۳۔ الشهر ۱۷۸۔ ضعیف الجامع ۳۰۰۶۔
- ۳۱۱۹ دعا اللہ کے لشکروں میں سے ایک مسلح لشکر ہے جو قضاء کو ٹال دیتا ہے باوجود اس کے حتمی ہونے کے۔
ابن عساکر بروایت نمیر بن اوس مرسلہ
کلام:..... دیکھئے روایت کا ضعف: الاقنان ۷۸۰۔ ضعیف الجامع ۳۰۰۰۔ الضعیفۃ ۱۸۹۹۔
- ۳۱۲۰ دعا کثرت سے کرو کیونکہ قضاء میرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ ابو الشیخ بروایت انس رضی اللہ عنہ
فائدہ:..... قضاء سے مراد تقدیر اور تقدیر ہے دو قسموں پر منحصر ہے تقدیر معلق اور تقدیر میرم۔ تقدیر معلق کسی بھی کام کے ساتھ معلق ہوتی ہے مثلاً بندہ اگر خیر کا کام کرے گا تو اس کے لئے یہ بھلائی ہے ورنہ یہ برائی۔ اور تقدیر میرم حتمی تقدیر کہلاتی ہے یعنی فلاں مصیبت بندہ پر پہنچ کر رہے گی۔ تو دعا تقدیر معلق تو کیا تقدیر میرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ لیکن کوئی شے خدا کے علم سے باہر نہیں ہے۔
کلام:..... ضعیف الجامع ۱۱۰۲۔
- ۳۱۲۱ دعا بلاء و مصیبت کو دفعہ کر دیتی ہے۔ ابو الشیخ فی الثواب بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
کلام:..... ضعیف الجامع ۳۰۰۵۔ النواع ۷۴۳۔
- ۳۱۲۲ دعا نازل شدہ مصیبت اور غیر نازل شدہ مصیبت دونوں میں سود مند ہے۔ پس اے اللہ کے بندو! تم پر دعا لازم ہے۔
مستدرک الحاکم بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۱۲۳ کوئی حذر (احتیاط) قدر (تقدیر) سے نہیں بچا سکتی۔ لیکن دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ دونوں مصیبتوں سے نفع دیتی ہے۔ پس اے

بندگان خدا دعا کو چمتو جاؤ۔ مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ، الکبیر بروایت معاذ رضی اللہ عنہ
کلام: دیکھئے ضعیف حدیث: الشوریۃ ۲۲۶۔ ضعیف الجامع ۴۷۸۵۔ المقاصد الحسنیۃ ۴۸۶۔

۳۱۲۴ اللہ تعالیٰ رحیم، زندہ اور کریم ہے وہ حیا کرتا ہے کہ بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔ اور ان میں کچھ خیر نہ ڈالے۔

مستدرک بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۱۲۵ اللہ تعالیٰ اس شخص پر غصہ ہوتے ہیں جو اللہ سے سوال نہ کرے اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ (کیونکہ باقی سب مانگنے سے ناراض

ہوتے ہیں)۔ فردوس بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۱۷۴۷۔

۳۱۲۶ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ پاک اس پر غضب ناک ہوتے ہیں۔ ترمذی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۱۲۷ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: مجھ سے دعا نہیں کرتا میں اس پر ناراض ہوتا ہوں۔ المواعظ للعسکری بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۴۰۵۵۔

۳۱۲۸ تمہارا پروردگار زندہ اور کریم ہے وہ حیا کرتا ہے کہ بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے۔

ابو داؤد، ابن ماجہ بروایت سلمان رضی اللہ عنہ

کلام: ذخیرۃ الحفاظ ۱۱۱۱۔

دعا کا آخرت کے لئے ذخیرہ ہونا

۳۱۲۹ کوئی شخص دعا نہیں کرتا مگر وہ قبول کی جاتی ہے یا تو دنیا میں ہی جلد اس کو مقصود عطا کر دیا جاتا ہے یا وہ دعا آخرت کے لئے ذخیرہ کر لی

جاتی ہے یا اس کے گناہوں میں بقدر دعا کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کر لے اور قطع رحمی کی دعا نہ کر لے اور

جلدی نہ کرے کہ کہے میں نے تو پروردگار سے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ ترمذی کتاب الدعوات بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۱۳۰ جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے رحمت کے سبب دروازے کھل گئے اور اللہ عزوجل سے اس سے اچھی کوئی دعا

نہیں مانگی گئی۔ کہ کوئی اس سے عاقبت کی دعا کرے۔ دعا پیش آمدہ اور غیر پیش آمدہ دونوں مصیبتوں کے لئے نفع دہ ہے۔ پس اے بندگان خدا تم

پر دعا لازمی ہے۔ ترمذی، مستدرک بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۵۷۲۰۔

۳۱۳۱ بندہ پر جب دعا کھول دی جائے تو وہ اپنے پروردگار سے دعا کرے کیونکہ پروردگار اس کو قبول فرماتا ہے۔

ترمذی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ، الحکیم بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۶۰۳۳۔

۳۱۳۲ بندہ جب کہتا ہے یارب یارب! تو پروردگار فرماتے ہیں: لیبیک عبدی مسل تعط بندے! میں حاضر ہوں سوال کرتے عطا کیا

جائے گا۔ ابن ابی الدنيا فی الدعاء بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

کلام: ضعیف الجامع ۶۱۱۔

۳۱۳۳ لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز شخص وہ ہے جو دعا سے عاجز ہو جائے اور سب سے بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخیل سے

کام لے۔ الصغیر للطبرانی، شعب للبیہقی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۱۳۲ عبادات میں افضل عبادت دعا ہے۔

مستدرک بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، الکامل لابن عدی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن سعد بروایت نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر
۳۱۳۵ اللہ تعالیٰ زندہ اور سخی ذات والے ہیں وہ حیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھائے تو ان کو خالی اور ناکام واپس لوٹادیں۔

مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک بروایت سلمان رضی اللہ عنہ

۳۱۳۶ تمام نیکیاں آدمی عبادت میں اور دوسری آدمی عبادت دعا ہے۔ ابن صغریٰ فی امالیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۱۸۲۰۔

۳۱۳۷ نیکی کا سارا عمل نصف عبادت ہے اور دعائے نصف عبادت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں
تو اس کا دل دعا میں مشغول فرما دیتے ہیں۔ ابن منیع عن انس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۲۸۰۹۔

۳۱۳۸ اللہ پاک بندے کی اس حاجت میں برکت دے جس کے لئے وہ زیادہ سے زیادہ دعا کرے۔ خواہ وہ دعائیں کو عطا کر دی جائے یا اس
سے منع کر دیا جائے۔ شعب للبیہقی، الخطیب بروایت جابر رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۲۷۰۲۔

۳۱۳۹ ہر شخص اپنے رب سے اپنی حاجت کا سوال کرے حتیٰ کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لئے بھی اپنے رب سے سوال کرے۔

ترمذی، ابن حبان بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الترمذی: ۳۵۰۔ ضعیف الجامع ۴۹۳۶۔ ذخیرۃ الحفاظ ۶۰۶۔ الضعیفۃ ۱۳۶۲۔ کشف الخفاء ۱۵۰۲۔

۳۱۴۰ ہر شخص اپنے رب سے اپنی ضرورت کا سوال کرے حتیٰ کہ نمک اور جوتے کے تسمہ کا سوال بھی اللہ سے کرے۔

ترمذی بروایت ثابت البنانی مرسلًا

کلام:..... ضعیف الجامع ۲۹۴۵۔ النواہج ۱۵۹۳۔

۳۱۴۱ اللہ سے اپنی ضرورت کا سوال کرو۔ حتیٰ کہ نمک کا بھی۔ شعب للبیہقی بروایت بکر بن عبد اللہ المزنی مرسلًا

کلام:..... ضعیف الجامع ۳۲۷۶۔

۳۱۴۲ اللہ سے ہر چیز کا سوال کرو۔ حتیٰ کہ تسمے کا بھی۔ کیونکہ اگر اللہ آسانی نہ فرمائے گا تو اس کا حصول بھی دشوار ہوگا۔

مسند ابی یعلیٰ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

کلام:..... ضعیف الجامع ۳۲۷۷۔ الضعیفۃ ۱۳۶۳۔

۳۱۴۳ کوئی چیز اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ مکرم نہیں۔ مسند احمد، الادب للبخاری، ترمذی مستدرک بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام:..... اسنی المطالب ۱۲۰۲۔ ذخیرۃ الحفاظ ۲۶۶۱۔ مختصر المقاصد ۸۲۷۔

۳۱۴۴ اللہ تعالیٰ بندہ کو دعا کی اجازت نہیں دیتے جب اس کی قبولیت کی اجازت نہیں دیتے۔

حلیۃ الاولیاء بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف ہے دیکھئے: اسنی المطالب ۱۲۱۸۔ ضعیف الجامع ۳۹۹۲۔ النواہج ۱۶۷۶۔

۳۱۴۵ کسی قوم نے اپنی ہتھیاریاں اللہ کے آگے بلند نہیں کی کسی شے کا سوال کرنے کے لئے مگر اللہ پران کا یہ حق ہے کہ ان کے سوال کو ان کے

ہاتھ میں رکھ دے۔ الکبیر بروایت سلمان رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۵۰۷۰۔

دعا سے مصیبت ٹل جاتی ہے

۳۱۴۶ جو شخص اللہ سے کسی شے کا سوال کرتا ہے اللہ پاک اس کو وہ شے عطا فرمادیتے ہیں یا اس سے اس کے مثل برائی اور مصیبت دفع کردیتے ہیں جب تک وہ گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ مسند احمد، نسائی بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۳۱۴۷ دعا سے عاجز مت ہو جاؤ۔ کیونکہ کوئی بھی دعا کے ساتھ ہلاک نہیں ہوا۔ مستدرک الحاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ
کلام: ذخیرۃ الخفاء ۶۱۱۳ - ضعیف الجامع ۶۲۲۶ - الضعیفۃ ۸۴۳ - النواصح ۲۵۹۷۔

۳۱۴۸ قضاء کو دعا کے سوا کوئی شے نہیں ٹال سکتی اور عمر میں نیکی کے سوا کوئی شے اضافہ نہیں کر سکتی۔ ترمذی، مستدرک بروایت سلمان رضی اللہ عنہ
کلام: کشف الخفاء ۱۲۹۷۔

۳۱۴۹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم! تین چیزیں ہیں۔ ایک میرے لئے ایک تیرے لئے اور ایک دونوں کے لئے۔ میرے لئے یہ ہے کہ تو میری عبادت کر اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ تیرے لئے یہ ہے کہ تو جو بھی نیک عمل کرے گا میں اس کا تجھ کو بدلہ دوں گا اور تو مغفرت مانگے گا تو میں غفور رحیم ہوں۔ اور تیرے لئے اور میرے لئے مشترک شے یہ ہے کہ تو دعا کر اور مانگ اور مجھ پر اس کا قبول کرنا اور عطا کرنا ہے۔ الکبیر بروایت سلمان رضی اللہ عنہ
کلام: ضعیف الجامع ۴۰۵۸۔

۳۱۵۰ بندہ جب دعا کرتا ہے اور (محسوس کرتا ہے کہ) وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔

الخطیب بروایت ہلال بن یساف مرسلًا

کلام: ضعیف الجامع ۴۹۱۔

ازالاکمال

۳۱۵۱ دعائی عبادت ہے۔

مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، الادب للبخاری، ترمذی حسن صحیح، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک، شعب الایمان للہیثمی بروایت نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر۔ مسند ابی یعلیٰ، السنن لسعید بن منصور بروایت براء رضی اللہ عنہ
۳۱۵۲ دعا نفل دیتی ہے نازل شدہ اور غیر نازل شدہ ہر مصیبت سے۔ پس اے اللہ کے بندو! تم پر دعا لازم ہے۔

ابن النجار بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
۳۱۵۳ تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے رحمت کے سب دروازے کھل گئے اور اللہ کے ہاں محبوب ترین دعا عافیت کی ہے جو اس سے مانگی جائے۔ بے شک دعا آئی ہوئی مصیبت اور بعد میں آنے والی مصیبت ہر ایک کے لئے نفع دہ ہے۔ اے بندگان خدا! تم دعا کو لازم پکڑ لو۔ ترمذی، کتاب الدعوات رقم ۳۵۲۲ غریب، مستدرک و تعقب بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
کلام: ضعیف الجامع ۵۷۲۰۔

۳۱۵۴ جس کے لئے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لئے قبولیت کے دروازے بھی کھل گئے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ)

۳۱۵۵ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ کسی بندے کے لئے دعا کا دروازہ کھولیں اور پھر قبولیت کا دروازہ بند کر لیں، اللہ اس سے بہت بخشنے والا ہے۔

الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام: تذکرۃ الموضوعات ۵۶۔ ترتیب الموضوعات ۹۹۸۔ الملآلی ۳۵۴/۲۔ الموضوعات ۱۷۱/۳۔

۳۱۵۶۔ جب اللہ پاک کسی بندے کی دعا قبول فرمانا چاہتے ہیں تو اس کو دعا کی اجازت دیتے ہیں۔ الدیلمی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
۳۱۵۷۔ اللہ عزوجل فرماتے ہیں: اگر بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں اور اگر مجھ سے سوال نہیں کرتا تو میں اس پر غضب

ناک ہوتا ہوں۔ ابو الشیخ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
۳۱۵۸۔ تقدیر کو صرف دعا ہی ٹالنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور عمر میں اضافہ نیکی کے سوا کسی اور شئی سے ممکن نہیں۔ بے شک بندہ اپنے کردہ

گناہوں کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، الکبیر بروایت ثوبان رضی اللہ عنہ
۳۱۵۹۔ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۱۶۰۔ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔

مصنف ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: دیکھئے المعلة ۳۶۳۔

۳۱۶۱۔ اے انس! دعا کی کثرت کرو۔ بے شک دعا قضاے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ ابو الشیخ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۱۶۲۔ اے بیٹے! دعا کثرت سے کیا کرو کیونکہ دعا قضاے مبرم کو بھی رد کر دیتی ہے۔

(الخطیب، ابن عساکر، الاحادیث السباعیہ للحافظ ابی محمد عبدالصمد، والرافعی بروایت انس رضی اللہ عنہ)

نوٹ: ۱۳۲۰ پر قضاے مبرم کے معنی ملاحظہ فرمائیں۔

۳۱۶۳۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ایک شئی میرے لئے ہے اور ایک شئی تیرے لئے اور ایک دونوں کے لئے۔ میرے لئے یہ ہے کہ تو میری
عبادت کر اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرا۔ اور تیرے لئے یہ ہے کہ تو جو بھی عمل کرے میں تجھے اس کا پورا پورا بدلہ دوں۔ اور دونوں کے لئے یہ

ہے کہ تو دعا مانگ اور میں قبول کروں گا۔ ابو داؤد بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام: روایت ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۴۰۵۸۔

۳۱۶۴۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے کے نامہ اعمال میں دیکھ جس نے مجھ سے جنت کا سوال کیا ہے اس کو جنت دیتا ہوں اور جس

نے جہنم سے پناہ مانگی ہے اس کو جہنم سے پناہ دیتا ہوں۔ حلیہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۱۶۵۔ اللہ تعالیٰ حیا فرماتے ہیں کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ پھیلائے اور اللہ سے ان میں خیر کی بھیک مانگے لیکن اللہ اس کو ناکام لوٹا دے۔

مسند احمد، الکبیر، ابن حبان، مستدرک بروایت سلمان رضی اللہ عنہ

۳۱۶۶۔ تمہارا رب جی (زندہ اور) کریم (سخی) ہے وہ حیا کرتا ہے کہ بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے

لہذا پروردگار ان میں خیر ڈال کر رہتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۱۶۷۔ اے لوگو! تمہارا پروردگار زندہ اور سخی ذات ہے اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ تم میں سے کوئی اس کی طرف ہاتھوں کو اٹھائے اور وہ

ان کو خالی لوٹا دے۔ مسند ابی یعلیٰ بروایت انس رضی اللہ عنہ

دعا مانگنے والا ناکام نہیں ہوتا

۳۱۶۸۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں اپنے بندہ سے شرم کرتا ہوں کہ وہ میری طرف ہاتھ اٹھائے اور میں ان کو خالی لوٹا دوں۔ ملائکہ کہتے ہیں اے

ہمارے معبود! وہ شخص اس دعا کی قبولیت کا اہل نہیں ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں: لیکن میں اہل التقویٰ اور اہل المغفرت ہوں۔ میں تمہیں گواہ بنا تا

ہوں کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ الحکیم بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۱۶۹ بندہ کو دعا کے صلہ میں تین میں سے ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ یا اس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے یا کوئی خیر اس کے لئے کسی (ضروری وقت کے واسطے) رکھ دی جاتی ہے۔ یا اس کو (اس دعا کی قبولیت کی شکل میں) اس کا اجر جلد ہی دے دیا جاتا ہے۔

الدیلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۱۷۰ جو بھی بندہ کسی حاجت میں اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتے ہیں یا تو نیا ہی میں یا آخرت کے لئے ذخیرہ کرتے ہیں اور جسے جلد ہی نہیں ملتی وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی پھر دعا کی اور میں نہیں دیکھتا کہ وہ قبول ہوئی ہو۔

مستدرک حاکم، شعب الایمان، بیہقی بروایت ابو ہریرہ

۳۱۷۱ کوئی بندہ مسلمان ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ قطع رحمی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ شے عطا فرماتے ہیں اور یوں جلد ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے یا اس کو آخرت کے لئے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے یا اس کے مثل اس سے کوئی برائی دفع کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! تب تو ہم خوب زیادہ دعا کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ بھی اس سے زیادہ دینے والا اور اچھا دینے والا ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، عبد بن حمید، مسند ابی یعلیٰ، مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیہقی بروایت ابی سعید رضی اللہ عنہ

۳۱۷۲ کسی بندہ نے کبھی یارب! تین مرتبہ نہیں کہا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ضرور فرمایا: لیکن عبدی اے بندے میں حاضر ہوں۔ پس جو اللہ چاہے وہ جلدی دیتا ہے اور جو چاہے بعد کے لئے رکھ دیتا ہے۔ الدیلمی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۱۷۳ جب کوئی دعا کرتا ہے اور وہ قبول نہیں ہوتی اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔

الخطیب بروایت ہلال رضی اللہ عنہ بن یساف مراسلاً

کلام: ... ضعیف الجا مع ۴۹۱۔

۳۱۷۴ لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز شخص وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو اور سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔

(الصغیر للطبرانی، شعب للبیہقی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۱۷۵ ہر دن اور رات میں اللہ کے ہاں اس کے غلام اور باندیوں کو جنہم سے آزاد کیا جاتا ہے اور ہر مسلمان کی (دن رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ حلیہ بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

الفصل الثانی..... دعا کے آداب میں

۳۱۷۶ اللہ سے دعا کرو اور قبولیت کا یقین رکھو۔ اور جان رکھو کہ اللہ لہو لب میں مشغول کی دعا قبول نہیں فرماتا۔

ترمذی، مستدرک بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

فائدہ:..... منہ سے انسان خدا کو یاد کر رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے لیکن دل کہیں اور مشغول ہے فرمایا ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لازمی آداب میں سے ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ خدا کی طرف مشغول ہو کر دعا مانگے۔

کلام:..... حدیث ضعیف ہے۔ دیکھئے اسنی المطالب ۸۹۔ ذخیرۃ الحفاظ ۱۵۶۔

۳۱۷۷ جب کوئی (اپنے پروردگار سے) تمنا کرے تو خوب کثرت کے ساتھ مانگے کیونکہ وہ اپنے رب سے سوال کر رہا ہے۔

الاوسط للطبرانی بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۱۷۸ جب تم میں سے کوئی شخص تمنا کرے تو دیکھ لے کہ وہ کس چیز کی (خدا سے) تمنا کر رہا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کی امیدوں میں

اسے کیا لکھ دیا جاتا ہے۔ مسند احمد، الادب المفرد، شعب الایمان للبیہقی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف دیکھئے: ذخیرۃ الحفاظ ۲۲۸- ضعیف الجامع ۲۳۸ الضعیفۃ ۲۲۵۵۔

۳۱۷۹ جب کوئی شخص دعا کرے تو عزم اور پختگی کے ساتھ مانگے اور یوں نہ کہے: اے اللہ! اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما دے۔ بے شک کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۱۸۰ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو امین بھی کہے۔ الکامل لابن عدی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ذخیرۃ الحفاظ ۲۹۲- ضعیف الجامع ۲۹۰- الضعیفۃ ۱۸۰۴۔

فرشتوں جیسا لباس پہننا

۳۱۸۱ جب کوئی شخص اپنے کسی غائب بھائی کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرنے والے کو کہتا ہے: تجھے بھی اس کے مثل عطا ہو۔

الکامل لابن عدی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ذخیرۃ الحفاظ ۲۹۳- کشف الخفاء ۱۲۰۴۔

۳۱۸۲ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے رب سے سوال کرے اور پھر قبولیت کو محسوس کرے تو یہ دعا پڑھے:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں، جس کی نعمت کے طفیل اچھی چیزیں تام ہوتی ہیں۔

اور جو شخص محسوس کرے کہ دعا کی قبولیت میں دیر ہوگئی ہے تو کہے:

الحمد لله على كل حال

ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ الدعوات للبيهقي بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۵۳۷- الضعیفۃ ۱۳۲۰۔

۳۱۸۳ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ کیونکہ وہ جنت کا درمیان ہے۔ الکبیر بروایت العرباض

۳۱۸۴ اللہ سے فردوس کا سوال کرو۔ وہ جنت کا بیج ہے اور اہل فردوس عرش کا چرچرانا سنیں گے۔

مستدرک، الکبیر بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۳۷۳۔

۳۱۸۵ اے سعد! ایک کے ساتھ (ایک کے ساتھ)۔ مسند احمد بروایت انس رضی اللہ عنہ

فائدہ: حضرت سعد رضی اللہ عنہ دعا میں دو انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک کے ساتھ اشارہ کرو کیونکہ پروردگار ایک ہے۔

۳۱۸۶ ایک ایک۔ ابوداؤد، نسائی، مستدرک مسند ابی یعلیٰ، سنن سعید بن منصور بروایت سعد رضی اللہ عنہ ترمذی،

نسائی، مستدرک، بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۱۸۷ جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگنا چاہے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرے پھر نبی ﷺ پر درود و سلام بھیجے پھر جو چاہے دعا کرے۔

ابوداؤد، ترمذی ابن حبان، مستدرک، السنن للبيهقي بروایت فضالہ بن عبید

۳۱۸۸ لوگوں سے کثرت کے ساتھ اپنے لئے بھلائی کی دعا کراؤ۔ کیونکہ بندہ نہیں جانتا کہ کس شخص کی زبان پر اس کے لئے دعا قبول

ہو جائے گی اور اس پر رحم کرو یا جائے گا۔ الخطیب فی رواة مالک بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۸۲۶۔

۳۱۸۹ اپنی ساری زندگی (خدا سے) خیر طلب کرتے رہو۔ اور اللہ کی رحمت کے مواقع تلاش کرتے رہو۔ بے شک اللہ کی رحمت کے بھی مواقع ہیں جو اس کے بندگان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب کو ڈھانپنے رکھے اور تمہارے ڈر اور خوف کو امن بخشنے۔

الفرج لابن ابی الدنیا الحکیم، شعب للبیہقی بروایت انس رضی اللہ عنہ، شعب الیہقی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کلام: ضعیف الجامع ۹۰۲۔

۳۱۹۰ بہترین افضل دعا بندہ کی اپنے لئے دعا ہے۔ مستدرک الحاحم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا کلام: روایت ضعیف ہے۔ دیکھئے ضعیف الجامع ۱۰۰۸۔ الضعیفۃ ۱۵۶۳۔

۳۱۹۱ یہ قلوب برتن ہیں۔ ان سب میں سے اچھا برتن وہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ جب تم اس سے سوال کرو تو قبولیت کا یقین رکھو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو غفلت اور لالابالی پن کے ساتھ دعا کرے۔ الکبیر بروایت ابن عجم رضی اللہ عنہ کلام: ضعیف الجامع ۲۰۲۔

۳۱۹۲ موافق (اور اچھی) دعا یہ ہے کہ بندہ یوں کہے:

اللھم انت عربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی یارب فاغفر لی ذنبی انک ربی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔

اے اللہ! تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ مجھ سے اپنی جان پر بہت ظلم ہوا میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ اے پروردگار! میرے گناہ بخش دے۔ بے شک تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔

محمد بن نصر فی الصلاة بر۔ وایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۲۱۲۳۔

۳۱۹۳ اللہ پاک بندہ پر تعجب (اور نفرت) فرماتے ہیں جب وہ کہتا ہے: پروردگار! تیرے سوا میرا کوئی مغبود نہیں۔ مجھ سے اپنی جان پر بہت ظلم ہوا۔ پس میرے گناہوں کو بخش دے۔ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ لہذا پروردگار فرماتے ہیں: میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو مغفرت بھی کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے۔ مستدرک، ابن السنی علی رضی اللہ عنہ کلام: آدمی کے لئے یہ کافی ہے کہ وہ کہے:

اللھم اغفر لی وارحمنی وادخلنی الجنة

اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ الکبیر بروایت السائب بن یزید

۳۱۹۵ ہم بھی یہی دعا کرتے تھے۔ ابو داؤد، بروایت بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فائدہ: یعنی جنت کی مانگ اور جہنم سے پناہ۔

۳۱۹۶ آہستہ دعا کرنا اعلانیہ ستر دعائیں کرنے کے برابر ہے۔ ابو الشیخ فی الثوب بروایت انس رضی اللہ عنہ کلام: ضعیف الجامع ۲۹۷۸۔

۳۱۹۷ دعا کرنے والا اور آمین کرنے والا اجر میں (برابر کے) شریک ہیں۔ قاری اور سنن والا اجر میں (برابر کے) شریک ہیں۔ یونہی عالم اور محکم (اجر میں برابر کے) شریک ہیں۔ الفردوس للدیلمی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: روایت ضعیف ہے، دیکھئے: اسنی المطالب ۶۶۷۔ التیمیز ۷۸۔ الشذرہ ۴۱۹۔ ضعیف الجامع ۲۹۹۶۔ کشف الخفاء ۱۲۸۱۔ مختصر المقاصد ۴۷۷۔ المقاصد الحسنہ ۷۷۷۔ النوار ۷۳۲۔

عافیت کی دعا اہم ہے

۳۱۹۸ عافیت کا اچھے خیر کے لئے سوال کر تجھے عافیت عطا کی جائے گی۔ الترغیب للاصحابی بروایت عمر رضی اللہ عنہ
کلام:..... ضعیف الجامع ۸۹۹۔

۳۱۹۹ سبحان اللہ! تم اس کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ایسا کر سکتے ہو۔ تم نے یوں کیوں نہیں کہا:

اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

”اے اللہ! ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔“

مسند احمد، الادب المفرد، مسلم، ترمذی، نسائی بروایت انس رضی اللہ عنہ

فائدہ:..... ایک صحابی بیمار ہو گئے اور بالکل چوزے کی مانند کمزور ہو گئے۔ آپ ﷺ اس کی عیادت کو گئے اور پوچھا تم کیا دعا مانگتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ جو سزا تو نے مجھے دینی ہے وہ آخرت کی بجائے دنیا ہی میں دے دے۔ تب آپ ﷺ نے مذکورہ ارشاد فرمایا۔

۳۲۰۰ افضل دعا یہ ہے کہ تو اپنے رب سے دنیا و آخرت میں عفو (دور گزر) اور عافیت کا سوال کرے کیونکہ جب یہ دونوں چیزیں دنیا میں تجھے مل گئیں تو یقیناً تو کامیاب ہو گیا۔ (مسند احمد، ہناد، ابو داؤد، ترمذی، بروایت انس رضی اللہ عنہ
کلام:..... ضعیف الجامع ۱۰۰۶۔

۳۲۰۱ کوئی دعا بندہ اس دعا سے افضل نہیں کرتا:

اللهم انی استلک العفو و العافیة فی الدنيا و الآخرة.

اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۰۲ اے عباس! اے رسول اللہ کے چچا! اللہ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کر۔ مسند احمد، ترمذی بروایت عباس رضی اللہ عنہ

۳۲۰۳ اپنے رب سے دنیا و آخرت میں عافیت اور معافی کا سوال کر۔ اگر تم کو دنیا میں عافیت مل گئی۔ پھر آخرت میں بھی عافیت مل گئی تو یقیناً تو

کامیاب ہو گیا۔ ترمذی بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۳۲۶۹۔

۳۲۰۴ دنیا و آخرت میں اللہ سے عافیت کا سوال کر۔ التاريخ للبخاری، مستدرک بروایت عبد اللہ بن جعفر

۳۲۰۵ اے عافیت والے! تمام امیدیں اور حسرتیں تجھ پر تہمتی ہوتی ہیں۔

الوسط للطبرانی شعب البیہقی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۰۶ اور رسول اللہ بھی تیرے ساتھ عافیت کو محبوب رکھتے ہیں۔ الکبیر بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

کلام:..... الکشف الالہی ۱۰۶۔ ضعیف الجامع ۶۱۲۰۔

۳۲۰۷ کلمہ اخلاص کے بعد تم کو عافیت جیسی کوئی چیز نہیں دی گئی۔ پس اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔

شعب البیہقی بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۴۷۵۶۔

۳۲۰۸ عافیت کی دعا کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ مستدرک بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۲۰۹ اللہ سے عفو اور عافیت کا سوال کر۔ کیونکہ ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی۔

مسند احمد ترمذی بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

دعا کے جامع الفاظ

۳۲۱۰ (اے عائشہ!) دعا کے لئے جامع جملے اپناؤ اور یوں کہو!

اللہم انى اسئلك من الخیر كله، عاجله واجله، ما علمت منه، وما أعلم، واعد ذبک من الشر كله، ما علمت منه وومالم اعلم واسئلك الجنة، وما قرب اليها، من قول او عمل، واعد ذبک من النار، وما قرب اليها من قول او عمل واسئلك مما سئلك به محمد، واعد ذبک مما تعوذ به محمد وما قضیت لی من قضاء فاجعل عاقبته لك رشداً۔

”اے اللہ! میں آپ سے تمام خیروں کا سوال کرتا ہوں جلد والی اور دیر والی، میرے علم میں ہو یا نہیں، اور میں آپ سے تمام شرور کی پناہ چاہتا ہوں جو میرے علم میں ہو یا نہیں، اور میں آپ سے جنت کا اور ہر اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو اس کے قریب کرنے کے قول ہو یا عمل۔ اور میں آپ کی جہنم سے پناہ چاہتا ہوں اور ہر اس قول و عمل سے جو اس کے قریب کر دے اور آپ سے ہر اس شئی کا سوال کرتا ہوں جس کا محمد (ﷺ) نے آپ سے سوال کیا اور ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں جس سے محمد (ﷺ) نے پناہ مانگی ہے۔ اے پروردگار! تو جو بھی میرے لئے فیصلہ فرمائے اس کا انجام کارا اپنی طرف رہنمائی بناؤ۔“

۳۲۱۱ اگر میں تمہارے لئے اس میں بھلائی جانوں گا تو ضرور تم کو سکھاؤں گا۔ اس لئے کہ افضل دعا وہ ہے جو دل سے آہ و زاری کے ساتھ نکلے۔ پس ایسی دعا سنی جاتی ہے اور قبول کیا جاتی ہے خواہ وہ دعا تھوڑی کیوں نہ ہو۔ الحکیم بروایت معاذ رضی اللہ عنہ
کلام: ضعیف الجامع ۹۲/۴۷۔

۳۲۱۲ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب دعا کوئی نہیں کہ بندہ کہے:

اللهم ارحم امة محمد رحمة عامة

اے اللہ! امت محمد (ﷺ) پر رحمت عامہ کے ساتھ رحم فرما۔ الخطب فی التاریخ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ذخیرة الحفاظ ۴۷/۲۸۔ ضعیف الجامع ۵۱/۵۱۔ الضعیفۃ ۲۱۰۶۔ الکشف الالہی ۸۳۰۔ المغیر ۱۲۱۔

۳۲۱۳ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک فرشتہ ہر اس شخص پر مقرر ہے جو کہے: یا ارحم الراحمین جو شخص تین مرتبہ یہ کہتا ہے وہ فرشتہ اس کو کہتا ہے: ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہیں کہو (جو کہنا ہے)۔ مستدرک بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ
کلام: ضعیف الجامع ۱۹۵۷۔

۳۲۱۴ ایک شخص نے یا ارحم الراحمین خوب خوب کہا۔ چنانچہ اس کو نداء دی گئی ہم نے تیری پکار سن لی، بول! تیری کیا حاجت ہے؟

فی الثواب عن ابی الشیخ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۱۵ دعا بارگاہ خداوندی میں جانے سے رکی رہتی ہے حتیٰ کہ محمد (ﷺ) اور آپ کے اہل بیت پرورد نہ پڑھا جائے۔

ابوالشیخ بروایت علی رضی اللہ عنہ

کلام: ۳۰۰۲ ضعیف الجامع۔

۳۲۱۶ اپنے گھٹنوں کے بل اٹھو اور پھر کہو یا رب! یا رب! ابو عوانہ والبقوی (فی المشکوٰۃ بروایت سعید رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۱۳۶۔

۳۲۱۷ اس دعا کو لازم پکڑ لو

اللہم انى اسئلك باسئلك الاعظم ورضوانک الاکبر

”اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم اعظم اور تیری رضائے اکبر کے ساتھ۔ بے شک یہ اللہ کے اسماء میں سے اسم ہے۔“

البغوی، ابن قانع، الکبیر بروایت حمزہ بن عبدالمطلب

۳۲۱۸ یا ذالجلال والاكرام کے ساتھ چٹ جاؤ۔

ترمذی بروایت انس رضی اللہ عنہ، مسند احمد، ترمذی، مستدرک بروایت ربیعہ رضی اللہ عنہ بن عامر

۳۲۱۹ جو شخص اللہ سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے: اے اللہ! اس کو جنت میں داخل کر۔ اور جو شخص جہنم سے تین مرتبہ پناہ

مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے: اے اللہ! اس کو جہنم سے پناہ دے۔ مستدرک، نسائی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۲۲۰ جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ مصیبتوں اور تکالیف کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے تو وہ ہولت اور نرمی میں بھی کثرت سے دعا کرے۔

ترمذی، مستدرک بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ... الاطبا: ۶۸۱۔

۳۲۲۱ کشادگی میں اللہ کو یاد رکھو وہ شدت میں تجھے یاد رکھے گا۔ ابی القاسم بن بشران فی امالیہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۲۲ تم میں سے ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ کہ (مثلاً) یوں کہے: میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہ ہوئی۔

بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۲۳ بندہ اپنی حاجت طلب کرتا ہے لیکن اللہ وہ حاجت ٹال دیتا ہے صبح کو وہ لوگوں پر بدگمانی کرتا ہے کہ کس نے میری برائی چاہی

ہے؟ (کون میرا دشمن)۔ الکبیر بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: ... ضعیف الجامع ۱۴۵۶۔ وفی من شعبی۔

۳۲۲۴ انسان کو چاہئے کہ وہ دیکھتا رہے کہ وہ کس چیز کی تمنا کر رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ کوئی آرزو اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے۔

ترمذی بروایت ابی سلمہ

کلام: ... ضعیف الترمذی ۳۳۵۔ ضعیف الجامع ۴۹۶۱۔

۳۲۲۵ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ پاک پسند کرتے ہیں کہ اسی سے سوال کیا جائے۔ اور افضل عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔

ترمذی بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ

کلام: ... روایت ضعیف ہے۔ دیکھئے ذخیرۃ الحفاظ ۳۲۲۰ الشذرة ۱۷۵۔ ضعیف الترمذی ۴۰۔ ضعیف الجامع ۲۳۷۸۔ الضعيفة ۴۹۴۔

کشف الخفاء ۱۵۰۔ الشتر ۷۷، ۷۹، ۸۱۔ المقاصد الحسنة ۱۹۵۔ موضوعات الاحیاء ۲۷۔

۳۲۲۶ اللہ سے علم نافع کا سوال کرو۔ اور اس علم سے اللہ کی پناہ مانگو جو نفع نہ دے۔ ابن ماجہ، شعب البیہقی بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۳۲۲۷ اللہ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو۔ جو جنت میں اعلیٰ درجہ ہے اس کو صرف ایک شخص ہی پاسکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں

ہوگا۔ ترمذی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۲۸ اللہ سے میرے لئے وسیلہ کا سوال کرو۔ بے شک جو بندہ دنیا میں یہ مقام خدا سے میرے لئے مانگتا ہے میں قیامت کے دن اس کے

لئے گواہ یا سفارشی ہوگا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، الاوسط بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۲۲۹ اللہ سے ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے ساتھ سوال کرو اور ہتھیلیوں کی پشت کے ساتھ سوال نہ کرو۔ الکبیر بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

فائدہ: ... ہاتھ پلٹ کر لٹے ہاتھوں سے دعا نہیں مانگنی چاہئے بلکہ سیدھے ہاتھوں کے ساتھ دعا مانگے۔

۳۲۳۰ ہتھیلیوں کے باطن کے ساتھ اللہ سے دعا کرو اور ہتھیلیوں کی پشت کے ساتھ سوال نہ کرو۔ پھر جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہتھیلیاں

اپنے منہ پر پھیر لیا کرو۔ ابو داؤد، السنن للبیہقی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: ... ضعیف الجامع ۲۳۷۴۔ الکشف الاہلبی ۴۳۸۔

۳۲۳۱ جب تو اللہ سے دعا کرے تو اپنے ہاتھوں کے اندرونی حصے کے ساتھ دعا کر اور ہاتھوں کی پشت کے ساتھ نہ کر۔

ابوداؤد، بروایت مالک بن یسار الکوفی

کلام: ذخیرۃ الحفاظ ۳۲۱

نیز فرمایا: پھر ان ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ الکبیر، مستدرک بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۲۳۳ واجب کر لی اگر اس نے ائین کے ساتھ دعا ختم کی۔ ابوداؤد بروایت ابی زبیر النمیوی

فائدہ: اس روایت کے دو مطلب ممکن ہیں پہلا یہ کہ اس نے دعا کی قبولیت واجب کر لی اور دوسرا مطلب یہ کہ جنت واجب کر لی۔ لہذا مطلب زیادہ قرین قیاس ہے۔ اور دوسرا مطلب علامہ مناوی کی فیض القدر سے ماخوذ ہے۔

کلام: ضعیف الجامع ۲۱۱۔

۳۲۳۴ جب کوئی سوال کرے تو کثرت کے ساتھ کرے۔ بے شک وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔

ابن حبان بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

فائدہ: یعنی ایک ہی شئی کو بار بار الحاج وزاری کے ساتھ مانگے اور خدا سے کسی کا خوف نہ رکھے جس قدر چاہے مانگے۔

۳۲۳۵ جب کوئی دعا مانگنا چاہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھالے اور ہتھیلیوں کا اندر سامنے کزلے اور قبلہ رو ہو جائے بے شک خدا اس کے بالکل

سمانے ہے۔ الاوسط بروایت عمر رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۳۵۷ الضعیفۃ ۲۳۳۸۔

حرام خوری قبولیت دعا سے مانع ہے

۳۲۳۶ اے انسانو! اللہ پاک ہیں اور پاکیزہ شے کو ہی قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اس چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اپنے رسولوں کو فرمایا ہے:

یا ایہا الرسل۔ کلو امن الطیبات و اعملوا اصالحاً انی بما تعملون علیم۔

اے رسولو! پاکیزہ اشیاء کھاؤ اور اچھے عمل بجالاً بے شک جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔

اور فرمایا:

یا ایہا الذین امنوا کلو امن الطیبات ما رزقنا کم۔

اے ایمان والو! پاکیزہ اشیاء کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔

اس کے بعد رسول اکرم ﷺ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا: کد ایک شخص ہے جو لمبے سفر کرتا ہے، پرانگندہ حال ہے، پرانگندہ بال ہے۔ اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کے یارب یارب! پکارتا ہے۔ لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ پینا حرام ہے۔ لباس حرام ہے، حرام سے وہ پلا ہے پھر کہاں اس کی دعا قبول ہوگی۔ مسند احمد، مسلم، ترمذی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

فائدہ: سفر میں دعا قبول ہوتی ہے پرانگندہ حال اور پرانگندہ بال انسان پر زیادہ رحم آتا ہے یعنی اس شخص کی ظاہری کیفیت ایسی ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے لیکن حرام کھانے پینے پہننے کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ معاذ اللہ۔

۳۲۳۷ اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہارے عیوب کو چھپا رکھے۔ اور تمہارے ڈر اور خوف کو امن بخشتا ہے۔

مکارم الاخلاق وللخراطی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۳۸ تو نے اللہ سے مقررہ مدتوں، معین دنوں اور تقسیم شدہ رزق کا سوال کیا ہے۔ وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی شے نہیں اتارتے اور وقت

آنے کے بعد کوئی شے مؤخر نہیں فرماتے۔ پس اگر تو اللہ سے جہنم اور قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا تو تیرے لئے زیادہ بہتر اور افضل تھا۔

(مسند احمد، سنن سعید بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ)

فائدہ:..... یہ روایت صحیح مسلم کتاب القدر رقم الحدیث ۲۶۶۳ پر بھی ہے۔ اور یہ خطاب حضور اکرم ﷺ حضرت ام حبیبہ کو فرمایا ہے۔

۳۲۳۹ روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ سے کوئی دعا مانگے مگر یہ کہ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرماتے ہیں یا اس کے مثل اس سے برائی دفع فرماتے ہیں جب تک کہ گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ چمائے کہ کہے میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ (ترمذی بروایت عبادہ رضی اللہ عنہ بن الصامت)

۳۲۴۰ بندہ کی دعا مسلسل قبول ہوتی رہتی ہے جب تک گناہ کی دعا نہ کرے یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جب تک جلدی نہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا: وہ کہے کہ میں نے دعا کی تھی مگر مجھے نظر نہیں آتا کہ میری دعا قبول ہوئی ہو۔ پس وہ اس وقت آکتا کر دعا کرنا چھوڑ دے۔

مسلم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۴۱ کوئی بندہ ایسا نہیں جو ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ اس کی بغلیں نظر آجائیں اور پھر وہ اللہ سے سوال کرے مگر یہ کہ اللہ پاک اس کو عطا کر دیتے ہیں جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے کہ کہے: میں نے سوال کیا تھا اور (کئی بار) سوال کیا تھا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔

ترمذی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الترمذی ۳۲۲۷۔ ضعیف الجامع ۵۲۰۳۔

دعا میں گڑ گڑانا چاہیے

۳۲۴۲ (خدا سے) سوال (کرنے کا طریقہ) یہ ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے سامنے تک اٹھائے اور استغفار یہ ہے کہ تو ایک انگلی سے

اشارہ کرے اور خدا کے آگے گڑ گڑانا اور آہ و زاری کرنا یہ ہے کہ تو ہاتھوں کو پورا پھیلانے۔ ابو داؤد بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۲۴۳ اے انسانو! اپنی جانوں پر زمی کرو تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے ہو۔ تم ایسی ہستی کو پکارتے ہو جو خوب سننے والی اور تمہارے

بالکل قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد بروایت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ

۳۲۴۴ اے لوگو! تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو نہ کسی غائب کو۔ جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کی گردنوں کے درمیان ہے۔

ترمذی بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۶۳۸۲۔

۳۲۴۵ اے علی! اللہ سے ہدایت اور درستی کا سوال کرو۔ اور ہدایت کے ساتھ سیدھے راستے کی ہدایت یاد رکھو اور درستی سے اپنے تیروں کے

نشانے کی درستی یاد رکھو۔ (مسند احمد، نسائی، مستدرک بروایت علی رضی اللہ عنہ)۔ (تیز دیکھئے صحیح مسلم کتاب الذکر ۲۷۲۵)۔

۳۲۴۶ کہو: اللھم اھدنی وسددنی۔ اور ہدایت کے راستے کی ہدایت اور درستی سے تیرے نشانے یاد رکھو۔

مسلم، ابو داؤد بروایت علی رضی اللہ عنہ

الاکمال

۳۲۴۷ اللہ سے سوال کرو۔ ہتھیلیوں کے اندرونی حصہ کے ساتھ۔ اور ہتھیلیوں کی پشت کے ساتھ سوال مت کرو۔

الکبیر بروایت ابی بکرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۴۸ ایک ایک۔ ابو داؤد، نسائی، مستدرک، السنن لسعد بن منصور بروایت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص

فائدہ:..... حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دعا کرتے ہوئے دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ نبی ﷺ میرے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے: ایک ایک۔ ترمذی، حسن، غریب، نسائی، مستدرک، شعب الیہقی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۲۴۹۔۔۔ تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو رحمتیں پیدا فرمائی تھیں دنیا پر صرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے جس کی بدولت تمام مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہے جن ہو۔ انسان ہو یا بہائم۔ جبکہ رحمت کے ننانوے حصے اللہ نے اپنے پاس روک رکھے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ یہ شخص زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ جو یہ کہتا ہے:

اللهم ارحمني ومحمدًا ولا تشرك في رحمتنا احدًا

”اے اللہ! مجھ پر اور محمد (ﷺ) پر رحم فرما۔ اور ہمارے ساتھ کسی اور کو اس رحمت میں شریک نہ فرما۔“

مسند احمد، ابو داؤد، السنن للیبہقی، الباوردی، الکبیر، مستدرک، السنن لسعید بن منصور بروایت جندب رضی اللہ عنہ ۳۲۵۰۔۔۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو خوب رغبت اور شوق کے ساتھ دعا کرے۔ بے شک کوئی شے اس ذات کو بھاری نہیں۔

ابن حبان بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۵۱۔۔۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اور اپنی انگلی کے ساتھ (اوپر کی طرف) اشارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میں نے بندے نے خلوص کے ساتھ مجھے یاد کیا ہے۔ الدبلمی بروایت انس رضی اللہ عنہ

پختہ اعتقاد کے ساتھ دعا

۳۲۵۲۔۔۔ جب تم اللہ عزوجل سے سوال کرو تو خوب عزم اور پختگی کے ساتھ سوال کرو۔ بے شک کوئی شے اس کے لئے مشکل نہیں ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۵۳۔۔۔ تم میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے میری مغفرت فرما اگر تو چاہے۔ بلکہ عزم اور پختگی کے ساتھ سوال کرے، بے شک کوئی اس کو مجبور نہیں

کر سکتا۔ (اگر وہ چاہے گا تب ہی عطا کرے گا۔ لیکن وہ رحیم ہے ضرور عطا کرے گا)۔ مصنف ابن ابی شیبہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۵۴۔۔۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو ہاتھوں کے کٹن کے ساتھ سوال کرو۔ پھر ان کو یونہی نہ چھوڑ دو جب تک کہ ان کو اپنے منہ پر نہ پھیر لو۔

کیونکہ اللہ پاک ان میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ابن نصر بروایت ولید بن عبداللہ بن ابی مغیث

۳۲۵۵۔۔۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو تھیلیوں کے سامنے کے حصے کے ساتھ سوال کرو اور پشت کے ساتھ سوال نہ کرو۔ پھر ان کو اپنے چہروں پر پھیر لو۔

ابن ماجہ، الکبیر، مستدرک الحاکم، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۲۵۶۔۔۔ اللہ کے آگے ہاتھوں کو اٹھانا عاجزی اور مسکنت سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فما استکانوا الربہم وما یتضرعون۔

وہ اپنے رب کے آگے جھکتے نہیں اور نہ انہوں نے عاجزی کی۔ مستدرک، السنن للیبہقی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۳۲۵۷۔۔۔ بندہ مسلسل خیر (کے دائرے) میں رہتا ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے کہ یوں کہنے لگے: میں نے پروردگار سے دعا کی اور کئی بار کی

مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ مسند احمد، سمویہ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۲۵۸۔۔۔ دعا میں پہلے عومیت اور پھر تفصیل کرو۔ عوم اور خصوص کے درمیان آسمان وزمین کے درمیان جتنی دوری ہے۔

ابو داؤد فی مراسیلہ، الخطیب فی تاریخ بروایت عمرو بن شعیب

فائدہ:..... یعنی پہلے سب مسلمانوں کے لئے دعا کرو پھر خاص اپنے لئے کرو۔ اس طرح تمام مسلمان دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ جس

طرح آسمان وزمین کے درمیان اکثر مخلوق آجاتی ہے اسی طرح پہلے عام مسلمانوں کے لئے پھر اپنے لئے کرنے سے تمام مسلمان شریک فی

الدعا ہو جائیں گے۔

۳۲۵۹ (رحمت خداوندی کو) عام کرو اور خاص نہ کرو۔ بے شک عموم اور خصوص کے درمیان یونہی فاصلہ ہے جیسے آسمان وزمین کے درمیان۔

الدلیلی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۳۲۶۰ اللہ پاک تعجب فرماتا ہے جنت کے علاوہ سوال کرنے والے پر، غیر اللہ کے نام پڑینے والے پر، جہنم کے علاوہ کسی اور شے سے پناہ مانگنے

والے پر۔ التاریخ للخطیب بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ

۳۲۶۱ مؤمن بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جبرئیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں تم اس کو جواب نہ دو۔ (اور فی الحال اس کی دعا قبول نہ

کرو) میں چاہتا ہوں کہ اس کی آواز مزید سنوں۔ اور جب فاجر شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جبرئیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں: اے

جبرئیل! اس کی حاجت جلد پوری کرو میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام: اس روایت میں ایک زاوی اسحاق بن ابی فروة ہے جو متروک ہے، قابل اعتبار نہیں۔

۳۲۶۲ کافر اللہ عزوجل سے اپنی حاجت مانگتا ہے تو اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے اور مؤمن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی حاجت

روائی میں دیر کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس پر ملائکہ شکوہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں: میں نے کافر کی ضرورت اس لئے پوری کر دی تاکہ وہ

مجھے نہ پکارے اور نہ مجھے یاد کرے کیونکہ مجھے اس سے نفرت ہے۔ اور میں اس کی آواز سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ اور مؤمن کے لئے دیریوں کی

تاکہ وہ مجھے پکارنا نہ چھوڑ دے بلکہ مجھے یاد کرتا رہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کی آواز ساری کو بھی محبوب رکھتا ہوں۔

الحلیلی بروایت جابر رضی اللہ عنہ

کافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے

۳۲۶۳ جبرئیل علیہ السلام بنی آدم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مقرر ہیں۔ جب کوئی کافر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں: اے جبرئیل! اس کی حاجت پوری کر دے۔ میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ اور جب کوئی بندہ مؤمن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں: اے جبرئیل! اس کی حاجت روک رکھ۔ میں مزید اس کی پکار سننا چاہتا ہوں۔ ابن النجار بروایت جابر رضی اللہ عنہ

۳۲۶۴ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت رکھتا ہے تو جبرئیل علیہ السلام سے فرماتا ہے: اے جبرئیل! اس بندہ کی حاجت پوری کر مگر

کچھ تاخیر کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی آواز سنوں۔ دوسرا بندہ اللہ سے دعا کرتا اور اللہ اس کو مغفوس رکھتا ہے تو جبرئیل سے فرماتا ہے: اے

جبرئیل! اس کی حاجت جلد پوری کر۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ ابن عساکر بروایت انس رضی اللہ عنہ و جابر رضی اللہ عنہ

کلام: اس روایت میں بھی اسحاق بن عبدانی فروہ متروک راوی ہے۔

۳۲۶۵ بندہ تجارت اور امارت کی طرف مشغول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سات آسمانوں کے اوپر سے اس کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں میرے

بندے سے یہ (تجارت و امارت) دور کر دو۔ کیونکہ اگر میں اس کے لئے اس کا فیصلہ کر دوں گا تو اس کو جہنم میں داخل کرنا پڑے گا۔ پس وہ صبح

کرتا ہے اس حال میں کہ وہ پڑوسیوں پر بدگمانی کرتا ہے کہ کس نے میرے خلاف بددعا کی ہے۔

حلیۃ الاولیاء بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حلیۃ الاولیاء بروایت ابن مسعود موقوفاً

۳۲۶۶ تمہارا رب جی اور کریم ہے وہ حیاء کرتا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اس کو خالی لوٹا دے اور ان میں کوئی خیر نہ

ڈالے۔ پس جب کوئی ہاتھ اٹھائے تو یوں کہے: یا حسی یا قیوم۔ لا الہ الا انت تین مرتبہ (پھر دعا کرے) پھر جب آخر میں ہاتھ اٹھائے تو اپنے

چہرے پر وہ خیر پھیر لے۔ الکبیر للطبرانی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۲۶۷ تمہارا رب جی کریم ہے وہ شرم کرتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کو خالی ہاتھ لوٹا دے اور ان میں کوئی خیر نہ رکھے۔ پس

بندہ کو چاہئے کہ خوب اصرار کے ساتھ دعا کرے اور جب کوئی پریشانی لاحق ہو تو کہے:

حسبى اللہ ونعم الوکیل

اللہ مجھے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ الدار قطبی فی الافراد بروایت علی رضی اللہ عنہ

۳۲۶۸ تمہارا پروردگار زندہ سچا ہے وہ جیسا کرتا ہے کہ بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹا دے اور ان میں کوئی خیر

نہ ڈالے۔ سو جب پھر جب اپنے ہاتھ واپس کرے تو یہ خیر اپنے چہرے پر پھیر لے۔ الکبیر للطبرانی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۲۶۹ دعا آسمان پر جانے سے رکی رہتی ہے حتیٰ کہ نبی (ﷺ) پر درود نہ بھیجا جائے۔ چنانچہ جب نبی (کریم ﷺ) پر درود پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ

دعا آسمان پر چلی جاتی ہے۔ الدیلمی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۲۷۰ ہر دعا اور اللہ کے درمیان ایک پردہ حائل رہتا ہے حتیٰ کہ نبی اور اس کی آل پر درود پڑھ لیا جائے۔ پس جب درود پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ حجاب

شق ہو جاتا ہے اور دعا (بارگاہ رب العزت میں) داخل ہو جاتی ہے ورنہ واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ الدیلمی بروایت علی رضی اللہ عنہ

۳۲۷۱ کوئی دعا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ بندہ یوں کہے:

اللهم انی اسألك المعافاة فی الدنیا والآخرة

اے اللہ! میں آپ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ الکبیر بروایت معاذ رضی اللہ عنہ

فائدہ:..... عافیت بہت جامع لفظ ہے جس کا مطلب ہے تمام شرور، قتلوں اور مصیبتوں سے حفاظت اور تمام بھلائیوں کا حصول میسر ہو۔

عافانا اللہ فی الدارین۔

۳۲۷۲ تو نے اللہ سے بلا کا سوال کیا ہے، عافیت کا سوال کرو۔ تو مذی حسن غریب معاذ رضی اللہ عنہ

فائدہ:..... ایک شخص خدا سے صبر سے سوال کر رہا تھا۔ چونکہ مصیبت آئے گی تو صبر کا موقع بھی میسر ہوگا اس لئے آپ علیہ السلام نے اس شخص

کو مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا۔

۳۲۷۳ دنیا میں بندہ کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سب سے افضل عافیت ہے۔ اور جو بندہ کو آخرت میں ملے گا اس میں سب سے افضل

مغفرت ہے اور خود بندہ کو اس کی ذات کی طرف سے جو اچھائیاں میسر ہیں ان میں سب سے افضل نصیحت پذیری ہے۔ جس سے قوم بھلائی پالیتی

ہے۔ الحکیم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۷۴ یہی تو ہم گنگناتے ہیں۔ (ابوداؤد بروایت بعض صحابہ رضی اللہ عنہم)

فائدہ:..... قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص سے آپ (ﷺ) نے فرمایا تم اپنی نماز میں (بطور دعا) کیا پڑھتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا: میں شہد پڑھ

کر کہتا ہوں:

اللهم انی اسألك الجنة واعوذ بک من النار۔

باقی میں آپ کی طرح اچھی دعا تو مانگ نہیں سکتا اور نہ معاذ رضی اللہ عنہ کی طرح مانگ سکتا ہوں۔ تب آپ (ﷺ) نے فرمایا: ہم بھی یہی دعا

مانگتے ہیں۔ ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد بروایت رجل من سلیم

۳۲۷۵ رسول اللہ (ﷺ) بھی تیرے ساتھ عافیت کو پسند کرتے ہیں۔

الکبیر للطبرانی الصغفاء للعقبلی بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

عافیت کی دعا مانگنا

فائدہ:..... ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے عافیت میسر ہو اور میں شکر ادا کرتا رہوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے نسبت اس بات کہ مصیبت

میں مبتلا ہو جاؤں اور پھر صبر کروں تو آپ ﷺ نے مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا۔

کلام: اس میں ایک راوی ابراہیم بن البراء بن النضر بن انس ہیں۔ علامہ عقلی فرماتے ہیں اس کا کوئی تابع نہیں ہے اور مذکورہ راوی صرف اسی حدیث کے ذیل میں جانے جاتے ہیں۔ نیز وہ ثقہ راویوں کی طرف سے باطل روایات سناتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت منکر ہے۔

۳۲۷۶ سجان اللہ! تم اس کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس کی سہارا رکھتے تم نے یوں کیوں نہیں کہا:

ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، الادب المفرد، مسلم، ترمذی، نسائی، ابی یعلیٰ، ابن حبان، شعب الایمان للبیہقی بروایت انس رضی اللہ عنہ فائدہ: ایک شخص انتہائی بیمار ہو گیا حتیٰ کہ چوزے کی طرح کمزور نکل آیا۔ نبی کریم ﷺ اس کی عیادت کو گئے۔ اور پوچھا تم کیا مانگتے تھے؟ کیا سوال کرتے تھے؟ کیا اپنے رب سے عافیت نہیں مانگتے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا: میں اللہ سے یہ مانگتا تھا کہ اے اللہ! تو مجھے آخرت میں جو جزا دینا چاہتا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ تب نبی کریم ﷺ نے مذکورہ بالا فرمان ارشاد فرمایا۔

۳۲۷۷ اللہ سے سوال کرو دنیا و آخرت میں غنم، عافیت اور یقین کا بے شک یقین کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی شے نہیں ملی۔

مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مستدرک بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

۳۲۷۸ اللہ سے غنم و عافیت کا سوال کرو۔ ابن سعد بروایت ایوب رضی اللہ عنہ

فائدہ: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی دعا بتائیے تو آپ ﷺ نے یہ فرمایا:

۳۲۷۹ کہو: اللھم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔

اے اللہ! تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے پس میرے گناہوں سے درگزر کر اور مجھے معاف فرما۔

ترمذی حسن صحیح، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

فائدہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو اس رات میں کیا دعا مانگوں۔ تو آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا۔

۳۲۸۰ کلمہ اخلاص (لا الہ الا اللہ کہنے) کے بعد عافیت جیسی کوئی چیز تم کو عطا نہیں کی گئی۔ پس اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔

مسند احمد، ابو داؤد، ابی یعلیٰ، العذنبی شعب الایمان للبیہقی، السنن لسعید بن منصور بروایت ابی بکر رضی اللہ عنہ

۳۲۸۱ کسی بندے نے اللہ سے عافیت سے زیادہ خدا کو محبوب شے کا سوال نہیں کیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۲۸۲ اے عباس! آپ میرے چچا ہیں لیکن میں آپ کو خدا کی طرف سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن آپ اپنے رب سے دنیا و آخرت

میں غنم و عافیت کا سوال کریں۔ مسند احمد، ابن سعد، الکبیر للطبرانی بروایت علی بن عبد اللہ بن عباس عن ابنہ عن جدہ

فائدہ: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی نفع دہ شے سکھائیے تو آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا۔

۳۲۸۳ اے عباس! اے رسول اللہ کے چچا! عافیت کی دعا کثرت کے ساتھ مانگو۔

الکبیر للطبرانی مستدرک الحاکم بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۲۸۴ کوئی بندہ مؤمنین اور مؤمنات کے لئے دعا نہیں کرتا مگر ہر مؤمن مرد و عورت جو گذر گئے یا آئیں گے سب کی طرف سے اللہ پاک

اس کے لئے یہ دعا لوٹاتے ہیں۔ عبدالرزاق عن معمر بن ابان بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۲۸۵ اے ابن آدم! تو اللہ کی سزا کی سہارا نہیں رکھتا۔ تو نے یوں کیوں نہیں کہا:

ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. ہناد عن الحسن مرسلًا

نوٹ: رقم الحدیث ۳۲۷۶ ملاحظہ فرمائیں۔

۳۲۸۶ کوئی شخص یہ نہ کہے: "لقد نسيت حجتی" اے اللہ مجھے میری حجت تلقین فرما۔ کیونکہ کافر کو بھی اس کی حجت تلقین کی جاتی ہے (خواہ وہ غلط ہو) بلکہ یوں کہو: مجھے موت کے وقت ایمان کی حجت تلقین فرما۔ الاوسط للطبرانی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۸۷ اے لوگو! اپنی جانوں پر نرمی کرو۔ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے۔ بلکہ تم ایک خوب سننے والی دیکھنے والی ذات کو پکار رہے ہو، جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی بروایت ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۳۲۸۸ مسلم کی دعائیں باتوں میں ایک نتیجہ ضرور لاتی ہے۔ یا تو اس کا سوال پورا کر دیا جاتا ہے (یا اس کے مثل اور کوئی مصیبت نال دی جاتی ہے یا اس دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے)۔

۳۲۸۹ مسلمان کی دعائیں باتوں میں سے ایک بات ضرور حاصل کرتی ہے یا تو اس کو مانگا ہوا عطا کر دیا جاتا ہے۔ السنن لسعید بن منصور

۳۲۹۰ اللہ پاک قیامت کے دن مؤمن کو بلائیں گے حتیٰ کہ اس کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے: اے بندے! میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ مجھ سے مانگ میں قبول کروں گا تو کیا تو نے مجھ سے دعا کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا: ہاں میرے رب! پروردگار فرمائیں گے: تو نے مجھ سے کوئی دعا نہیں کی مگر میں نے وہ قبول کر لی تھی۔ کیا فلاں دن تو نے مجھ سے یہ یہ دعا نہیں کی تھی اس مصیبت پر جو تجھے پیش آئی تھی؟ کہ میں وہ مصیبت تجھ سے ہٹا دوں۔ چنانچہ میں نے وہ مصیبت تجھ سے دفع کر دی تھی؟ بندہ عرض کرے گا: بے شک پروردگار! (ایسا ہی ہوا تھا) پروردگار فرمائیں گے: یہ تو میں نے جلد دنیا میں ہی قبول کر لی تھی۔ لیکن ایک دن تو نے مجھ سے یہ یہ دعا کی تھی اس مصیبت کے لئے جو تجھ پر نازل ہوئی تھی کہ میں اس میں کوئی کشادگی پیدا کروں مگر تو نے کوئی آسانی اور کشادگی نہیں دیکھی؟ بندہ عرض کرے گا: بے شک اے پروردگار! پروردگار فرمائیں گے: میں نے اس کے بدلہ جنت میں تیرے لئے یہ ذخیرہ کر دیا ہے۔ اسی طرح تو نے مجھ سے ایک ضرورت پوری کرنے کا سوال کیا تھا فلاں فلاں دن لیکن تو نے وہ ضرورت پوری ہوتی نہیں دیکھی۔ پس میں نے اس کے بدلہ تیرے لئے جنت میں یہ یہ ذخیرہ کر دیا ہے۔ پس بندہ مؤمن نے اللہ سے جو بھی دعا کی ہوگی پروردگار اس کو بیان فرمائیں گے یا تو اس کے لئے دنیا میں پوری کر دی ہوگی یا آخرت میں ذخیرہ کر دی ہوگی۔ اس مقام پر بندہ کہے گا: کاش! دنیا میں مجھے اپنی کسی دعا کے بدلہ کوئی چیز نہ ملی ہوتی۔

مستدرک الحاکم بروایت جابر رضی اللہ عنہ

کلام: ... الضعیفۃ ۸۸۶ - القدسیہ الضعیفۃ ۸۰۔

الفصل الثالث دعا کے ممنوعات کے بیان میں

۳۲۹۱ اپنی جان پر بددعا نہ کرو سوائے خیر کے۔ کیونکہ ملائکہ اس پر امین کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔

مسند احمد، مسلم، ابو داؤد بروایت ام سلیم رضی اللہ عنہا

۳۲۹۲ اپنی جان پر بددعا نہ کرو۔ اور نہ اپنی اولاد پر بددعا کرو۔ اور نہ اپنے خادموں پر بددعا کرو۔ نہ اپنے اموال پر بددعا کرو۔ اللہ کے ہاں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں جو تمنا کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔ ابو داؤد بروایت جبر رضی اللہ عنہ

۳۲۹۳ موت کی دعائے کرو اور نہ اس کی تمنا کرو۔ پس جس کو دعا کئے بغیر چارہ نہ ہو تو وہ یوں کہے: اے اللہ! جب تک زندگی میرے لئے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، اور جب وفات میرے لئے بہتر ہو تو وفات دے دے۔ نسائی بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۲۹۴ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے۔ اور اس کے آنے سے پہلے خود اس کی دعائے نہ کرو۔ بے شک موت کے ساتھ بندہ کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ اور مؤمن اپنی زندگی میں بھلائی ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد بروایت سعد رضی اللہ عنہ

۳۲۹۵ عنقریب ایک قوم آئے گی جو دعا میں حد سے تجاوز کرے گی۔ مسند احمد، ابو داؤد بروایت سعد رضی اللہ عنہ

۳۲۹۶ کسی نازل شدہ مصیبت پر کوئی موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا کئے بغیر چارہ نہ ہو وہ یوں کہے:

اللہم احيى ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى

مسند احمد، بخارى، مسلم، ابن ماجه، ابو داؤد، نسائى، ترمذى نزوات انس رضى الله عنه
 ۳۲۹۷ جب کوئی دعا کرے تو یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما دے۔ بلکہ تاکید اور اصرار کے ساتھ سوال کرے اور خوب
 رغبت ظاہر کرے۔ بے شک اللہ کے لئے کوئی شے عطا کرنا بڑا آسان ہے۔

الادب المفرد بروایت ابی سعید خدری رضى الله عنه، ابن ماجه، (مسلم) بروایت ابی هريره رضى الله عنه
 ۳۲۹۸ کوئی شخص ہرگز یوں دعا نہ کرے: اے اللہ! میری مغفرت فرما اگر تو چاہے۔ اے اللہ! مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہے۔ اے اللہ! مجھے رزق
 دے اگر تو چاہے۔ بلکہ عزم و اصرار کے ساتھ اپنا سوال کرے بے شک کوئی اس ذات کو مجبور نہیں کر سکتا۔

مسند احمد، بخارى، مسلم، ابو داؤد، نسائى، ابن ماجه بروایت ابی هريره رضى الله عنه

دعا میں عموم رکھے

۳۲۹۹ تو نے ایک وسیع شئی کو تنگ کر دیا ہے۔ نسائی بروایت ابی هريره رضى الله عنه
 فائدہ: ایک دیہاتی مسجد نبوی میں داخل ہوا آپ ﷺ اپنے اصحاب کے ہمراہ اشریف فرما تھے۔ اعرابی نے نماز پڑھی پھر فارغ ہو کر دعا
 کرنے لگا:

اے اللہ! مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور اس رحمت میں ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔
 چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس کو مخاطب ہو کر مذکورہ ارشاد فرمایا۔

۳۳۰۰ اس سے پاک امت کر۔ ابو داؤد بروایت عائشہ رضى الله عنها
 فائدہ: ایک شخص نے چوری کی۔ حضرت عائشہ رضى الله عنها نے اس پر بددعا کی تو آپ ﷺ نے مذکورہ ارشاد فرمایا جس کا مطلب ہے اس
 پر بددعا کر کے اس کے گناہ کو کم کرو گی لہذا بددعا نہ کرو وہ خود ہی گناہ کی سزا پائے گا۔
 کلام: ضعیف الجامع ۲۲۲۰۔

۳۳۰۱ بے شک تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سو رحمتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اس سے رحمت نازل فرمادی جس کی
 بدولت تمام مخلوق جن و انس حتیٰ کہ جانور بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ جبکہ ننانوے حصے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اب تم بتاؤ یہ شخص زیادہ
 گمراہ ہے یا اس کا اونٹ۔ مسند احمد، ابو داؤد، مستدرک بروایت جندب رضى الله عنه
 نوٹ: ۳۲۹۹ پر اس حدیث کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔

ممنوعات دعا..... از الاکمال

۳۳۰۲ اس کو پاک امت کر۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ابو داؤد بروایت عائشہ رضى الله عنها
 نوٹ: ۳۳۰۰ پر روایت گزر چکی ہے۔
 ۳۳۰۳ قوم نماز کے اندر دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے باز آجائے کہیں ان کی بینائی اچک لی جائے۔ (بروایت ابی هريره رضى
 الله عنه وکعب بن مالک رضى الله عنه)
 کلام: بروایت صحیح ہے اگرچہ اس کا حوالہ درج نہیں کیا گیا۔ بروایت بخاری و مسلم میں مروی ہے۔

الفصل الرابع..... دعا کی قبولیت کے بیان میں

باعتبار مخصوص دعاؤں اور اوقات کے۔

مخصوص و مقبول دعائیں

۳۳۰۴ چار دعائیں روئیس کی جاتیں۔ حاجی کی دعا جب تک وہ سفر حج سے واپس نہ لوئے۔ غازی کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے، مرلیض کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو اور (مسلمان) بھائی کی (مسلمان) بھائی کے لئے غائبانہ دعا۔ الفردوس بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فائدہ:..... غائبانہ دعا سے مراد جیسا کہ اس فصل کی اکثر احادیث میں آئے گا اس سے مراد کسی مسلمان کی بھی عدم موجودگی میں اس کے لئے دعا کرے۔

کلام:..... ضعیف الجامع ۵۱۷۔

۳۳۰۵ چار لوگوں کی دعائیں قبول ہیں۔ امام عادل کی (یعنی عادل حکمران کی)، اس شخص کی جو اپنے بھائی کے لئے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرے مظلوم کی دعا اور اس شخص کی دعا جو اپنے والدین کے لئے دعا کرے۔ حلیۃ الاولیاء بروایت واثلہ رضی اللہ عنہ کلام:..... ضعیف الجامع ۵۲۷۔

۳۳۰۶ قبولیت میں تیز ترین دعا غائب کی غائب کے لئے دعا ہے۔ (یعنی کسی کی بھی عدم موجودگی میں اس کے لئے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے)۔ الادب المفرد، المکتب للطبیرانی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۸۴۱۔

۳۳۰۷ کوئی دعا اجابت میں تیز نہیں غائب کی غائب کے سوا۔ نرمدی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۵۰۶۵۔ ضعیف الترمذی ۳۳۸۔

۳۳۰۸ آزمائش میں مبتلا مومن کی دعا کو غنیمت جانو۔ ابو الشیخ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۳۰۹ پانچ دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ مظلوم کی دعا حتیٰ کہ وہ بدلہ لے لے۔ حاجی کی دعا حتیٰ کہ وہ واپس آجائے، غازی کی دعا حتیٰ کہ واپس آجائے، مرلیض کی دعا حتیٰ کہ صحت یاب ہو جائے۔ اور بھائی کی بھائی کے لئے غائبانہ دعا۔

شعب الایمان للبیہقی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۲۸۵۰۔ الضعیفۃ ۱۳۶۴۔

۳۳۱۰ مسلمان بندہ کی اپنے غیر موجود بھائی کے لئے دعا قبول ہے۔ اس کے سر پر ایک فرشتہ نگران ہوتا ہے جب بھی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لئے دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے آمین اور تجھے بھی اس کے مثل حاصل ہو۔

۳۳۱۱ جو شخص اپنے غائب بھائی کے لئے دعا کرتا ہے اس پر مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین اور تیرے لئے بھی یہ دعا قبول ہو۔

مسلم، ابواؤد بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۳۱۲ جس نے اپنے بھائی کے لئے اس کی عدم موجودگی میں دعا کی وہ روئیس کی جائے گی۔ البزار بروایت عمران بن حصین

۳۳۱۳ والد کی دعا حجاب تک پہنچ جاتی ہے۔ ابن ماجہ بروایت ام حکیم

کلام:..... ضعیف ابن ماجہ ۸۴۳۔ ضعیف الجامع ۲۹۷۷۔

۳۳۱۴ والد کی اولاد کے لئے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لئے۔ الفردوس بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:..... روایت ضعیف ہے دیکھئے: اسنی المطالب ۶۵۷۔ تحذیر المسلمین ۱۳۶۔ ضعیف الجامع ۲۹۷۶۔ الکشف الالہی ۳۸۸۔ کشف الخفاء ۱۲۹۹۔ اللؤلؤ المرصوع ۱۹۹۔ المغیر ۶۱۔

۳۳۱۵ محسن کے لئے احسان مند شخص کی دعا رو نہیں کی جاتی۔ الفردوس بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف ہے دیکھئے اسنی المطالب ۶۵۳۔ ضعیف الجامع ۲۹۷۵۔ المغیر ۶۲۔

۳۳۱۶ غائب کی غائب کے لئے دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے سر پر موکل فرشتہ کہتا ہے! میں اور تیرے لئے بھی۔

ابوبکر فی الغیلابیات بروایت ام کرز

مظلوم کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے

۳۳۱۷ دو دعائیں ایسی ہیں ان کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ مظلوم کی دعا اپنے بھائی کے لئے اسکی عدم موجودگی میں دعا۔

الکبیر للطبزانی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۲۹۸۶۔

۳۳۱۸ ہر چیز کے لئے خدا سے حجاب ہے سوائے لا الہ الا اللہ کی شہادت کے اور والد کی اولاد کے لئے دعا کے۔

ابن النجار بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۳۳۳۱۔

۳۳۱۹ تین اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ پر لازم ہے کہ ان کی دعا رو نہ فرمائے۔ روزہ دار کی حتیٰ کہ وہ روزہ کھول لے۔ مظلوم کی حتیٰ کہ وہ بدلہ لے

لے۔ اور مسافر کی حتیٰ کہ وہ واپس آجائے۔ البزار بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۲۵۲۲۔ الشتر ۱۹۰۔

۳۳۲۰ تین دعائیں قبول ہیں۔ روزہ دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔

(الضعفاء للعقیلی، شعب الایمان للبیہقی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)

۳۳۲۱ تین دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں۔ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اولاد کے لئے دعا۔

ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۲۲ تین دعائیں قبول ہی قبول ہیں ان میں کوئی شک نہیں والد کی اولاد کے لئے دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔

مسند احمد، الادب المفرد، ابو داؤد، ترمذی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۲۳ تین دعائیں رو نہیں کی جاتیں: والد کی اولاد کے لئے دعا، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔

الثلاثیات لابی الحسن بن مہرویہ، ایضاء بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۳۲۴ تین لوگوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں: والد، مسافر اور مظلوم۔ مسند احمد، الکبیر للطبزانی بروایت عقبہ بن عامر

۳۳۲۵ تین لوگوں کی دعائیں رو نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ وہ افطار کر لے اور مظلوم کی دعا۔ اللہ پاک اس کو بادلوں سے اوپر

اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: میری عزت کی قسم! میں تیری مدد

ضرور کروں گا خواہ کچھ وقت کے بعد۔ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۲۶ تین لوگوں کی دعائیں اللہ پاک رو نہیں فرماتے اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، مظلوم اور عادل امام۔

شعب الایمان للبیہقی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

مخصوص اوقات اور احوال میں قبولیت دعا

۳۳۲۷ جس نے فرض نماز ادا کی اس کی دعا قبول ہے۔ جس نے قرآن پاک ختم کیا اس کی دعا قبول ہے۔

الکبیر بروایت عرباض رضی اللہ عنہ

۳۳۲۸ بندہ اپنے رب سے قریب ترین سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہذا (اس حالت میں) کثرت کے ساتھ دعا کرو۔

مسلم، ابوداؤد، نسائی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۲۹ جب تم صبح کی نماز پڑھو تو جلدی سے دعا کی طرف بڑھو۔ اور حوائج کی طلب میں صبح لگ جاؤ۔ اے اللہ! میری امت کو صبح کے

وقت میں برکت عطا فرما۔ مسلم، ابوداؤد، نسائی، التاريخ للخطیب، ابن عساکر بروایت علی رضی اللہ عنہ

۳۳۳۰ جب تم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہو جائے تو چار دعائیں پہلے مانگے پھر جو چاہے دعا کرے۔

اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، و عذاب القبر، و فتنۃ المحیا و الممات و فتنۃ المسیح الدجال۔

”اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔“

السنن للبیہقی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۳۱ دوسو عتیس (اوقات) ایسی ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور بہت کم کسی دعا کرنے والے کی دعا رد کی

جاتی ہے۔ نماز کے وقت اور اللہ کی راہ میں قتال کیلئے صف بندی کے وقت۔ الکبیر للطبرانی بروایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ

۳۳۳۲ صبح کی نماز میں اللہ سے اپنی حوائج کا سوال ضرور کرو۔ مسند ابی یعلیٰ بروایت ابی رافع

کلام: ضعیف الجامع ۳۴۷۵ الضعیف۱۹۰۸۔

۳۳۳۳ پانچ چیزوں کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ قرأت قرآن کے وقت، دو لشکروں کی ٹڈ بھڑکے وقت، بارش

ہوتے وقت، مظلوم کی پکار کے وقت اور اذان کے وقت۔ الاوسط للطبرانی بروایت بن عمر رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۲۳۶۳۔

۳۳۳۴ چار مواقع پر آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں: راہ خدا میں قتال کے لئے صفوں کی ٹڈ بھڑکے

وقت، نزول بارش کے وقت، نماز کھڑی ہوتے وقت اور کعبہ کو دیکھتے وقت۔ الکبیر للطبرانی بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۲۳۶۵۔

۳۳۳۵ تین اوقات مسلمان کے لئے ہیں۔ ان میں وہ جو بھی دعا کرتا ہے قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے،

مؤذن کے نماز کیلئے اذان دیتے وقت جب تک کہ وہ خاموش ہو، لڑائی کے لئے دو صفوں کی ٹڈ بھڑکے وقت جب تک اللہ ان کے درمیان کوئی

فیصلہ نہ فرمادیں اور بارش برستے وقت جب تک کہ وہ تھے۔ حلیۃ الاولیاء بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا

کلام: ضعیف الجامع ۲۵۲۳۔

تین مواقع میں دعا رد نہیں ہوتی

۳۳۳۶ تین مواقع پر دعا رد نہیں کی جاتی: ایک شخص جنگل میں ہو اس کو اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ (اس موقع

پر اس کی دعا رد نہیں کی جاتی) دوسرا وہ شخص جس کے ساتھ والی قوم قتال کے وقت بھاگ جائے لیکن وہ ثابت قدم رہے (اس موقع پر اس کی

دعا رد نہیں کی جاتی) اور تیسرا وہ شخص جو رات کے آخری پہر میں کھڑا ہو، (اور خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھے اور دعا کرے اس کی دعا بھی رد نہیں

کی جاتی۔ ابن مندہ، ابونعیم فی الصحابہ بروایت ربیعہ رضی اللہ عنہ بن وقاص

کلام:.....ضعیف الجامع ۲۵۸۷۔

۳۳۳۷... دو دعائیں مسترد نہیں کی جاتیں: اذان کے وقت کی دعا اور جنگ کے اس موقع پر جب ایک دوسرے کے ساتھ رو برو برسرِ کار ہو جائیں۔

ابوداؤد، ابن حبان، مستدرک بروایت سهل رضی اللہ عنہ بن سعد

۳۳۳۸... دو دعائیں رد نہیں کی جاتیں: اذان کے وقت کی دعا اور بارش کے نیچے کی جانے والی دعا۔

مستدرک الحاکم بروایت سهل رضی اللہ عنہ بن سعد

۳۳۳۹... دعا کی قبولیت کی جستجو کرو: بشکروں کی بڑ بھیر کے وقت، نماز قائم ہوتے وقت اور بارش نازل ہوتے وقت۔

الشافعی، البیہقی فی المعرفة بروایت مکحول رحمۃ اللہ علیہ مرسلًا

۳۳۴۰... ہر ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول کی جاتی ہے۔ حلیۃ الاولیاء، ابن عساکر بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف الجامع ۳۸۱۹، الضعیفۃ ۱۲۳۳، الکشف الاہلبی ۵۵۲، کشف الخفاء ۷۸۶۔

۳۳۴۱... رقت طاری ہوتے وقت دعا کو غنیمت جانو۔ (بے شک یہ رحمت ہے)۔ الفردوس بروایت ابی رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف الجامع ۹۷۹، کشف الخفاء ۴۴۰۔

۳۳۴۲... منادی جب نداء (یعنی اذان) دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔

مسند ابی یعلیٰ، مستدرک الحاکم بروایت ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۳۴۳... جب نماز کے لئے نداء دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے۔

مسند الطیالسی، مسند ابی یعلیٰ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۳۴۴... اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ (مسند احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان بروایت انس رضی اللہ عنہ)

کلام:.....ذخیرۃ الخفاظ ۲۹۰۰، ضعیف الترمذی ۷۲۵۔ یہ مکمل روایت کا ایک طرف ہے دوسرا طرف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے

پوچھا: یا رسول اللہ! پھر ہم کیا دعا کریں؟ فرمایا: اللہ سے دنیا و آخرت کی عافیت کا سوال کرو۔

۳۳۴۵... اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ پس اس وقت دعا کرو۔ مسند ابی یعلیٰ بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۳۴۶... اذان (اور اقامت) کے درمیان دعا قبول کی جاتی ہے۔ (مستدرک الحاکم بروایت انس رضی اللہ عنہ)

۳۳۴۷... مؤذن کے اذان دینے کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے پس اقامت تک کے وقت میں دعا رد نہیں کی جاتی۔

الخطیب فی تاریخ، بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف الجامع ۳۸۱۷۔

۳۳۴۸... جب سائے ڈھلنے لگیں، (گرمی کی پیش سے) روحوں کو سکون ملنے لگے اس وقت اللہ سے اپنی حوائج (ضروریات) کو طلب کرو، بے

شک یہ اوامین (خدا کی طرف رجوع کرنے والوں) کی گھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ اوامین کے لئے بخشش فرمانے والے ہیں۔

شعب الایمان للبیہقی بروایت علی رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف الجامع ۵۲۹۔

۳۳۴۹... جب سائے اترنے لگیں اور روحوں ٹھنڈی ہونے لگیں تو اللہ سے اپنی ضروریات کا سوال کرو۔ بے شک یہ اوامین کی گھڑی ہے۔

مصنف عبدالرزاق بروایت ابی سفیان مرسلًا، حلیۃ الاولیاء بروایت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف الجامع ۶۰۲۔ ضعیف الجامع میں ارواح کی جگہ اریاح کا لفظ ہے اس صورت میں معنی ہوگا جب ہوا میں چلنے لگیں اور یہی

زیادہ قرین قیاس ہے۔

۳۳۵۰... سایوں کے ڈھلتے وقت دعا کی جستجو کرو۔ حلیۃ الاولیاء بروایت سهل رضی اللہ عنہ بن سعد

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نداء

۳۳۵۱... جب رات کا ایک پہر یا دو پہر گزر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں: ہے کوئی سائل جس کو عطا کیا جائے ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کی جائے۔ حتیٰ کہ صبح کی پو پھٹ جاتی ہے۔

مسلم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۵۲... اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں حتیٰ کہ رات کا نصف یا دو تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو فرماتے ہیں: میرے بندے میرے سوا کسی سے سوال نہ کریں۔ جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو عطا کروں گا، جو مجھ سے مغفرت چاہے گا میں اس کی مغفرت کروں گا حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ بروایت رفاعہ الجہنی

۳۳۵۳... ہمارے پروردگار تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جس وقت رات کا ایک پہر باقی رہ جاتا ہے۔ پھر پروردگار فرماتے ہیں: کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کروں گا، کون مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اس کو عطا کروں گا، کون مجھ سے مغفرت کا خواہاں ہے میں اس کی مغفرت کروں گا۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۵۴... اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، جس وقت رات کا ایک تہائی حصہ گذر جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں: میں ہوں بادشاہ! میں ہوں بادشاہ! کون ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار قبول کروں گا، کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کروں گا، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے میں اس کی بخشش کروں گا۔ یوں ہی (سماں بندھا) کہتا ہے۔ حتیٰ کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔

مسلم، ترمذی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۵۵... رات کے آخری تہائی کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے اور پھر فرماتے ہیں کون ہے مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ میں اس کی دعا قبول کروں گا؟ کون ہے مجھ سے (اپنی ضرورت) سوال کرتا ہے۔ میں اس کا سوال پورا کروں گا؟ پھر پروردگار اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں: کون ہے جو قرض دے ایسی ذات کو جو مفلس نہیں ہے اور نہ کم کرنے والی ہے؟

مسلم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۵۶... اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول (کی تجلی) فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے: ہے کوئی سائل جس کو میں عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں۔ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

کلام:..... ذخیرۃ الحفاظ ۵۵-۶۵-۷۵-۸۱ و لیس فیہ حتی یطلع الفجر، المعلقة ۸۱ و لیس فیہ هل من نائب فأتوب علیہ۔

۳۳۵۷... نصف رات کو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ پس ایک منادی نداء دیتا ہے: ہے کوئی مانگنے والا؟ اس کی دعا قبول کی جائے۔ ہے کوئی سائل؟ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ہے کوئی بتلائے رنج و غم؟ اس کا رنج و غم دور کیا جائے۔ پس کوئی مسلمان دعا کرنے والا نہیں رہتا مگر اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ سوائے اس زانیہ کے جو اپنی فرج کیلئے (ادھر ادھر) پھرتی ہے اور عشر (نیکس) وصول کرنے والے کے۔

الکبیر للطبرانی بروایت عثمان بن ابی العاص

۳۳۵۸... ہاتھ اٹھائے جائیں نماز میں، اور جب کعبہ پر نظر پڑے اور صفاء مروہ پر، اور عرفہ کی رات، اور مردلفہ میں اور حمرین (شیطانوں کو کنکری ہارتے وقت) اور میت پر۔ السنن للبیہقی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

فائدہ:..... ہاتھ اٹھانے سے مراد ہے کہ ان مواقع پر دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ اور نماز میں بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگی جائے آخری رکعت میں تشہد کے بعد۔ اور بقیہ مواقع پر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔

کلام:.....ضعیف الجامع ۲۳۲۲۔

۳۳۵۹ ... ہمارا پروردگار تبارک و تعالیٰ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے: کون سے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں گا، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کروں گا۔ بخاری و مسلم بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

مخصوص مقبول دعائیں..... از الاکمال

۳۳۶۰ ... جب بندہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لئے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اور تجھے بھی اس کے مثل عطا ہو۔

مکارم الاخلاق للخرائطی بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۶۱ افضل دعا غائب کی غائب کے لئے دعا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ بروایت ابن عمرو

۳۳۶۲ آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لئے اس کی عدم موجودگی میں قبول ہے۔ دعا کرنے والے پر موکل فرشتہ آئین کہتا ہے جب بھی وہ اپنے بھائی

کے لئے خیر کی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے تیرے لئے بھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ بروایت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ وام الدرداء رضی اللہ عنہا

۳۳۶۳ تین دعائیں برائیس کی جاتیں والد کی دعا اولاد کے لئے، روزہ دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔

کتاب الثلاثیات لابی الحسن بن مہرویہ الریحانی، السنن للبیہقی، السنن لسعید بن منصور بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۳۶۴ مظلوم کی دعا ہر صورت قبول ہے، خواہ وہ گناہ گار ہو۔ اس کا گناہ اس کی ذات کے لئے وبال ہے۔

الطیالسی، مصنف ابن ابی شیبہ، مکارم الاخلاق، الخطیب (فی التاریخ) بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام:.....ذخیرۃ الحفاظ ۲۸۹۳۔

۳۳۶۵ مظلوم کی دعا بادلوں سے اوپر اٹھالی جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لئے کھول دیئے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ فرماتے

ہیں: میری عزت کی قسم! میں تیری ضرورت مدد کروں گا خواہ کچھ وقت کے بعد ہو۔ ابن حبان بروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۶۶ دو دعائیں ایسی ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حاصل نہیں۔ مظلوم کی دعا اور آدمی کی اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا۔

الکبیر للطبرانی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف الجامع ۲۹۸۶۔

۳۳۶۷ کوئی قوم جمع ہو کر دعا نہیں کرتی کہ ایک دعا کرے اور یقیناً آمین کہتے رہیں مگر اللہ پاک ان سب کی دعا قبول فرماتے ہیں۔

الکبیر للطبرانی بروایت السنن للبیہقی بروایت حبیب بن سلمہ الفہری

۳۳۶۸ اے مسلمان! مصیبت زدہ کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا تو دعا کر، اور چاہے دعا کر تو دعا کریں آمین کہتا ہوں۔

الدیلمی بروایت سلمان رضی اللہ عنہ

دعاؤں کی قبولیت کے مواقع..... از الاکمال

۳۳۶۹ سات مواقع کے علاوہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں: نماز شروع کرتے وقت، مسجد حرام میں داخلہ کے وقت، بیت اللہ کو دیکھتے وقت، صفا پر

کھڑے ہوتے وقت، مردہ پر کھڑے ہوتے وقت، عرفہ کی رات لوگوں کے ساتھ عبادت کے لئے کھڑے ہوتے وقت، مرد لقمہ میں، مقامین پر

(حجر اسود اور مقام ابراہیم پر) اور شیطانوں کو ننگری مارتے وقت۔ الکبیر للطبرانی بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: الاسرار المرفوعة ۲۷۲، الضعيفة ۱۰۵۴، اللطيفة ۲۳۔

مختلف احوال اور اوقات میں دعاؤں کی قبولیت از الاکمال

۳۳۷۰ جب تم اپنے دلوں میں رقت (خوف خدا یا رونا وغیرہ) محسوس کرو تو دعا کرنے کو غنیمت جانو۔ الدیلمی بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ
۳۳۷۱ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر دعا کھول دیتے ہیں تو اس کو چاہئے کہ (خوب) دعا کرے بے شک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔

الحکیم الحاکم فی التاریخ بروایت انس رضی اللہ عنہ

کلام: ضعيف الجامع ۶۰۳۔

۳۳۷۲ اذان کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے اور اقامت کے وقت کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔

مصنف ابن ابی شیبہ، ابن النجار عن انس رضی اللہ عنہ

۳۳۷۳ آگاہ رہو! اذان و اقامت کے درمیان کوئی دعا رد نہیں کی جاتی لہذا اس وقت دعا مانگو۔

مسند ابی یعلیٰ، السنن لسعيد بن منصور بروایت انس رضی اللہ عنہ

۳۳۷۴ خبردار! اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھر ہم کیا دعا مانگیں؟ فرمایا: اللہ سے دنیا
و آخرت کی عافیت کا سوال کرو۔ ترمذی حسن عن انس رضی اللہ عنہ

۳۳۷۵ اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی پس دعا کرو۔

مصنف ابن ابی شیبہ، ابن حبان، ابی یعلیٰ، ابن السنن، السنن لسعيد بن منصور عن انس رضی اللہ عنہ

۳۳۷۶ آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے پس اس کے لئے اور اس کے پیچھے والوں کے لئے مغفرت کر دی جاتی ہے۔

الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعيف الجامع ۱۴۵۹۔

۳۳۷۷ جس نے وضوء کیا اور اچھی طرح وضوء کیا پھر دو رکعت نماز ادا کی پھر اپنے پروردگار سے دعا میں مشغول ہو گیا تو اس کی دعا ضرور قبول
ہوگی خواہ جلد ہو یا بدیر۔ پس تم نماز میں ادھر ادھر التفات کرنے سے مکمل طور پر بچو۔ بے شک اس کی نماز نہیں جو ادھر ادھر التفات کرے۔ پس اگر
(ایسی کسی بری عادت سے) مغلوب ہو جاوے تو اس کو نفل نماز تک رکھو اور قرآن میں ہرگز مغلوب نہ ہو۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی، ابن النجار عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۳۷۸ جو اللہ سے اپنی دنیا و آخرت کی کسی حاجت کا طالب ہو وہ عشاء کی نماز میں اس کو طالب کرے۔ بے شک یہ نماز تم سے پہلے کسی امت
نے نہیں پڑھی۔ الدیلمی عن عیسیٰ بن عبد اللہ عن ابیہ عن جده عن علی

۳۳۷۹ جس کو اللہ سے کوئی حاجت مطلوب ہو، وہ فرض نماز کے بعد اللہ سے اپنی حاجت مانگے۔ ابن عساکر عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ

۳۳۸۰ نمازی جب بھی نماز پڑھتا ہے تو حوریں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں۔ پس اگر وہ نماز پڑھ کر اٹھ جاتا ہے اور اللہ سے حوروں کا سوال نہیں
کرتا تو وہ حوریں اس پر عجب کرتی ہوئی اس سے جدا ہو جاتی ہیں۔ ابن شاہین عن حابر رضی اللہ عنہ

۳۳۸۱ ہر ایسی نماز جس میں مؤمنین اور مؤمنات کے لئے دعائے کی جائے تو وہ نماز بغیر ہاتھ پاؤں والی ہے۔ الشیخ عن انس رضی اللہ عنہ

۳۳۸۲ مغرب و عشاء کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ ابوالشیخ عن انس رضی اللہ عنہ

۳۳۸۳ چار مواقع پر آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں اللہ کی راہ میں لشکروں کی مدد بھیڑ کے وقت، مینہ
برسنے وقت، جماعت کھڑی ہوتے وقت اور کعبہ کو دیکھتے وقت۔ الکبیر للطبرانی، السنن للبیہقی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام:.....ضعیف الجامع ۲۳۶۳۔

۳۳۸۴ ہاتھ اٹھادیئے جائیں جب تو بیت اللہ کو دیکھے، صفا اور مروہ پر، عرفہ میں، مزدلفہ میں، شیطانوں کو کنکری مارتے وقت اور جب نماز

کھڑی ہو۔ ابو الشیخ فی الافراد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۳۸۵ افطار کے وقت مؤمن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ الاقاب للشیرازی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

مسلمان بھائی کے لئے غائبانہ دعا

۳۳۸۶ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا نہیں کرتا کہ اللھم احسی فلان فاغفر لہ اے اللہ! میرے فلاں بھائی کی مغفرت

فرماملانکہ کہتے ہیں امین اور تیرے لئے بھی۔ الکبیر للطبرانی عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۳۸۷ جس نے اپنے بھائی کے لئے غائبانہ دعا کی اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جس نے سلام میں پہل کی اس کے لئے بھی

دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ابو الشیخ عن انس رضی اللہ عنہ

۳۳۸۸ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ عزوجل آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں: ہے کوئی سائل اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اسی طرح (وقت گذرتا) رہتا ہے حتیٰ کہ فجر

طلوع ہو جاتی ہے۔ مسند احمد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۳۸۹ جب رات کا ایک حصہ گذر جاتا ہے یا رات کا تہائی حصہ گذر جاتا ہے تو ایک منادی کو اللہ حکم دیتے ہیں وہ نداء دیتا ہے: ہے کوئی دعا

کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل اس کا سوال پورا کیا جائے؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ اس کی مغفرت کی جائے، ہے

کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے؟ مسند ابی یعلیٰ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ و ابی سعید رضی اللہ عنہ

۳۳۹۰ جب نصف رات بیت جانی ہے اللہ عزوجل آسمان دنیا پر جلوہ فرماتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے: میرے سوالی بندے کسی سے سوال نہ

کریں، پس کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، کون

ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ السنن للبدار قطنی، مسند احمد، نسائی، سنن

الدارمی، ابن جریر، ابن خزیمہ، ابن حبان، البغوی، الباوردی، محمد بن نصر، الکبیر للطبرانی عن رفاعۃ بنت عرابہ الجھنی

۳۳۹۱ جب ایک تہائی رات گزر جاتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں اور مسلسل یہ فرماتے ہیں: کیا ہے کوئی پکارنے والا اس کی پکار سنی

جائے، کیا ہے کوئی سائل اس کا سوال پورا کیا جائے، کیا ہے کوئی گناہ گار مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے، کیا ہے کوئی بیمار شفاء چاہنے

والا اس کو شفاء دوں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ابن جریر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۹۲ اللہ عزوجل آسمان دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں پھر اپنے ہاتھ پھیلا کر فرماتے ہیں: کیا ہے کوئی بندہ مجھ سے سوال کرنے والا میں

اس کو عطا کروں گا۔ اسی طرح (پروردگار فرماتے رہتے ہیں) حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ابن عساکر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۳۹۳ رمضان میں اول و آخر تہائی رات گزرنے کے بعد ایک منادی نداء دیتا ہے: کیا ہے کوئی سائل اس کو عطا کیا جائے؟ کیا ہے کوئی

گناہوں کی بخشش چاہنے والا اس کے گناہ بخش دیئے جائیں؟ کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔

شعب الایمان للبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۳۹۴ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے اس میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پس پروردگار فرماتے ہیں: ہے کوئی سائل میں

اس کو عطا کروں، ہے کوئی داعی میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش قبول کروں۔

ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے وقت نکلے اور فرمایا: رات کے وقت کوئی شخص اللہ سے کسی شے کا سوال نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس

کو وہ شے عطا فرماتے ہیں سوائے چادو گراور عشر وصول کرنے والے کے۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن عثمان بن ابی العاص ۳۳۹۵۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی میں اپنے اہل خانہ کو جگا دیتے اور فرماتے: اے ال داؤد! کھڑے ہو اور نماز پڑھو۔ اس گھڑی میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ سوائے ساحر اور عشار کی دعا کے۔ مسند ابی یعلیٰ، ابن عساکر عن عثمان بن ابی العاص ۳۳۹۶۔ داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی میں اپنے گھر والوں کو جگا دیتے تھے اور فرماتے تھے: اے ال داؤد! کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں سوائے چادو گراور عشر وصول کرنے والے کے۔

مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ، الکبیر للطبرانی عن عثمان بن ابی العاص
فائدہ:..... عشر وصول کرنے والے بعض اوقات عوام پر ظلم کرتے ہیں۔ رشوت ستانی کے ساتھ کم زیادہ کرتے ہیں۔ در نہ ناجائز بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور اگر عدل کے ساتھ عشر وصول کیا جائے تب کوئی حرج نہیں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تفصیل کے لئے کتب فقہ دیکھی جائیں۔
کلام:..... الضعیفۃ ۱۹۶۲۔

۳۳۹۷۔ ہر رات اللہ عزوجل آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں: ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا میں قبول کروں۔ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ الکبیر للطبرانی عن عثمان بن ابی العاص
۳۳۹۸۔ اللہ عزوجل سماء عالی سے آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں: کیا ہے کوئی سائل؟ کیا ہے کوئی مغفرت کا خواہاں؟ کیا ہے کوئی دعا مانگنے والا؟ حتیٰ کہ جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو اللہ عزوجل اوپر بلند ہو جاتے ہیں۔ الکبیر للطبرانی، البغوی عن ابی الخطاب رضی اللہ عنہ
۳۳۹۹۔ جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں: کون مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون مجھ سے استغفار کرتا ہے میں اس کی بخشش کروں گا، کون مجھ سے مصیبت کا چھٹکارا چاہتا ہے میں اس کی مصیبت دور کروں گا، کون مجھ سے رزق مانگتا ہے میں اس کو رزق عطا کروں گا۔

۳۴۰۰۔ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں: کون مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون مجھ سے استغفار کرتا ہے میں اس کی بخشش کروں گا، کون مجھ سے مصیبت کا چھٹکارا چاہتا ہے میں اس کی مصیبت دور کروں گا، کون مجھ سے رزق مانگتا ہے میں اس کو رزق عطا کروں گا۔ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ابن النجار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
۳۴۰۱۔ جب رات ایک تہائی باقی رہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: کون مجھ سے مصیبت کی خلاصی چاہتا ہے میں اس کی مصیبت ختم کروں گا، کون رزق کا سوال کرتا ہے میں اس کو رزق فراہم کروں گا، کون مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔

الکبیر للطبرانی، شعب الایمان للبیہقی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
۳۴۰۲۔ جب آخری تہائی رات باقی بچ جاتی ہے تو رخص تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنا ہاتھ پھیلا کر ارشاد فرماتے ہیں: ہے کوئی دعا مانگنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کی بخشش کروں۔ حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو پروردگار اپنے عرش پر مستوی ہو جاتے ہیں۔ البغوی من عبدالمحمید بن سلمہ عن ابیہ عن حدہ
۳۴۰۳۔ آخری رات اور فرض نمازوں کے بعد۔ ترمذی حسن، نسائی، السنن لسعید بن منصور عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ
فائدہ:..... رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کون (سے وقت) دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو آپ ﷺ نے مذکورہ جواب عنایت فرمایا۔

آخری رات میں دعا

۳۴۰۴۔ آخر رات کا بیٹ۔ الکبیر للطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ
فائدہ:..... ایک شخص نے عرض کیا رات کے کس حصے میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔
۳۴۰۵۔ آخر رات کا حصہ اور بہت کم اس کو (آباد) کرنے والے ہیں۔

مسند احمد، نسائی، مسند ابی یعلیٰ، ابن حبان، الرویانی، السنن لسعید بن منصور عن ابن ذر رضی اللہ عنہ

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: رات کے کس پہر کا قیام (بہتر اور) افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے مذکورہ جواب ارشاد فرمایا۔

۳۴۰۶ آخر رات کا حصہ پھر مقبول نماز ہے (یعنی تہجد) حتیٰ کہ فرض نماز پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج ایک نیزے یا دو نیزوں کے بقدر بلند ہو جائے۔ پھر مقبول نماز ہے۔ (یعنی اشراق کے نوافل) حتیٰ کہ ہر شئی کا سایہ ایک نیزے کے بقدر ہو جائے پھر کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ زوال شمس ہو جائے۔ پھر مقبول نماز ہے۔ (زوال کے نوافل) حتیٰ کہ ہر شے کا سایہ ایک نیزے یا دو نیزے کے بقدر ہو جائے۔ پھر کوئی نماز نہیں۔ حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے۔

الکبیر للطبرانی عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ مسند احمد، الکبیر للطبرانی، عن مرة بن نعمت المہزی فائدہ: رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ رات کے کس حصے میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں دعا زیادہ سنی جاتی ہے اس کے بعد تہجد کی نماز ہے فجر (کے فرض) سے پہلے تک۔ پھر اشراق کی نماز ہے اس کے بعد چاشت کی نماز ہے یہ زوال شمس سے پہلے کی دو نفل نمازیں ہیں جبکہ چاشت کی نماز کا حدیث میں ذکر نہیں۔ اس کے بعد زوال شمس ہے پھر زوال شمس کے نفل ہیں۔ یعنی رات کے آخری حصے میں اور دن کے ان اوقات میں نفل نمازیں ہیں اور ان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے۔

۳۴۰۷ رات کے آخری حصے کا حکم، اس میں جس قدر ہو سکے نفل نماز پڑھو۔ بے شک اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں حتیٰ کہ صبح کی نماز کا وقت ہو جائے۔ پھر (نفل سے) رک جاتی کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اور طلوع ہو کر ایک یا دو نیزوں کے بقدر بلند ہو جائے۔ کیونکہ سورج شیطان کے دو سیٹلوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور کفار اس کے لئے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر (یہ اشراق کا وقت ہے) جو چاہے نماز پڑھے۔ یہ نماز بھی فرشتوں کی حضوری کی ہے۔ حتیٰ کہ عصر کی نماز پڑھی جائے۔ (اس کے درمیان سوائے زوال کے وقت کے سارا وقت نوافل کا ہے) پھر عصر کے بعد (نفل سے) رک جاتی کہ سورج غروب ہو جائے کیونکہ سورج شیطان کے دو سیٹلوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اور کفار سورج کے لئے نماز پڑھتے ہیں۔ ابو داؤد الکبیر للطبرانی مستدرک الحاکم عن عمرو بن عسہ

فائدہ: حضرت عمرو بن عسہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! رات کا کون سا حصہ زیادہ دعا سننے جانے کے لائق ہے؟ تو آپ نے مذکورہ جواب مرحمت فرمایا۔ (مستدرک میں امام حاکم نے یہ اضافہ نقل فرمایا ہے)۔ پھر جب تو وضو کرے تو پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، کیونکہ جب تو ہاتھوں کو دھوئے گا تو تیرے (ہاتھوں کے) گناہ تیری انگلیوں کے پوروں سے نکل جائیں گے۔ پھر جب تو اپنا چہرہ دھوئے گا تو تیرے (چہرے کے) گناہ تیرے چہرے سے نکل جائیں گے۔ پھر جب تو کلی کرے گا اور ناک صاف کرے گا تو تیرے تھنوں سے گناہ نکل جائیں گے۔ پھر جب تو سر کا مسح کرے گا تو سر کے بالوں کے سروں سے گناہ نکل جائیں گے۔ اور جب تو پاؤں دھوئے گا تو پاؤں سے تیرے گناہ نکل جائیں گے۔ پس اگر تو اپنی جگہ بیٹھا ہے تو تیرے وضو کا ثواب رہے گا اور اگر تو اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی حمد و ثناء کرے اور دل کی توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے تو تو اپنے گناہوں سے یوں نکل جائے گا گویا آج تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے۔

۳۴۰۸ جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا میرے بندوں میں سے کوئی بندہ ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ کیا کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے؟ جو مجھے یاد کرے میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ کیا کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے؟ کیا کوئی مظلوم ہے؟ جو مجھے یاد کرے، میں اس کی مدد کروں گا۔ کیا کوئی قیدی ہے؟ میں اس کو رہا کروں گا۔ پس صبح تک یہ ماں بندھا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے پھر اللہ عز و جل اپنی کرسی پر بلند ہو جاتے ہیں۔ الکبیر للطبرانی عن عبادة بن الصامت

۳۴۰۹ رات کی آخری تین گھڑیوں میں پروردگار عز و جل اترتے ہیں اور پہلی گھڑی میں کتاب (تقدیر) میں نظر فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ دوسری گھڑی میں جنات عدن میں نظر فرماتے ہیں یہ وہ مسکن ہے جس میں رہنے والا انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ رہے گا۔ اس میں وہ وہ نعمتیں ہیں جو کسی نے نہیں دیکھیں، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گذرے۔ پھر پروردگار آخری گھڑی میں اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی مغفرت چاہنے والا نہیں ہے میں اس کی مغفرت کروں۔ کوئی سائل نہیں ہے میں اس کا سوال

پورا کروں۔ کوئی دعا مانگنے والا نہیں ہے اس کی دعا قبول کروں۔ حتیٰ کہ پھر فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور یہ خدا کا فرمان ہے:

وَقْرَانِ الْفَجْرِ انْ قْرَانِ الْفَجْرِ كَانْ مَشْهُوْدًا . الْاَسْرَاءِ : ۷۸

”پس اللہ، رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ اس وقت جلوہ افروز ہوتے ہیں۔“

ابن جریر، ابن ابی حاتم، الکبیر للطبرانی، ابن مردودہ عن الدرداء رضی اللہ عنہ

کلام: المتناہیۃ ۲۱۔

۳۲۱۰ جب رات کا آخری نصف یا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں: کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں گا۔ کون ہے جو مجھ سے اپنی مغفرت چاہے میں اس کی مغفرت کروں گا۔ (پروردگار یہ اعلان فرماتے رہتے ہیں) حتیٰ کہ صبح کی سفیدی رونما ہو جاتی ہے اور قاری فجر کی نماز سے لوٹ آتا ہے۔ ابن النجار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

پانچویں فصل..... مختلف اوقات کی دعائیں

اس میں چار فروع ہیں۔

پہلی فرع..... رنج و غم اور مصیبت کی دعاؤں کے بارے میں

۳۲۱۱ جب تم میں سے کسی کو کوئی غم یا تکلیف پہنچے تو وہ کہے: اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئا اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو

شریک نہیں کرتا۔ الاوسط للطبرانی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۲۱۲ جب تم پر کوئی کرب نازل ہو یا کوئی مشقت یا مصیبت پڑے تو یوں کہو: اللہ ربنا لا شریک لہ۔ اللہ ہمارا رب ہے اس کا کوئی

شریک نہیں۔ الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۷۰۸۔

۳۲۱۳ جب کسی کو رنج یا غم لاحق ہو تو وہ سات مرتبہ کہے: اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئا۔ (اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو

شریک نہیں کرتا)

کلام: ضعیف الجامع ۳۷۷۔

۳۲۱۴ جب کسی کو بادشاہ سے خوف ہو تو وہ یہ دعا پڑھے:

اللھم رب السموات ورب الرش العظیم، کن لی جازاً من شر فلان بن فلان، وشر الجن والانس

وأتباعهم ان یفرط احد منهم أو ان یطعی، عز جارك وجل ثناءک ولا الہ غیرک

”اے آسمانوں کے پروردگار! اور عرش عظیم کے پروردگار! تو مجھے فلاں بن فلان کے شر سے امن دے اور جن وانس اور ان کے

پیروکاروں کے شر سے کہ ان میں سے کوئی مجھ پر سرکشی کرے۔ تیری پناہ عزت والی ہے، تیری ثناء عظیم ہے اور تیرے سوا کوئی

معبود نہیں۔“

کلام: ضعیف الجامع ۳۷۷۔ الضعیفۃ ۲۴۰۰۔

۳۲۱۵ جب تجھے کسی بادشاہ یا کسی کا بھی خوف ہو تو یہ دعا پڑھ:

لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا انت،

عز جارك وجل ثناءك ولا الله غيرك -

کلام:ضعیف الجامع ۴۷۹۔

۳۳۱۶ جب کسی کو کوئی رنج و غم یا بیماری یا کوئی سختی یا تنگی پہنچے تو تین مرتبہ کہے: اللہ اللہ ربی لا اشرك به شيئاً

کلام:ضعیف الجامع ۷۰۷۔

۳۳۱۷ جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو کہہ:

بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم -

پس اللہ تعالیٰ اس کے طفیل ہر طرح کی مصیبت و پریشانی دور کر دے گا۔ ابن السنی فی عمل یوم وليلة عن علی رضی اللہ عنہ

کلام:ضعیف الجامع ۷۲۷۔

۳۳۱۸ جب تم کسی بڑی مشکل میں پھنس جاؤ تو کہو:

حسبنا الله ونعم الوكيل . ابن مردويه عن ابی هريرة رضی اللہ عنہ

کلام:ضعیف الجامع ۲۹۹۔

۳۳۱۹ مچھلی والے (حضرت یونس علیہ السلام) کی دعا جس کے ساتھ انہوں نے (خدا کو) پکارا جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے: لا اله الا انت

سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کس مسلمان بندے نے اس کلمہ کے ساتھ کسی چیز کی دعا نہیں کی مگر اللہ نے اس کو قبول کیا۔

مسند احمد، ترمذی، نسائی، مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبيهقي، ابضاء عن سعد رضی اللہ عنہ

کلام:مجمیل الفتح۔

۳۳۲۰ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم پر دنیا کا کوئی کرب یا مصیبت نازل ہو جائے تو ذوالنون (یونس علیہ السلام) کی دعا پڑھ کر

دعا مانگے اس سے وہ کرب اور مصیبت ضرور دفع کر دی جائے گی۔ ابن ابی الدنیا فی الفرج، مستدرک عن سعد رضی اللہ عنہ

۳۳۲۱ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تو مصیبت کے وقت کہے:

اللہ اللہ ربی لا اشرك به شيئاً . مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجه عن اسماء بنت عميس

۳۳۲۲ جس کو کوئی رنج و غم یا بیماری اور کوئی سختی پہنچے اور وہ کہے: اللہ اللہ ربی لا اشرك به شيئاً۔ تو اللہ پاک اس سے ہر تکلیف دور فرمادیں گے۔

الکبير للطبرانی عن اسماء بنت عميس

مصیبت کے وقت کی دعا

۳۳۲۳ مصیبت زدہ شخص کو یہ دعائے کلمات کہنے چاہئیں:

اللهم رحمتك ارحو فلا تكلمني الي نفسي طرفة عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت -

اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں لہذا مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی اپنے نفس کے حوالہ نہ کر اور میرے تمام کام بنادے۔ بے

شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسند احمد، الادب المفرد، ابو داؤد، ابن حبان عن ابی بكرة

۳۳۲۴ ہر مشکل دور کرنے کے کلمات یہ ہیں:

لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم لا اله الا الله رب السموات السبع، ورب العرش الكريم

ابن ابی الدنیا فی الفرج عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۳۲۵ مجھے جب بھی کوئی کرب (رنج) لاحق ہوا تو جو بریل نے آکر کہا: اے محمد! کہو:

تو کلت علی الحی الذی لایموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولداً ولم یکن له شریک فی الملک
ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیراً۔
کلام:ضعیف الجامع ۵۱۲۸۔

رنج و غم اور مصیبت کے وقت کی دعائیں از الاکمال

۳۳۲۶ جب تجھ کو شیطان یا کوئی بادشاہ رنج و غم میں مبتلا کرے تو یوں کہہ لیا کر:

یا من یکفی من کل احد، یا احد من لا احد له، یا سند من لا سند له انقطع الرجاء الامنک، کفنی مما انا
فیہ، واعنی علی ما انا علیہ، مما قد نزل بی، بجاه و جهک الکریم، و بحق محمد علیک امین۔

”اے وہ ذات! جو ہر ایک سے کافی ہے، اے اکیلے! جس کو کسی کا سہارا نہیں، اے سب کے لئے آسرا بننے والے! جس کو کسی کا کوئی
آسرا نہیں، ہر طرف سے امیدیں ٹوٹ گئی ہیں سوائے تیرے، پس تو مجھے اس مشکل سے آزادی دے جس میں میں مبتلا ہوں۔ مجھے
اس کام پر قوت دے جس پر میں قائم ہوں اس مصیبت سے بچاتے ہوئے جو مجھ پر نازل ہو گئی ہے۔ اپنی کریم ذات کے طفیل اور اس
حق کے طفیل جو تجھ پر محمد (ﷺ) کا ہے۔ امین۔“ الدیلمی عن عمر رضی اللہ عنہ وعلی رضی اللہ عنہ

۳۳۲۷ جب تو کسی سے خوف زدہ ہو تو یوں کہہ:

اللهم رب السموات السبع وما فیہن، ورب العرش العظیم، رب جبرئیل ومیکائیل واسرافیل کن لی
جاراً من فلان واشیاعہ، ان یفرطوا علی، أو ان یطغوا علی ابداء، عز جارك وجل ثناءک ولا الہ
الا انت، ولا حول ولا قوۃ الا بک

”اے ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب کے رب! اور عرش عظیم کے رب! جبرئیل علیہ السلام میکائیل اور اسرافیل کے
رب! تو مجھے فلاں شخص اور اس کے بیروکاروں سے اپنی پناہ میں لے لے۔ کہ کبھی مجھ پر تعدی کریں یا سرکشی کریں۔ بے شک تیری
پناہ مضبوط ہے تیری ثناء عظیم ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر نیکی کی قوت اور بدی سے اجتناب تیرے سوا ممکن نہیں۔“

• الخرائطی فی مکارم الاخلاق عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۳۲۸ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو کوئی غم زدہ شخص کہہ لے تو اللہ عزوجل اس کا غم زائل فرمادیتے ہیں وہ کلمہ میرے بھائی یونس نے
کہا تھا:

فنادی فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الانبیاء: ۸۷

پھر اس نے تاریکیوں میں (ہم کو) پکارا: کہ بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک ہے میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔

ابن السنی فی عمل یوم ولیلۃ عن سعد رضی اللہ عنہ

۳۳۲۹ میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں انہیں تو مصیبت کے وقت کہہ لیا کر:

اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئاً

اللہ! اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ مسند احمد، ابو داؤد عن اسماء بنت عمیس

۳۳۳۰ اے ال عبدالمطلب! جب تم پر کوئی کرب، مصیبت، مشقت یا تنگی پہنچے تو یوں کہا کرو:

اللہ اللہ ربنا لا شریک له۔ الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۳۳۱ جس نے ہر روز چار مرتبہ یہ کلمات کہہ لئے اللہ پاک اس سے ہر برائی دور کر دیتے ہیں:

اشهد ان الله هو الحق المبين وانه يحيى ويميت وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من فى القبور
”س گواہی دیتا ہوں اللہ کی ذات ہی حق ہے اور کھلی ذات ہے، وہی جلاء بخشا ہے اور موت دیتا ہے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے

اس میں کوئی شبہ نہیں اور بے شک اللہ پاک قبروں میں سے مردوں کو اٹھائیں گے۔“ الحاکم فى التاريخ عن انس رضى الله عنه
۳۳۳۲ فراخی و کشادگی کے کلمات یہ ہیں

لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلى العظيم، لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم

ابن ابى الدنيا فى الفرج عن ابن عباس رضى الله عنه

۳۳۳۳ جو بندہ یہ کلمات کہے لے اللہ پاک اس کا رنج و غم زائل فرمادیتے ہیں:

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم، اكفنى كل مهم من حيث شئت ومن اين شئت

الخرائطى فى مكارم الاخلاق عن على رضى الله عنه

۳۳۳۴ جس مسلمان کو کوئی رنج یا غم لاحق ہو پس وہ یہ دعا پڑھے

اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل فى قضاك،
اسئلك بكل اسم هولك، سميت به نفسك، او انزلته فى كتابك او علمته احدا من خلقك
او استاثرت به فى علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن ربيع قلبى، ونور بصرى، وحلاء حزنى،
وذهاب همى۔

”اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندگی کا بیٹا ہوں، ہمیری پیشانی (اور باگ ڈور) تیرے ہاتھ میں
ہے، میری ذات میں تیرا حکم جاری ساری ہے، تیرا فیصلہ میرے متعلق عدل پر مبنی ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام
کے ساتھ جو تو نے اپنی ذات کے لئے موسوم فرمایا یا تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تو نے اسے علم
غیب میں رکھنے کو ترجیح دی۔ میں اس نام کے سبب سوال کرتا ہوں کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری آنکھوں کا نور
بنا دے، میرے رنج کو زائل کرنے والا بنا دے، میرے غم کا علاج بنا دے۔“

اللہ پاک ضرور اس کے رنج کو زائل فرمادیں گے اور اس کے بدلہ خوشی عنایت فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول
اللہ! کیا ہم یہ کلمات یاد نہ کر لیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اور ہر وہ شخص جو بھی ان کلمات کو سنے یاد کر لے۔

(مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، السنن للدارقطنی، مستدرک الحاکم عن ابن مسعود رضى الله عنه)

۳۳۳۵ جس شخص کو کوئی رنج یا غم پہنچے تو وہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرے

اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك، فى قبضتك ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل
فى قضاءك، اسئلك بكل اسم هولك، سميت به نفسك او انزلته فى كتابك، او علمته احدا من
خلقك او استاثرت به فى علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن ربيع قلبى ونور بصرى وجلاء حزنى
وذهاب همى۔

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ شخص تو قابل رشک ہے جس کو یہ کلمات یاد ہو گئے آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! تم بھی یہ کلمات پڑھا
کر اور دوسروں کو بھی سکھایا کرو۔ بے شک جس نے یہ کلمات کہے اور دوسروں کو سکھائے اللہ پاک اس کا رنج زائل فرمادیں گے اور اس کی خوشی کو

دراز فرمادیں گے۔ الکبیر للطبرانی، ابن السنن فى عمل يوم وليلة عن ابى موسى رضى الله عنه

۳۳۳۶ جس کو کوئی رنج و غم لاحق ہو وہ یہ کلمات کہے

اللهم انى عبدك وابن عبدك وابن امتك، فى قبضتك ناصيتى بيدك، ماض فى حكمك، عدل

فی قضاء ک، اسألک بكل اسم هولک، سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک، أو علمته احدًا من خلقک أو استأثرت به فی علم الغیب عندک، ان تجعل القرآن ربيع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب غمی۔

کسی غمزدہ بندے نے یہ کلمات نہیں کہے مگر اللہ پاک نے ضرور اس کے رنج کو خوشی سے تبدیل کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم ان کو یاد نہ کر لیں؟ فرمایا: ہاں ضرور ان کو دیکھ لو۔ مسند ابی یعلیٰ، ابن السنی، ابن حبان عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ۳۳۳۶۔ جس شخص نے آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات (امن الرسول سے آخر تک) کسی بھی مصیبت کے وقت تلاوت کیں اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ ابن السنی عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ۳۳۳۷۔ جس شخص نے یہ کلمات کہے:

عبدالرحمن عبدالرحمن

لا الہ الا اللہ قبل کل شیء ولا الہ الا اللہ بعد کل شیء ولا الہ الا اللہ یقی، ویفنی کل شیء
ہر چیز سے قبل لا الہ الا اللہ ہے اور ہر چیز کے بعد لا الہ الا اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ ہی باقی رہے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔
تو ضرور اس کو رنج و غم سے عافیت دی جائے گی۔ الکبیر للطبرانی عن ابن عباس

کلام:..... الضعیفۃ ۳۳۷۔

۳۳۳۸ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ، وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ (یہ کلمات فراموشی و کشادگی کے ہیں)۔ مسند احمد، ابن السنی فی عمل یوم ولیلۃ، ابن حبان، مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیہقی عن علی رضی اللہ عنہ ۳۳۳۹۔ اے ابی طالب کے فرزند! (علی رضی اللہ عنہ) میں تجھے غم زدہ دیکھ رہا ہوں تو اپنے کسی گھر والے کو کہہ کہ وہ تیرے کان میں اذان کہے۔ بے شک میری رنج کی دوا ہے۔ الدیلمی عن علی رضی اللہ عنہ ۳۳۴۰۔ اے علی! جب تجھے کوئی پریشان کن معاملہ پیش آجائے یہ کلمات پڑھا کر:

اللہم احرسنی بعینک الی لاتمام، واکفنی بکنفک الذی لایرام واغفر لی بقدرتک علی فلا اهلک و انت رجائی، رب کم من نعمۃ انعمتھا علی اقل لک عندھا شکری و کم من بلیۃ ابتلیتني بها، قل لک عندھا صبری فیامن قل عند نعمتہ شکری فلم یحرمنی ویامن قل عند بلیتہ صبری فلم یخذلنی ویامن رانی علی الخطایا فلم یفضحنی، یا ذا المعروف الذی لاینقضی ابدًا و یا ذا النعماء الی لاتحصی ابدًا، اسألک ان تصلی علی محمد، وعلی آل محمد و بک ادرا فی ثحور الاعداء و الجبارین

الفردوس عن علی رضی اللہ عنہ

”اے اللہ! میری حفاظت فرما اپنی اس آنکھ کے ساتھ، جو کبھی نہیں سوئی۔ مجھے اپنے اس سایہ میں حفاظت دے جو کبھی ڈھلتا نہیں۔ میری مغفرت فرما اپنی اس قدرت کے ساتھ جو تجھے مجھ پر حاصل ہے جس کے صلہ میں میں ہلاکت سے بچ جاؤں اور بے شک تو ہی میری امیدوں (کا محور) ہے۔ کتنی نعمتیں تو نے مجھ پر انعام فرمائی ہیں، جن کا مجھ سے شکر بھی ادا نہ ہو سکا۔ کتنی مصیبتیں ہیں جن کے ساتھ تو نے میری آزمائش کی مگر میں ان پر صبر میں پورا نہ اتر سکا۔ اے وہ ذات جس کی نعمتوں پر میں نے صبر نہ کیا مگر اس کے باوجود اس نے مجھے ان نعمتوں سے محروم نہ فرمایا۔ اے وہ ذات جس کے مصائب پر مجھ سے صبر نہ ہو سکا مگر اس نے رسوا نہ کیا۔ اے وہ ذات جس نے مجھے گناہوں میں آلودہ دیکھا مگر مجھے نصیحت و شرمندہ نہ کیا۔ اے وہ ذات جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اے ان نعمتوں کی مالک ذات جو کبھی شمار نہیں کی جاسکتیں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ محمد (ﷺ) پر اور ان کی آل پر (میری طرف سے) درود (وسلام) نازل فرما۔ اور تمام دشمنوں اور سرکشوں کے مقابلہ میں میرا پروردگار ہو جا۔“ الفردوس عن الدیلمی

۳۳۴۱..... اے علی! جب تو کسی مشکل میں پڑ جائے تو یہ کلمات کہا کر:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ
یقیناً اللہ پاک ان کلمات کے طفیل جن مصیبتوں کو بھٹی چاہے گا دور کر دے گا۔ الدیلمی عن علی رضی اللہ عنہ و فیہ عمرو بن شمر
۳۲۲۲ یہ کہا کر:

سبحان اللہ الملک القدوس، رب الملائکة والروح جللت السموات والارض بالعزة والجبروت۔
پاک ہے اللہ کی ذات جو مالک ہے اور ہر تقدیس کے لائق ہے۔ ملائکہ اور جبرئیل امین کرب ہے۔ (اے پروردگار!) بے شک تو نے
آسمانوں اور زمین کو اپنی عزت اور طاقت کے ساتھ عظمت بخشی ہے۔ الکبیر للطبرانی عن البراء رضی اللہ عنہ
فائدہ:..... ایک شخص نے اپنی وحشت (اور تہائی) کی شکایت کی تو آپ ﷺ نے جواب عنایت فرمایا۔
۳۲۲۳..... کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تجھ سے ہر تکلیف اور بیماری کو دفع کر دیں گے تو یہ کہا کر:

تو کلت علی الحی الذی لایموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولداً ولم یکن له شریک فی الملک
ولم یکن له ولی من الدل و کبیرہ تکبیراً
”میں نے اس ذات پر بھروسہ کیا جو کبھی مرے گی نہیں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے اپنے لئے نہ کوئی بیٹا بنایا اور نہ
اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ عاجز و ناتواں ہے نہ کسی مددگار کا محتاج، پس تو اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتا رہ۔“

ابن السنی فی عمل یوم وليلة عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۲۴ حسبی اللہ ونعم الوکیل ہر خوف زدہ کے لئے پناہ ہے۔ ابو نعیم عن شداد بن اوس

کلام:..... کشف الخفاء ۱۱۳۲۔ ضعیف الجامع ۲۷۱۳۔

دوسری فرع..... نماز کے بعد کی دعائیں

۳۲۲۵..... کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کو تمام لو تو اپنے سے سابقین کو پالو اور تم سے پیچھے والے تم کو نہ پائیں۔ اور تم اپنے ساتھ
والوں میں سب سے بہترین لوگ بن جاؤ، سوائے اس شخص کے جو یہی عمل کرے۔ لہذا ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس (۳۳) مرتبہ سبحان
اللہ، الحمد لله اور اللہ اکبر کہا کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۲۲۶..... دو باتیں ایسی ہیں جن پر کسی بھی مسلمان نے پابندی کی تو وہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور وہ دونوں نہایت آسان ہیں اور ان
کا عمل بھی قلیل ہے۔ پس ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ، الحمد لله اور اللہ اکبر کہا جائے۔ پس زبان پر تو یہ ڈیڑھ سو کلمات ہوئے
لیکن میزان میں ڈیڑھ ہزار ہوئے۔ پھر جب (رات کو) بستر پر جائے تو اللہ اکبر چونتیس مرتبہ، الحمد لله تینتیس مرتبہ اور سبحان اللہ
تینتیس مرتبہ کہا جائے یہ زبان پر سو کلمات ہوئے لیکن میزان میں ایک ہزار۔ پس کون شخص دن رات میں ڈھائی ہزار برائیاں کرے گا۔

مسند احمد، الادب المفرد، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۲۲۷..... سو بار اللہ اکبر کہہ، سو بار الحمد لله، اور سو بار سبحان اللہ۔ یہ تیرے لئے اس سے زیادہ ثواب کی چیز ہے کہ تو سو گھوڑے زین اور
لگام لگے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے دے، اور اس سے بہتر ہے کہ تو سواوٹ اللہ کی راہ میں قربان کرے اور اس سے بہتر ہے کہ تو سونگام
اللہ کے لئے آزاد کرے۔ ابن ماجہ عن ام ہانی

۳۲۲۸..... دس بار سبحان اللہ پڑھ، دس بار الحمد لله پڑھ اور دس بار اللہ اکبر پڑھ پھر جو چاہے اللہ سے مانگ بے شک وہ فرماتا ہے میں
نے قبول کیا۔ مسند احمد، ترمذی، نسائی، مستدرک الحاکم، ابن حبان عن انس رضی اللہ عنہ
کلام:..... ضعیف الجامع ۳۲۳۳۔

سوار سبحان اللہ کہنے کی فضیلت

۳۴۴۹ سوار سبحان اللہ کہہ، یہ تیرے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سوغلام آزاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ سوار الحمد للہ کہہ، یہ تیرے لئے سو گھوڑے زین اور گام لگے ہوئے جہاد کے لئے اللہ کی راہ میں دینے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور سوار اللہ اکبر کہہ، یہ تیرے لئے ایسا ہے جیسے تو نے سوانت قلاہ لگے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان کئے۔ اور سوار لا الہ الا اللہ کہہ، یہ زمین و آسمان کے درمیان کے خلاء کو ثواب سے بھر دے گا اور اس دن اس سے بڑھ کر کوئی عمل آسمان پر نہیں جاسکتا، الا یہ کہ اور کوئی بھی تیرے جیسا یہ عمل کرے۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن ام ہانی

کلام: ضعیف الجامع ۳۴۴۹۔

۳۴۵۰ اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد سوار یہ کلمات پڑھے تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ پاک اس کو معاف فرمادے گا۔

مسند احمد عن ابی ذر رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۳۴۶۳۔

ہر نماز کے بعد کی تسبیحات

۳۴۵۱ ہر نماز کے بعد میں پڑھے جانے والے کلمات جن کا پڑھنے والا کبھی نامرا نہیں ہوتا وہ یہ ہیں تینتیس بار سبحان اللہ، تینتیس بار

الحمد للہ اور چونتیس بار اللہ اکبر (ہر فرض نماز کے بعد)۔ مسند احمد، مسلم، ترمذی، نسائی عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ

۳۴۵۲ کیا میں ایسی شے نہ بتاؤں جس کو کرنے سے تم اپنے سے آگے والوں کو پالو اور اپنے بعد والوں سے آگے نکل جاؤ۔ ہر فرض نماز کے بعد

الحمد للہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر تینتیس تینتیس بار اور (اللہ اکبر) چونتیس بار پڑھو۔ ابن ماجہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ

۳۴۵۳ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ سکھاؤں جس کے ذریعے تم آگے والوں کو پہنچ جاؤ اور کوئی تم سے افضل نہ رہے سوائے اس شخص کے جو

تیرے جیسا عمل کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمد للہ ہر فرض نماز کے بعد تینتیس تینتیس بار پڑھو۔

مسند احمد، مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۴۵۴ تم سے بدر کے یتیم لوگ آگے نکل گئے ہیں لیکن میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں گا جو اس سب سے بہتر ہوگا پس تم ہر فرض نماز کے بعد

تینتیس بار اللہ اکبر، تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمد للہ کہو۔ اور (ایک بار) لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ

الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدید کہو۔ ابو داؤد عن ام الحکم بنت الزبیر رضی اللہ عنہ

۳۴۵۵ اے ابو ذر! میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جن کو تو کہے تو (ممل میں) تو اپنے سے آگے والے کو پالے اور تجھے کوئی نہ پاسکے الا یہ کہ

کوئی اور بھی یہی عمل کرے۔ ہر نماز کے بعد تینتیس بار اللہ اکبر کہہ۔ تینتیس بار سبحان اللہ اور تینتیس بار الحمد للہ اور ایک بار یہ پڑھ

خاتمہ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدید۔ جو یہ عمل کرے اس کے سارے گناہ

معاف کر دیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ ابو داؤد عن ابی ذر رضی اللہ عنہ

۳۴۵۶ اے معاذ! اللہ کی قسم! میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں۔ اے معاذ! میں تجھے یہ وصیت کرتا ہوں کہ کسی فرض نماز کے بعد یہ

کہتا نہ چھوڑ:

اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان، مستدرک عن معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل

۳۳۵۷ میں تجھے ایسے عمل کی خبر دیتا ہوں اگر تو اس پر عمل کرے تو اپنے سے آگے والوں کو پالے اور اپنے پیچھے والوں کو پیچھے چھوڑ دے سوائے اس شخص کے جو تیرے جیسا عمل کرے پس ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ پڑھ، تینتیس بار اللہ اکبر اور چونتیس بار الحمد للہ پڑھ۔

مسند احمد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، الضیاء عن ابی ذر رضی اللہ عنہ

۳۳۵۸

۳۳۵۹ جب تم نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو سبحان اللہ تینتیس مرتبہ کہو، الحمد للہ تینتیس مرتبہ، اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اور لا الہ الا اللہ دس مرتبہ۔ اس کے ساتھ تم ان لوگوں کو پالو گے جو تم سے (نیکیوں میں) آگے نکل گئے ہیں۔ اور جو تمہارے بعد آنے والے ہیں ان سے بھی تم

آگے نکل جاؤ گے۔ ترمذی، نسائی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

فائدہ: بعض غریب صحابہ نے مالداروں کے متعلق عرض کیا کہ وہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو آپ ﷺ نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔

کلام: ضعف الجامع ۵۷۸، ضعیف النسائی ۷۴، المستدرک ۱۶۹۔

۳۳۶۰ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہا، تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا جو ننانوے تسبیحات ہوئیں پھر ایک مرتبہ یہ کلمات کہہ کر سو کی تعداد پوری کر لی:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔
تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح زیادہ ہوں۔

مسند احمد، مسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۶۱ اے نمازی تو نے بہت جلدی کر لی، نماز پڑھ کر اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد کیا کرو پھر مجھ پر درود پڑھا کرو اور پھر دعا کیا کرو۔

ترمذی نسائی عن فضالہ بن عبید

۳۳۶۲ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير۔ جس شخص نے یہ کلمات مغرب کی نماز کے بعد دس مرتبہ کہہ لئے تو اللہ پاک اس کے لئے مسخ فرشتے بھیجیں گے جو اس کی (جن و شیاطین سے صبح تک حفاظت کریں گے۔ جنت) واجب کرنے والی دس نیکیاں لکھیں گے، دس ہلاک کر دینے والی برائیاں اس سے مٹائیں گے اور دس مسلمان غلاموں کو

آزاد کرنے کا ثواب اسے مرحمت ہوگا۔ ترمذی عن عمارہ بن شیبہ مرسلہ
کلام: ضعف الجامع ۵۷۹۔

۳۳۶۳ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد، گھٹنے مڑنے کی حالت میں اور کسی سے بات کرنے سے قبل یہ کلمات دس مرتبہ کہے

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير۔ تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی، دس برائیاں مٹائی جائیں گی، دس درجے بلند کر دیئے جائیں گے اور وہ اس پورے دن پر کروہ و ناپسندیدہ بات سے حفاظت میں رہے گا اور شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی اور کوئی گناہ اس کو نہیں پاسکے گا سوائے شرک باللہ کے۔

ترمذی ابن ماجہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ

کلام: ضعف الترمذی ۶۸۸۔

چاشت کی نماز کی فضیلت

۳۳۶۴ فرض نماز پڑھ کر اٹھنے سے پہلے جو شخص نماز کی جگہ بیٹھا ہے اور کسی سے بات چیت کے بغیر ذکر و تسبیح میں مشغول رہے حتیٰ کہ چاشت کی دو رکعت پڑھے تو اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی مانند ہوں۔ ابو داؤد عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کلام:..... ضعیف ابی داؤد ۲۸، ضعیف الجامع ۹۵-۵۷۔

۳۳۶۵ جب تم فرض نماز پڑھ لو تو ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ یہ کلمات کہو:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدید۔
پس کہنے والے کے لئے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر لکھا جائے گا۔ الرافعی فی التاریخ عن البراء کلام:..... ضعیف الجامع ۵۷-۵۵۔

۳۳۶۶ جب آدمی اپنی نماز سے فارغ ہو جائے تو کہے ”رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبالقرآن اماماً“ یعنی میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین اور قرآن ہمارا امام۔ پس اللہ پر بھی لازم ہوگا کہ وہ اس کے قائل کو راضی کرے۔

الایمانہ للسجزی عن الزبیر

کلام:..... ضعیف الجامع ۶۰۶، الضعیفہ ۹۷-۹۷۔

۳۳۶۷ جب تو صبح کی نماز پڑھ لے تو کسی سے بات کرنے سے قبل سات مرتبہ یہ پڑھ: اللھم اجرنی من النار اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ پس اگر تو اسی دن مر گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے لئے جہنم سے پناہ لکھ دیں گے۔ یونہی جب مغرب کی نماز پڑھ لے تو کسی سے بات چیت کرنے سے قبل اللھم اجرنی من النار پھر سات مرتبہ پڑھ۔ پس اگر تو اسی رات مر گیا تو اللہ تعالیٰ تیرے لئے جہنم سے پناہ لکھ دیں گے۔

مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی عن الحارث التیمی

کلام:..... ضعیف الجامع ۵۷۱، الضعیفہ ۱۲۲۳-۱۲۲۳۔

نماز کے بعد کی دعائیں..... از الاکمال

۳۳۶۸ موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دریافت فرمایا: جو شخص آیت الکرسی اتنی اتنی مرتبہ پڑھے اس کے لئے کیا اجر ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام اجر کی نوعیت بیان فرمائی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام (اتنی مرتبہ پڑھنے کی) طاقت نہیں رکھ سکے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اس (کے پڑھنے) سے عاجز و کمزور نہ فرما۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور فرمایا: آپ کا پروردگار آپ کو فرماتا ہے: جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہے لئے تو رات دن میں چوبیس گھنٹے ہیں، ان میں ہر گھنٹے میں اس بندے کی طرف سے سات کروڑ نیکیاں آسمان پر جائیں گی اور فرشتے ان نیکیوں کو لکھنے میں صور پھونکے نکلے جانے کے دن تک لکھتے رہیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں:

اللھم انسی اقدم الیک بین یدی کل نفس ولمحہ ولحظہ وطرفہ بطرف بہا اهل السموات واهل الارض فی کل شیء ہو فی علمک کائن اوقد کان، اقدم الیک بین یدی ذلک کلمہ اس کے بعد پوری آیت الکرسی پڑھے۔

”اے اللہ! ہر لمحہ ہر گھڑی اور ہر پل میں اہل آسمان وزمین جو پل پل گزار رہے ہیں اور ماضی میں اور مستقبل میں جس قدر لحظات وہ گذاریں اس قدر آپ کے روبرو میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔“ الحکیم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۳۶۹ جب تو نماز پڑھ لے تو ہر فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ کہہ، چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قدير۔

الکبیر للطبرانی عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۳۷۰ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں۔ جس کے ذریعے تم اپنے سے آگے والوں کو پا لو گے اور تم سے بعد والے تم کو نہ پا سکیں گے۔ اور تم ان سب سے افضل ہو گے جن کے درمیان تم ہو اس شخص کے سوا جو اسی کے مثل پڑھ لے۔ وہ یہ ہے کہ تم فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر تینتیس مرتبہ پڑھو۔ بخاری، مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۷۱ کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تو اس کو تھا م لے تو تجھ سے سبقت کرنے والوں کو تو پا لے گا اور تجھ سے پیچھے والے تجھے نہ پا سکیں گے۔ سوائے اس شخص کے جو یہی عمل کرے۔ پس ہر نماز (فرض) کے بعد چونتیس مرتبہ (آخر میں) اللہ اکبر کہہ، تینتیس مرتبہ (سب سے پہلے) سبحان اللہ کہہ اور (درمیان میں) تینتیس مرتبہ الحمد للہ کہہ۔

مسند احمد، الکنی للہ حاکم، الکبیر للطبرانی عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ

۳۳۷۲ کیا میں تم کو ایسی شے نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو تم اپنے سے سبقت کرنے والوں کو پا لو اور تم سے پیچھے والے تم کو نہ پا سکیں اور تم اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سب سے بہترین ہو جاؤ سوائے اس شخص کے جو یہی عمل کرے۔ پس تم ہر فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ شعب الایمان للبیہقی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۷۳ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جب تو ان کو کہہ لے گا تو (عمل میں) اپنے سے سابقین کو پا لے گا لیکن تجھ سے پیچھے والے تجھ کو نہیں پہنچ پا سکیں گے سوائے اس شخص کے جو تیرے جیسا عمل کرے۔ پس تو ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ کہہ، تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ اور آخر میں ایک مرتبہ یہ کلمات ادا کر:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد ولہ الشکر وھو علی کل شیء قدير۔

شیطان کے شر سے حفاظت

۳۳۷۴ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وھو علی کل شیء قدير۔

ابن عساکر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

جس شخص نے صبح کو یہ کلمات نماز کے بعد اس مرتبہ کہہ لئے اللہ پاک اس کے لئے ان کلمات کے عوض دس نیکیاں لکھیں گے، دس خطائیں معاف فرمائیں گے، دس درجات اس کے بلند فرمائیں گے اور دس غلام آزاد کرنے کے بقدر ثواب لکھا جائے گا اور یہ کلمات اس کے لئے شام تک شیطان سے حفاظت کا سبب بنیں گے۔ اور جس شخص نے یہ کلمات شام کو کہہ لئے تو صبح تک اس کو یہی فضیلت حاصل ہوگی۔

شعب الایمان للبیہقی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ

۳۳۷۵ اے ام سلمہ! جب تو فرض نماز پڑھ لے تو سبحان اللہ دس مرتبہ کہہ، اللہ اکبر دس مرتبہ، اور الحمد للہ دس مرتبہ۔ اس کے بعد جو چاہے اللہ سے سوال کرے بے شک پروردگار اس کے جواب میں تین بار فرماتے ہیں: ہاں۔ مسند ابی یعلیٰ عن انس رضی اللہ عنہ

۳۳۷۶ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھ پھیلا کر یہ کہے:

اللھم الھی والھ ابراھیم واسحاق و یعقوب الھ جبریل ومیکائیل واسرافیل اسئالک: ان تستجیب دعوتی فانی مضطرو ان تعصمنی فی دینی فانی مبتلی، وتنالنی برحمتک فانی مذنب، وتنفی عنی الفقر فانی مسکین۔

تو اللہ پر لازم ہے کہ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہ لٹوائے۔

ترجمہ کلمات: اے اللہ! اے میرے معبود! اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے معبود! اے جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری دعا قبول کر! میں مجبور ہوں اور میری میرے دین میں مدد فرما بے شک میں آزمائش میں مبتلا ہوں۔ مجھے اپنی رحمت عطا فرما میں گناہ گار ہوں۔ مجھ سے فقر وفاقہ کی تنگی دور فرما میں مسکین ہوں۔

ابن السنی، ابو الشیخ الدیلمی، ابن عساکر، ابن النجار عن انس رضی اللہ عنہ

کلام: روایت ضعیف ہے دیکھئے: تذکرۃ الموضوعات ۵۸۔ الثریہ ۳۳۲/۲۔ ذیل الملک الی ۱۸۲۔ الضعیفۃ ۲۱۔

۳۳۷۷ ہر نماز کے بعد معوذات (سورۃ بقرہ اور سورۃ الناس) پڑھو۔

الکبیر للطبرانی، ابو داؤد، ابن حبان عن عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر

۳۳۷۸ جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ میرے لئے اللہ سے وسیلہ مانگو، پوچھا گیا: وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا: جنت کا اعلیٰ ترین درجہ، اس کو ایک شخص کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا۔

مصنف عبدالرزاق، مسند احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۳۷۹ جس نے ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ دعا کی قیامت کے دن اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگی:

اللهم اعط محمدًا الوسيلة واجعل فی المصطفین محبته وفي العالمین درجته وفي المقربین ذکر دارہ
”اے اللہ! محمد (ﷺ) کو (مقام) وسیلہ عطا فرما اور اپنے برگزیدہ لوگوں میں ان کی محبت کو جاگزین فرما اور مقربین میں ان کا ذکر

(عام) فرمادے۔“ الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

فائدہ: غالباً دعا میں دار کا لفظ زائد ہے۔ اس لئے ترجمہ میں دار کا معنی گھر کا معنی ذکر نہیں کیا گیا۔

۳۳۸۰ جب شخص نے ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کی اس نے اپنے لئے مجھ پر شفاعت واجب کر لی اور اس کے لئے جنت واجب ہوگی:

اللهم اعط محمدًا الدرجة والوسيلة، اللهم اجعل فی المصطفین محبته وفي العالمین درجته وفي

المقربین ذکرہ۔ ابن السنی فی عمل یوم وليلة عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۳۸۱ جس کو یہ بات خوشگوار ہو کہ قیامت کے دن بڑے میزان میں اس کا عمل تولا جائے تو پس وہ ہر نماز سے لوٹتے وقت یہ پڑھا کرے:

سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلم علی المرسلین والحمد لله رب العالمین پاک ہے تیرے رب کی ذات جو عزت کا مالک ہے۔ ہر اس عیب سے جو وہ بیان کرتے ہیں اور رسولوں پر سلام اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

الدیلمی عن علی رضی اللہ عنہ

۳۳۸۲ جس شخص نے ہر نماز کے بعد یہ کہا: سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلم علی المرسلین، والحمد لله رب

العالمین۔ تو بے شک اس نے بڑے تر ازو میں اپنا عمل تولا یا۔ الکبیر للطبرانی عن زید رضی اللہ عنہ بن ارقم

۳۳۸۳ جس نے نماز سے اٹھتے وقت تین مرتبہ یہ کلمات کہے تو وہ مغفرت کی حالت میں اٹھے گا:

سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله۔

ابن السنی، عمل یوم وليلة للحسن بن علی بن شیب المعمری، ابو الشیخ، ابن النجار عن انس رضی اللہ عنہ

۳۳۸۴ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے جنت کا سوال نہیں کرتا تو جنت کہتی ہے: افسوس اس پر، کیا اس کے لئے اچھا نہ ہوتا اگر یہ اللہ سے

جنت کا سوال کر لیتا۔ یونہی جب بندہ نماز پڑھ کر جہنم سے اللہ کی پناہ نہیں مانگتا تو جہنم کہتی ہے: ہائے افسوس! کیا اس کے لئے اچھا نہ ہوتا اگر یہ جہنم

سے اللہ کی پناہ مانگ لیتا۔ الدیلمی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

تیسری فرغ..... صبح و شام کی دعاؤں کے بارے میں

۳۲۸۵ جب تم میں سے کوئی شخص صبح کرے تو یہ کلمات کہے:

اللهم بک أصبحنا وبک أمسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔

”اے اللہ تیری قدرت کے ساتھ ہم صبح کرتے ہیں اور شام کرتے ہیں اور تیری قدرت کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں اور مرتے ہیں۔

اور تیری طرف ہمارا ٹھکانا ہے۔“

اور جب شام ہو تو یہ کلمات کہے:

اللهم بک أمسینا وبک أصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔

ترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

حدیث حسن ہے۔

۳۲۸۶ جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے:

اللهم ما أصبح بی من نعمة أرباحد من خلقک فممنک وحدک لا شریک لک ولک الحمد ولک

الشکر علی ذلک۔

اے اللہ! جو بھی نعمت مجھے حاصل ہے یا تیری کسی بھی مخلوق کو حاصل ہے وہ سب تیری طرف سے ہے، تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں پس

تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں اور اس پر تیرا (لاکھ لاکھ) شکر ہے۔ اس نے سارے دن کا شکر ادا کر دیا اور جس نے یہ کلمات شام کو کہے اس نے اس

رات کا شکر ادا کر دیا۔ ابو داؤد، ابن حبان، ابن السنی، شعب الایمان للبیہقی عن عبد اللہ بن غنم

۳۲۸۷ جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے:

فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السموات والارض وعشیا وحین تظهرون

یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون۔

سورة الروم ۱۸ ۱۹

تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی تعریف ہے۔ اور تیسرے پہر بھی اور جب

دوپہر ہو (تب بھی)۔ وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور (وہی) مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ

کرتا ہے اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ (پس جس نے صبح کے وقت مذکورہ آیات پڑھ لیں) اس نے اس دن کی فوت شدہ چیزوں کو پالیا اور

جس نے یہی آیات شام کو پڑھیں اس نے اس رات کی فوت شدہ چیزوں کو پالیا۔ ابو داؤد عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام..... ضعیف الجامع ۳۳۵۷۔ ذخیرة الحفاظ ۵۴۵۸، ضعیف ابی داؤد ۱۰۸۱۔

۳۲۸۸ جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدید۔

اس کے لئے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، دس برائیاں

مٹا دی جاتی ہیں اور دس درجات اس کو بلند کر دیئے جاتے ہیں اور وہ شام تک شیطان سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور جب شام کے وقت

یہ کلمات کہے تو تب بھی یہی ثواب ملتا ہے (اور وہ شیطان سے اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے) حتیٰ کہ صبح کر لے۔

مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ عن ابی عیاش الزرقی

۳۳۸۹ جس نے شام کے وقت یہ کلمات تین مرتبہ کہے:

بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم
اللہ کے نام کے ساتھ (شام کرتا ہوں) جس کے نام کے ساتھ کوئی شے نقصان نہیں دے سکتی زمین میں اور نہ آسمان میں اور وہ سننے والا
(اور) جاننے والا ہے۔ تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ اور جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ یہی کلمات پڑھے تب بھی کوئی مصیبت
اس کو نہیں پہنچ سکتی حتیٰ کہ شام کرے۔ ابو داؤد، ابن حبان عن عثمان رضی اللہ عنہ
۳۳۹۰ جس نے صبح و شام تین تین بار یہ کلمات پڑھے:

رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیاً

میں اللہ پر رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو قیامت کے دن راضی کرے۔

مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم عن رجل

کلام:..... ضعیف الجامع ۵۷۳۳۔

فجر کے بعد کے اعمال

۳۳۹۱ جس نے صبح کے وقت تین بار یہ کلمات کہے: اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اور پھر سورہ ہشر کی آخری تین
آیات تلاوت کیں تو اللہ پاک ستر ہزار فرشتے اس پر مقرر فرماتے ہیں جو شام تک اس کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اور اگر وہ اس دن
مر گیا تو شہید مرے گا اور اگر شام کو یہ سب پڑھے تو بھی (صبح تک) یہی مرتبہ ملے گا۔ مسند احمد، ترمذی عن معقل بن یسار
کلام:..... ضعیف الجامع ۵۷۳۲، ضعیف الترمذی ۵۶۱۰۔

۳۳۹۲ اللہم انا اصبحتنا نشهدک ونشهد حمله عرشک وملائکتک وجميع خلقک بانک اللہ لا الہ الا انت
وحدک لا شریک لک وان محمداً عبدک ورسولک۔

”اے اللہ! ہم نے صبح کی اور ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں اور آپ کے خلیفین عرش فرشتوں کو اور تمام فرشتوں کو اور آپ کی تمام مخلوق کو
گواہ بناتے ہیں کہ بے شک آپ ہی معبود ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ اکیلے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں اور محمد آپ کے
بندے اور رسول ہیں۔“

جس نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے تو اس دن جو گناہ بھی اس سے سرزد ہوئے اللہ ان کو معاف فرمائیں گے اور جس نے یہ کلمات شام کے وقت
کہے تو صبح تک جو گناہ اس سے سرزد ہوئے اللہ ان کو بھی بخش دیں گے۔ ترمذی عن انس رضی اللہ عنہ
کلام:..... ضعیف الجامع ۵۷۲۹۔

۳۳۹۳ اللہم انی اصبحت اشهدک واشهد حمله عرشک وملائکتک وجميع خلقک انک اللہ الذی
لا الہ الا انت وان محمداً عبدک ورسولک۔

جس شخص نے صبح یا شام کے وقت ایک مرتبہ مذکورہ کلمات پڑھے اللہ پاک اس کا چوتھائی حصہ جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ جس نے دو مرتبہ
یہ کلمات پڑھے اللہ پاک اس کا نصف حصہ جہنم سے آزاد فرمائیں گے، جس نے تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے اللہ پاک اس کے تین چوتھائی حصے جہنم
سے آزاد فرمائیں گے اور جس نے چار مرتبہ یہ کلمات پڑھے اللہ پاک اس کو سارا جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ ابو داؤد عن انس رضی اللہ عنہ
کلام:..... ضعیف الادب ۱۹۳۔

۳۳۹۴ جب تم میں سے کوئی صبح یا شام کرے تو وہ یہ کلمات پڑھے:

اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم اسالك خيرا هذا اليوم فتحة ونصره ونوره وبركاته
وهداه واعوذ بك من شر ما قبله وشر ما بعده.

ہم اور ساری سلطنت اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے اس دن کی خیر کا، کشادگی کا، مدد کا، نور کا، اس دن کی
برکتوں اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دن کے شر سے، اس سے پہلے کے شر سے اور اس کے بعد کے

شر سے۔ ابو داؤد عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ

۳۴۹۵ جب تم صبح کرو تو یہ کلمات تین مرتبہ پڑھو:

اللهم انت ربی لا شریک لک اصبحنا واصبح الملك لله لا شریک له
یونہی جب شام ہو تو تین مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ یہ کلمات درمیانی اوقات کے گناہوں کے لئے کفارہ بن جائیں گے۔

ابن السنی فی عمل یوم وليلة عن سلمان رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۳۸۰

۳۴۹۶ جب تو صبح کرے تو یہ کلمات پڑھ:

سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ان الله على كل
شيء قدير وان الله قد احاط بكل شئ علما

”پاک ہے اللہ، اور تمام تعریفوں کا سزاوار ہے، اس کی مدد کے بغیر کسی بدی سے حفاظت نہیں اور اس کی مدد کے بغیر کسی نیکی کی طاقت
نہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو اللہ نے اپنے
علم کے احاطے میں محیط کر رکھا ہے۔“

جس نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا اور جس نے شام کو یہ کلمات پڑھے وہ صبح تک اللہ کی حفاظت

میں رہے گا۔ ابو داؤد عن بعض بنات النبی ﷺ

کلام: ضعیف ابی داؤد ۱۰۸، ضعیف الجامع ۴۱۲۔

۳۴۹۷ جس نے ہر دن کی ابتداء میں اور ہر رات سے پہلے یہ کلمات تین بار پڑھے اس کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی:

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔

ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم عن عثمان رضی اللہ عنہ

۳۴۹۸ تجھے کیا مانع ہے کہ جو میں تجھے وصیت کروں تو اس کو سن اور اس پر عمل کر، صبح و شام یہ کہا کر:

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔

”اے زندہ! اے ہر شے کو قائم رکھنے والے! میں تیری رحمت کے لئے تجھے پکارتا ہوں میرے تمام حالات درست فرما اور مجھے ایک

پل کے لئے بھی اپنے نفس کے حوالہ نہ کر۔“ نسائی، مستدرک الحاکم عن انس رضی اللہ عنہ

۳۴۹۹ جس نے صبح و شام سو بار یہ کہا سبحان الله العظيم وبحمده تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر حاضر نہیں ہوگا

سوائے اس شخص کے جس نے یہی عمل کیا یا اس سے زیادہ کیا۔ مسند احمد، مسلم، ابو داؤد، ترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۵۰۰ جس نے شام کے وقت یہ کلمات کہے

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا

اللہ پر حق ہے کہ اس کو راضی کرے۔ ترمذی عن ثوبان رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۵۷۳، ضعیف الترمذی ۶۷۲۔

۳۵۰۱ جس شخص نے صبح یا شام کے وقت یہ کہا

اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔

”اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے وعدہ و عہد پر قائم ہوں جس قدر مجھ سے ہو سکے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے عمل کے شر سے، میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں نیز اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، پس تو مجھے بخش دے، یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اگر وہ اسی دن یا اسی رات کو مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔“

مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن حبان، مستدرک الحاکم عن بریدہ رضی اللہ عنہ

کلام: المصلحۃ ۳۷، لیکن یہ روایت بخاری میں بھی تخریج کی گئی ہے لہذا بخاری کے حوالہ سے مستند ہے۔

۳۵۰۲ جس شخص نے صبح کے وقت سورۃ حم المؤمن (فصلت) الیہ المصیر تک (یعنی شروع کی چند آیات تلاوت کیں اور ان کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھی تو ان آیات کی بدولت شام تک اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور جس نے یہ آیات شام کے وقت تلاوت کیں اس کی صبح تک حفاظت کی جائے گی۔ ترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۶۹، ۵۷، ضعیف الترمذی ۵۴۰۔

۳۵۰۳ جس نے سوار سبحان اللہ صبح کو کہا اور سوار شام کو کہا تو وہ (ثواب میں) اس شخص کے مثل ہوگا جس نے سوچ کئے۔ جس نے الحمد للہ سوار صبح کو اور سوار شام کو کہا گویا اس نے سوگھوڑے اللہ کی راہ میں بغرض جہاد دیئے، یا فرمایا کہ اس نے سوغزووں میں شرکت کی، جس نے سوار لا الہ الا اللہ صبح کو اور سوار شام کو کہا گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سوغلام آزاد کئے۔ اور جس نے سوار اللہ اکبر صبح کو کہا اور سوار شام کو کہا تو کوئی شخص اس دن اس سے اچھا عمل لے کر نہیں آسکتا الا یہ کہ کوئی یہی عمل اس کے بقدر یا اس سے زیادہ انجام دے۔

ترمذی عن ابن عمر ورضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الترمذی ۶۷۵، ضعیف الجامع ۵۶۱۹، الضعیفۃ ۱۳۱۹۔

۳۵۰۴ اگر تو نے شام کو یہ کہہ لیا ہوتا تو تجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا

اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔

میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ اس کی ہر پیدا کردہ شے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ مسلم، ابی داؤد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۵۰۵ سنو اگر وہ شام کے وقت یہ کلمات کہہ لیتا: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو صبح تک اس کو بچھو کا ڈنسا کچھ بھی

نقصان نہ دیتا۔ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۵۰۶ جب بھی صبح ہو اور شام ہو یہ کہہ لیا کر: بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ میں اللہ کا نام لیتا ہوں اپنے دین

پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے اہل خانہ پر اور اپنے مال پر۔ ابن عساکر عن ابن مسعود

کلام: ضعیف الجامع ۲۱۰۲۔

۳۵۰۷ جب صبح ہو تو یہ کہا کر: بسم اللہ علی نفسی و اہلی و مالی۔ پھر تیری کوئی شے ضائع نہ کی جائے گی۔

ابن السنی فی عمل یوم و لیلۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۲۰۹۶۔

۳۵۰۸ جس نے شام کے وقت تین مرتبہ یہ کہا: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اس رات اس کو بچھو کا ڈنگا کوئی نقصان نہیں

دے سکتا۔ ترمذی، ابن حبان، مستدرک الحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

چوتھی فصل..... مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھنے کی دعائیں

۳۵۰۹ .. جب کوئی شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے:

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده تفضيلاً
”تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت میں رکھا جس کے ساتھ تجھے بتلائے مصیبت کیا اور
اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت بخشی۔“

یوں اس نعمت کا شکر ادا ہو جائے گا۔ شعب الایمان للبیہقی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
۳۵۱۰ .. جب کوئی شخص اپنے کسی (مسلمان) بھائی پر کوئی مصیبت پڑی دیکھے تو اللہ کی حمد کرے لیکن اس کو کان میں نہ پڑنے دے۔

ابن النجار عن انس رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۳۹۷۔

۳۵۱۱ .. جس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ پڑھا: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً
تو اس کو وہ مصیبت ہرگز نہ پہنچے گی۔ ترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۵۱۲ .. جو کسی مصیبت والے کو دیکھے اور یہ دعا پڑھے الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق
تفضيلاً تو اس کو زندہ رہنے تک اس مصیبت سے محفوظ رکھا جائے گا خواہ وہ کسی مصیبت ہو۔

مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن السنی، شعب الایمان للبیہقی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

کلام: .. ضعیف الجامع ۵۵۸۹۔

فائدہ: .. یہ دعا آہستہ آواز میں پڑھے جس کا بتلائے مصیبت زدہ کو پتہ نہ چلے۔ کیونکہ اس سے اس کی دل شکنی ہوگی جو گناہ ہے۔ جیسا
کہ روایت نمبر ۳۵۱۰ میں بھی اس کی ممانعت آئی ہے اور خواہ دنیاوی مصیبت ہو کوئی بیماری وغیرہ یا دینی مصیبت ہو گناہ وغیرہ تو ہر موقع پر اس
دعا کو پڑھے۔

۳۵۱۳ .. جب کوئی کسی کو مصیبت میں گرفتار دیکھے تو (دل میں یا آہستہ آواز کے ساتھ) یوں کہے:

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده تفضيلاً

شعب الایمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۵۱۴ .. جو کسی کو تکلیف زدہ دیکھے تو یہ پڑھے:

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً

چنانچہ اللہ پاک اس پڑھنے والے کو اس تکلیف سے عافیت میں رکھیں گے خواہ وہ کسی بھی تکلیف کوں نہ ہو۔

ابن شاہین عن عبد اللہ بن ابان بن عثمان بن حذیفہ بن اوس عن ابیہ ابان عن ابیہ عثمان عن جدہ حذیفہ بن اوس

۳۵۱۵ .. جو کسی بتلائے مصیبت شخص کو دیکھے تو یہ پڑھے:

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً

تو یہ دعا اس نعمت کے لئے شکرانہ ہوگی۔ الشیرازی فی الالقباب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: .. ذخیرۃ الحفاظ ۵۳۰۶۔

ازالاکمال

صبح کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہنے کی فضیلت اور ادو وظائف

۳۵۱۶ جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی اور اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہا اور سورہ انعام کی اول تین آیات پڑھیں تو اللہ پاک ستر فرشتے اس کے لئے مقرر فرمائے گا جو اس کے لئے اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے اور اس کے لئے استغفار کرتے رہیں گے تا قیامت۔

الدیلمی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۵۱۷ جس نے صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھا:

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد

اللہ پاک اس کے لئے چالیس ہزار نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ابن السنی عن تمیم الداری

۳۵۱۸ جو شخص صبح کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ قل هو اللہ کمل پڑھے تو اس کے لئے جنت میں ایک قلعہ تیار کیا جائے گا۔

الخزائلی فی مکارم الاخلاق عن ابی عبدالرحمن السلمی

۳۵۱۹ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کر اٹھتے وقت (یا واپس آتے وقت) سات مرتبہ یہ پڑھے:

لا حول ولا قوة الا بالله ولا حية ولا احتیال ولا منجا ولا ملجأ الا اليه۔

بدی سے احتراز، نیکی کی قوت اللہ کے بغیر ممکن نہیں (اس سے بچنے کے لئے) کوئی حیلہ کارگر نہ فراموش اور نجات کی جگہ اور نہ پناہ کی جگہ مگر اس کے پاس ہے۔

تو اس سے ستر طرح کی مصیبتیں دفع کر دی جائیں گی۔ الدیلمی عن انس رضی اللہ عنہ

۳۵۲۰ میں تجھے ایسی دعا سکھاتا ہوں جو تو صبح کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ پاک دنیا میں تجھ سے ہزام، برص، فالج اور اندھا پن ختم فرمادیں گے۔ یوں پڑھا کر:

اللهم اهدنی من عندک وانصر علی من رزقک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک
اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ہدایت دے، اپنے فضل سے مجھ پر فضل فرما، مجھ پر اپنی رحمت تام فرما اور اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما۔

ابو الشیخ فی التواب عن انس رضی اللہ عنہ

۳۵۲۱ اے قبیصہ! (صحابی کا نام) جب صبح ہو اور تو فجر پڑھ لے تو یہ دعا چار بار پڑھ۔

سبحان اللہ العظیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔

اللہ پاک عزوجل تجھے چار چیزیں دنیا میں یہ عطا فرمائیں گے: توجنون، جذام، برص اور فالج سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور آخرت کے لئے یہ پڑھا کر:

اللهم اهدنی من عندک وافض علی من رزقک وانشر علی من رحمتک

اگر اس نے یہ کلمات قیامت کے دن پورے پائے یعنی کسی وجہ سے ان کو چھوڑا نہیں اور بھولا نہیں تو قیامت کے روز وہ جنت کے جس

دروازے پر آئے گا اس کو کھلایا جائے گا۔ ابن السنی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۵۲۲ اے قبیصہ! جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جائے تو تین مرتبہ یہ کلمات پڑھا کر:

سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوة الا بالله

پس جب تو نے یہ کہہ لیا تو اندھے پن، جذام اور برس سے امن پالے گا۔ نیز یہ پڑھے:

اللهم اهدني من عندك و افض علي من فضلك و انشر علي من رحمتك و انزل علي من بركاتك

الكبير للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه

۳۵۲۳ جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ یہ کلمات پڑھے:

لااله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير۔

اس کے لئے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔

الكبير للطبراني عن ابى ايوب رضي الله عنه

فائدہ:..... اولاد اسماعیل کا ذکر اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس قدر حسب نصاب غلام کس قدر گراں قیمت ہوں گے اور پھر اسی قدر ان کا ثواب

زیادہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۳۵۲۴ جس نے صبح کی نماز کے بعد گھٹنے کھولنے سے قبل (یعنی اٹھنے سے قبل) سو مرتبہ یہ پڑھا:

لااله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل

شيء قدير

وہ شخص اس دن روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے یہی عمل کیا یا اس سے زیادہ کیا۔

ابن السنن الكبير للطبراني، السنن لسعيد بن منصور عن ابى امامه رضي الله عنه

۳۵۲۵ لااله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير۔

جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد اٹھنے سے قبل دس مرتبہ کہا اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس برائیاں مٹائی جائیں گی اور دس درجے بلند

کئے جائیں گے۔ اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے دو غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ابن النجار عن عثمان رضي الله عنه

۳۵۲۶ لااله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ جس نے صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ

یہ کلمات پڑھے اللہ پاک اس کے لئے دس نیکیاں لکھیں گے، دس برائیاں مٹائی جائیں گی، دس درجے بلند کر دیئے جائیں گے اور اولاد اسماعیل علیہ

السلام میں سے دو غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ نیز یہ کلمات اس کے لئے شیطان سے حفاظت کا سبب بنیں گے۔

التاريخ للحطاب عن ابى هريره رضي الله عنه

۳۵۲۷ جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے:

لااله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔

اس کے لئے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ ابن ماجہ، عن ابى سعيد رضي الله عنه

کلام:.. ضعيف ابن ماجه ۸۲۸۔

۳۵۲۸ جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد گھٹنے مڑے ہونے کی حالت میں کسی سے بات کرنے سے قبل دس مرتبہ یہ کلمات کہے:

لااله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل

شيء قدير۔

اللہ پاک اس کے لئے ہر مرتبہ پڑھنے کے بدلہ میں دس نیکیاں لکھیں گے، دس برائیاں مٹائیں گے، دس درجے بلند فرمائیں گے اور ہر

مرتبہ کے عوض اس کے لئے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ کلمات اس کے لئے ہتھیار اور

شیطان سے حفاظت کا سبب بنیں گے اور ہر ناپسندیدہ شے سے اس کے لئے بچاؤ ہوں گے اور وہ کوئی عمل (اچھا یا برا) ایسا نہیں کر سکے گا جو ان

کلمات پر غالب آجائے سوائے شرک باللہ کے۔ عبدالرزاق، عن عبدالرحمن بن عثم

۳۵۲۹۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحییٰ ویمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدید۔
جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ پاک اس کو ہر بار کے عوض دس نیکیاں لکھیں گے، دس برائیاں مٹائیں گے، دس درجے بلند فرمائیں گے اور قیامت کے دن اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اور جس نے عصر کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے اس کے لئے بھی یہی ثواب ہوگا۔ ابن صصری عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ
۳۵۳۰۔ جس نے فجر اور عصر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہا اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرمادیں گے۔

الدیلمی عن سلمان رضی اللہ عنہ

۳۵۳۱۔ جس نے صبح کی نماز کے بعد لوٹتے وقت کسی سے بات کرنے سے قبل دس مرتبہ یہ پڑھا:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحییٰ ویمیت وهو علی کل

شیء قدید
اس کو سات فضیلتیں عطا کی جائیں گی۔ دس نیکیاں لکھی جائیں گی، دس برائیاں مٹائی جائیں گی، دس درجات بلند کر دیئے جائیں گے، دس جانوں کے آزاد کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی، ہر ناپسندیدہ بات سے بچا رہے گا اور اس کو شرک باللہ کے سوا کوئی گناہ لاحق نہ ہو سکے گا۔ اور جس نے مغرب کی نماز سے لوٹتے وقت یہ پڑھا اس کے لئے رات بھر یہی فضیلت حاصل ہوگی۔

ابن السنی الکبیر للطبرانی عن معاذ رضی اللہ عنہ

۳۵۳۲۔ جس نے مغرب اور صبح کی نماز سے لوٹنے سے قبل اور پاؤں اٹھانے سے قبل (یعنی اسی بیت پر) بیٹھے ہوئے یہ کلمات دس مرتبہ پڑھے:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحییٰ ویمیت وهو علی کل

شیء قدید۔

تو اللہ پاک ہر ایک کے بدلے اس کے لئے دس نیکیاں لکھیں گے، دس برائیاں مٹائیں گے۔ دس درجات اس کے لئے بلند کئے جائیں گے، ہر مکروہ سے اس کے لئے حفاظت ہوگی، شیطان مردود سے بچا رہے گا اور کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچ سکے گا سوائے شرک کے۔ نیز وہ عمل میں تمام لوگوں سے افضل ہوگا۔ مسند احمد، عن عبدالرحمن بن غنم

۳۵۳۳۔ جب تو مغرب کی نماز سے لوٹے تو سات مرتبہ یہ پڑھا لیا کر:

اللہم اجرنی من النار بے شک اگر تو نے یہ پڑھا اور اسی رات انتقال کر گیا تو تیرے لئے جہنم کی آزادی کا پروانہ لکھ دیا جائے گا اور جب صبح کی نماز پڑھے تب بھی سات مرتبہ یہ پڑھا کر، کیونکہ اگر اس دن تو مر گیا تو تیرے لئے جہنم سے پروانہ لکھ دیا جائے گا۔

ابوداؤد عن ابن مسلم بن الحارث التمیمی عن ابیہ

کلام:.....ضعیف ابی داؤد ۱۰۸۳۰۔

۳۵۳۴۔ جس نے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدید صبح کی نماز کے بعد پڑھا اللہ پاک اس کے لئے دس نیکیاں لکھیں گے، دس برائیاں محو فرمائیں گے، دس درجے بلند فرمائیں گے، اولاد اسماعیل میں سے دو غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا، جہنم سے یہ کلمات حجاب بن جائیں گے، شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے حتیٰ کہ شام ہو جائے۔ اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات پڑھے تب بھی یہی ثواب ہوگا اور یہ کلمات اس کے لئے صبح تک شیطان سے حفاظت کا سبب بنیں گے۔

ابن صصری فی امالیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۵۳۵۔ جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد قعدہ کی شکل میں رہتے ہوئے کسی سے بات کرنے سے قبل دس مرتبہ یہ کلمات پڑھے:

لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحییٰ ویمیت بیدہ الخیر وهو علی کل

شبی و قدیر۔

اس کے لئے ہر مرتبہ کے عوض دس نیکیاں لکھی جائیں گی، دس گناہ مٹائے جائیں گے، دس درجات بلند کئے جائیں گے۔ یہ کلمات اس کے لئے ہر گروہ چیز سے آڑ نہیں گے، شیطان مردود سے حفاظت ثابت ہوں گے اور ان کلمات کا ایک دفعہ پڑھنا اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ جس کی قیمت بارہ ہزار ہے۔ اور اس دن اس کو کوئی گناہ لاحق نہ ہو سکے گا سوائے شرک باللہ کے۔ اور جس نے مغرب کی نماز کے بعد یہ کلمات (دس مرتبہ) پڑھے اس کے لئے بھی یہی ثواب ہوگا۔

الکبیر للطبرانی، ابن عساکر عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

فجر اور عصر کے بعد کے معمولات

۳۵۳۶ جس شخص نے فجر اور عصر کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھا:

استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الہی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں۔

ابن السنی و ابن النجار عن معاذ رضی اللہ عنہ

۳۵۳۷ جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کر اللہ عزوجل کا ذکر کرنے بیٹھ جائے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو یہ عمل اس کے لئے جہنم سے پردہ اور آڑ کا

سبب ہوگا۔ ابن السنی عن الحسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ

۳۵۳۸ جس نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا تو یہ (نیک عمل) اس کے لئے جہنم سے آڑ بن جائے گا۔

ابن السنی، ابن النجار، شعب الایمان للبیہقی عن علی رضی اللہ عنہ

۳۵۳۹ جس نے صبح کی نماز پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ حائل

فرمادیں گے۔ شعب الایمان للبیہقی عن السید الحسن رضی اللہ عنہ

۳۵۴۰ جس نے صبح کی نماز پڑھی پھر کسی سے بات چیت کے بغیر سورہ اخلاص دس مرتبہ پڑھی اس دن اس کو کوئی گناہ نہ لاحق ہوگا اور شیطان

سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ ابن عساکر عن علی رضی اللہ عنہ

کلام: اس روایت میں مروان بن سالم الغفاری ایک راوی ہے جو متروک (ناقابل اعتبار) ہے۔

۳۵۴۱ جس نے صبح کی نماز جماعت والی مسجد میں پڑھی پھر وہیں ٹھہرا رہا حتیٰ کہ چاشت کا وقت ہو اس کے لئے اس حاجی کے برابر ثواب ہوگا

جس نے حج اور عمرہ کیا اور دونوں مقبول ہوئے۔ الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ وعنه بن عبد معاً

۳۵۴۲ جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے پھر وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نفل

پڑھے تو وہ حج اور عمرے کے ثواب کے ساتھ لوٹے گا۔ الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۵۴۳ جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی پھر بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔

ابن السنی، ابن النجار عن سهل رضی اللہ عنہ بن معاذ عن ابیہ

اشراق کی فضیلت

۳۵۴۴ جس نے فجر کی نماز ادا کی پھر اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا پھر کھڑا ہو کر دو رکعت نماز ادا کی تو اللہ پاک

اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرمادیں گے وہ اس کو جھلسا بھی نہ سکے گی۔ شعب الایمان للبیہقی عن الحسن رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ

۳۵۴۵ جس نے صبح کی نماز پڑھی پھر اللہ کا ذکر کرتا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا پھر دو یا چار رکعت نماز ادا کی تو اس کی جلد کو جہنم کی آگ چھونے

سکے گی۔ شعب الایمان للبیہقی عن الحسن بن علی
 ۳۵۴۶ جس نے صبح کی نماز ادا کی اور کسی سے گفتگو کرنے سے قبل سو بار سورہ اخلاص پڑھی تو ہر مرتبہ پڑھنے پر اس کے گناہ معاف کر دیئے
 جائیں گے۔ الکبیر للطبرانی، ابن السنی عن وائلہ
 ۳۵۴۷ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور دنیا کی کسی چیز میں بے کار مشغول نہ ہو بلکہ اللہ عزوجل کا ذکر کرتا رہے حتیٰ کہ وہ
 چاشت کی چار رکعات نوازل پڑھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا گویا آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔

ابن السنی عن عائشہ رضی اللہ عنہا
 ۳۵۴۸ جس نے فجر کی نماز جماعت میں شامل ہو کر پڑھی اور اپنی جگہ بیٹھا رہا اور سو بار قبل ہو اللہ احد پڑھی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے مائین جو
 گناہ ہیں جن پر کوئی اور واقف نہیں اللہ پاک سب کو معاف فرمادیں گے۔ الدیلمی عن انس رضی اللہ عنہ
 کلام: یہ حدیث غریب (ضعیف) ہے اس کی اسناد صحیح ہے، ابو جعفر محمد بن عبد اللہ بن برزہ اس کو حارث بن ابی اسامہ سے روایت کرنے
 میں متقدم ہیں۔

۳۵۴۹ یاد رکھ! میں صبح کی نماز پڑھ کر اپنی اس جگہ بیٹھا رہوں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ چار غلام آزاد
 کروں۔ اور عصر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہوں حتیٰ کہ سورج غروب ہو جائے یہ مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی، السنن لسعید بن منصور عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ
 ۳۵۵۰ جو فجر کی نماز پڑھے پھر اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اللہ کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور ان کا درود اس کے لئے یہ ہے کہ
 وہ اس کے لئے یہ دعا کرتے ہیں: اللھم اغفر له اللھم اغفر له۔ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما، اے اللہ! اس کی مغفرت فرما۔

مسند احمد، ابن جریر و صححہ، شعب الایمان للبیہقی عن علی رضی اللہ عنہ
 ۳۵۵۱ میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھا رہوں جو صبح سے طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتی رہے یہ مجھے ہر اس شے سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج
 طلوع ہوتا ہے۔ اور میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں عصر کی نماز سے سورج غروب ہونے تک یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے
 آٹھ غلام آزاد کروں جن میں سے ہر ایک کی دیت (خون کی قیمت) بارہ ہزار (دینار) ہے۔

الکبیر للطبرانی، ابن السنی فی عمل یوم و لیلۃ شعب الایمان للبیہقی عن انس رضی اللہ عنہ
 ۳۵۵۲ میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھا رہوں جو صبح کی نماز سے طلوع شمس تک بیٹھی اللہ کا ذکر کرتی رہے یہ میرے لئے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں
 سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور میں ایسی قوم کے ساتھ بیٹھوں جو عصر سے غروب شمس تک اللہ کا ذکر کرتی رہے مجھے چار غلام آزاد
 کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ابو داؤد، ابونعیم فی المعرفة، شعب الایمان للبیہقی، السنن لسعید بن منصور عن انس رضی اللہ عنہ

۳۵۵۳ جو لوگ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنا مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے
 ایسے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے جن میں سے ہر ایک کی قیمت بارہ ہزار (دینار) ہو۔ اسی طرح وہ لوگ جو عصر سے مغرب تک بیٹھ
 کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ مجھے بیٹھنا اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے چار ایسے غلام آزاد کروں جن
 میں سے ہر ایک کی قیمت بارہ ہزار (دینار) ہو۔ مسند ابی یعلیٰ عن انس رضی اللہ عنہ

۳۵۵۴ میں (حضور اقدس سرکار دو عالم ﷺ) صبح کی نماز پڑھوں پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے یہ
 مجھے اللہ کی راہ میں عمدہ گھوڑے باندھنے سے زیادہ محبوب ہے صبح کی نماز سے طلوع شمس ہونے تک۔

مسند احمد، البغوی، الحسن بن سفیان، الباوردی، الکبیر للطبرانی عن سهل بن سعد الساعدی، الکبیر للطبرانی عن العباس بن عبد المطلب
 ۳۵۵۵ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں طلوع فجر سے طلوع شمس تک اللہ اکبر کہتا رہوں، الحمد للہ کہتا رہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہوں اور اس
 کی تسبیح (سبحان اللہ) کرتا رہوں یہ مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام کا غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں عصر کی نماز

کے بعد سے غروب شمس تک، یہ مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۵۵۶ میں صبح کی نماز پڑھوں پھر وہیں بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہوں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے، جس پر

سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ عبدالرزاق عن علی رضی اللہ عنہ

۳۵۵۷ جس نے صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھا:

سبحان اللہ عدد خلقه سبحان اللہ رضا نفسه، سبحان اللہ زنة عرشه، والحمد لله مثل ذلك والاله الا الله مثل ذلك۔

”سبحان اللہ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، سبحان اللہ اس قدر جس سے وہ راضی ہو، سبحان اللہ اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور الحمد لله بھی اسی قدر اور لا اله الا اللہ بھی اسی قدر“

یہ اس کے لئے اس سے بہتر ہے کہ مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کو حاصل ہو جائے۔ نیز ملائکہ اس کے لئے گذرتے دنوں تک ثواب لکھتے رہیں گے اور جو اس نے کہا ہے پھر بھی اس کے ثواب کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ ابن عساکر عن انس رضی اللہ عنہ کلام:..... اس میں ایک راوی ابو ہریرہ غیر معروف ہے۔ جس سے روایت کی استنادی حیثیت مجروح ہوتی ہے۔

فجر کے بعد پڑھنے کے دس کلمات

۳۵۵۸ جس نے صبح کی نماز کے بعد دس کلمات کہے وہ ان کے ساتھ اپنے لئے اللہ کو کافی اور خوب بدلہ دینے والا پائے گا۔ پانچ کلمات دنیا کے لئے ہیں اور پانچ آخرت کے لئے:

حسبی اللہ لدینی، حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لمن بغی علی، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المیزان حسبی اللہ عند المسألة فی القبر، حسبی اللہ فی القبر، حسبی اللہ عند الصراط، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ انیب۔

”اللہ مجھے میرے دین کے لئے کافی ہے۔ اس کام کے لئے جو مجھے درپیش ہے، اللہ مجھے کافی ہے اس شخص کی طرف سے جو مجھ پر ظلم کرے، اللہ مجھے کافی ہے اس شخص کی طرف سے جو مجھ سے حسد میں مبتلا ہے، اللہ مجھے کافی ہے اس شخص کی طرف سے جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ رکھے، اللہ مجھے کافی ہے قبر میں سوال جواب کے لئے اللہ مجھے کافی ہے قبر میں اللہ مجھے کافی ہے پل صراط پر۔ اللہ مجھے (ہر کام میں) کافی ہے بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں (ہر کام میں) رجوع کرتا ہوں۔“ الحکیم عن بریدہ رضی اللہ عنہ

کلام:..... کشف الخفاء ۱۱۳۴۔

۳۵۵۹ مغرب کی اذان کے وقت یہ پڑھا کر:

اللهم هذا اقبال لیلک وادبار نہارک واصوات دعائک وحضور صلواتک اسألک ان تغفر لی۔

”اے اللہ! یہ وقت تیری رات کی آمد ہے، تیرے دن کے جانے کا ہے، تجھے پکارنے والوں کی آواز ہے، تیری رحمتوں کا نزول ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری بخشش فرما۔“

مصنف ابن ابی شیبہ، ترمذی غریب، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا

کلام:..... ضعیف الجامع ۴۱۲۳۔

صبح یا شام یا کسی ایک وقت پڑھی جانے والی دعائیں..... از الاکمال

شام کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں

۳۵۶۰... اے اللہ! یہ تیری رات کی آمد ہے، تیرے دن کا جانا ہے، تجھے پکارنے والوں کی آوازیں ہیں سو مجھے بخش دے۔

فائدہ:..... حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے مغرب کی اذان کے وقت کی کوئی دعا سکھائیں تو آپ ﷺ نے مذکورہ کلمات ارشاد فرمائے۔

اللهم هذا اقبال ليلك واذبار نهارك واصوات دعائك فاغفر لي۔

۳۵۶۱... جب شام ہوئی تو تم نے یہ کلمات کیوں نہیں کہے:

اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق۔

میں اللہ کے نام (کامل) کلمات کے ساتھ اس کی ہر پیدا کردہ شے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں پھر تم کو صبح تک کوئی شے ضرر نہیں پہنچا پاتی۔

الحکیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۵۶۲... اگر وہ شام کے وقت یہ کہہ لیتا ہے اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تو اس کو بچھو کا ڈسنا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا حتیٰ کہ صبح ہو۔ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۵۶۳... کاش اگر وہ شام کے وقت تین باریہ کلمات کہہ لیتا:

اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تو اس کو ہرگز کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

ابن السنی فی عمل یوم ولیلۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۵۶۴... جو شخص شام کے وقت یہ کلمات پڑھے:

صلی اللہ علی نوح وعلی نوح السلام۔

اللہ پاک نوح علیہ السلام پر رحمتیں بھیجے اور نوح علیہ السلام پر سلامتی بھیجے۔ ابن عساکر عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام:..... روایت ضعیف ہے: تذکرۃ الموضوعات ۲۱۱، ترتیب الموضوعات ۹۹۴، التعقیبات ۴۶، المنقر یہ ۳۲۲/۲، ذخیرۃ الخفا ۵۳۶۹، الملألی ۳۳۷۲، الملطفۃ ۸۳، الموضوعات ۱۶۸۳۔

۳۵۶۵... جس نے شام کے وقت کہا:

رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔

اس نے یقیناً ایمان کی حقیقت پالی۔ مصنف ابن ابی شیبہ عن عطاء بن یسار مرسلأ

صبح کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں..... الاکمال

۳۵۶۶... جس نے صبح کے وقت یہ کہا: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔

ابن السنی، ابن عساکر عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۵۶۷... جس نے صبح کے وقت یہ کہا: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما تو اللہ پر حق ہے کہ قیامت کے

دن اس کو راضی کرے۔ ابن الجار عن ثوبان رضی اللہ عنہ
 ۳۵۶۸ جو شخص صبح کے وقت ہزار بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے تو یقیناً اس نے اللہ سے اپنی جان کو خرید لیا۔

الخرائطی فی مکارم الاخلاق عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۵۶۹ جس نے صبح کے وقت یہ پڑھا: رضیت باللہ ربنا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیاً تو میں ضامن ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروں گا۔ الکبیر للطبرانی عن المنذر

۳۵۷۰ جس نے صبح کے وقت کہا: الحمد للہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی عظمت کے آگے ہر شے سرنگوں ہے۔ تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ الکبیر للطبرانی عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا

۳۵۷۱ اصبحنا علی فطرة الاسلام، وکلمة الاخلاص وعلی سنة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وملة أبینا ابراهیم حنیفا مسلما وماکان من المشرکین۔

ہم نے صبح کی اسلام کی فطرت کلمہ اخلاص، سنت نبی محمد ﷺ اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی امت پر جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔

مسند احمد عن ابی بن کعب

۳۵۷۲ اصبحنا واصبح الملک للہ، والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اللہم اناسئلك خیر هذا الیوم وخیر مابعدہ، ونعوذک من شر هذا الیوم وشر مابعدہ، اللہم انی اعوذک من الکسل، وسوء الکبیر، واعوذک من عذاب القبر۔

ہم اور ساری سلطنت اللہ کے لئے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لئے بادشاہت ہے اور اسی کے لئے ہر طرح کی تعریف ہے۔ اے اللہ! ہم تجھ سے اس دن کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد کی بھلائی کا۔ اور ہم تجھ سے اس دن اور اس کے بعد کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے اور برے بڑھاپے سے (جو دوسروں کا محتاج کر دے) اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔ ابو داؤد، الکبیر للطبرانی عن السراء
 ۳۵۷۳ جس نے صبح کے وقت کہا:

ربی اللہ لا الہ الا هو، علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ماشاء اللہ کان وما لم یشألم یکن، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اشهد ان اللہ علی کل شیء قذیر، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اعوذ باللہ الذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا بذنہ، من شر کل دابة انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔

”میرا رب اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا رب ہے، جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، ہر طرح کی طاقت اور قوت اللہ ہی کے ساتھ ہے جو عالی شان اور عظمت کا مالک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں کر رکھا ہے میں انہی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس نے آسمان کو زمین پر کرنے سے اپنی اجازت کے بغیر روک رکھا ہے ہر جاندار کے شر سے جس کی پیشانی اے اللہ! تیرے قبضہ میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔“ ابن السنی عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ
 پس اس شخص کو اسکی جان میں اس کے اہل میں اور اس کے مال میں کوئی ناپسندیدہ شے لاحق نہ ہوگی۔

۳۵۷۴ اللہم رب جبریل ومیکائیل واسرافیل ومحمد نعوذک من النار۔

اے اللہ! اے جبریل، میکائیل، اسرافیل اور محمد ﷺ کے پروردگار! میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے۔ ابن السنی، الکبیر للطبرانی، التدار

قطنی فی الافراد، مستدرک الحاکم، السنن لسعید بن منصور عن میسر بن الملیح بن ابی اسامہ عن ابیہ عن جدہ

فائدہ:..... (بشر کے دادار رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ فجر کی دو رکعت ادا کیں تو آپ ﷺ کو مذکورہ دعا کرتے ہوئے سنا:

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے میں بہتر مفرد ہیں۔

۳۵۷۵۔ اے ام ہانی! جب صبح ہو جائے تو تو سو بار اللہ کی تسبیح کر (سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ!) سو بار تہلیل کر (لا الہ الا اللہ! لا الہ الا اللہ!) سو بار حمد الہی بیان کر (الحمد للہ! الحمد للہ) اور سو بار تکبیر کہہ (اللہ اکبر! اللہ اکبر!) بے شک سو بار تسبیح سوا اونٹوں کے برابر ہے جن کو تو اللہ کی راہ میں ہدیہ کرے اور سو بار تہلیل اگلے پچھلے کسی گناہ کو نہیں چھوڑتی۔ (الکبیر للطبرانی عن ام ہانی)

صبح و شام کی دعائیں..... از الاکمال

۳۵۷۶۔ جس نے صبح کے وقت دس بار کہا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحییٰ ویمیت وهو علی کل شیء قدید اللہ عزوجل اس کے لئے ایک مرتبہ پڑھنے کے بدلہ میں دس نیکیاں لکھیں گے، دس برائیاں ختم فرمائیں گے، دس درجات بلند فرمائیں گے اور یہ کلمات اس کے لئے بمنزلہ دس غلاموں کے آزاد کرنے کے ہوں گے، شروع دن سے آخر دن تک اس کے لئے حفاظت کا سبب بنیں گے اور وہ اس دن کوئی ایسا (براعمل) نہیں کرے گا جو ان پر غالب آسکے اور اگر یہ کلمات شام کو کہے تو متب بھی یہی ثواب ہے۔

مسند احمد، السنن لسعید بن منصور، الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب

فائدہ:..... اور اسی دن وہ کوئی ایسا عمل نہ کرے گا جو ان پر غالب آسکے یعنی ان کلمات کی برکت سے ایسے گناہوں سے محفوظ رہے گا جو ان کلمات کے ثواب کو باطل کر دے۔

۳۵۷۷۔ جس شخص نے صبح کے وقت تین بار یہ کلمات پڑھے:

اللهم لك الحمد لا اله الا انت، انت ربی وانا عبدك آمنت بك مخلصاً لك دینی، اصبحت علی عهدك ووعدك ما استطعت، اتوب اليك من شیء عملى، واستغفرک لذنوبی، التی لا یغفرها الا انت۔

”اے اللہ! تمام تعزیریں تیرے لئے ہیں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے لئے اپنے دین کو خالص کیا۔ اپنی طاقت کے بقدر میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، میں اپنے ہر برے عمل سے تیرے جناب میں توبہ کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں جن کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔“

پس اگر وہ اسی روز انتقال کر گیا تو جنت میں داخل ہوگا اور اگر شام کو تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے اور اسی رات انتقال کر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔

الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۵۷۸۔ جس نے صبح کے وقت یہ پڑھا: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس کو شام تک شیطان سے امن دے دیا

جائے گا۔ ابن السنی عن انس رضی اللہ عنہ

۳۵۷۹۔ جس نے صبح کے وقت کہا:

لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدید۔

اللہ پاک اس کے لئے دس نیکیاں لکھیں گے، دس برائیاں اس کی جو فرمادیں گے، یہ کلمات اس کے لئے دس غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہوں گے اور اللہ پاک اس کو شیطان سے حفاظت مرحمت فرمادیں گے اور جس نے رات کے وقت یہ کلمات پڑھے تب بھی یہی ثواب ہے۔

الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ

۳۵۸۰... اگر تو شام کے وقت یہ کہہ لیتا:

امسینا وامسی الملک لله کله والحمد لله کله اعوذ بالذی یمسک السماء ان تقع علی الارض
الاباذنه من شر ما خلق وذراً ومن شر الشیطان وشرکة۔

”ہم اور ساری خدائی اللہ کے لئے ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں میں اس ذات کی پناہ مانگتا ہوں جس نے اپنی اجازت کے
بغیر آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور نکالی اور شیطان کے شر سے اور اس کو اللہ
کے ساتھ شریک کرنے سے۔“

اگر تو یہ کلمات شام کو کہہ لیتا تو صبح تک ہر شیطان سے ہر کاہن سے اور ہر جادوگر سے محفوظ ہو جاتا اور اگر تو نے صبح کے وقت یہ کلمات کہے
ہوتے تو اسی طرح شام تک محفوظ رہتا۔ ابن السنی عن ابن عمرو

۳۵۸۱ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ کس وجہ سے اللہ سے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو (الذی وفی) کا خطاب دیا (یعنی جس نے پورا پورا کر دیا)
اس لئے کہ وہ صبح و شام یہ کہا کرتے تھے

سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون

سورة الروم: ۱۸

تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی اور جب دو پہر ہو۔
(اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو)۔

مسند احمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، الکبیر للطبرانی، البیہقی فی الدعوات عن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ

۳۵۸۲... اے ابراہیم! جس وقت تم کو صبح ہو تو دس بار یہ پڑھا کرو:

لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد لا شریک له۔

جو مسلمان بندہ ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھے اللہ پاک اس کے لئے (ہر مرتبہ کے عوض) دس نیکیاں لکھیں گے، دس برائیاں معاف کر دیں
گے اور قیامت کے دن اس کو دس غلام آزاد کرنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوگا اور اگر شام کو یہ کلمات پڑھے تو بھی یہی ثواب ہے۔

الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ

۳۵۸۳ جس شخص نے یہ آیات قرآنی پڑھی:

اللهم انت ربی لا اله الا انت، علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، ماشاء الله کان وما لم یشاء
لم یکن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، اعلم ان الله علی کل شیء قدير وان الله احاط بكل
شیء علماً۔ اللهم انی اعوذ بک من شر تفسی، ومن شر کل دابة، انت آخذ بنا صیبتها ان ربی
علی صراط مستقیم۔

”اے پروردگار! تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، اور تو ہی عرش کریم کا رب ہے، جو اللہ نے چاہا
وہ ہوا جو نہیں چاہا محتاج و جو درہا، کوئی بھی طاقت اور قوت اللہ کے بغیر ممکن نہیں جو عالی شان اور عظمت والا ہے، بے شک میں خوب
جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہی نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں محیط کر رکھا ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں
اپنے نفس کے شر سے، ہر چلنے والی چیز کے شر سے، جس کی پیشانی کو تو نے پکڑ رکھا ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔“
اس کو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات کہے اس کو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔

الدیلیمی عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۵۸۴ کوئی بندہ مسلم صبح کو یہ نہیں کہتا: الحمد لله ربی الله لا اشرك به شیئاً، واشهد ان لا اله الا الله مگر شام تک اس کے گناہوں

کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور کوئی بندہ شام کو یہ نہیں کہتا مگر صبح تک اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔

ابن سعد، الفردوس، الكبير للطبرانی، المعجم لابی القاسم البغوی البوردی، الافراد للدارقطنی، ابن السنی کلام:..... مذکورہ کتب میں یہ روایت ابان بن ابی عیاش عن الحکم بن حیان الحارثی عن ابان الحارثی کے طریق سے منقول ہے۔ آخر الذکر ابان الحارثی حضور ﷺ کے پاس آنے والے مشہور و فز و فز عبد القیس میں سے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ان سے مروی کوئی اور روایت معلوم نہیں۔ علامہ ابن حجر اصابہ میں فرماتے ہیں ان سے ایک روایت اس کے علاوہ اور بھی مروی ہے، علامہ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش اس روایت کو نقل کرنے میں متفرد ہیں۔ اور یہ ضعیف بھی ہیں اور یہ روایت ایسی ہے جس کو حکم بن حیان روایت کرتے ہیں ابان رضی اللہ عنہ سے اور حکم سے روایت کرتے ہیں ابان بن ابی عیاش اور یہ ابان بن ابی عیاش چونکہ ضعیف راوی ہے اس لئے روایت محل کلام ہے۔)

۳۵۸۵ جس نے صبح و شام تین تین بار یہ کلمات پڑھے: بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاوٰتِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ۔ اس کو اس دن اور رات میں کوئی حادثہ اور نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ عن عثمان رضی اللہ عنہ

۳۵۸۶ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قَدِیْر۔ جس شخص نے صبح و شام سو مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں لے کر آسکتا سوائے اس شخص کے جو اس سے زیادہ

مرتبہ یہ پڑھے۔ ابن السنی، الخطیب عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ مصنف ابن ابی شیبہ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ یہ روایت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ پر منقوف ہے یعنی انہی کی بیان کردہ ہے انہوں نے نبی ﷺ کی طرف اس روایت کی نسبت نہیں کی۔ جو صبح و شام یہ پڑھے: ۳۵۸۷

ربی اللہ تو کلت علیہ، وهو رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، ما شاء اللہ کان محالماً یشاء لم یکن، اعلم ان اللہ علی کل شیء قَدِیْر وان اللہ قد احاط بکل شیء علماً۔

پھر انتقال کر جائے تو جنت میں داخل ہوگا۔ ابن السنی عن بریدہ رضی اللہ عنہ جو شخص ہر روز صبح و شام سات سات مرتبہ ذیل کے کلمات پڑھا کرے اللہ پاک اس کے دنیا و آخرت کے کام بنا دے گا، ان کلمات کو ادا کرنے میں خواہ دل ساتھ دے یا نہ دے زبان سے ادا کرے:

حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ تو کلت وهو رب العرش العظیم۔

ابن السنی، ابن عساکر عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۵۸۹ جس نے صبح کے وقت یہ کہا:

الحمد لله ربی، لا اشرك به شیئاً اشهد ان لا الہ الا اللہ

وہ سارا دن مغفرت کی حالت میں گزارے گا اور جس نے شام کے وقت کہا وہ پوری شام مغفرت کی حالت میں بسر کرے گا۔

ابن السنی عن عمر رضی اللہ عنہ وبن معدی کرب

۳۵۹۰ جس نے صبح کے وقت کہا:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لاء یموت ببیدہ الخیر

وهو علی کل شیء قَدِیْر۔

اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی، دس برائیاں مٹائی جائیں گی، یہ کلمات دس غلام آزاد کرنے جیسے ہوں گے اور اس پڑھنے والے کی سارے دن حفاظت کریں گے حتیٰ کہ شام ہو۔ اور جس نے شام کے وقت یہ کلمات کہے تو صبح تک یہی فضیلت حاصل ہوگی۔

ابن السنی عن ابن عیاش

۳۵۹۱... جس شخص نے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير۔ دس مرتبہ کہا اس کے لئے سونیکیاں لکھی جائیں گی، سویرائیاں مٹائی جائیں گی، اور ایک غلام آزاد کرنے کے بقدر ثواب لکھا جائے گا۔ اور سارا دن اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اور جس نے شام کے وقت کہا اس کے لئے بھی یہی ثواب ہے۔ ابن السنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
فائدہ:..... گذشتہ روایات میں اسی کلمہ کے بدلہ میں دس نیکیاں فرمائی گئی ہیں۔ جبکہ اس روایت میں سونیکویوں کا ذکر ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فرمان عزوجل ہے:

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها۔ جو ایک نیکی لے کر حاضر ہو پس اس کے اس کے مثل دس نیکیاں ہیں۔ تو پہلی روایات میں اصل نیکیاں مراد ہیں جبکہ اس روایت میں خدا کے فضل سے ایک کا دس گنا جز مراد ہے جس سے دس نیکیاں سو ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔
۳۵۹۲... جس نے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ کہا پھر شام کے وقت بھی کہا تو ایک منادی آسمان سے نداء دے گا: آخری کلمہ کو پہلے کے ساتھ ملاؤ اور دونوں کے درمیان جو بھی (گناہ وغیرہ) ہے اس کو چھوڑ دو۔ البدلیمی عن جابر رضی اللہ عنہ
۳۵۹۳... جس نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے:

اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرا و ذرأه
میں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جن سے نہ کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے اور نہ فاجر۔ ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اور ظاہر کی۔

ان کلمات کے بدولت وہ شخص جن و انس سب کے شر سے محفوظ رہے گا اور اگر کوئی شی اس کو دس لے تو اس کو کوئی نقصان پہنچے گا اور نہ تکلیف ہوگی حتیٰ کہ شام ہو۔ اور اگر شام کے وقت یہ کلمات کہے تو صبح تک یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ ابو الشیخ عن عبدالرحمن بن عوف
۳۵۹۴... جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ سو بار پڑھا طلوع شمس سے قبل اور پھر غروب شمس سے قبل تو یہ اس کے لئے سواونٹ قربان کرنے سے افضل ہوگا۔ (الدیلمی عن ابن عمرو)

۳۵۹۵... جس شخص نے صبح کے وقت پھر شام کے وقت تین تین مرتبہ یہ کلمات پڑھے: رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیاً... تو اللہ پر قیامت کے دن اس کا یہ حق ہوگا کہ اس کو راضی کرے۔

عبدالرزاق، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن سعد، الرویانی، البغوی، مستدرک الحاکم، (ق) البیہقی فی حل عن ابی سلام عن رجل خادم للنبی ﷺ. ابن قانع عن ابی سلام عن سابق خادم للنبی ﷺ
کلام:..... ضعیف الجامع ۵۷۳۲۔

۳۵۹۶... جس شخص نے صبح و شام کے وقت یہ کہا:

اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عهدک ووعدک ما استطعت فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت۔

پس اگر وہ اسی دن یا اسی رات مر گیا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن سعد عن شداد بن اوس

۳۵۹۷... جس شخص نے صبح کے وقت تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھا: اعدو ذل اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ پھر سورہ الحشر کی آخری تین آیات پڑھیں تو اللہ پاک ستر ہزار فرشتے اس پر مقرر فرمائیں گے کہ وہ اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں حتیٰ کہ شام ہو۔ نیز اگر وہ اسی دن مرا تو شہید مرے گا۔ اور جس نے یہ وظیفہ شام کے وقت پڑھا تو یہی ثواب ہوگا۔

مسند احمد، ترمذی حسن غریب، الکبیر للطبرانی، ابن السنی، شعب الایمان للبیہقی عن معقل بن یسار

کلام:..... روایت قدرے ضعیف ہے امام ترمذی اس کو حسن غریب بتاتے ہیں جبکہ ذیل کی کتب میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے

ضعیف الجامع ۵۷۳۲، ضعیف الترمذی ۵۶۰

شہادت کی موت

۳۵۹۸ جس نے صبح کے وقت کہا:

اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی، فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔
 ”اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدہ پر قائم ہوں جس قدر مجھ سے ہو سکے۔ پروردگار! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کئے کے شر سے میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے یقیناً تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔“
 پھر اگر وہ اسی دن مر گیا تو شہید مرے گا اور رات کو کہا اور اسی رات مر گیا شہید مرے گا۔

مسند ابی یعلیٰ۔ ابن السنی، عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ

۳۵۹۹ جس نے صبح اور شام دونوں وقت چار چار مرتبہ یہ دعا پڑھی اور (اسی دن یا رات) مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا:

اللهم انی اشہدک وملائکتک وحملۃ عرشک و جمیع خلقک، انک انت اللہ لا الہ الا انت وحده لا شریک لک وان محمداً عبدک ورسولک۔

اے اللہ! میں تجھے گواہ بنا تا ہوں، تیرے ملائکہ کو گواہ بنا تا ہوں، تیرے حاملین عرش کو گواہ بنا تا ہوں، تیری ساری مخلوق کو گواہ بنا تا ہوں کہ بے شک تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو تھا ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، نیز میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں (ﷺ)۔ ابن عساکر عن انس رضی اللہ عنہ

۳۶۰۰ جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ کہا: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق تو شام تک اس کو بچھو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور جس نے شام کے وقت تین مرتبہ کہا تو صبح تک اس کو بچھو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

الکامل لابن عدی، الابانہ لابی نصر السجزی) عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۰۱ جس نے صبح کے وقت یہ پڑھا: ماشاء اللہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیور۔ تو اس کو اس دن کی بھلائی دی جائے گی اور اس دن کے شر سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور جس نے رات کے وقت پڑھا اس کو اس رات کی بھلائی ملے گی اور اس رات کا شر اس سے دفع کر دیا جائے گا۔ ابن السنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۰۲ جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ یہ دعا مانگی:

اللهم اصبحت منک فی نعمۃ وعافیۃ وستر، فاتم علی نعمتک وعافیتک وسترک فی الدنیا والآخرۃ

”اے اللہ! میں تیری نعمت، عافیت اور تیری پردہ پوشی میں صبح (وشام) کرتا ہوں پس دنیا و آخرت میں مجھ پر اپنی نعمت، عافیت اور پردہ پوشی تام عطا فرما۔“
 جو شخص صبح وشام تین تین بار یہ دعا مانگا کرے تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ اس کو یہ چیزیں تام کر دے۔

ابن السنی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۶۰۳ جس نے صبح کے وقت دس مرتبہ کہا:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیور
 تو اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی، دس برائیاں مٹائی جائیں گی، دس درجے بلند کئے جائیں گے اور یہ کلمات اس کے لئے چار غلام

آزاد کرنے کے برابر ہوں گے، شیطان سے اس کی حفاظت کا سبب نہیں گئے حتیٰ کہ شام ہو۔ اور جس نے مغرب کی نماز کے بعد دس مرتبہ کہا تو صبح تک اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ابن حبان عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ
 ۳۶۰۴ جس نے صبح کی نماز پڑھ کر یہ ورد پڑھا:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیدر۔
 اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی، دس برائیاں مٹائی جائیں گی، دس درجات بلند کئے جائیں گے۔ یہ کلمات دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے اور شام تک شیطان سے حفاظت کا سبب ہوں گے۔ اور جس نے یہ کلمات شام کو کہے تو بھی یہی ثواب ہے حتیٰ کہ صبح ہو۔

ابن حبان عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ

۳۶۰۵ جس نے صبح و شام تین تین بار یہ پڑھا: اللھم انی امسیت (اور صبح کے وقت اسحمت) اشھد انھا ما اصبحنا بنا من عافیة ونعمة فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد۔ اے اللہ میں شہادت دیتا ہوں کہ ہمیں جو بھی نعمت اور عافیت میسر ہے وہ تیری طرف سے ہے صرف تیری طرف سے، تیرا کوئی شریک نہیں پس تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں۔

تو اس نے اس دن یارات میں جو بھی نعمتیں اس کو میسر ہیں سب کا شکر ادا کر دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ عن بکیر بن الاخلس مرسلًا

۳۶۰۶ اے قاطرہ! کیا بات ہے میں تمہیں صبح و شام یہ کہتے ہوئے نہیں سنتا:

یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لہ شانی کلہ، ولا تکلنی الی نفسی۔

”اے حی (زندہ!) اے قائم کرنے والے تیری رحمت کے ساتھ میں تجھے پکارتا ہوں میرے تمام خیالات درست کر اور مجھے اپنے نفس کے حوالہ نہ کر۔“

کلام: ذخیرۃ الحفاظ ۶۴۵۳۔

۳۶۰۷ اللہ عزوجل فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو کہو کہ وہ صبح و شام اور سوتے وقت دس دس بار یہ پڑھا کریں: لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ چیز نیند کے وقت ان کی دنیاوی مصیبتیں دفع کر دے گی، شام کے وقت شیطان کے مکر و فریب کو دفع کر دے گی اور صبح کے وقت میں اس پر اپنا غضب ٹھنڈا کر دوں گا۔

الدیلمی عن ابی بکر

چھٹی فصل..... جامع دعاؤں کے بیان میں

۳۶۰۸ اللھم انی أسألك رحمة من عندک، تھدی بہا قلبی، وتجمع بہا امری وتلم بہا شعنی وتصلح بہا غائبی، وترفع بہا شاہدی، ونرکب بہا عملی، وتلھمنی بہا رشدی، وترد بہا الفتی وتعضمنی بہا من کل سوء اللھم أعطنی ایمانا یقینا لیس بعدہ کفر، ورحمة أنال بہا شرف کرامتک فی الدنیا والآخرة، اللھم انی أسألك الفوز فی القضاء ونزل الشھداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء، اللھم انی انزل بک حاجتی وان قصر رأیی وضعف عملی افتقرت الی رحمتک، فأسألك یاقاضی الامور ویاشافی الصدور کما تجیر (۱) بین الحور، ان تجیرنی من عذاب السعیر ومن دعوة الثبور (۲) ومن فتنۃ القبور، اللھم ما قصر عنہ رأیی ولم تبلغہ نیتی ولم تبلغہ مسألتی من خیر وعدتہ أحدًا من خلقک او خیر أنت معطیه أحدًا عبادک، فانی أرغب البک فیہ، وأسألك برحمتک رب العالمین، اللھم ذا الجبل الشدید والامر الرشید، أسألك الأمن یوم الوعید والجنة یوم الخلود مع المقربین الشھود الرکع السجود الموفین بالعھود انک رحیم ودود، وانک تفعل ماترید، اللھم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین، سلمًا لأولیائک وعدوًّا لاعدائک نجب بحبک من أحک

ونعادی بعداوتک من خالفک، اللهم هذا الدعاء وعلیک الاجابة وهذا الجهد وعلیک التکلان، اللهم اجعل لى نوراً فى قلبى ونوراً فى قبرى، ونوراً من بين یدى، ونور من خلفى، ونور عن شمالى ونوراً من فوقى، ونوراً من تحتى، ونوراً فى سمعى، ونوراً فى بصرى ونوراً فى شعرى، ونوراً فى بشرى، ونوراً فى لحمى، ونوراً فى دمی ونوراً فى عظامى، اللهم أعظم لى نوراً وأعظمنى نوراً واجعل لى نوراً سبحان الذى تعطف (۱) بالعر وقال به، سبحان الذى لبس المعجد وتکرم به، سبحان الذى لا ینبغى التسیب الاله، سبحان ذى الفضل والنعم سبحان ذى المعجد والکرم، سبحان ذى الجلال والاکرام.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اس کی بدولت تو میرے دل کو ہدایت بخش، میرے معاملات کو ٹھیک کر، میری پریشانی کو مبدل بآرام کر، میرے غائب کی اصلاح کر، میرے حاضر کو رفعت عطا کر، میرے عمل کو پاکیزہ بنا، میری ہدایت مجھے سمجھا، میری الفت چین کو واپس کر، ہر برائی سے میری حفاظت کر، اے اللہ! مجھے ایسا ایمان اور یقین عطا کر جس کے بعد کفر نہ لوئے، ایسی رحمت عطا کر جس کی بدولت میں دنیا و آخرت کی عزت و کرامت حاصل کر لوں، اے اللہ! میں تجھ سے تقدیر کی کامیابی کا سوال کرتا ہوں، شہیدوں کی سی مہمان نوازی مانگتا ہوں، سعادت مندوں کی زندگی طلب کرتا ہوں دشمنوں پر مدد مانگتا ہوں اے اللہ! میں تیرے حضور میں اپنی حاجت رکھتا ہوں اگر چہ میری رائے کوتاہ ہے، میرا عمل کمزور ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اے تمام فیصلوں کو نمٹانے والے اے سینوں کو شفاء بخشنے والے! جسے تو مسجد ہار کے بیچ پناہ دیتا ہے مجھے بھی جہنم کے عذاب سے پناہ دے، ہلاکت کی دعا سے پناہ دے، قبر کے عذاب سے پناہ دے، اے اللہ! جس بات سے میری رائے کمزور ہے اور اس کو میرا خیال نہیں پہنچا اور میں نے اس کا سوال نہیں کیا خواہ کوئی بھی ایسی خیر ہو، جس کا تو نے کسی سے وعدہ کیا ہو، یا کسی کو بھی وہ خیر عطا کی ہو پس میں بھی اس میں رغبت رکھتا ہوں اور تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کی بدولت اے رب العالمین اے اللہ! مضبوط رسی والے! درست کام والے! میں تجھ سے امن کا سوال کرتا ہوں وعید والے دن اور جنت کا سوال کرتا ہوں ہمیشگی والے دن، ان مقربین خاص کے ساتھ جو تیرے حضور میں جھکنے والے ہیں، پیشانی ٹیکنے والے ہیں، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک تو مہربان ہے محبت کرنے والا ہے اور تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ! ہم کو ہدایت قبول کرنے والا اور ہدایت کی راہ دکھانے والا بنانے والا گمراہ اور گمراہ کرنے والا۔ ہمیں اپنے اولیاء کا دوست بنا، اپنے دشمنوں کا دشمن بنا، ہم تیری محبت کے ساتھ ان سے محبت کریں جن کو تو محبوب رکھتا ہے اور تیری دشمنی کے ساتھ دشمنی کریں تیرے دشمنوں سے۔ اے اللہ! یہ ہماری تجھ سے دعا ہے اور تجھ پر اس کی قبولیت ہے۔ یہ ہماری محنت و کاوش ہے اور تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے اللہ! میرے دل میں نور پیدا کر، میری قبر کو منور کر، میرے آگے نور کر، میرے پیچھے نور کر، میرے بائیں نور کر، میرے دائیں نور کر، میرے اوپر اور نیچے نور کر، میرے کانوں میں میری آنکھوں میں، میرے بالوں میں، میرے چہرے میں، میرے گوشت میں، میرے خون میں اور میری ہڈیوں میں نوری نور کر دے۔ اے اللہ! میرے لئے نور کو زیادہ کر اور مجھے نور عطا فرما۔ اور مجھے سراپا نور بنا دے، پس پاک ہے وہ ذات جو عزت و کرامت کے ساتھ مہربان ہو اور اسی کا معاملہ کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے بزرگی کا لباس پہنا اور اس کے ساتھ کرم اور معزز ہوا۔ پاک ہے وہ ذات کہ پاکی بیان کرنا اسی کے لئے ہے۔ پاک ہے فضل اور نعمت عطا کرنے والی ذات، پاک ہے بزرگی اور کرامت والی ذات، پاک ہے بزرگی اور کرم والا۔

ترمذی، الصلاة محمد بن نصر، الکبیر للطبرانی، الیہقی فی الدعوات عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام:..... امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے دیکھیے ترمذی کتاب الدعوات رقم الحدیث ۳۳۱۵

۳۶۰۹ اللهم انى اعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع ومن الجوع فانه بنس الضحیح (۱) ومن الخيانة فانها نسبت البطانة (۲) ومن الكسل والبخل والجبن ومن الهرم وان ارد الى اذل العمر، ومن فتنة المحيا والممات، اللهم انا نسالك قلباً واهمة محبته منية في سبيلك، اللهم نسالك عزائم مغفرتك ومنحيات امرک، والسلامة من كل اثم والغنيمة من كل بر، والفوز والنحاة من النار

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو روئے نہ، ایسی دعا سے جو سچی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، بھوک سے بے شک وہ براسا تھی ہے، خیانت سے وہ بری نیت ہے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، بڑھاپے سے، انتہائی بڑھاپے کی عمر سے، دجال کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اے اللہ! ہم تجھ سے ایسے دلوں کا سوال کرتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں اور تیری راہ میں لگنے والے ہیں۔ اے اللہ! ہم تجھ سے تیری کامل مغفرت کا سوال کرتے ہیں، تیرے نجات دینے والے امر کا سوال کرتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں ہر نیکی کے حصول کا سوال کرتے ہیں، جنت کی کامیابی کا اور جہنم سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ مستدرک الحاکم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۶۱۰..... اللھم انی اسألك من الخیر كله عاجله و آجله، ما علمت منه و ما لم أعلم، و أعود بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم، اللھم انی اسألك من خیر ما سألک عبدك و نبیک، و أعود بك من شر ما استعاذ منه عبدك و نبیک، اللھم انی اسألك الجنة و ما قرب اليها من قول أو عمل، و أعود بك من النار و ما قرب اليها من قول أو عمل، و أسألك أن تجعل كل قضاء قضيتہ لى خیراً.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے ہر طرح کی مکمل خیر کا سوال کرتا ہوں وہ جلد ہو یا بدیر، میرے علم میں ہو یا نہیں میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر طرح کے مکمل شر سے وہ جلد ہو یا بدیر، جو میرے علم میں ہے یا نہیں۔ اے اللہ! میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور نبی نے کیا۔ اور ہر اس شی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی نے پناہ مانگی۔ اے اللہ! میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس نیک عمل کا اور قول کا جو جنت کے قریب کر دے۔ اور تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے اور ہر اس برے عمل اور قول سے جو جہنم کے قریب کر دے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر فیصلہ جو تو نے میرے لئے کر دیا ہے اس کو خیر والا بنا۔ ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۱۱..... اللھم بعلمك الغیب و قدرتك على الخلق، أحيى ما علمت الحياة خیراً لى و توفى اذا علمت الوفاة خیراً لى، اللھم و أسألك خشيتك فى الغیب و الشهادة، و أسألك كلمة الاخلاص فى الرضا و الغضب و أسألك القصد فى الفقر و الغنى، و أسألك نعیماً لا ینفد، و أسألك قرة عين لا تنقطع، و أسألك الرضا بالقضاء، و أسألك برد العیش بعد الموت، و أسألك لذة النظر الى وجهك، و الشوق الى لقائك فى غیر ضرر مضرة، و لا فتنة مضلة، اللھم زینا بزینة الايمان، و اجعلنا هداة مهدين.

ترجمہ:..... اے اللہ! اپنے غیب کے علم اور مخلوق پر اپنی قدرت کے طفیل مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں میرے لئے زندگی بہتر ہو اور جب تو جانے کہ موت میرے لئے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اے اللہ! میں تجھ سے خشیت کا سوال کرتا ہوں غیبتہ میں اور حضوری میں۔ اے اللہ! میں تجھ سے کلمہ اخلاص کا سوال کرتا ہوں رضا میں اور ناراضگی میں۔ اے اللہ! میں تجھ سے میانہ روی اور اعتدال کا سوال کرتا ہوں فقر میں اور مالداری میں ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو منقطع نہ ہو۔ اے اللہ! میں تیرے ہر فیصلہ پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے موت کے بعد اچھی زندگی کا سوال کرتا ہوں۔ اور تجھ سے تیرے چہرے کے دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں۔ تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں کسی ضرر رساں تکلیف اور گمراہ کن تاریک فتنے کے بغیر۔ اے اللہ! کو ایمان کی زینت کے ساتھ مزین فرما اور ہادی اور ہدایت یافتہ بنا۔ ترمذی، مستدرک الحاکم عن عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر

۳۶۱۲..... اللھم متعنى بسمعى و بصرى حتى تجعلهما الوارث منى و عافى فى دینى و فى جسدى، و انصر لى مم ظلمنى حتى تربى فى ثارى اللھم انى أسلمت نفسى اليك، و فوضت امرى اليك، و ألجأت ظهرى اليك و خلعت (۲) و جھى اليك لا ملجأ منك الا اليك، آمنت برسولك الذى أرسلت و بكتابك الذى أنزلت. ترجمہ:..... اے اللہ! مجھے میرے کانوں، آنکھوں کے ساتھ نفع دے حتیٰ کہ ان کو میرا وارث بنا۔ (کہ میرے نفع کی چیز دیکھیں اور میرے نفع کی چیز سنیں)۔ اور مجھے میرے دین میں اور میرے جسم میں عافیت و سلامتی دے اور مجھ پر ظلم کرنے والے سے میری مدد فرما۔ حتیٰ کہ میرا بدلہ لے

میں نظر آئے۔

اے اللہ! میں اپنا نفس تیرے سپرد کرتا ہوں اور اپنا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اپنی ٹیک تجھ پر کرتا ہوں۔ اپنا چہرہ صرف تیری طرف کرتا ہوں۔ نہیں کوئی ٹھکانا مگر تیرے پاس۔ میں تیرے رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے معبود کیا اور تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی۔

مستدرک الحاکم عن علی رضی اللہ عنہ

۳۶۱۳ اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين الي من تكلمني؟ الي عدويت جهمني؟ أم الي قريب ملكته أمري، ان لم تكن ساخطاً علي فلا ابالي، غير ان عافيتك أوسع لي، اعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك ولك العتبي حتى ترضي، ولا حول ولا قوة الا بك.

ترجمہ: اے اللہ! میں اپنی کمزوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں اور قلت حیلہ و تدبیر کی اور لوگوں کے نزدیک اپنے بے وقعت ہونے کی۔ اے رحم الراحمین! آپ مجھے کس کے حوالہ کرتے ہیں، ایسے دشمن کے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے؟ یا ایسے قریبی عزیز کے پاس جس کو تو نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا لیکن اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پروا نہیں۔ تیری عافیت میرے لئے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کو نور کے طفیل جس کی بدولت آسمان روشن ہو گئے تاریکیوں کے پردے چھٹ گئے اور دنیا و آخرت کے معاملے سلجھ گئے اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب اترے یا تیری ناراضگی اترے۔ تیری خوشامد فرض ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو اور ہر طرح کی طاقت و قوت تیرے ساتھ ہے۔

الکبیر للطبرانی عن عبد اللہ بن جعفر

فائدہ: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیزہ الوداع میں عرفہ کی رات آپ نے یہ دعا مانگی تھی۔ بندہ الصغر عرض کرتا ہے کہ طائف سے واپسی پر بھی حضور ﷺ نے یہ دعا مانگی تھی جب آپ کے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے تھے۔ فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم۔

۳۶۱۴ اللهم انک تسمع کلامی وتری مکانی وتعلم سری وعلانیتی لایخفی علیک شی من امری، وأنا البائس الفقیر المستغیث المستجیر والوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسکین، وأبتهل اليک ابتهال المذنب الذلیل وادعوك دعاء الخائف الضریر، دعاء من خضعت لک رقبته وفاضت لک عبرته وذل لک جسمه، ورجم لک أنفه اللهم لاتجعلنی بدعائک شقیاء، وکن لی رؤفاً یاخیر المسؤلین ویاخیر المعطین.

ترجمہ: اے اللہ! تو میری بات سنتا ہے اور میری جگہ بھی خوب دیکھتا ہے، میرے اندر کو اور باہر کو بخوبی جانتا ہے، کوئی شی تجھ پر مخفی نہیں۔ میں تنگ دست، فقر، فریاد گو، ابن کا خواہاں، خدا سے ڈرا ہوا، اپنے گناہوں کا معترف، مسکین کی مانند تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ذلیل گناہ گار کی مانند تجھ سے گڑگڑاتا ہوں اور بیمار خوفزدہ کی طرح تجھ سے دعا کرتا ہوں، جس کی گردن تیرے آگے جھکی ہوئی ہے اور تیرے لئے اس کے آنسو بہ رہے ہیں اور تیرے لئے اس کا جسم پگھل رہا ہے، تیرے لئے اس کی ناک خاک آلود ہے، پس اے اللہ! مجھے میری دعاں ہی نامراد نہ کر میرے لئے مہربان ثابت ہو اے سب سے بہتر عطا کرنے والے اور سب سے اچھے مسئول۔ الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۶۱۵ اللهم أقسم لنا من خشيتك ماتحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ماتبلغنا به جنتك، ومن اليقين ماتهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.

ترجمہ: اے اللہ! اپنی خشیت ہمیں عطا فرما، جس کی بدولت آپ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائیں اور تیری ایسی اطاعت ہم کو حاصل ہو جائے جو ہمیں جنت پہنچا دے، (اور اپنی ذات کا) ایسا یقین نصیب فرما جس کی وجہ سے ہماری مصیبتیں ہم پر

آسان ہو جائیں۔ اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں، ہماری طاقت کے ساتھ نفع دے۔ اور ان کو ہمارا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم ڈھائے تو اس سے ہمارا بدلہ تولے اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں حارج نہ ہونے دے دنیا کو ہمارا سب سے اہم مقصد نہ بنا اور نہ ہمارے علم کا مبلغ بنا۔ اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کھائے۔

ترمذی، مستدرک الحاکم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۱۶ اللهم اجعل فی قلبی نوراً، وفی لسانی نوراً، وفی بصری نوراً، وفی سمعی نوراً، وعن یمینی نوراً، وعن یساری نوراً، ومن فوقی نوراً، ومن تحتی نوراً، ومن أمامی نوراً، ومن خلفی نوراً، واجعل لی فی نفسی نوراً، واعظم لی نوراً.

ترجمہ:..... اے اللہ! میرے دل میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر، میری آنکھوں میں نور کر، میرے کانوں میں نور کر، میرے دائیں اور بائیں نور کر، میرے اوپر نیچے نور کر، میرے آگے اور پیچھے نور کر اور میری جان میں نور کر اور میرے لئے نور کو زیادہ سے زیادہ کر۔

مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۶۱۷ اللهم اجعلنی أحشاک حتی کأنی أراک، وأسعدنی بتفواک ولا تشقنی بمعصیتک وخرلی (۱) فی قضائک، وبارک لی فی قدرک (۲) حتی أحب تعجیل ما أخرت ولا تأخیر ما عجلت، واجعل غنای فی نفسی، وأمتعنی بسمعی وبصری، واجعلهما الوارث منی، وانصرنی علی من ظلمنی، وأرني فیہ ناری، وأقرب لک عینی ترجمہ:..... اے اللہ! مجھے اپنی ذات سے ایسا ڈرنے والا بنا گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنے تقویٰ کی دولت کے ساتھ نیک بخت بنا اور گناہوں کی نحوست کے ساتھ مجھے بد بخت نہ بنا۔ اپنا فیصلہ میرے لئے خیر کا کر، میری تقدیر اور قسمت میں برکت عطا فرما، تاکہ میں اس کی جلدی نہ چاہوں جو تو نے میرے لئے مؤخر کر دیا ہے اور اس کی تاخیر نہ چاہوں جو تو نے میرے لئے جلد مقرر کر دیا، اور میرے دل کو غنی اور مالدار بنا، میرے کانوں اور آنکھوں کے ساتھ مجھے نفع اندوز کر، اور ان کو میرے لئے وارث بنا، اور مجھ پر ظلم کرنے والے سے میری مدد فرما اور اس میں مجھے اپنا انتقام دکھا، اور اس کے ساتھ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ الاوسط للطبرانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۱۸ اللهم انی اعوذ بک من الکسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنۃ القبر وعذاب القبر، ومن فتنۃ النار، ومن شر فتنۃ الغنی واعوذ بک من فتنۃ الفقر، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللهم اغسل عینی خطایای بالماء والثلج والبرد ونق قلبی من الخطایا کما نقیث الثوب الابيض من الدنس، وباعد بینی وبين خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں پستی سے، بڑھاپے سے، گناہ سے، تاوان، قبر کے فتنے اور عذاب سے، اور مالدار کی فتنے سے، اور اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر وفاقہ کے فتنے سے، مسیح الدجال کے فتنے سے، اے اللہ! میری خطاؤں کو دھو دے پانی سے، برف سے اور اولوں سے، میرے دل کو خطاؤں سے یوں دھو دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اور میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کر رکھا ہے۔

بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۱۹ اللهم انی اعوذ بک من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، بڑھاپے سے، قبر کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے، اے اللہ! میرے نفس کو صاحب تقویٰ بنا، اور اس کا تزکیہ کر، آپ بہترین تزکیہ فرمانے والے ہیں۔ آپ ہی نفس کے

مالک اور والی ہیں اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو خشوع نہ کرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ مسند احمد، عبد بن حمید، مسلم، نسائی، عن زید بن ارقم

۳۶۲۰ اللھم اغفر لی ما قدمت وما اخرت، وما أسررت وما أعلنت، اللھم اغفر لی خطیئتی وجہلی و اسرافی امری وما انت أعلم بہ منی، اللھم اغفر لی خطای و عمدی و ہزلی و جدی و کل ذلک عندی أنت المقدم و أنت المؤخر و أنت علی کل شیء قدير.

ترجمہ: اے اللہ! مجھ سے جو گناہ سرزد ہوئے پہلے یا بعد میں، پوشیدہ یا اعلانیہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ! میری خطاؤں کو، میرے جان بوجھ کر کئے ہوئے گناہوں کو، میرے مذاق میں یا سنجیدگی میں کئے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اور ہر طرح کے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ! تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے۔ اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بخاری، مسلم عن ابی موسیٰ

۳۶۲۱ اللھم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و محمد، نعوذ بک من النار.

ترجمہ: اے اللہ! اے جبریل، میکائیل، اسرافیل اور محمد کے رب! ہم جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔

الكبير للطبرانی عن والد ابی الملیح و اسمہ عامر بن اسامہ
فائدہ: عابر رضی اللہ عنہ بن اسامہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ فجر کی دو رکعت نماز ادا کی پھر میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔

۳۶۲۲ اللھم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، و عمل لا یرفع و دعاء لا یسمع.

ترجمہ: اے اللہ! میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ دے اور ایسے عمل سے جو تیری بارگاہ میں شرف باریابی نہ پاسکے اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے۔ مسند احمد، ابن حبان، مستدرک الحاکم عن انس رضی اللہ عنہ

۳۶۲۳ اللھم انی أسألك من الخیر كله، ما علمت منه و ما لم أعلم منه و ما لم أعلم

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے ہر طرح کی خیر کا سوال کرتا ہوں، میرے علم میں ہو یا نہیں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر طرح کے شر سے میرے علم میں ہو یا نہیں۔ الطیالسی، الكبير للطبرانی عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۲۴ اللھم أحسن عاقبتنا فی الأمور كلها، و أجرنا من خزی الدنيا و عذاب الآخرة.

ترجمہ: اے اللہ! تمام کاموں میں ہمیں اچھا انجام عطا فرما۔ اور دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔

مسند احمد، ابن حبان، مستدرک الحاکم عن بسر بن ارطاة

۳۶۲۵ اللھم انک سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه الا بک، اللھم فأعطنا منها ما یرضیک عنا.

ترجمہ: اے اللہ! تو نے ہم سے ہمارے نفسوں (کی پاکیزگی) کا سوال کیا ہے جس کے ہم مالک نہیں سوائے تیری مدد کے۔ پس ہمیں اپنے نفسوں سے وہ اعمال عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے۔ ابن عساکر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۲۶ اللھم اجعلنی من الذین اذا أحسنوا استبشروا، و اذا أساؤا استغفروا.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو نیکی کرنے پر خوش ہوتے ہیں اور ان سے برائی سرزد ہو جائے تو استغفار کرتے ہیں۔

ابن ماجہ، شعب الایمان للبیہقی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۲۷ اللھم اغفر لی و ارحمنی و ارفقنی بالرفیق الاعلیٰ.

ترجمہ: اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔

بخاری و مسلم، ترمذی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۲۸ . اللهم انى اعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل .
ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کئے ہوئے عمل کے شر سے اور جو عمل نہیں کیا اس کے شر سے۔

مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۲۹ . اللهم اعنى على غمرات الموت وعلى سكرات الموت .
ترجمہ: اے اللہ! موت کی اندھیروں میں اور موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔

ترمذی، مستدرک الحاکم ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۳۰ . اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا .
ترجمہ: اے اللہ! ہمیں زیادہ کر، ہمیں کم نہ کر، ہماری عزت و اکرام میں اضافہ کر اور ہمیں ذلت و رسوائی کے حوالہ نہ کر، ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر، ہمیں اووروں پر ترجیح دے نہ کہ اووروں کو، ہم پر ترجیح دے اور ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو بھی راضی کر دے۔

ترمذی، مستدرک الحاکم ابن ماجہ عن عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۳۱ . اللهم انى اعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة .
ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو عاجزی نہ کرے، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ عن عمر رضی اللہ عنہ، ابو داؤد، نسائی،

ابن ماجہ، مستدرک الحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ نسائی عن انس رضی اللہ عنہ

۳۶۳۲ . اللهم ارزقنى حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم مارزقتني مما أحب، فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب .
ترجمہ: اے اللہ! اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما جن کی محبت تیرے ہاں نفع دے، اے اللہ! جو تو نے میری پسندیدہ چیزیں مجھے عطا کی ہیں ان کو اپنی عبادت میں میرے لئے قوت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ! جو تو نے مجھ سے میری پسندیدہ چیزوں کو دور کیا ہے ان کو اپنی عبادت میں میرے لئے فراغت کا ذریعہ بنا۔ ترمذی عن عبد اللہ بن یزید الخطمی

۳۶۳۳ . اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي .
ترجمہ: اے اللہ! میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔

ترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۳۴ . اللهم انى اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة ندمتك وجميع سخطك .
ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمتوں کے زائل ہونے سے، تیری عافیت کے چلے جانے سے، تیرے عذاب کے

اچانک اترنے سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے۔ مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ عن عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۳۵ . اللهم انى أسألك الثبات فى الأمر . وأسألك عزيمة الرشد . وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك . وأسألك لساناً صادقاً وقلباً سليماً . وأسألك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم . وأسألك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم .
ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، سیدھے راستے کا سوال کرتا ہوں، تیری نعمتوں کے شکر کا سوال کرتا ہوں، تیری اچھی عبادت کا سوال کرتا ہوں، سچی بات اور قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جو تجھے معلوم ہے اور ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو تجھے معلوم ہے اور اپنے ہر اس گناہ سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے نہ بے شک

تو علام الغیوب ہے۔ ترمذی، نسائی، عن شہاد بن اوس

۳۶۳۶ اللہم لک أسلمت ویک آمنیت وعلیک تو کلت والیک أنبت ویک خاصمت، اللہم انی اعود بعزتك لا اله الا أنت ان تصلنی أنت الحی القیوم الذی لا یموت، والجن والانس یموتون.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری خاطر اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف متوجہ ہوا، تیرے لئے لڑائی مول لی، اے اللہ! میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھے گمراہ ہونے سے بچا تو زندہ اور ہر شئی کو تھامنے والا ہے جو کبھی نہیں مرے گا، تمام جن و انسان مر جائیں گے۔ مسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۶۳۷ اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیر أمانقول، اللہم لک صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی والیک مآسی ولک ربی ترائی، اللہم انی اعود بک من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللہم، أسألك من خیر ماتحی بہ الریاح وأعود بک من شر ماتحی بہ الریح.

ترجمہ:..... اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں جیسا تو کہتا ہے اور ہم کہتے ہیں: اے اللہ! ہم میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور موت تیرے لئے ہے تیرے ہاں میرا ٹھکانا ہے اور اے رب میری ساری مدح تیرے لئے ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، دل کے وسوسہ سے اور معاملات کے بگڑنے سے۔ اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کی بھلائی کی جو ہوا میں لے کر آتی ہیں اور تیری پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں کے شر سے جو ہوا میں لے کر آتی ہیں۔ ترمذی، شعب الایمان للبیہقی عن علی رضی اللہ عنہ

۳۶۳۸ اللہم انفعنی بما علمتتی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علماً. الحمد لله علی کل حال وأعود بالله من حال اهل النار.

ترجمہ:..... اے اللہ! جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس کے ساتھ مجھے بہرہ مند فرما اور مجھے وہ علم سکھا جو مجھے نفع دے۔ اور مجھے علم میں زیادتی دے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں ہر حال میں اور اے اللہ! میں اہل جہنم کے حال سے پناہ مانگتا ہوں۔ ترمذی، ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۳۹ اللہم اجعلنی اعظم شکرک وأکثر ذکرک واتع نصیحتک واحفظ وصیتک.

ترجمہ:..... اے اللہ! مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا، اپنا بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا، اپنی نصیحت قبول کرنے والا بنا اور اپنی وصیت یاد رکھنے والا بنا۔ ترمذی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۴۰ اللہم انی أسألك واتوجه الیک بنیک محمد نبی الرحمة یامحمد انی أتوجه بک الی اللہ فی حاجتی هذه لتقضی لی، اللہم فشفعه فی

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد (ﷺ) کے وسیلہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد! میں تیرے وسیلہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ! پس ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد (ﷺ) کے وسیلہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد! میں تیرے وسیلہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ! پس ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی محمد (ﷺ) کے وسیلہ تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد! میں تیرے وسیلہ سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ! پس ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

۳۶۴۱ اللہم انی اعود بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی وشر قلبی ومن شر منی.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی آنکھوں کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی منی کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو داؤد، مستدرک عن شکل

۳۶۴۲ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم انی اعود بک من الکفر والفقور، اللہم انی اعود بک من عذاب القبر، لا اله الا انت.

ترجمہ:..... اے اللہ! مجھے اپنے بدن کی سلامتی نصیب کر، اے اللہ! مجھے اپنے کانوں کی سلامتی نصیب کر، اے اللہ! مجھے میری نگاہوں کی سلامتی نصیب کر، اے اللہ! میں کفر سے اور فقر سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ بے شک تیرے سوا کوئی

عبادت کے لائق نہیں۔ ابو داؤد، مستدرک الحاکم عن ابی بکرہ

۳۶۴۳ اللهم انی أسألك عيشة نقيه، ومیتة سوية ومر داغیر منخزی ولا فاضح.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صاف ستھری زندگی کا اور اچھی موت کا اور ایسے حشر کا جس میں مجھے نہ کوئی رسوائی ہو اور نہ فضیحت۔

البرزار، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن ابی عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۴۴ اللهم ان قلوبنا وجوارحنا بیدک لم تمکننا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بهما فکن انت ولیهما

ترجمہ: پروردگار! ہمارے دل اور ہمارے اعضاء سب تیرے ہاتھ میں ہیں، تو نے ہمیں ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا۔ پس اب تو ہی ان کو درست رکھ۔ حلۃ الاولیاء عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۴۵ اللهم اصلح لی دینی الذی هو عصمة امری، وأصلح لی دنیای النبی فیہا معاشی، وأصلح لی آخرتی النبی فیہا

معادی واجعل الحیاة زیادة لی ففی کل خیر، واجعل الموت راحة لی من کل شر.

ترجمہ: اے اللہ! میرے دین کو صحیح کر جو میری زندگی کا محافظ ہے، میری دنیا بھی صحیح کر جس میں میری زندگی ہے، میری آخرت صحیح کر جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے اس زندگی کو میرے لئے ہر خیر و بھلائی میں زیادتی کا سبب بنا اور موت کو ہر شے سے راحت کا ذریعہ بنا۔

مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۴۶ اللهم انی أسألك الهدی، والتقی والعفاف والغنی.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت تقویٰ، پاکدامنی اور غنی کا سوال کرتا ہوں۔ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۶۴۷ اللهم استر عورتی، وآمن روعتی، واقض عنی دینی.

ترجمہ: اے اللہ! میرے عیب کی پردہ پوشی فرما، میرے خوف کو امن دے اور میرے قرض کا انتظام فرما۔

الکبیر للطبرانی عن خیاب رضی اللہ عنہ

۳۶۴۸ اللهم اجعل حبک أحب الأشیا النی، واجعل خشیتک أخوف الأشیاء عندی، واقطع عنی حاجات

الدنیاء بالشوق الی لقاءک واذا اقررت اعین اهل الدنیا من دنیاهم، فاققر عینی من عبادتک.

ترجمہ: اے اللہ! اپنی محبت کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب کر میرے لئے، اپنی خشیت اور اپنے خوف کو سب چیزوں سے زیادہ خوف والی

کر، مجھے اپنی ملاقات کا ایسا شوق دے جو دنیا کی خواہشات کو مجھ سے ختم کر دے اور جب تو اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا سے ٹھنڈی کرے تو

میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر۔ لیبۃ الاولیاء عن الہیثم بن مالک الطائی

۳۶۴۹ اللهم انی اعوذ بک من شر الاعمین السیل والبعر الصوول.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں دو اندھی چیزوں سے سیلاب اور حملہ آور اونٹ سے۔ الکبیر للطبرانی عن عائشہ بنت قدامہ

۳۶۵۰ اللهم انی أسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت، عافیت، امانت داری، حسن اخلاق اور تیری تقدیر پر راضی رہنے کا۔

البرزار الکبیر للطبرانی عن عمرو

۳۶۵۱ اللهم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جاز السوء،

فی دار المقامة.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے دن سے، بری رات سے، برے گھڑی سے، برے ساتھی سے، برے پڑوسی سے رہنے

کے گھر میں۔ الکبیر للطبرانی عن عقبہ رضی اللہ عنہ بن عامر

۳۶۵۲ اللهم انی اعوذ بربضاک من سخطک، وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک، لأحصى ثناء

علیک، أنت كما أثبتت علی نفسک.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری رضاء کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری معافی کے ساتھ تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری تعریف کو شکر نہیں کر سکتا تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف فرمائی۔

مسلم، ابن ماجہ ابو داؤد، نسائی، ترمذی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۵۳. اللهم لك الحمد شكراً ولك المن فضلاً

ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے شکر میں تیری تعریف کرتا ہوں اور تمام احسانات کا فضل آپ ہی کی طرف سے ہے۔

الكبير للطبراني، مستدرک الحاکم عن كعب بن عجره

۳۶۵۴. اللهم انى أسألك التوفيق لمحابك من الاعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے محبوب اعمال کی تجھ سے توفیق طلب کرتا ہوں نیز تیری ذات پر سچا بھروسہ طلب کرتا ہوں، اور تیرے ساتھ حسن ظن (اچھا گمان) رکھنے کا سوال کرتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء عن الاوزاعی مرسلًا الحکیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۵۵. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملاً بكتابك

ترجمہ: اے اللہ! میرے دل کے کانوں کو اپنے ذکر کے لئے کھول دے اور مجھے اپنی اطاعت اپنے رسول کی اطاعت اور اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کیجئے۔ الاوسط للطبراني عن علی رضی اللہ عنہ

۳۶۵۶. اللهم انى أسألك صحة فى ايمان، وايماناً فى حسن خلق ونجاحاً يتبعه رحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضواناً.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے ایمان میں صحت کا اور حسن خلق میں ایمان کا سوال کرتا ہوں۔ نیز ایسی کامیابی کا سوال کرتا ہوں جس کا نتیجہ تیری رحمت، عافیت، مغفرت اور تیری رضامندی پر نکلتا ہو۔ الاوسط للطبراني، مستدرک الحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۵۷. اللهم انى أسألك ايماناً ياشتر قلبى، ويقتناصاً قأحتى اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لى. ووصلنى من

المعيشة بما قسمت لى.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل میں بس جائے، اور ایسے سچے یقین کا سوال کرتا ہوں کہ میں ہر پہنچنے والی مصیبت کو تیری طرف سے سمجھوں، اور مجھے میری معیشت اور روزی پر جو تو نے میرے لئے تقسیم کر دی راضی کر دے۔

البخارى عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۵۸. اللهم الطف لى فى تيسير كل عسير، فان تيسير كل عسير عليك يسير، وأسألك اليسر والمعافاة فى الدنيا والآخرة.

ترجمہ: اے اللہ! ہر مشکل آسان کرنے میں مجھ پر مہربان ہو جا۔ بے شک ہر مشکل آسان کرنا تجھ پر آسان ہے۔ اور میں تجھ سے دنیا و آخرت میں آسانی اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ الاوسط للطبراني عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۵۹. اللهم اعف عنى انك عفو كريم

ترجمہ: اے اللہ! مجھے معاف فرما بے شک تو معاف کرنے والا کریم (بادشاہ) ہے۔ الاوسط للطبراني عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۶۰. اللهم طهر قلبى من النفاق، وعملى من الرياء ولسانى من الكذب وعينى من الخيانة، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور.

ترجمہ: اے اللہ! میرے دل کو نفاق سے پاک کر، میرے عمل کو ریاء سے پاک کر، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر، بے شک تو آنکھوں کی خیانت کو اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے سب جانتا ہے۔

الحکیم، الخطیب فى التاريخ عن ام معبر الخزاعية

۳۶۶۱ اللهم ارزقني عينين هطالتين، تشفيان القلب بذروف الدموع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دماً، والاضراس جمرأ.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے خوب برسنے والی دو آنکھیں عطا فرما، جو تیرے خوف سے آنسو بہا بہا کر دل کو شفاء بخشیں قبل اس سے کہ آنسو خون ہو جائیں اور ڈاڑھیں زنگارہ ہو جائیں (قیامت میں)۔ ابن عساکر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۶۲ اللهم عافني في قدرتك، وادخلني في رحمتك.

واختتم لي بخير عملي واجعل ثوابه الجنة.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے اپنی قدرت میں عافیت بخش، مجھے اپنی رحمت میں داخل کر، میری عمر اپنی اطاعت میں پوری کر، میرا خاتمہ اچھے عمل پر کر اور اس کا ثواب جنت میں بنا دے۔ ابن عساکر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۶۳ اللهم غنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے علم کے ساتھ مالدار کر، بردباری کے ساتھ مجھے مزین فرما، تقویٰ کے ساتھ مجھے باعزت بنا اور عافیت کے ساتھ مجھے حسن و جمال بخش۔ ابن النجار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۶۴ اللهم اني أسألك من فضلك ورحمتك، فانه لا يملكها الا أنت.

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک ان دونوں چیزوں کا تو ہی مالک ہے۔

الكبير للطبراني عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ حلیۃ الاولیاء عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

حدیث ضعیف ہے۔

۳۶۶۵ اللهم حجة لارياء فيها ولا سمعة.

ترجمہ: اے اللہ! ایسا حج نصیب فرما جس میں نہ کوئی ریا ہو اور نہ دکھاوا۔ ابن ماجہ عن انس رضی اللہ عنہ

۳۶۶۶ اللهم اني اعوذ بك من خليل ما كره عيناه ترواني وقلبه يرعاني، ان رأی حسنة دفنھا وان رأی سيئة اذاعھا.

ترجمہ: اے اللہ! میں مکار دوست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آنکھوں سے مجھے دیکھے اور دل میں مجھ سے فریب رکھے۔ اگر میری کوئی نیکی دیکھے تو دفن کر دے اور اگر کوئی برائی دیکھے تو پھیلادے۔ (ابن النجار عن سعید المعتبری مرسلأ)

۳۶۶۷ اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فانه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سيئها الا أنت.

ترجمہ: اے اللہ! میرے تمام گناہ اور تمام خطائیں معاف فرما، اے اللہ! مجھے بلندی نصیب کر، مجھے مضبوط کر، مجھے نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت بخش۔ بے شک نیکی کی ہدایت دے نہیں سکتا اور برائی سے بچا نہیں سکتا تیرے سوا کوئی اور۔

الكبير عن ابى امامه رضی اللہ عنہ

۳۶۶۸ اللهم رب جبريل وميكائيل، ورب اسرافيل، اعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر.

ترجمہ: اے اللہ! جبریل، میکائیل کے رب! اور اسرافیل کے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، جہنم کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے۔

نسائی، عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۶۹ اللهم اني اعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، ومن بوار الايم، ومن فتنة المسيح الدجال.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے، دشمن کے تسلط سے، شادی کے بغیر رہنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔

الدارقطني في الافراد، الكبير للطبراني عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۶۷۰ اللهم اني اعوذ بك من الشردي والهدم والغرق والحرق وأعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت،

و اعوذ بک ان أموت فی سبیلک مدبراً، و اعوذ بک ان أموت لدیفاً.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں گر کر ہلاک ہونے سے، دب کر ہلاک ہونے سے، غرق ہونے سے اور جل جانے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے درغللے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تیری راہ میں پشت پھیرنے ہوئے مروں۔ اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ڈسا ہوا مروں۔ نسائی، مستدرک الحاکم عن ابی الیسر

۳۶۷۱ اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق، و الاعمال و الالهواء و الالهواء

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے اور امراض سے۔

ترمذی، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن عم زیاد بن علقمہ

۳۶۷۲ اللهم متعنی بسمعی و بصری، و اجعلهما الوارث منی و انصرنی علی من ظلمنی، و خذمنہ بئاری

ترجمہ: اے اللہ! مجھے میرے کانوں اور آنکھوں کے ساتھ فائدہ پہنچا اور ان کو میرا وارث بنا، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما۔ اور اس سے میرا انتقام لے۔ ترمذی، مستدرک الحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۷۳ اللهم انی أسألك غنای و غنی مولای.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے اپنی مالداری اور اپنے مالک کی مالداری کا سوال کرتا ہوں۔

الکبیر للطبرانی عن ابی حرمہ مالک بن قیس المازنی الانصاری

۳۶۷۴ اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفة عین، و لا تنزع عنی صالح ما عطیتنی.

ترجمہ: اے اللہ! ایک پل کے لئے بھی مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ کر اور جو نیک شی تو نے مجھے دی ہو اس کو مجھ سے مت چھین۔

البنار عن ابن عمر

۳۶۷۵ اللهم اجعلنی شکوراً، و اجعلنی صبوراً، و اجعلنی فی عینی صغیراً و فی أعین الناس کبیراً.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے شاکر بنا، مجھے صابر بنا اور مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا۔ (البنار عن بریدہ رضی اللہ عنہ

۳۶۷۶ اللهم انک لست باله استحدثناه، و لا برب ابندعناہ و لا کان لنا قبلک من اله نلجأ الیه و نلذک، و لا اعانک علی خلقنا أحد فمشرکہ فیک، تبارک و تعالیٰ.

ترجمہ: اے اللہ! تو کوئی ایسا مجبور نہیں ہے جس کو ہم نے خود ایجاد کر لیا ہو، نہ ایسا پروردگار ہے جس کو ہم نے کھونج نکالا ہو، نہ تجھ سے پہلے ہمارا کوئی مجبور تھا کہ ہم اس کی پناہ میں آجائیں اور تجھے چھوڑ دیں اور نہ ہی ہماری تخلیق پر تیری کسی نے مدد کی کہ ہم اس کو آپ کا شریک ٹھہرائیں تو بابرکت اور اس بات سے بلند ہے۔ الکبیر للطبرانی عن صہیب رضی اللہ عنہ

۳۶۷۷ اللهم أصلح ذات بیننا، و ألف بین قلوبنا، و اهدنا سبیل السلام، و نجنا من الظلمات الی النور، و جنبنا الفتن و احش ما ظہر منها و ما بطن، اللهم بارک لنا فی أسماعنا، و أبصارنا و قلوبنا و أزواجنا و ذریاتنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم، و اجعلنا شاکرین لنعمتک مشین بها قابلین لها و أتمها علینا.

ترجمہ: اے اللہ! ہمارے درمیان اصلاح کر، ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر، ہمیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت کر، ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف نجات دے اور ہمیں فتن کا موم سے بچاؤ کھلے ہوں یا پوشیدہ، اے اللہ ہمارے کاموں میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے جوڑوں میں، اور ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ اور ہم کو اپنی نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا، اپنی تعریف کرنے والا بنا، ان نعمتوں کو قبول کرنے والا بنا اور ان نعمتوں کو ہم پر کامل کر۔

الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۶۷۸ اللهم واقیة کواقیة للولید.

ترجمہ: اے اللہ! ہماری حفاظت فرما جس طرح چھوٹے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔

التاریخ للبخاری، مسند ابی یعلیٰ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۶۷۹. اللهم احفظنی بالاسلام قائماً، واحفظنی بالاسلام قاعداً واحفظنی بالاسلام رافداً، ولا تشمت لی عدواً ولا

حاسداً، اللهم انی اسألك من کل خیر خزائنه بیدک، وأعوذ بک من کل شر خزائنه بیدک.

ترجمہ: اے اللہ! میری اسلام کے ساتھ حفاظت فرما میرے کھڑے ہوئے، میری اسلام کے ساتھ حفاظت فرما۔ میرے بیٹھے ہوئے،

میری اسلام کے ساتھ حفاظت فرما میرے بولتے ہوئے اے اللہ! میری اسلام کے ساتھ حفاظت فرما۔ میرے بیٹھے ہوئے، میری اسلام کے ساتھ حفاظت فرما۔ میرے بیٹھے ہوئے،

کاسوال کرتا ہوں بے شک خیر کے تمام خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں اور اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں تمام قسم کے شرور سے کیونکہ شر کے بھی تمام

خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ مستدرک الحاکم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۶۸۰. اللهم انا نسألك موجبات رحمتک، وعزائم مغفرتک والسلامة من کل اثم، والغنیمة من کل بر، والفوز

بالجنة، والنجاة من النار.

ترجمہ: اے اللہ! ہم تجھ سے تیری رحمت واجب کرنے والے اسباب کا سوال کرتے ہیں، تیری مغفرت کو لازم کرنے والے اسباب

کا سوال کرتے ہیں، ہر گناہ سے سلامتی کا سوال کرتے ہیں، ہر نیکی ملنے کا سوال کرتے ہیں، جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کا سوال

کرتے ہیں۔ مستدرک الحاکم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۶۸۱. اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والهمم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة

والمسکنة، وأعوذ بک من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء وأعوذ بک من الصم

والبکم والجنون والجذام والبرص وشیء من الاسقام.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی سے سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، بڑھاپے سے، دل کی سختی سے، غفلت کا شکار

ہونے سے، (اہل و عیال کے ہمت شکن) بوجھ سے اور ذلت و مسکت سے، اور اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقر و فاقہ سے، کفر و فجور سے،

اختلاف اور نفاق سے، ریاء اور دکھلاوے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن سے، گونگے پن سے، پاگل پن سے، جذام اور برص سے اور

تمام برے امراض سے۔ مستدرک الحاکم، البیہقی فی الدعاء عن انس رضی اللہ عنہ

۳۶۸۲. اللهم اجعل أوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری.

ترجمہ: اے اللہ! میرے رزق کی خوب کشادگی کا زمانہ میرا بڑھاپا اور آخری عمر بنا۔ مستدرک الحاکم عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۸۳. اللهم انی أسألك العفة والعافیة فی دنیای ودینی وأهلئی ومالی، اللهم استر عورتئی وآمن روعتئی واحفظنی

من بین یدئی ومن خلفئی وعن یمینئی وعن شمالئی ومن فوقئی، وأعوذ بک أن أعتل من تحتئی.

ترجمہ: اے اللہ! میں اپنی دنیا اور دین میں، اہل اور مال میں پاکدامنی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میرے عیوب ڈھانپ

دے، میرے خوف کو زائل فرما۔ آگے سے، پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اچانک

نیچے سے عذاب میں اچک لیا جاؤں۔ البزار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۶۸۴. اللهم انی أسألك باسمک الطاهر الطیب المبارک الأحب الیک الذی اذا دعیت به أجمت و اذا سئلت به

أعظیت و اذا استرحمت به رحمت و اذا استغفر جت به فرجت.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیرے پاکیزہ، طیب، مبارک اور تیرے محبوب نام سے تجھے پکارتا ہوں کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ

قبول ہوتی ہے اور جب تجھ سے اس کے واسطے سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ سوال پورا کیا جاتا ہے اور جب تجھ سے رحمت طلب کی جاتی ہے تو تو

رحمت بھیجتا ہے اور جب تجھ سے کشادگی طلب کی جاتی ہے کشادگی مرحمت فرماتا ہے۔ ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۶۸۵ .. اللهم انى اعوذ بوجهك الكريم واسمك العظيم من الكفر والفقر،
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیرے کریم چہرے کے طفیل اور تیرے عظیم نام کے طفیل تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر و فاقہ سے۔

الكبير للطبراني فى السنة عن عبدالرحمن بن ابى بكر
۳۶۸۶ .. اللهم لا يدر كنى زمان ولا تدر كوا زماناً لا يتبع فيه العليم، ولا يستخيا فيه من الخليم، قلوبهم قلوب
الاعاجم، والستهم السنة العرب.

ترجمہ:..... اے اللہ! (میری دعا ہے کہ) مجھے ایسا زمانہ نہ پائے اور نہ تم ایسے زمانہ کو پاؤ کہ جس میں عالم کی اتباع نہ کی جائے اور حلیم
(بردار) سے شرم نہ کی جائے۔ ان لوگوں کے قلوب عجیبوں کے ہوں گے لیکن ان کی زبانیں عرب کی ہوں گی۔

مسند احمد، عن سهل بن سعد (مستدرک الحاکم عن ابى هريره رضى الله عنه
۳۶۸۷ .. اللهم انى اعوذ بك من فتنة النساء وأعوذ بك من عذاب القبر.
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔

اعتلال القلوب للخرايطى عن سعد رضى الله عنه
۳۶۸۸ .. اللهم انى اعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر و فاقہ سے اور قلت و ذلت سے۔ اور اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں

کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک الحاکم عن ابى هريره رضى الله عنه
۳۶۸۹ .. اللهم انى اعوذ بك من النجوع فانه ينس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فانها ينس البطانة.
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں بھوک سے بے شک وہ براساچی ہے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں خیانت سے بے شک وہ بری

نیت ہے۔ ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ عن ابى هريره رضى الله عنه
۳۶۹۰ .. اللهم انى اعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق.
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں اختلاف سے، نفاق سے اور برے اخلاق سے۔ ابوداؤد، نسائی عن ابى هريره رضى الله عنه

۳۶۹۱ .. اللهم اعوذ بك من البرص، والجنون والجذام، شتى ومن الاسقام.
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص سے، جنون سے، جذام سے اور تمام برے امراض سے۔

مسند احمد، ابوداؤد، نسائی عن انس رضى الله عنه
۳۶۹۲ .. اللهم ربنا آتنا فى الدنيا حسنة، وفى الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
ترجمہ:..... اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔

بخارى ومسلم عن انس رضى الله عنه
۳۶۹۳ .. اللهم انى اعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والجبن والبخل وضيع الدين، وغلبة الرجال.
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں رنج و غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے اور قرض کے کمر توڑ دینے اور لوگوں کے

ہجوم کرنے سے۔ مسند احمد، بخاری و مسلم، ترمذی، ابوداؤد، نسائی عن انس رضى الله عنه
۳۶۹۴ .. اللهم أنى اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهمم وأعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب الممات.
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے اور بڑھاپے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں

عذاب قبر سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ مسند احمد، بخاری و مسلم عن انس رضى الله عنه

۳۶۹۵ اللہم انی أعوذ بک من عذاب القبر، وأعوذ بک من عذاب النار، وأعوذ بک من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بک من فتنة المسيح الدجال.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ بخاری، نسائی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۶۹۶ ان تغفر اللہم تغفر جما وأی عبدک لاألما

ترجمہ:..... اے اللہ! اگر تو معاف کرتا ہے تو تمام گناہ معاف فرما اور کون سا تیرا بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔

نسائی، مستدرک الحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۶۹۷..... چہرے سیاہ پڑ گئے۔ (مسلم عن سلمہ بن الأكوع۔ مستدرک الحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ)

۳۶۹۸ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اللہ عزوجل آپ کو حکم دیتا ہے کہ ان کلمات کے ساتھ آپ دعا مانگیں ان میں سے ایک چیز آپ کو ضرور ملے گی:

اللہم انی أسألك تعجیل عافیتک و صبراً علی بلیتک، و خروجاً من الدنیا الی رحمتک

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے تیری جلد عافیت کا، تیری مصیبت پر صبر کا اور دنیا سے تیری رحمت کی طرف نکل جانے کا سوال کرتا ہوں۔ ابن حبان، مستدرک الحاکم عن عائشہ رضی اللہ عنہا

کلام:..... روایت ضعیف ہے دیکھئے ضعیف الجامع ۷۰۔

۳۶۹۹ میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اے محمد کہو، میں نے کہا: کیا کہوں؟ فرمایا کہو:

أعوذ بکلمات اللہ التامات، الی لا یجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق و ذرأ و برأ، و من شر ما یُنزل

من السماء، و من شر ما یخرج فیها، و من شر ما ذرأ فی الارض و برأ و من شر ما یخرج منها، و من شر

فتنة اللیل والنهار، و من شر کل طارق یطرق، الا طارقاً یطرق بخیبر یارحمن.

”میں اللہ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی نیک تجاوز نہ کر سکتا اور نہ بد، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، ہر اس

چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان پر چڑھتی ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو زمین میں آگتی

ہے، رات اور دن کے شر سے اور ہر رات کو آنے والی ہر شے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے ارحم الراحمین۔“

الکبیر للطبرانی، مسند احمد، عن عبد الرحمن بن حنبل

۳۷۰۰ اے لوگو! کیا تم چاہتے ہو کہ خوب اچھی دعا کرو، پس یہ کہو:

اللہم أعنا علی ذکوک و شکرک و حسن عبادتک.

”اے اللہ! ہماری مدد کر اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔“

مستدرک الحاکم، حلیۃ الاولیاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۰۱..... اپنی دعا میں یہ کہا کرو:

اللہم ارزقنی لذة النظر الی وجهک والشوق الی لقائک.

”اے اللہ! مجھے اپنے چہرے کو دیکھنے کی لذت عطا کر اور اپنی ملاقات کا شوق عطا کر۔“ الحکیم عن زید بن ثابت

کلام:..... ضعیف الجامع ۱۴۹۔

۳۷۰۲ بہترین دعا یہ ہے کہو:

اللہم ارحم امة محمد و رحمة عامة.

”اے اللہ! امت محمد پر رحمت عام کر۔“ الحاکم فی التاریخ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

کلام: تذکرۃ الموضوعات ۵۸- تنزیہ ۳۳۶، ذیل الملاحی ۱۵۶، ضعیف الجامع ۱۰۰۷

۳۷۰۳ ایک شخص نے یا ارحم الراحمین کے لفظ کے ساتھ خوب گریہ و زاری کی۔ پس اس کو آواز دی گئی: میں نے تیری آواز سنی بلو تو تمہاری کیا حاجت ہے؟ ابو الشیخ فی التواب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۰۴ ایک ربی حبیبی وفی نفسی لک ربی ذللتی، وفی أعین الناس عظمونی ومن سببہ الاخلاق جنیبی

ترجمہ: اے پروردگار! مجھے اپنی محبت عطا کر اور مجھے اپنی نگاہ میں زلیل کر اور لوگوں کی نگاہ میں عظیم کر اور برے اخلاق سے مجھے بچا۔

ابن لال عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۷۰۵ تیری دنیا کے لئے پس جب تو صبح کی نماز پڑھ لے تو نماز کے بعد سبحان العظیم و بحمدہ و لاحول و لا قوۃ الا باللہ تین مرتبہ پڑھ، اس کی وجہ سے اللہ پاک تجھے چار مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا: جنون، جذام، اندھے پن اور فاجح سے۔

اور اپنی آخرت کے لئے یہ کہہ:

اللهم اهدنی من عندک و افض علی فضلک و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک۔

”اے اللہ! مجھے اپنے پاس سے ہدایت دے، مجھ پر اپنا فضل فرما، مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما اور اپنی برکات کا نزول فرما۔“

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر کوئی قیامت کے دن ان کو پورا پورا لے کر آئے تو یہ کلمات اس کے لئے جنت کے چار دروازے ضرور کھلوائیں گے، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ابن السنی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۱۲۶۔

۳۷۰۶ کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو تو دن رات اللہ کا ذکر کرے تو تو ان سب سے بڑھ جائے:

الحمد لله عدد ما خلق الله، والحمد لله ملء ما خلق الله والحمد لله ملء ما في السموات وما في الارض،

والحمد لله عدد ما احصى كتابه والحمد لله عدد ملء ما احصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله

ملء كل شيء، وتسيح الله مثلهن.

”تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، اس قدر جس قدر اللہ نے مخلوق پیدا کی۔ (الحمد لله الذي خلق بھرا کر، الحمد لله آسمانوں اور زمین کو بھر

کر، الحمد لله اس قدر جس قدر اللہ کی کتاب (تقدیر) شمار کر سکے اور الحمد لله اس قدر بھر کے جس قدر اللہ کی کتاب (تقدیر) شمار کرے،

الحمد لله ہر چیز کی تعداد کے بقدر اور الحمد لله ہر چیز بھر۔ اور اللہ کی تسبیح (سبحان الله) بھی اسی قدر) تو ان کلمات کو یاد کر لے اور اپنے بعد

آنے والوں کو بھی یاد کرادے۔“ الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۷۰۷ کیا میں تجھے اس سے آسان شے نہ بتاؤں جو اس سے افضل بھی ہو:

سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق

في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك،

والحمد لله مثل ذلك، ولا اله الا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك.

ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن حبان، مستدرک الحاکم عن سعد رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۲۱۵۵۔

۳۷۰۸ کیا میں تم کو ایسی شے نہ بتاؤں جو ان تمام دعاؤں کو جامع ہو تم یہ کہو:

اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك

محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله

ترجمہ:..... اے اللہ! ہم تجھ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی محمد ﷺ نے مانگیں، اور ہر اس چیز سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس سے تیرے نبی محمد نے پناہ مانگی۔ تجھ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے اور تجھی پر (مدد) پہنچانا ہے۔ اور ہر طرح کی طاقت اور مدد اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

ترمذی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۲۱۶۵۔

۳۷۰۹ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جو تو کہتی رہے:

اَلَا اَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُ لِنِهَا: سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدُ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدُ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ، سُبْحَانَ اللّٰهِ مَدَادَ كَلِمَاتِهِ.

”سبحان اللہ مخلوق کی تعداد کے برابر، سبحان اللہ مخلوق کی تعداد کے برابر، سبحان اللہ اللہ کی رضاء کے بقدر، سبحان اللہ اللہ کی رضاء کے بقدر، سبحان اللہ اللہ کے عرش کے وزن کے بقدر، سبحان اللہ اللہ کے عرش کے وزن کے بقدر، سبحان اللہ اللہ کے کلمات کے بقدر، سبحان اللہ اللہ کے کلمات کے بقدر، سبحان اللہ اللہ کے کلمات کے بقدر، سبحان اللہ اللہ کے کلمات کے بقدر“ ترمذی، نسائی، ابن حبان عن جویریہ رضی اللہ عنہ

۳۷۱۰ جس قدر تو نے نتیجہ بیان کی کیا میں ایک ہی کلمہ اس سے زیادہ ثواب والا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں! ضرور بتائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا یو کہا کر:

سُبْحَانَ اللّٰهِ عَدَدُ خَلْقِهِ

سبحان اللہ اللہ کی مخلوق کی تعداد کے بقدر۔ ترمذی، عن صفیہ رضی اللہ عنہ ابو داؤد، مستدرک الحاکم

کلام: ضعیف الجامع ۲۱۶۷۔

۳۷۱۱ یوں کہا کر:

اللهم انى اعود بک من شر سمعی، ومن شر بصری، ومن شر لسانی، ومن شر قلبی، ومن شر منی.

”اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے کان کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے، اور اپنی

منی کے شر سے۔“ مسند احمد، ابو داؤد، نسائی عن شکل

۳۷۱۲ کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ اللہ پاک اسی کو وہ کلمات سکھاتا ہے جس کو خیر دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور پھر کبھی ان کو بھلاتا نہیں۔ یوں کہا کر:

اللهم انى ضعيف فقوفى رضاك ضعفى وخذ الى الخیر بناصیتی، واجعل الاسلام منتهی رضای، اللهم انى ضعيف فقونى، وانى ذلیل فأعزنى، وانى فقیر فارزقنى.

”اے اللہ! میں ضعیف ہوں، مجھے اپنی رضا میں قوی کر، بھلائی کے کام کی طرف میری پیشانی کھینچ، اسلام کو میری رضاء و خوشی کی انتہائی چیز کر، اے اللہ! میں ضعیف ہوں مجھے قوی کر، میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے اور میں فقیر ہوں مجھے رزق دے۔“

الکبیر للطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، مسند ابی یعلیٰ، مستدرک الحاکم عن بریدہ

کلام: تکمیل المنفع ۷۔ ضعیف الجامع ۲۱۷۱۔

۳۷۱۳ اللهم الهنی رشدی واعذنی من شر نفسی:

ترجمہ: اے اللہ! مجھے میری بھلائی کی راہ دکھا اور مجھے اپنے نفس کے شر سے بچا۔ ترمذی عن عمران بن حصین

کلام: ضعیف الجامع ۴۰۹۸۔

۳۷۱۳..... یوں کہو:

اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا.

”اے اللہ! ہمارے عیوب چھپا دے اور ہمارے ڈر اور خوف کو زائل فرما۔“ مسند احمد عن ابی سعید

کلام: ضعیف الجامع ۴۱۱۸۔

۳۷۱۵ اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والانجيل والقرآن، فائق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين، وأغنني من الفقر.

ترجمہ: اے اللہ! ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے رب! ہمارے اور ہر چیز کے رب! تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے! دانے اور گٹھلی کو چھاڑنے والے! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ آپ ہی سب سے پہلے ہیں آپ سے پہلے کچھ نہیں، آپ سب سے آخر ہیں آپ کے بعد کچھ نہیں، آپ اوپر اور ظاہر ہیں آپ سے اوپر کچھ نہیں، آپ ہی باطن اور اندر ہیں آپ سے زیادہ اندر اور باطن کچھ نہیں، پس میرے فرض کو اتار دے اور مجھے نقر سے نجات دے۔

ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۱۶ یوں کہو:

اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني.

”اے اللہ! تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما۔“

ترمذی ابن ماجہ، مستدرک الحاکم عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۷۱۷ کہو:

سبحان الله عدد ما خلق من شيء۔

جس قدر اللہ نے مخلوق پیدا کی اس قدر سبحان اللہ! الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن صفیہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۴۱۲۲۔

۳۷۱۸ حضرت داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے:

اللهم انى أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذى يبلغنى حبك، اللهم اجعل حبك أحب

الى من نفسى وأهلى ومن الماء البارد.

”اے اللہ! میں تجھ سے تیری اور ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس عمل کی محبت جو تیری محبت پیدا کرے، اے

اللہ! اپنی محبت مجھے میری جان سے میرے اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ کر دے۔“

ابو داؤد، ترمذی، مستدرک الحاکم عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۷۱۹ تم سے ملنے کے بعد میں نے چار کلمات کہے ہیں اگر ان کا وزن کیا جائے ان کلمات کے ساتھ جو آج سارے دن تم نے کہے ہیں تو وہ

چار کلمات زیادہ وزنی نکلیں گے:

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

سبحان الله وبحمده اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضاء کے بقدر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات

کی تعداد کے برابر مسلم، ابو داؤد عن جویریۃ رضی اللہ عنہ

۳۷۲۰ کسی مسلمان نے اللہ سے تین بار جنت کا سوال نہیں کیا مگر جنت نے اس کے جواب میں کہا:

اللهم أدخله الجنة، ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثاً الا قتلت النار: اللهم أجره مني.

اے اللہ! اس کو جنت میں داخل فرما۔ اور کسی مسلمان نے اللہ کی پناہ نہیں مانگی جہنم سے تین بار مگر جہنم نے اس کے جواب میں کہا:

اے اللہ! اسے مجھ سے پناہ دیدے۔ مسند احمد، ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک عن انس رضی اللہ عنہ

۳۷۲۱ جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیور۔ ایک دن میں سو مرتبہ

کہا یہ اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا، اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی، سو برائیاں مٹائی جائیں گی، اس پورے دن میں

شیطان سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ حتیٰ کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے افضل عمل لے کر حاضر نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ کوئی اس سے زیادہ

یہی کلمات کہے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۲۲ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیور دس مرتبہ کہا وہ اس شخص

کے مثل ہوگا جس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کئے۔ (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ)

۳۷۲۳ جس نے کہا رضیت باللہ رباً وبالاسلام دیناً وبمحمد نبیاً تو اس کے لئے جنت واجب ہوگی۔

ابو داؤد، ابن حبان، مستدرک الحاکم عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

۳۷۲۴ جس نے یہ کلمات دس مرتبہ کہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحداً حمداً لم یتخذ

صاحبة ولا ولداً ولم یلد ولم یکن لہ کفواً احد، اللہ پاک اس کے لئے چالیس ہزار نیکیاں لکھ دیں گے۔

مسند احمد، ترمذی عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ

کلام: المتناہیۃ ۱۳۹۸۔

۳۷۲۵ جس نے دس بار یہ کلمہ پڑھا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحییٰ ویمیت وهو علی کل

شیء قدیور گویا اس نے ایک قید جان آزاد کر دی۔ مسند احمد، نسائی، ابن حبان، مستدرک الحاکم عن البراء رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۵۷۴۰۔

۳۷۲۶ اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے! ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔

ابن ماجہ، مستدرک الحاکم عن النواس بن سمعان

۳۷۲۷ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔

نسائی، مستدرک الحاکم عن انس رضی اللہ عنہ ترمذی عن شہاب الجریمی عن جابر رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۶۴۶۴۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعا

۳۷۲۸ اے ابو بکر! ہو:

اللهم فاطر السموات والارض. عالم الغیب والشهادة، لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ، أعوذ بک

من شر نفسی ومن شر الشیطان وشوکه، وأن أقترف علی نفسی سوءاً أو أجره الی مسلم

”اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! اغیب اور حاضر کے جاننے والے! تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر چیز کا رب ہے اور

اس کا مالک ہے۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر کوئی برائی لگاؤں یا کسی مسلمان کی طرف برائی منسوب کروں۔“ بخاری، مسلم عن ابن عمر و ترمذی رقم الحدیث ۳۵۱۶

۳۷۲۹ رب ولا تعن علی، وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی، واهدنی ویسر ہدای لی، وانصرنی علی من بغی علی، اللهم اجعلنی لک شاکراً، لک ذاکراً، لک راہباً، لک مطوعاً، لک مغتیباً، البک واما منیباً، رب تقبل توبتی، واغسل جوبتی، وأجب دعوتی وثبت حجتی، واهد قلبی، وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔

ترجمہ:..... اے پروردگار! میری مدد فرما اور مجھ پر کسی کی مدد نہ فرما، میری نصرت فرما اور مجھ پر کسی کی نصرت نہ فرما، میرے لئے جیلہ و تدبیر فرما اور مجھ پر کسی کا جیلہ و تدبیر کارگرنہ کر، مجھے ہدایت دے اور ہدایت کو میرے لئے آسان کر، جو مجھ پر زیادتی کرے اس کے خلاف میری مدد فرما، اے اللہ، مجھے اپنا شکر گزار بنا، اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا فرماں بردار بنا، اپنی طرف رجوع کرنے والا اور گڑگڑانے والا بنا۔ پروردگار! میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ دھو دے، میری دعا قبول فرمائے، میری حجت اور دلیل کو مضبوط کر، میرے دل کو ہدایت کر، میری زبان کو درست کر اور میرے دل کے کینہ اور میل پھیل کو دور کر دے۔

مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مستدرک الحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۷۳۰ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔

ترجمہ:..... اے پروردگار! میری مغفرت فرما میری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

ابو داؤد عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۳۰۸۷۔

۳۷۳۱ رب اغفر لی، وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابن ماجہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

ترجمہ:..... اے پروردگار! میری مغفرت فرما، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔

۳۷۳۲ رب اغفر وارحم واهدنی للسیبیل الاقوم۔

ترجمہ:..... پروردگار! میری مغفرت فرما، رحم فرما، اور مجھے سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ مسند احمد عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا

کلام:..... ضعیف الجامع ۳۰۸۸۔

۳۷۳۳ کہہ:

اللهم اجعل سریرتی خیراً من علانیتی، واجعل علانیتی صالحۃ، اللهم انی أسألك من صالح ماتوتی الناس من المال والاهل والولد، غیر الضال ولا المضل۔

”اے اللہ! میرے پوشیدہ کو میرے ظاہر سے بہتر بنا، میرے ظاہر کو نیک بنا، اے اللہ! میں تجھ سے نیک مال، نیک اولاد اور نیک

اہل خانہ کا سوال کرتا ہوں جو گمراہ ہوں اور نہ گمراہ کریں۔“ ترمذی عن عمر رضی اللہ عنہ

کلام:..... ضعیف الجامع ۳۰۹۷، ضعیف الترمذی ۷۲۲۔

۳۷۳۳ اللهم فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملیکہ، أشہد أن لا اله الا أنت، أعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ۔

ترجمہ:..... اے اللہ! آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! غیب کے اور حاضر کے جاننے والے! ہر چیز کے رب! اور اس کے مالک! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے۔

بستر پر پڑھنے کی دعا

صبح و شام اس دعا کو پڑھ کر اور جب بستر پر جائے تب بھی پڑھا کر۔

(مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، مستدرک الحاکم، بخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ)

۳۷۳۵ اللهم انی أسألك نفساً مطمئنة تؤمن بقلائك وترضى بقضائك، وتقع بعطائك

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر ایمان رکھے، تیرے فیصلہ پر راضی رہے اور تیری عطا پر

قناعت پذیر ہو۔ الکبیر للطبرانی، الضیاء عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۴۰۹۹۔

۳۷۳۶ اللهم انی ضعیف فقونی، وانی ذلیل فاعزنی، وانی فقیر فارزقنی

ترجمہ: اے اللہ! میں ضعیف ہوں مجھے قوی فرما، میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے، میں فقیر ہوں مجھے رزق دے۔

مستدرک الحاکم عن بریدہ رضی اللہ عنہ

۳۷۳۷ اللهم مغفرتک أوسع من ذنوبی، ورحمتک أرجی عندی من عملی

ترجمہ: اے اللہ! تیری مغفرت میرے گناہوں سے وسیع تر ہے اور تیری رحمت کی مجھے اپنے عمل سے زیادہ امید ہے۔

مستدرک الحاکم، الضیاء عن حابر رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۴۱۰۱۔

۳۷۳۸ اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی. فان هؤلاء تجمیع لک دنیاک و آخرتک

ترجمہ: اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت اور روزی دے۔

یہ دعا تیرے لئے دنیا و آخرت کی بھلائوں کو جمع کر دے گی۔ مسند احمد، مسلم، ابن ماجہ عن طارق الاشجعی

۳۷۳۹ اللهم انی ظلمت نفسی، ظلماً کثیراً وانه لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک

انت الغفور الرحیم

ترجمہ: اے اللہ! مجھ سے اپنی جان پر ظلم ہوا اور بہت زیادہ ہوا اور بے شک گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشے والا نہیں۔ پس مجھے اپنی

طرف سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ بے شک آپ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں۔

مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ عن ابن عمر و ابن ابی بکر

الاکمال

۳۷۴۰ اللهم انک لست بالاله استحد ثناک ولا برب یبید ذکره ولا کان معک اله ندعوه ونتضرع الیه، ولا اغانک

علی خلقنا احد فنشر که فیک

ترجمہ: اے اللہ! تو ایسا خدا نہیں ہے جس کو ہم نے ایجا کر لیا، اور نہ ایسا رب ہے جس کا ذکر ناپید ہو جائے اور نہ آپ کے ساتھ کوئی معبود ہے

جس کو ہم پکاریں اور اس کی طرف آپ وزاری کریں اور نہ ہماری تخلیق میں آپ کی کسی نے مدد کی کہ اس کو ہم آپ کا شریک کریں۔

ابوالشیخ فی العظمة عن صہب رضی اللہ عنہ

۳۷۴۱ اللهم انی أعوذ بک من شر ماتجی بہ الرسل، وشر ماتجی بہ الربیع

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس چیز کے شر سے جو پیغامبر لے کر آئیں اور ہر اس چیز کے شر سے جو ہوا میں لے کر آئیں۔

ابوالشیخ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۷۲۲ اللهم انى أسألك الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك، والشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے رضا بالقدر کا سوال کرتا ہوں، موت کے بعد اچھی زندگی کا سوال کرتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں جو بغیر کسی تکلیف اور بغیر کسی تاریک فتنے کے ہو۔

الكبير للطبراني عن فضانه بن عبيد

۳۷۲۳ اللهم اجعل فى بصرى نوراً، واجعل فى سمعى نوراً، واجعل فى لسانى نوراً، واجعل فى قلبى نوراً، واجعل عن يمينى نوراً واجعل عن شمالى نوراً، واجعل من أمامى نوراً، واجعل من خلفى نوراً واجعل من فوقى نوراً، واجعل من أسفل منى نوراً، واجعل لى يوم ألقاك نوراً، واعظم لى نوراً.

ترجمہ: اے اللہ! میری آنکھوں میں نور کر، میرے کانوں میں نور کر، میری زبان میں نور کر، میرے دل میں نور کر، میرے دائیں اور بائیں نور کر، میرے آگے اور پیچھے نور کر، میرے اوپر اور نیچے نور کر اور جس دن میں تجھ سے ملاقات کروں گا اس دن کو میرے لئے نور کر اور میرے لئے نور کو زیادہ کر دے۔ مستدرک الحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۷۲۴ اللهم اجعلنى من الذين اذا أحسنوا استبشروا، واذا أسأوا استغفروا.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے پہنڈا دے جب وہ نیکی کریں تو خوش ہوں اور جب ان سے گناہ سرزد ہوں تو استغفار کریں۔

مسند احمد، بخاری، شعب الایمان للبيهقي، الخطيب فى التاريخ، ابن عساكر عن عائشه رضی اللہ عنہا

۳۷۲۵ اللهم ارزقنى اللهم اهدينى

اے اللہ! مجھے رزق اور توفیق دے اور مجھے ہدایت نصیب کر۔ ابن ابی عاصم، السنن لسعيد بن منصور عن انس رضی اللہ عنہ

۳۷۲۶ اللهم انى أعوذ بك من الفقر وعذاب القبر، وفتنة المحيا وفتنة الممات.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں فقر سے اور عذاب قبر سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔

الكبير للطبراني عن عثمان بن ابي وقاص

۳۷۲۷ اللهم انى أعوذ بك من الكسل والهزم والجبن والبخل وسوء الكبر، وفتنة الدجال وعذاب القبر.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے، بڑھاپے سے، بزدلی سے، بخل سے، بدترین بڑھاپے سے، دجال کے فتنے سے اور عذاب قبر سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، نسائی عن انس رضی اللہ عنہ

۳۷۲۸ اللهم انى أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أرد الى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، تیری پناہ مانگتا ہوں، بزدلی سے، تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ رذیل عمر کو پہنچوں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے۔

بخاری، مسلم، مصنف ابن ابی شیبہ، ابن حبان عن سعد بن ابی وقاص

۳۷۲۹ اللهم انى أعوذ بك من بطن لا يشبع، وأعوذ بك من صلاة لا تنفع أعوذ بك من دعاء لا يسمع، وأعوذ بك من قلب لا يخشع

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے شکم سے جو سیر نہ ہو، تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی نماز سے جو نفع نہ دے، تیری پناہ مانگتا ہوں ایسی

دعا سے جو سنی نہ جائے اور تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع نہ کرے (خدا کو یاد نہ کرے اور روئے نہ)۔

ابن حبان، سمویہ، السنن لسعید بن منصور عن انس رضی اللہ عنہ

۳۷۵۰ اللہم استر عورتی و آمن روعتی، واقض دینی.

ترجمہ: اے اللہ! میرے عیب کو چھپا دے میرے خوف کو امن دے اور میرے قرض کو اتار دے۔

بقی بن مخلد، ابن مندہ، ابو نعیم عن ابن جندب عن ابیہ

۳۷۵۱ اللہم أحسن عاقبتی فی الأمور کلها، وأجرنی من خزی الدنیا وعذاب الآخرة.

ترجمہ: اے اللہ! تمام کاموں میں مجھے اچھائی نصیب کر، مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔

پس جس شخص نے یہ دعا ہمیشہ لازم کر لی تو اس کو زندگی میں کوئی مصیبت درپیش نہ ہوگی۔ الکبیر للطبرانی عن یسار بن ارطاة

۳۷۵۲ اللہم انی أعوذ بک من قلب لا یخشع، ومن دعاء لا یسمع ونفس لا تشیع.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خاشع نہ ہو، ایسی دعا سے جو سموع نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔

الکبیر للطبرانی، ابن عساکر عن ابن جریر

۳۷۵۳ اللہم لا تخزنی یوم البأس، ولا تخزنی یوم القيامة.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے جنگ کے دن رسوا نہ کر اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کر۔

ابن قانع، الکبیر للطبرانی، ابو نعیم، السنن لسعید بن منصور عن ابی قرصافہ رضی اللہ عنہ

۳۷۵۴ اللہم لا تخزنا یوم القيامة ولا تفضحنا یوم اللقاء.

ترجمہ: اے اللہ! ہم کو قیامت کے دن رسوا نہ کر اور اپنی ملاقات کے وقت نصیحت نہ کر۔ ابن عساکر عن ابی قرصافی

۳۷۵۵ اللہم لاسهل الا ماجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن اذا شئت سهلا.

ترجمہ: اے اللہ! کوئی چیز آسان نہیں ہے سوائے اس چیز کے جس کو تو آسان کرے۔ اور جب تو چاہتا ہے تو ہر رنج و غم کو آسان

کر دیتا ہے۔ عن ابن ابی عمرو، ابن حبان، ابن السنی فی عمل یوم وليلة السنن لسعید بن منصور عن انس رضی اللہ عنہ

۳۷۵۶ اللہم الیک أشکو ضعف قوتی، وقلة حیلتی، وھوانی علی الناس، یا أرحم الراحمین الی من تکلنی الی عدو

یتسجھنمی، أم الی قریب ملکته امری، ان لم تکن ساعطاً علی فلا ابالی، غیر ان عافیتک أوسع لی أعوذ بنور وجھک

الکریم، الذی أضات لی السموات، وأشرفت له الظلمات وصلح علیہ أمر الدنیا والآخرة، ان تحل علی غضبک

أو تنزل علی سخطک، ولك العتبی حتی ترضی، ولا حول ولا قوة الا بک.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کی، اپنے حیلہ کی کمی کی اور لوگوں پر اپنی کمزوری کی۔ اے ارحم

الراحمین تو مجھے کس دشمن کی طرف بھیجتا ہے جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے یا تو مجھے کسی رشتہ دار کی طرف بھیج کر مجھے اس کے حوالہ کر دیتا ہے۔

اے پروردگار! اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہاں مگر تیری عافیت نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ پس میں تیرے چہرے کے نور کی

پناہ مانگتا ہوں جس کے نور سے ستارے آسمان روشن ہو گئے۔ سادی ظلمتیں جھٹ کر روشن ہو گئیں اور اس کی کرنوں سے دنیا و آخرت کے

معاملے سدھر گئے اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب اترے، یا تیری ناراضگی اترے، تجھے منانا اس وقت تک فرض ہے جب تک تو راضی نہ

ہو۔ یقیناً کسی بدی سے پھر نے کی طاقت ہے اور نہ کسی نیکی کا انجام دینے کی قوت مگر خدا تیرے طفیل۔

الکبیر للطبرانی فی السنة عن عبد اللہ بن جعفر

۳۸۵۷ اللہم اغننی بالعلم، وزینی بالحلم، وأکرمنی بالتقوی وجملنی بالعافیة.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے علم کی دولت سے مالا مال کر، حلم و بردباری کے ساتھ مجھے رونق بخش، تقویٰ و پرہیزگاری کے ساتھ مجھے معزز

کر۔ (اور عافیت وامن کے ساتھ مجھے خوبصورتی بخش)۔ الرافعی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۷۵۸ اللہم عافنی فی قدر تک، وأدخلنی فی رحمتک، واقض أجلي فی طاعتک، واختم لی بخیر عملی، واجعل ثوابه الجنة.

ترجمہ:..... اے اللہ! مجھے اپنی تقدیر میں عافیت والا کر، اپنی رحمت میں داخل کر، میری زندگی کا چراغ اپنی اطاعت میں گل کر، میرا خاتمہ میرے سب سے اچھے عمل پر کر اور اس کا ثواب جنت بنا۔ السنن للبیہقی، ابن عساکر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۷۵۹ اللہم آمن روعتی، واستر عورتی، واحفظ أمانتی واقض دینی

ترجمہ:..... اے اللہ! میرے خوف کو امن دے، میرے عیب کو پردہ دے، میری امانت کو حفاظت دے اور میرے قرض کو ادا بھیج دے۔

ابن مند، ابونعیم عن حنظلہ بن علی الاسلمی مرسلأ

۳۷۶۰ اللہم انی أسألك باسمک الطاهر الطیب المبارک الأحب الیک، الذی اذا دعیت به أجتب، واذا سئلت به أعطیت، واذا استرحت به رحمت واذا استفرجت به فرجت.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیرے پاکیزہ، طیب بابرکت اور تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں، جس کے ساتھ تجھے جب بھی پکارا جائے تو جواب دیتا ہے، جب سوال کیا جائے تو عطا کرتا ہے، جب تجھ سے رحمت طلب کی جائے تو تو رحم کرتا ہے اور جب تجھ سے کشادگی طلب کی جائے تو کشادگی کرتا ہے۔ ابن ماجہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۷۶۱ اللہم متعنی بسمعی وبصری، واجعلهما الوارث منی.

ترجمہ:..... اے اللہ! مجھے میری شنوائی اور بینائی سے نفس اٹھانے کی توفیق دے اور ان کو میرا وارث بنا۔ الکبیر للطبرانی عن عبد اللہ بن الشخیر

۳۷۶۲ اللہم لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ.

ترجمہ:..... اے اللہ! تیرے ہی لئے حمد، حمد کثیر طیب اور مبارک۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن ابن ابی اوفیٰ

۳۷۶۳ اللہم انی أعوذ بک من الهم والكسل وعذاب القبر.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم سے، سستی سے، اور عذاب قبر سے۔ ترمذی حسن غریب عن ابی بکرہ

۳۷۶۴ اللہم أقسم لنا من خشيتک ما تحول به بیننا وبين معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهنون علينا مصیبات الدنیا ومتعنا بأسماءنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيیتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ولا تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا یرحمنا.

ترجمہ:..... اے اللہ! ہمیں اپنی ایسی خشیت عطا کر جس کی وجہ سے تو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، ہمیں اپنی ایسی اطاعت نصیب کر جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، ایسا یقین دے جس کے ساتھ تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں آسان کر دے اور ہمیں ہمارے کانوں، آنکھوں اور ہماری طاقت کے ساتھ نفع دے جب تک تو ہم کو زندہ رکھے۔ اور ان کو ہمارا وارث بنا (کہ جب عمر خیر آجائے تو یہ درست حالت پر کام کرتے رہیں) اے اللہ! جو ہم پر ظلم کرے ہمارا انتقام اس میں دکھا، ہمارے دشمن پر ہماری مدد فرما، ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں نہ کر، دنیا کو سب سے بڑی فکر اور علم کی انتہاء نہ کر اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں۔

ابن المبارک، ترمذی، حسن، ابن السنی فی عمل یوم وليلة، مستدرک الحاکم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۷۶۵ اللہم رب جبریل ومیکائیل، ورب اسرافیل، أعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر.

ترجمہ:..... اے اللہ! اے جبریل، میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے۔

مصنف ابن ابی شیبہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا

روایت حسن غریب ہے۔

۳۷۶۲ اللہم انی أعود بک من الشیطان الرجیم وهمزہ و نفخہ و نفشہ۔
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے کچھ کے لگانے سے، اس کے پھونکنے اور تھوکنے سے۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابن ماجہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۷۶۷ اللہم حبیب الموت الی من یعلم انی رسولک۔

ترجمہ:..... اے اللہ! موت ہر اس شخص کے لئے محبوب چیز بنا دے جس کو معلوم ہو کہ میں تیرا رسول ہے۔

الکبیر للطبرانی عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ

۳۷۶۸ اللہم انک تأخذ الروح من بین العصب والقصب والانامل، اللہم اعنی علی الموت، وھونہ علی۔

ترجمہ:..... اے اللہ! تو موت کو کھینچ نکالتا ہے پٹھوں، ہڈیوں اور انگلیوں کے درمیان سے۔ اے اللہ! میری موت پر مدد فرما اور اس کو میرے

لئے آسان کر دے۔ ابن ابی الدنیا فی ذکر الموت عن طعمة بن غیلان الجعفی

کلام:..... طعمہ بن غیلان الجعفی یہ کوئی ہیں اور امام ابن حبان نے ان کو ثقات میں شمار فرمایا ہے۔ تہذیب الہذیب ۱۳/۵

۳۷۶۹ اللہم انی أسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت، عفت، امانت داری، حسن اخلاق اور تقدیر پر رضامندی کا۔

ھناد البزار، الخرائطی فی مکارم الاخلاق. الکبیر للطبرانی عن ابن عمرو ابن قانع عن زید بن خارجه

۳۷۷۰ اللہم انی اعیذھم بک من الکفر والضلالة والفقر الذی یصیب بنی آدم۔

ترجمہ:..... اے اللہ! میں ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کفر سے، گمراہی سے، اور بنی آدم کو پتھنچنے والے فقر و فاقہ سے۔

الکبیر للطبرانی عن بلال بن سعد عن ابیہ

۳۷۷۱ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة، ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا کله، قیل زدنا قال

أو لیس قد جمعنا الخیر۔

ترجمہ:..... اے اللہ! ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سے راضی ہو جا، اور ہم سے (نیکیوں کو) قبول فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما،

جہنم سے نجات دے اور ہمارے تمام حالات درست فرما۔ کس نے کہا ہمارے لئے اور دعا کر دیجیے! فرمایا: کیا ہم نے تمام بھلائیوں کو جمع

نہیں کر لیا۔ مسند احمد، ابن ماجہ، الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۷۷۲ اللہم اغفر لی ذنوبی وخطای و عمدی، اللہم انی استھدیک لأرشد امری وأعود بک من شر نفسی۔

ترجمہ:..... اے اللہ! میرے تمام گناہوں کو معاف فرما بھول چوک کے ساتھ مجھ سے سرزد ہوئے ہوں یا میں نے جان بوجھ کر کیے ہوں۔

اے اللہ! میں اپنے کام میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن عثمان بن ابی العاص و اسرأة من فزیش

۳۷۷۳ اللہم انی أعود بوجھک الکریم واسمک العظیم، من الکفر والفقر۔

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیرے کریم چہرے اور تیرے عظیم نام کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں کفر اور فقر سے۔

الکبیر للطبرانی فی السننہ عن عبدالرحمن بن ابی بکر

۳۷۷۴ اللہم انصرنی علی من بغی علی وأرنی تآری ممن ظلمنی وعافنی فی جسدی، ومتعنی بسمعی وبصری،

واجعلھما الوارث منی۔

ترجمہ:..... اے اللہ! میری مدد فرما اس شخص پر جو مجھ پر زیادتی کرے، میرا قصاص اس شخص میں دکھا جو مجھ پر ظلم کرے، مجھے میرے جسم میں

تندرستی و عافیت دے، میری شنوائی اور بینائی کے ساتھ مجھے فائدہ دے اور ان کو میرا وارث بنا (کہ بڑھاپے میں یہ صحیح رہیں)۔

البوریدی عن سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ

۳۷۷۵ . اللهم انى أعوذ بك من الصمم والبكم، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، وأعوذ من موت النعم. وأعوذ بك من موت الهرم وأعوذ بك من موت الهدم، وأعوذ بك من الجوع، فانه ينس الضجيع. وأعوذ بك من الخيانة، فانه ينس البطانة.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بہرے پن سے، گونگے پن سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے اور تاوان میں پڑنے سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں لا چاری و بڑھاپے کی موت سے، میں پناہ مانگتا ہوں دب کر مرنے سے، تیری پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، بے شک وہ برا نہا سکتی ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں خیانت سے وہ اندر کا برا سا سکتی ہے۔ ابن النجار عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۷۶ . اللهم زيني بالعلم، وأكرمني بالتقوى، وجملني بالعافية.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے علم کے ساتھ مزین کر، تقویٰ کے ساتھ عزت دے اور عافیت کے ساتھ خوبصورت کر۔

ابن النجار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۷۷۷ . اللهم انى أسألك التوفيق لمحابيك من الاعمال وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے اپنے محبوب اعمال کی توفیق دے، اپنی ذات پر سچا بھروسہ دے اور اپنی ذات کے ساتھ مجھے ہمیشہ نیک گمان رکھ۔

محمد بن نصر، حلیۃ الاولیاء عن الاوزاعی، مرسلًا، الحکیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۷۸ . اللهم انى أعوذ بك من فتنة النار، ومن عذاب القبر، ومن شر الغنى والفقر.

ترجمہ: اے اللہ! میں جہنم کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے اور مالداری و فقر کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

ابوداؤد عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۷۷۹ . اللهم انى أعوذ من الأربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعا لا يسمع.

ترجمہ: اے اللہ! میں چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں: ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو عا بزی نہ کرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۸۰ . اللهم انى أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردى وأعوذ بك من الغم والغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخطى الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدبراً، وأعوذ بك أن أموت لدينا.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں دب کر مرنے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں گر کر ہلاک ہونے سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے، غرق آب ہونے سے، جل جانے سے اور بڑھاپے سے۔ تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان مجھے چھوئے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تیری پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے مروں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ (بچھو وغیرہ زہریلے جانوروں کے) ڈسنے سے ہلاک ہو جاؤں۔ (مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن ابی الیاس)

۳۷۸۱ . اللهم انى أعوذ بك من الكسل والهرم، وفتنة الصدر، وعذاب القبر.

ترجمہ: اے اللہ! میں سستی سے، بڑھاپے سے، سینے کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۷۸۲ . اللهم انك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت، وانت ترى ولا ترى، وانت بالمنظر الأعلى، وأن لك الآخرة والأولى، ولك الممات والمحياء، وأن اليك المنتهى والرجعى، نعوذ بك، أن نذل ونخزي اللهم انك سألنا مرة أنفسنا ما لا نملكه الا بك، فاعطنا منها ما يرضيك عنا.

ترجمہ: اے اللہ! تو عظیم پروردگار ہے، تیری مخلوق میں سے کوئی مجھے کافی نہیں، تو سب کو دیکھتا ہے لیکن تو کسی کو دکھتا نہیں (تو کسی کو نظر نہیں آتا) ہر چیز تیرے سامنے واضح ہے، آخرت و دنیا دونوں تیرے ہاتھ میں ہیں، موت اور زندگی تیرے ہاتھ میں ہے اور تیری طرف ہر چیز کی انتہاء اور لوٹنا ہے، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم ذلت و رسوائی سے دوچار ہوں۔ اے اللہ! تو نے ہم سے ہماری جانوں کا سوال کیا ہے جن کے ہم مالک نہیں سوائے تیری توفیق اور مدد کے، پس ہمیں وہ اعمال دے جو آپ کو ہم سے راضی کر دیں۔ الدیلمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۸۳ اللہم انی أسألك بأسمائك الحسنی، ما علمت منها وما لم أعلم، وباسمک العظیم الأعظم، وباسمک الكبير الاكبر.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسماء حسنیٰ کے ساتھ مجھے معلوم ہوں یا نہیں، تیرے عظیم اسم اعظم کے ساتھ اور تیرے سب سے بڑے نام کے ساتھ۔ (پس مجھے میری اس دعا میں نامراد نہ کر)۔ الدیلمی عن انس رضی اللہ عنہ

۳۷۸۴ اللہم انی أسألك بنعمتك السابعة علی، وبلائتك الحسن الذی ابتلیتني به، وفضلک الذی فضلت علی أن تدخلني الجنة بمنک وفضلک ورحمتک.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس نعمت کے طفیل جو مجھ پر برس رہی ہیں، تیری اس آزمائش کے طفیل جس کے ساتھ تو نے میری آزمائش کی اور تیرے اس فضل کے طفیل جو تو نے مجھ پر کیا یہ کہ مجھے اپنے احسان، فضل اور رحمت کے ساتھ اپنی جنت میں داخلہ نصیب کر۔

الدیلمی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۷۸۵ اللہم انی أسألك بوجهک الکریم، وأمرک العظیم، أن تحبیرني من النار والکفر والفقر.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کریم چہرے اور تیرے عظیم امر کے ساتھ کہ مجھے جہنم سے، کفر سے اور فقر و فاقہ سے نجات دے۔ الدیلمی عن ابی بکر رضی اللہ عنہ

۳۷۸۶ اللہم انی أعودبک من موت الفجاءة و من لدغ الحية و من السبع، و من الحرق و الغرق، و من أن أخرج علی شیء، أو یخبر علی شیء، و من القتل عند فرار الزحف.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اچانک موت سے، سانپ اور درندے کے ڈسنے سے، جلنے سے، غرق آب ہونے سے، اس بات سے کہ میں کسی چیز پر گروں یا مجھ پر کوئی چیز گرے اور جنگ سے بھاگتے ہوئے قتل ہونے سے۔ مسند احمد عن ابن عمرو

۳۷۸۷ اللہم انی أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ الاوسط للطبرانی عن حابر رضی اللہ عنہ

۳۷۸۸ اللہم أنفحنی بما علمتني، و علمنی ما ینفحنی.

ترجمہ: اے اللہ! جو تو نے مجھے علم دیا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے اور مجھے اس چیز کا علم دے جو مجھے نفع دے۔

الاوسط للطبرانی عن انس رضی اللہ عنہ

۳۷۸۹ اللہم انی أسألك ایماناً دائماً، وهدیاً قیماً، وعلماً نافعاً.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے دائمی ایمان، سیدھی راہ اور علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء عن انس رضی اللہ عنہ

۳۷۹۰ اللہم انی أعودبک من شر من یمشی علی بطنه، و من شر من یمشی علی رجلین، و من شر من یمشی علی أربع.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں پیٹ کے بل ریگنے والے جانوروں کے شر سے، دو ٹانگوں پر چلنے والوں کے شر سے اور چار ٹانگوں پر چلنے والوں کے شر سے۔ الکبیر للطبرانی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۷۹۱ اللہم اغفر لی ما قدمت و ما أخرت، و ما أسررت، و ما أعلنت، و ما أنت أعلم به منی، أنت المقدم و أنت

المؤخر، لا اله الا انت.

ترجمہ: اے اللہ! میری مغفرت فرما جو مجھ سے پہلے ہوایا بعد میں ہوا، چھپ کر ہوایا اعلانیہ ہو اور تو ہی اس کو مجھ سے زیادہ بخوبی جاننے والا ہے۔ تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مسند احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۹۲ اللهم انى اعدو ذك أن أموت همأ أو عمأ، وأن أموت غرقاً، وأن يتخطبنى الشيطان، عند الموت، وأن أموت لديغاً.

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کسی رنج اور صدمے میں مرنے سے، غرق ہو کر مرنے سے، مرتے وقت شیطان کے بہکانے سے اور کسی زہریلے جانور کے ڈس کر مرنے سے۔ مسند احمد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۹۳ اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين، الغر المحجلين، الوفداً مقبلين، الغر المحجلين الوفداً المقبلين.

ترجمہ: اے اللہ! ہم کو منتخبین، الغر المحجلین، الوفداً مقبلین میں سے بنا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ! تم کس کس کو منتخبین کہتے ہو؟ فرمایا: اللہ کے پرہیزگار بندے۔ پوچھا گیا الغر المحجلین کیا ہے۔ فرمایا: وہ لوگ جن کے اعضاء وضو (قیامت میں) چمک رہے ہوں گے۔ پوچھا گیا الوفداً المقبلین کیا ہے، فرمایا: وہ لوگ جو اپنے اتہام کے ساتھ وفد کی صورت میں اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے۔ مسند احمد عن وفد عبد القیس

۳۷۹۴ اللهم انى أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذى يبلغنى حبك، اللهم اجعل حبك أحب الى من نفس وأهلى والماء البارد.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس عمل کا جو تیری محبت عطا کرے۔ اے اللہ! اپنی محبت مجھے اپنے نفس، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ کر دے۔

حلیۃ الاولیاء عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۷۹۵ اللهم آمن روعتى، واحفظ أمانتى واقض دينى.

ترجمہ: اے اللہ! میرے خوف کو امن و سکون دے، میری امانت کی حفاظت فرما اور میرے قرض کو ادا فرما۔

الخرائطى فى مكارم الاخلاق عن حنظلة بن على

۳۷۹۶ اللهم ما أعطيتنى مما أحب فاجعله قوة لى على ما تحب وما زويت عنى مما أحب فاجعله فراغاً لى فيما تحب، اللهم أعطني ما أحب واجعله خيراً، واصرف عنى ما أكره، وحبب الى طاعتك، وكره الى معصيتك.

ترجمہ: اے اللہ! جو میری پسندیدہ شئی تو نے مجھے عطا کی ہے اس کو میرے لئے قوت کا سبب بنا ان چیزوں میں جو تجھے محبوب ہیں۔ اور جو میری پسندیدہ چیز تو نے مجھ سے پھیر دی ہے اس کو فراغت کا سبب بنا ان چیزوں کے لئے جو تجھے محبوب ہیں۔ اے اللہ! میری جاہت مجھے عطا کر اور اس کو میرے لئے باعث خیر بنا، میری ناپسندیدہ چیز کو مجھ سے پھیر دے، اپنی اطاعت مجھے محبوب کر دے اور اپنی معصیت مجھے ناکوار کر دے۔

الدبلىمى عن عائشه رضی اللہ عنہا

۳۷۹۷ اللهم وفقنى لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، انك على كل شىء قدير.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے اس قول، عمل، فعل، نیت اور ہدایت کی توفیق دے جس کو تو محبوب رکھے اور اس سے تو راضی ہو۔ (بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے)۔ الدبلىمى عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۷۹۸ اللهم أشرب الايمان قلبى، كما أشربته روحى، ولا تعدب شيئاً من خلقى بشىء كتبت على، فانك قادر على

ترجمہ: اے اللہ! ایمان کو میرے دل میں یوں بسا دے جس طرح میری روح تو نے اس میں بسا رکھی ہے اور کسی چیز پر جو تو نے میرے لئے لکھ دی ہے مجھے عذاب نہ دے بے شک تو مجھ پر پوری طرح قادر ہے۔ الدبلىمى عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۷۹۹ اللهم أعوذ بک من حال أهل النار.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں اہل جہنم کے حال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ الخرائطی فی مکارم الاخلاق عن عمران بن حصین

۳۸۰۰ اللهم انی أعوذ بک من الکسل والهرم والمغرم والمائم وأعوذ بک من فتنة الدجال، وأعوذ بک من عذاب القبر، وأعوذ بک من عذاب النار.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی، بڑھاپے سے، چٹی اور گناہ سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دجال کے فتنے سے، تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ الخرائطی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۸۰۱ اللهم ارزقنا من فضلک، ولا تحرمننا رزقک، وبارک لنا فیما رزقتنا، واجعل غنانا فی أنفسنا، واجعل رغبتنا فیما عندک.

ترجمہ:..... اے اللہ! ہمیں اپنا فضل عطا کر، اپنے رزق سے محروم نہ کر، جو رزق تو نے ہم کو دیا ہے اس میں برکت ڈال، ہمارے دلوں کو مالدار بنا اور ہماری رغبت و حرص اس چیز میں کر جو تیرے پاس ہے۔ حلیۃ الاولیاء السنن لسعید بن منصور عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۸۰۲ اللهم لاتجعل قبری وثناً یصلی الیہ، فانه اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاءہم مساجد.

ترجمہ:..... اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، بے شک اللہ کا غضب اس قوم پر سخت ہوا ہے جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ عبدالرزاق عن زید بن اسلم مرسلًا

۳۸۰۳ اللهم باعد بینی وبين خطایای، کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم نقنی من الخطایا، کما یقنی الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنی بالماء والثلج والبرد.

ترجمہ:..... اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس قدر دوری کر دے، جس قدر تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری فرمائی ہے۔ اے اللہ! مجھے خطاؤں سے یوں صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۰۴ اللهم انی أسألك علماً نافعاً، وأعوذ بک من علم لا ینفع.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔

ابن ماجہ، ابن حبان، لاسنن لسعید بن منصور، الاوسط للطبرانی عن جابر، الاوسط للطبرانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۰۵ اللهم اغفر لی ذنبی کله، دقة وجله، سره وعلايته اوله و آخره.

ترجمہ:..... اے اللہ! ہلکے، بڑے، پوشیدہ، اعلانیہ اول و آخر میرے تمام گناہ معاف کر دے۔ حلیۃ الاولیاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۰۶ اللهم طهرنی بالثلج والبرد، والماء البارد، اللهم طهر قلبی من الخطایا کما طهرت الثوب الابيض من الدنس، وباعد بینی وبين ذنوبی کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللهم انی أعوذ بک من قلب لا ینشع،

ونفس لا تشبع، ودعاء لا یسمع، وعلم لا ینفع، اللهم انی أعوذ بک من هؤلاء الاربعة، اللهم انی أسألك عیشة نقیة ومیتة سویة ومرداً غیر مخزی.

ترجمہ:..... اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی سے دھو دے، اے اللہ! میرے دل کو خطاؤں سے یوں دھو دے، جس طرح تو نے سفید کپڑوں کو میل کچیل سے دھو دیا، میرے اور گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ تو مشرق اور مغرب کے درمیان کر دیا ہے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خاشع نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسی دعا سے جو سموع نہ ہو اور ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ اے اللہ! میں تیری ان چار چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے صاف ستھری زندگی، آسان موت اور ایسے

حساب کتاب کا سوال کرتا ہوں جس میں کوئی رسوائی اور زلت نہ ہو۔ مسند احمد، عن عبد اللہ بن ابی اوفی

۳۸۰۷۔ اللہم ان قلوبنا وجوارحنا بیدک، لم تملکنا منها شیئاً فاذا فعلت ذلک بها فکن أنت ولیها۔
ترجمہ:..... اے اللہ! ہمارے قلوب اور اعضاء تیرے ہاتھ میں ہیں، تو نے ان میں سے کسی چیز کا ہم کو مالک نہیں بنایا پس جب تو ہی ان کا مالک ہے تو ان کی نگہبانی فرما۔ مسند احمد، عن عبد اللہ بن ابی اوفیٰ

۳۸۰۸۔ اللہم انی استغفرک و أتوب الیک، فتب علی انک أنت التواب الغفور۔
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں پس میری توبہ قبول فرما بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ السنن للدارقطنی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۸۰۹۔ اللہم انی أسألك الهدی والتقی والعفاف والغنی۔
ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور مالداری کا سوال کرتا ہوں۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، مسلم، ترمذی عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۳۸۱۰۔ اللہم لا تجعل لفاعجر عندی نعمة أكافیہ بها فی الدنيا والآخرة۔
ترجمہ:..... اے اللہ! کسی فاجر کی مجھ پر کوئی نعمت اور نیکی نہ ہونے دے جس کا بدلہ مجھے دنیا و آخرت میں دینا پڑے۔ الدیلمی عن معاذ

۳۸۱۱۔ اللہم انفعنی بما علمتني، و علمنی ما ینفعنی، و ارزقنی علماً ینفعنی۔
ترجمہ:..... اے اللہ! تو نے جو مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے نفع دے، جو مجھے نفع دینے والی چیز ہے وہ سکھادے اور مجھے ایسا علم مرحمت فرما جو مجھے نفع دے۔ مستدرک الحاکم عن انس رضی اللہ عنہ

۳۸۱۲۔ اللہم انی أسألك موجبات رحمتک، و عزائم مغفرتک و السلامة من کل اثم، و الغنیمۃ من کل بر، و الفوز با لجنہ، و النجاة من النار

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری رحمت کو واجب کرنے والے اسباب، تیری مغفرت کو یقینی بنانے والے اسباب، ہر گناہ سے سلامتی، ہر نیکی کا حصول، جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔ مستدرک الحاکم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۸۱۳۔ اللہم اجعل حبک أحب الأشياء الی، و اجعل خشیتک أخوف الأشياء عندی۔ واقطع عنی حاجات الدنيا

بالشوق الی لقائک و اذا أقررت أعین اهل الدنيا من دنياهم، فافر عینی من عبادتک۔
ترجمہ:..... اے اللہ! اپنی محبت مجھے تمام محبوب چیزوں سے زیادہ کر دے، اپنے خوف کو تمام چیزوں سے زیادہ خوفزدہ کر دے، تیری ملاقات کے شوق سے دنیا کی تمام خواہشات مجھ سے ختم کر دے، اور جب تو اہل دنیا کی آنکھیں ان کی دنیا کے ساتھ ٹھنڈی کرے تو میری آنکھیں اپنی عبادت سے ٹھنڈی کر دے۔ حلیۃ الاولیاء عن الہیثم بن مالک الطائی

۳۸۱۴۔ اللہم حاسبنی حساباً یسیراً، قیل ما الحساب الیسیر؟ قال: ینظر فی کتابہ و یتجاوز عنہ، انه من نوقش الحساب یومئذ ھلک و کل ما ینصیب المؤمن کفر اللہ عنہ من سیئاتہ حتی الشوكة تشوکه۔

ترجمہ:..... اے اللہ! مجھ سے آسان حساب لے! پوچھا گیا آسان حساب کیسا ہے؟ فرمایا: پس اس کی کتاب (اعمال نامہ میں دیکھا جائے گا) اور اس سے درگزر کر دیا جائے گا۔ ورنہ اس دن جس سے پوچھنا چھ کی گئی وہ ہلاک ہو گیا اور ہر تکلیف جو مؤمن کو آتی ہے، اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر اس کو کاٹنا چھ جائے تب بھی۔

مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیہقی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۸۱۵۔ اللہم جنبنی منکرات الأعمال و الاخلاق و الاھواء و الادواء۔
ترجمہ:..... اے اللہ! مجھے برے کاموں، برے اخلاق، خواہشات (نفسانی) اور بیماریوں سے محفوظ فرما۔

الحکیم، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن زیاد بن علاقہ عن عمہ

۳۸۱۶ اللہم اغفر لی ما أخطأت، وما عمدت، وما أسرت وما أعلنت وما جهلت.

ترجمہ:..... اے اللہ! جو گناہ مجھ سے بھول چوک سے سرزد ہوئے، جو گناہ جان بوجھ کر کیے، جو گناہ چھپ کر کیے یا اعلانیہ کیے اور جو گناہ جہالت کی وجہ سے کیے سب کو معاف فرما۔ الکبیر للطبرانی عن عمران بن حصین

۳۸۱۷ اللہم انی أعودبک من الشک بعد الیقین، وأعودبک من شر الشیطان الرجیم، وأعودبک من عذاب یوم الدین.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں یقین کے بعد شک میں پڑنے سے، تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قیامت کے دن کے عذاب سے۔ ابن صمری فی امالیہ عن البراء رضی اللہ عنہ

۳۸۱۸ اللہم انی أعودبک من العجز والکسل والجبن والبخل والہرم والقسوة والغفلة والعیلة والذلة، وأعودبک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والریاء، وأعودبک من الصمم والبکم والجنون والجذام والبرص وسیء الأسقام.

ترجمہ:..... اے اللہ! مجھے اپنی پناہ میں رکھ عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، کجی سے، بڑھاپے سے، قساوت قلبی سے، غفلت سے، اہل وعیال کے بوجھ سے، اور ذلت کا شکار ہونے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں فقر وفاقہ سے، کفر و فسوق سے، نزاع اور اختلاف سے، نفاق سے، ریا اور دکھاوے سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بہرا ہونے سے، گونگا ہونے سے، جنون سے، جذام سے برص سے اور تمام بری بیماریوں سے۔

مستدرک الحاکم، السنن للبخاری عن انس رضی اللہ عنہ

۳۸۱۹ اللہم انی أسألک غنای وغنی مولای.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے اپنے اور اپنے مالک کے مالدار ہونے کا سوال کرتا ہوں۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن ابی حرمہ

۳۸۲۰ اللہم أنت الأول لاشیء قبلک، وأنت الآخر لاشیء بعدک، أعودبک من شر کل ذابۃ ناصبتھا بیدک، وأعودبک من الاثم والکسل، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر، ومن فتنۃ الغنی وفتنۃ الفقر، وأعودبک من المأثم والمغرم، اللہم نق قلبی من الخطایا کما نقت الثوب الابيض من الدنس، اللہم بعد بینی وبين خطیبتی، کما بعدت بین المشرق والمغرب، هذا ما سأل محمد ربه، اللہم انی أسألک خیر المسأله وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات، وثبتتی وثقل موازینی، وحقق ایمانی، وارفع درجتی وتقبل صلاتی، واغفر خطیبتی، وأسألک الدرجات العلی من الجنة آمین اللہم انی أسألک فواتح الخیر وخواتمه وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلی من الجنة آمین، اللہم نجنی من النار، ومغفرة باللیل والنهار، والمنزل الصالح من الجنة آمین، اللہم انی أسألک خلاصاً من النار سالماً، وادخلنی الجنة آمناً، اللہم انی أسألک أن تبارکت لی فی نفسی وفی سمعی وفی بصری وفی روحی وفی خلقی وفی خلقی وأهلکی وفی منجیای ومماتی، اللہم وتقبل حسناتی، وأسألک الدرجات العلی من الجنة آمین.

ترجمہ:..... اے اللہ! تو ہی سب سے پہلے تھا تجھ سے پہلے کچھ نہ تھا، تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ سے، سستی سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، مالدار کی فتنے سے، اور فقر کے فتنے سے، اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہ اور جہنم کے جگہ سے۔ اے اللہ! میرے دل کو خطاؤں سے یوں صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا۔ اے اللہ! میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کر دیا ہے۔ انہی چیزوں کا محمد نے اپنے رب سے سوال کیا ہے۔

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اچھی چیز کا، اچھی دعا کا، اچھی کامیابی کا، اچھے عمل کا، اچھے ثواب کا، اچھی زندگی اور اچھی موت کا۔ (اے اللہ!) مجھے ثابت قدم رکھ، میرے پلڑے کو بھاری کر، میرے ایمان کو مضبوط کر، میرے درجہ کو بلند کر، میری نماز کو قبول کر اور میری خطاؤں کو بخش دے۔ (اے اللہ!) میں تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجات کا سوال کرتا ہوں آمین۔

اے اللہ! میں تجھ سے خیر کو کھولنے والے اسباب، خیر کو مکمل کرنے والے اسباب اور خیر کے جامع اسباب کا سوال کرتا ہوں، نیز خیر کے اول اور خیر کے ظاہر و باطن کا اور جنت کے اعلیٰ درجات کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! مجھے جہنم سے نجات دے، دن و رات کی مغفرت دے اور جنت میں اچھا ٹھکانہ دے۔ اے اللہ! مجھے جہنم سے سلامتی کے ساتھ چھٹکارا دے، اور جنت میں امن کے ساتھ داخلہ دے۔

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری جان میں، میرے سننے میں، میرے دیکھنے میں، میری روح میں، میری خلقت میں، میرے اخلاق میں، میرے اہل میں، میری زندگی میں اور میری موت میں برکت دے۔ اے اللہ! میری نیکیوں کو قبول فرما اور مجھے جنت میں اعلیٰ درجے نصیب فرما۔ الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا

۳۸۲۱ اللهم انى اعود بک من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والعجب، و ضلع الدين، وغلبة الرجال . ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے، عاجزی و سستی سے، بزدلی و کجوسی سے اور قرض کے کمر توڑنے اور لوگوں کے بھوم کرنے سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی حسن غریب عن انس رضی اللہ عنہ

۳۸۲۲ اللهم اجرني من النار وويل لأهل النار . ترجمہ: اے اللہ! مجھے جہنم سے پناہ دے، بے شک اہل جہنم کے لئے ہلاکت و بربادی ہے۔

ابن قانع، ابو نعیم عن عبدالرحمن بن ابی لیلی عن ابیہ

۳۸۲۳ اللهم أسألك عيشة نقيّة وميتة سوية، ومرداً غير مخزى ولا فاضح . ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے صاف تھری زندگی، اچھی موت اور ایسے حشر کا سوال کرتا ہوں جس میں نہ رسوائی ہو اور نہ فضیحت۔

الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۸۲۴ اللهم أنت أمرت بالدعاء وتكفلت بالاجابة، ليك اللهم لييك، لييك لا شريك لك لييك، ان الحمد والنعمة والملك، لا شريك لك أشهد انك فرد واحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وأشهد ان وعدك حق، ولقاءك حق، والجنة حق، والنار حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها وانك تبعث من في القبور .

ترجمہ: اے اللہ! تو نے دعا کا حکم فرمایا اور قبولیت اپنے ذمہ لی، سو ہم حاضر ہیں اے اللہ! ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تمام نعمتیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ساری سلطنت آپ کی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو تہا ذات ہے، بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اس کو جنم دیا گیا اور نہ اس کا کوئی ہم سر ہے۔

اے اللہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ برحق ہے، تیری ملاقات برحق ہے، جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور بے شک تو قبروں میں پڑے مردوں کو دوبارہ جی اٹھائے گا۔ (ابن ابی الدنیانی الدعاء، ابن مردودہ فی الاسماء والصفات، الاصبہانی فی الترغیب عن جابر رضی اللہ عنہ) اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

۳۸۲۵ اللهم متعني من الدنيا بسمعي وبصري وعقلي . ترجمہ: اے اللہ! مجھے (جب تک میں دنیا میں ہوں) میرے سننے دیکھنے اور میری عقل کو سلامت رکھ!

شعب الایمان للبيهقي، ضعيف عن جرير

۳۸۲۶ اللهم أصلح لي سمعي وبصري .

ترجمہ: اے اللہ! میرے سننے اور دیکھنے کی اصلاح فرما۔ الادب المفرد للبخاری عن جابر رضی اللہ عنہ

۳۸۲۷ اللہم امتعنی بسمعی وبصری وعقلی، واجعله الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی، وأرنی منه ثاری.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے میرے کانوں، میری آنکھوں اور میری عقل کے ساتھ نفع دے اور ان کو میرا وارث بنا (کہ مرتے وقت تک سلامت

رہیں) اور میری مدد فرما اس شخص پر جو مجھ پر ظلم کرے اور میرا انتقام اس میں ظاہر کر۔ الافراد للدارقطنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۲۸ اللہم امتعنی بسمعی وبصری حتی تجعلهما الوارث منی وعافنی فی دینی وفی جسدی وانصرنی

ممن ظلمنی حتی ترینی منه ثاری اللهم انی أسلمت نفسی الیک، وفوضت امری الیک وألجأت ظہری

الیک وخلیت وجہی الیک، لاملجأ ولا منجأ منک الا الیک، آمنت برسولک الذی أرسلت وبکتابک

الذی أنزلت.

ترجمہ: اے اللہ! مجھے میری شنوائی اور بینائی کے ساتھ نفع اندوز کر حتیٰ کہ ان کو میرا وارث کر دے۔ مجھے میرے دین اور میرے جسم میں

عافیت و سلامتی دے میری مدد فرما ان لوگوں سے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا حتیٰ کہ ان میں انتقام کا نشان دکھا۔ اے اللہ! میں اپنی جان تجھے

سونپتا ہوں، اپنا کام تجھے سپرد کرتا ہوں، تیری طرف اپنی ٹیک لگاتا ہوں اور اپنا چہرہ یکسوئی کے ساتھ تیری طرف کرتا ہوں۔ تجھ سے بھاگ کر کوئی

ٹھکانہ ہے اور نہ نجات کی جگہ مگر تیرے ہی پاس میں تیرے رسول پر ایمان لایا جس کو تو نے مبعوث کیا اور تیری کتاب پر ایمان لایا جس کو تو نے

نازل کیا۔ مستدرک الحاکم عن علی رضی اللہ عنہ

۳۸۲۹ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے محمد! میں آپ کے پاس ایسے کلمات لے کر آیا ہوں جو پہلے کسی کے پاس

نہیں لایا۔ پس یہ کہہ:

یا من أظہر الجمیل وستر القبیح، ولم یؤاخذ بالجریرة، ولم یہتک الستر یا عظیم العفو والصفح،

ویا صاحب کل نجوی. ویامنہ کل شکوی. ویامنہ النعم قبل استحقاقها یاربنا ویاسیدنا ویامنہ

أمنیانا ویامنہ رغبتنا أسألک أن لا تشوہ خلقی بالنار.

”اے وہ ذات جس نے خوبصورت کو باہر کیا اور قبیح و بدصورت کو چھپایا۔ (گناہ کی) جرأت پر مؤخذہ نہیں کیا اور پردہ کو چاک نہیں

کیا۔ اے عظیم معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے: اے ہر سرگوشی کو جاننے والے! اے ہر شکایت کو پہنچنے والے! اے

نعمتوں کے سرچشمے! اے ربا! اے سردار! اے میری امید! اے سب سے آخری خواہش! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے جسم کو

آگ پر نہ بھون۔“ الدیلمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۳۰ اے لوگو! کیا تم چاہتے ہو کہ خوب دعا کرو پس تم یہ دعا کرو:

اللہم اعنا علی شکرک و ذکرک وحسن عبادتک۔

اے اللہ! اپنے شکر پر، اپنے ذکر پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد کر۔

مستدرک الحاکم، حلیۃ الاولیاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۳۱ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو یہ کلمات سکھا دیتے ہیں پھر اس کو یہ کلمات بھلاتے نہیں:

اللہم انی ضعیف فقوفی رضاک ضعفی، وخذ الی الخیر بنا صیتی، واجعل الاسلام منتہی رضای

وبلغنی برحمتک الذی أرجو من رحمتک.

اے اللہ! میں ضعیف ہوں پس اپنی رضا مندی میں میرے ضعف کو قوی فرما۔ میری پیشانی خیر کی طرف کھینچ، اسلام کو میری

خوشی کی انتہا بنا اور مجھے اپنی رحمت عطا فرما جس کی میں امید رکھتا ہوں۔ الافراد للدارقطنی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۸۳۲ اللہم انی ضعیف فقوننی وذلیل فاعزنی، وفقیر فاعننی وارزقنی.

ترجمہ: اے اللہ! میں ضعیف ہوں مجھے قوی کر، میں ذلیل ہوں مجھے عزت دے اور میں فقیر ہوں مجھے مالدار کر اور رزق دے۔

ابن عساکر عن البراء رضی اللہ عنہ

۳۸۳۳... اے ماموں! بیٹھ جاؤ۔ بے شک ماموں بھی والد ہے۔ اے ماموں! کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو وہ کلمات سکھا دیتے ہیں۔ پس یہ کیجیے:

اللهم انی ضعیف فقوفی رضاک ضعفی وخذالی الخیر بناصیتی، واجعل الاسلام منتھی رضای

وبلغنی برحمتک الذی أرجو من رحمتک، الافراد للدارقطنی عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۸۳۴... میں تجھے پانچ ہزار نیکیاں دوں یا تجھ کو پانچ کلمات سکھاؤں جن میں تیرے دین اور تیری دنیا کی بھلائی ہے۔ یوں کہو:

اللهم اغفر لی ذنبی، ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی وقلنی بما رزقتنی، ولا تذهب طیبی الی شیء صرفتہ عنی.

”اے اللہ! میرے گناہ معاف فرما، میرے اخلاق کشادہ کر، میرا ذریعہ معاش پاکیزہ کر، جو رزق تو نے مجھے دیا ہے اس پر مجھے

قناعت پسند کر اور مجھے ایسی چیز کی طلب میں نہ لگا جو تو نے مجھ سے پھیر دی ہے۔“ ابن النجار عن علی رضی اللہ عنہ

۳۸۳۵ افضل دعا لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ذکر الحمد للہ ہے۔ شعب الایمان للبیہقی، ابن النجار

۳۸۳۶ ایک شخص یا ارحم الراحمین کے ساتھ خوب گزر گیا، اس کو نداء دی گئی میں نے تیری پکار سن لی تیری کیا حاجت ہے؟

ابو الشیخ فی التواب عن ابی ہزیرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۳۷ یہ دعا لازم پکڑو:

اللهم انی استلک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر۔

اے اللہ! میں تجھ سے تیرے اسم اعظم اور تیری رضائے اکبر کے ساتھ سوال کرتا ہوں (پھر دعا کرے) بے شک یہ اللہ کے اسماء میں

سے ایک (اہم) اسم ہے۔

البغوی الباوردی، ابن قانع، الکبیر للطبرانی، ابوبکر الشافعی فی الغیلانیات عن ابی مرثد بن کنانہ عن خلیفہ عن حمزہ بن عبدالمطلب

۳۸۳۸ جبرئیل علیہ السلام بڑی اچھی صورت میں ہنستے مسکراتے ہوئے آئے اس طرح پہلے کبھی نہ آئے تھے اور فرمایا: السلام علیک یا محمد! میں

نے کہا: وعلیک السلام یا جبرئیل! جبرئیل علیہ السلام نے کہا: اللہ عزوجل نے مجھے ایک تحفہ دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں نے کہا: اے جبرئیل

علیہ السلام! کیا ہے وہ ہدیہ؟ فرمایا: وہ عرش کے نیچے کے خزانے کے کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ آپ کو معزز فرمایا ہے۔ میں نے کہا: وہ

کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا:

یا منن اظہر الجمیل وستر القبیح یا من لا یواخذ بالجریرة، ولا یهتک الستریا عظیم العفو، یا حسن

التجاوز، یا واسع المغفرة، یا باسط الیدین بالرحمة، یا صاحب کل نجوی، ویا منتھی کل شکوی،

یا کریم الصفح، یا عظیم المن یا مبتدی، یا نعم قبل استحقاقها، یا ربنا، یا سیدنا، یا مولانا، ویا غایة

رغبتنا أسألک یا اللہ ان لا تشوی.

”اے وہ ذات جس نے اچھی شی کو ظاہر کیا اور قبح کو چھپا لیا، اے وہ ذات جس نے گناہ پر مواخذہ نہ کیا اور پردہ کو چاک نہیں کیا

اے عظیم معاف کرنے والے! اے بہترین تجاوز کرنے والے! اے وسیع مغفرت والے! اے رحمت بھرے دونوں ہاتھ

پھیلانے والے! اے ہر ایک سرگوشی کرنے والے کے ساتھی! اے ہر شکوہ کی انتہاء! اے کریم درگزر کرنے والے! اے عظیم

احسان کرنے والے! اے پیغمبر حق کے انعام کرنے والے! اے ہمارے رب! اے ہمارے سردار! اے ہمارے مولا! اے

ہماری آخری رغبت! اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے آگ کا عذاب مت دے۔ میں نے کہا ان کلمات کا ثواب

(غالباً روایت آگے بھی ہے لیکن یہاں متروک ہے)۔ مستدرک الحاکم عن ابن عمرو

اس روایت پر ضعیف کے حوالہ کلام کیا گیا ہے۔

۳۸۳۹۔ ایک فرشتہ ہر اس شخص پر مقرر ہے جو بھی تین بار یا رحم الراحمین کہے تو فرشتہ کہتا ہے: ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو چکے ہیں لہذا اپنا

سوال کر۔ مستدرک الحاکم عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۸۴۰۔ اللہ تعالیٰ کا ایک سمندر ہے نور سے بھرا ہوا۔ اس کے گرد و پیش نور کے ملائکہ ہیں جو نور کے پہاڑوں پر (متمکن) ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں نور سے لبریز ڈول ہیں۔ وہ ملائکہ اس سمندر کے پاس اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ میں تسبیح کرتے رہتے ہیں:

سبحان ذی الملک و الملکوت، سبحان ذی العزۃ و الجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبح

قدوس رب الملائکة و الروح.

پاک ہے ملک اور ملکوت والی ذات، پاک ہے عزت اور طاقت والی ذات، پاک ہے وہ زندہ جو کبھی مرے گا نہیں، وہ نرپاک ہے

(بذات خود) مقدس ہے، ملائکہ اور روح (امین جبریل علیہ السلام) کا پروردگار ہے۔

جس شخص نے یہ کلمات دن میں، یا مہینے میں، یا سال میں، یا ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کہے لے اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے سب گناہ

مخاف فرما دے گا خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا وہ جنگ سے بھاگا ہو۔

الدیلمی عن انس رضی اللہ عنہ

کلام:..... التقریہ ۳۲۶/۲ ذیل الملکی ۱۴۷۔

فرشتوں کی دعا

۳۸۴۱۔ کسی مقرب فرشتے نے دعا مانگی اور نہ کسی نبی مرسل نے مگر اس نے اپنی دعا میں ضروریہ کہا:

اللهم بعلمک الغیب و بقدرتک علی الخلق، أحنینی ما علمت الحیاة خیراً لی، و توفنی اذا علمت الوفاة خیراً لی، و أسألك خشیتک فی الغیب و الشهادة، و کلمة الحکم فی الغضب و الرضا، و القصد فی الفقر و الغنی و أسألك نعیماً دائماً لا ینفد، و قرۃ عین لا ینقطع، و برداً للعیش بعد الموت و أسألك النظر الی وجهک الکریم و الشوق الی لقاءک فی غیر ضراء مضرۃ و لا فتنة مضلة، اللهم زینا بزینة الایمان و اجعلنا هدایة مهتدین.

”اے اللہ! تیرے غیب کو جاننے اور مخلوق پر قادر ہونے کے سبب تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو اور جب تو جانے کے موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دیدے۔ اور میں تجھ حالت غائب میں اور حالت حضوری میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں غصہ اور خوشی ہر حالت میں کلمہ انصاف کا سوال کرتا ہوں فقر اور مالداری ہر حالت میں اعتدال پسندی اور میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو، ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو منقطع نہ ہو، موت کے بعد اچھی زندگی کا سوال کرتا ہوں، تیرے کریم کو دیکھنے کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں جو بغیر کسی ضرر رساں تکلیف اور بغیر کسی گمراہ کن فتنے کے شوق ہو۔ اے اللہ! ہم کو ایمان کے ساتھ مزین کر اور ہم کو

ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔“ ابن عساکر عن عمار بن یاسر

۳۸۴۲۔ میرا ارادہ ہو رہا ہے کہ تجھے چند کلمات کا تحفہ دوں، جن کا تو رحمن سے سوال کرے اور رحمن سے ان کلمات کی قبولیت کی امید رکھے اور

دن رات تو ان کو اپنی دعا میں کہا کرے:

یوں کہتے:

اللهم انى أسألك صحة فى ايمان، و ايماناً فى حسن خلق، و نجاحاً يتبعه فلاح و رحمة منك و عافية و مغفرة منك و رضواناً.

اے اللہ! میں تجھ سے (حالت) ایمان میں صحت کا سوال کرتا ہوں، حسن اخلاق کے ساتھ ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسی کامیابی کا سوال کرتا ہوں جنہم سے نجات، میری رحمت، تیری عافیت و مغفرت اور تیری رضاء مندی مجھے حاصل ہو جائے۔

مستدرک الحاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۲۳... اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے کھجور کے ایک و سق (ایک سو بیس کلو) کا حکم دیتا ہوں اور اگر تو چاہے تو تجھے اس سے بہتر کلمات سکھا دیتا ہوں۔ یہ پڑھ:

اللهم احفظنى بالاسلام قاعداً واحفظنى بالاسلام راقداً، ولا تطع فى عدواً ولا حاسداً، و اعدو ذبک من شر ما أنت آخذ بناصية، و أسألك من الخير الذى هو بيدک.

اے اللہ! میرے بیٹھے ہوئے، اسلام کے ساتھ میری حفاظت فرما، میرے سوئے ہوئے میری اسلام کے ساتھ حفاظت فرما اور میرے بارے میں میرے کسی حاسد یا دشمن کی بات قبول نہ فرما۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ہاتھ میں ہے۔

ابن حبان، الخرائطى فى مكارم الاخلاق، السنن لسعيد بن منصور عن عمر رضی اللہ عنہ

۳۸۲۴ کیا میں تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں جو مجھے جبرئیل علیہ السلام نے سکھائیں:

اللهم اغفر لى خطاى و عمدى و هزلى و جدى و لا تحرمنى بركة ما اعطيتنى، و لا تفتنى فيما حرمتنى. اے اللہ! بھول سے سرزد ہوئے گناہ، جان بوجھ کر کئے ہوئے گناہ، مذاق میں کیے ہوئے گناہ اور سجدگی میں کیے ہوئے گناہ سب کو معاف فرما۔ اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا اس کی برکت سے مجھے محروم نہ کر۔ اور جس شی سے مجھے محروم رکھا ہے اس کی آزمائش میں مجھے متلائے نہ کر۔ مسند ابی یعلیٰ، حلیۃ الاولیاء عن ابی رضی اللہ عنہ بن کعب

۳۸۲۵ جس بندے نے بھی کہا:

لا اله الا الله الكريم الحليم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين۔

تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ الدیلمی عن علی رضی اللہ عنہ

۳۸۲۶ تم میں سے کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر عمل کرنے سے کسی بھی دن عاجز نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: اس کی کون ہمت کر سکتا ہے؟ فرمایا: تم میں سے ہر شخص اس کی ہمت کر سکتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیسے؟ فرمایا: سبحان اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ لا اله الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ ابن حبان، ابن مردويه عن عمران رضی اللہ عنہ بن حصین

۳۸۲۷ اے بنت ابی بکر! کیا میں تجھے جامع دعائے بتاؤں؟ یوں کہتے:

اللهم انى أسألك من الخير كلة عاجله و آجله، ما علمت منه و ما لم أعلم، اللهم انى أسألك الجنة و ما قرب اليها من قول و عمل، اللهم انى أسألك مما سألك رسولك، و اعدو ذبک مما استعاذ بک منه رسولک: اللهم ما قضيت لى فاجعل عاقبته رشداً.

اے اللہ! میں تجھ سے تمام خیروں کا سوال کرتا ہوں جلد ہو یا بدیر، میرے علم میں ہوں یا نہیں۔

اے اللہ! میں تجھ سے جنت اور اس قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے۔

اے اللہ! جو تجھ سے تیرے رسول نے مانگا میں تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جس سے تیرے رسول

نے پناہ مانگی۔ اے اللہ! تو نے میرے لئے جو بھی فیصلہ کر دیا ہے اس کا انجام کار میرے لئے بہتر بنا۔

ابن صصری فی امالیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۸۴۸ اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئاً۔ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔

ابن ماجہ عن اسماء بنت عمیس

۳۸۴۹ اے جی! اے قوم! میری دعا قبول فرما۔ نسائی، جعفر الفریابی فی الذکر عن انس رضی اللہ عنہ

حدیث صحیح۔

۳۸۵۰ البَّهَّ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی أهلي و مالي، بسم اللہ علی

کل شیء اعطانی ربی بسم اللہ خیر الأسماء، بسم اللہ رب الأرض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه

داء، بسم اللہ افتتحت و علی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا أشرك به أحداً، أسألك بخیر، اللہ من خیرک الذی

لا یعطیه أحد غیرک، عز جارك و جل ثناؤک، و لا اله الا أنت، اجعلنی فی عیاذک و جوارک من کل سوء، و من

الشیطان الرجیم، اللهم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقت، و احترس بک منهن، و أقدم بین یدی (بسم

اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ أحد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً أحد) من أمامی و من خلفی،

و عن یمینی و عن شمالی، و من فوقی و من تحتی۔

ترجمہ:..... اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بسم اللہ اپنے نفس اور اپنے دین پر، بسم اللہ اپنے اہل اور اپنے مال پر۔ بسم اللہ ہر اس چیز پر

جو مجھے میرے رب نے عطا کی، بسم اللہ اللہ کا اسب سے بہتر نام ہے، اللہ کے نام سے جو زمین کا رب ہے اور جو آسمان کا رب ہے۔ اللہ کے نام

سے جس کو کوئی بیماری نقصان نہیں دے سکتی، اللہ کے نام سے میں افتتاح کرتا ہوں اور اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ میرا رب ہے میں اس

کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں جو تیرے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا، تیرا پرؤس باعزت ہے اور تیری ثناء

عظیم ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ مجھے ہر برائی سے اور شیطان مردود سے تو اپنے پناہ گزینوں اور پرؤسیوں میں سے کر لے۔

اے اللہ! میں تمام تیری پیدا کردہ مخلوق سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً أحد کو اپنے آگے، اپنے پیچھے،

اپنے دائیں، اپنے بائیں، اپنے اوپر اور اپنے نیچے کرتا ہوں۔ اور سورہ اخلاص کو چھ جہات میں سے ہر جہت میں ایک ایک مرتبہ پڑھے۔

ابن سعد، ابن السنی، فی عمل یوم و لیلۃ عن ابان بن عن انس رضی اللہ عنہ

مختصر جامع دعا

۳۸۵۱ آدمی کو دعا کرنے کے لئے یہ کہنا کافی ہے

اللهم اغفر لی وارحمنی و ادخلنی الجنة۔

اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما۔ نکبیر للطیرانی عن السائب بن یزید

کلام: ضعیف الجامع ۲۳۲۲۔

۳۸۵۲ تم یوں کہا کرو

اللهم انا نسألك بما سألک به محمد عبدک و رسولک و نستعیدک مما استعاذ منه

عبدک و رسولک۔

اے اللہ! ہم تجھ سے ہر چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا آپ کے بندے اور رسول محمد (ﷺ) نے آپ سے سوال کیا اور ہر اس چیز سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے بندے اور رسول محمد (ﷺ) نے آپ کی پناہ مانگی۔

الخرائطی فی مکارم الاخلاق عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۵۳ میرے پاس محبوب جبرئیل علیہ السلام آئے اور اپنا ایک ہاتھ میرے سینے پر اور دوسرا شانوں پر رکھا۔ میں نے سینے والے کی ٹھنڈک شانوں کے درمیان محسوس کی اور شانوں والے ہاتھ کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! بڑا ہی بیان کر بڑی اور بلند ذات کی، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہو اور اولین اور آخرین کے پروردگار کی پاکی بیان کرو۔ الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ فائدہ: یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح کرتے رہو۔

۳۸۵۴ رب اعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

ترجمہ: اے پروردگار! مجھے میرے نفس کا تقویٰ عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما بے شک آپ سب سے اچھے تزکیہ فرمانے والے ہیں اور آپ ہی اس کے والی اور مولیٰ ہیں۔ مسند احمد، عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۸۵۵ خلقت ربنا فسويت، وقدرت ربنا فقضيت، وعلى عرشك استويت، وأمت وأحييت، وأطعمت وأسقيت، وأرويت وحملت في برك وبحرك، على فلکک وعلى دوابک وعلى أنعامک، فاجعل لي عندک وليجةً، واجعل لي عندک زلفی وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامک ووعيدک، ويرجو لقاءک، واجعلني اتوب اليک توبةً نصوحاً، وأسألک عملاً متقبلاً وعملاً نجيحاً وسعيًا مشكوراً، وتجارةً لن تبور.

ترجمہ: اے رب! تو نے ہم کو پیدا کیا اور صحیح بنا دیا۔ تو نے ہماری تقدیر لکھی اور فیصلہ کیا، اپنے عرش پر مستوی ہوا تو نے ہی مارا اور زندہ کیا، تو نے ہی کھلایا اور پلایا اور سیراب کیا۔ تو نے ہی خشکی اور تری میں ہم کو سوار کیا، اپنی کشتیوں، چوپاؤں اور جانوروں پر سوار کیا پس مجھے اپنے پاس خصوصیت نصیب کر، اپنے ہاں میرے لئے عمدہ مقام اور اچھا ٹھکانا بنا، مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے آگے کھڑے ہونے سے اور تیری وعید سے ڈرتے ہیں اور تیری ملاقات کی امید رکھتے ہیں، مجھے اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والا بنا، اے اللہ! میں تجھ سے مقبول اور کامیاب عمل اور ایسی کوشش کا سوال کرتا ہوں جس کی قدر کی جائے۔ اور ایسی تجارت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔

الدیلمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۵۶ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں جو ان تمام دعاؤں کو جمع کر لے گی تم یوں کہو:

اللهم اننا نسألك مما سألك نبيك محمد عبدك ورسولك، ونستعذك مما استعاذ به منك

محمد عبدك ورسولك، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ.

اے اللہ! ہم تجھ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا تیرے نبی تیرے بندے اور تیرے رسول محمد (ﷺ) نے تجھ سے سوال کیا ہے۔ اور تیری پناہ چاہتے ہیں ہر اس چیز سے جس سے تیرے بندے اور تیرے رسول محمد (ﷺ) نے تجھ سے پناہ مانگی ہے۔ بے شک تجھ سے ہی مدد کا سوال ہے اور جی پر مدد کرنا ہے اور ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

الکبیر للطبرانی الدار قطنی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۸۵۷ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے کہا: جب آپ کو کسی دن یارات یہ خواہش ہو کہ اللہ کی عبادت کروں جیسا کہ اس کی عبادت کا حق ہے تو یہ دعا کریں:

اللهم لك الحمد حمداً دائماً مع خلودك، ولك الحمد حمداً لا ينتهي له دون مشيتك، ولك

الحمد حمداً لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمداً ملياً عند كل طرفة عين وتنفس نفس.

اے اللہ! تمام طرح کی حمد تیرے لئے ہیں ہمیشہ ہمیشہ تیرے ساتھ تمام طرح کی حمد تیرے لئے ہیں جن کی انتہاء نہ ہو سوائے تیری

مشیت کے تمام حمد تیرے لئے ہیں جن کے قائل کا ارادہ فقط تیری رضاء ہو اور تمام طرح کی حمد تیرے لیے بھری ہوئی ہیں جب بھی کوئی آنکھ جھپکے اور جب بھی کوئی جان سانس لے۔ الزافعی عن علی رضی اللہ عنہ

۳۸۵۸ یہ پانچ تسبیحات پڑھا کرو: لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، اور تبارک اللہ یہ ایسے پانچ کلمات ہیں کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ (انہی پر) اللہ نے ملائکہ کی پیدائش کی، انہی کی بدولت آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھایا اور انہی کلمات کے ساتھ انسانوں اور جنوں کی جبلت بنائی اور انہی کی بنیاد پر اپنے فرائض مقرر کیے۔ الدیلمی عن معاذ رضی اللہ عنہ

۳۸۵۹ دس مرتبہ کہہ: اللہ اکبر، اللہ پاک فرمائیں گے یہ میرے لیے ہیں۔ دس مرتبہ کہہ: سبحان اللہ، اللہ پاک فرمائیں گے یہ میرے لیے ہیں۔ پھر کہہ: اللھم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اللہ پاک فرمائیں گے: میں نے (مغفرت) کر دی۔

الکبیر للطبرانی عن سلمیٰ امراة ابی رافع

۳۸۶۰ وہ کلمے جو زبان پر آسان ہیں جس کو بھی عطا کر دیئے گئے، اس کی دنیا و آخرت کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ پس بندہ یہ کہے: اللھم ارزقنی وارحمنی ممن رحمہ۔ اے اللہ! مجھے رزق دے اور مجھ پر رحم فرما (اور ان لوگوں میں سے مجھے کر دے) جن پر آپ نے رحم فرمایا۔ اس کہنے والے سے اللہ پاک جہنم کا عذاب دور کر دیں گے اور دنیا و آخرت کی مشقت سے اس کو کافی ہو جائیں گے۔

الحاکم فی التاریخہ عن علی رضی اللہ عنہ

۳۸۶۱ جبرئیل علیہ السلام جب بھی میرے پاس تشریف لائے ان دو کلموں کا مجھے حکم دیا:

اللھم ارزقنی طیباً واستعملنی صالحاً۔

اے اللہ! مجھے رزق طیب دے اور نیک کام میں مجھے مشغول رکھ۔ الحکیم عن حنظلہ

کلام: ضعیف الجامع ۵۰۴۹۔

۳۸۶۲ جو شخص دن کے شروع میں اور رات کے شروع میں یہ دعا پڑھے اللہ پاک اس کو ایلیں اور اس کے لشکر سے محفوظ رکھیں گے۔

بسم اللہ ذی الشان عظیم البوہان شدید السلطان، ماشاء اللہ کان، وأعوذ باللہ من الشیطان اللہ کے نام کے ساتھ (یہ دن اور رات شروع کرتا ہوں) جو بڑی شان والا ہے، عظیم برہان والا ہے، مضبوط بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ الحاکم فی تاریخہ، ابن عساکر عن زبیر بن عوام

کہو: ۳۸۶۳

اللھم استر عوراتنا وامن روعاتنا۔

اے اللہ ہمارے عیوب پر پردہ ڈال اور ہمارے خوف کو تسکین بخش۔ مسند احمد، عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

کلام: ضعیف الجامع ۳۱۱۸۔

۳۸۶۳ ہر بندہ یہ دعا پڑھے:

الحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملاً ما خلق، والحمد للہ عدد ما فی السموات والأرض،

والحمد للہ عدد ما أحصی کتابہ، والحمد للہ عدد کل شیء، وسبحان اللہ مثلہن

الحمد للہ مخلوق کے بقدر، الحمد للہ مخلوق بھر کر، الحمد للہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کے بقدر، الحمد للہ جس قدر اللہ کی کتاب (تقدیر) نے شمار کیا ہے اسی قدر اور الحمد للہ ہر چیز کے بقدر سبحان اللہ بھی اسی کے بقدر۔

مسند احمد، مستدرک الحاکم، السنن لسعید بن منصور عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۸۶۵ جو شخص دعائیں خوب محنت کرنا چاہے وہ یہ کہے:

اللھم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔

۳۸۶۶..... اے اللہ! میری مدد کر اپنے ذکر پر اپنے شکر پر اور اپنی اچھی طرح عبادت کرنے پر۔ ابن النجار عن عائشہ رضی اللہ عنہا جو شخص ان پانچ کلمات کو پڑھ کر کوئی بھی اللہ کے سوال کرے اللہ پاک اس کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے:

لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وحده لا شریک له، له الملك، وله الحمد، وهو علی کل شیء قدير، لا الہ الا اللہ ولا قوة الا باللہ. الکبیر للطبرانی عن معاویہ رضی اللہ عنہ جس نے

۳۸۶۸..... لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے لیلیۃ القدر کو پایا۔ الدولابی، ابن عساکر عن الزہری۔ مرسلًا جس نے:

۳۸۶۹..... لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السموات ورب العرش العظیم. تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے لیلیۃ القدر کو پایا۔ ابن عساکر عن الزہری مرسلًا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے ہاں اس کے لیے ایک عہد (اور بیثاق) لکھ دیا گیا۔ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ الکبیر للطبرانی، ابن عساکر عن عمر رضی اللہ عنہ جس نے یہ پڑھا:

لا الہ الا انت سبحانک عملت سوء ا وظلمت نفسی، فاغفر لی فانک انت خیر الغافرین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ذات ہے، مجھ سے برائی سرزد ہوئی اور میں نے اپنی جن پر ظلم کیا پس مجھے بخش دے بے شک سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔

۳۸۷۱..... تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے مثل ہوں۔ الدیلیمی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ جس نے دن میں تین مرتبہ صلوات اللہ علی آدم کہا یعنی اللہ کی رحمتیں ہوں آدم علیہ السلام پر۔ تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، خواہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ اور وہ شخص جنت میں آدم علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔

جعفر بن محمد بن جعفر فی کتاب الفردوس والدیلیمی عن علی رضی اللہ عنہ کلام:..... تذکرۃ الموضوعات: ۸۹۔ التزییہ ۳۳۶/۱... ذیل الآئی ۱۹۶۔

۳۸۷۲..... جس شخص نے بغیر کسی زبردستی اور گھبراہٹ کے (خوشی کے ساتھ) سبحان اللہ و بحمدہ تو اللہ پاک اس کے لیے دو ہزار نیکیاں لکھیں گے۔ الدیلیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جس نے یہ کلمات کہے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو علی کل شیء قدير، ولا حول ولا قوة الا باللہ، وسبحان اللہ وبحمدہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

اسماعیل بن عبدالغافر الفارسی فی الاربعین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ۳۸۷۴..... جس نے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، إلهًا واحدًا صمدًا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوًا أحد. گیارہ مرتبہ پڑھا اللہ پاک اس کے لیے بیس لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور جس نے زیادہ پڑھا اللہ پاک اس کے لیے اضافہ فرمائیں گے۔ عبد بن حمید، الکبیر للطبرانی عن ابن ابی اوفیٰ حلیۃ الاولیاء ابن عساکر عن جابر رضی اللہ عنہ

۳۸۷۵... اللهم انى أشهدك وأشهد ملائكتك، وحملة عرشك وأشهد من فى السموات، وأشهد من فى الأرض أنك أنت الله الذى لا اله الا انت وحدك لا شريك لك، وأكفر من أبى ذلک من الأولین والآخیرین، وأشهد أن محمداً عبدك ورسولك.

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے ملائکہ اور حاملین عرش کو گواہ بناتا ہوں، جو آسمانوں میں ہیں ان کو گواہ بناتا ہوں اور جو زمین میں بستے ہیں ان کو گواہ بناتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور جو بھی اس بات کا انکار کریں اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے سب کو جھٹلاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد تیرے بندے اور رسول ہیں۔

جس نے یہ کلمات (عربی) ایک مرتبہ کہے اللہ پاک اس کا ایک تہائی جہنم سے آزاد کر دیں گے، جس نے دو مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ پاک اس کا دو تہائی حصہ جہنم سے آزاد کر دیں گے اور جس نے تین مرتبہ یہ کلمات کہے اللہ پاک اس کو بالکل جہنم سے آزاد فرمادیں گے۔

۳۸۷۶... جس نے ہر روز اللهم اغفر لى وللمؤمنين والمؤمنات کہا (یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، اور تمام مومنوں اور مومنات کی مغفرت فرما تو ہر مومن (مرد و عورت) کے بدلے اس کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ الکبیر للطبرانی عن ام سلمة رضی اللہ عنہا

۳۸۷۷... جس نے ایک دن میں سو مرتبہ پڑھا:

لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

کوئی شخص اس سے آگے نہیں نکل سکتا اس سے پہلے ہو یا بعد میں، سوائے اس شخص کے جو اس سے افضل عمل کرے۔

مسند احمد، مستدرک الحاکم عن ابن عمرو

۳۸۷۸... جس نے یہ پڑھا:

اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، انى أعهدك اليك فى هذه الحياة الدنيا انى أشهد أن لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك، فانك ان تكلمنى الى نفسى تقربنى من الشر، وتباعدننى من الخير، وانى لا أبق الا برحمتك، فاجعل لى عندك عهداً تو فى نيه يوم القيامة أنك لا تخلف الميعاد.

اے اللہ! آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے میں تجھ سے اس دنیوی زندگی میں عہد کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اگر تو نے مجھے میرے نفس کے حوالہ کر دیا تو گویا مجھے شرکی طرف دھکیل دیا اور خیر سے دور تر کر دیا۔ مجھے تیری رحمت کے سوا کسی چیز کا بھروسہ نہیں، پس اپنے پاس میرا یہ عہد رکھ لے اور قیامت کے دن اس کو پورا کر دینا بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ مسند احمد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

۳۸۷۹... جس نے یہ پڑھا:

الحمد لله الذى تواضع كل شىء لعظمته والحمد لله الذى ذل كل شىء لعزته والحمد لله الذى خضع

كل شىء لمملكه والحمد لله الذى استسلم كل شىء لقدرته.

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی عظمت کے آگے ہر چیز سرنگوں ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی عزت کے آگے ہر چیز ذلیل ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی سلطنت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی قدرت کے آگے ہر چیز فرماں بردار ہے۔

اس کو کہنے والے کے لیے اللہ پاک ہزار نیکیاں لکھیں گے، ہزار درجے بلند فرمائیں گے اور ستر ہزار فرشتے اس پر مقرر فرمائیں گے جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ الکبیر للطبرانی، ابن عساکر عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کلام: اس روایت میں ایک راوی ایوب بن نہیک منکر الحدیث ہیں، جس کی بناء پر روایت مجروح ہے۔ ۳۸۸۰ جس نے دن میں سو مرتبہ:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو علی کل شیء قدير۔
پڑھا تو اس دن میں وہ شخص تمام لوگوں سے افضل ہوگا سوائے اس شخص کے جو اسی کے مثل عمل کرے۔ یا اس سے بھی زیادہ کرے۔

الکبیر للطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۸۸۱ جس نے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد یحیی ویمیت، وهو علی کل شیء قدير۔
پڑھا اس حال میں کہ اس کی روح اس میں خالص ہے، اس کی زبان سچی ہے اور اس کا دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے تو تمام آسمان ان کلمات کے لیے کھل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پروردگار اہل دنیا میں سے صرف اس کلمہ کو کہنے والے کی طرف نظر کرتے ہیں۔ اور بندہ کا یہ حق ہے کہ پروردگار جب بھی اس کو دیکھیں تو اس کا سوال پورا کر دیں۔ الحکیم عن ایوب بن عاصم قال حدثنی رجلاً من الصحابة ۳۸۸۲ جس نے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو علی کل شیء قدير۔
دس بار پڑھا تو اس کے لیے یہ کلمات دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ الکبیر للطبرانی عن ابن ایوب رضی اللہ عنہ ۳۸۸۳ جس نے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدير۔
ایک مرتبہ یا دس مرتبہ کہا تو اس کے لیے یہ ایک غلام یا دس غلام آزاد کرنے کے مثل ہوگا۔ الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ۳۸۸۴ جس نے پڑھا:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد، وهو علی کل شیء قدير۔
اس کے لیے ایک یا دو غلام آزاد کرنے کے مثل ہوگا۔ الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ۳۸۸۵ جس نے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدير۔
دس مرتبہ پڑھا اس کو دس غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ۳۸۸۶ جس نے دن میں ایک مرتبہ یہ پڑھا:

سبحان القاسم الدائم، سبحان الحی القيوم، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ العظیم
وبحمدہ سبح قدوس بنارب الملائکة والروح، سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالیٰ۔
پاک ہے قائم و دائم، پاک ہے زندہ اور تھامنے والا، پاک ہے وہ زندہ جو کبھی مرے گا نہیں، پاک ہے اللہ عظیم، اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، وہی پاکی کے لائق ہے، وہی تقدیس کے لائق ہے، وہ ملائکہ اور روح (الایمن جبرئیل علیہ السلام) کا رب ہے، پاک ہے بلند ذات جو سب سے بلند و بالا ہے۔

یہ پڑھنے والا شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھے۔

ابن شاہین فی الترغیب، ابن عساکر عن ابان عن انس رضی اللہ عنہ

۳۸۸۷ جس نے:

لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو علي

كل شيء قدير.

پڑھا اور اللہ کے سوا کچھ مقصود نہ رکھا تو اللہ پاک اس کو نعمت کے باغات میں داخل کر دیں گے۔ الکبیر للطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۸۸۸ جس نے:

لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو علي كل شيء قدير.

وہی مرتبہ پڑھا اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔

الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ

۳۸۸۹ جس نے:

لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو علي كل شيء قدير.

پڑھا گویا اس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کر دیئے۔ الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ

۳۸۹۰ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير.

جس نے ایک بار سبحان اللہ کہا اور دودھ کے لیے کوئی جانور دیا یا کھجور کے خوش کاہد یہ کیا تو ایک جان (آزاد کرنے) کے برابر ہے۔

شعب الایمان للبيهقي عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ

فائدہ:..... عرب میں دودھ کا جانور صرف دودھ پینے کے لیے کسی کو دے دیتے تھے پھر دودھ خشک ہو جانے کے بعد واپس لے لیتے

تھے۔ اسی طرح کھجور کا درخت پھلوں کے موسم میں کھجور کھانے کے لیے دے دیتے تھے۔ اسی کی مذکورہ حدیث میں بہت ترغیب آئی ہے۔

۳۸۹۱ جس نے لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير. پڑھا کوئی عمل اس سے

آگے نہیں نکل سکتا اور نہ ہی کوئی برائی باقی رہی۔ الکبیر للطبرانی، ابن عساکر عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۸۹۲ جس نے دس مرتبہ یہ کلمہ پڑھا:

لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو علي كل شيء قدير.

اس کے لیے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے چار غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔

الکبیر للطبرانی، شعب الایمان للبيهقي عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ. مصنف ابن ابی شیبہ عن ابن مسعود مؤقفاً

۳۸۹۳ جس نے لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو علي كل شيء قدير کہا یہ کلمات

اس کے لیے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، الکبیر للطبرانی عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ

۳۸۹۴ جس نے رضیت باللہ رباً وبالاسلام ديناً، وبحمد نبياً کہا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔

مصنف ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن حبان، ابو داؤد، مستدرک الحاکم عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

۳۸۹۵ جس نے لا اله الا الله والله اكبر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہا تو اللہ پاک اس کی تصدیق میں

فرماتے ہیں لا اله الا انا۔ وانا اكبر۔ ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ اور جب بندہ کہتا ہے: لا اله الا الله

وحده اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تمہارے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لا اله الا انا وانا وحدي۔ ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں

تمہارے۔ اور جب بندہ کہتا ہے لا اله الا الله وحده لا شريك له، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو اللہ

پاک فرماتے ہیں لا اله الا انا وحدي لا شريك لى۔ ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں تمہارے ہوں میرا کوئی شریک نہیں۔ اور جب بندہ

کہتا ہے: لا اله الا الله له الملك وله الحمد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں

ہیں۔ تو اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتے ہیں لا الہ الا انالی الملک ولی الحمد ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہے ساری بادشاہت اور میرے لیے ہیں سب تعریفیں۔

جب بندہ کہتا ہے: لا الہ الا اللہ و لا حول و لا قوۃ الا باللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں: لا الہ الا انا و لا حول و لا قوۃ الا بی۔ ہاں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور ہر طرح کی طاقت و قوت میرے ہی پاس ہے۔

جو شخص ان کلمات کو اپنی زندگی میں پڑھتا رہا اور مرض موت میں بھی پڑھا تو جہنم کی آگ اس کو نہیں کھاسکے گی۔

ترمذی حسن عن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما

۳۸۹۶۔ جس نے دن میں سو مرتبہ: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، برحق ہے، کھلی ذات ہے، تو یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے فقر و فاقہ سے امان ہوگا، قبر کی وحشت میں موٹس و غم خوار ہوگا، پڑھنے والا اس کی بدولت مالداری پائے گا اور جنت کے دروازہ کو کھٹکھٹائے گا۔

الشیرازی فی الالقاب من طریق ذی النون المصری عن سالم الحوأم و الخطیب و الدیلمی و الرافعی و ابن التجار من طریق الفضل بن غالم عن مالک بن انس کلاهما عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جدہ عن ابیہ عن علی رضی اللہ عنہ فائدہ:..... فضل بن غانم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس حدیث کے حصول کے لیے خراسان تک کا سفر کرے تب بھی کم ہے۔

حلیۃ من طریق اسحاق ب زریق عن سالم النخوص عن مالک

۳۸۹۷۔ جس نے دن میں یارات میں یا مینے میں ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے:

لا الہ الا اللہ و حدہ و اللہ اکبر لا الہ الا اللہ و حدہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ؛ لا الہ الا اللہ، لہ الملک و لہ الحمد لا الہ الا اللہ، و لا حول و لا قوۃ الا باللہ.

پھر وہ مر گیا اسی دن یا اسی رات یا اسی ماہ میں تو اس کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ الخطیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۸۹۸۔ جس نے دس مرتبہ یہ پڑھا:

أشهد أن لا الہ الا اللہ، و حدہ لا شریک لہ الہا و احدًا صمدًا لم یتخذ صاحبۃً و لا ولدًا، و لم یکن لہ کفوًا احد.

اللہ پاک اس کے لیے چار کروڑ نیکیاں لکھ دیں گے۔

مسند احمد، ترمذی، غریب لیس بالقوی، الکبیر للطبرانی، ابو نعیم عن تمیم الداری

کلام:..... ضعیف الترمذی ۶۸۷۔ ضعیف الجامع ۵۷۲۔ حدیث ضعیف ہے۔

۳۸۹۹۔ جس نے لا الہ الا اللہ و حدہ لا شریک لہ؛ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر و هو علی کل شیء قدید۔ ہزار مرتبہ پڑھایہ عمل قیامت کے دن ہر ایک کے عمل سے اوپر ہو کر آئے گا سوائے نبی کے عمل کے اور اس شخص کے عمل کے جو اس سے زیادہ یہ پڑھے۔

اسماعیل بن عبدالغافر فی الاربعین عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ

۳۹۰۰۔ جس نے یہ پڑھا: جز اللہ محمدًا عننا ما هو اہلہ اللہ پاک محمد (ﷺ) کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے جس کے وہ اہل ہیں۔

اس نے ستر لکھنے والے فرشتوں کو ایک ہزار دنوں تک مشقت میں ڈال دیا (جب تک وہ اس کا ثواب لکھتے رہیں گے)۔

الکبیر للطبرانی، حلیۃ الاولیاء، الخطیب، ابن النجار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

کلام:..... الضعیفۃ ۷۰۷۔

۳۹۰۱۔ جس نے یہ کہا:

اللهم اعنني على اداء شکرک و ذکرک و حسن عبادتک۔
اے اللہ! میری مدد فرما ہے شکر کی ادائیگی پر، اپنے ذکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ تو اس نے خوب اچھی دعا کر لی۔

الحطیب عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

۳۹۰۲ اگر کسی نے کہا:

لا اله الا انت سبحانک عملت سوءاً و ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔
تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ذات ہے، مجھ سے برائی سرزد ہوئی میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا۔ پس میری توبہ قبول فرما بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔
اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اگرچہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے پیٹھ دے کر بھاگا ہو۔

ابن النجار عن ابن عباس رضی اللہ عنہ

۳۹۰۳ جس نے: لا اله الا الله کہا اس کے لیے بیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے الحمد لله کہا اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے الله اکبر کہا اس کے لیے بیس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ابن شاہین فی الترغیب فی الذکر عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۹۰۴ جس نے ایک بار الله اکبر کہا اس کے لیے بیس نیکیاں لکھی جائیں گی، بیس برائیاں مٹائی جائیں گی، جس نے ایک مرتبہ سبحان الله کہا اس کے لیے بیس نیکیاں لکھی جائیں گی، بیس برائیاں مٹائی جائیں گی اور جس نے ایک مرتبہ الحمد لله کہا اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی جائیں گی اور تیس برائیاں مٹائی جائیں گی۔ شعب الایمان للبیہقی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۹۰۵ جس نے اس دعا کو لازم پکڑ لیا وہ کسی مصیبت کے پہنچنے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا:

اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنيا و عذاب الآخرة۔
اے اللہ! تمام امور میں ہمیں اچھا انجام نصیب فرما اور ہم کو دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے نجات دے۔

الکامل لابن عدی عن بسر بن اوطاة

عبادت کا حق ادا کرنا

۳۹۰۶ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے محمد! جب آپ کو چاہت ہو کہ کسی رات یا دن اللہ کی عبادت الہی کروں جیسی کرنا چاہتے تو آپ یوں کہیں:

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً خالداً مع خلودك ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك،

ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمداً لا اجر لقائله الا رضاك.

اے اللہ! تمام حمدیں تیرے لیے ہیں حمد کثیر، جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں اور تیرے لیے ایسی حمد ہے جس کی انتہاء نہ ہو تیرے علم کے اندر اندر اور تیرے لیے حمد ہیں جن کی انتہاء نہ ہو آپ کی مشیت کے بغیر اور تیرے لیے ہے حمد جس کے قائل کا اجر تیری رضاء کے سوا

کچھ نہ ہو۔ شعب الایمان للبیہقی منقطع عن علی رضی اللہ عنہ

۳۹۰۷ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم اعف عني فانك عفو غفور.

ترجمہ:..... اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بڑبار اور کریم ہے۔ پاک ہے اللہ جو عرش کریم کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام

جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ! مجھ سے درگزر فرما، اے اللہ! مجھے معاف فرما بے شک تو معاف فرمانے والا اور

مغفرت فرمانے والا ہے۔ نسائی، ابن عساکر عن عبد اللہ بن جعفر

فائدہ:..... عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں مجھے میرے چچا نے خبر دی کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو یہ کلمات سکھائے تھے:

لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ، ونصر عبدہ، وغلب الاحزاب وحده، فلا شیء بعدہ.
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس نے اپنے لشکر کو عزت دی، اپنے بندے کی مدد کی، تمام جماعتوں کو اکیلے شکست دی

پس اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

۳۹۰۸ ہر شخص دن و رات کو دو ہزار نیکیاں کرنے سے درگزر نہ کرے، پس وہ سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ کہہ لے یہ ہزار نیکیاں ہوئیں
(اسی طرح شام کو پڑھے)۔ انشاء اللہ وہ اس دن اس قدر گناہ نہیں کرے گا۔ اور اس نیکی کے علاوہ بھی وہ بہت نیکیاں کرے گا (انشاء اللہ)۔

مسند احمد، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم و تعقب عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ

۳۹۰۹ یا عدتہ عند کربتہ، و یا صاحبی عند شدتہ، و یا ولی نعمتہ، یا الہی والہ آبتی لا تکن لی نفسی فاقرب
من الشر، و اتباعد من الخیر، و آنسہ فی قبری من وحشتہ، و اجعل لی عہداً یوم القیامۃ مسؤلاً۔

ترجمہ:..... اے ہر مصیبت کے وقت میرے مطلوب! اے سختی کے وقت میرے ساتھی! اے میری نعمتوں کے مالک! اے میرے اور میرے
آباء و اجداد کے معبود! مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر کیونکہ میں شر کے قریب اور خیر سے دور ہو جاؤں گا، قبر میں میری وحشت کے لیے انیس بن جا،
اور میرے عہد کو قیامت کے دن مسؤل (پورا) کر۔ الحاکم فی تاریخہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۹۱۰ اے اسلام اور اہل اسلام کے والی! مجھے اسلام کے ساتھ وابستہ رکھتی کہ میں تجھ سے آملوں۔

الایسوا للظہرانی، الخطیب عن انس رضی اللہ عنہ

۳۹۱۱ اے اعرابی! جب تو کہے گا سبحان اللہ تو اللہ پاک فرمائیں گے: تو نے سچ کہا۔ اور جب تو کہے گا: الحمد للہ تو اللہ پاک فرمائیں
گے تو نے سچ کہا۔ اور جب تو کہے گا: لا الہ الا اللہ تو اللہ پاک فرمائیں گے: تو نے سچ کہا۔ اور جب تو کہے گا: اللہ اکبر تو اللہ پاک فرمائیں
گے: تو نے سچ کہا۔ اے میرے بندے! اور جب تو کہے گا: اللہم اغفر لی تو اللہ پاک فرمائیں گے: میں نے (مغفرت) کر دی۔ اور جب تو کہے
گا: اللہم ارحمہنی تو اللہ پاک فرمائیں گے: میں نے (رحمت) کر دی۔ اور جب تو کہے گا: اللہم ارزقنی تو اللہ پاک فرمائیں گے: میں نے
(رزق دے دیا)۔ شعب الایمان للبیہقی عن انس رضی اللہ عنہ

۳۹۱۲ اے سعد! تو نے اس گھڑی میں ایسے کلمات کے ساتھ دعا کی ہے کہ اگر تو سارے روئے زمین کے لوگوں کے لیے دعا کرتا تب بھی
قبول کر لی جاتی، پس خوشخبری ہو تجھے اے سعد! اس کلمہ کی:

سبحانک لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام۔ الکبیر للطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہ

۳۹۱۳ اے شداد بن اوس جب تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ سونا چاندی جمع کرنے لگے ہیں تو تو ان کلمات کا خزانہ جمع کرنا شروع کر دے:

اللہم انی أسألك الثبات فی الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شکر نعمتک، وأسألك
حسن عبادتک، وأسألك یقیناً صادقاً، وأسألك قلباً سلیماً ولساناً صادقاً وأسألك من خیر ما تعلم
وأعوذ بک من شر ما تعلم، واستغفرک لما تعلم انک أنت علام الغیوب۔

اے اللہ! میں دین میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، مضبوط سیدھے راستے کا سوال کرتا ہوں، تیری نعمت کے شکر کا سوال
کرتا ہوں، تیری اچھی عبادت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے سچے یقین کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال
کرتا ہوں، تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور ہر اس شئی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے۔
اور تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں ان گناہوں سے جو تیرے علم میں ہیں بے شک تو غائب کا جاننے والا ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ، ابن سعد، مسند احمد، مسند ابی یعلیٰ، ابن حبان، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم، حلیۃ الاولیاء،

السنن لسعد بن منصور عن شداد بن اوس

۳۹۱۳۔ اے علی! کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جب تو ان کو کہے تو تیری مغفرت کر دی جائے:

لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السموات السبع ورب العرش

العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ مسند احمد، مستدرک الحاکم عن علی رضی اللہ عنہ

۳۹۱۵۔ اے علی! کیا میں تجھے ایسی دعا نہ سکھاؤں تو وہ دعا کرے تو اگر چیونٹیوں کے برابر بھی تیرے سر پر گناہ ہوں تب بھی سب معاف کر دیئے جائیں گے، پس یہ کہا کر:

اللہم لا الہ الا انت الکریم الکریم تبارک سبحان رب العرش العظیم۔

الکبیر للطبرانی عن عمرو بن مرقہ وزید بن ارقم معاً

۳۹۱۶۔ اے عائشہ! تو کامل اور جامع کلمات کو تھا م لے، یوں کہا کر:

اللہم انی اسألك من الخیر كلہ عاجلہ و آجلہ، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كلہ

عاجلہ و آجلہ، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة، وما قرب اليها من قول وعمل، وأعوذ من

النار وما قرب اليها من قول وعمل، وأسألك من خیر ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلی

اللہ علیہ وسلم، واستعیدك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم،

واسألك ما قضيت لی من أمر أن تجعل عاقبته رشداً۔

”اے اللہ! میں تجھ سے ہر طرح کی خیر کا سوال کرتا ہوں جلد اور بدیر، میرے علم میں ہو اور میرے علم میں نہ ہو اور تیری پناہ

مانگتا ہوں ہر طرح کے شر سے جلدی اور بدیر، میرے علم میں ہو اور جو میرے علم میں نہ ہو، اے اللہ! میں تجھ سے جنت اور ہر اس

قول و عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب تر کر دے۔ اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم اور ہر اس قول و عمل سے جو جہنم

کے قریب کر دے۔ اے اللہ! میں تجھ سے ہر وہ خیر مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور رسول محمد ﷺ نے مانگی اور تیری پناہ

چاہتا ہوں ہر اس چیز سے جس سے تیرے بندے اور تیرے رسول محمد ﷺ نے تیری پناہ چاہی۔ اور اے اللہ! میں تجھ سے سوال

کرتا ہوں کہ تو نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کر دیا ہے اس کا انجام کار میرے لیے بہتر کر دے۔“

مستدرک الحاکم، ابن عساکر عن عائشہ رضی اللہ عنہا

۳۹۱۷۔ اے عائشہ! میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تمام آسمان وزمین والوں کی تسبیح کے برابر ہوں یا ان سے بھی افضل ہوں پس تو یہ کہا کر:

سبحان اللہ العظیم وبحمده وأضعاف ما یسبحہ جمیع خلقہ، کما یحب وکما یرضی وکما ینبغی لہ۔

پاک ہے اللہ عظمت والا اسی کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں اور جس قدر تمام مخلوق اس کی تسبیح کرتی ہے، اس سے کئی گنا

اس کی تسبیح کرتا ہوں۔ جسے وہ پسند کرے، جیسے وہ راضی ہو اور جس طرح اس کے لیے مناسب ہو۔

الدارقطنی فی الافراد عن عائشہ رضی اللہ عنہا

کلام:..... اس روایت کو ہمام بن سلمہ سے نقل کرنے میں سلیمان بن الربیع متفرد ہیں۔ اور ہمام بن مسلم الزاہد کے متعلق ابن حبان رحمۃ

اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث میں سرقہ کرتے ہیں اور یہ کوئی ہیں اور ان سے سلیمان بن الربیع النہدی روایت کرتے ہیں۔

میزان الاعتدال ۳۰۸/۲

۳۹۱۸۔ اے فاطمہ! سن جو میں تجھے وصیت کروں، یہ کہا کر:

یا حی یا قیوم برحمتک أستغیث، فلا تکن لی الی نفسی طرفۃ عین وأصلح لی شأنی کلہ۔

”اے زندہ! اے تھامنے والے! تیری رحمت کے ساتھ میں فریاد کرتا ہوں پس مجھے اپنے نفس کے حوالہ نہ کر ایک پل کے لیے بھی اور

میرے تمام حالات درست کر دے۔“ الکامل لابن عدی، شعب الایمان للبیہقی عن انس رضی اللہ عنہ

کتاب الاذکار من الاقوال

حرف ہمزہ (ا) کی دوسری کتاب..... کتاب الاذکار..... از قسم الافعال

باب..... ذکر اور اس کی فضیلت کا بیان

مسند عمر رضی اللہ عنہ

۳۹۱۹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اپنی جانوں کو لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ کرو کیونکہ یہ فتنہ ہے بلکہ تم اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔

ابن ابی الدنیا

۳۹۲۰ ابی حنیفہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن کثیر سے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو تسبیح و تہلیل میں مشغول پایا تو (بے ساختہ) بول اٹھے: یہی ہے یہی ہے رب کعبہ کی قسم! پوچھا گیا یہی کیا ہے؟ فرمایا:

کلمة التقوی و كانوا احق بها واهلها۔

یہی کلمہ تقویٰ ہے اور یہ لوگ اس کے حق دار اور اس کے اہل ہیں۔ ابن خسرو

۳۹۲۱ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات ایک دو آدمیوں کا ہاتھ پکڑتے اور فرماتے: ٹھہرو ہم ایمان میں اضافہ کر لیں پھر وہ سب (مل کر) اللہ کا ذکر کرتے۔ اللالہ کانی فی السنة

۳۹۲۲ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم پر اللہ کا ذکر لازم ہے، وہ شفاء ہے۔ اور لوگوں کے ذکر سے بچو وہ بیماری ہے۔

مسند احمد، فی الزهد، ہناد، ابن ابی الدنیا فی الصمت

۳۹۲۳ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے (دعا کرتے ہوئے) فرمایا:

اے پروردگار! میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ لوگ معلوم ہو جائیں جن سے تو محبت کرتا ہے تاکہ میں بھی ان سے محبت کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا: جب تو میرے کسی بندے کو کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرتے ہوئے دیکھے تو (سمجھ لے کہ) میں نے اس کو اس کام میں لگایا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور جب تو کسی بندے کو دیکھے کہ وہ میرا ذکر نہیں کرتا تو (سمجھ لے کہ) میں نے اس کو اس سے روکا ہے اور میں اس کو ناپسند

کرتا ہوں۔ العسکری فی المواعظ

کلام: اس روایت میں ایک راوی عنیدہ القرشی ہے جو متروک اور ناقابل اعتبار ہے۔

ذکر اللہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے

۳۹۲۴ (مسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما)۔ (عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ) رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: دلوں کو بھی رنگ لگ

جاتا ہے جس طرح لوہے کو رنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! اس کے صیقل کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا: کتاب اللہ کی کثرت

کے ساتھ تلاوت اور ذکر اللہ کی کثرت۔ ابن شاہین فی الترغیب فی الذکر

۳۹۲۵... عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: صبح وشام اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی راہ میں تلواریں توڑنے اور دن رات مال خرچ کرنے سے بہتر ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ

۳۹۲۶... (مسند عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کثرت کے ساتھ اللہ عزوجل کا ذکر کرو۔ اور کسی کو ہرگز

ساتھی مت بناؤ سوائے اس شخص کے جو اللہ کے ذکر پر تمہاری مدد کرے۔ شعب الایمان للبیہقی

۳۹۲۷... ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذکر کی مجالس علم کو زندگی بخشنے والی جگہیں ہیں اور یہ مجالس دلوں میں خشیت خداوندی اجاگر کرتی ہیں۔

رواہ ابن عساکر

۳۹۲۸... (مسند عبداللہ بن مغفل) ابن النجار فرماتے ہیں ہمیں محمد بن محمد الحداد، عبدالکیم بن ظفر الشافعی و احمد بن محمد الحرقی و طاہر بن محمد بن طاہر

ابوالعالی تینوں نے خبر دی کہ ہمیں ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب النخعی نے کہا کہ مجھے میرے والد ابو الفرج عبد الوہاب نے کہا وہ کہتے ہیں میں

نے اپنے والد عبدالعزیز سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابو بکر الحارث سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد اسعد سے سنا وہ کہتے ہیں میں

نے اپنے والد اسعد سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد سفیان سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد یزید سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے

والد عبداللہ سے سنا وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا:

کوئی قوم اللہ کے ذکر کے لیے جمع نہیں ہوتی مگر (اللہ تعالیٰ کے) ملائکہ ان کو گیر لیتے ہیں اور رحمت (خداوندی) ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔

ذکر اللہ سے زبان کو تر رکھنا

۳۹۲۹... (مسند معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں آخری کلام جس پر میں رسول اکرم ﷺ سے جدا

ہوا یہ تھا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون سا عمل بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک ترین ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم صبح وشام اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھو۔

ابن النجار

۳۹۳۰... حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آخری کلمہ جس کے بعد میں رسول اکرم ﷺ سے جدا ہوا یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کون

سا عمل بہتر ہے اور اللہ اور اس کے نزدیک کرنے والا ہے؟ فرمایا: تم صبح وشام اس حال میں گزارو کہ تمہاری زبان اللہ عزوجل کے ذکر میں تر رہے۔

ابن النجار

۳۹۳۱... حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ہر حال میں کثرت کے ساتھ اللہ عزوجل کا ذکر کرو، بے شک کوئی عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور بندہ کو دنیا و آخرت میں برائیوں

سے زیادہ نجات دینے والا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ پوچھا گیا نہ قتال فی سبیل اللہ؟ فرمایا: اگر اللہ کا ذکر نہ ہوتا تو قتال فی

سبیل اللہ کا حکم بھی نہ دیا جاتا۔ اگر تمام انسانیت اللہ عزوجل کے نزدیک پر جیسا کہ اس کا حکم ہے اکٹھی ہو جائے تو اللہ پاک اپنے بندوں پر

قتال فرض نہ کرتے۔ بے شک اللہ کا ذکر تم کو قتال فی سبیل اللہ سے نہیں روکتا بلکہ اس میں تمہاری مدد کرتا ہے۔ پس تم کہو لا الہ الا اللہ واللہ

اکبر اور سبحان اللہ والحمد للہ اور کہو تبارک اللہ، یہ پانچ کلمات ایسے ہیں جن کی ہمسری کوئی شئی نہیں کر سکتی۔ انہی پر اللہ نے

ملائکہ کو پیدا کیا، انہی کی وجہ سے اللہ نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھایا، انہی کے ساتھ انسانوں اور جنوں کی جبلت رکھی اور ان پر اللہ نے اپنے

فرائض مقرر کیے۔

اللہ پاک اپنا ذکر صرف اسی سے قبول فرماتے ہیں جو تقویٰ اختیار کرے اور اپنے دل کو پاک کرے۔ پس تم اللہ کا اکرام کرو (یوں کہ) ایسی

باتوں میں اللہ تم کو مشغول نہ دیکھے جن سے تم کو منوع کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا اللہ کا ذکر ہم کو جہاد سے کافی نہیں ہے؟ فرمایا: جہاد

تو ذکر اللہ سے کافی نہیں ہے اور نہ جہاد ذکر اللہ کے بغیر درست ہو سکتا۔ جہاد ذکر اللہ کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ خوش خبری ہے اس شخص

کے لیے جو جہاد میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ (کیونکہ جہاد کے دوران) ہر کلمہ ستر ہزار نیکیاں رکھتا ہے اور ہر نیکی دس گنا (ہر حال میں) ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس قدر ثواب ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔

لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنا؟ فرمایا: (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنا بھی اسی قدر زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ذکر اللہ سب سے زیادہ آسان عمل ہے، فرمایا: اللہ کریم ہے۔ اس نے لوگوں پر سب سے زیادہ آسان شئی کو فرض کیا ہے لیکن پھر بھی لوگ کفر و ناشکری کرتے ہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے اللہ کی رحمت (ذکر اللہ) کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، یہ چیز مومنین پر سخت ہو گئی اور اللہ نے انجام کار جہاد کو مومنین کے لیے بہتر کر دیا اور کافروں کے لیے عذاب کر دیا۔

ابن صصری فی اصابہ عن معاذ رضی اللہ عنہ

ذاکرین قابل فخر ہیں

۳۹۳۲ (معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما)۔ خالد بن الحارث سے مروی ہے کہ ہم لوگ نصف النہار کے وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ نے ہم کو دیکھا تو فرمایا:

ہم لوگ بھی نصف النہار کے وقت بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اکرم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تمہارا پروردگار عزوجل تمہاری وجہ سے اپنے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں: دیکھو ان بندوں کو یہ میرا ذکر کر رہے ہیں، پس میں نے بھی ان کے لیے جنت واجب کر دی۔

ابن شاہین فی الترغیب فی الذکر

کلام: اس روایت میں ایک راوی جنادہ بن مروان ہے جو ضعیف راوی ہے۔

۳۹۳۳ (مسند ابی الدرداء رضی اللہ عنہ)۔ حضرت ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: چلو، مضردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا: مضردون کون ہیں؟ فرمایا: جو اللہ کے ذکر میں غرق ہو جاتے ہیں (اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں) ذکر ان سے ان کے گناہوں اور خطاؤں کا بوجھ اتار دیتا ہے۔ پس وہ قیامت کے دن بالکل نیک پھلکے ہوں گے۔ ابن شاہین فی الترغیب فی الذکر

کلام: اس روایت میں ایک راوی محمد بن اشرس النیسابوری ہے جو متروک ہے اور یہ روایت کرتا ہے ابراہیم بن رستم سے جو منکر الحدیث ہے جو روایت کرتا ہے عمر بن راشد سے جو ضعیف ہے۔ (ان روایات کی بناء پر روایت ضعیف ہے)۔

۳۹۳۴ (نامعلوم راوی کی مسند) واصل بن مرزوق الدہلی سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے بنی مخزوم کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو ضعل ہے اپنے دادا سے روایت کیا، ان کے دادا اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں حضور اکرم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا: اے معاذ! تم ہر روز کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ کیا تم دس ہزار بار اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہاں اس قدر اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا: کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جو تجھ پر اس سے زیادہ آسان ہوں اور دس ہزار سے زیادہ ثواب رکھتے ہوں اور مزید دس ہزار سے زیادہ ثواب رکھتے ہوں۔ تم یہ پڑھا کرو:

لا الہ الا اللہ عدد کلمات اللہ، لا الہ الا اللہ عدد خلقہ، لا الہ الا اللہ زنة عرشہ، لا الہ الا اللہ ملا سموتہ، لا الہ الا اللہ مثل ذلک معہ، واللہ اکبر مثل ذلک معہ والحمد لله مثل ذلک معہ، لا یحییہ ملک ولا غیرہ۔

لا الہ الا اللہ اللہ کے کلمات کے بقدر، لا الہ الا اللہ اللہ کی مخلوق کے بقدر، لا الہ الا اللہ اللہ کے عرش کے ہم وزن، لا الہ الا اللہ آسمانوں کو بھر کر، لا الہ الا اللہ اس تمام کے بقدر، اللہ اکبر اس کے بقدر اس کے ساتھ اور الحمد للہ بھی اسی قدر اس کے ساتھ۔ ابن النجار

۳۹۳۵ ام انس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کچھ وصیت فرمائیے! تو آپ ﷺ نے

فرمایا: معاصی کو چھوڑ دو، یہ افضل ترین ہجرت ہے۔ فرائض کی حفاظت کرو، یہ افضل ترین جہاد ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، بے شک کل کو تم اللہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں لاسکتی جو اس کو ذکر اللہ کی کثرت سے زیادہ محبوب ہو۔ ابن شاہین فی الترغیب فی الذکر ۳۹۳۶۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! اسلام کو تازہ کرتے رہو لا الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ۔ رواہ الدیلمی

ذکر اللہ محبوب ترین عمل ہے

۳۹۳۷ (مسند معاذ رضی اللہ عنہ) حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

اے لوگو! (کثرت کے ساتھ) ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ کوئی عمل اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب نہیں اور ہر برائی سے نجات دینے والی دنیا و آخرت میں اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر اللہ کا ذکر نہ ہوتا تو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم بھی نہ ہوتا۔ اگر لوگوں کو جو ذکر اللہ کا حکم ہے تمام انسان اس پر عمل کرتے تو اللہ کو جہاد کا حکم نازل نہ کرتا پڑتا۔ اور اللہ کا ذکر لوگوں کو جہاد فی سبیل اللہ سے نہیں روکتا۔ بلکہ ان کی مدد کرتا ہے۔ پس کہو لا الہ الا اللہ اور کہو: الحمد لله، اور کہو: سبحان اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، واللہ اکبر۔ کوئی چیز ان کلمات کی برابری نہیں کر سکتی، انہی پر اللہ نے ملائکہ کو پیدا کیا، انہی کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں کو پھاڑا، زمین کو بچھایا، جن وانس کو پیدا کیا، ان پر فرائض مقرر کیے، اور اللہ پاک اپنا ذکر اسی سے قبول فرماتے ہیں جس کے قلب کو پاکیزہ کیا اور اس کو صاف ستھرا کیا۔ پس تم اللہ کا اکرام کرو باس طور کہ وہ تم کو ایسی حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے منع کیا ہے۔ بے شک اللہ نے اس کا تم سے عہد لیا ہے۔ ابن شاہین فی الترغیب فی الذکر کلام: اس میں ایک راوی بکر بن جمیس ہے جو متروک ہے۔

ذکرین سبقت کرنے والے ہیں

۳۹۳۸ نیز اسی طرح ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ نے پوچھا: سابقین کہا ہیں؟ میں نے کہا: کچھ لوگ گذر گئے اور کچھ لوگ رہ گئے۔ آپ ﷺ نے پھر دریافت فرمایا: اللہ کے ذکر کی وجہ سے سبقت کرنے والے کہاں ہیں؟ جو پسند کرے کہ جنت کے باغدار میں چرے وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ ابن شاہین موسیٰ عن عبیدہ الریدی کلام: موسیٰ بن عبیدہ ربذی جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، جن کی وفات ۱۵۳ھ میں ہوئی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حدیث نہیں لی جاتی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہیں۔ میزان الاعتدال ۲۱۳/۴

۳۹۳۹ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آخری کلمہ جس پر میں رسول اکرم ﷺ سے جدا ہوا تھا یہ تھا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے بتائیے کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے؟ دوسری روایت میں ہے کون سا عمل بہتر اور اللہ کے ہاں قریب ہے؟ فرمایا: اس حد میں تیری موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے رطبت اور تر ہو۔ ابن شاہین وابن النجار

ذکر کے آداب

۳۹۴۰ (ابن عمر رضی اللہ عنہ) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا:

اگر تم سے یہ ہو سکے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو تو پاکیزہ ہو تو ایسا ہی کرو۔ رواہ ابن جریر

باب..... اللہ کے اسماء حسنیٰ کے بیان میں

فصل..... اسم اعظم کے بارے میں

دا القاسم سعید بن محمد المؤدب، ابی المسعود احمد بن محمد بن الحنفی، ابو منصور محمد بن محمد بن عبدالعزیز العنکری، علی بن احمد الشریطی وابو اسہل
عبد بن الحسین المعدل، ابو عبد اللہ محمد بن الفضل الاخباری سلف بن العوامی، محمد بن احمد، الکاتب، احمد بن القاسم، احمد بن ادریس بن احمد بن
راہن مزاحم، عبید اللہ بن اسماعیل، عمرو بن ثابت عن ابیہ ثابت عن البراء بن عازب:

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: میں آپ کو اللہ کا اور
اس کے رسول کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ مجھے اللہ کا وہ خاص اسم اعظم بتائیے جو خصوصیت کے ساتھ آپ کو رسول اللہ ﷺ نے بتایا
ہے۔ اور آپ ﷺ کو خصوصیت کے ساتھ جبرئیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اور ان کو رحمن عزوجل نے یہ نام دے کر بھیجا تھا۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ فس دئیے پھر فرمایا: اے براء! جب تم چاہو کہ اللہ کو اس کے اسم اعظم کے
ساتھ پکارو تو سورہ حدید کی اول چھ آیات (علیم بذات الصدور) تک اور سورہ حشر کی آخری چار آیات پڑھو پھر اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور کہو:

یا من هو هكذا اسألک بحق هذه الأسماء أن تصلي علي محمد وآل محمد -

اے وہ ذات جو عظیم صفات کے ساتھ متصف ہے میں تجھ سے ان اسماء کے حق کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ محمد اور آل محمد (ﷺ) پر
درود بھیج (اور میری یہ دعا قبول کر۔)

اس کے بعد جو تیرا ارادہ ہو وہ کہہ۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تیری حاجت ضرور قبول کی جائے گی۔ ابو داؤد
کلام:..... الخی کتاب میں مؤلف کتاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمرو بن ثابت رافضی (شیعہ) ہیں جو خود اس بات کے قائل ہیں۔
۳۹۳۲ (مسند انس رضی اللہ عنہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ
رہا تھا (نماز کے بعد) اس نے دعا مانگی:

اللهم انی اسألک بان لک الحمد لا اله الا انت وحدک لا شریک لک المنان بديع السموات
والارض، يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم۔ اسألک الجنة واعوذ بک من النار۔ زاد ابن عساکر
”اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس تپیل کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی
شریک نہیں، تو احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے ذوالجلال والا کرام اے حی! اے قیوم! میں تجھ
سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

اس شخص کی یہ دعا سن کر نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

اس شخص نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے۔ (بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں)

قریب تھا کہ یہ شخص اللہ کے اس نام کے ساتھ پکارتا جس کے ساتھ جب بھی کوئی دعا کی گئی قبول ہوئی۔ جب بھی کوئی سوال کیا گیا پورا ہوا۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک الحاکم، بخاری و مسلم، السنن لسعید بن منصور
۳۹۳۳ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ابی عیاش کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے

اللهم ان لک الحمد لا اله الا انت المنان بديع السموات والارض ذا الجلال والاكرام
رسول اکرم ﷺ نے لوگوں سے فرمایا: جانتے ہو اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے

گئی، حضرت جبرئیل علیہ السلام آپ کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے پاس سے گذرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا: یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: یہ محمد (ﷺ) ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! اپنی امت کو کہو کہ جنت میں کثرت کے ساتھ درخت لگالیں، جنت کی زمین بہت وسیع ہے اور اس کی مٹی بھی بہت عمدہ ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا: جنت کے درخت کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

لا حول ولا قوة الا بالله۔ ابو نعیم وابن النجار

۳۹۴۹ (ابو زرعی اللہ عنہ) یا ہاذرا کیا میں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ لا حول ولا قوة الا بالله ہے۔

الدارقطنی، مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، مسند ابی یعلیٰ، الرویانی، ابن حبان، الکبیر للطبرانی، شعب الایمان للبیہقی عن ابی ذر رضی اللہ عنہ۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ

۳۹۵۰ حضرت ابو زرعی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے دوست نے وصیت کی تھی میں لا حول ولا قوة الا بالله پڑھا کروں۔

ابن النجار

نوٹ: احادیث جداول کے تیسرے باب میں ۱۹۶۰، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۳، ۱۹۶۴ اور ۱۹۶۵ نمبرات پر گذر چکی ہیں۔

باب..... تسبیح کے بیان میں

۳۹۵۱ (مسند ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ) میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بڑے پروں والا کوا لایا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کوئی بھی شکار شکار کیا جاتا ہے یا کوئی بھی درخت کا ٹاٹا جاتا ہے تو صرف ان کے خدا کی تسبیح چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، الزہد لامام احمد

۳۹۵۲ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو (بطور سزا کے کوڑے) مارنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک بسم اللہ کہنے لگا اور دوسرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارنے والے کو فرمایا:

افسوس تجھ پر! تسبیح کرنے والے پر (ہاتھ) ہلکا رکھ بے شک تسبیح صرف مؤمن ہی کے دل میں ٹھہر سکتی ہے۔ شعب الایمان
۳۹۵۳ سعید بن جبر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ تسبیح (کے دانوں) پر تسبیح کر رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے بجائے اس کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ ان کلمات کو پڑھ لیتا:

سبحان الله ملء السموات وملء الارض وملء ماشاء من شىء بعد

الحمد لله ملء السموات وملء الارض وملء ماشاء من شىء بعد

الله اكبر ملء السموات والارض وملء ماشاء من شىء بعد

سبحان الله، آسمانوں، زمین اور ان کے بعد جو رب چاہے سب کے بقدر

الحمد لله، آسمانوں، زمین اور ان کے بعد جو رب چاہے سب کے بقدر

الله اكبر آسمانوں، زمین اور ان کے بعد جو رب چاہے سب کے بقدر۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۳۹۵۴ حسین بن خیر بن حوثرہ بن عییش الموفقی بن ابی النعمان الطائی الحمصی، اپنی اس سند کے ساتھ، ابو القاسم عبدالرحمن بن یحییٰ بن ابی انقاش، عبداللہ بن عبدالجبار النجاشی، الحکم بن عبداللہ بن خطاب، الزیدی، ابی واقد روایت کرتے ہیں:

جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ (ملک شام کے سفر میں) مقام جابہ پر اترے تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس قبیلہ بنی ثعلب کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا۔ جس کا نام روح بن حبیب تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بچہ میں شیر کو قید کر کے لایا تھا۔ اس نے وہ بچہ حضرت عمر رضی اللہ

عنه کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا: کیا تم نے اس کے ناب (نوکیلے دانت) اور نچے توڑ دیئے ہیں؟ لوگوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے الحمد للہ پڑھا اور فرمایا:

میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا ہے جب بھی کوئی جانور اپنی تسبیح میں کمی کر دیتا ہے اس کو شکار کر لیا جاتا ہے۔

پھر آپ رضی اللہ عنہ نے شیر کو حکم دیا: اے فسورۃ! (شیر) اللہ کی عبادت کر۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا۔

کلام: اس روایت میں حکم اور ان سے روایت کرنے والے عبداللہ بن عبد الجبار الخزازی دونوں ضعیف راوی ہیں۔ جبکہ ان سے قبل مذکور شروع کے دور راوی مجہول ہیں۔

ذکر اللہ میں مصائب سے حفاظت

۳۹۵۵۔ اسی مذکورہ مسند کے ساتھ مروی ہے حضرت ابو واقد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر مجلس تھا، آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک کوالا لایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو سالم پروں کے ساتھ دیکھا تو الحمد للہ پڑھا۔ پھر فرمایا: نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے:

کوئی شکار شکار نہیں ہوتا مگر تسبیح میں کمی کی وجہ سے، ورنہ اللہ پاک (اگر وہ تسبیح کرتا ہے تو) اس کے ناب (نوکیلے دانت یا پنچے وغیرہ) اگا دیتے ہیں اور ایک فرشتہ اس پر نگراں مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی تسبیح (روز و شب) شمار کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ قیامت کو وہ (اپنی تسبیحات کے ساتھ) پیش ہو۔ اور نہ کوئی رشیدہ دار درخت کاٹا جاتا ہے۔ (مگر اس کے تسبیح چھوڑ دینے کی وجہ سے) اور اکثر و بیشتر اللہ پاک معاف کرتے رہتے ہیں۔

پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے کوئے! اللہ کی عبادت کیا کر پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ رواہ ابن عساکر

کلام: یہ روایت منکر (ناقابل اعتبار ہے) کیونکہ روایت میں شروع کے مذکورہ دور راوی مجہول الحال ہیں اور ان کے بعد کے دور راوی حکم بن عبداللہ اور الخزازی ضعیف ہیں۔

۳۹۵۶۔ (حضرت علی رضی اللہ عنہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم کو سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا تو علم ہے لیکن الحمد للہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے اور چاہتے ہیں کہ اس کو (خوب) کہا جائے۔

۳۹۵۷۔ ابی ظبیران رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابن الکواء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سبحان اللہ کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا: یہ ایسا کلمہ ہے جس پر اللہ پاک اپنے لیے راضی ہو گئے ہیں اور اس میں ہر برائی سے اللہ کی پاکی کا بیان ہے۔

العسکری فی الامتال

۳۹۵۸۔ ابی ظبیران رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن الکواء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا لا الہ الا اللہ اور الحمد للہ کو تو ہم جان گئے باقی سبحان اللہ کیا شے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ایسا کلمہ ہے جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔

ابو الحسن البکائی

۳۹۵۹۔ (سعد رضی اللہ عنہ) حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ دن میں ہزار نیکیاں روز کر لیا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی (دن میں) ہزار نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا: ہر روز سو بار سبحان اللہ (وغیرہ) کہہ لیا کرے تو اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور ہزار برائیوں کا مٹاؤں جائیں گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، عبد بن حمید، مسلم، ترمذی، ابن حبان، ابو نعیم

۳۹۶۰ (انس بن مالک رضی اللہ عنہ) حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں حضور ﷺ کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ آپ ﷺ کا گذر ایک درخت کے پاس سے ہوا، جس کے پتے سوکھ چکے تھے نبی اکرم ﷺ نے ایک لاشی جو آپ کے ساتھ تھی درخت پر ماری، جس سے درخت کے پتے گرنے لگے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

سبحان اللہ، الحمد للہ، اور لا الہ الا اللہ گناہوں کو ایسے گراتے ہیں جیسے یہ درخت پتوں کو گرا رہا ہے۔ ترمذی

۳۹۶۱ (عمار رضی اللہ عنہ) حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے کہ بندہ یہ لگے کہ سبحان اللہ عدد کل ما خلق اللہ۔ اللہ کی تمام مخلوقات کے بقدر سبحان اللہ۔ رواہ ابن عساکر

۳۹۶۲ (ابو امامۃ الباہلی)۔ حضرت ابو امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم ﷺ نے اس حال میں دیکھا کہ میرے (کچھ پڑھنے کی وجہ سے) ہونٹ مل رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم کیوں ہونٹ ہلا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ وہ اس سے زیادہ ثواب والی ہو کہ اگر تم رات بھر ذکر کرتے رہو حتیٰ کہ دن کرو اور دن بھر ذکر کرتے رہو حتیٰ کہ رات کرو۔ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں اے اللہ کے نبی! تو آپ ﷺ نے فرمایا: یوں کہو:

الحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملء ما خلق والحمد للہ عدد ما فی السموات والارض

والحمد للہ عدد ما احصى كتابه والحمد للہ عدد كل شیء والحمد للہ ملء كل شیء

سبحان اللہ عدد ما خلق وسبحان اللہ ملء ما خلق وسبحان اللہ عدد ما فی السموات والارض

وسبحان اللہ عدد ما احصى كتابه وسبحان اللہ عدد كل شیء وسبحان اللہ ملء كل شیء

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں یہ کلمات اپنے بعد آنے والوں کو بھی سکھاؤں۔

الروایانی، ابن عساکر

باب استغفار اور تعویذ کے بیان میں

استغفار

۳۹۶۳ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو: استغفر اللہ واتوب الیہ کہتے سنا تو فرمایا: افسوس تجھ پر ان کے

ساتھ انکی بہن کو بھی ملا: فاغفر لی وتب علی۔ احمد فی الزهد، ہناد

فائدہ: استغفر اللہ واتوب الیہ کا معنی ہے اللہ! میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں لہذا اس کے بعد یہ کہنا ضروری ہے: فاغفر لی وتب علی۔ میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما۔

۳۹۶۴ (علی رضی اللہ عنہ) علی بن ربیعہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے سواری پر سوار کرایا اور حرہ کی جانب مجھے لے چلے۔ (راستے میں) اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے:

اللهم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک

اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے اور ہنسنے لگے۔ میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! آپ نے اپنے رب سے استغفار

کیا پھر میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے بھی مجھے (ایک مرتبہ) اپنے پیچھے سوار کرایا پھر حرہ کی طرف لے چلے۔ پھر آسمان کی طرف سر اقدس اٹھا کر یہی دعا کی:

اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب احد غيرك
 پھر میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے؟ تو رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اپنے رب کے ہنسنے کی وجہ سے ہنس پڑا، رب تعالیٰ اپنے بندے پر
 تعجب (اور فخر) کرتے ہوئے ہنستے ہیں کہ بندہ جانتا ہے اس کے سوا کوئی اس کے گناہوں کو بخشے والا نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ابن منیع
 یہ حدیث صحیح ہے۔
 ۳۹۶۵ شععی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

استغفار وسعت کاذر لیم ہے

مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو نجات کے باوجود ہلاک ہو جائے۔ پوچھا گیا نجات کیا ہے؟ فرمایا: استغفار۔ الدینوری

۳۹۶۶ ”الفرج بعد الشدة“ کتاب میں ابو بلی التوخی فرماتے ہیں: ایوب بن عباس بن حسن جن کے والد عباس خلیفہ مکتفی کے اہواز پر
 وزیر تھے فرماتے ہیں ہم سے علی بن ہمام نے ایک سند کے ساتھ جس کو میں بھول گیا بیان کیا کہ ایک دیہاتی شخص نے حضرت علی بن ابی
 طالب کرم اللہ وجہہ سے زندگی کی تنگی، مال کی کمی اور اہل و عیال کی کثرت کی شکایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا: تم استغفار کو
 لازم پکڑو۔ کیونکہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں:

استغفروا ربکم انه کان غفارا

اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے۔

چنانچہ (اعرابی چلا گیا اور کچھ دنوں بعد اعرابی واپس آیا اور عرض کیا: اے امیر المؤمنین! اللہ سے بہت استغفار کیا، لیکن میں) جن حالات کا
 شکار ہوں ان سے خلاصی کی صورت نہ نکلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: شاید تم نے اچھی طرح استغفار نہ کیا ہوگا؟ اعرابی نے عرض کیا: پھر
 آپ ہی مجھے سکھا دیجیے! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اپنی نیت خالص رکھو، اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرو اور یوں کہو:

اللهم انی استغفرک من کل ذنب قوی علیہ بدنی بعافیتک، أو نالته قدرتی بفضل نعمتک، أو بسطت الیہ
 یدی بسابع رزقک، أو انکلت فیہ عند خوفی منک علی أناتک، أو وثقت بحلمک أو عولت فیہ علی کرم
 عفوک، اللهم انی استغفرک من کل ذنب خنت فیہ أمانتی، أو بیخست فیہ نفسی، أو قدمت فیہ لذاتی،
 أو آثرت فیہ شهواتی، أو سعیت فیہ لعیری، أو استعرت فیہ من تبغی أو غلبت فیہ بفضل حیلتی اذا حلت فیہ
 علیک مولای فلم تغلبنی علی فعلی اذا کنت سبحانک کارها لمعصیتی، لکن سبق علمک فی اختیاری
 واستعمالی مرادی، وایثاری فحلمت عنی فلم تدخلنی فیہ جبرا ولم تحملنی علیہ قهراً، ولم تظلمنی شیئاً، یا
 أرحم الراحمین، یا صاحبی عند شدتی، یا مؤنسی فی وحدتی، یا حافظی فی نعمتی، یا ولی فی نفسی یا کاشف
 کربتی، یا مستمع دعوتی، یا راحم عبرتی، یا مقیل عثرتی یا الہی بالتحقیق، یا رکنی الوثیق، یا جاری اللصیق یا
 مولای الشفیق یا رب البیت العتیق، أخرجنی من خلق المضیق الی سعة الطریق وفرج من عندک قریب وثیق،
 واكشف عنی کل شدة وضیق واكفنی ما أطیق وما لا أطیق، اللهم فرج عنی کل هم وغم وأخرجنی من کل
 حزن وكرب یا فارح الهمم وكاشف الغم ویا منزل القطر ویا مجیب دعوة المضطربین یا رحمن الدنیا والآخرة
 ورحیمہما، صل علی خیرتک من خلقک محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین، وفرج
 عنی ما قد ضاق بہ صدري وعیل منه صبری وقلت فیہ حیلتی وضعفت له قوتی، یا کاشف کل ضرر وبلية ویا
 عالم کل سر وخفیة یا أرحم الراحمین، أفوض أمری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، وما توفیقی الا باللہ علیہ

تو کلت وهو رب العرش العظيم.

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تیرے حضور معافی مانگتا ہوں اپنے ہر گناہ سے، آپ کی عافیت کی وجہ سے جس پر میرا بدن قوی ہو گیا۔ تیری نعمت کے سبب میں گناہ پر قادر ہوا، تیری نعمت کی کثرت کی وجہ سے میں گناہ کی طرف بڑھا، گناہ کے وقت تیرے خوف کو بھول کر تیری امید پر بھروسہ کر بیٹھا، تیری بردباری پر بھروسہ کر لیا، تیری معافی اور درگزر کی تاویل کر کے گناہ میں غرق ہو گیا۔ اے اللہ! میں اپنے ہر گناہ سے تیری جناب میں معافی مانگتا ہوں۔ جس میں نے اپنی امانت میں خیانت کا ارتکاب کیا، اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنی لذتوں کو آگے رکھا، اپنی شہوتوں کو ترجیح دی، دوسرے کے لیے کوشش کی (اور تیری نافرمانی ہوئی)، اپنے پیچھے چلنے والوں کی وجہ سے گناہ کے دھوکے میں پڑ گیا، حیلے بہانوں کے ساتھ گناہوں میں پڑ گیا، لیکن تو نے مجھے پھر بھی اپنے عذاب میں مغلوب نہیں کیا، باوجود اس کے کہ اے پروردگار تو میرے گناہ کو ناپسند کرتا تھا۔ تیرے علم میں پہلے سے تھا کہ میں گناہ کے راستے کو اختیار کروں گا اور بری راہ کو ترجیح دوں گا۔ لیکن تو نے پھر بھی میرے ساتھ بردباری کی۔ اور یقیناً تو نے مجھے جبراً گناہ کی دلدل میں نہیں ڈالا، نہ مجھے زبردستی اس پر مجبور کیا اور نہ ذرہ بھر بھی ظلم کیا اے ارحم الراحمین! اے ہر مصیبت کے وقت کے ساتھی! اے تہائی کے انیس! اے نعمتوں کے محافظ! اے میرے اندر کے دوست! اے کرب و مصیبت کو دور کرنے والے! اے میری پکار کو سننے والے! اے میرے آنسوؤں پر رحم کھانے والے! اے میری لغزش کو درگزر کرنے والے! اے میرے برحق مولیٰ! اے میرے مضبوط پشت پناہ! اے میرے قریب ترین اور میرے اندر جاری! اے محبت کرنے والے آقا!

اے بیت عتیق کے پروردگار! مجھے تنگی کے حلقہ سے کشادگی کے راستے کی طرف نکال، اپنے ہاں سے جلد کشادگی و فراخی فرما۔ ہر تنگی سختی کو مجھ سے دور فرما، ہر چیز میں میری کفایت فرما، میری طاقت میں ہو یا نہیں، اے اللہ! مجھ سے ہر رنج اور غم کو کھول دے۔ اے بارش برسانے والے! اے مجبوروں کی پکار سننے والے! اے دنیا و آخرت کے رحمن و رحیم صلوٰۃ و سلام نازل فرما اپنی مخلوق کے بہترین شخص حضرت محمد ﷺ پر اور آپ کی پاکیزہ آل پر۔ اور جس تنگی میں میرا دل مضطرب ہے جس پر میرے صبر کا پیمانہ چھلک رہا ہے، جس میں میری تدبیر کمزور پڑ گئی ہے میری قوت جواب دے گئی ہے اس مصیبت و تنگی کو مجھ سے ختم فرما۔ اے ہر نقصان، آزمائش کو ختم کرنے والے! اے ہر راز و پوشیدہ کو جاننے والے! ایا ارحم الراحمین! میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور میری توفیق اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔

اعرابی کہتے ہیں: میں نے اس دعا کو کئی مرتبہ پڑھا اور اللہ نے مجھ سے ہر طرح کے غم اور تنگی و مشکل کو ختم کر دیا، رزق کو کشادہ کر دیا اور مشقت و پریشانی بالکل زائل فرمادی۔ ابن النجار

۳۹۶۷ (انس بن مالک) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: استغفار کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: ہم استغفار کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ستر دفعہ پورا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، ہم نے (ستر دفعہ) پورا کیا۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے ستر دفعہ استغفار کیا اس کے سات سو گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ تباہ و بربادہ و جو ایک دن و رات میں سات سو گناہ کرے۔

۳۹۶۸ (حدیفہ رضی اللہ عنہ) حدیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی کہ میری زبان بہت تیز ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم استغفار کرنے سے کہاں رہ گئے تھے۔ میں تو دن میں سو سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۳۹۶۹ (ابو الدرداء رضی اللہ عنہ) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے اعمال نامہ میں استغفار کا ذخیرہ پایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۳۹۷۰ (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ کے بعد میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ آپ سے زیادہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کرتا ہو۔ مسند ابی یعلیٰ، ابن عساکر رضی اللہ عنہ

التعوذ

۳۹۷۱... (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ پانچ چیزوں سے (تعوذ) پناہ مانگا کرتے تھے:

اللهم انى اعوذ بك من البخل والجبن وفتنة الصدر وعذاب القبر وسوء العمر۔
اے اللہ! میں بخل، بزدلی، دل کے فتنے، قبر کے عذاب اور بری عمر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، الشاشی، ابن حبان، ابن جریر، السنن لیوسف القاضی، مکارم

الاخلاق للخراطی، الدار قطنی فی الافراد، مستدرک الحاکم، السنن لسعيد بن منصور

۳۹۷۲... حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو یوں اعازہ کرتے تھے:

اعینذ کما یکلمت اللہ النامة من کل شیطان وهامة ومن کل عین لامة۔

اے میں تم دونوں کو شیطان، وسوسہ انداز اور ہر بری نگاہ سے اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء

۳۹۷۳... (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: جس شخص نے صبح کی نماز کے بعد دس بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی تو

اللہ پاک اس کے پاس دو فرشتے بھیجیں گے جو اس کے گھر کی حفاظت کریں گے حتیٰ کہ شام ہو جائے۔ اور جس نے مغرب کے بعد تعوذ پڑھا اس کو

بھی صبح تک یہ فائدہ رہے گا۔ ابو عمرو والزاهد محمد بن عبد الواحد فی فوائدہ

کلام: اس روایت میں ایک راوی حارث بن عمران حمل جعفری ہیں، جن کے متعلق امام ابن حبان فرماتے ہیں یہ حدیث گھڑتے ہیں۔

۳۹۷۴... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ آٹھ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے: رن، عم، عجز، سستی، بزدلی،

بخل، قرض کے بوجھ اور دشمن کے غلبہ سے۔ رواہ ابن عساکر

۳۹۷۵... (مسند زید بن ثابت) (زید رضی اللہ عنہ بن ثابت سے مروی ہے کہ) رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللہ کی پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے، ہم نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے، پھر فرمایا: اللہ کی پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے، کھلے اور

چھپے فتنوں کے عذاب سے اور دجال کے فتنے سے۔ ہم نے کہا (ہم ان سب فتنوں سے) اور دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

۳۹۷۶... (مسند ابن عباس رضی اللہ عنہما) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز کے بعد یوں تعوذ فرمایا (پناہ

مانگا) کرتے تھے:

اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر و اعوذ بك من عذاب النار و اعوذ بك من الفتن باطنها و ظاهرها

و اعوذ بك من الاعور الکذاب۔

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں پوشیدہ اور

ظاہری فتنوں سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں کانے جھوٹے (دجال) سے۔ رواہ ابن جریر

۳۹۷۷... ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نماز کے بعد چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے: قبر کے عذاب سے،

جہنم کے عذاب سے، خفیہ اور کھلے فتنوں سے اور دجال سے۔ رواہ ابن جریر

جن، آسیب وغیرہ کے اثرات سے تعوذ

۳۹۷۸... (ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) حضرت ابی رضی اللہ عنہ بن کعب فرماتے ہیں میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا ایک دیہاتی آیا

اور عرض کیا: اے اللہ کے نبی! میرا ایک بھائی ہے جس کو کچھ تکلیف ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو کیا تکلیف ہے؟ عرض کیا: اس پر اثرات

ہیں! فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ اعرابی اپنے بھائی کو لایا اور نبی علیہ السلام کے سامنے بٹھا دیا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اس کو سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی اول چار آیات والہکم اللہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم آیۃ الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری تین آیات، آل عمران کی یہ مکمل آیت: شہد اللہ انہ لا الہ الا هو سورہ اعراف کی یہ مکمل آیت: ان ربکم اللہ، سورہ المؤمنون کی آخری آیات، فضل اللہ الملک الحق سے آخر تک، سورہ جن کی یہ مکمل آیت: وانہ تعالیٰ جلد ربنا، سورہ صافات کی پہلے دس آیات، سورہ حشر کی آخری تین آیات، سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دم لیں۔

چنانچہ آدمی یوں چنگا بھلا کھڑا ہو گیا گویا اس کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ (مسند احمد، مستدرک الحاکم، الترمذی فی الدعوات ۳۹۷۹ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بزدلی، بجل، زندگی و موت کے فتنے اور قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔

۳۹۸۰ (مراسیل محول) حضرت محول رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ میں داخل ہوئے تو جن آپ پر انکار پھینکنے لگے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! ان کلمات کے ساتھ تعوذ (پناہ مانگو)۔ (چنانچہ آپ نے ان کلمات کے ساتھ پناہ مانگی تو) جن وشیطین سے آپ کی حفاظت ہوگئی۔ وہ کلمات یہ ہیں:

اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق النی لایجاوزہن بربولا فاجر من شر ما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، ومن شر ما بت فی الارض وما یخرج منها ومن شر اللیل والنہار ومن شر کل طارق الاطرقا ینطق ببخیر یا رحمن۔

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام ان کلمات کے ساتھ تمام مخلوق کے شر سے جن کلمات کو کوئی نیک تجاوز کر سکتا اور نہ بد۔ اور ہر اس شر سے جو آسمان سے اترے اور جو آسمان میں چڑھے۔ ہر اس شر سے جو زمین میں پھیلے اور جو زمین سے نکلے، رات اور دن کے شر سے اور ہر رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے۔ یا رحمن۔ مصنف ابن ابی شیبہ

فائدہ:..... محول ثقہ ہیں۔ کئی صحابہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور نبی کریم ﷺ سے مرسل (صحابی کا واسطہ چھوڑ کر) روایت کرتے ہیں۔

باب حضور ﷺ پر درود پڑھنے کے بیان میں

۳۹۸۱. (مسند صدیق رضی اللہ عنہ)۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک شخص آیا اور سلام عرض کیا۔ نبی ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا، خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے پیش آئے اور نبی کریم ﷺ نے (اس کے جانے کے بعد) فرمایا: اے ابو بکر! یہ تمام اہل ارض کے عمل کے مقابلہ میں عمل کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا: وہ کیسے؟ فرمایا: یہ شخص ہر صبح کو مجھ پر ساری مخلوق کے بقدر مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے پھر عرض کیا: وہ کیسے؟ فرمایا: یہ درود پڑھتا ہے:

اللہم صل علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصل علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصل علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔

اے اللہ! محمد پیغمبر پر اس قدر درود نازل فرما جس قدر تیری تمام مخلوق اس پر درود بھیجتی ہے۔ محمد پر ایسا درود نازل فرما جیسا کہ ہمارے لیے درود بھیجنا مناسب ہے اور محمد پیغمبر پر اس طرح درود نازل فرما جس طرح آپ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ الدارقطنی فی الافراد، التاريخ لابن السجار

کلام:..... امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ سلیمان بن الربیع البہذی اس کو کادح بن روح سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزان میں فرماتے ہیں یہ سلیمان بن الربیع متروک راوی ہیں۔ جب کہ کادح کے متعلق اردح وغیرہ

فرماتے ہیں یہ کذاب ہے۔ حافظ ابن حجر "اللسان" میں فرماتے ہیں، ابن عدی کہتے ہیں اس شخص کی عام احادیث غیر محفوظ ہیں، اس کی مسند میں کوئی تابع ہے اور نہ متون میں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص مسر رحمۃ اللہ علیہ اور ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے موضوع احادیث روایت کرتا ہے میں نے اس حدیث کو کتاب الموضوعات میں داخل کیا ہے۔ دیکھنا چاہئے کہ اگر اس حدیث کا کوئی تابع یا شاہد (نظیر) موجود ہو تو یہ روایت موضوع ہونے کے کلام سے نکل جائے گی۔ (لیکن بہر صورت ضعیف ہے)۔

۳۹۸۲ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ پانی کو بجھاتی ہے، نبی ﷺ پر سلام بھیجا غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی محبت رکھنا جانوں کو آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے یا فرمایا: اللہ کی راہ میں تلوار چلانے سے زیادہ افضل ہے۔ تاریخ اللطیف للترغیب للاصیہانی

۳۹۸۳ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلے دیکھا کہ کوئی آپ کے ہمراہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے۔ چنانچہ پانی سے بھرا ہوا چمڑے کا ایک برتن لے کر پیچھے گئے۔ قریب پہنچ کر دیکھا کہ آپ ﷺ ایک چبوترے پر سجدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے قریب سے ہٹ کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حتیٰ کہ نبی ﷺ نے سجدہ سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا: اے عمر! تم نے اچھا کیا جو مجھے سجدہ میں دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور یہ فرما گئے ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا۔ الاوسط للطبرانی، السنن لسعيد بن منصور

۳۹۸۴ حضرت سعید بن المسیب (جو انتہائی ثقہ تابعی ہیں) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دعا آسمان اور زمین کے درمیان تھی رہتی ہے اور اوپر نہیں جاتی حتیٰ کہ آپ پر درود نہ بھیجا جائے۔ ترمذی

۳۹۸۵ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے بتایا گیا ہے کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور اوپر نہیں جاسکتی جب تک کہ نبی کریم ﷺ پر درود نہ پڑھا جائے۔ ابن راہویہ

سند صحیح ہے۔

۳۹۸۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اس کی دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، پس جب وہ آپ پر درود بھیجتا ہے تو دعا آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔

الدیلمی، عبدالقادر الرواہی فی الاربعین

کلام:..... اس مضمون کی روایت جیسا کہ اوپر گزریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہیں اور مرفوع کے حکم میں ہیں اور سند امر نوز سے زیادہ صحیح ہیں۔

۳۹۸۷ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہر دعا آسمان پر جانے سے رکی رہتی ہے حتیٰ کہ نبی کریم ﷺ پر درود بھیجا جائے۔ پس جب نبی کریم پر درود پڑھا جاتا ہے تو دعا اوپر بلند ہو جاتی ہے۔ الرواہی

۳۹۸۸ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہر دعا آسمان پر جانے سے رکی رہتی ہے، حتیٰ کہ محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ پر درود بھیجا جائے۔ عید اللہ بن محمد بن حفص العیشی فی حدیثہ، الاربعین لعبدالقادر الرواہی۔ الاوسط للطبرانی، شعب الایمان للبیہقی

۳۹۸۹ سلامۃ الکندی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو نبی ﷺ پر یہ درود پڑھنے کے لیے سکھاتے تھے:

اللهم داہی المدحوات، وبارئ المسمومات وجبار اهل القلوب علی خطراتها شقینها وسعیدها، اجعل شرائف صلواتک رسوامی برکاتک ورافة تحننک علی محمد عبدک ورسولک الخاتم لما سبق، والفاتح لما أغلق، والمعین علی الحق بالحق، والواضع والدماغ لجیشات الاباطیل، کما حمل فاضطلع بأمرک

بطاعتک مستوفزاً فی مرضاتک غیر نکل عن قدم ولا وهن فی عزم، واعیاً لوحیک، حافظاً لعهدک، ماضیاً علی نفاذ امرک، حتی أوری قیساً لقباس، به هدیت القلوب بعد خوضات الفتن والاثم بموضحات الاعلام، ومسرات الاسلام وناثرات الأحکام، فهو أمینک المأمون وخازن علمک المنخزون، وشہیدک یوم الدین، وبعیثک نعمۃً ورسولک بالحق رحمة، اللهم افسح له مفسحاً فی عندک، واجزه مضاعفات الخیر من فضلک، مہنات له غیر مکدرات، من فوز ثوابک المعلول وجزیل عطائک المنخزون، اللهم اعل علی بناء الناس بناء ۵، وأکرم مثواه لیدیک ونزله وأتمم له نوره، واجزه من ابتغائک له مقبول الشهادة ومرضى المقالة ذا منطق عدل، وکلام فصل، وحجة وبرهان.

ترجمہ:..... اے اللہ! پست چیزوں کو بچھانے والے! بلند چیزوں کو اٹھانے والے! اے بد بخت اور نیک اہل قلوب کو خطرات پر کمر بستہ کرنے والے! اپنے شرف والے درود، اپنی بڑھنے والی برکتیں اور اپنی نرمی و مہربانیاں اپنے اور اپنے رسول محمد خاتم الانبیاء محمد ﷺ پر نازل فرما۔ جو بند دروازوں کو کھولنے والے ہیں، حق کے مددگار ہیں، باطل پرستوں کے لشکروں کی فتح کرنے والے ہیں، ان پر جیسا بھی بوجھ لادا گیا وہ آپ کے حکم کو لے کر کمر بستہ ہو گئے، آپ کی رضاء مندی کو حاصل کیا، (خدا کے عطا کردہ) مرتبے سے پیچھے ہٹے اور نہ کسی عزم میں کمزوری دکھائی، آپ کی وحی کو محفوظ کیا، آپ کے عہد کی پاسداری کی، آپ کے حکم کے نفاذ میں (ہر مشکل سے) گذرتے رہے، حتیٰ کہ (حق کا) شعلہ جلا دیا۔ آپ کے ذریعہ فتنوں اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے دلوں کو ہدایت نصیب ہوئی۔

حق کی نشانیاں واضح ہو گئیں، اسلام کے پردے کھل گئے اور احکام خداوندی روشن ہو گئے۔ اے اللہ! پس وہ (پیغمبر) تیری امانت کا سچا امانت دار ہے، تیرے علم کے خزانے کا خازن ہے، قیامت کے دن تیرا گواہ ہے۔

اے اللہ! اپنے باغ عدن میں اس کے لیے خوب خوب کشتادگی کر، اپنے فضل سے اس کو خیر دیر عطا کر، اپنے ثواب کی کامیابی اور اپنی عطاء کے خزانے سے نواز کر خوشیاں اور تہنیت اس کے لیے جاری کر دے۔

اے اللہ! سب لوگوں کے مرتبے پر اس کا مرتبہ بلند کر دے، اپنے پاس اچھا ٹھکانہ اور عمدہ مہمانی کے ساتھ اس کا اکرام کر، اپنے نور کو اس کے لیے کامل کر دے، اپنی رضامندی کے صلہ اس کو مقبول الشہادت حق کو اور رحمت و دلیل کے ساتھ فیصلہ کن کلام کرنے والا بنا۔

الأوسط للطبرانی، ابو نعیم فی عوالی سعید بن منصور

۳۹۹۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: جس شخص نے جہد کے دن نبی کریم ﷺ پر سو مرتبہ درود پڑھا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ نور علی نور ہوگا لوگ (مارے رشک کے) کہیں گے: یہ کیا عمل کرتا تھا۔ شعب الایمان للبیہقی

۳۹۹۱ امام حاکم نے علوم الحدیث میں ابوبکر بن ابی حازم حافظ کوفہ، علی بن احمد بن حسین العجلی، حرب بن الحسن الطحان، یحییٰ بن مسعود الخیاط، عمرو بن خالد، زید بن علی بن حسین بن علی بن علی بن ابی طالب پر ایک راوی کہتا ہے مجھے بیان کرنے والے نے میرے یہ کلمات شمار کرائے اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور ﷺ نے میرے ہاتھ میں شمار کرا کے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں یہ کلمات شمار کرائے اور فرمایا: مجھے رب العزت نے اس طرح فرمایا ہے:

اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم وترحم علی محمد وعلی آل محمد، کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم وتحنن علی محمد وعلی آل محمد، کم تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم وسلم علی محمد وعلی آل محمد، کما سلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.

ترجمہ: اے اللہ محمد اور آل محمد پر درود (رحمت) نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر درود نازل فرمایا۔ بے شک تو سزاوار حمد اور بزرگ ہے۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ بے شک تو لائق حمد اور بزرگ ذات ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر رحمتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو لائق حمد اور بزرگ ذات ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر مہربانیاں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر مہربانیاں نازل فرمائیں۔ بے شک تو لائق حمد اور بزرگ ذات ہے۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر سلام نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر سلام نازل کیا ہے۔

بے شک تو لائق حمد اور بزرگ ذات ہے۔ شعب الایمان للبیہقی عن الحاکم فائدہ: یہ حدیث قطع نظر اسنادی حیثیت کے جس کو ذیل میں کلام کے عنوان کے تحت بیان کریں گے، حدیث مسلسل ہے، حدیث مسلسل کا مطلب ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرماتے وقت کوئی خاص ہیئت اختیار فرمائی مثلاً واڑھی مبارک ہاتھ میں لے لی۔ پھر ہر راوی نے آگے حدیث بیان کرتے ہوئے اس ہیئت کا لحاظ کیا اور آپ علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے واڑھی کو ہاتھ میں لے کر تو یہ حدیث حدیث مسلسل باللحیہ کہلائی۔ اسی طرح مذکورہ بالا روایت حدیث مسلسل بالید ہے۔ اس میں جبرئیل علیہ السلام نے حضور ﷺ کو حدیث سنائی تو آپ علیہ السلام کلمات حدیث کو اپنے ہاتھوں پر شمار کرتے رہے۔ پھر حضور نے آگے بیان فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر شمار کرتے رہے۔ اسی طرح آخر راوی تک یہ کیفیت مسلسل رہی اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ آخری راوی نے یونہی روایت نقل کر کے اپنی کتاب علوم الحدیث میں نقل کی، ان سے مؤلف کتاب ہڈانے نقل کی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کلام: امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح ہم تک یہ روایت پہنچی ہے۔

اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ اس کو ترمذی، ابن اصفہان اور ابن مسدد نے اپنی مسلسلات میں تخریج کیا ہے۔ نیز قاضی عیاض نے الشفاء میں اور ذیلی نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے عراقی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کی شرح میں فرماتے ہیں اس روایت کی سند بہت ہی ضعیف ہے۔ عمرو بن خالد کوئی کذاب اور حدیثیں بنانے والا انسان ہے، یحییٰ بن مسافر ازدی رحمۃ اللہ علیہ نے تکذیب کی ہے حرب بن الحسن الطحان کو ازدی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف میں شمار کیا ہے اور فرمایا اس کی یہ حدیث کوئی سندی حیثیت سے اہمیت نہیں رکھتی۔ حافظ ابن حجر اپنی امالی میں فرماتے ہیں: میرا اعتقاد ہے کہ یہ حدیث کسی کی خود ساختہ ہے۔ نیز اس میں مسلسل تین راوی ضعیف ہیں۔ ایک وضاع (گھڑنے والا) کہا گیا ہے، دوسرا کذاب (جھوٹ) کے ساتھ مہتمم ہے اور تیسرا متروک (ناقابل اعتبار) ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آخری دور راوی ایسے ہیں جن کے مثل دوسرے مستند رواۃ بھی حدیث نقل کرتے ہیں یعنی ان کی متابعت کی جاتی ہے۔

چنانچہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں یہ سند ذکر کی ہے:

قال نبأنا ابو عبد الرحمن السلمی، ابو الفضل، محمد بن عبد الله الشیبانی، ابو القاسم علی بن محمد بن الحسن بن لاس، تطاب جدی لابی سلیمان بن ابواہیم بن عبید المحاربی، نصر بن مزاحم المنقری، ابراہیم بن زبرقان، عمرو بن خالد۔

یہ سب حضرات مذکورہ سند کی طرح کہتے ہیں ہم سے بیان کرنے والے نے بیان کیا اور میرے ہاتھ پر وہ کلمات شمار کرائے۔

ابراہیم بن زبرقان کو ابن معین نے ثقہ قرار دیا ہے۔ جبکہ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ دلیل نہیں پکڑی جاسکتی لیکن متابعت میں اس کو درست قرار دیا جاسکتا ہے۔ مؤلف علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہی روایت ایک دوسرے طریق سے بھی پائی ہے جو انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور یہ سند انس رضی اللہ عنہ کے ذیل میں عنقریب آئے گی۔

نوٹ: ۳۹۹۸ رقم الحدیث پر یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ملاحظہ فرمائیں۔

۳۹۹۲ اصح بن نباتہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

آگاہ رہو! ہر چیز کی کوہان (یعنی بلندی) ہوتی ہے اور ہماری بلندی جنت الفردوس کے پہاڑ ہیں جو فردوس کے درمیان ہیں (ان پر) سفید اور سرخ لؤلؤ کے بغیر جوڑ کے محل ہیں۔ اور سفید لؤلؤ میں ستر ہزار محل ہیں۔ جو ابراہیم اور ال ابراہیم کے گھر ہیں۔

پس جب تم محمد (ﷺ) پر درود بھیجو تو ابراہیم اور ال ابراہیم پر بھی درود بھیجو۔ تلخیص المتشابه للخطیب البغدادی

۳۹۹۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا یوں پڑھو:

اللہم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید

و بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید

اسن مزدویہ، التاريخ للخطیب رحمۃ اللہ علیہ

۳۹۹۴ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا یوں کہو:

اللہم صل محمد وعلی ال محمد وبارک علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت وبارک علی

ابراہیم وعلی ال ابراہیم ان حمید مجید۔

اے اللہ! محمد اور ال محمد پر درود (رحمتیں) اور برکتیں نازل فرما جس طرح آپ نے ابراہیم اور ال ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائیں۔

رواہ ابو نعیم

۳۹۹۵ (عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ) حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ ﷺ کو مسجد سے باہر دیکھا۔ چنانچہ میں چلتا ہوا آپ ﷺ کے پیچھے پہنچا۔ آپ ﷺ نے اپنے پیچھے مجھے محسوس نہیں کیا اور

آپ چلتے رہے حتیٰ کہ ایک باغ میں داخل ہو گئے اور قبلہ رو ہوئے اور سجدہ میں پڑ گئے اور بہت ہی لمبا سجدہ کیا، جب کہ میں آپ کے پیچھے تھا۔ آخر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ شاید آپ اسی حالت میں وفات پانچے ہیں۔ چنانچہ میں آگے ہوا اور میں نے سر نیچے کر کے آپ کے چہرہ انور کو

دیکھا۔ آپ ﷺ نے سر اٹھایا اور پوچھا: کیا بات ہے؟ اے عبدالرحمن! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ نے سجدہ بہت لمبا کر دیا تو مجھے خطرہ ہوا کہ شاید اللہ نے آپ کی روح قبض فرمائی ہے۔ اس لئے میں ذکھنے لگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم نے مجھے باغ میں داخل ہونا دیکھا تھا اس

وقت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے اور فرما گئے کہ (اے محمد) میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ عزوجل فرماتے ہیں: جس نے آپ پر سلام بھیجا میں اس پر سلام بھیجوں گا اور جس نے آپ پر درود بھیجا میں اس پر درود بھیجوں گا۔ رواہ ابن النجار

۳۹۹۶ (عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف) عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور آپ کے چہرہ پر خوشی بکھر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا: جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے انہوں نے

فرمایا اے محمد آپ کو بشارت ہو اس نعمت کی جو اللہ نے آپ کی امت کی طرف سے آپ کو عطا فرمائی ہے اور آپ کی امت کو آپ کی طرف سے عطا فرمائی ہے۔

جس نے آپ پر درود پڑھا اللہ اس پر رحمت بھیجے گا اور جس نے آپ پر سلام بھیجا اللہ اس کو سلامت رکھے گا۔ رواہ ابن عساکر

۳۹۹۷ (ابی رضی اللہ عنہ بن کعب) حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب رات کا دو تہائی حصہ بیت جاتا تو حضور اقدس ﷺ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو! اللہ کا ذکر کرو، بلاؤ اٹنے والی شئی آگئی اور اس کے پیچھے والی بھی آگئی۔ موت اپنے ساز و سامان لے آئی ہے۔ میں نے

عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس قدر تم چاہو! میں نے عرض کیا: ایک چوتھائی حصہ؟ آپ ﷺ فرمایا: جو تم چاہو، اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: نصف حصہ؟ فرمایا: جو تم چاہو، اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے

عرض کیا: دو تہائی حصہ؟ فرمایا: جو تم چاہو، اگر اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا: تب تو میں اپنا سارا وقت آپ پر درود بھیجنے میں کردوں گا۔ آپ

ﷺ نے فرمایا: پھر یہ چیز تمہارے غموں کو کفایت کرے گی۔ اور تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

مسند احمد، عبد بن حمید، ابن منیع حسن، الرویانی، مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیہقی، السنن لسعید بن منصور ۳۹۹۸ (مسند انس رضی اللہ عنہ) ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابوالعالی فضل بن سہل، والدہ الشیخ ابوالفرج سہل ابن بشر بن احمد الاسفرائینی، ابونصر محمد بن یحییٰ بن حازم الہمدانی ابوالخصف البھیری، سمرقند، عبد بن حمید الکاشی، یزید بن ہارون الوسطی، حمید الطویل، انس بن مالک کی مسلسل بالید سند کے ساتھ روایت پہنچی ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں: میرے ہاتھ میں جبرئیل علیہ السلام نے شمار کروا کے فرمایا اس طرح مجھے میکائیل علیہ السلام نے شمار کرایا اور وہ فرماتے ہیں اسی طرح مجھے اسرافیل علیہ السلام نے شمار کرایا اور وہ فرماتے ہیں: مجھے پروردگار رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو میں نے ہاتھ پر ان کلمات کو شمار کیا، فرمایا: یوں کہو:

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کماصلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللہم ارحم محمد و آل محمد کمارحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم
وتحنن علی محمد وعلی آل محمد، کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔

رواہ ابن عساکر

۳۹۹۹ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ فرماتے ہیں ان کے پاس جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا: تیرا رب پروردگار تجھے سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے: آپ کی امت میں سے جو آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر دس بار درود (رحمت) بھیجوں گا۔

رواہ ابن النجار

۴۰۰۰ (اوس بن حدثان) سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بن ورد سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک اور حضرت اوس بن حدثان رضی اللہ عنہما کو فرماتے ہوئے سنا:

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلے۔ لیکن کسی کو ساتھ آتا ہوا نہ پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کو تنہا جاتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے (کہیں کوئی دشمن دروازہ نہ ہو جائے) چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پانی کا برتن لے کر پیچھے چل دیئے۔ آگے جا کر آپ کو ایک چبوترے پر (سجدہ میں) پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ آخر حضور اکرم ﷺ نے سر مبارک اٹھایا اے عمر! تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھے سجدہ میں دیکھ کر اک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہے: اے محمد! جو آپ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اور دس درجات اس کے بلند فرمائے گا۔ رواہ ابو نعیم

۴۰۰۱ (حبان بن منقذ) حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا: یا رسول اللہ! میں ایک تنہائی حصہ آپ پر درود بھیجوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اگر تم چاہو۔ عرض کیا: دو تنہائی حصہ؟ فرمایا: ہاں اگر تم چاہو، عرض کیا: میں اپنا سارا حصہ آپ پر درود بھیجوں؟ فرمایا: تب تو تمہارے دنیا و آخرت کے سب کام بن جائیں گے۔ الکبیر للطبرانی، ابو نعیم

ایک مرتبہ درود پر دس رحمتیں

۴۰۰۲ (سہل رضی اللہ عنہ بن سعد) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ (بابر) تشریف لائے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو سامنے پایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ سے ملے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ نذاہوں۔ میں آپ کے چہرے میں خوشی کے اثرات دیکھ رہا ہوں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ابھی میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، انہوں نے فرمایا: اے محمد! جو آپ پر ایک بار درود بھیجے گا ﷺ اللہ پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا دس برائیاں مٹائے گا اور اس کے دس درجے بلند فرمائے گا۔

رواہ ابن النجار

۴۰۰۳ (ابن عباس رضی اللہ عنہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: انبیاء کے سوا کسی پر درود بھیجنا مناسب (جائز) نہیں۔

مصنف عبد الرزاق

۴۰۰۴ (ابن عمر رضی اللہ عنہ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ ایک شخص کو پکڑ کر حضور ﷺ کی خدمت میں لائے اور گواہی دی کہ اس نے ہماری ایک اونٹنی چوری کی ہے۔ آپ ﷺ نے اس کے لیے (سزا کا) حکم فرمایا۔ جب اس کو لے جانے لگے تو وہ یہ درود پڑھنے لگا:

اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك

شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء

”اے اللہ! محمد پر درود بھیج حتیٰ کہ آپ کے درود میں سے کچھ باقی نہ رہے اور برکتیں بھیج حتیٰ کہ برکتوں میں سے کچھ باقی نہ رہے اور سلام بھیج حتیٰ کہ آپ کے سلام میں سے کچھ باقی نہ رہے۔“

اس شخص کا یہ درود پڑھنا تھا کہ اونٹنی بول اٹھی: اے محمد! یہ شخص میری چوری سے بری ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس شخص کو کون واپس لائے گا؟ چنانچہ اہل مسجد میں سے ستر (کے قریب) آدمی گئے اور اس کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور ﷺ نے اس سے پوچھا: یہ تم جاتے ہوئے کیا پڑھ رہے تھے؟ چنانچہ اس نے اس درود کے بارے میں عرض کیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تمہی میں نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں ملائکہ کا جوم اس قدر بڑھ گیا کہ قریب تھا وہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو جاتے۔ پھر فرمایا: تم پل صراط پر پہنچو گے تو تمہارا چہرہ چودھویں رات کے چاند سے زیادہ چمکتا ہوگا۔ الکبیر للطبرانی فی الدعاء الدلیلی

۴۰۰۵ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ درود شریف اور دعا پڑھا کرتے تھے:

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين، وامام المتقين وخاتم النبيين

محمد عبدك ورسولك امام الخير، وقائد الخير رسول الرحمة، اللهم ابعنه مقاماً محموداً، يغبطه

فيه الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم انك

حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد.

”اے اللہ! اپنے درود، اپنی رحمت اور اپنی برکتیں سید المرسلین، امام المتقین، خاتم النبيین، تیرے بندے اور تیرے رسول، خیر

کے امام اور قائد رسول الرحمت محمد پر نازل فرما۔ اے اللہ! ان کو مقام محمود عطا فرما، جس پر اولین و آخرین سب رشک کریں

گے، اے اللہ! محمد اور آل محمد پر درود نازل فرما جس طرح آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔ بے شک آپ لائق

حمد اور بزرگ ہستی ہیں۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر برکات کا نزول فرما جس طرح آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکات

نازل فرمائیں۔ بے شک آپ لائق حمد اور بزرگ ہستی ہیں۔“ الکبیر للطبرانی

۴۰۰۶ (کعب رضی اللہ عنہ بن عجرہ) حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا

اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر سلام کیسے بھیجا جائے؟ تو ہم نے جان لیا (آپ یہ بتائیں کہ) ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ حضور ﷺ نے

فرمایا: یوں:

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد

مجيد، اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك

حميد مجيد

اے اللہ! محمد اور آل محمد پر درود (رحمت) بھیج جس طرح آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔ لاریب آپ سزاوار

حمد اور بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ! محمد اور آل محمد پر برکات کا نزول فرما جس طرح آپ نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکات نازل

فرمائیں، بے شک آپ سزاوار اور بزرگی والے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق

۴۰۰۷ (ابوطحیر رضی اللہ عنہ) حضرت ابوطحیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں ایک دن حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو انتہائی خوش پایا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے آج سے پہلے آپ کو اس قدر خوش نہیں دیکھا؟ حضور ﷺ نے فرمایا:

میں کیوں خوش نہ ہوں، جبرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور اس وقت نکل کر گئے ہیں انہوں نے مجھے خوش خبری دی ہے کہ ہر بندہ جو آپ پر درود پڑھے گا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی دس برائیاں مٹائی جائیں گی اور اس کے دس درجے بلند کیے جائیں گے۔ اور وہ درود جیسے اس نے پڑھا ہوگا (مجھ پر) پیش کیا جائے گا اور جو دعا اس نے (میرے لیے) کی ہوگی اس کو بھی اس کے مثل لوٹائی جائے گی۔

مصنف عبدالرزاق

۴۰۰۸ حضرت ابوطحیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں آپ کو آج ایسے حال میں دیکھ رہا ہوں جو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے کیا مانع ہے (اس خوشی سے) ابھی میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اور فرما گئے ہیں: اپنی امت کو خوش خبری دے دیجئے کہ جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی، دس برائیاں مندل کی جائیں گی اور دس درجے بلند کیے جائیں گے، اللہ پاک کہنے والے پر اس کے کلمات کے مثل لوٹائیں گے اور قیامت کے دن آپ کو یہ کلمات پیش کیے جائیں گے۔ الکبیر للطبرانی

۴۰۰۹ حضرت ابوطحیر رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ ایک دن وہ حضور ﷺ کے پاس گئے خوشی آپ کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ آپ کو کہا گیا: یا رسول اللہ! ہم آپ کے چہرے میں ایسی رونق دیکھ رہے ہیں جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے پاس فرشتہ آیا تھا اس نے کہا ہے: آپ کا پروردگار فرماتا ہے: کیا آپ راضی نہیں ہیں یا کیا یہ بات آپ کو راضی نہیں کرتی کہ آپ کی امت کا جو فرد آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا میں اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجوں گا اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا میں اس پر دس مرتبہ سلامتی بھیجوں گا۔ تو میں نے کہا: کیوں نہیں (میں بہت راضی اور خوش ہوں)۔ الکبیر للطبرانی

۴۰۱۰ ابوطحیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے آپ کو خوش دل اور پر رونق چہرہ محسوس کیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آج سے زیادہ میں نے آپ کو کبھی خوش دل نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: واقعی، اور مجھے اس خوشی سے کیا مانع ہے کہ فرشتے نے مجھے خبر دی ہے کہ جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس پر میں (اللہ) اور ملائکہ دس مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ اور جس نے آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجا میں اور ملائکہ اس پر دس بار سلام بھیجیں گے۔ الکبیر للطبرانی

۴۰۱۱ ابوطحیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ کے پاس گیا، میں نے دیکھا آپ اس قدر خوش ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آج سے زیادہ میں نے آپ کو کبھی خوش نہیں دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اے ابوطحیر! میں کیوں نہ خوش ہوں، ابھی میرے پاس سے جبرئیل علیہ السلام گئے ہیں۔ وہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا: اللہ عزوجل نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا کہ میں آپ کو یہ بشارت دوں کہ کوئی ایک آپ کا امتی ایسا نہیں ہے جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے مگر اللہ پاک اور ملائکہ اس پر دس مرتبہ رحمت نہ بھیجیں گے۔ الکبیر للطبرانی

۴۰۱۲ ابوطحیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوا آپ کے چہرہ انور سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے اتنا خوش دل اور نرس کبھی آج سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہ میں خوش ہوں اور میرا چہرہ نہ کھلے جبکہ ابھی جبرئیل علیہ السلام مجھ سے جدا ہو کر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا:

اے محمد! جو آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے دس نیکیاں لکھیں گے، دس برائیاں مٹائیں گے اور دس درجے بلند فرمائیں گے۔ اور فرشتہ اس شخص کو دیا ہی جواب دے گا جیسا اس نے آپ کے لیے پڑھا ہوگا۔ میں نے کہا: اے جبرئیل علیہ السلام! وہ کون سا فرشتہ ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے ایک فرشتہ آپ پر مقرر فرمایا ہے جب سے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں (قیامت میں) آپ کو

اٹھائے جانے تک جب بھی کوئی ایک مرتبہ آپ کا امتی درود پڑھے گا تو وہ فرشتہ اس پڑھنے والے کو کہے گا و انت صلی اللہ علیک۔ اور اللہ تجھ پر بھی رحمت بھیجے۔ الکتب للطیبرانی عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ

۴۰۱۳ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ بشیر بن سعد جو کہ ابوالعثمان بن بشیر ہیں انہوں نے آپ ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ نے ہم کو آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پس ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں یا رسول اللہ!

آپ ﷺ یہ سن کر خاموش ہو گئے ہم نے دل میں کہا: کاش انہوں نے سوال نہ کیا ہوتا۔ لیکن پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تم یوں پڑھو:

اللھم صل علی محمد و علی آل محمد کماصلت علی ابراہیم وبارک علی محمد و علی آل محمد
 کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔
 اور سلامت تم جانتے ہو۔ (یعنی حضوری میں سلام یا رسول اللہ اور السلام علی رسول اللہ)۔

مؤطا امام مالک، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، عبد بن حمید، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی
 ۴۰۱۴ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اصحاب نبی ﷺ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم روشن رات اور روشن دن کو (جمعہ کی رات جمعہ کا دن) آپ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں اور جو درود آپ کو محبوب ہو وہی ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یوں پڑھا کرو:

اللھم صل علی محمد و علی آل محمد کماصلت علی ابراہیم و آل ابراہیم و ارحم محمد و آل محمد
 کما رحمت ابراہیم و آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔
 اور سلام تو تم جانتے ہو۔ رواہ ابن عساکر

باب.....قرآن کے بیان میں

فصل.....فضائل قرآن کے بیان میں

۴۰۱۵ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت حسن سے مروی ہے کہ ایک شخص کثرت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا: جا کتاب اللہ (قرآن پاک) سیکھ۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عرصہ تک اس کو نہ دیکھا۔ پھر وہ آیا اور گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خفاء تھا اس نے کہا: میں نے کتاب اللہ سے یہ بات پائی ہے کہ عمر کے دروازے کے بغیر چارہ کار نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۰۱۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: ہر مسلمان کو چھ سورتیں یاد کرنا ضروری ہیں۔ جن میں سے دو سورتیں صبح کی نماز کے لیے، دو مغرب کی نماز کے لیے اور دو عشاء کی نماز کے لیے۔ مصنف عبدالرزاق

فائدہ:۔۔۔۔۔ عام مسلمان کے لیے بالکل آخری اور لازمی درجہ بیان فرمایا صبح کی نماز میں یعنی دو سنتوں کے لیے پھر مغرب کی دو سنتوں کے لیے اور پھر عشاء کی دو سنتوں کے لیے۔ فرض چونکہ امام کے پیچھے پڑھے گا۔ اور بقیہ سنتوں میں اپنا چھ ٹیکہ سے پڑھے گا۔

۴۰۱۷ قرظہ بن کعب النضاری فرماتے ہیں: ہم چند لوگوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرار (مدینہ سے عراق جاتے ہوئے تین میل پر ایک پرانا کنواں تھا) تک ہمیں رخصت کرنے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں وضو کیا اور دو مرتبہ اعضا وضو کو

دھویا۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو میں کیوں تم کو رخصت کرنے یہاں تک آیا۔ ہم نے عرض کیا ہاں، ہم چونکہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ ہیں۔ فرمایا تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جہاں شہد کی کھسی کی طرح قرآن کی آواز گونجتی رہتی ہے لہذا تم لوگ احادیث کے ساتھ ان کو قرآن سے مت روک دینا ان کو قرآن کے ساتھ مشغول رہنے دو اور رسول اللہ ﷺ کی روایات کم سناؤ۔ پس اب جاؤ اور میں بھی تمہارا ساتھی ہوں۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ

۳۰۱۸ ابی نصرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا: ہمیں اپنے رب تعالیٰ کا شوق زندہ کرو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت فرمانے لگے۔ (کچھ دیر میں) لوگوں نے عرض کیا: نماز (کا وقت ہوا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔ ابن سعد

۳۰۱۹ کنانہ عدوی سے مروی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجناد کے گورنروں کو لکھا: کہ حال میں قرآن (اہل علم) کو میرے پاس بھیجتا کہ میں ان کو مزید رتبہ اور عطیہ دوں اور ان کو چار دانگ عالم میں بھیجوں تاکہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔

چنانچہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آپ کو لکھا کہ میرے حال میں قرآن (قرآن کو جاننے اور یاد رکھنے والے) تین سو سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ خط لکھا:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

از بندۂ خدا عمر لطف عبد اللہ بن قیس (ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ) اور ان کے ہمراہی حاملین قرآن۔

السلام علیکم!

اما بعد! یہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر ہے اور تمہارے مرتبہ کو بلند کرنے والا ہے اور عند اللہ ذخیرہ اجر ہے۔ تم اس کی اتباع کرو (کہ اس کے احکامات پر عمل کرو) اور یہ تمہاری اتباع نہ کرے (کہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال لو) بے شک قرآن نے جس کی اتباع کی قرآن اس کو گدی میں مارے گا اور جہنم میں پھینک دے گا۔ اور جس نے قرآن کی اتباع کی قرآن اس کو فردوس کے باغات میں لے جائے گا۔ پس یہ قرآن تمہارا سفارش بننا چاہئے اگر ہو سکے تمہارا مخالف نہ ہونا چاہیے۔ بے شک قرآن کی جس نے سفارش کر دی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور قرآن جس کے ساتھ جھگڑا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ جان لو! یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ اور علم کی روشنی ہے۔ یہ پروردگار عزوجل کی سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ پاک اس کی بدولت اندھی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ بہرے کالوں اور تالے پڑے ہوئے دلوں کو وا کر دیتا ہے۔ جان رکھو! جب بندہ رات کو اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے اور وضوء کرتا ہے پھر اللہ اکبر کہہ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ پر منہ رکھ کر کہتا ہے: تلاوت کر، تلاوت کر، تو نے بہت اچھا پڑھا اور تیرے لیے بہت اچھا ہوا اور اگر صرف وضوء کرتا ہے اور مسواک نہیں کرتا تو فرشتہ صرف اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے تجاوز (کر کے اس کے منہ سے منہ) نہیں کرتا۔ یاد رکھو! نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت (یعنی نماز میں قرآن پڑھنا) چھپا ہوا خزانہ ہے اور بہترین موضوع ہے جس قدر ہو سکے خوب قرآن پڑھو۔

بے شک نماز نور ہے، زکوٰۃ برہان (راہ نما) ہے، صبر روشن ہے، روزہ ڈھال ہے اور قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ پس قرآن کا اکرام کرو اور اس کی اہانت مت کرو۔ بے شک جس نے قرآن کا اکرام کیا اللہ اس کا اکرام کرے گا اور جس نے اس کی اہانت کی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ جان لو! جس نے قرآن کی تلاوت کی، اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، اور جو کچھ اس میں سے اس کی اتباع کی تو اللہ کے ہاں اس کی دعا قبول ہے چاہے تو وہ دنیا میں اس کو جلد حاصل کر لے ورنہ وہ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ ہو جائے گی۔ اور جان لو! جو اللہ

کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر پھر و سہ کرتے ہیں۔ ابن زنجویہ ۲۰۲۰ (مسند عثمان رضی اللہ عنہ) حضور اکرم ﷺ نے یمن کی طرف ایک وفد روانہ فرمایا اور ان پر امیر انہی میں سے ایک شخص کو جو سب سے کم سن تھا مقرر فرمایا۔ لیکن قافلہ رکا اور سفر پر روانہ نہ ہو سکا۔ انہی میں سے ایک شخص نبی کریم ﷺ سے ملا آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: اے فلا! تو گیا کیوں نہیں اب تک؟ اس شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے امیر کی ٹانگ میں تکلیف ہے۔ چنانچہ نبی ﷺ اس امیر کے پاس تشریف لائے اور باسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وبعزۃ اللہ وقدرتہ من شئ مافیہا سات دفعہ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ چنانچہ وہ شخص بالکل تندرست ہو گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اس شخص کو ہم پر امیر بناتے ہیں جو ہم میں سب سے کم سن (کم عمر) ہے۔ نبی ﷺ نے اس کا قرآن یاد رکھنا ذکر کیا۔ تو ایک بوڑھے نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میں قرآن پڑھ کر غفلت کا شکار رہوں گا اور اس کو رات کو اٹھ کر پڑھ نہیں سکوں گا تو میں ضرور قرآن یاد کرتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایسا نہ کر بلکہ قرآن سیکھ۔ قرآن کی مثال تھیلی کی ہے جس کو تو نے مشک سے بھر رکھا ہو اور اس کا منہ باندھ دیا ہو۔ پس اگر تم اس کو کھولو گے تو تم کو مشک کی خوشبو ملے گی اور اگر نہ کھولو گے تب بھی مشک رکھی تو رہے گی۔ پس

یہی مثال قرآن کی ہے پڑھے یا تیرے سینے میں رہے۔ الدارقطنی فی الافراد، الاوسط للطبرانی، البغوی فی مسند عثمان کلام: مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ تیحی بن سلمہ بن کہیل سے اس روایت کو ارطاة بن حبیب کے علاوہ کسی اور نے بھی روایت کیا ہو۔ نیز محدثین کا خیال ہے کہ یہ حدیث میں انہی کے ساتھ تھے۔ الغرض یہ حدیث ضعیف ہے۔

۲۰۲۱ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: حضور ﷺ کی مجلس میں ایک شخص کی تعریف کی گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے اس کو قرآن سیکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ (ابن زنجویہ) اس کی سند حسن ہے۔

۲۰۲۲ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی کلام اللہ سے سیر نہ ہوں۔

۲۰۲۳ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی اللہ کے ذکر سے نہ اکتائیں۔ (ابن المبارک فی الزہد) ۲۰۲۴ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہترین لوگ اور سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ المواعظ للعسکری

۲۰۲۵ (علی رضی اللہ عنہ) کلیب سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد میں لوگوں کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو فرمایا: خوشخبری ہے ان لوگوں کو، یہ لوگ حضور ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ابن مبیع، الاوسط للطبرانی ۲۰۲۶ فرزدق (مشہور شاعر) کہتے ہیں: میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں غالب بن حصصہ ہوں۔ (فرزدق کا نام ہے) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا: بہت سے اونٹوں کے مالک! عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: اپنے اونٹوں کا کیا کیا؟ عرض کیا: حقوق اور حوادث وغیرہ ان کو کھا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: خیر کے راستے میں چلے گئے۔ پھر پوچھا: یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ عرض کیا: میرا بیٹا اور یہ (بھی) شاعر ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کو کچھ بتائیں! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کو قرآن سکھاؤ، یہ اس کے لیے شعر سے بہتر ہے۔

۲۰۲۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

زندگی میں کوئی بھلائی نہیں سوائے سننے اور سن کر یاد کرنے والے کے اور بولنے والے عالم کے۔ اے لوگو! تم آرام اور سکون کے زمانے میں ہو۔ اور زمانہ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا ہے۔ اور تم دیکھ رہے ہو کہ دن و رات مل کر ہر نئی شے کو پرانا و بوسیدہ کر رہے ہیں ہر دور کو قریب کر رہے ہیں۔ ہر وعدہ کو قریب لا رہے ہیں۔ پس وسیع میدان کو عبور کرنے کے لیے تیاری کر لو۔

حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا نبی اللہ! اللہ نہ کیا ہے؟ مصیبت و آزمائش اور انقطاع۔ پس جب تم پر معاملات مشتبه ہو جائیں

تاریک رات کے حصوں کی طرح تو قرآن کو لازم پکڑ لینا یہ ایسا سفارشی ہے، جس کی سفارش قبول ہوئی۔ ایسا جھگڑا کرنے والا ہے جس کی بات مانی جائے جس نے اس کو اپنا نام بنایا یہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا یہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ خیر کے راستے کی طرف راہ دکھانے والا ہے۔ یہ فیصلہ کن کلام ہے کوئی مذاق نہیں، اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، ظاہر حکم سے اور باطن گہرا علم سے۔ یہ ایسا سمندر ہے، جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوئے، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی مضبوطی ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے یہ ایسا حق ہے کہ جن بھی اس کے قائل ہوئے بناندرہ سکے، جب انہوں نے اس کو سنا تو (بے ساختہ) پکارا تھے:

انا سمعنا قرآنا عجايبا يهدى الى الرشدا فمنا به۔

ہم نے عجیب قرآن سنا جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے قرآن کے ساتھ بات کی اس نے سچ کہا۔ جس نے اس پر عمل کیا اجر پایا۔ جس نے قرآن کے ساتھ فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ جس نے اس پر عمل کیا اسے سیدھے راستے کی ہدایت ملی۔ اس میں ہدایت کے چراغ ہیں، حکمت کے منارے ہیں اور یہ حجت کی راہ دکھانے والا ہے۔ العسکری

۴۰۲۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: اس شخص کی مثال جس کو قرآن عطا کیا گیا لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا یہ جانا عطا ہوا لیکن اس نے قرآن حاصل نہیں کیا بھجور کی مثال ہے جس کا ذائقہ عمدہ ہے لیکن خوشبو کچھ نہیں۔ اس کی مثال جس کو قرآن اور ایمان دونوں عطا کیے گئے اترج کی ہے (نارنگی یا اس کے مثل کا کوئی پھل) جس کا ذائقہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی اعلیٰ۔ اور اس شخص کی مثال جس کو قرآن ملا اور نہ ہی ایمان ایلوے کی ہے جس کا ذائقہ (بد مزہ اور) کڑوا اور اس کی بو بھی گندی۔ الفضائل لابن عبید

۴۰۲۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا: تم پر قرآن لازم ہے۔ اس کو اپنا نام اور قائد بناؤ۔ بے شک یرب العالمین کا کلام ہے، اسی سے نکلا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے گا۔ رواہ ابن مردودہ کلام: روایت کی سند ضعیف ہے۔

کثرت تلاوت رفع درجات کا سبب ہے

۴۰۳۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم پر قرآن کی تعلیم اور کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت لازم ہے۔ تم اس کے طفیل تم جنت میں بلند درجات اور کثیر عجايبات حاصل کر لو گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہمارے درمیان رحم سے متعلق ایک آیت ہے، جس کی بناء پر ہر مومن ہماری محبت رکھتا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربی

(اے پیغمبر!) کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کسی کا سوال نہیں کرتا سوائے رشتہ داری میں محبت کا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور ﷺ کے والد بنو ہاشم سے تھے، آپ کی والدہ بنی زہرہ سے تھیں اور آپ کی دادی بنی مخزوم سے تھیں پس میری رشتہ داری میں میرا خیال رکھو۔

ابن مردودہ، ابن عساکر

۴۰۳۱ ابوالقاسم خضر بن حسن بن عبد اللہ، ابوالقاسم بن ابی علی، علی بن محمد جبائی، ابونصر عبد الوہاب بن عبد اللہ، ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن جعفر النہاوندی المقرئ المکی، ابوالعلی حسین بن بندار، ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حفص بن عبید الطنفسی، ابو عمرو المقرئ حفص بن عمر الدوری، سوار بن حکم، حماد بن سلمہ، ثابت کی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے حاملین قرآن! آسمانوں والے اللہ کے پاس تمہارا ذکر کرتے ہیں پس تم اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے اللہ کے ہاں محبوبیت کا درجہ حاصل کرو۔ وہ تم سے محبت کرے گا اور اپنے بندوں کے ہاں تم کو محبوب کر دے گا۔ اے حاملین قرآن! تم اللہ کی رحمت کو خصوصیت کے ساتھ پانے والے ہو، کلام اللہ کو سکھانے والے ہو اور اللہ کا قرب پانے والے ہو۔ جس نے اہل قرآن سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کی۔

جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ قرآن کے قاری سے دنیا کی مشقت و مصیبت دفع کر دی جاتی ہے اور قرآن سننے والے سے آخرت کی مصیبت دفع کر دی جاتی ہے۔ پس اے حاملین قرآن! قرآن کو زیادہ حاصل کرو اور اللہ کے ہاں محبوب بن جاؤ اور اس کے بندوں کے ہاں بھی محبت پاؤ۔

۴۰۳۲ کثیر بن سلیم سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے بیٹے! قرآن کی قرأت سے غفلت نہ کرو۔ قرآن دل کو زندہ کرتا ہے فحاشات اور برے کاموں سے اور بدکاری سے روکتا ہے۔ قرآن کے ساتھ پہاڑ بھی چل پڑتے ہیں۔

اے بیٹے! موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی اور آخرت میں دل لگ جائے گا۔ بے شک آخرت دائمی ٹھکانہ ہے اور دنیا ہموک کا گھر ہے اس کے لیے جو اس کے ساتھ دھوکہ میں پڑ جائے۔ رواہ الدیلمی

۴۰۳۳ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ ہر رمضان میں جبرئیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ جس رات آپ قرآن سناتے تھے۔ اس کی صبح کو آپ خوشگوار ہوا سے زیادہ تخی ہوتے تھے، اس دن آپ سے جو سوال کیا جاتا آپ اس کو پورا کرتے تھے۔

رواہ ابن حویبر

۴۰۳۴ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس نے نبی ﷺ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نیز فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص بازار سے گھر کی طرف لوٹے تو قرآن کھول کر اس کی تلاوت کرے، بے شک اس کے ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں۔

رواہ ابن ابی داؤد

اس میں ایک راوی نور ہے مولیٰ جعدہ بن ہبیرہ۔
۴۰۳۵ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے گھر واپس آئے تو قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کرے۔ اللہ اس کے لیے ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں لکھیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ اتم ایک حرف ہے بلکہ الف کے بدلے دس نیکیاں ہیں، لام کے بدلے دس نیکیاں ہیں اور میم کے بدلے دس نیکیاں ہیں۔ رواہ ابن ابی داؤد
اس روایت میں بھی ثور ہے۔

قرآن کے ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے

۴۰۳۶ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کے ایک حرف کا انکار کیا اس نے سارے قرآن کا انکار کیا اور جس نے قرآن کی قسم اٹھائی اس پر ہر آیت کے مقابلے میں ایک قسم لازم ہوگی۔ مصنف عبدالرزاق

۴۰۳۷ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن سفارشی ہے اور اس کی سفارش قبول ہے اور قرآن جھگڑا کرنے والا ہے اور اس کا جھگڑا تسلیم کیا جاتا ہے۔ جس نے اس کو امام مانا یہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور جس نے اس کو پیچھے رکھا یہ اس کو جہنم میں دھکیل دے گا۔

مصنف ابن ابی شیبہ

۴۰۳۸ (نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر) حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: کچھ لوگ اللہ کے گھر والے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: وہ اہل قرآن ہیں۔ رواہ ابن النجار

۴۰۳۹ (ابو ذر رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: لوگوں میں سب سے مالدار کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: سفیان بن حرب، کسی نے کہا: عبدالرحمن بن عوف، کسی نے کہا: عثمان بن عفان۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار لوگ حاملین قرآن (قرآن کے وہ حافظ جو اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں) جن کے پیٹ میں اللہ نے قرآن رکھ

دیا ہے۔ رواہ ابن عساکر

۴۰۴۰ ابو القرماء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم مسجد نبوی ﷺ میں گروہ درگروہ بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک حضور ﷺ اپنے کسی حجرے سے نکل

کر مسجد میں تشریف لائے اور حلقوں کی طرف دیکھا پھر قرآن (پڑھنے والوں کے حلقے میں بیٹھ گئے اور فرمایا: اسی مجلس میں بیٹھنے کا مجھے حکم ملا ہے۔

ابو عمرو والدانی فی طبقات القراء وابن مندہ

۴۰۴۱ (مراسیل محمد رحمۃ اللہ علیہ بن علی رضی اللہ عنہ بن حسین رضی اللہ عنہ) ابو جعفر محمد بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جب بھی دو آدمی حسب نسب اور دینداری میں برابر ہوتے ہیں تو ان میں عند اللہ افضل زیادہ ادب کرنے والا ہوتا ہے۔ (یعنی لوگوں کے نزدیک بھی مؤدب اور عبادات میں بھی مؤدب)۔

ابو جعفر سے پوچھا گیا: کہ اس کا ادب تو لوگوں کے نزدیک محفل و مجلس میں معتبر ہوتا ہے، اللہ عزوجل کے ہاں افضلیت کس بناء پر حاصل ہوئی؟ فرمایا: وہ قرآن کو ادب کے ساتھ اسی طرح پڑھتا ہے جس طرح وہ نازل ہوا اور اسی طرح صاف صاف الفاظ کے ساتھ وہ اللہ سے دعا بھی کرتا ہے چونکہ بسا اوقات آدمی غلط پڑھ جاتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا عمل نہیں پہنچتا۔ رواہ ابن عساکر

ذیل القرآن

۴۰۴۲ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی وحی لکھتا تھا۔ جب آپ اس کو سمیعا لکھواتے تو وہ سمیعا علیما لکھ دیتا۔ اور جب سمیعا علیما لکھواتے تو سمیعا بصیر لکھ دیتا۔ اس شخص نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ رکھی تھی۔ اس نے سارا قرآن پڑھ رکھا تھا۔ لیکن (معاذ اللہ!) پھر یہ شخص نصرانی ہو گیا۔ اور کہنے لگا: میں محمد کے ہاں جو چاہتا تھا لکھ دیتا تھا۔ پھر اس کا انتقال ہوا تو دفن کیا گیا لیکن زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ پھر دفن کیا گیا تو پھر پھینک دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے خود اس کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا۔ ابن ابی داؤد فی المصاحف

۴۰۴۳ حضرت ثابت (بنابی رحمۃ اللہ علیہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم میں ایک شخص قبیلہ بنی النجار کا تھا، جس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ رکھی تھی۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی وحی لکھا کرتا تھا۔ پھر وہ بھاگ گیا اور اہل کتاب کے ساتھ مل گیا۔ اہل کتاب نے اس کو آگے کیا اور کہنے لگے دیکھو یہ شخص رسول اللہ ﷺ کی وحی لکھتا تھا۔ لوگوں کو اس پر بہت تعجب ہوا ابھی کچھ عرصہ نہیں گذر تھا کہ اللہ نے ان لوگوں کے درمیان اس کی گردن توڑ دی۔ لوگوں نے اس کے لیے گڑھا کھودا اور اس میں ڈال دیا لیکن زمین نے اس کو باہر پھینک دیا۔ (ایسا کئی بار ہوا تو) آخر لوگوں نے اس کو باہر پڑا ہوا چھوڑ دیا۔ فی کتاب عذاب القبر

مرتد کوزمین نے قبول نہیں کیا

۴۰۴۴ حمید الطویل روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک شخص نبی ﷺ کے لئے وحی لکھا کرتا تھا۔ اس شخص نے سورہ بقرہ پڑھ رکھی تھی۔ اور ہم میں جب کوئی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تھا تو بہت معتبر سمجھا جاتا تھا۔ حضور ﷺ اس کو لکھواتے غفور ارحیم تو وہ کہتا: علیما حکیم لکھوں؟ آپ فرماتے لکھو جو چاہو۔ آپ اس کو علیما حکیم لکھواتے تو وہ پوچھتا سمیعا بصیر لکھوں؟ آپ فرماتے جیسے چاہو لکھو۔ پھر وہ شخص اسلام سے پھر گیا اور مشرکوں کے ساتھ جا ملا۔ وہاں جا کر کہنے لگا میں محمد کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں اس کے پاس جو چاہتا لکھ دیتا تھا۔

پھر وہ شخص مر گیا آپ ﷺ نے فرمایا زمین اس کو قبول نہ کرے گی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ اس جگہ گئے جہاں وہ مر گیا تو اس کو زمین پر پڑا ہوا پایا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا یہ اس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نے کئی بار اس کو دفن کر لیا مگر زمین اس کو قبول ہی نہیں کرتی۔ ق فیہ

فصل.....سورتوں اور آیات کے بیان میں بسم اللہ کے فضائل

۴۰۴۵ (مسند علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: ایک شخص نے یقین کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ الجامع للبیہقی

۴۰۴۶ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے ساتھ نازل نہیں ہوئی اور نبی ﷺ نے اس کو کسی موقع پر نہیں لکھوایا حتیٰ کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

انہ من سلیمان وانه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس وقت نبی علیہ السلام نے بسم اللہ لکھوای۔ فرمایا اب تک اس کی حقیقت معلوم نہ ہوئی اب یہ جلا کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔

مصنف عبدالرزاق

۴۰۴۷ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق سوال کیا: جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے اور اللہ کے سب سے بڑے نام کے درمیان کوئی چیز نہیں جس طرح آنکھ کی سیاہ و سفید تلی کے درمیان کچھ نہیں۔ رواہ ابن النجار

۴۰۴۸ عبدخیر فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے السبع الثانی (سات بار بار پڑھی جانے والی آیات) کے بارے میں سوال کیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الحمد لله رب العالمین (یعنی السبع الثانی سورہ فاتحہ ہے) کہا گیا کہ سورہ فاتحہ تو چھ آیات کی ہے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت ہے۔ (یعنی اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ بار بار پڑھی جاتی ہے)۔

الدارقطنی، بخاری و مسلم، ابن البثران فی امالیہ

۴۰۴۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں جب کوئی سورت شروع فرماتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ نیز فرمایا کرتے تھے: جس نے اس کو نہیں پڑھا اس نے (ہر سورت کو) ادھورا چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ بسم اللہ السبع الثانی کا تتمہ ہے۔ الثعلبی

الفاتحہ

۴۰۵۰ (مسند علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فاتحہ الکتاب (سورہ فاتحہ چونکہ یہ بھی کتاب اللہ کا افتتاح ہے اس لیے اس کو فاتحہ کہا گیا ہے) کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ سورت عرش کے نیچے کے خزانے سے نازل کی گئی ہے۔ ابن راہویہ

۴۰۵۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ مکہ میں تحت العرش خزانے سے نازل کی گئی۔ الثعلبی والواحدی

۴۰۵۲ (ابی بن کعب) رسول اللہ ﷺ نے فاتحہ الکتاب پڑھی پھر فرمایا تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ پر سات آیات نازل کی ہیں۔ تین میرے لیے ہیں تین تیرے لیے اور ایک میرے اور تیرے درمیان ہے۔ میرے لیے الحمد لله رب العالمین۔ الرحمن الرحیم اور مالک يوم الدين ہیں۔ اور میرے تیرے درمیان مشترک آیت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یعنی تو عبادت کرے اور میں تیری مدد کروں۔ اور تیرے لیے آخری تین آیات یہ ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط اللین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الاوسط للطبرانی، بخاری، مسلم

اس روایت کو زہری سے صرف سلیمان بن ارقم روایت کرتے ہیں۔

فائدہ: سبحان اللہ! کیا خدا کا کلام حکمت سے بھرا ہے پہلی تین آیات خدا کی تعریف پر ہیں چوتھی آیت کا پہلا حصہ جو تین آیتوں سے ملا ہوا ہے وہ بھی خدا کی تعریف ہے ایک نعبہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ دوسرا حصہ وایاک نستعین اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں بندہ کے کام کے لیے ہے پھر اسی نب سے آخری تین آیات بندہ کے لیے دعائیں ہیں۔ اس طرح اول ساڑھے تین آیات خدا کے لیے ہوئیں اور آخری ساڑھے تین آیات بندے کے لیے۔ واللہ الحمد والمنة۔

سورۃ فاتحہ کی فضیلت

۴۰۵۳ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا میں تجھے ایسی سورت نہ سکھاؤں جو تورات میں نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ ہی قرآن میں نازل کی گئی؟ میں نے عرض کیا: ضرور فرمایا: میری خواہش ہے کہ تم اس (سامنے غالباً مسجد نبوی کے) دروازے سے نہ نکلو حتیٰ کہ وہ سورت سیکھ لو۔ پھر نبی ﷺ کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور آپ ﷺ مجھ سے بات کرتے رہے جبکہ میرا ہاتھ آپ کے دست مبارک میں تھا۔ میں جان بوجھ کر آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ کہیں آپ مجھے وہ سورت بتانے سے پہلے دروازے سے نکل نہ جائیں۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچ گیا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ سورت جس کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر سنا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ولقد اتیناک سبعاً من المثانی والقرآن العظیم اور ہم نے آپ کو سات بار بار پڑھنے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا۔ یہ مجھے ہی عطا کی گئی ہے۔

بخاری ومسلم فی کتاب وجوب القرآن فی الصلاة

۴۰۵۴ (ابن عباس رضی اللہ عنہ) ولقد اتیناک سبعاً من المثانی کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نام القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں آیت ہے (جبکہ چھ آیات سورۃ فاتحہ کی ہیں) ان کو اللہ نے خصوصیت سے تمہارے لیے نازل کیا ہے اور تم سے نکل کسی امت کے لیے نازل نہیں کیا۔ عبدالرزاق فی المصنف

۴۰۵۵ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ نے مجھ پر ایسی سورت نازل فرمائی ہے، جو مجھ سے پہلے انبیاء و مرسلین میں سے کسی پر نازل نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے نماز میں سورۃ فاتحہ اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان مشترک رکھی ہے۔ پس بندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے نے مجھے دو لطیف اور خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارا ہے۔ ایک دوسرے سے زیادہ لطیف ہے۔ الرحیم زیادہ لطیف ہے نسبت الرحمن کے۔ اور دونوں ہی لطیف المعانی ہیں۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے: الحمد لله اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا اور میری حمد کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے: رب العالمین۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں: میرا بندہ گواہی دیتا ہے کہ میں رب العالمین (تمام جہانوں کا پروردگار) ہوں۔ جن، انس، ملائکہ اور شیاطین اور تمام مخلوقات کا رب ہوں، ہر چیز کا رب اور ہر چیز کا خالق ہوں۔ پس جب بندہ کہتا ہے: الرحمن الرحیم تو پروردگار فرماتے ہیں: میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ بندہ جب کہتا ہے: صالک یوم الدین۔ (یعنی اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے) تو پروردگار فرماتے ہیں: میرے بندے نے گواہی دی ہے کہ قیامت کے دن کا میرے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ اور یوں میرے بندے نے میری ثناء و بڑائی بیان کی ہے۔

جب بندہ کہتا ہے: ایاک نعبد (یعنی تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں) تو اللہ پاک فرماتے ہیں: یہ میرے اور بندے دونوں کے لیے ہے ایاک نعبد میرے لیے ہے اور ایاک نستعین اس کے لیے۔ پس اب بندہ جو بھی مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اهدنا الصراط المستقیم یعنی ہمیں اسلام کا سیدھا راستہ دکھا۔ کیونکہ اسلام کے علاوہ کوئی راستہ سیدھا نہیں جو توحید سے خالی ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی ان لوگوں

کاراستہ جن پر انعام کیا یعنی نبیوں اور مؤمنوں کا راستہ۔ کیونکہ انہی پر نبوت اور ایمان کا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم یعنی جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا ہے ان کے علاوہ لوگوں کا راستہ دکھا۔ اور وہ لوگ یہود ہیں۔ و لا الضالین یہ نصاریٰ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کے بعد گمراہ کر دیا۔ پس ان کی محصیت کے سبب اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور ان میں سے بندر، خنزیر اور شیطان کے پیروکار بنا دیئے۔ یہ لوگ دنیا و آخرت میں بدترین لوگ ہیں جو جہنمی ٹھکانے والے ہیں۔ سیدھے راستے سے گمراہ ہیں جو کہ مؤمنین کا راستہ ہے۔ پس جب امام کہے ولا الضالین تو تم کہو امین۔ تو اللہ پاک تمہاری یہ دعا قبول فرمائیں گے۔

میرے رب نے مجھے فرمایا: اے محمد! یہ (سورت) تیری اور تیری پیروکار امت کے لیے جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ شعب الایمان للبیہقی کلام: اس روایت کی سند میں ضعف اور انقطاع ہے جس کی بناء پر یہ روایت ضعیف ہے نیز اس روایت میں ابن عباس کے اقوال کو بھی مرفوع حدیث میں درج کر دیا گیا ہے۔

سورہ بقرہ

۴۰۵۶ (آیت الکرسی) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضور اکرم ﷺ کو اسی ممبر کی لکڑیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کو جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جس نے بستر پر لیٹتے وقت پڑھا اللہ پاک اس کے گھر، اس کے بڑے کے گھر اور اس کے ارد گرد کے گھروں کی حفاظت فرمائے گا۔ شعب الایمان للبیہقی ۴۰۵۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آیات قرآنیہ کی سردار اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے۔ یعنی آیت الکرسی۔

۴۰۵۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسلام میں پیدا ہوا یا صاحب عقل ہے اور آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس پر پڑھے بغیر کوئی رات گزارے۔ کاش! تم کو اس کی اہمیت معلوم ہوتی۔ یہ آیت تمہارے نبی کو عرش کے نیچے خزانے سے عطا کی گئی ہے۔ تمہارے نبی سے قبل یہ آیت کسی کو عطا نہیں کی گئی اور میں کبھی کوئی رات بسر نہیں کرتا مگر تین دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ عشاء کے بعد دو رکعتوں میں (سے کسی ایک میں) دوسری مرتبہ وتر میں اور تیسری مرتبہ جب بستر پر جاتا ہوں۔ تب پڑھتا ہوں۔ ابو سعید فی فضائلہ، مصنف ابن ابی شیبہ، الدارمی، محمد بن نصر، ابن الضریس

۴۰۵۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں کسی کو عقل مند نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ ہر رات آیت الکرسی نہ پڑھے۔ اگر تم کو معلوم ہو جاتا کہ اس میں کیا کچھ ہے تو تم کبھی اس کو نہ چھوڑتے۔ بے شک رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: مجھے آیت الکرسی عرش کے نیچے خزانے سے عطا کی گئی ہے اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس میں نے جب رسول اللہ ﷺ سے یہ فرمان سنا تب سے اس کو پڑھے بغیر کبھی کوئی رات نہیں گذاری۔

الدیلمی، شیخ شیو خنا الحافظ شمس الدین بن الجزری فی کتاب اسنی المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب مسلسلاً کلام: اس روایت کا ہر راوی کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے یہ روایت سنی ہے کسی رات اس کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ روایت صالح الاسناد ہے۔ اللہ پاک ہم کو بھی اس روایت کے تسلسل اور اس کی لڑی میں ایک مہر بنا دے۔ امین۔

۴۰۶۰ فتحی رحمۃ اللہ علیہ عبد اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ہمارے درمیان فضائل قرآن پر گفتگو چل پڑی۔ (کہ سب سے افضل سورت یا آیت کون سی ہے؟) ایک شخص نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کسی نے کہا: ہعیص اور طہ۔ کسی نے کہا: بس اور تبارک الذی۔ یونہی آگے پیچھے بات کرتے رہے۔ حاضرین مجلس میں ایک علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی۔ آخر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب سب خاموش ہو گئے؟ تم کو آیت

الکری نہیں معلوم کیا؟ عبد اللہ کہتے ہیں: ہم نے کہا: اے ابوالحسن! اس کے بارے میں آپ نے جو کچھ نبی کریم ﷺ سے سنا ہو میں بھی سنا ہے! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

انبیاء کے سردار آدم ہیں۔ عرب کے سردار محمد ہیں (ﷺ)، فارس کے سردار مسلمان ہیں، روم کے سردار صہیب ہیں، حبشہ کے سردار بلال ہیں، درختوں کا سردار بیری کا درخت ہے، مہینوں کا سردار حرم والے ماہ ہیں، (رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم) جب کہ بعد میں شرعی حرمت ختم کر دی گئی تھی اور ماہ صیام کو سب سے زیادہ افضل قرار دیا گیا (دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، کلاموں کا سردار قرآن ہے، قرآن کی سردار سورۃ البقرہ سے۔ اور سورۃ البقرہ کی سردار آیت الکری ہے۔ اس میں پچاس کلمے ہیں اور ہر کلمہ میں پچاس برکتیں ہیں۔

ابو عبد اللہ منصور بن احمد الہروی فی حدیثہ والذیلسی

ابن عساکر نے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مختصر روایت کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم آیۃ الکری کی فضیلت نہیں جانتے؟

اس میں پچاس کلمے ہیں اور ہر کلمہ میں ستر برکات ہیں۔

روایت میں ایک راوی مجالد بن سعید ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یسسی بشی ۵۔ ان کا کچھ اعتبار نہیں۔ اور کئی ایک محدثین نے

کہا ہے یہ ضعیف ہے۔

۴۰۶۱۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میری ایک (کھجوریں سکھانے کی) جگہ تھی۔ جہاں ہر روز جاتا تھا ایک مرتبہ کھجوریں کم پائیں تو میں نے ایک رات وہاں چوکیداری کی۔ دیکھا کہ ایک جانور ہے جو لڑنے کی مانند کھائی جے رہا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو جن سے یا انسان؟ اس نے کہا: جن۔ میں نے اس کو اپنا ہاتھ پکڑنے کو کہا تو اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی مانند تھا۔ اور اس کے بال بھی کتے کے بال کی طرح تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا جنوں کے جسم ایسے ہی ہوتے ہیں؟ اس نے میرے جواب کے بجائے کہا: جنوں کو یہ بات معلوم ہے کہ میں ان میں اس وقت سب سے زیادہ قوت والا ہوں۔ میں نے اس سے اس چوری کی وجہ پوچھی تو بولا: ہم نے سنا تھا آپ صدقہ کرنے کو پسند کرتے ہیں تو ہم کو خواہش ہوئی کہ آپ کا طعام کھانا چاہئے۔ آیۃ الکری جو سورۃ البقرہ میں ہے۔ جس نے اس کو شام سے پڑھا صبح تک ہم سے حفاظت میں رہا اور جس نے صبح پڑھا شام تک ہم سے حفاظت میں رہا۔

حضرت ابی رضی اللہ عنہ صبح کو رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا سارا ماجرا کہہ سنایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: صدق

اخیرت۔ صبیث نے صحیح کہا۔

نسائی، الحارث، مستدرک الحاکم، الرویانی، العظمت لابی الشیخ، الکبیر للطبرانی، الحاکم و ابو نعیم فی الدلائل، السنن لسعید بن منصور

۴۰۶۲۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے دریافت کیا: کتاب اللہ میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت

والی ہے؟ ابی رضی اللہ نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی ﷺ نے تین بار ان سے یہ سوال کیا حضرت ابی رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں: آخر میں نے عرض کیا: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر حضور ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: اے ابوالمنذر! تم کو علم

مبارک ہو۔ مسلم

افضل ترین آیت

۴۰۶۳۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کتاب اللہ کی کونسی آیت تم کو سب سے زیادہ عظمت والی

معلوم ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ ﷺ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور

فرمایا: تجھ کو علم مبارک ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان ہے اور وہ ہونٹ ہیں، یہ عرش کے پائے کے پاس کھڑی ہو کر مالک الملک کی پاکی بیان کرتی ہے۔

ابن الضریس فی فضائلہ، الرویانی، ابن حبان، ابوالشیخ فی العظمة، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم ۴۰۶۳ (اسقع البکری رضی اللہ عنہ) ابن ماکولا اسقع البکری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس مہاجرین کی اوطاق میں تشریف لائے۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! قرآن میں کونسی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ فرمایا: اللہ لا الہ الا هو الحی القيوم۔ التاریخ للبخاری، الکبیر للطبرانی، المعرفة لابی نعیم اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اس کو عبدان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

۴۰۶۵ (سورہ بقرہ کی آخری آیات) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں کسی کو عقل مند نہیں سمجھتا کہ وہ بغیر سورہ بقرہ کی آیات پڑھے سو جائے۔ بے شک وہ آیات عرش کے خزانے سے نازل کی گئی ہیں۔ الدارمی، مسدد، محمد بن نصر، ابن الضریس، ابن مردویہ فائدہ: سورہ بقرہ کی آخری آیات سے مراد امین الرسول سے آخر تک ہے۔

۴۰۶۶ (آل عمران) (عثمان رضی اللہ عنہ) عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس نے کسی رات آل عمران کا آخری حصہ پڑھا اس کے لیے وہ رات عبادت میں گذاری ہوئی لکھی جائے گی۔ رواہ الدارمی

فائدہ: سورہ آل عمران کے آخری حصہ سے مراد آخری رکوع ہے جو آیت نمبر ۱۹۰ ان فی خلق السموات سے آخر سورت تک ہے۔ ۴۰۶۷ (الزہراوان) (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس نے بقرہ آل عمران اور نساء یہ تینوں سورتیں ایک رات میں پڑھ لی اس کو قاتلین (خدا کے تابعداروں) میں لکھ دیا جائے گا۔

ابوعبید، السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، شعب الایمان للبیہقی ۴۰۶۸ (الانعام) (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سورہ الانعام قرآن کا مغز ہے۔

ابوعبید فی فضائل القرآن، الدارمی، محمد بن نصر فی کتاب الصلاة ابو الشیخ فی تفسیرہ ۴۰۶۹ (علی رضی اللہ عنہ) ابو الفضل بزیج بن عبید بن بزیج المزہری المقری، سلیمان بن موسیٰ، سلیم بن عیسیٰ، حمزہ بن حبیب الزیات، سلیمان الاعمش، یحییٰ بن وثاب، ابو عبد الرحمن السلمی، علی بن ابی طالب۔

ہر ایک راوی سے بیان کرنے والا پانچ آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور سننے والے سے پوچھتا ہے کیا کافی ہے؟ لیکن وہ جواب میں زیادتی کی خواہش ظاہر کرتا ہے تو وہ یہی بات اپنے محدث کی طرف منسوب کرتا ہے آخر میں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تجھے یہ کافی ہونا چاہیے اسی طرح قرآن پانچ پانچ آیتیں ہو کر نازل ہوا ہے۔ اور جس نے پانچ پانچ آیتیں کر کے قرآن یاد کیا وہ اس کو نہیں بھولے گا سوائے سورہ انعام کے، یہ پوری کی پوری نازل ہوئی تھی۔ اس کو لے کر ہزار فرشتے آئے تھے اور ہر آسمان سے ستر ہزار فرشتے ان کی مشابہت کرنے آئے تھے۔ اسی شان و شوکت کے ساتھ انہوں نے یہ سورت نبی پر نازل کی۔ یہ سورت جب بھی کسی بیمار پر پڑھی گئی اس کو ضرور شفاء نصیب ہوئی۔ شعب الایمان للبیہقی، الخطیب فی التاریخ، ابن الحجار

کلام: امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں غیر معروف راوی ہیں۔ میزان میں ہے کہ ہذا موضوع علی سلیم۔ کہ یہ روایت امام سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے گھڑی گئی ہے۔ نیز بزیج غیر معروف راوی ہے۔ میزان ۳۰۷۔

۴۰۷۰ (سورہ المؤمنون) (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے کے قریب شہد کی کھبوں بھیننا ہٹ کی مانند آواز سنائی دیتی۔ (اسی طرح ایک مرتبہ) ہم کچھ دیر بٹھہرے آپ ﷺ قبلہ رو ہوئے اور اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی:

اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واغظنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا واراضنا

اے اللہ ہم میں زیادتی فرما، کمی نہ فرما، ہمارا اکرام فرما، ہمیں توہین کے حوالہ نہ کرے، ہمیں عطا کر، محروم نہ کر، ہمیں ترجیح دے، ہم پر کسی کو ترجیح نہ دے، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی راضی کر دے۔

پھر آپ ﷺ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہیں۔ جس نے ان پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ ﷺ نے قدح المؤمنون پڑھنا شروع کی حتیٰ کہ دس آیات ختم فرمادیں۔ عبد بن حمید، عبدالرزاق، مسند احمد، ترمذی، نسائی امام نسائی فرماتے ہیں یہ روایت منکر ہے۔

ابن المنذر بالعقبلی فی الضعفاء مستدرک الحاکم، البیہقی فی الدلائل، ابن مردویہ، السنن لسعید بن منصور

۴۰۷۱ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جس نے قدح المؤمنون (یعنی سورہ مؤمنون) کی پہلی دس آیات پڑھیں، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ رواہ ابن مردویہ

۴۰۷۲ (السیع الطوال) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی رات کچھ تکلیف محسوس کی۔ صبح ہوئی تو آپ ﷺ سے پوچھا گیا: تکلیف کا اثر آپ کے چہرے پر واضح (کیوں) ہے؟ فرمایا: الحمد للہ! تم جس حال پر مجھے دیکھ رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے

اس رات السیع الطوال (شروع کی سات طویل سورتیں) پڑھی تھیں۔ رواہ ابن جنویر

۴۰۷۳ (سورہ طہ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے سب سے پہلے سورہ طہ سیکھی تھیں میں جب بھی یہ پڑھتی تھی:

طہ انزلنا علیک القرآن لتشقی۔

طہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ متقی ہو جائیں۔ تو رسول اکرم ﷺ یہ ضرور فرماتے: اے عائشہ! میں شقی نہیں ہوا۔

رواہ ابن عساکر

۴۰۷۴ (سورہ یس) (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے سورہ یس کو سنا

اس کے لیے راہ خدا میں بیس دینا خرچ کرنے کا اجر لکھا جائے گا۔ اور جس نے سورہ یس کو پڑھا اس کے لیے بیس مقبول حج کے برابر ہوگا اور

جس نے سورہ یس کو لکھ کر پیا اس کے پیٹ میں سونور، سورتیں اور سو برکتیں لکھی جائیں گی اور اس کے دل سے ہر طرح کا کھوٹ اور بیماری نکال

دی جائے گی۔ رواہ ابن مردویہ

کلام: ... اس روایت کی سند کمزور ہے۔

سورہ یسین کی فضائل

۴۰۷۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یس پڑھ، یس میں دس برکات ہیں۔ جس بھوکے نے اس کو

پڑھا سیر ہوا۔ جس پیاسے نے پڑھا سیراب ہوا۔ جس ننگے نے پڑھا ملبوس ہوا۔ جس مجرد (بے نکاح) نے پڑھا شادی کے بندھن میں جڑا۔ جس

خوف زدہ نے پڑھا امن پایا۔ جس قیدی نے پڑھا آزاد ہوا۔ جس مسافر نے پڑھا اس کو سفر میں مدد نصیب ہوئی۔ جس مقروض نے سورہ یس کو

پڑھا اس کا قرض ادا ہوا۔ کسی گم شدہ شے والے نے پڑھا تو اس کو پایا۔ اور جس میت پر اس سورت کو پڑھا گیا اس سے عذاب ہلکا کر دیا گیا۔

رواہ ابن مردویہ

۴۰۷۶ (سورہ الصافات) (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص یہ چاہے کہ بڑے تر ازو میں اس کا مل ٹولا جائے تو

وہ یہ آیت تین بار پڑھا کرے ان زنجوبہ فی ترغیہ

۴۰۷۷ (سورہ الفتح) (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم ایک سفر میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ تھے۔ میں نے

ایک شے کے بارے میں آپ سے تین بار سوال کیا۔ مگر آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی: تیری ماں گم

ہو خطاب کے بیٹے! تو نے رسول اللہ ﷺ کو سوال کر کے تنگ کر دیا۔

چنانچہ پھر میں نے اپنی سواری آگے بڑھائی کہ کہیں میرے خلاف کوئی وحی نازل نہ ہو جائے۔ اچانک ایک آواز اٹھی: اے عمر! میں پلٹا اور ڈرا کہ کہیں میرے بارے میں کچھ نازل تو نہیں ہو گیا۔ لیکن حضور ﷺ نے فرمایا: گذشتہ رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور دنیا کی سب چیزوں سے محبوب ہے۔ وہ سورت ہے: انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ماتقدم من ذنبک و ماتاخر

سورة الفتح مسند احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، مسند ابی یعلیٰ، صحیح ابن حبان، ابن مردویه، الدلائل للبیہقی ۴۰۷۸ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیبیہ سے واپسی کے موقع پر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا سے زیادہ محبوب ہے: انا فتحنا لک فتحا مبینا (اس سورت میں آپ کو فتح مکا اور اگلے پچھلے گناہوں کی مغافی کا وعدہ دیا گیا ہے۔) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ نے واضح کر دیا ہے جو آپ کے ساتھ کرم ہونے والا ہے۔ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو یہ فرمان نازل ہوا: لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات۔ تاکہ وہ مؤمن اور مؤمنات کو جنت میں داخل کرے۔

الجامع لعبدالرزاق، المصنف لابن ابی شیبہ، مسند احمد، عبد بن حمید، مسلم، ترمذی، ابن حریز، ابن مردویه، المعرفة لابی نعیم ۴۰۷۹ (سورۃ ق)۔ ام ہاشم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے سورۃ ق و القرآن الحجدیہ کو رسول اللہ ﷺ کی زبان سے (سن سن کر) یاد کی ہے۔ جب آپ ﷺ جمعہ کے دن خطبہ دیتے تو اس کو پڑھتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۰۸۰ (سورۃ تبارک) (انس رضی اللہ عنہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن ایک شخص کھڑا کیا جائے گا جس نے معاصی کی تمام راہوں پر سفر کیا ہوگا۔ مگر وہ اللہ کو ایک مانتا ہوگا۔ اور قرآن کی بھی صرف ایک سورت سیکھی ہوگی۔ اس کو جہنم کا حکم سنا دیا جائے گا۔ اس کے پیٹ سے پرندے کی مانند کوئی چیز نکل کر اڑ جائے گی۔ وہ کہے گی: اے اللہ! تیرے نبی پر مجھے نازل کیا گیا تھا اور تیرا یہ بندہ بھی میری تلاوت کرتا تھا چنانچہ وہ سورت مسلسل اس کی شفاعت میں رہے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی اور نجات دہندہ سورۃ تبارک الذی ہے۔ رواہ الدیلمی

۴۰۸۱ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) قرۃ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک شخص کی وفات ہوئی اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ قرآن کی ایک سورت اس کی طرف سے جھگڑنے لگی حتیٰ کہ اس سے سب کو روک دیا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اور مسروق (ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد) نے دیکھا تو وہ سورۃ سورۃ تبارک الذی (سورۃ الملک) تھی۔

۴۰۸۲ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سورۃ تبارک نے اپنے پڑھنے والے کے لئے جھگڑا کیا حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا۔

۴۰۸۳ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ تبارک الذی سورۃ مانع ہے یہ اللہ کے حکم سے قبر کے عذاب کو منع کرتی ہے۔ (اور روکتی ہے)۔ عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر ہبتا ہے اس شخص نے میرے اندر سورۃ تبارک الذی کو محفوظ کر رکھا ہے لہذا یہاں سے عذاب کو راستہ نہیں مل سکتا۔ عذاب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو پاؤں کہتے ہیں: اس شخص کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر سورۃ تبارک الذی پڑھتا رہا ہے لہذا یہاں سے تم کو راستہ نہیں مل سکتا۔ پس اللہ کے حکم سے یہ سورت قبر کے عذاب کو روک دیتی ہے۔ یہ سورت تورات میں بھی ہے۔ جس نے اس کو رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ (قرآن پڑھا) اور اچھا کیا۔ البیہقی فی عذاب القبر

۴۰۸۴ (سورۃ اہل) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ کر کرتے تھے۔

مسند احمد، البیہقی ابن مردویہ

کلام اس روایت میں ایک راوی نورین ابی فاختہ ہیں۔ جو ضعیف ہیں۔

سورۃ تکاثر کی فضیلت

۴۰۸۵ (سورۃ تکاثر) (مسند عمر رضی اللہ عنہ) المحقق والمفتقر کتاب میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمیں اسماعیل بن رجا نے کہا کہ ابوالحسن علی بن الحسن بن اسحاق بن ابراہیم بن المبارک الفرغانی، ابوالعباس، احمد بن عیسیٰ المقری، ابو جعفر محمد بن جعفر الانصاری، یحییٰ بن بکیر الخرمی، مالک بن انس، حبیب بن عبدالرحمن بن حفص بن عاصم کی سند سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جس نے ایک رات میں ایک ہزار آیات پڑھیں وہ اللہ سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ کسی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ہے جو ہزار آیات ایک رات میں پڑھ سکے۔ حضور ﷺ نے اس کے جواب میں بسم اللہ پڑھ کر پوری سورۃ الہاکم النکاثر پڑھی۔ پھر فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ (چھوٹی سی) سورت ایک ہزار آیات کے برابر ہے۔

الخطیب فی المتفق والمتفرق

کلام: ... مؤلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کو یحییٰ بن بکیر سے روایت کرنے والا راوی مجہول ہے۔ اور حدیث غیر ثابت ہے۔

۴۰۸۶ (سورۃ الاخلاص) (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس شخص نے فجر کی نماز کے بعد دس بار سورۃ اخلاص پڑھی

اس کو کوئی گناہ لاحق نہ ہوگا خواہ شیطان طاقت صرف کرے۔ السنن لسعید بن منصور، ابن الضریس

۴۰۸۷ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا: میں تم کو پورا قرآن سناتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے

تین بار سورۃ اخلاص پڑھی۔ علی بن حرب الطائی فی الثانی من حدیثہ

۴۰۸۸ (المعوذتین) حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک سفر میں میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ تھا۔ جب فجر طلوع ہوئی

تو آپ نے اذان دی اور اقامت کہی اور مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے (دور کعتوں میں) معوذتین پڑھی۔ نماز کے

بعد فرمایا: کیا دیکھا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دیکھ لیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب بھی سو یا اٹھو تو ان کو ضرور پڑھو۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۰۸۹ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ سے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا: اے عقبہ

بن عامر! قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی کرو، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرو۔ ظلم کرنے والے کو معاف کر۔

فرماتے ہیں: میں پھر آپ سے ملا تو آپ نے فرمایا: اے عقبہ بن عامر! میں تجھے ایسی سورتیں نہ سکھا دوں جن کے مثل اللہ پاک نے کوئی

سورت نہ تو رات میں نازل کی اور نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن میں۔ پس ان پر کوئی رات ایسی نہ گذرنی چاہیے جس میں تو ان کو نہ پڑھے۔

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سے رسول اللہ ﷺ نے مجھے ان سورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے تب سے کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں

گذری جس میں نے ان کو نہ پڑھا ہو۔

اور مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کو کبھی نہ چھوڑوں کیونکہ آپ ﷺ نے مجھ ان کا حکم دیا ہے۔ رواہ ابن عساکر

۴۰۹۰ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان گھائیوں میں سے ایک گھائی میں رسول اللہ ﷺ کی سواری کی مہارتھامے چل رہا تھا کہ مجھے

آپ ﷺ نے فرمایا: تم بھی سوار ہو جاؤ اے عقبہ۔ مجھے خوف ہوا کہ آپ ﷺ کی سواری پر کیسے سوار ہوں۔ لیکن پھر ڈر گیا کہیں نا فرمان نہ

ہو جاؤں۔ چنانچہ میں سوار ہوا اور تھوڑی دیر بعد اتر گیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ سوار ہو گئے۔ میں دوبارہ آپ کی سواری کی مہارتھامے چلنے لگا۔ پھر مجھے

رسول اللہ ﷺ مخاطب ہو کر فرمانے لگے: اے عقبہ! میں سب سے بہترین دو سورتیں تم کو نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر

قربان ہوں۔ یا رسول اللہ! ضرور بتائیے! تو آپ نے فرمایا: قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ عقبہ فرماتے ہیں پھر جب صبح کی

نماز کھڑی ہوئی تو آپ ﷺ نے نماز میں یہی دو سورتیں تلاوت فرمائیں۔ پھر آپ کا گذر میرے پاس سے ہوا تو فرمایا: اے عقبہ! کیا دیکھا (ان

سورتوں کی اہمیت کو؟ پس جب بھی سوویا اٹھو تو ان کو ضرور پڑھو۔ رواہ ابن عساکر ۴۰۹۱۔ (جامع سورتیں) (مسند صدیق رضی اللہ عنہ)۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بڑھاپا آپ یریزی کے سات چھار ماہے؟ فرمایا: مجھے سورہ ہود، واقعہ، مرسلات، عم یتساء لون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔

مسدد، مسند ابی یعلیٰ، ابن المنذر، ابو الشیخ، الکبیر للطبرانی، ابن عساکر، ابن مردویہ، الصابونی فی الماتین ابن عساکر ۴۰۹۲۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بڑھاپا آپ پر جلدی آگیا؟ فرمایا: مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں حاقہ، واقعہ، عم یتساء لون اور هل اتاک حدیث الغاشیہ نے بوڑھا کر دیا۔ (کیونکہ ان میں عذاب کا ذکر ہے)۔ (المیزان ابن مردویہ)

۴۰۹۳۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے سر کو کس چیز نے سفید کر دیا؟ فرمایا: ہود اور اس کی بہن سورتوں نے مجھے بڑھاپے سے قبل بوڑھا کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا: اس کی بہن کون سی ہیں؟ فرمایا: اذا وقعت الواقعة، عم یتساء لون اور اذا الشمس کورت انہوں نے مجھے بڑھاپے سے قبل بوڑھا کر دیا۔ رواہ ابن مردویہ

۴۰۹۴۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ النساء پڑھی اس کو اللہ کے ہاں حکماء میں سے لکھا جائے گا۔ السنن لسعید بن منصور، شعب الایمان للبیہقی ۴۰۹۵۔ مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سورہ بقرہ، سورہ النساء، سورہ المائدہ، سورہ الحج، اور سورہ النور سیکھو، کیونکہ ان میں (احکامات اور) فرائض ہیں۔

مستدرک الحاکم شعب الایمان للبیہقی

۴۰۹۶۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: سورہ البراءت سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ النور سکھاؤ اور ان کو زیور میں چاندی پہناؤ۔

فضائل القرآن لابی عیید، السنن لسعید بن منصور، التفسیر لابی الشیخ، شعب الایمان للبیہقی

فصل..... تلاوت کے آداب میں

پیدا ہوا مشہور پاکستان

۴۰۹۷۔ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ)۔ ابوصالح سے مروی ہے۔ دور خلافت صدیق میں یمن کا وفد (مدینہ) آیا اور قرآن سن کر رونے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم بھی (پیلے) اسی طرح تھے، (قرآن سن کر رو پڑتے تھے) پھر ہمارے قلوب سخت ہو گئے۔ حلیۃ الاولیاء ۴۰۹۸۔ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم پڑھی پھر تجدہ فرمایا۔ بعد میں

فرمانے لگے تجدہ تو کر لیا رونا کہاں گیا۔ ابن ابی الدنیا فی البکاء، ابن جریر، ابن ابی حاتم، شعب الایمان للبیہقی

۴۰۹۹۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ایسی آوازوں کو قرآن پڑھتے ہوئے اچھا رکھو۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۱۰۰۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سورہ اسی سبح اسم ربک الاعلیٰ (اپنے رب کی تسبیح بیان کر) پڑھتے تو فرماتے سبحان ربی

الاعلیٰ۔ باب سے میرا رب بندر شان والا۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۱۰۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے: قرآن پڑھو اور اس کے طفیل اللہ سے سوال کرو۔ اس سے قبل کہ کوئی قوم اس کو پڑھ کر لوگوں سے سوال کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

فائدہ: اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے درحقیقت یہ وہی زمانہ ہے جس میں لوگ اللہ کا کلام پڑھ کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں۔

۴۱۰۲۔ محمد بن اسلم سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو فرمایا: اے فلاں سورہ الحج پڑھ کر سناؤ اس شخص نے عرض کیا: یا میرا مہمشین! آپ کو بھی تو یاد ہے؟ فرمایا میرے پاس تمہارے جیسی آواز نہیں ہے۔

شعب الایمان للبیہقی، مسند ابی عیید اللہ الحسین بن خسرو

۴۱۰۳ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر آپ حاجت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر واپس لوٹے تو قرآن پڑھتے ہوئے آئے۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وضو نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے کس نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ کیا مسلمان نے؟

مؤطا امام مالک، مصنف عبدالرزاق، فضائل القرآن لابن عیید، ابن سعد، ابن جریر
فائدہ:..... بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ لیکن قرآن کو چھونا جائز نہیں۔ مسلمان کا فرقی اور اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔

۴۱۰۴ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں چاہتا ہوں کہ قاری کو سفید کپڑوں میں دیکھوں۔ مؤطا امام مالک
۴۱۰۵ علامہ شعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے: ایک شخص نے قرآن پاک لکھا اور ہر آیت کے ساتھ اس کی تفسیر بھی لکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے وہ قرآن پاک منگوایا اور پیچی کے ساتھ اس کو دو ٹکڑے کر کے (شہید) کر دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۱۰۶ حارث بن مضرب فرماتے ہیں: ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ تم لوگ سورۃ النساء، احزاب اور النور سیکھو۔ ابو عیید
۴۱۰۷ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: جب تک تمہارے دل سچے رہیں قرآن پڑھتے رہو اور جب مختلف ہو جائیں (اور اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں) تو اٹھ کھڑے ہو۔ ابو عیید، شعب الایمان للبیہقی

۴۱۰۸ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوتے تو قرآن پاک کھول کر تلاوت کرتے تھے۔

رواہ ابن ابی داؤد

۴۱۰۹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے جب تم میں سے کوئی رات کو کھڑا ہو اور قرآن پڑھنا اس کو دشوار ہو تو سوجائے۔ مسدد

۴۱۱۰ (عثمان رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر کوئی بھی رات یا دن گزرے تو میں قرآن کھول کر ضرور پڑھوں۔ الزید اللہ امام احمد، ابن عساکر

۴۱۱۱ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان لوگ تیز آواز میں ایک دوسرے پر قرآن پڑھیں۔ مسند احمد

۴۱۱۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تو پست آواز میں پڑھتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تو بلند آواز میں پڑھتے تھے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ مختلف سورتوں سے کچھ کچھ حصہ پڑھتے تھے۔

یہ بات حضور ﷺ کو ذرا گنی کی تو آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا: تم پست آواز میں کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا: میں اس ذات کو سنا تا ہوں جس سے مناجات کرتا ہوں۔ (اور وہ دل تک کی آواز کو سنتا ہے آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم تیز آواز میں قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا: میں شیطان کو ڈراتا ہوں اور اونگھنے والوں کو جگاتا ہوں۔ آپ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے پوچھا: اس سورت سے اور اس سورت سے کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا: کیا آپ نے ایسا کچھ سنا کہ میں غیر قرآن قرآن کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہوں؟ فرمایا: نہیں، تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے عرض کی: تب سارا ہی اچھا ہے۔ (جہاں سے بھی پڑھوں)۔

مسند احمد، الشاشی، سمویہ، شعب الایمان للبیہقی، السنن لسعید بن منصور
۴۱۱۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے منع فرمایا کہ کوئی شخص عشاء سے پہلے اور اس کے بعد (جب لوگ عشاء کی سنتیں اور نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں) بلند آواز سے قرأت کرے۔ جس سے اپنے ساتھیوں کو نماز میں مغالطہ پیدا کرے۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابو عیید فی فضائل القرآن، مسدد، مسند ابی یعلیٰ، الدورفی السنن لسعید بن منصور
۴۱۱۴ عیسیٰ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد عمر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو آپ سے پوچھا گیا: اے امیر المؤمنین! کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ یہ قرآن میں ہے؟ پوچھا: وہ کیا عرض کیا: سبحان ربی الاعلیٰ؟ فرمایا نہیں ہمیں اس کو پڑھنے کا حکم ملا تھا (سبح اسم ربک الاعلیٰ) کہ اپنے رب کی جو بلند ذات والا ہے سبح بیان

(کہ عموماً میں نے اس حکم کی تعمیل کی ہے بس۔ المصاحف لابن الانباری

۴۱۱۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں (جن پر قرآن چلتا ہے) پس ان کو مسواک کے ساتھ پاک صاف رکھو۔ ابو نعیم فی کتاب السواک السنجری فی الابانہ

۴۱۱۶ عبد بنیر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز میں سنا کہ انہوں نے سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ عبدالرزاق، الفریابی، مصنف ابن ابی شیبہ، ابو عبید فی فضا نلہ، عبد بن حمید

۴۱۱۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ سے ورتل القرآن توتیلًا (کہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھو) کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کو واضح کر کے پڑھو، شعر کی طرح کلمے کلمے مت کرو، اس کے عجائبات پر ٹھہر جاؤ، اس کے ساتھ اپنے دلوں کو زخمی کرو اور محض آخری سورت تک پہنچنے کو مقصد نہ بناؤ۔ العسکری

۴۱۱۸ حجر بن قیس المدری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس رات گزارنے میں نے آپ کو رات کی نماز (تہجد) میں پڑھتے سنا: اقرأیتم ماتمنون ء انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ (دیکھو تو جس (نطفے) کو تم (عورتوں کے حمل میں) ڈالتے ہو، کیا تم اس (سے انسان) کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں۔ یہ آیات پڑھ کر آپ نے تین مرتبہ فرمایا: بیل انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا: بیل انت یارب نہیں پروردگار آپ ہی اگاتے ہیں۔ پھر جب آپ نے تین مرتبہ پڑھا: اذقرأیتم الماء الذی تشریون ء انتم ام نحن المنزلون بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم اس کو بادل سے نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں۔ پھر آپ نے تین مرتبہ فرمایا: بیل انت یارب نہیں پروردگار! بلکہ آپ ہی نازل کرتے ہیں۔ پھر جب آپ نے پڑھا: اقرأیتم النار التی تورون ء انتم انشأتہم شجر تھا ام نحن المنشون بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس کو درخت سے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے تین مرتبہ فرمایا: بیل انت یارب! نہیں پروردگار! آپ ہی پیدا کرتے ہیں۔ عبدالرزاق، ابو عبید فی فضائلہ، ابن المنذر، مستدرک الحاکم، البیہقی فی السنن

۴۱۱۹ (ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) عبدالکریم بن امیہ کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ (قرآن) کھولتے تھے۔ الجامع لعبدالرزاق

تین راتوں میں پورا قرآن پڑھنا

۴۱۲۰ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں تین راتوں میں پورا قرآن پڑھتا ہوں۔ ابن سعد، ابن عساکر

۴۱۲۱ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ابی حکم بن ابی العاص میں سے ایک شخص سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھانی اور ایک سورت تلاوت فرمائی جس میں ایک آیت آپ بھول گئے۔ پھر پوچھا کیا مجھ سے کچھ چھوٹ گیا؟ لیکن لوگ خاموش رہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا حال ہے لوگوں کا ان پر اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے لیکن ان کو پینہ نہیں چلتا کہ ان پر کیا پڑھا گیا ہے؟ اور کیا چھوڑا گیا ہے؟ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا، اللہ کی خشیت ان کے دلوں سے نکل گئی تھی۔ ان کے دل غائب ہو گئے تھے اور خالی جسم حاضر رہتے تھے۔ آگاہ رہو اللہ عزوجل کسی بندے کا کوئی عمل قبول نہیں فرماتے جب تک وہ جسم کے ساتھ دل کو بھی حاضر نہ رکھے۔ رواہ الدیلمی

۴۱۲۲ (انس رضی اللہ عنہ) عبداللہ بن ابی بکر سے مروی ہے کہ زیاد اعمیر می قراء کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ زیاد کو قرآن پڑھنے کی درخواست کی گئی۔ زیاد نے بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کیا اور یہ یوں بھی بلند آواز کے مالک تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام تو ایسا نہیں کرتے تھے۔

۴۱۲۳ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم جب رات کو کھڑے ہوتے تو نہایت پست آواز میں قرآن پڑھتے تھے۔ عرض کیا

گیا: یا رسول اللہ! قرآن پڑھتے ہوئے آپ اپنی آواز کو بلند کیوں نہیں کرتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے ناپسند ہے کہ اپنے ساتھی اور اپنے گھر والوں کو آوازیت پہنچاؤں۔ رواہ ابن النجار

۴۱۲۴ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہمارے بیچ عجمی اور دیہاتی لوگ بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے کان لگا کر (مختلف لوگوں کے) قرآن سنے۔ پھر فرمایا پڑھتے رہو، سب صحیح ہے۔ غنفریب ایک قوم آئے گی وہ قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کر لے گی وہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ چاہیں گے اور آخرت کی امید نہیں رکھیں گے۔ رواہ ابن النجار

۴۱۲۵ (جابر بن عبد اللہ بن زباب السہمی رضی اللہ عنہ) کلمی، عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم نبی کریم ﷺ نے یہ آیت پڑھی: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَانصِبْ قُرْبَانَ قَرِيبٍ** اور جب مجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو (کہہ دیجیے کہ) میں قریب ہوں۔ اور پکارو اے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! تو نے ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ذمہ داری خود کی ہے۔ پس ہم حاضر ہیں، اے اللہ! ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور تمام نعمتوں کا مالک تو ہے، ساری سلطنت تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، اے پروردگار! میں گواہی دیتا ہوں تو اکیلا رب ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا اور نہ ہی اس کا کوئی ثانی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آنے والی ہے، جس میں کوئی مشابہ نہیں اور بے شک تو قبروں میں پڑے مردوں کو ضرور جی اٹھائے گا۔ سلمان رضی اللہ عنہ

۴۱۲۶ عاتقہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی کتیا سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کیا: یا ابا عبد اللہ! اگر آپ وضو کرتے اور فلاں فلاں سورت پڑھ کر سنا دینے! حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **فَسِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ** (یہ قرآن) کتاب محفوظ میں ہے اور اس کو صرف ملائکہ چھوتے ہیں۔ چنانچہ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا جس کا ہم نے تقاضا کیا تھا۔ مصنف عبدالرزاق

۴۱۲۷ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھا پڑھنے والا کون ہے؟ فرمایا: شخص جب پڑھے تو یوں لگے گویا وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ الخطیب فی المتفق والمفترق

کلام: اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ نیز یہ روایت مسعر سے موصول بیان کرنے میں اسماعیل بن عمر الجلی متفرد ہیں جو اصحابان میں تھے انہوں نے روایت موصول بیان کیا ہے۔ ورنہ ان کے علاوہ سب نے اس روایت کو عن مسعر مرسل عن طاؤس کی سند سے بیان کیا ہے اور اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام مذکور نہیں۔

اسماعیل بن عمر الجلی جو ابن عباس کا ذکر کرتے ہیں ان کو بعضی میں ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

قرآن کی مسلسل تلاوت

۴۱۲۸ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کون سائل افضل ترین ہے؟ فرمایا: الحال المرحل۔ عرض کیا: الحال المرحل کون ہے؟ وہ قرآن پڑھنے والا جو قرآن شروع کرے اور آخر تک پہنچے اور پھر آخر سے شروع میں آجائے۔ یونہی قرآن میں اترتا رہے اور چلتا رہے۔ الامثال للامهر مزنی

۴۱۲۹ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ جب ایسے ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی۔ (کیا وہ اس پر قیامت نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کرے) پڑھتے تو فرماتے: **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ يَا كَرِيمٌ**۔ (بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے)۔ اور جب آ-

سبح اسم ربك الاعلیٰ (پاک بیان کر اپنے بلند شان والے) رب کی پڑھتے تو فرماتے: سبحان ربی الاعلیٰ پاک ہے میرا رب بلند شان والا۔ الجامع لعبدالرزاق

۲۱۳۰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں سورہ بقرہ کو ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح پڑھوں مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ پورے قرآن کو جلدی جلدی پڑھ ڈالوں۔ الجامع لعبدالرزاق

۲۱۳۱ (ابن عمر) حضرت نافع (ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور آزاد کردہ غلام) کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کو صرف پاک حالت میں پڑھتے تھے۔ الجامع لعبدالرزاق

۲۱۳۲ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا کہ ہم وضوء پونے کے بعد پانی چھوئے بغیر قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ الجامع لعبدالرزاق

۲۱۳۳ (مسند عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما) عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے (مجھے) فرمایا: ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا بچپس دنوں میں قرآن پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا: اچھا بیس دنوں میں پڑھ لیا کر۔ عرض کیا: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا: پندرہ دنوں میں قرآن پڑھ لیا کر۔ عرض کیا: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا: دس دن میں قرآن پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا: پانچ دنوں میں قرآن پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں فرمایا: (پس اس سے زیادہ) نہیں۔ رواہ ابن عساکر

سات راتوں میں ختم قرآن

۲۱۳۴ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: قرآن کیسے پڑھوں؟ فرمایا: سات راتوں میں پڑھ لیا کر۔ میں مسلسل کم کرو اتارنا ہستی کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

ایک دن اور ایک رات میں پڑھ لیا کرو۔ رواہ مستدرک الحاکم

۲۱۳۵ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے قرآن پاک جمع کر لیا میں اس کو ایک رات میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایک ماہ میں پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! چھوڑے مجھے! میں اپنی طاقت اور جوانی کو کام میں لاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بیس دنوں میں پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! چھوڑے مجھے، میں اپنی طاقت اور جوانی کو کام میں لاؤں۔ فرمایا: دس دنوں میں پڑھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! چھوڑے مجھے، میں اپنی طاقت و جوانی کو کام میں لاؤں۔ لیکن آپ ﷺ نے انکار فرمایا۔ مسند ابی یعلیٰ، ابن عساکر

۲۱۳۶ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں ہمیشہ نظر رکھا کرو۔ ابن ابی داؤد فی المصاحف

۲۱۳۷ (مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ) ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے تلے کی اجازت چاہی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: آج رات مجھ سے قرآن کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے اور میں اس پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ ابن ابی داؤد فی المصاحف

۲۱۳۸ (معاذ رضی اللہ عنہ) عبدالرحمن بن عثم فرماتے ہیں میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کیا جنتی (جس پر غسل فرض ہو) قرآن پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا: ہاں اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔ میں نے عرض کیا: اور حائضہ؟ فرمایا: ہاں (پڑھ سکتی ہے)۔ میں نے عرض کیا: نافسہ (بچہ جنم دینے والی عورت ایام ناپاکی میں) فرمایا: ہاں (پڑھ سکتی ہے)۔ کوئی بھی اللہ کا ذکر چھوڑے اور نہ اس کی کتاب کی تلاوت کسی بھی حال میں میں نے عرض کیا: لوگ تو اس کو ناپسند خیال کرتے ہیں؟ فرمایا: جو اس کو ناپسند کرتا ہے وہ بچنے کے لیے کرتا ہے اور جو اس سے منع کرتا ہے اور وہ بغیر علم

کے ایسا کرتا ہے اور جو اس سے منع کرتا ہے وہ بغیر علم کے ایسا کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ایسی کسی بات سے منع نہیں فرمایا۔ رواہ ابن جریر کلام:..... اس روایت کی سند ضعیف ہے۔

۴۱۳۹ (ابو امامہ رضی اللہ عنہ) ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آپ ﷺ کے حج کرنے کے بعد میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ اکثر و بیشتر لا اقسام بیوم القیامہ کی تلاوت فرماتے تھے اور جب آپ (آخری آیت) الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ پڑھتے تو میں آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنتا تھا: بلی وانا علی ذلک من الشاہدین۔ کیوں نہیں۔ اور میں اس پر شاہد ہوں۔ رواہ ابن النجار

۴۱۴۰ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ آپ اپنے معتکف میں تھے کہ آپ نے لوگوں کو بلند آواز سے قرآن پڑھتے سنا۔ آپ نے اپنے معتکف کا پردہ اٹھایا اور فرمایا: خبردار! ہر ایک اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ لہذا کوئی کسی کو ایذا نہ دے۔ اور قرآن پڑھتے ہوئے نماز میں یا غیر نماز میں ایک دوسرے سے اپنی آواز بلند نہ کرے۔ الجامع لعبدالرزاق

۴۱۴۱ (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر! میں نے تم کو سنا ہے کہ تم پست آواز میں قرآن پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں جس سے مناجات کرتا ہوں اس کو سنا تا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمر! میں نے تم کو سنا ہے کہ تم تیز آواز میں قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کیا: میں شیطان کو بھگاتا ہوں اور اونگھنے والوں کو جگاتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا: اے بلال! میں نے تم کو سنا ہے کہ تم کچھ سورت سے کچھ یوں قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کیا: یہ (سازا) پاکیزہ کلام ہے جو اللہ پاک ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ تب نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تم سب صحیح ہو۔ رواہ ابن عساکر

تلاوت معتدل آواز سے ہو

۴۱۴۲ (مراسیل معبد رحمۃ اللہ علیہ بن المسیب) حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ (مشہور عبادت گزار ثقہ تابعی) فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کا حضرت ابوبکر پر گزرا ہوا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور پست آواز میں قرأت کر رہے تھے حضرت عمر پر گزرا ہوا تو وہ بلند آواز میں قرأت کر رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ ملاحظہ کر کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ صبح ہوئی تو سب آپ ﷺ کے گرد جمع ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر! میں تمہارے پاس سے گزرا تھا تم پست آواز میں قرأت کر رہے تھے۔ عرض کیا: جی ہاں۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ میں اس کو سنار ہاتھا جس سے میں سرگوشی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: تھوڑی سی آواز بلند رکھا کرو۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمر! میرے پاس سے گزرا تھا تم تیز آواز کے ساتھ قرآن پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا: جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں رحمن کی سنار ہاتھا، شیطان کو بھگا رہا تھا اور اونگھتے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کچھ آواز پست رکھا کرو۔ پھر فرمایا: اے بلال! میں تمہارے پاس سے گزرا تم بھی اس سورت سے اور بھی اس سورت سے پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا جی ہاں آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ میں اچھے کو اچھے کے ساتھ مل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: ہر سورۃ کو اسی طرح پڑھو۔ مصنف عبدالرزاق

فائدہ:..... مراسیل سے مراد وہ احادیث ہیں جن کو تابعی صحابہ کے واسطے کوچھوڑ کر نبی ﷺ سے روایت منسوب کرتا ہے۔

۴۱۴۳ (مراسیل طاؤس) حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے اچھے تلاوت والا کون ہے؟ فرمایا: جب تو اس کی قرأت سننے تو تجھے محسوس ہو کہ وہ خدا سے ڈر رہا ہے۔ الجامع لعبدالرزاق

۴۱۴۴ (مراسیل عطاء) حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک رات ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنا وہ نماز میں پست آواز میں قرأت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا وہ بلند آواز میں قرأت کر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سنا وہ مختلف سورتوں سے ملا، کر پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے ابوبکر! میں نے تجھے پڑھتے ہوئے سنا تم پست آواز میں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا: میں اپنے

رب سے مناجات کر رہا تھا۔ اس لیے پست آواز میں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا: اے عمر! میں نے تم کو سنا تم بلند آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا: میں شیطان کو بھگا رہا تھا۔ اور سونے والوں کو جگا رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا: اے بلال! میں نے تم کو سنا بھی اس سورت سے اور تمھی اس سورت سے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا: میں اچھے کو اچھے کے ساتھ ملتا رہا تھا۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: ہر ایک نے اچھا کیا۔ الجامع لعبدالرزاق

۴۱۴۵ ... (مرا سیل الزہری رحمۃ اللہ علیہ) حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے وہ بلند آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے حذافہ مجھے مت سنا بلکہ اللہ کو سنا۔ رو۳۰ عبد الرزاق

۴۱۴۶ ... حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے سورہ رحمن تلاوت فرمائی تھی کہ اس سورت کو ختم کر دیا پھر فرمایا: کیا بات ہے میں تم کو خاموش دیکھ رہا ہوں۔ جن تم سے زیادہ اچھا جواب دینے والے تھے۔ میں جب بھی ان پر یہ آیت پڑھتا: فبأی الاء ربکم اتکذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جن کہتے: ولا ہشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ پس تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ الحسن بن سفیان

۴۱۴۷ ... (مسند قیس بن ابی حصصہ) آپ کا نام عمرو بن زید ہے۔ آپ صحابی رسول ہیں۔ قیس بن ابی حصصہ سے مروی ہے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں کتنے دنوں میں قرآن پڑھوں۔ فرمایا پندرہ دنوں میں۔ انہوں نے عرض کیا: میں اپنے آپ کو اس سے زیادہ قوی پاتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر ہفتہ میں پڑھ لیا کرو۔ عرض کیا میں اس سے زیادہ اپنے کو قوی پاتا ہوں۔ یہ سن کر آپ ﷺ چپ ہو گئے۔ پھر آپ چلے گئے۔ قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اب میں پندرہ راتوں میں ختم قرآن کرتا ہوں اور کاش کہ میں نے آپ ﷺ کی رخصت قبول کر لی ہوتی۔ ابن مندہ، ابن عساکر

۴۱۴۸ ... یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جمعہ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا تو سب حان ربی الاعلیٰ کہا۔ پھر (دوسری رکعت میں) اهل اتاک حدیث الغاشیہ۔ پڑھی۔ شعب الایمان للبیہقی

فصل قرآن کے حقوق کے بیان میں

۴۱۴۹ ... (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا حروف قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے چھپائے گی، میں کہاں جاؤں گا اور کیا کروں گا اگر میں نے کتاب اللہ کے حرف کے بارے میں وہ بات کہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درست نہیں۔

ابن الانباری فی المصاحف
فائدہ: ۳۰۶۸ نمبر حدیث کے ذیل میں حرف قرآن کی تفسیر ملاحظہ کریں۔ اس مذکورہ حدیث میں اس بات کی سختی سے ممانعت کی طرف اشارہ ہے جو بات معلوم نہ ہو قرآن کے بارے میں قطعاً نہ کہی جائے ورنہ یہ ومن اظلم ممن افتتری علی اللہ الکذب اس شخص سے زیادہ ظالم لون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ کے زمرے میں شمار ہوگا۔ عافانا اللہ منہ

۴۱۵۰ ... حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد عالی ہے اگر میں کتاب اللہ میں ایسی کوئی بات کہوں جو میں نے سنی نہ ہو تو کونسا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے چھپائے گی؟ مسدد

۴۱۵۱ ... قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہوں تو کونسا آسمان ہے جو مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین ہے جو مجھے چھپالے گی۔ شعب الایمان للبیہقی

۴۱۵۲ ... لیث بن سعد روایت کرتے ہیں ابوالا زہر سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

مجھے ایک آیت حفظ کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ اچھی طرح پڑھوں۔

ابوعبید فی فضائل القرآن، کتاب الاشراف لابن ابی الدنیا، الايضاح للانباری

۴۱۵۳ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنبی اور حائضہ کو قرآن نہ پڑھنا چاہیے۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند الدارمی

۴۱۵۴ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا: فوفا کھتہ وانا (جستوں کے لیے میوے اور چارے ہوں

گے) پھر فرمایا: فاکھتہ، تو ہم نے جان لیا، یہ لبا کیا ہے؟ پھر فرمایا: بھڑو۔ ہم کو تکلف (از خود معنی بیان) لازم نہیں ہے کہ تو ضرور ابا کے معنی جان لے جو تم کو معلوم ہو اس پر عمل کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو اس کے جاننے والے کے سپرد کر دو۔ السنن لسعید بن منصور، مصنف ابن ابی شیبہ،

ابوعبید فی فضائلہ، ابن سعد، عبد بن حمید، ابن المنذر، المصاحف لابن الانباری، مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیہقی، ابن مردویہ

۴۱۵۵ ابووائل سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ”ابا“ کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ہمیں اس کو ضرور

جاننے کا مکلف نہیں کیا گیا اور نہ اس کا حکم دیا گیا۔ رواہ ابن مردویہ

قرآن کے مطلب اخذ میں نفسانی خواہشات سے اجتناب کرنا

۴۱۵۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ قرآن (اللہ کا) کلام جو اس کی جگہ میں ہوا اس کو رکھو اور اس میں اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔

احمد فی الزهد، البيهقي في الاسماء والصفات

۴۱۵۷ ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک اعرابی مدینہ آیا (جو اس وقت اسلامی دنیا کا

دار الخلافہ تھا) اعرابی نے کہا: جو اللہ نے محمد پر نازل کیا ہے مجھے کون سکھائے گا؟ ایک شخص نے ایک دیہاتی کو سورہ براءت سکھائی اور یہ آیت یوں

پڑھائی ان اللہ بوی من المشرکین ورسولہ اور رسولہ کو ورسولہ زیر کے ساتھ پڑھا۔ جس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ مشرکین اور رسول

سے بری ہے۔ چنانچہ اعرابی نے کہا: کیا اللہ رسول سے بری ہے؟ اس اعرابی نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! میں مدینہ میں آیا، مجھے قرآن کا کچھ

علم نہیں تھا۔ سو میں نے کہا مجھے کون قرآن سکھائے گا؟ اس شخص نے مجھے سورہ براءت سکھائی اور یوں پڑھائی ان اللہ بری ء من المشرکین

ورسولہ میں نے کہا اگر اللہ ہی رسول سے بری ہوتو میں اور زیادہ رسول سے بری ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اعرابی یہ آیت یوں

نہیں سے اعرابی نے پوچھا: اور کیسے ہے یا امیر المؤمنین! فرمایا ان اللہ ورسولہ من المشرکین ورسولہ ہے جس کا معنی ہے اللہ اور اس کا

رسول مشرکین سے بری ہیں۔ اعرابی نے کہا: اللہ کی قسم میں بھی مشرکین سے بری ہوں جن سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں۔

پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کیا کہ کوئی شخص قرآن نہ پڑھائے اے زبان کے جاننے والے عالم کے۔ اور پھر

آپ نے ابوالسور حمۃ اللہ علیہ کو نحو (عربی گرامر) لکھنے کا حکم فرمایا۔ ابن الانباری فی الوقت والابتداء

۴۱۵۸ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ پس میں تم کو نہ پاؤں کہ اپنی خواہشات کے ساتھ اس پر جھک جاؤ (کہ

اس کی تفسیر و تشریح اپنی خواہشات کے مطابق کرنے لگو)۔ الدارمی، الروعی الجہیمۃ لعثمان بن سعید، الاسماء والصفات للبیہقی

۴۱۵۹ حضرت حسن سے مروی ہے کہ پھر لوگ مصر میں (گوزن) عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے ملاقات کرنے گئے۔ انہوں

نے کہا: ہم کتاب اللہ کے کچھ احکام دیکھتے ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم ہے مگر ان پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں

امیر المؤمنین (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) سے ملاقات کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمرو رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ (مدینہ)

آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین مصر میں کچھ لوگ مجھ سے ملے تھے وہ کہنے لگے

کہ کتاب اللہ کے احکامات جن پر عمل کرنے کا حکم ہے عمل نہیں کیا جا رہا ہے وہ آپ سے اس بارے میں ملنے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ

عنه نے فرمایا: ان سب کو جمع کر کے میرے پاس لاؤ۔ حضرت عبداللہ ان سب کو حضرت عمر کے پاس لے آئے۔ حضرت عمر نے ان میں سب سے ادنیٰ (کمتر) شخص کو آگے کیا اور پوچھا میں تجھے اللہ کا اور اسلام کے حق کا واسطہ دیتا ہوں، بتا کیا تو نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ پوچھا: کیا اس میں کچھ یاد بھی ہے؟ عرض کیا: نہیں۔ پوچھا: کیا اپنی آنکھ میں کچھ یاد رکھا؟ (یعنی نگاہوں اور خیالوں میں کچھ یاد ہے؟) عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: اچھا کچھ الفاظ قرآن کے یاد ہیں؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: کچھ اثرات قرآن کے محفوظ کیے ہیں؟ عرض کیا: نہیں۔ پھر شروع سے آخر تک سب لوگوں سے آپ نے یہ سوالات کیے۔ لیکن سب سے یہی جواب ملے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: عمر کی ماں عمر کو گم کر دے۔ کیا تم لوگ (اپنی اس حالت کے باوجود) اپنے امیر کو اس کا مکلف کرتے ہو کہ وہ سب لوگوں کو کتاب اللہ پر جمع ہونے کا مکلف کر دے۔ ہمارے رب کو معلوم ہے کہ ہم سے سینات (چھوٹے) گناہ مرزد ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے فرمایا: ان تجتنبوا کبائر ماتمہون عنہ نکفو عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلًا کریمًا

اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تم کو روکا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری (چھوٹی) برائیاں معاف کر دیں گے اور تم کو اتھے ٹھکانے میں داخل کر دیں گے۔

پھر پوچھا کیا اہل مدینہ کو علم ہے کہ تم کس بارے میں یہاں آئے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: اگر ان کو بھی علم ہو جاتا تو تم کو سبق سکھاتا۔

رواہ ابن جریر

۲۱۶۰ عبادہ بن نسبی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: قرآن کے نسخوں کی خرید و فروخت مت کرو۔ رواہ ابن ابی داؤد

قرآن کریم سے متعلق فضول سوالات سے اجتناب کرنا

۲۱۶۱ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام سے مروی ہے کہ صحیح العراقی نے مسلمان لشکروں میں قرآن کے متعلق چند غیر ضروری چیزوں کے بارے میں سوالات کرنا شروع کیے۔ حتیٰ کہ وہ (اس طرح کے فضول) سوالات کرتا ہوا مصر میں آ گیا۔ آخر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اس کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کے پاس بھیج دیا۔ اور ایک قاصد کو (اس کے بارے میں) خط دے کر بھیجا۔ جب قاصد خط لے کر آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور آپ نے خط پڑھا تو پوچھا کہاں ہے وہ شخص؟ عرض کیا: سواری پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دیکھو اگر وہ چلا گیا تو تجھے بڑی سخت سزا دوں گا لہذا جلدی اس کو لے کر آ! چنانچہ قاصد (جلدی کے ساتھ) اس کو لے کر حاضر ہوا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے اس سائل صحیح عراقی سے پوچھا: تو کس چیز کے بارے میں سوال کرتا پھر رہا ہے؟ اس نے اپنے سوالات بیان کیے۔ راوی ابن عمر کے غلام کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے اس ایک شخص کو چھڑی لانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ پھر چھڑی کے ساتھ اس کو اس قدر مارا اس قدر مارا کہ اس کی کمر (بھڑوں کا) چھتہ بنا کر چھوڑا۔ پھر اس کو چھوڑا اور وہ کچھ عرصہ بعد صحت یاب ہو گیا پھر بلا کر پہلے کی طرح خوب مارا۔ پھر چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر بلایا تا کہ سہ بارہ اس کو سزا دیں۔ اس بار صحیح عراقی نے کہا: یا امیر المؤمنین! اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح قتل کر دیجیے اور اگر آپ میری دوا دارو کرنا چاہتے ہیں تو وہ میں بالکل صحت یاب ہوں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے وطن جانے کی اجازت مرحمت فرمادی۔ اور وہاں کے امیر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا اس شخص کے ساتھ کوئی نہاٹھے بیٹھے۔

لوگوں سے یہ قطع تعلق اس کو (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دی گئی سزا سے بھی زیادہ) سخت دشوار گذری۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ شخص درست ہو گیا ہے۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اس کو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی اجازت دے دو۔ الدارمی، ابن عبدالحکیم، ابن عساکر

۲۱۶۲ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قرآن کو لے کر دشمن کی سرزمین میں سفر کرنے سے منع فرمایا ہے کہیں دشمن

اس کو نلے لے (اور بے خرمی کرے) چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم تمام (اسلامی) شہروں میں لکھ بھیجا۔ رواہ ابن ابی داؤد
۲۱۶۳۔ امیر بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ (امیر لشکر) سعد رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا
ہے کہ جو قرآن پڑھ لے میں اس کو سردار بنا دوں گا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: افسوس! افسوس! کیا کتاب اللہ ان رتبوں کی محتاج ہے۔

ابو عبید، علی بن حرب الطائی فی الثانی من حدیثہ

۲۱۶۴۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قرآن کو اچھی طرح (تجوید کی رعایت کے ساتھ) پڑھو جس طرح تم اس کو حفظ کرتے ہو۔

ابو عبید وابن الانباری فی الايضاح

۲۱۶۵۔ حضرت ابوالاسود سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے قرآن کا ایک نسخہ پایا جو اس نے باریک قلم کے
ساتھ لکھا ہوا تھا۔ پوچھا: یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: (اتنا سا پورا قرآن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کو یہ بات ناگوار لگی اور اس شخص کو مارا اور
فرمایا کتاب اللہ کی عظمت کرو۔ چنانچہ جب آپ مصحف (بڑا لکھا ہوا قرآن) دیکھتے تو خوش ہو جاتے۔ ابو عبید

۲۱۶۶۔ ابی کنانہ قرشی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات پہنچی ہے کہ اگر تم اس
سے پہلے ہی مر جاتے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اور (امیر شہر) حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جو لوگ قرآن کو ظاہر (بغیر دیکھے
یادداشت کے بل پر) پڑھتے ہیں ان کا مجھے بتاؤ۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ

فائدہ:..... اس حدیث کی شرح توضیح بندہ پرا واضح نہ ہو سکی۔ کسی صاحب علم کی نظر سے یہ روایت گذرے تو بندہ کو ضرور مطلع کرے جزا اللہ خیر
الجزاء۔ محمد اصغر۔ دارالاشاعت۔

۲۱۶۷۔ ابراہیم بنی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بالکل تنہا تھے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے جی میں کچھ
سوچنے لگے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بلایا اور فرمایا: یہ امت کیسے منتشر ہو سکتی ہے جب کہ ان کی کتاب ایک ہے، نبی ایک ہے اور قبلہ
بھی ایک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین ہم پر قرآن نازل ہوا، ہم نے اس کو پڑھا اور سمجھ لیا کہ کس بارے میں
نازل ہوا ہے۔

اب ہمارے بعد ایسی قوم آئے گی جو قرآن پڑھے گی لیکن اس کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ کس بارے میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ ہر قوم کی الگ
رائے ہوگی تو ان میں اختلاف پیدا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جھڑکا اور ڈانٹ دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما لوٹ
گئے۔ (پھر بعد میں بلایا اور ان کی بات کو صحیح سمجھا پھر فرمایا: اپنی بات دہراؤ۔ السنن لسعد، شعب الایمان للبیہقی، الجامع للخطیب
فائدہ:..... اللہ پاک ہمیں اپنی رائے سے کلام اللہ میں حرف زنی کرنے سے بچائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عمر رضی اللہ عنہ میں نوعمر لڑکے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے علم پر اعتماد تھا۔ اسی وجہ سے بھری
محفل میں جہاں بڑے بڑے اکابر صحابہ ہوتے تھے وہاں بھی آپ رضی اللہ عنہ ان کو بلاتے اور ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔
اسی وجہ سے جب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا تو ان کو بلایا اور بالآخر اس کو درست قرار دیا۔

۲۱۶۸۔ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس پہنچے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں
اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ فرمایا: ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔
فرمایا: ایک دوسرے سے پوچھ کر پڑھتے رہو اور غلطی نہ کرو۔ السنن لسعد بن منصور، ابن الانباری فی الايضاح، شعب الایمان للبیہقی

۲۱۶۹۔ سائب بن یزید سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب تشریف لائے تو ان کو کہا گیا:
یا امیر المؤمنین! ہم ایک ایسے آدمی سے ملے ہیں جو قرآن کی مشکل آیات کے بارے میں سوال کرتا پھر رہا ہے (جن کی صحیح تشریح خدا ہی کو
معلوم ہے) تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً دعا کی: اے اللہ! مجھے اس شخص پر قدرت دیدے۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یونہی بیٹھے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ اچانک وہی شخص آگیا، اس پر کپڑے اور ایک چھوٹا سا

عمامہ تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ فارغ ہو گئے تو اس شخص نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! والذاریات ذروا فالجملات وقرأ کبھیر نے والیوں کی قسم! جو اڑا کر کبھیرتی ہیں۔ پھر بوجھ اٹھاتی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا: کیا تو ہی وہ شخص ہے؟ پھر آپ اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کے کاندھوں سے کپڑا اگر اکر اتار مارا اتار مارا کہ اس کے سر سے عمامہ گر گیا۔ پھر فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، اگر میں تجھے گنجا سراپا تو تیری گردن ہی اڑا دیتا۔ پھر آپ نے حکم فرمایا: اس کو کپڑے پہناؤ اور سوار کر کے اس کو یہاں سے نکالو اور اس کے شہر پہنچا کر آؤ۔ پھر وہاں کا خطیب کھڑے ہو کر اعلان کر دے کہ صبیغ علم کی تلاش میں نکلا تھا لیکن خطا کھا گیا۔

(چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس کی وجہ سے) وہ شخص جو کہ اپنی قوم کا سردار تھا مسلسل ذلت کا شکار رہا اور اسی حال میں مر گیا۔

ابن الانباری فی المصاحف نصر المقدس فی الحجۃ، اللالکانی ابن عساکر فائدہ: ... قرآن کی جن آیات کی تفسیر و توضیح صحیح احادیث وغیرہ میں منقول نہیں ہے ان کی توضیح کی کھوج میں لگنا ممنوع ہے۔ جس سے عقائد میں خلل پڑتا ہے۔ اور ایسی کھوج کرنے والوں کو اللہ نے گمراہ قرار دیا ہے۔ اعازنا اللہ منہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ اگر تو گنجنے سر والا ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا اس سے سر منڈوانے کی ممانعت مقصود نہیں بلکہ اس زمانے میں ایک گمراہ فرقہ حروریہ تھا جو سر منڈواتا تھا اور بہت اختلاف کا شکار تھا۔ ان کی پیش گوئی حدیث میں بھی کی گئی تھی۔

۳۱۷۰ سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ بنی تمیم کا ایک شخص جس کو صبیغ بن عسل کہا جاتا تھا مدینہ آیا۔ اس کے پاس چند کتابیں تھیں۔ وہ لوگوں سے قرآن کے متشابہات (جن کے صحیح معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں مثلاً سورتوں کے پہلے کلمات ص، کھبہ بعض اور ان کے علاوہ جن کے لفظی معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔)

کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر پہنچی تو اس کو بلوایا اور کھجور کی دو چھڑیاں اس کے لیے تیار کر لیں۔ چنانچہ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اور میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ پھر آپ نے اشارہ کیا اور ان دو چھڑیوں کے ساتھ اس کو مارنا شروع کر دیا حتیٰ کہ اس کو زخمی کر دیا اور خون اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ آخر اس نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! بس کافی ہے اللہ کی قسم! جو میرے سر میں (خناس) تھا وہ نکل گیا ہے۔

مسند الدارمی، نصر والاصہانی معافی الحجۃ، ابن الانباری، اللالکانی، ابن عساکر ۳۱۷۱ ابوالعزیز سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: ہم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ ایک شخص آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا: یا امیر المؤمنین! اما الجوار الکسس (سپرد کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں) سے کیا مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چھڑی اس کے عمامہ پر ماری اور اس کو سر سے گرا دیا۔ اور فرمایا: کیا تو حروری تو نہیں ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے اگر میں تجھے گنجا سراپا تو تیرے سر کی کھال بھی اتار دیتا۔ الکنی للحاکم

۳۱۷۲ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے صبیغ الکوفی کو قرآن کے حرف کے بارے میں پوچھنے پر اس قدر مارا کہ خون اس کی پیٹھ سے تیز بہ رہا تھا۔ رواہ ابن عساکر

۳۱۷۳ ابی عثمان البہذی سے مروی ہے وہ صبیغ سے روایت کرتے ہیں صبیغ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے والمرسلات، والذاریات، والنزعات (وغیرہ) کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سر سے کپڑا اٹھاؤ۔ اس نے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ بال درخ سنورے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: اگر تو گنجنے سر والا ہوتا تو میں یہ سر ہی اڑا دیتا جس میں تیری دو آنکھیں ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ کو (جہاں صبیغ رہتا تھا) لکھا کہ صبیغ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اس کے بعد یہ حال تھا کہ اگر ہم سو آدمی جمع ہوتے اور صبیغ آجاتا تو ہم وہاں سے سب جدا ہو جاتے۔

الحجۃ لنصر المقدسی، ابن عساکر

۴۱۷۴... محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ صیغ سے قطع تعلقی کر دو۔ اور اس کے عطیات اور وظیفے بند کر دو۔ ابن الانباری فی المصاحف، ابن عساکر

قرآن کلام کا اللہ خالق ہے

۴۱۷۵ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ ایک شخص آیا اور وہ سوال کرنے لگا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کو کپڑوں کے ساتھ بھینچ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب کر دیا اور فرمایا: اے ابواکسن! آپ سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا: یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کر رہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ایسا کلمہ ہے جس کا بعد میں بہت شور ہوگا۔ اگر میں والی ہوتا آپ کی جگہ تو اس کی گردن اڑا دیتا۔ الحجۃ لنصر

۴۱۷۶ محمد بن عبد الرحمن بن یزید سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے: کچھ قرآن کا تجوید کے ساتھ پڑھنا کچھ قرآتوں کے حفظ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ابن الانباری فی الایضاح

۴۱۷۷ شعیب بن جراح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس نے قرآن پڑھا اور تجوید کے ساتھ پڑھا اس کو اللہ کے ہاں ایک شہید کا اجر ہے۔ ابن الانباری

۴۱۷۸ سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض گورنروں کو لکھا: لوگوں کو عطیات ان کے قرآن پڑھے ہونے کے حساب سے دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے جن کو صرف فوج میں جانے کی رغبت تھی وہ بھی سیکھنے لگے ہیں۔ تب آپ نے حکم فرمایا کہ لوگوں کو مودت و محبت اور (رسول کی) صحابیت پر عطیات دو۔ ابو عبیدہ

۴۱۷۹ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے علم اور قرآن والو! علم اور قرآن پر پیسے وصول نہ کرو۔ ورنہ زانی لوگ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔

۴۱۸۰ اسحاق بن بشر القریشی کہتے ہیں ہمیں ابن اسحاق نے خبر دی ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اور عرض کیا: السازعات غرقا (جوڑوب کھینچنے والے ہیں) کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تم کون ہو؟ جواب دیا میں اہل بصرہ میں سے قبیلہ بنی تمیم کی شاخ بنی سعد سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا: تم تو ظالم قوم میں سے ہو۔ تم کو تمہارے عامل (گورنر) کے پاس روانہ کرتا ہوں وہ تمہیں سزا دے گا۔ پھر آپ نے چھڑی کے ساتھ اس کی ٹوپی اتار کر دیکھا کہ بڑے بڑے بال ہیں۔ پھر فرمایا: خدا نخواستہ اگر تم گنجلے سر والے ہوتے تو میں کچھ نہ پوچھتا (اور تمہاری گردن مار دیتا) پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ (گورنر) بصرہ کو لکھا کہ اصح بن علی بن تمیم ان چیزوں کے تکلفات میں پڑ گیا ہے جن کی اس کو ضرورت نہیں اور جس کا اس کو حکم دیا گیا تھا اس چیز کو اس نے ضائع کر دیا ہے۔ میرا یہ خط تم کو ملے تو اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کرنا۔ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرنا اور مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر نہ ہونا۔

پھر آپ رضی اللہ عنہ اہل مجلس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اللہ عز وجل نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہ تمہارے ضعف اور تمہاری کمزوری کا خوب جانتا ہے، چنانچہ اس نے تم میں سے اپنا ایک رسول بھیجا اور (اس کے توسط) تم پر کتاب نازل کی، اس میں تمہارے لیے کچھ حدود مقرر فرمائیں اور تم کو حکم دیا کہ ان حدود سے ہرگز تجاوز نہ کرنا، کچھ فرائض مقرر کیے اور ان کی اتباع کا حکم دیا اور کچھ محرمات رکھے اور تم کو ان کے ارتکاب سے منع کیا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ان کو بھولے سے ہرگز نہیں چھوڑنا، پس تم ان کے تکلفات میں نہ پڑو۔ ان کو تم پر رحمت کرتے ہو۔

چھوڑا ہے۔

راوی کہتے ہیں: چنانچہ اصح بن عظیم کہتا تھا: میں بصرہ آیا اور پچیس ۲۵ دن وہاں ٹھہرا اور (لوگ مجھ سے اس قدر متنفر ہو گئے کہ مجھے کسی سے مل جانے سے مر جانا اچھا لگتا تھا۔ آخر اللہ نے اصح کے دل میں توبہ کا خیال پیدا کیا۔ چنانچہ اصح کہتے ہیں: میں ابوموسیٰ اشعری کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ عنہ منبر پر تھے میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا: اے منہ پھیرنے والے! میری توبہ اس ذات نے قبول کر لی ہے جو تجھ سے اور عمر سے بھی بہتر ہے۔ پس میں اللہ عزوجل سے اپنے ان گناہوں کی توبہ کرتا ہوں جن کے ساتھ میں نے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کو ناراض کر رکھا تھا۔

حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت عمر کو لکھ بھیجی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب بھیجا اس نے سچ کہا لہذا تم اپنے بھائی کے ساتھ (اچھا) معاملہ کرو۔ نصر فی الحجۃ

۲۱۸۱ (مسند عثمان رضی اللہ عنہ) ولید بن مسلم کہتے ہیں میں نے مالک رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پاک کے اجزاء کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک نکال کر دکھایا اور فرمایا: میرے والد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کیا تھا اور بھیجی اس کو اجزاء (پاروں میں) تقسیم کیا تھا۔ البیہقی

۲۱۸۲ (مسند علی رضی اللہ عنہ) عبداللہ بن مسلم کہتے ہیں میں اور دو شخص میرے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ بیت الخلاء میں گئے اور پھر نکلے اور پانی کا برتن لیا اور پانی کو چھوا (ہاتھ دھوئے) اور قرآن پڑھنے لگے۔ ہمیں یہ بات عجیب اور ناپسندگی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضور اکرم ﷺ حاجت کی جگہ جا کر قضاء حاجت کرتے پھر نکل کر ہمارے ساتھ گوشت کھاتے پھر قرآن کی تلاوت کرتے اور تلاوت سے کوئی چیز ان کو روکتی نہ تھی۔ اور نہ جنات۔

ابوداؤد الطیالسی، الحمیدی، العندی، ابو داؤد، الترمذی، البیہقی فی السنن، ابن ماجہ، ابن جریر، ابن خزیمہ، الطحاوی، مسند ابی یعلیٰ، ابن حبان، الدارقطنی، الأجرى فی اخلاق حملة القرآن، مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیہقی، السنن لسعید بن منصور فائدہ: قرآن کو بغیر چھوئے تلاوت کرنا بغیر پانی کے بھی درست ہے۔

۲۱۸۳ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قرآن کی ایک سورت میں ہمارا اختلاف ہو گیا۔ میں نے کہا: اس سورت کی پینتیس آیات ہیں (یا) پچھتیس آیات ہیں۔ چنانچہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچے۔ آپ ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سرگوشی کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا: ہمارا قرآن میں اختلاف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حضور ﷺ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ تم کو حکم دیتے ہیں کہ قرآن کو اسی طرح پڑھو جس طرح تم کو سکھایا گیا ہے۔ مسند احمد، ابن منیع، مسند ابی یعلیٰ، السنن لسعید بن منصور

۲۱۸۴ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی چھوٹی چیز میں قرآن لکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔

السنن لسعید بن منصور، شعب الایمان للبیہقی

۲۱۸۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: جو اسلام میں پیدا ہوا اور قرآن پڑھا تو اس کے لیے ہر سال بیت المال میں سے دو سو دینار وظیفہ ہے چاہے تو دنیا میں لے لے چاہے آخرت میں لے۔ شعب الایمان للبیہقی

۲۱۸۶ سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر شخص کے لیے دو سو ہزار (درہم) مقرر فرمائے تھے جو قرآن پڑھے۔ شعب الایمان للبیہقی

۲۱۸۷ زاذان اور ابی الجعفی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے کون سی زمین اٹھائے گی اگر میں کتاب اللہ میں ایسی کوئی بات کہوں جو میرے علم میں نہیں۔ العلم لابن عبد اللہ

۲۱۸۸ ابراہیم بن ابی الفیاض البرقی سے مروی ہے کہ ہمیں سلیمان بن بزیج نے خبر دی ہے کہ مالک بن انس عن یحییٰ بن سعید الانصاری عن سعید بن المسیب کی سند کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے،

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کے بعد بھی ہمارے سامنے نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے جن کے بارے میں قرآن نازل نہ ہوگا اور ان کے متعلق ہم نے آپ سے کچھ سنا ہوگا (تب ہم کیا کریں؟) فرمایا: اس کے لیے تم مؤمنوں میں سے عالموں یا فرمایا عابدوں کو جمع کرنا اور اس مسئلہ کو باہمی مشاورت کے ساتھ طے کرنا اور محض کسی ایک کی رائے پر فیصلہ نہ کرنا۔ العلم لابن عبد اللہ کلام: ... ابن عبد البر فرماتے ہیں امام مالک کے واسطے سے یہ حدیث معروف نہیں ہے مگر اسی سند کے ساتھ۔ اور درحقیقت امام مالک کی حدیث میں اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی اور کی حدیث میں۔

نیز اس روایت کے راوی ابراہیم البرقی اور سلیمان بن بزیع قوی راوی نہیں ہیں۔ (الخطیب فی رواة مالک رحمۃ اللہ علیہ) نیز یہ روایت امام مالک سے منقول ہونا ثابت نہیں ہے۔ الدارقطنی فی غرائب مالک نیز فرمایا: یہ حدیث صحیح نہیں ابراہیم اس کو سلیمان سے روایت کرنے میں متفرد ہیں اور امام مالک سے پہلے کے دونوں راوی ضعیف ہیں۔ میزان میں ہے ابو سعید بن یونس نے فرمایا کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والا سلیمان بن بزیع منکر الحدیث ہے۔

میزان الاعتدال ۱۹۷۲

خطیب رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عبد البر کو کلام لسان میں حکایت کیا ہے اور اس میں قلت سے اپنی رائے کا اضافہ نہیں کیا۔ اور مالک کی حدیث سے اس راوی کا منکر ہونا واضح ہے۔

مؤلف سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عبد البر کا یہ کہنا کہ مالک کے علاوہ کسی اور کی حدیث میں بھی اس روایت کی کوئی اصل نہیں تو اس بات میں شبہ ہے کیونکہ یہی روایت میں نے ایک دوسرے طریق سے بھی پائی ہے۔

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: احمد، شباب، الحصری، نوح بن قیس، ولید بن صالح محمد بن حنفیہ کی سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر ہم کو کوئی مسئلہ پیش آجائے جس میں امر یا نہی کسی چیز کا بیان نہ ہو تو اس کے متعلق آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: اپنے فقہاء اور عبادت گزاروں سے مشورہ کرنا اور کسی خاص شخص کی رائے کو جاری نہ کرنا۔

کلام: ... علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کو ولید سے صرف نوح روایت کرتا ہے۔ اور نوح سے امام مسلم اور چاروں ائمہ (ترمذی، نسائی، ابوداؤد اور ابن ماجہ) نے روایت نقل کی ہے۔ نیز الکاشف میں منقول ہے کہ نوح کو ثقہ کہا گیا ہے اور وہ حسن حدیث ہے میزان میں کہا ہے کہ وہ صالح الحال ہے، نیز امام احمد اور ابن معین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے۔ امام نسائی نے فرمایا لا باس بہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور ولید کو ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا ہے خلاصہ کلام اس طریق سے یہ روایت حسن اور صحیح ہے۔

۴۱۸۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کلام اللہ کو چھوٹی چیز میں لکھنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ابو عبیدہ، ابن ابی داؤد

فائدہ: ... ہمارے زمانہ میں قرآن کے چھوٹے چھوٹے نسخے جو متعارف ہیں ان سے احتراز کرنا چاہیے بڑے نسخے میں جس میں کتاب اللہ کی تعظیم ہے استعمال کرنے چاہئیں۔

۴۱۹۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے قرآن کو چھوٹے چھوٹے نسخوں میں نہ لکھو۔ رواہ ابن ابی داؤد

جالت جنابت میں قرآن پڑھنا جائز نہیں

۴۱۹۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: (بخیر وضوء) قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جب تک جنبی نہ ہو۔ جنبی حالت میں نہیں، اور ایک

حرف بھی نہیں۔ الجامع لعبد الرزاق، ابن جریر، السنن للبیہقی

۴۱۹۲ ایسا بن عامر سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا: اے بیمار بھائی! اگر تو زندہ رہا تو (دیکھے گا کہ) قرآن کو تین قسم کے لوگ پڑھیں گے، ایک قسم اللہ عز و جل کے لیے پڑھے گی۔ دوسری دنیا کے لیے اور تیسری تم محض اختلاف اور جھگڑے کے لیے پڑھے گی۔

پس اگر ہو سکے تو اسی قسم میں سے بنا جو اللہ عزوجل کے لیے قرآن پڑھے۔ الآجری فی الاخلاق حمله القرآن، نصر المقدسی فی الحجۃ ۴۱۹۳ (مسند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھایا اس نے ہدیہ میں مجھے ایک کمان پیش کی۔ یہ بات میں نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے وہ کمان لے لی تو مجھ کو تم نے جہنم کی ایک کمان لے لی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لہذا میں نے وہ کمان واپس کر دی۔

ابن ماجہ، الروای، السنن للبیہقی ضعیف السنن لسعید بن منصور ۴۱۹۴ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو قرآن کی ایک سورت سکھائی اس آدمی نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑا یا قمیص ہدیہ کی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ بن کعب نے حضور ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے وہ کپڑا لے لیا تو سمجھو آگ کا کپڑا بچا لیا۔ (عبد بن حمید) روایت کے سب راوی ثقہ ہیں۔

۴۱۹۵ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم قرآنوں کو سجانے اور مساجد کو مزین کرنے لگ جاؤ گے تو تم پر بدو عا لازم ہے۔

ابن ابی داؤد فی الصحاح ۴۱۹۶ عطیہ بن قیس سے مروی ہے اہل شام کا ایک قافلہ اپنے لیے قرآن کا نسخہ لکھنے کے لیے مدینہ آیا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ طعام اور سالن (یعنی خورد و نوش) کا سامان بھی لے کر آئے۔

جو لوگ ان کے لیے قرآن پاک لکھتے تھے وہ ان کو اپنا طعام کھلاتے تھے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ ان پر قرآن پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم نے اہل شام کا کھانا کیسا پایا؟ عرض کیا: میرا خیال تھا کہ جب تک قوم کا کام پورا نہ ہوگا ان کا کھانا سالن وغیرہ کچھ نہ چکھوں گا۔ رواہ ابن ابی داؤد

۴۱۹۷ (مسند اس رضی اللہ عنہ بن مالک) حضور ﷺ کے ہاں ایک شخص کا دوسرے سے جھگڑا ہو گیا۔ آپ ﷺ نے ایک کو فرمایا: تم کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارے پاس کوئی شہادت نہیں ہے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں لوٹنے والا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم قرآن کو مذاق ٹھہراتے ہو۔ بے شک وہ شخص قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ جس نے اس کے محرمات کو حلال جانا۔ رواہ ابو نعیم

فائدہ: نبی کریم ﷺ کا حکم ماننا فرض ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ چونکہ اس نے نبی کی نافرمانی کر کے خدا کے فرمان کو ٹھکرایا اسی وجہ سے اس کو مذکورہ فرمان فرمایا۔

۴۱۹۸ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ ایک مرتبہ باہر نکلے اور بلند آواز کے ساتھ پکارا: اے حال قرآن! اپنی آنکھوں کو گریہ وزاری کا سرمہ پہناؤ جب سرکش لوگ ہنستے ہوں، اور رات کے وقت کھڑے ہو کر گزارو جب اور لوگ سو رہے ہوں۔ دن کو روزہ رکھو جب اور لوگ کھاپی رہے ہوں۔ جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو تجھ سے کینہ رکھے اس سے کینہ نہ رکھو اور جو تمہارے ساتھ جہالت کرے تم اس کے ساتھ جہالت نہ برتو۔ الدیلمی، ابن فسہ

قرآن سے دنیا نہ کھائے

۴۱۹۹ (مسند طفیل بن عمرو الدوسی) ذی النورین اسماعیل بن عیاش، عبد ربہ بن سلیمان کی سند کے ساتھ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھایا۔ میں نے ان کو ہدیہ میں ایک کمان پیش کی۔ وہ صبح کو کمان کا تہ سے پرائے کائے نبی ﷺ کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ نے ان سے دریافت کیا

اے ابی یہ کمان کس نے تم کو دی؟ انہوں نے طفیل بن عمرو الدوسی کا نام لیا۔ اور بتایا کہ میں نے ان کو قرآن پڑھایا تھا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تو مجھ نے یہ جہنم کا ایک کڑا لکھا لیا ہے۔ ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اور میں ان کا کھانا کھاتے ہیں؟ فرمایا کھانا تو حیر۔

علاوہ کسی اور کے لیے بنایا ہوا رقم حاضر ہو جاوے تو تب تمہارے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ کھانا خاص تمہارے لیے بنایا گیا ہو تو تب اگر تم نے کھایا تو اپنے آخرت کے حصے سے کھایا۔ البغوی

کلام: حدیث غریب ہے، عبد رب بن سلیمان بن زیتون اہل حمص سے ہیں اور ان کا سماع حضرت طفیل رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں۔

رواہ ابن عساکر

۴۲۰۰ (مسند عبادة بن الصامت) رسول اکرم ﷺ اکثر اوقات (دینی فرائض میں) مشغول رہتے تھے۔ جب کوئی شخص بھرت کر کے آپ کی خدمت میں آتا تو آپ قرآن پڑھانے کے لیے اس کو ہم میں سے کسی شخص کے سپرد کر دیتے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو میرے سپرد کیا۔ جو گھر میں میرے ساتھ بھی رہتا تھا، میں اس کو عشاء کا کھانا کھلاتا اور پھر قرآن پڑھاتا۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹ گیا اور اس نے خیال کیا کہ میرا اس پر کوئی حق ہے۔ لہذا اس نے ایک کمان مجھے ہدیہ میں پیش کی۔ میں نے اس سے اچھی لکڑی کی کمان نہیں دیکھی تھی۔ اور اس سے زیادہ اچھی لکڑی والی! چنانچہ میں یہ کمان لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں آیا۔ اور پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے فرمایا یہ تو نے انکارہ اپنے کانڈھوں کے درمیان لٹکا رکھا ہے۔ الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی

۴۲۰۱ (مسند عبد اللہ بن رواحہ) حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم کو رسول اکرم ﷺ نے جنہی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ رواہ مستدرک الحاکم

۴۲۰۲..... (مسند ابن عباس رضی اللہ عنہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: قرآن کا نسخہ خرید لو اگر فروخت نہ کرو۔

الجامع لعبدالرزاق، ابن ابی داؤد فی المصاحف

۴۲۰۳ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن کے نسخے بیچنے (دالوں کے بارے میں) سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں وہ اپنے ہاتھ کی اجرت لیتے ہیں۔ رواہ ابن ابی داؤد

۴۲۰۴ عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: کیا میں اپنے بچھونے پر قرآن پاک رکھ سکتا ہوں، جس پر میں جماع کرتا ہوں، تنگم ہوتا ہوں اور میرا پسینہ بھی اس پر گرتا ہے۔ فرمایا: ہاں۔ الجامع لعبدالرزاق

۴۲۰۵ (مسند ابن عمر رضی اللہ عنہ) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے منع فرمایا ہے کہ قرآن کو دشمن کی زمین میں سفر پر نہ لے جایا جائے۔ کہیں وہ اس کو لے لیں۔ (اور بے حرمتی کریں)۔ ابن ابی داؤد فی المصاحف

۴۲۰۶ آپ ﷺ نے قرآن لے کر دشمن کی سرزمین میں سفر کرنے سے منع فرمایا اس خوف سے کہ کہیں دشمن اس کو چھین لے۔ رواہ ابن ابی داؤد

۴۲۰۷ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مفصل (قرآن کی طویل سورت) کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا قرآن کی کون سی سورت مفصل نہیں ہے، لہذا یوں کہا کرو مختصر سورت چھوٹی سورت (بڑی سورت)۔ ابن ابی داؤد فی المصاحف

۴۲۰۸ (مسند ابن مسعود رضی اللہ عنہ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قرآن کے نسخے صرف مصری لوگ (جو اچھا لکھتے تھے) لکھیں۔

رواہ ابن ابی داؤد

۴۲۰۹ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھو اور جو قرآن نہیں ہے اس کو قرآن کے ساتھ نہ ملاؤ۔ رواہ ابن ابی داؤد

قرآن کو اچھی تجوید کے ساتھ پڑھنا

۴۲۱۰ مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قرآن لایا گیا جو سونے کے ساتھ آراستہ و مزین تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سب سے اچھی چیز جس کے ساتھ قرآن کو مزین کیا جائے وہ اس کی اچھی تلاوت ہے۔

حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح ایک شخص حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور پوچھا: کیا قرآن کو

الناظر ہا جا سکتا ہے۔ فرمایا: اے دل کا شخص، ہی الناظر قرآن پڑھ سکتا ہے۔ رواہ ابن ابی داؤد

۴۲۱۲ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کوفہ کے کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا۔ ان کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا اور یہ کہ وہ قرآن میں اختلاف نہ کریں، نہ اس میں باہم جھگڑا کریں، بے شک قرآن مختلف حکموں کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو وہ بھولتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ فرمایا: کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس میں ایک ہی شریعت بیان کی گئی ہے جو اسلام ہے۔ اسلام کے فرائض، حدود اور اوامر اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر دو قرأتوں میں ایسا ہو کہ ایک قرأت ایک حکم دیتی ہے دوسری قرأت اس سے منع کرتی ہے تو یہ اصل اختلاف ہے۔ لیکن قرآن میں ایسا نہیں بلکہ قرآن تمام قرأتوں کو اتفاق کے ساتھ جامع ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ فقہ و علم کے ساتھ تمہارے اندر بہترین لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ اگر مجھے یہ اوثاق ایسے کسی شخص کے پاس پہنچا سکتے جو محمد ﷺ پر نازل کی گئی تعلیمات کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو میں ضرور اس کا ارادہ کرتا تا کہ اس کے علم سے اپنے علم میں اضافہ کر لوں۔

مجھے معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ پر ہر سال ایک مرتبہ قرآن پڑھا جاتا تھا اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال دوسرے مرتبہ آپ پر قرآن پڑھا گیا۔ میں جب بھی آپ کو قرآن سنانا تھا آپ فرماتے تھے: میں قرآن اچھا پڑھتا ہوں۔ پس جو مجھ سے میری قرأت سیکھ لے وہ اس سے اعراض کر کے اس کو نہ چھوڑے بے شک جس نے قرآن کی ایک قرأت کا بھی انکار کر دیا اس نے پورے قرآن کا انکار کر دیا۔ رواہ ابن عساکر نوٹ: ۳۰۶۸ نمبر حدیث کے ذیل میں قرأت قرآن کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

۴۲۱۳ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم آپ سے دس آیات سیکھ لیتے تھے تو بعد کی دس آیات اس وقت تک نہ سیکھتے تھے جب تک ہمیں پہلی دس آیات کی حقیقت معلوم نہ ہو جاتی تھی۔ پوچھا گیا: یعنی عمل نہ کر لیتے تھے جب تک؟ فرمایا: ہاں۔ رواہ ابن عساکر

۴۲۱۴ (مسند عوف بن مالک الاحمسی) عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے ساتھ ایک شخص رہتا تھا جس کو انہوں نے قرآن پڑھایا تو اس نے پھر ایک کمان ہدیہ کی۔ عوف رضی اللہ عنہ نے نبی سے اس کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے عوف! کیا تو قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ تیرے کاندھوں کے درمیان جہنم کا انگارہ ہو۔ الکبیر للطبرانی

۴۲۱۵ (مسندنا معلوم) ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسے ایک صحابی نے بتایا جو ہم کو قرآن پڑھاتا تھا کہ جب ہم آپ ﷺ سے قرآن کی دس آیات سیکھ لیتے تھے تو جب تک ہم ان میں موجود علم اور عمل کو حاصل نہ کر لیتے تھے، اگلی دس آیات نہ سیکھتے تھے۔ یوں ہم نے علم و عمل دونوں پال لیے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۲۱۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں کوئی ایک آیت یا اس سے زیادہ نازل ہوتی تو مؤمنین کا ایمان اور خشوع بڑھ جاتا۔ وہ آیت ان کو جس بات سے روکتی وہ اس سے رک جاتے تھے۔

الامالی لابی بکر محمد بن اسماعیل الوراق، المواعظ للعسکری، ابن مردویہ

روایت کی سند حسن (عمدہ) ہے۔

قرآن کے حصے..... پارے

۴۲۱۷ (مسند اوس ثقفی رضی اللہ عنہ) اوس بن حذیفہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم قبیلہ بنو ثقیف کا ایک وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اخطائیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ٹھہر گئے اور مالکین کو رسول اللہ ﷺ نے قبہ میں ٹھہرایا۔ آپ ﷺ عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے تھے۔ زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں پر کبھی دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اکثر آپ قریش کی تکالیف کا ذکر فرماتے تھے کہ ہم کہہ میں انتہائی کمزور حالت میں تھے، پھر جب مدینہ آئے تو ہم نے قوم (قریش) سے انصاف لیا پس جنگ کا ڈول کبھی ہم پر گھوم جاتا اور کبھی ان پر۔

ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ مقررہ وقت سے کچھ دیر سے تشریف لائے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جس وقت تشریف لاتے تھے اس سے کچھ تاخیر ہوگئی؟ فرمایا: مجھ پر قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوا تھا تو میں نے چاہا کہ نکلنے سے پہلے اس کو آگے پڑھا دوں یا فرمایا پورا کر دوں۔ خیر صبح کو ہم نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے قرآن کے حصوں کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسے اس کو نکلنے کے لئے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: ہم تین تین، پانچ پانچ، سات سات، نو نو، گیارہ گیارہ، اور تیرہ تیرہ آیات اور پوری پوری سورت کر کے پڑھتے ہیں اور سہتے ہیں۔

ابوداؤد الطیالسی، مسند احمد، ابن جریر، الکبیر للطبرانی، ابو نعیم

ختم قرآن کے آداب

۴۲۱۸ (مسند ابی رضی اللہ عنہ) عکرمہ بن سلیمان کہتے ہیں میں نے اسماعیل بن عبد اللہ بن قسطنطین کے سامنے قرآن پڑھا جب میں سورۃ الضحیٰ پر پہنچا تو فرمایا اب ہر سورت کے ختم پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ (اللہ اکبر کہو یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو) کیونکہ میں نے عبد اللہ بن کثیر سے قرآن پڑھا اور میں وضو کر کے پہنچا تو انہوں نے مجھے ایسا ہی فرمایا اور بتایا کہ انہوں نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن پڑھا تو انہوں نے بھی ایسا فرمایا اور فرمایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھا تو انہوں نے بھی ایسا فرمایا اور فرمایا کہ میں نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے قرآن پڑھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا اور فرمایا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایسا ہی علم فرمایا ہے۔ مستدرک الحاکم، ابن مردویہ، شعب الایمان للبیہقی

۴۲۱۹ (مسند انس رضی اللہ عنہ بن مالک) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ قرآن ختم فرماتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے۔ رواہ ابن النجار

۴۲۲۰ (مرسل علی بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ) (زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ) حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ المعروف زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پاک ختم فرماتے تو کھڑے ہو کر اللہ کی خوب حمد و ثناء کرتے۔ پھر یہ دعا پڑھتے

الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لا اله الا الله، وكذب العادلون بالله، وضلوا ضلالا بعيدا، لا اله الا الله وكذب المشركون بالله من العرب المجوس واليهود والنصارى والصابئين، ومن ادعى لله ولدا او صاحبة اوندأ او شبيها او مثلاً او سميأ او عدلاً، فانت ربنا اعظم من ان تتخذ شريكاً فيما خلقت، (والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الدن و كبره تكبيراً) الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، (والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً) قرأها الى قوله ان يقولون الا كذباً (الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الارض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الارض) الآية (والحمد لله فاطر السموات والارض) الآيتين (والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى) اله مع الله خير اما يشركون) بل الله خير وأبقى وأحكم وأكبر وأجل وأعظم مما يشركون (والحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) صدق الله، وبلغت رسلة وأنا على ذلكم من الشاهدين، اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين، وارحم عبادك المؤمنين، من أهل السموات والارض واختم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم، ربنا تقبل منا انك أنت السميع العليم

شعب الایمان للبیہقی عن علی بن الحسین مرسل

نبی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث منقطع ہے اور اس کی سند کمزور ہے۔ محدثین نے فضائل اور دعاؤں کے بارے میں بہت تسابیل سے کام لیا ہے اور اکثر غیر مستند اور متنی برکذبح احادیث بھی درج کر دی ہیں۔

۴۲۲۱ زر بن حبیش سے مروی ہے میں نے شروع سے آخر تک پورا قرآن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پڑھا جب میں حوایم (تم سے شروع ہونے والی سورتوں) پر پہنچا تو فرمایا: تو قرآن کی دہنوں تک پہنچ گیا ہے۔ جب میں حمعس کی بائیسویں ۲۲ آیت والذین امنوا و عملوا الصالحات فی روضات الجنات پر پہنچا تو آپ رضی اللہ عنہ رو پڑے حتیٰ کہ آپ کی آواز بلند ہو گئی پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور مجھے فرمایا اے زرار! میری دعا پرائیں کہتا جا۔ پھر دعا کی:

اللهم انی أسألك اخبات المحبتین، و اخلاص الموقنین، و مرافقة الأبرار و استحقاق حقائق الايمان،
والغنیمة من کل بر و السلامة من کل اثم و وجوب رحمتک، و عزائم مغفرتک، و الفوز بالجنة،
و النجاة من النار

اے اللہ! میں عاجزی کرنے والوں کی عاجزی مانگتا ہوں، یقین والوں کا ایمان مانگتا ہوں، نیکیوں کا ساتھ مانگتا ہوں، ایمان کے حقائق مانگتا ہوں، ہر نیکی کا حصول چاہتا ہوں، ہر برائی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزیں اور تیری یقینی مغفرت مانگتا ہوں، جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں۔

پھر فرمایا اے زرار! تو بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کیا کر، مجھے میرے محبوب حضور ﷺ نے حکم دیا تھا کہ ختم قرآن کے موقع پر ان کلمات کو پڑھا کروں۔ رواہ ابن النجار

فصل..... تفسیر کے بیان میں

سورة البقرة

۴۲۲۲ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) شعبی رحمة اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام روجاء میں اترے تو وہاں لوگوں کو دیکھا کہ وہاں پڑے ہوئے پتھروں کی طرف بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: نبی اکرم علیہ السلام ﷺ نے ان پتھروں پر نماز پڑھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سبحان اللہ! رسول اللہ ﷺ سفر میں گذرتے ہوئے سوار ہی رہے تھے۔ ایک وادی سے گذرے تو نماز کا وقت ہو گیا آپ نے وہاں نماز پڑھ لی اور بس پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں یہود کے پاس ان کے وعظ کے دن جاتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگے تمہارے ساتھیوں میں سے تم ہمارے ہاں سب سے زیادہ باعزت ہو۔ کیونکہ تم ہمارے پاس آتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا: وہ تو میں صرف اس لیے تمہارے پاس آجاتا ہوں کہ میں اللہ کی کتابوں پر تعجب کرتا ہوں کہ وہ اس طرح ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ تورات قرآن کی تصدیق کرتی ہے اور قرآن تورات کی۔

چنانچہ اسی طرح میں ایک دن یہودیوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا کہ حضور ﷺ ہمارے قریب سے گذرے۔ پھر میں نے یہودیوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھا: تم اپنی کتاب میں کیا پڑھتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں؟ یہودیوں نے کہا: ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے ان کو کہا: اللہ کی قسم تم تو ہلاک ہو گئے۔ تم جانے بوجھنے کے باوجود کہ وہ اللہ کے رسول ہیں ان کی اتباع نہیں کرتے۔ یہودیوں نے کہا: ہم کیوں ہلاک ہوں ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے پاس وحی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے تو انہوں (یعنی آپ علیہ السلام) نے فرمایا: جبریل علیہ السلام۔ تو وہ ہمارے دشمن فرشتے ہیں کیونکہ وہ تخیی وہلاکت کے فرشتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: اچھا تمہارے نزدیک کون سا فرشتہ اچھا ہے؟ یہود نے جواب دیا: میکائیل علیہ السلام، جو رحمت اور بارش وغیرہ لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں: میں نے ان سے پوچھا: اچھا

ان دونوں کا ان کے رب کے ہاں کیا مقام ہے۔ کہنے لگے: ایک خط کے دائیں جانب رہتا ہے اور دوسرا بائیں جانب۔ میں نے کہا: جبرئیل علیہ السلام کو یہ ہرگز زور نہیں ہے کہ وہ میکائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھیں اور نہ میکائیل علیہ السلام کے لیے حلال ہے کہ وہ جبرئیل علیہ السلام کے دشمن سے دوستی رکھیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ دونوں فرشتے اور ان کے پروردگار سلامتی والے ہیں ان کے لیے جو ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے دشمن ہیں جو ان سے دشمنی رکھیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس کے بعد میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا میرا ارادہ تھا کہ جو کچھ میں نے یہودیوں سے بات چیت کی ہے اس کی خبر آپ ﷺ کو دوں۔ لیکن آپ ﷺ نے پہلے ہی فرمایا: کیا میں تم کو وہ آیت نہ سناؤں جو ابھی انہی نازل ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا: ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ -

جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرئیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ البقرہ ۹۸

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں یہود کے پاس سے صرف اس لیے اٹھا تھا تاکہ آپ کو اس بات کی خبر دوں جو میری اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوئی۔ لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ اللہ پاک مجھ سے سبقت لے گئے ہیں۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم کو فرمایا: اسی وجہ سے میں اللہ کے دین میں پتھر سے زیادہ سخت ہوں۔ (کہ اللہ کا دین حرف

بحرف حق اور سچ ہے)۔ السنن للبیہقی، ابن راہویہ، ابن جریر ابن ابی حاتم

کلام: اس روایت کی سند صحیح ہے۔ لیکن امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ مگر سفیان بن عیینہ نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو حضرت عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے نیز اس روایت کے اور بھی کئی طرق ہیں جو مرسل میں آئیں گے۔

۴۲۲۳ من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً کون ہے جو اللہ کو قرض حسندے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (اس سے مراد) خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن ابی حاتم

۴۲۲۴ جب من ذالذی یقرض اللہ قرضاً حسناً نازل ہوئی تو حضرت ابن الدرداح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا ہمارا رب ہم سے قرض مانگتا ہے؟ فرمایا: ہاں۔ تو حضرت ابن الدرداح رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے دو باغ ہیں، ایک اونچی زمین میں ہے اور دوسرا نیچی زمین میں۔ چنانچہ دونوں میں سے سب سے اچھا باغ میں اپنے رب کو قرضے میں دیتا ہوں۔ حضرت ابن الدرداح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو تمہارے زیر پرورش ہے وہ اس کا ہوا۔ پھر رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کتنے خوشے جنت میں ابوالدرداح کے لیے جھکے ہوں گے۔ الجامع لعبدالرزاق ابن جریر، الاوسط للطبرانی

کلام: اس روایت میں ایک راوی اسماعیل بن قیس نامی ضعیف ہے۔

۴۲۲۵ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا ان الله وانا اليه راجعون وہ لوگ جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں: ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ان کی بہترین قیمت (اور بدلہ) اولئک علیہم صلوات من ربہم انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہیں، اور اس پر چھوٹا (دکا ندر جو چونکا بعد میں بطور گاہک کو خوش کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں) او اولئک ہم المہتدون اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کا پروانہ ہے۔

وکیع السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، الغراء لابن ابی الدنيا، ابن المنذر، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی، راستہ

قرآن میں طاغوت سے مراد شیطان ہے

۴۲۲۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے "بالجنت و الطاغوت" جنت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔

الفریابی، السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا: تمہارا کیا خیال ہے یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی:

أبو داؤد حاکم بن تکون له جنة من نخيل و اعناب البخ. البقره: ۲۶۶ مکمل آیت

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے جو وہ ہوں اور اسے بڑھاپا آپکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں تو (اچانک) اس باغ پر آگ بھرا ہوا بگولہ جلے اور وہ جل (کر رکھ کا حیر ہو جائے) اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو (اور سمجھو)۔

لوگوں نے جواب دیا: اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو گئے۔ پھر فرمایا: یوں کہو: ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میرے دل میں اس سے متعلق کچھ بات ہے امیر المؤمنین! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ اس مالدار کی مثال ہے جو اچھے اور نیک عمل کرے پھر اللہ اس کے پاس شیطان کو بھیجے اور وہ برے اعمال میں غرق ہو جائے اور اس کے تمام نیک اعمال تباہ و برباد ہو جائیں۔ ابن المبارک فی الزهد، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم، مستدرک الحاکم

ابن آدم قیامت کے دن اعمال کا زیادہ محتاج ہوگا

۲۲۲۸..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے گذشتہ رات یہ آیت: أبو داؤد حاکم ان تکون. (البقره: ۲۶۶) پڑھی اور اس نے رات کو مجھے جگا کر رکھا۔ بتاؤ اس سے کیا مراد ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا: اللہ زیادہ جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ میرے پوچھنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو اس کے بارے میں کچھ علم ہو اور اس نے اس کے متعلق کچھ سنا ہو تو وہ بتائے۔ لیکن تمام لوگ خاموش رہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا: اے بھتیجے! کہو اور اپنے آپ کو حقیر مت خیال کرو۔ میں نے عرض کیا: اس سے اعمال مراد ہے۔ فرمایا اور اس عمل سے کیا مراد ہے؟ میں اپنے دل میں آنے والی کہنا چاہتا تھا مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بھتیجے! تو نے سچ کہا اس سے عمل مراد ہے، ابن آدم بڑھاپے میں اس کے اہل و عیال زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ باغات (اور مال و دولت) کا زیادہ محتاج ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہ قیامت کے دن اپنے اعمال کا بہت زیادہ محتاج ہوگا۔ تو نے سچ کہا، بھتیجے! عبد بن حمید، ابن المنذر

فائدہ:..... یعنی جس طرح انسان اپنے بڑھاپے میں جب وہ کمانے سے محتاج ہوتا ہے اور اہل و عیال کی کثرت ہوتی ہے تو وہ مال و دولت کا زیادہ محتاج ہوتا ہے اب اگر اس کا مال و دولت تباہ ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا پونہی انسان دنیا میں نیک اعمالوں کو بد اعمالوں کی بھینٹ چڑھادے تو قیامت کے دن وہ مفلس کیا کرے گا جبکہ اس دن عمل کی اشد ضرورت ہوگی۔

۲۲۲۹..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے: واذکرو انعمتی التي انعمت علیکم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔

تو فرماتے: یہ تو تم تو گزر گئی۔ یعنی اس کے خاص اہل اور اس آیت سے خصوصی طور پر مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔

(ابن المنذر و ابن ابی حاتم)

۲۲۳۰..... یتلونه حق تلاوتہ وہ لوگ اس (کتاب اللہ) کی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا جب جنت کے ذکر پر پہنچے تو اللہ سے جنت کا سوال کرے اور جب جہنم کے تذکرے پر پہنچے تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے۔ ابن ابی حاتم

۲۲۳۱..... عکرہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت تلاوت کرتے

لکھتے ہی نہیں۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا تھا اور غیر قرآن تفسیر وغیرہ کو نکال دیا تھا اور خالص قرآن لکھا رہے دیا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ غفر اللہ خطایا۔

۲۲۳۴ فویل لهم مما کنت ایدیہم وویل لهم مما یکسون۔ البقرہ

ترجمہ:..... پس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھ لکھتے ہیں اور ہلاکت ہے اس سے جو وہ کماتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں ویل پہاڑ ہے۔ اور یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے تورات کو بدل ڈالا۔ جو اچھا لگا اس میں بڑھا دیا جو برا لگا مٹا دیا اور انہوں نے محمد (ﷺ) کا نام بھی تورات سے مٹا ڈالا۔ رواہ ابن جریر

۲۲۳۵ (علی رضی اللہ عنہ) لاینال عہدی الظالمین۔ البقرہ

ترجمہ:..... میرا عہد ظالم لوگ نہ پاسکیں گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ سے اس آیت کے ذیل میں نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

لا طاعة الا فی معروف۔

اطاعت صرف سبکی (کے کام) میں ہے۔ وکیع فی تفسیر، ابن مردویہ

۲۲۳۶ واذیرفع ابراہیم القواعد الخ۔ البقرہ

ترجمہ:..... اور جب ابراہیم بیت (اللہ) کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اس آیت کے ذیل میں نقل کرتے ہیں۔

آپ علیہ السلام نے فرمایا: (بیت اللہ کی تعمیر کے وقت) ایک بادل آیا اور بیت اللہ کے چھ پر چھا گیا اس بادل میں ایک سر تھا جو کہہ رہا تھا بیت اللہ کو اس چھ پر اٹھاؤ۔ چنانچہ ہم نے اسی چھ پر اس کو اٹھایا۔ رواہ الدیلمی

آدم علیہ السلام کا سوسال تک رونا

۲۲۳۷ فتلقى آدم من ربہ کلمات

پھر آدم نے اپنے رب (کی طرف) سے (چند) کلمات پائے۔ (جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی) سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا، حواء کو جدہ میں اتارا، ابلیس کو میان میں اتارا اور سانپ کو اصفہان میں۔ اس وقت سانپ کے اونٹ کی مانند چار پائے ہوتے تھے۔ آدم علیہ السلام ہند میں سوسال تک اپنے گناہ پر روتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ارشاد فرمایا:

اے آدم! کیا میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے خود تجھ میں روح نہیں پھونکی؟ کیا میں نے ملائکہ سے تجھے سجدہ کرا کے عظمت نہیں بخشی؟ کیا اپنی امت میں سے حواء کے ساتھ تیری شادی نہیں کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا: ضرور! کیوں نہیں۔ فرمایا: پھر یہ رونا کیسا ہے؟ عرض کیا: میں کیوں نہ روں جبکہ مجھے رحمن کے پڑوس سے نکال دیا گیا، فرمایا: تم ان کلمات کو لازم پکڑ لو۔ اللہ پاک تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے اور تمہارے گناہ کو بخش دیں گے:

اللهم انی اسألك بحق محمد و آل محمد، سبحانک، لا الہ الا انت عملت سوءاً و ظلمت نفسی

فتب علی انک انت التواب الرحیم اللهم انی اسألك بحق محمد و آل محمد عملت سوءاً و ظلمت

نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم۔

اے اللہ! میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے حق کے ساتھ سوال کرتا ہوں، تو پاک ذات ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مجھ سے برا عمل ہوا

اور اپنی جان پر ظلم ہوا، پس میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔

پھر حضور ﷺ نے فرمایا: یہ کمات آدم نے اپنے رب سے پائے تھے۔ رواہ الدیلمی

کلام: روایت موضوع ہے۔ اس کی سند بے کار ہے جس میں ایک راوی حماد بن عمر انصاری ہے جو عن السری عن خالد کے طریق سے روایت کرتا ہے۔ یہ دونوں راوی بالکل واہی اور غیر معتبر ہیں۔

۲۲۳۸ قولو للناس حسنة (البقرہ)

ترجمہ: لوگوں سے اچھی (طرح) بات کرو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یعنی تمام لوگوں سے (مسلمان ہوں یا کافر) اچھی طرح بات کرو۔ شعب الایمان للبیہقی

۲۲۳۹ فولو او جو حکم شطر المسجد الحرام۔

ترجمہ: اپنے چہرے مسجد حرام کی حصے کی طرف کرلو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شطر سے مراد جہت ہے یعنی مسجد حرام کی جہت کرلو۔

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، المجالس للدينوري رحمة الله عليه، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی

۲۲۴۰ وعلى الذين يطيقونه فدية - البقرہ

ترجمہ: اور جو طاقت نہیں رکھتے (روزے کی) ان پر فدیہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس سے وہ بوڑھا شخص مراد ہے جو (قریب المرگ ہو اور روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے

بلکہ ہر دن مسکین کو کھانا کھلا دے۔ رواہ ابن جریر

فائدہ: یعنی جس شخص کی زندگی کی امید توڑ گئی ہو اور وہ فی الوقت روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو صدقہ فطر کے برابر یعنی تقریباً پونے

دو سیر غلہ (گندم) صدقہ کر دے یا ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے۔

۲۲۴۱ واتموا الحج والعمرة لله - البقرہ

ترجمہ: حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں: یعنی اپنے گھر سے احرام باندھ کر چلو۔ وکیع، مصنف ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید،

التفسیر لابن جریر، ابن ابی حاتم الطحاوی، النحاس فی ناسخه، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی

۲۲۴۲ فما استيسر من الهدى - البقرہ

ترجمہ: جو قربانی آسانی کے ساتھ میسر آئے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس سے مراد بکری (یا اس کے مثل جانور) ہے۔

مؤطا امام مالک مصنف ابن ابی شیبہ، السنن لسعيد بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر فی التفسیر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، نسائی

۲۲۴۳ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك - البقرہ: ۱۹۶

ترجمہ: تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی سے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ تین دن ہیں صدقہ تین صاع چھ مسکینوں کو دینا ہے اور قربانی بکری کی ہے۔

فائدہ: یہ حج و عمرہ کے بیان کے ذیل میں ہے۔ یعنی اگر کوئی حالت احرام میں مریض ہو جائے یا اس کے سر میں کوئی چوٹ یا کسی قسم کا درد

ہو تو بقدر ضرورت احرام کے مخالف کام کر لے مثلاً بال کٹوالے اور اس مخالف احرام فعل کے ارتکاب میں مذکورہ تین طرح کے بدلوں میں سے کوئی

ایک ادا کر دے۔

۲۲۴۴ فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج - البقرہ: ۱۹۶

ترجمہ: پس جب تم مامون ہو جاؤ تو جو شخص فائدہ اٹھائے عمرہ کے ساتھ حج کی طرف۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر وہ عمرہ کو اس قدر مؤخر کرے کہ حج کے ساتھ ملا دے تو اس پر قربانی ہے۔ رواہ ابن جریر
۲۲۳۵ فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج۔

ترجمہ: پس ایام حج میں تین روزے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام حج میں تین ایام سے مراد یوم الترویہ سے قبل اور یوم الترویہ اور یوم عرفہ ہے۔ پس اگر ان دنوں میں نہ رکھے تو ایام تشریق میں روزے رکھے۔ تاریخ الخطیب، عبد بن حمید، ابن جریر فی التفسیر، ابن ابی حاتم
فائدہ: یعنی جو شخص حج و عمرہ اٹھا کرے جس طرح کے ہمارے دیار کے لوگ جو خارج حرم ہیں کرتے ہیں ان پر بطور شکرانے کے قربانی ہے، بکری یا بڑے جانور کا ساتواں حصہ۔ اگر طاقت سے باہر ہو تو دس روزے رکھے اس طرح کہ سات، آٹھ اور نو ذی الحجہ کو تین روزے رکھے۔ اور سات ایام حج کے بعد تین روزے ایام حج میں ضروری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر عرفہ سے قبل تین روزے نہ رکھ پائے تو عرفہ کے بعد ایام تشریق میں رکھ لے۔ اور جو شخص میقات کے اندر یعنی حرم میں رہتا ہو اس کے لیے افراد حج کا حکم ہے یعنی صرف حج کرنا۔ اس کے لیے یہ قربانی یا اس کے متبادل کا حکم نہیں۔

۲۲۳۶ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ۔ البقرہ ۲۰۳۰

ترجمہ: پھر جو چلا گیا جلدی دو ہی دن میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو جلدی چلا گیا دو دن میں اس کا یہ گناہ بخش دیا جائے گا اور جو ٹھہر گیا تیسرے دن تک اس پر کوئی گناہ نہیں اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ رواہ ابن جریر
فائدہ: یعنی نسی میں تین دن ٹھہرنا افضل ہے لیکن اگر کوئی دو دن ٹھہرے تب بھی جائز ہے اور اگر تین دن ٹھہرے تو یہ افضل ہے۔ اس پر کا ہے کا گناہ۔

۲۲۳۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

واذا قبیل له اتق الله ومن الناس من يشترى نفسه تك۔

پھر فرمایا: رب کعبہ کی قسم ان دونوں نے (سبکی ویدی کے ساتھ) قتل کیا۔ وکیع، عبد بن حمید، فی تاریخہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم
نوٹ: حدیث ۲۲۳۱ پر یہ حدیث بمعہ ترجمہ قرآنی آیات کے ملاحظہ فرمائیں۔

۲۲۳۸ فان فاء وا۔ البقرہ ۲۲۶

ترجمہ: پس اگر وہ لوٹیں۔

فائدہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الفی لوٹنے سے مراد جماع ہے۔ (عبد بن حمید) یعنی اگر شوہر بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھالے تو چار مہینے کے اندر فاء والوٹ گئے یعنی جماع کر لیا یا راضی ہو گئے۔ تو طلاق نہ ہوگی۔

۲۲۳۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے الفی سے مراد رضامندی ہے۔ ابن المنذر

تین طلاق کے بعد عورت حلال نہیں

۲۲۵۰ فان طلقها فلا تحل له من بعد۔ البقرہ

ترجمہ: پس اگر اس کے بعد طلاق دی تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں حتیٰ کہ دوسرے سے نکاح کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد تیسری طلاق ہے۔ ابن المنذر

۲۲۵۱ حتی تنکح زوجا غیرہ۔ البقرہ

ترجمہ: ... حتی کہ وہ اس کے غیر شوہر سے نکاح کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اس وقت تک حلال نہ ہوگی حتی کہ اس کو بقرہ کی طرح ہلا ڈالے۔

فائدہ: ... یعنی پہلا شوہر تین طلاق دے دے اور عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو جب یہ دوسرا شوہر اچھی طرح جماع نہ کرے کہ جس طرح کنواری عورت کو شوہر اچھی طرح رغبت کے ساتھ جماع کرتا ہے اس طرح اسی مطلقہ کو خوب ہلانہ ڈالے وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی۔

۲۲۵۲ محمد بن الحنفیہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ (ان کے والد) حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے یہ بابت سمجھنا آ رہی تھی:

فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ فان طلقها فلا جناح علیہما ان یتراجعا۔

پس اگر وہ طلاق دے دے تو اس کے لیے حلال نہ ہوگی حتی کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے پھر اگر وہ طلاق دے دے تو ان کو رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے قرآن پڑھا پھر مجھے سمجھ آیا کہ جب اس کو دوسرا شوہر طلاق دیدے تو وہ پہلے تین طلاق دینے والے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک الگ مسئلہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

میں رجل نداء تھا یعنی مجھے مذی بہت آتی تھی۔ (بیوی سے بوس و کنار کرتے وقت شرم گاہ سے معمولی قطرات خارج ہوتے ہیں جو منی کے علاوہ اور اس سے پہلے آتے ہیں) مجھے حیاء آتی تھی کہ نبی کریم ﷺ سے اس کے متعلق سوال کروں۔ کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی۔ چنانچہ میں نے مقداد بن اسود کو کہا انہوں نے نبی ﷺ سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس میں صرف وضو ہے۔

عبد بن حمید

۲۲۵۳ الذی بیده عقدۃ النکاح۔ البقرہ: ۲۳۷

ترجمہ: ... جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے مراد شوہر ہے۔

وکیع، سفیان، فریابی، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، الدار قطنی، شعب اللیبھی

فائدہ: ... یہاں اس طلاق کا بیان ہے کہ اگر شوہر عورت کو چھونے سے قبل ہی طلاق دیدے تو مہر کا نصف حصہ ادا کر دے۔ یا عورت معاف کرنا چاہے تو وہ اس کی حقدار ہے اور اگر مرد پورا ہی مہر دیدے تو بہت اچھا ہے ورنہ نصف لازمی ہے۔ آیت میں ہے یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گره ہے یعنی شوہر معاف کر دے ورنہ مہر کی بجائے پورا مہر دیدے۔

۲۲۵۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے الصلاة الوسطی سے مراد ظہر (دن) کی نماز ہے۔ ابن المنذر

فائدہ: ... فرمان الہی ہے:

صلوٰۃ وسطیٰ عصر کی نماز ہے

حافظو اعلی الصلوات و الصلوٰۃ الوسطی۔ البقرہ: ۲۳۸

نمازوں کے خصوصاً درمیانی نماز کی محافظت کرو اسی فرمان کے متعلق یہ اور ذیل کی روایات ہیں۔

۲۲۵۵ ... زر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اور عبیدہ سلمانی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے میں نے عبیدہ کو کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ سے الصلوٰۃ الواسطی (درمیانی نماز) کے بارے میں سوال کریں۔ (کہ وہ کون سی نماز ہے) چنانچہ حضرت عبیدہ نے سوال کیا تو حضرت علی رضی

اللہ عنہ نے فرمایا: ہم اس صبح کی نماز سمجھتے تھے۔ مگر ایک مرتبہ ہم اہل خیبر کے ساتھ قتال میں مصروف تھے، انہوں نے لڑائی کو اس قدر طول دیا کہ ہم کو نماز سے روک دیا حتیٰ کہ غروب شمس کا وقت ہو گیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے اللہ! اس قوم کے دلوں کو بھردے جنہوں نے ہم کو (الصلاة الوسطیٰ) نماز سے اور کام میں مشغول کر دیا اور ان کے پیڑوں کو آگ سے بھردے۔ اس دن ہم کو معلوم ہوا کہ الصلاة الوسطیٰ سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ رواہ ابن جریر

۲۲۵۶... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الصلاة الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام سے تاخیر ہوئی تھی۔

وکیع، سفیان، فریابی، مصنف ابن ابی شیبہ، السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، مسدد، ابن جریر، شعب الایمان للبیہقی فائدہ: ... زیادہ صیحیحی قول ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی بھی یہی نماز قضاء کے قریب ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے کہ اس مشغولیت میں عصر کی نماز میں تاخیر ہو گئی اور سورج غروب کے قریب ہو گیا تو آپ نے بعد میں اس تاخیر کی سزا میں اپنے گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کیے اور ان کو ایک ایک کر کے تلوار سے کاٹنے لگے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۲۲۵۷... حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے آپ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ الصلاة الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اللہ میاطی، فی کتاب الصلاة الوسطیٰ الموسوم بہ کشف المغطاء، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی

۲۲۵۸... (مالک رحمۃ اللہ علیہ) حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں علی اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول پہنچا ہے کہ الصلاة الوسطیٰ سے مراد صبح کی نماز ہے۔ السنن للبیہقی

۲۲۵۹... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بہر مؤمنہ عورت آزاد ہو یا باندی اس کے لیے متعہ (کپڑے کا جوڑا) ہے۔ پھر آپ نے فرمان الہی تلاوت فرمایا:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین۔ (۲۴۱)

طلاق یافتہ عورتوں کے لیے قاعدے کے موافق سامان (کپڑا وغیرہ) ہے (یہ) متقیوں پر لازم ہے۔ ابن المنذر ۲۲۶۰... السکینہ ایسی شفاف ہوا ہے جس میں ایک صورت ہوئی ہے اور انسان کے چہرے کی مانند چہرہ ہوتا ہے۔

ابن جریر، سفیان بن عیینہ فی تفسیر ہما، الازرقی، مستدرک الحاکم، الدلائل للبیہقی، ابن عساکر ۲۲۶۱... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: السکینۃ ایک تیز ہوا جس کے دوسرے ہوتے ہیں۔ رواہ ابن جریر

۲۲۶۲... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس (بادشاہ) نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پروردگار کے متعلق مناظرہ کیا تھا وہ نمرود بن کنعان تھا۔ ابن ابی حاتم

عزیز علیہ السلام سو سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے

۲۲۶۳... أو کالذی مر علی قریۃ۔

ترجمہ: ... یا اس شخص کی مانند جو بستی پر گذرا۔ البقرہ: ۲۵۹

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کے پیغمبر حضرت عزیز علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے۔ آپ ان وقت نوجوان تھے۔ آپ کا گذر ایک بستی پر ہوا جو ویران و برباد ہو چکی تھی اور ان کے گھروں کی چھتیں نیچے پڑی تھیں۔ تو حضرت عزیز علیہ السلام نے ازراہ تعجب فرمایا:

انی یحییٰ هذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه۔ البقرہ: ۲۵۹

اللہ پاک اس کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ پھر اللہ نے اس کو سو سال تک موت دی، پھر اس کو اٹھایا اور فرمایا: پہلے تو حضرت عزیز کی آنکھ پیدا فرمائیں اور وہ اپنی ہڈیوں کی طرف دیکھنے لگے کہ ایک دوسری کے ساتھ جڑ رہی ہیں پھر ان پر گوشت چڑھا پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ پھر

حضرت عزیز علیہ السلام سے پوچھا گیا: تم کتنے عرصے تک یوں رہے؟ آپ علیہ السلام اپنے شہر چل کر تشریف لائے۔ آپ اپنے ایک پڑوسی کو نوجوان چھوڑ کر گئے تھے۔ اب آئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ عبد بن حمید، ابن ابی حاتم، مستدرک الحاکم، البعث للبیہقی

۲۲۶۳ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ البقرہ: ۲۶۷

اے ایمان والو! جو تم نے کمایا اس پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے مراد تو سونا چاندی ہے یعنی جو سونا چاندی حلال طریقے سے کمایا اس کی ذکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی آیت کے بقیہ حصہ، فرمایا: ومما اخر جنالکم من الارض اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالیں، سے مزاد گندم کھجور وغیرہ زمین کی فصلیں ہیں جن میں ذکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ رواہ ابن جریر

۲۲۶۵ عبیدہ سلمانی سے مروی ہے کہتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا:

یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ البقرہ: ۲۶۷

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ آیت زکوٰۃ فرض کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک شخص اپنے کھجوروں کے ڈھیر کی طرف بڑھتا ہے اور اچھا اچھا مال ایک طرف نکال دیتا ہے۔ جب لینے والا آتا ہے تو اس کو (پکی گچی) ردی کھجور دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا:

ولا تبسّموا الخبیث منہ تنفقون ولستم باخذیہ الا ان تغمضوا فیہ اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ (اگر وہ چیزیں تم کو دی جائیں تو) بجز اس کے کہ (لینے کے وقت) آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم خود اس کو جبر کے بغیر نہ لو۔ اور خدا کے ہاں اس کو صدقہ کرو۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ رواہ ابن جریر

۲۲۶۶ (اسامہ رضی اللہ عنہ) زہرہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے (ہم میں سے) کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سوال بھیجا کہ الصلاۃ الوسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: یہ ظہر کی نماز ہے جو رسول اللہ ﷺ دن کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ابو داؤد الطیالسی، مصنف ابن ابی شیبہ، بخاری فی التاریخ، مسند ابی یعلیٰ، الرویانی، السنن للبیہقی، السنن لسعید بن منصور

۲۲۶۷ زہرہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ قریش کے ایک قافلہ پر زید بن ثابت کا گذر ہوا۔ یہ لوگ سب اکٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے دو غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجے تاکہ وہ آپ رضی اللہ عنہ سے الصلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں سوال کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ظہر کی نماز ہے۔ رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز (کڑی) دو پہر میں پڑھتے تھے۔ آپ کے پیچھے ایک یا دو صفیں ہوتی تھیں۔ لوگ اپنے کاروبار اور تجارت وغیرہ میں مشغول ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حافظوا علی الصلوات و الصلاۃ الوسطیٰ۔

نمازوں کی خصوصاً درمیانی نماز کی پابندی کرو۔

(اس وجہ سے ظہر کی تاکید نازل ہوئی) لہذا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگ باز آجائیں ورنہ میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں گا۔ (اگر وہ ظہر کی

نماز میں حاضر نہ ہوں گے)۔ مسند احمد، نسائی، ابن منیع، ابن جریر، الشاشی، السنن لسعید بن منصور

۲۲۶۸ یستلونک عن الشهر الحرام قتال فیہ۔

ترجمہ: وہ لوگ آپ سے حرمت والے ماہ میں قتال کا سوال کرتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے صفوان بن بیضاء کو عبد اللہ بن جحش کی امارت میں ابواء کی طرف لشکر میں بھیجا وہاں

انہوں نے غنیمت حاصل کی اور (مذکورہ) آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابن مندہ غریب، ابن عساکر

فائدہ: رجب کی آخری تاریخ میں انہوں نے قتال کر کے کافروں کو ہزیمت دی تھی۔ لیکن کافروں نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ انہوں

نے تو ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ میں قتال کیا ہے اور حرمت کے مہینے ذی قعدہ کو پامال کیا ہے۔ تب اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ کہہ دو

حرمت کے ماہ میں قتال گناہ ہے لیکن اس سے بڑا گناہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا اور اللہ کا کفر کرنا وغیرہ ہے۔

ہاروت اور ماروت کون؟

۳۲۶۹... ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: ملائکہ نے اہل دنیا پر نظر ڈالی دیکھا کہ بنی آدم گناہ کر رہے ہیں تو انہوں نے پکارا: اے پروردگار! یہ لوگ کس قدر جاہل ہیں؟ ان لوگوں کو آپ کی عظمت کا علم کس قدر کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر تم ان کی کھال میں ہوتے تو تم بھی میری نافرمانی کرتے۔ ملائکہ نے عرض کیا: یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم تو آپ کی (ہر وقت) تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔

چنانچہ ملائکہ نے اپنے درمیان میں سے دو فرشتوں کو چنا ہاروت اور ماروت کو۔ وہ دنیا پر اتارے۔ اور دنیا میں بنی آدم کی شہوت ان میں بھی ڈال دی گئیں۔ ایک عورت ان کے ساتھ پیش آئی۔ اور وہ اپنے آپ کو بچانہ سکے بلکہ معصیت میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ عزوجل نے ان کو فرمایا: دنیا کا عذاب اختیار کرتے ہو یا آخرت کا عذاب؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا: تمہارا کیا خیال ہے؟ دوسرے نے کہا: دنیا کا عذاب تو آخر ختم ہو ہی جائے گا۔ جبکہ آخرت کا عذاب دائمی ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے دنیا کا عذاب اختیار کر لیا۔ پس یہی دونوں فرشتے ہیں جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے:

وما نزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت۔

اور جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتری۔

۳۲۷۰... لوگوں کے درمیان الصلاۃ الوسطیٰ کا ذکر ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جس طرح تمہارے درمیان اختلاف ہو رہا ہے اسی طرح ہمارے درمیان رسول اللہ ﷺ کے گھر کے صحن میں اختلاف ہوا تھا۔ ہمارے درمیان ایک نیک شخص ابو ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بھی تھے، وہ بولے: میں اس مسئلہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر وہ رسول اکرم ﷺ کے پاس گئے۔ وہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ بے تکلف تھے۔ انہوں نے آپ سے اندر آنے کی اجازت لی اور اندر گئے پھر نکل کر ہمارے پاس آئے اور بتایا کہ اس سے نماز عصر مراد ہے۔

رواہ ابن عساکر

۳۲۷۱... ابن لہیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا: مجھے ایسی چیز کے بارے میں بتائیے تمام امور جس کے تابع ہیں یعنی نماز کے متعلق جس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم کچھ قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں: انہوں نے پڑھنے کا حکم دیا تو میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سنائی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

یہ سب مثنائی ہے، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے:

ولقد اتیناک سبعا من المنانی والقرآن العظیم۔

اور ہم نے آپ کو سات بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا: کیا تم نے سورۃ المائدہ پڑھ رکھی ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اچھا تم آیت الوضوء پڑھو۔ میں نے وہ بھی پڑھ کر سنائی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ تم نماز کے لیے وضوء بھی سمجھ گئے ہو گے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے:

اقم الصلوۃ لعلوک الشمس۔

نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے وقت۔

جانتے ہو دلوک سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا: نصف النہار کے بعد جب آفتاب آسمان کے پیٹ یا جگر سے ڈھل جائے۔ فرمایا: ہاں

اس وقت تم ظہر کی نماز پڑھو۔ اور پھر جب سورج سفید ہی ہو۔ تو اس وقت عصر کی نماز پڑھو۔ جب تم کو ایسا لگے کہ تم سورج کو چھو سکتے ہو (یعنی جب کچھ ٹھنڈا ہو جائے اور اس پر نظر ڈالنا ممکن ہو)۔ پھر فرمایا:

جانتے ہو غسق اللیل کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، غروب شمس مراد ہے۔ فرمایا: ہاں پس تم اس کے پیچھے رہو (اور مغرب پڑھ لو) اور جب شفق (روشنی) غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھ لو۔ پھر مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: جب رات یہاں سے ایک تہائی رات آجائے اس وقت (عشاء کا وقت ہے) لیکن اگر افق کی سفیدی جانے کے بعد ہی (عشاء) پڑھ لو تو زیادہ افضل ہے۔ اور جب فجر طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز پڑھ لو۔ جانتے ہو فجر کیا ہے؟ میں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا: تمام لوگ اس کو نہیں جانتے۔ میں نے عرض کیا: وہی فجر ہے نا جب افق سفیدی کے ساتھ چمک اٹھے۔ فرمایا: ہاں اس وقت سے لے کر صبح کی سفیدی تک نماز پڑھ لو۔ پھر سفیدی تک۔ اور دیکھو رکوع و جبرہ یوں نہ کرو۔ کہ جس طرح پرندہ پانی پی کر اڑ جاتا ہے یا کتا آکڑوں بیٹھتا ہے (بلکہ رکوع و جبرہ کو اچھی طرح ادا کرو) اور بھول (اور غفلت) سے حفاظت میں رہو۔ حتیٰ کہ تم نماز پڑھ لو۔

ابن لپیہ کہتے ہیں: پھر میں نے ان سے عرض کیا: مجھے الصلوٰۃ الوسطیٰ (درمیانی نماز) کے بارے میں بتائیے (کون سی ہے؟) فرمایا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا:

اقم الصلوٰۃ لعلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔

نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات چھانے تک اور فجر کا قرآن پڑھنا (یاد رکھو) (اس میں پانچوں نمازیں آگئیں) اور فرمایا:

ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم۔

اور عشاء کی نماز کے بعد تمہارے لیے تین تاریکیاں (جھے ہیں)۔

یوں پانچوں نمازیں ان آیات میں آگئیں پھر فرمایا:

حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطیٰ۔

نمازوں پر محافظت کرو خصوصاً درمیانی نماز پر۔

پس آگاہ رہو وہ عصر کی نماز ہے عصر کی نماز ہے۔ الخامع لعبد الرزاق

کیونکہ درمیان میں وہی ہے دو نمازیں اس سے قبل اور دو اس کے بعد ہیں۔

۴۲۷۲۔ نافع (ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد) سے مروی ہے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا (ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بہن) نے اپنے ایک غلام کو جو

کتابت کیا کرتا تھا کتابت کے لیے قرآن شریف دیا۔ اور فرمایا جب تم اس آیت پر پہنچو حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطیٰ تو مجھے

اطلاع دینا۔ چنانچہ جب وہ غلام اس آیت پر پہنچ گیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ کے

ساتھ وہاں لکھا: حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطیٰ و صلاۃ العصر و قوموا للہ قانتین۔ رواہ عبد الرزاق

۴۲۷۳۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ عبید بن عبیدرہون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبید رحمۃ

اللہ علیہ نے عرض کیا ہاں امیر المؤمنین!! اللہ عزوجل کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے:

لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔

اللہ تمہاری بے ارادہ قسموں میں تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آدمی کہتا نہیں اللہ کی قسم، ہاں اللہ کی قسم۔

فائدہ: ... یعنی اپنی بات سچی کرنے کے لیے بغیر ارادے کے یونہی قسم کھالے اس پر پکڑ نہیں مثلاً کسی کو دیکھے اور کہے اللہ کی قسم یہ تو زید ہے۔

لیکن وہ زید نہ ہو تو اس پر کچھ پکڑ نہیں۔

عید بن عمیر نے عرض کیا: ہجرت کب تک ہے؟ فرمایا: فتح مکہ کے بعد ہجرت (فرض) ختم ہوگئی۔ ہجرت صرف فتح مکہ سے قبل (فرض) تھی۔ جب آدمی اپنے دین کو لے کر رسول اللہ ﷺ کے پاس ہجرت کر کے آتا تھا۔ پس فتح مکہ کے بعد بندہ جہاں بھی اللہ کی عبادت کرے اسے کوئی نقصان نہیں۔ رواہ عبدالرزاق

۴۲۷۴ ہشام بن عروہ کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قرآن میں دیکھا:

حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی و صلاة العصر و قوموا للہ قانتین

نمازوں کی محافظت کرو خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی، اور اللہ کے لیے تابعدار بن کر کھڑے رہو۔ الجامع لعبدالرزاق

۴۲۷۵ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے درمیانی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں پہلی قرأت میں یوں پڑھا کرتے تھے:

حافظوا علی الصلوات و الصلوۃ الوسطی و صلاة العصر و قوموا للہ قانتین۔ الجامع لعبدالرزاق

۴۲۷۶ ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم کہتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام حرمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا تا کہ وہ درمیانی نماز کے بارے میں سوال کرے تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ ظہر کی نماز ہے۔ راوی ابوبکر کہتے ہیں چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے درمیانی نماز ظہر ہے۔ معلوم نہیں یہ قول انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لیا تھا یا کسی اور سے۔ رواہ عبدالرزاق فائدہ: روایات میں تعرض اپنی جگہ ہے لیکن اکثر روایات نماز عصر پر اتفاق کرتی ہیں بہر صورت درمیانی نماز ظہر ہو یا عصر دونوں کی بلکہ پانچوں کی پابندی ضروری ہے۔

۴۲۷۷ عبداللہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مجھے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حکم دیا تھا کہ میں ان کے لیے قرآن کا نسخہ لکھوں اور جب حافظوا علی الصلوات و الصلوۃ الوسطی پر پہنچوں تو ان کو خیر کر دوں۔ چنانچہ میں نے ان کو خیر دیا تو فرمایا یوں لکھو:

حافظوا علی الصلوات و الصلوۃ الوسطی و صلاة العصر و قوموا للہ قانتین رواہ عبدالرزاق

۴۲۷۸ سری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی

واتقوا یوماً ترجعون فیہ الی اللہ الخ۔ البقرہ

اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الجامع لعبدالرزاق

۴۲۷۹ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ (مشہور تابعی) سے منقول ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکلے۔ ان کے پیچھے قریش کے کچھ مشرک لگ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم جانتے ہو میں تم میں سب سے زیادہ تیرا انداز ہوں۔ اللہ کی قسم تم میرے قریب نہیں آسکتے جب تک میں اپنے ترکش کا آخری تیر تم پر نہ چلا دوں پھر میں تمہارے ساتھ تلوار سے لڑوں گا جب تک وہ میرے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر تم جو چاہو کرنا۔ لیکن اگر تم چاہو تو میں مکہ میں اپنے مال کا پتہ تم کو دیتا ہوں تم میرا راستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس پر معاہدہ ہو گیا۔ اور آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو مال کا پتہ دیدیا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر قرآن نازل فرمایا:

ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ الخ۔ البقرہ

اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان خرید لیتے ہیں۔

جب نبی کریم ﷺ نے صہیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا اے ابوبکی! تجارت کامیاب ہوگئی اے ابوبکی! تجارت کامیاب ہوگئی، اے ابوبکی! تجارت کامیاب ہوگئی، پھر آپ نے مذکورہ آیت پڑھ کر سنائی۔ ابن سعد، الحارث، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حلیۃ الاولیاء، ابن عساکر ۴۲۸۰ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے (حرمتموں میں سے) شراب کی حرمت نازل ہوئی

یسألونک عن الخمر والمیسر۔

وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ

نماز میں بات چیت ممنوع ہے

۴۲۸۱ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے: لوگ نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، کوئی بھی آدمی کسی بھائی سے بات کر لیتا تھا پھر یہ آیت نازل ہوئی:

وقوموا للہ قانتین۔

اللہ کے لیے تاجذرا بن کر کھڑے رہو۔

چنانچہ لوگوں نے بات چیت بند کر دی۔ رواہ عبدالرزاق

۴۲۸۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خندق کے موقع پر ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا: اللہ ان کافروں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھردے، انہوں نے ہماری صلوٰۃ الوسطیٰ (یعنی عصر کی نماز نگوا دی۔

عبدالرزاق، مسند احمد، ابو عبیدہ فی فضائل العدنی، مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن خزیمہ، ابو عوانہ، السنن للبیہقی

۴۲۸۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یوم الاحزاب (خندق کے موقع پر) حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ ان کافروں کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھردے جیسے انہوں نے ہم کو نماز عصر سے اور کام میں مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج غروب گیا۔ اس روز آپ ﷺ نے ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہو گیا تھا۔ رواہ عبدالرزاق

۴۲۸۵ زر رضی اللہ عنہ بن حبیش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عبیدہ کو کہا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صلوٰۃ الوسطیٰ کے بارے میں سوال کریں۔ چنانچہ (ان کے سوال کرنے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: ہم سمجھتے تھے کہ وہ ظہر کی نماز ہے۔ حتیٰ کہ میں نے خندق کے روز نبی اکرم ﷺ سے سنا: انہوں نے ہم کو صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز سے مشغول کر دیا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ اللہ ان کی قبروں اور ان کے

پیڑوں کو آگ سے بھردے۔ عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن زنجویہ فی ترویجہ، نسائی، ابن ماجہ، بخاری، ابن جریر، السنن للبیہقی

۴۲۸۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خندق کے روز نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اللہ ان کے گھروں، ان کی قبروں اور ان کے دلوں کو آگ سے بھردے، جیسے انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ سے روک دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔

مسند احمد، بخاری، مسلم، الدارمی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، ابن جریر، ابن الجارود، ابو عوانہ، السنن للبیہقی

فائدہ:..... اس بارے میں جو مختلف روایات ہیں کہ بعض مرویات میں صلاۃ الوسطیٰ سے ظہر مراد ہے اور اکثر مرویات میں عصر مراد ہے اس کی وجہ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمادی جیسا کہ ۴۲۸۵ نمبر حدیث میں گذرا کہ ہم (صحابہ کرام) پہلے صلاۃ الوسطیٰ سے ظہر کی نماز مراد لیتے تھے لیکن خندق کے روز فرمان رسول سے ہم پر آشکارا ہو گیا کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے۔

۴۲۸۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی:

وساوس پر مواخذہ نہیں

ان تبدوا مافی انفسکم اوتحفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔

اگر تم وہ کچھ ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ اللہ اس کا حساب تم سے کرے گا پھر جس کو چاہے بخش دے گا اور جس کو

چاہے عذاب دے گا۔

فرمایا: اس آیت نے ہم کو رنجیدہ کر دیا: ہم نے کہا کہ ہمارے دل میں جو (برا) خیال آئے گا کیا اس پر بھی ہم سے حساب ہوگا؟ اور پتہ نہیں

پھر کیا بخش جائے گا کیا نہیں بخش جائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا:

لا یكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت -

اللہ کسی جان کو مکلف نہیں کرتا مگر اس وسعت کے (بقدر)۔ جو اس نے (اچھا) کمایا اس کے لیے ہے اور جو اس نے (برا) کمایا اس کا وبال اس پر ہے۔ عبد بن حمید، ترمذی
یہ روایت بخاری ۵۲۹ اور مسلم ۵۳۱ میں بھی آئی ہے۔

سورہ آل عمران

۲۲۸۸ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فحاص نامی یہودی کے پاس مد لینے کے لیے بھیجا اور اس کو خط بھی لکھا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا: لوٹنے تک میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ چنانچہ فحاص یہودی نے آپ ﷺ کا مکتوب گرامی پڑھا تو کہنے لگا: کیا تمہارا پروردگار محتاج ہو گیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرا ارادہ ہوا کہ تلوار نکال لوں۔ لیکن پھر مجھے نبی اکرم ﷺ کا فرمان یاد آ گیا کہ آپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ کا فرمان نازل ہوا:

لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء -

بے شک اللہ نے سنا ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہا: اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار۔ ابن جریر فی التفسیر وابن المنذر
سری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس کے مثل منقول ہے جس کو ابن جریر نے روایت کیا ہے۔

۲۲۸۹ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) کنتم خیر امة اخرجت للناس - الخ - آل عمران
ترجمہ: تم بہترین امت ہو جو لوگوں (کی بھلائی) کے لیے نکالے گئے ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر اللہ پاک چاہتا تو یوں فرما دیتا تم (جس کا مطلب ہوتا تم تمام مسلمان بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو)۔ لیکن اللہ نے فرمایا: کنتم اور یہ اصحاب محمد ﷺ کے لیے خاص ہے۔ اور جو لوگ ان کے مثل عمل کریں وہ بھی امت کے بہترین لوگ ہیں۔ جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہیں۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم

۲۲۹۰ کلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، آپ رضی اللہ عنہ سورہ آل عمران کی تلاوت فرما رہے تھے۔ پھر فرمایا: یہ سورت احد یہ ہے۔ (جو جبل احد پر نازل ہوئی تھی)۔ پھر فرمایا: ہم احد کے دن رسول اللہ ﷺ کے پاس سے منتشر ہو گئے۔ پھر میں پہاڑ پر چڑھا تو ایک یہودی کو کہتے ہوئے سنا محمد ﷺ ہو گئے۔ میں نے کہا: میں جس کو یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ محمد ﷺ ہو گئے ہیں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر میں نے دیکھا تو رسول اللہ ﷺ موجود ہیں اور صحابہ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پھر آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی:

وامام محمد الارسل قد حلت من قبله الرسل - آل عمران

اور محمد میرے رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے (بھی) رسول گذر چکے ہیں۔ ابن المنذر

۲۲۹۱ کلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے روز خطبہ دیا اور آل عمران کی تلاوت فرمائی اور جب اس فرمان تک پہنچے:

ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان -

بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر گئے تم میں سے اس دن (جس دن) دو جماعتوں کی ٹڈ بھڑ ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب احد کا دن تھا ہم لوگ شکست کھانے لگے میں بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں پہاڑی بکرے کی مانند دوڑتا پھر رہا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں محمد ﷺ قتل ہو گئے۔ تب میں نے آواز لگائی۔ میں نے جس کو یہ کہتے ہوئے پایا کہ محمد ﷺ قتل ہو گئے ہیں اس کو قتل کر ڈالوں گا۔ حتیٰ کہ (اس

افترافری میں) ہم پہاڑ پر جمع ہو گئے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی:

۲۲۹۲ ان الذین تولوا منکم یوم النقی الجمعان مرواہ ابن جریر
سری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والے کسی شخص نے بیان کیا کہ: کنتم خیر امة اخرجت للناس یہ
فضیلت ہمارے پہلے لوگوں کے لیے ہے نہ کہہ آخروالوں کے لیے۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم
۲۲۹۳ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہم سے ذکر کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

کنتم خیر امة اخرجت للناس۔

پھر فرمایا: اے لوگو! جس کی خواہش ہو کہ اس (آیت میں جس امت کی تعریف بیان کی گئی) اس امت میں سے ہو تو وہ اس میں اللہ کی شرط کو
پورا کرے۔ مرواہ ابن جریر

فائدہ: شرط آیت ہی میں آگے بیان کر دی گئی ہے۔

تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ

تم امر بالمعروف کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

۲۲۹۴ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ وہاں ایک اہل حیرہ کا لڑکا ہے جو حافظ اور کاتب ہے، اگر آپ اس کو اپنا کاتب بنا لیں (تو
اچھا ہو) آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تب تو میں مؤمنوں کے اندرونی کاموں کے لیے کتے کو مقرر کروں گا۔

مصنف ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن ابی حاتم

فائدہ: ... غالباً وہ شخص اہل ایمان میں سے نہ ہو یا اس کے حالات درست نہ ہوں اس لیے ایسا فرمایا: جس سے ایماندار شخص ہی کو سرکاری کام
سپرد کرنے کا حکم نکلتا ہے۔

۲۲۹۵ سیار ابوالحکم سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

زین للناس حب الشهوات۔ آل عمران

خواہشات (کی چیزوں) کی محبت لوگوں کے لیے مزیں کر دی گئی۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن ابی حاتم

پھر فرمایا: اے پروردگار! اب جبکہ آپ نے خواہشات کو دلوں میں رکھ دیا۔

فائدہ: ... یعنی آپ نے خواہشات کی محبت دلوں میں رکھ کر ان سے منع فرمایا ہے۔ بے شک ان (ناجانز) خواہشات سے وہی شخص رک
سکتا ہے جو واقعۃ اللہ سے ڈرتا ہو۔

ہر نبی سے نبی آخر الزماں کی مدد کا عہد لیا

۲۲۹۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جب بھی آدم علیہ السلام یا آپ کے بعد جس کو بھی پیغمبر بنا کر بھیجا اس سے محمد ﷺ کے
بارے میں یہ وعدہ ضرور لیا کہ اگر وہ تمہاری زندگی میں آگے تو تم ان پر ایمان ضرور لاؤ گے اور ضرور ان کی مدد کرو گے۔ نیز اپنی قوم سے بھی یہ عہد
لو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے آل عمران کی یہ آیات تلاوت فرمائیں:

واذاخذ اللہ ميثاق النبين لما آتيتكم من كتاب وحكمة سے الفاسقون تک۔ آل عمران

اور جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور دانائی عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی
تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا اور اس قرار پر
میرا ذمہ لیا (یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا) انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا۔ (خدا نے فرمایا) کہ تم (اس عہد و پیمانے کے) گواہ رہو اور میں بھی

تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اس عہد سے پھر جائیں وہی لوگ بدکردار ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ یہ جو خدا نے فرمایا کہ تم اس عہد کے گواہ رہو اس کا مطلب ہے اپنی اپنی امتوں کے سامنے اس پر گواہ رہو اور ان کو بتاؤ اور خدا بے غیروں پر اور ان کی امتوں پر گواہ ہے۔ پس اے محمد اس عہد کے بعد تمام امتوں میں سے جو کوئی بھی آپ سے انحراف کرے گا تو یہی لوگ فاسق ہوں گے۔ رواہ ابن جریر

۲۲۹۷ شعی زعمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

ان اول بیت وضع للناس للذی بیکۃ مبارکاً۔

بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو مکہ میں ہے برکتوں کی جگہ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے پہلے بھی گھر ہوتے تھے لیکن یہ پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ (اس سے پہلے عبادت کے لیے گھر نہ ہوتے تھے)۔ ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۲۲۹۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدر ایک کنواں ہے۔ (جس سے جنگ بدر موسوم ہوئی)۔ ابن المنذر

۲۲۹۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جنگ بدر میں ملائکہ کی نشانی گھوڑوں کے آس پاس اور ان کی دموں کے پاس سفیداون (جیسی کوئی شے) نظر آتی تھی۔ ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۲۳۰۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وسی جزی اللہ الشاکرین۔ اور عنقریب اللہ شکر گزاروں کو (اچھا) بدلہ دے گا۔ اس سے مراد اپنے دین پر ثابت قدم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ابو بکر رضی اللہ عنہ شکر گزاروں کے امیر تھے۔ رواہ ابن جریر

۲۳۰۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آیت:

یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم۔

”اے ایمان والو! اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا وہ تم کو اڑیوں کے بل (کفر میں) لوٹا دیں گے۔“

کے بارے میں پوچھا گیا: کیا اس سے مراد (مدینہ) ہجرت کرنے کے بعد اپنے گاؤں واپس چلا جانا ہے؟ فرمایا: نہیں بلکہ اس سے مراد (جہاد اور دین کے کام کو چھوڑ کر) بھتیجی باڑی میں مشغول ہو جانا مراد ہے۔ ابن ابی حاتم

۲۳۰۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرتد کے بارے میں فرمایا: میں مرتد سے تین مرتبہ توبہ قبول کرنے کو کہوں گا، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً۔

بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر وہ کفر میں زیادہ ہو گئے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو ذر الہروی فی الجامع، السنن للبیہقی

۲۳۰۳ بنی قیس کے مؤذن عثمان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں سال بھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہا۔ میں نے بھی آپ سے برأت یا ولایت کی بات نہیں سنی، بغیر کسی زور بردستی کے پھر میری بیعت توڑ دی بغیر میری طرف سے کوئی بات پیدا ہونے کے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! آج کے بعد اس آیت والوں کے ساتھ بھی قتال نہ ہوگا (اگر ان دو کے ساتھ جنگ نہ کی جائے)

وان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم۔

اور اگر وہ اپنے قسموں کو توڑ دیں اپنے عہد و پیمان کے بعد۔ ابو الحسن البکالی

۲۳۰۴ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ کو سنا آپ ﷺ نے دونوں رکعات میں (رکوع کے بعد جب سر

اٹھائے) تو (پہلی رکعت میں) ربنا لک الحمد پڑھا اور دوسری رکعت میں بدعا:

اللهم العن فلانا و فلانا دعا علی ناس من المنافقین۔

اے اللہ فلاں فلاں منافقوں پر لعنت فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

لیس لک من الامر شیء، اویتوب علیہم اویعدبہم فانہم ظالمون۔

آپ کو اس امر (بدعا) کا حق نہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے بے شک وہ ظالم ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۲۳۰۵ عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تیرے والد ان لوگوں میں سے تھے:

الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابہم القرح۔

وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات قبول کی بعد ان کو مصیبت پہنچنے کے۔ رواہ مستدرک الحاکم

مہابلہ کا حکم

۲۳۰۶ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں:

تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔

”اؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور (تم بلاؤ) تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو۔“

چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو، عثمان رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو لائے۔ رواہ ابن عساکر

فائدہ: یہ اللہ نے نجران کے نصاریٰ کے ساتھ مہابلہ کا حکم دیا تھا جس میں یہ حضرات شریک ہوئے۔ رواہ ابن عساکر

۲۳۰۷ (مرسل الشعمی رحمۃ اللہ علیہ) شعمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے اہل نجران پر (مہابلہ میں) لعنت کرنے کا

ارادہ کیا تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس خبر دینے والا اہل نجران کی ہلاکت کی خبر لے آیا تھا اگر

ان پر (مہابلہ میں) لعنت پوری ہو جاتی تو وہ اور ان کے ساتھ والے حتیٰ کہ درختوں پر چڑیا اور دیگر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے۔

آپ ﷺ اس خبر کے آنے کے اگلے دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر چل دیئے اور حضرت فاطمہ رضی

اللہ عنہا بھی پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ السنن لسعید بن منصور، مصنف ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن حریر

سورۃ النساء

۲۳۰۸ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! من یعمل سوءً یجزیہ۔ جس نے برائے

کیا اس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت کے بعد کیسے گناہ سے خلاصی حاصل کی جائے، کیا جو بھی برائے سرزد ہوگا اس کی سزا ضرور ملے گی؟

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تیری مغفرت کرے اے ابو بکر! کیا تو مریض نہیں ہوتا؟ کیا تو مشقت میں مبتلا نہیں ہوتا؟ کیا تو رنجیدہ خاطر نہیں

ہوتا؟ کیا تجھے تکلیف نہیں لاحق ہوتی؟ کیا تجھے ناموافق حالات نہیں پیش آتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیوں نہیں۔ تب

آپ ﷺ نے فرمایا: بس یہی تو دنیا ہی ان گناہوں کا بدلہ ہو جاتی ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ہناد، عبد بن حمید، الحارث، العدنی، المروری، فی الجنائز، الحکیم، ابن جریر، ابن المنذر،

مسند ابی یعلیٰ، ابن حبان، ابن السنی فی عمل یوم ولیلۃ، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی، السنن لسعید بن منصور

۲۳۰۹ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

من يعمل سوءً أيجزبه، في الدنيا۔

جس نے برائے عمل کیا اس کو دنیا ہی میں اس کی سزا دے دی جائے گی۔

مسند احمد، الحکیم، البزار، ابن جریر، الضعفاء للعقيلي، ابن مردويه، الخطيب في المتفق والمفتق

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی اسناد درست ہے۔

۴۳۱۰۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں رسول اکرم ﷺ کے پاس تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی:

من يعمل سوءً أيجزبه ولا يجدله من دون الله وليا ولا نصيراً

جس نے برائے عمل کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ اللہ سے بچانے والا کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار پائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر! کیا میں ایک آیت نہ سناؤں جو ابھی مجھ پر نازل ہوئی ہے: میں نے عرض کیا: ضرور یا رسول اللہ! چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے مذکورہ آیت پڑھ کر سنائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ سن کر مجھے اس کے سوا کچھ محسوس نہ ہوا کہ میری کمر ٹوٹ رہی ہے، میں نے آپ ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ہم میں سے کسی شخص سے برے عمل نہیں ہوتے؟ تو کیا ہم کو ہمارے ہر عمل کی سزا ملے گی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر! تم کو اور مومنوں کو ان اعمال کا بدلہ دینا ہی میں دے دیا جائے گا حتیٰ کہ تم اللہ سے اس حال میں ملاقات کرو گے کہ تمہارے سر پر کوئی گناہ نہ ہوگا اور دوسرے (کافر) لوگوں کے یہ بد اعمال اللہ پاک جمع کرتے رہتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو ان اعمال کا بدلہ ملے گا۔

عبد بن حمید، ترمذی، ابن المنذر

کلام: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کی سند میں کلام ہے۔ موسیٰ بن عبیدہ کو حدیث میں ضعف قرار دیا

جاتا ہے، مولیٰ بن سباع مجہول ہے، یہ حدیث اس سند کے علاوہ دوسری سندوں سے بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں۔

۴۳۱۱۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ جب یہ آیت: من يعمل سوءً أيجزبه نازل ہوئی تو

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جو بھی عمل ہم سے سرزد ہوگا اس پر ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اے

ابوبکر! کیا تم کو یہ یہ تکالیف پیش نہیں آئیں؟ پس یہی تکالیف ان گناہوں کا کفارہ ہیں۔ رواہ ابن جریر

۴۳۱۲۔ مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے (بارگاہ رسالت میں) عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ آیت کس قدر

سخت ہے؟ من يعمل سوءً أيجزبه۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابوبکر دنیا کے مصائب، امراض اور رنج و غم یہ گناہوں کی جزاء ہیں۔

السنن لسعيد بن منصور، هناد، ابن جرير، ابو داؤد، حلية الاولياء، ابو مطيع في اغاليه

جہنمیوں کی کھالیں تبدیل ہوں گی

۴۳۱۳۔ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیت تلاوت کی گئی:

كلما نصحت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها۔

جب بھی ان کی کھالیں پیک (کرگل سڑ) جائیں گی ہم دوسری کھالیں ان کو بدل دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کی تفسیر

یہ ہے کہ ہر گھڑی میں سو مرتبہ ان کی کھالیں بدلی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اکرم ﷺ سے یونہی سنا ہے۔

ابن ابی حاتم الاوسط للطبرانی، ابن مردويه

مسند حدیث ضعیف ہے۔

۴۳۱۴ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیت تلاوت کی:

كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيره۔

حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے اس کی تفسیر معلوم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے کعب! وہ تفسیر بیان کرو۔ اگر وہ تفسیر ہماری حضور ﷺ سے سنی گئی تفسیر کے مطابق ہوئی تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: ہر گھڑی میں جہنمی کی کھال ایک سو بیس مرتبہ تبدیل کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اکرم ﷺ سے یونہی سنا ہے۔

زواہ ابن مردویہ

۴۳۱۵ محمد بن المنکثر سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہا: میں کتاب اللہ کی سخت ترین آیت کو جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (مارنے تعجب کے) اس کو مارنے کے لیے لپکے۔ اس شخص نے عرض کیا: آپ کو کیا ہوا! میں نے اس آیت کے بارے میں کھود کر دیکھی تو معلوم کر لیا۔ راوی کہتے ہیں: اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا۔ جب اگلا دن ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی شخص سے پوچھا: بتاؤ وہ کون سی آیت ہے، جس کا تم گزشتہ روز ذکر کر رہے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا:

من يعمل سوءاً أين جزيه۔

جس نے برائے عمل کیا اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا: پس ہم میں سے جو بھی برائے عمل کرے گا اس کی سزا ضرور ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ہمارا یہ حال ہو گیا تھا کہ ہمیں نہ کھانا کچھ فائدہ دیتا تھا اور نہ پینا۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی اور نرمی پیدا کی:

ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيمًا۔

جس نے برائے عمل کیا یا اپنی جان پر کوئی عمل کیا پھر اللہ سے مغفرت مانگی تو وہ اللہ کو مغفرت کرنے والا (اور) مہربان پائے گا۔ ابن زاہویہ

امانت کی ادائیگی

۴۳۱۶ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الي اهلها۔

ترجمہ:..... اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو ادا کرو۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے ان سے فتح مکہ کے دن کعبۃ اللہ کی چابی لے لی تھی۔ پھر آپ ﷺ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور جب واپس لوٹے تو نکلنے ہوئے مذکورہ آیت تلاوت فرما رہے تھے پھر آپ ﷺ نے حضرت عثمان کو بلایا اور ان کو چابی واپس کر دی۔ (اور پھر اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے)۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب کعبۃ اللہ سے نکل رہے تھے اسی وقت آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی اس سے

پہلے ہم نے یہ آیت آپ سے نہیں سنی تھی۔ ابن جریر، ابن المنذر

۴۳۱۷ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمان باری تعالیٰ: کتاب اللہ علیکم کے بارے میں منقول ہے کہ وہ چار ہیں۔ رواہ ابن جریر

فائدہ: فرمان ایزدی ہے

والمحصنت من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراؤذ لکم الخ

اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ۔ حکم ہے اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا۔ پیچھے سے ان عورتوں کا بیان ہو رہا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ لہذا جو عورتیں دوسرے مردوں کے نکاح میں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی قطعاً حرام ہے۔ مگر جو باندیاں ملکیت میں آجائیں ان کی الگ شرائط ہیں اس کا تعلق و امحصنت سے نہیں ہے کہ دوسرے خاوند والی تمہاری ملکیت

کی باندی تمہارے لیے بلکہ یہ مطلقاً حلال عورتوں کا بیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان وہ چار ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے ”اور حلال ہیں تم پر سب عورتیں ان کے سوا“ اس کی تشریح مقصود ہے یعنی ان سب عورتوں میں سے چار آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو اور تمہاری مملوک باندیاں بغیر نکاح و بغیر تعداد کے ان کے علاوہ ہیں۔

۴۳۱۸ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے غلام بخدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کر ایک گھجور کا حصہ اٹھایا اور اس کو مٹی سے صاف کیا۔ پھر ایک حبشی کے مشکیزے کے قریب سے گزر ہوا تو اس کو فرمایا: یہ لے منہ میں ڈال لے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ (جو قریب ہی موجود تھے) بولے: امیر المؤمنین یہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (گھجور کا) تھوڑا سا کھڑا ہے یا ذرہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: نہیں، یہ ذرہ سے زیادہ بڑا کھڑا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے مجھے سورہ نساء میں مذکور فرمان الہی خوب سمجھا گیا:

ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه اجر اعظيما۔
”بے شک اللہ حتیٰ نہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر اور اگر نیکی ہو تو اس کو دو گنا کر دیتا ہے۔ اور دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔“

کہ نیکی ایک ذرہ بھر ہوتی ہے لیکن اللہ پاک اس کو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر اجر عظیم بنا دیتا ہے۔
۴۳۱۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قرآن کی کوئی آیت مجھے اس آیت سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
بے شک اللہ مغفرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور مغفرت کر دے گا اس کے سوا جس کی چاہے۔

الفریابی، مستدرک الحاکم، ترمذی حسن غریب ابن ابی الدنیا فی حسن الظن باللہ تعالیٰ

شراب کے اثرات

۴۳۲۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور ہم کو دعوت پر بلایا۔ دعوت میں ہمیں شراب بھی پلائی (ابھی تک حرمت شراب کا حکم نازل نہ ہوا تھا) چنانچہ شراب میں ہم نے اپنا اثر دکھایا۔ اور نماز کا وقت بھی ہو گیا۔ امامت کے لیے حاضرین نے مجھے آگے کر دیا۔ میں نے قرآنت میں یوں پڑھا:

قل يا ايها الكفرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون۔

جبکہ اصل میں یہ نہیں ہے جس کا معنی ہے اور ہم عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔
چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل کیا:

يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون۔ سورة النساء

اے ایمان والو! نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم مدہوش ہو، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔

عبد بن حمید، ابو داؤد، ترمذی حسن صحیح غریب، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، مستدرک الحاکم، السنن لسعید بن منصور

۴۳۲۱ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

بالجبت والطاغوت۔ سورة النساء

میں جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔

الفریابی، السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم ورسنہ

۴۳۲۲ ابن سمانی ذیل میں فرماتے ہیں: ہمیں ابو بکر حبیب اللہ بن القرن، ابوالقاسم یوسف بن محمد بن یوسف الخطیب، ابوالقاسم عبدالرحمن بن

عمر بن تیمم مؤدب، علی بن ابراہیم بن علان، علی بن محمد بن علی، احمد بن ابیہثم الطائی، حدیث ابی عن ابیہ، عن مسلم بن کھیل عن ابی صادق عن علی بن ابی طالب کی سند سے روایت پہنچی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور اکرم ﷺ کی وفات کے تین یوم بعد جب آپ کے جسم اطہر کو دفن کر چکے تو ایک دیہاتی آیا اور آتے ہی نبی اکرم ﷺ کی قبر سے لپٹ گیا اور قبر کی مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا اور بولا: یا رسول اللہ! آپ نے کہا، ہم نے سنا۔ آپ نے اللہ سے لیا، ہم نے آپ سے لیا اور یہ بھی اسی میں سے ہے جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا:

ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاء وک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول. النساء: ۶۴
لو جددوا اللہ تو ابار حیماء. النسائی

اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول خدا بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو خدا کو معاف کرنے والا (اور) مہربان پاتے۔ اور میں نے بھی اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ چنانچہ قبر سے آواز آئی: تیری مغفرت کر دی گئی۔
کلام: علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”المعنی“ میں ابیہثم بن عدی الطائی کو متروک کیا گیا ہے۔ جس کی بناء پر روایت محل کلام ہے۔

کنز العمال ج ۲ ص ۳۸۶

۴۳۲۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک انصاری (صحابی) نے ان کی اور حضرت عبدالرحمن بن عوف کی دعوت میں شراب بھی پلائی۔ ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی اور نماز میں قل یا ایہا الکفرون سورت تلاوت کی۔ (اور شراب کی مدہوشی کی وجہ سے کچھ کا کچھ بڑھا) چنانچہ اس پر قرآن نازل ہوا:

یا ایہا الذین امنوا لاتقرّبوا الصلوۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ماتقون. النساء: ۴۳
مؤمنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ۔

۴۳۲۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ”فاذا احصن“ عورت کا احصان اس کا اسلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان کو کوڑے مارے جائیں۔ ابن ابی حاتم
فائدہ: سورۃ النساء آیت ۲۵ میں لونڈی کے ساتھ نکاح کے احکام کا بیان ہے جس میں فاذا احصن کے ساتھ یہ حکم بیان ہوا ہے کہ اگر وہ نکاح کے بعد بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو آزاد کے مقابلے میں غلام اور باندی کی نصف سزا ہے۔

پھر حدیث میں احصان سے اسلام مراد ہوتا کر یہ بیان فرمایا کہ نکاح ہو یا نہ ہو لیکن مسلمان ہو تو غلام اور باندی پر نصف سزا ہے۔ اور وہ پچاس کوڑے ہیں۔ اس صورت میں فاذا احصن سے حسن اسلام میں داخل ہونا مراد ہو گا اور حدیث و قرآن میں تعارض نہ ہوگا۔

کنز العمال عربی ج ۲ ص ۳۸۷

کلام: حدیث منکر ہے۔

۴۳۲۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اکبر الکبائر (سب سے بڑا گناہ) کے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا: اللہ کے مکر (عذاب) سے بے خوف ہو جانا، روح اللہ (اللہ کی مہربانی) سے مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ابن المنذر

۴۳۲۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کبیرہ (بڑے) گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، (ناحق) قتل کرنا، مال یتیم کھانا، یا کداسن کو تہمت لگانا، جنگ (اسلامی لڑائی) سے بھاگنا، ہجرت کے بعد مدینہ چھوڑنا، جاو کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، سوڈ کھانا، جماعت اسلام میں پھوٹ ڈالنا

اور امام وقت کی بیعت توڑنا۔ ابن ابی حاتم

فائدہ: ہجرت کے بعد مدینہ چھوڑنا، جس وقت اسلام کے شروع میں ہجرت فرض تھی۔ اس وقت اگر کوئی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد واپس اپنے گاؤں دیہات میں سکونت اختیار کر لیتا تو یہ واقعی کبیرہ گناہ تھا۔ لیکن جب آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی تو یہ

بھی گناہ کبیرہ نہ رہا۔

۴۳۲۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک انصاری شخص رسول اکرم ﷺ کے پاس ایک عورت کو لے کر آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے فلاں ابن فلاں انصاری شوہر نے اس کو اس قدر مارا ہے کہ اس کا اثر اس کے چہرے میں نمایاں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ لیکن اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض - النساء: ۳۲
مرد عورتوں پر مسلط اور حاکم ہیں اس لیے کہ خدا نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے اور اس لیے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مرد ادب سکھانے کے لیے عورتوں پر اپنا حق رکھتے ہیں۔ تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے (مردوں کو عورتوں کے مارنے سے متعلق) ایک حکم کا ارادہ کیا تھا لیکن اللہ پاک نے کچھ اور ارادہ فرمایا۔ رواہ ابن مردویہ

حکم مقرر کرنے کا حکم

۴۳۲۸ عبیدۃ سلمانی سے مروی ہے کہ ایک مرد اور اس کی بیوی (امیر المؤمنین) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر ایک کے ساتھ (ان کی اپنی اپنی برادری) کے کچھ لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو سامنے آنے کا حکم سنایا۔ دونوں گروہوں نے اپنے میں سے ایک ایک ثالث آگے کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں کو فرمایا: تم جانتے ہو تم پر کیا چیز لازم ہے؟ تم پر یہ لازم ہے کہ اگر تم سمجھو کہ وہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر دو۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کے حق میں جدائی بہتر ہے تو جدائی کر دو۔ چنانچہ عورت نے کہا: میں اللہ کی کتاب پر راضی ہوں جو بھی فیصلہ کرے خواہ میرے خلاف ہو یا میرے حق میں اس کے حق میں ہوں۔ جبکہ مرد بولا: جدائی تو مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو غلط بولتا ہے۔ اللہ کی قسم تجھے بھی اس عورت کی طرح اقرار کرنا ہوگا (کہ مجھے ہر صورت میں اللہ کا حکم منظور ہے)۔

الشافعی، عبدالرزاق، السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، شعب الایمان للبیہقی
فائدہ: ... فرمان الہی ہے:

فلا وربک حتی یحکموا فی ما شجر بینہم ثم لایجدوا فی انفسہم حرجاً مما قضیت ویسئلوا

تسلیمان۔ سورۃ النساء: ۶۵

قسم ہے تیرے رب کی ایہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل تنگ نہ کریں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں تب تک مومن نہ ہوں گے۔

اسی آیت بالا کی تشریح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرد کو یہ حکم فرمایا۔ اور جو حکم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی کا خدا نے حکم فرمایا ہے کہ میاں بیوی میں تنازعہ بڑھ جائے تو دونوں اپنی اپنی طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کر دیں اور وہ جو بہتر سمجھیں فیصلہ کر دیں۔

۴۳۲۹ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو حکم (ثالث) مقرر فرمادیتے تھے: ایک مرد کی طرف سے اور دوسرا عورت کی طرف سے۔ عورت کا ثالث (نمائندہ) مرد کو کہتا: اے فلاں! تجھے اپنی بیوی میں کیا برائی نظر آئی ہے؟ مرد کہتا: مجھے اس سے یہ یہ شکایت ہے۔ عورت کا نمائندہ اسے کہتا: کیا خیال ہے اگر وہ ان برائیوں سے دور ہو جائے اور تیری مرضی کے مطابق چلے کیا تو اس کے بارے اللہ سے ڈرے گا اور اس کا حق جو تجھ پر لازم ہے۔ نان نفقہ اور لباس کے بارے میں پورا ادا کرے گا؟ پس وہ مرد کہتا: ہاں۔ تب پھر مرد کا نمائندہ عورت سے بات کرتا: اے فلاں! تجھے اپنے شوہر میں کیا عیب دیکھا؟ وہ کہتی: مجھے اس سے یہ شکایت ہے۔ چنانچہ مرد کا نمائندہ بھی عورت کے نمائندہ سے کی طرح پوچھ بچھ کرتا اور عورت اس پر رضامند ہو جاتی تو دونوں نمائندہ دونوں کو اکٹھا کر دیتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: دونوں نمائندہ سے میاں بیوی کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور دونوں جدا کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔

رواہ ابن جریر

۴۳۳۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر ایک نماز سجدہ ایک فیصلہ کر دے لیکن دوسرا وہ فیصلہ نہ کرے تو پہلے کا حکم بھی کالعدم ہوگا حتیٰ کہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں۔ السنن للبیہقی
فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

وان خفتن شقاق بینہما فابعدوا حکماً من اہلہ و حکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیہما خبیراً۔ النساء: ۳۵

اور اگر تم کو معلوم ہو کہ میں بیوی میں ان بن ہے تو ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے مقرر کرو۔ وہ اگر صلح کرنا چاہیں گے تو خدا ان میں موافقت پیدا کر دے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور سب باتوں سے خبردار ہے۔
مذکورہ چار احادیث اسی بات کی شرح میں بیان کی گئی ہیں۔

۴۳۳۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
والمصاحب بالجنب۔ النساء: ۳۶

اور حسن سلوک کر دینا پہلو کے پڑوسی کے ساتھ اس سے مراد بیوی ہے۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، السنن للبیہقی
۴۳۳۲ ولا جنب الا عابری سبیل اور نہ جنبی حالت میں (نماز کے پاس جاؤ) الا یہ کہ بحالت سفر ہو۔ (اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔)

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مسافر ہو اور اس کو چٹھبت لاحق ہو جائے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے جب تک پانی نہ ملے۔ الفریابی، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، السنن للبیہقی
۴۳۳۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللمس سے مراد جماع (ہم بستری) ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کو کنیت (اشارے) کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، شعب الایمان للبیہقی
فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

اولمستم النساء فلم تجدوا ماءً فتمیموا اصعباً طیباً۔ النساء: ۴۳
یاقم عورتوں کو چھو لو (یعنی ہم بستری کر لو) اور پانی نہ لادو تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح (کر کے تیمم) کر لو۔
مذکورہ حدیث اسی آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔

۴۳۳۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا:

وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً الخ۔ النسائی: ۱۲۸

اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ کسی قرار داد پر صلح کر لیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں یہ علم اسی لیے ہے کہ اسی سے نفع اٹھایا جائے۔ ایسے ہی سوالات کیا کرو۔ پھر فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کی دو بیویاں ہیں۔ ایک عورت بوڑھی ہو گئی ہے یا وہ بد صورت ہے اور شوہر اس کو الگ کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت مرد سے اس قرار داد پر صلح کر لے کہ وہ اس کے پاس ایک رات جبکہ دوسری کے پاس گئی (متعین) راتیں قیام کرے لیکن اس کو اپنے سے الگ نہ کرنے۔ اگر عورت کو اس پر اطمینان ہو تو مرد کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر اگر عورت اچھی حالت پر لوٹ آئے تو مرد پھر دونوں کے درمیان برابری کرے۔

ابوداؤد الطیالسی، ابن ابی شیبہ، ابن زاہویہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، الصابونی فی المتائین، السنن للبیہقی

۴۳۳۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرتد کے بارے میں فرمایا: اگر میں ہوتا تو تین مرتبہ اس کو توبہ کرنے کی ترغیب دیتا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

ان الذین امنوا ثم کفرو ثم اذادوا کفراً الخ. النساء: ۱۳۷
جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کو خدا نہ تو بخشے گا نہ سیدھا راستہ

دکھائے گا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو ذر الہروی فی الجامع

۴۳۳۶..... حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کا حکم تو ہے:

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً. النسانی: ۱۴۱

اور خدا کافروں کو ہرگز مؤمنوں پر غلبہ نہ دے گا۔

جبکہ کفار ہم سے لڑتے ہیں اور غالب آجاتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قریب ہو جا! قریب ہو جا! قریب! پھر فرمایا: (پوری آیت پڑھو)

فإن الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً

تو خدا قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور خدا کافروں کو مؤمنوں پر ہرگز غلبہ نہ دے گا۔

مستدرک الحاکم، الفریابی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، البعث للبيهقي

۴۳۳۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً سے مراد ہے آخرت میں اللہ مؤمنوں پر

کافروں کو غلبہ نہ دے گا۔ رواہ ابن جریر

۴۳۳۸ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمنكم۔ النساء: ۲۴

ترجمہ: اور شوہروالی عورتیں بھی (تم پر حرام ہیں) مگر وہ جو (قید ہو کر لوٹدیوں کے طور پر) تمہارے قبضے میں آجائیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ آیت بالا کی تفسیر میں فرماتے ہیں شرک عورتیں جب قید ہو کر آجائیں تو (جس کے حصے میں شرعاً آئیں) اس کے

لیے حلال ہو جاتی ہیں (خواہ وہ اپنے وطن میں شادی شدہ ہوں)۔ الفریابی، ابن ابی شیبہ، الکبیر للطبرانی

کلالہ کی میراث کا حکم

۴۳۳۹ حضرت براء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یہ ہے:

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله الخ. النساء: ۱۷۶

اے پیغمبر لوگ تم سے (کلالہ کے بارے میں) حکم (خدا) دریافت کرتے ہیں۔

یعنی یہ کمال آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ اور یہی آیت سورۃ النساء کی آخری آیت ہے۔ مصنف بن ابی شیبہ

۴۳۴۰ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا زید کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اور اس کو کہو کہ بڑی، دوات اور تختی بھی لیتے

آؤ۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا: لکھو:

لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله۔ النساء: ۹۵

جو مسلمان (گھروں میں) بیٹھے رہتے (اور لڑنے سے جی چراتے) ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور

جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔

ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے تو آنکھوں میں تکلیف ہے۔ تو سیاہی خشک ہونے سے قبل یہ نازل ہوا غیسرا ولی

الضرر یعنی جن کو کوئی تکلیف اور عذر نہ ہو۔

ہجرت کے موقع پر قریش کا انعام مقرر کرنا

۴۳۴۱۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سراقہ بن مالک مدحی رضی اللہ عنہ نے ان کو بیان فرمایا کہ (ہجرت رسول کے موقع پر) قریش نے حضور ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لانے والے کے لیے چالیس اوقیہ کا انعام رکھا۔ چنانچہ میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ قریش نے جن کے بارے میں انعام مقرر کیا ہے وہ دونوں تیرے قریب ہیں، فلاں فلاں جگہ پر۔ چنانچہ میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا جو چراہ گاہ میں چر رہا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور اپنا نیزہ نکال لیا۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ بار بار نیزے کو بلند کر رہا تھا کہ کہیں دوسرے لوگ ان دونوں کو مجھ سے پکڑ لیں۔ جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حضور ﷺ کو فرمایا: یہ باغی (تلاش کرنے والا) ہے جو ہم کو تلاش کر رہا ہے۔ حضور ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے اور بدعا کی یا اللہ اس کو ہماری طرف سے کافی ہو جائیے تو چاہے۔ چنانچہ میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا حالانکہ وہ سخت (پتھر ملی) زمین تھی حتیٰ کہ میں ایک چٹان پر گر گیا۔ پھر حضور ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے تو میں نے کہا: اس ذات سے دعا کیجیے جس نے میرے گھوڑے کے ساتھ یہ حال کیا ہے کہ وہ اس کو خلاصی مرحمت فرمائے۔

اور میں نے آپ سے یہ معاہدہ بھی کیا کہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ لہذا آپ ﷺ نے دعا کی تو گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ تب رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: کیا تم یہ گھوڑا مجھے بہہ کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے مجھے اشارہ کر کے فرمایا: تم یہاں رہو اور لوگوں کو ہم سے اندھا کر دو۔ پھر رسول اکرم ﷺ ساحل کے کنارے کنارے چلے گئے۔ میں شروع دن میں (آپ کا دشمن ہو کر) آپ کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اور دن ڈھلے آپ کا محافظ سپاہی تھا۔ اور آپ نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب ہم مدینہ میں ٹھکانہ پکڑ لیں اور تم آنا چاہو تو ہمارے پاس چلے آنا۔

چنانچہ جب (کچھ عرصہ بعد) آپ بدر واحد میں کامیاب ہوئے اور گرد و پیش کے لوگ اسلام لے آئے تو مجھے یہ خبر ملی کہ حضور ﷺ نے (میرے قبیلے) بنی مدح کے پاس خالد بن ولید کی امارت میں لشکر بھیجنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ یہ سن کر میں آپ ﷺ کی خدمت میں آیا اور آپ کو گذشتہ حق کا واسطہ دیا۔ لوگوں نے مجھے چپ ہونے کو کہا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: مجھے خبر ملی ہے کہ آپ خالد بن ولید کو میری قوم کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے (یعنی میری قوم سے) صلح کر لیں۔

اگر (عرب کی قریش) قوم اسلام لے آئی تو وہ بھی اسلام لے آئیں گے اور اگر اسلام نہ لائی تو بھی ہماری قوم کے دل ان سے سخت نہ ہوں گے۔ آپ ﷺ نے خالد بن ولید کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اس کے ساتھ جاؤ اور جو یہ چاہتے ہیں ویسا ہی کرو۔ اگر قریش قوم اسلام لے آئی تو یہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ تب اللہ پاک نے یہ فرمان نازل کیا:

وَدُوًّا لِّلْكَافِرِينَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ الْخ

الَّذِينَ يَصِلُونَ قَوْمًا إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ الْخ. النساء: ۸۹-۹۰

وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں (اسی طرح) تم بھی کافر ہو کر (سب) برابر ہو جاؤ تو جب تک وہ خدا کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ۔ اگر (ترک وطن کو) قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ نکل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ (۸۹) مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں (صلح کا) عہد ہو یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رُک گئے ہوں تمہارے پاس آجائیں (تو احتراز کرنا ضروری نہیں) اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور لڑیں نہیں اور تمہاری طرف صلح (کا پیغام) بھیجیں تو خدا نے تمہارے لیے ان پر (زبردستی کرنے کی) کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذین حصرت صدورہم جن کے دل لڑنے سے رک جائیں، اس سے مراد بنی صالح ہیں اور جو لوگ بنی مدح کے ساتھ جا لیں ان کے ساتھ بھی مذکورہ صلح ہوگی۔ ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، ابو نعیم فی الدلائل اس روایت کی سند حسن ہے۔

بلا تحقیق کسی اقدام سے ممانعت

۴۲۳۲۲ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کو ابو خالد احمر نے عن ابن اسحاق عن یزید بن عبد اللہ بن ابی قیط عن القعقاع بن عبد اللہ بن ابی ہریرہ اسلمی عن ابیہ کی سند سے بیان کیا ہے،

عبد اللہ بن ابی ہریرہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حضور ﷺ نے اضم (قبیلے) کی طرف ایک لشکر کے ساتھ بھیجا۔ ہم سے عامر بن اضم نے ملاقات کی اور اسلام والا سلام کیا۔ چنانچہ ہم اس کو تکلیف پہنچانے سے رک گئے لیکن محلم بن جثامہ نے اس پر ہتھیار اٹھایا اور قتل کر ڈالا اور اس کا اونٹ، لباس اور ہتھیار قبضے میں کر لیا۔ جب ہم مدینہ آئے تو حضور ﷺ کو محلم کی ساری خبر سنائی تب یہ آیت نازل ہوئی:

يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فبينوا - الخ. النساء: ۹۲

مؤمنو! جب تم خدا کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم سے سلام علیک کرنے اس سے یہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو خدا کے نزدیک بہت سی چیزیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے،

پھر خدا نے تم پر احسان کیا۔ تو (آئندہ) تحقیق کر لیا کرو۔ اور جو عمل تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے۔ النساء: ۹۲

۴۲۳۳۳ سدی عن ابی صالح عن ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ سر یہ (لشکر) میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یا سر بھی تھے۔ یہ لشکر نکلا اور جس قوم کے پاس پہنچنے کا ارادہ تھا صبح کے قریب وہ ان کے پاس پہنچے۔ لہذا یہ لشکر پہلے ہی ایک جگہ ٹھہر گیا۔ اس قوم کو کسی نے ڈرایا اور وہ راتوں رات جہاں ممکن ہوا بھاگ گئے۔ لیکن ان میں سے ایک شخص وہیں رک گیا اور وہ اور اس کے اہل خانہ اسلام لاپچکے تھے۔ وہ ان کو سوار کر کے لشکر کے پاس لایا اور بولا تم یہیں ٹھہرو میں آتا ہوں۔ پھر وہ حضرت عمار بن یا سر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بولے اے ابوالیقظان! میں اور میرے گھر والے اسلام لاپچکے ہیں۔ اگر میں یہیں ٹھہرا رہا تو مجھے کچھ فائدہ ہے، آپ مجھے امان دے سکتے ہیں؟ جبکہ میری قوم آپ کا سنتے ہی بھاگ چکی ہے۔

حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو فرمایا تم یہیں ٹھہر سکتے ہو میں تم کو امان دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ چلا گیا۔ صبح کو حضرت خالد نے قوم پر لشکر کشی کی تو وہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ملا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو فرمایا اس شخص پر تمہارا کوئی اختیار نہیں، یہ اسلام لاپچکا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم اس کو امان دیتے جبکہ امیر میں ہوں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں میں اس کو امان دیتا ہوں اگرچہ تم امیر ہو۔ آدمی ایمان لاپچکا ہے۔ اگر یہ چاہتا تو جاسکتا تھا۔ جیسے اس کے ساتھی چلے گئے۔ لیکن میں نے اس کو ٹھہرنے کا کہا ہے۔ دونوں صحابیوں کا اس کے بارے میں تنازعہ کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ ایک دوسرے کو کچھ کچھ کہنے لگے۔

جب دونوں حضرات مدینہ آئے تو رسول اکرم ﷺ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی امان کو جائز قرار دیا۔ لیکن ساتھ ہی عام ممانعت بھی فرمادی کہ کوئی شخص امیر کے ہوتے ہوئے امان نہ دے۔ یہاں بھی دونوں حضرات حضور ﷺ کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! دیکھئے یہ غلام آپ کے پاس مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو یہ مجھے یوں نہ کہہ سکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: خالد! بس کرو عمار کو چھوڑو، جو عمار سے بغض رکھے گا اللہ عزوجل اس سے بغض رکھے گا۔ جو عمار کو لعنت کرے گا اللہ اس پر لعنت کرے گا۔ پھر عمار رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر چل دیئے۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ کو بھی تنبیہ ہوئی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور عمار رضی

اللہ عنہ کے پیڑے پکڑ کر ان کو راضی کرنے لگے حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے رضامند ہو گئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله

والرسول ذلك خبير واحسن تاويلاً. النساء: ۵۹

اے مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔ اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو جائے تو اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا اور اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ رواہ ابن جریر

۲۳۳۳..... ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر بھیجا۔ لشکر میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ لشکر قریش کے کسی قبیلے یا قبیلہ قیس کی طرف بھیجا گیا تھا۔ جب لشکر قوم کے قریب پہنچ گیا تو کسی نے جا کر قوم کو حملہ آور لشکر کی خبر دی۔ لہذا وہ سب بھاگ گئے سوائے ایک شخص اور اس کے اہل خانہ کے، چونکہ وہ اپنے گھر والوں سمیت اسلام قبول کر چکا تھا۔ وہ شخص (سوار ہو کر لشکر کے پاس آیا اور) اپنے گھر والوں کو بولا تم یہیں کجا دے میں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص چل کر لشکر میں داخل ہوا اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا: اے ابوالیقظان! میں اپنے گھر والوں سمیت اسلام قبول کر چکا ہوں کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یا پھر میں بھی اپنی قوم کی طرح راہ فرار اختیار کر لوں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا: تو اپنے گھر ٹھہر جا تجھے امن ہے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ لوٹ گیا اور اپنے ٹھکانہ پر ٹھہر گیا۔ صبح کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قوم پر لشکر کشی کی تو دیکھا کہ ساری قوم راتوں رات نکل چکی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس ایک باقی رہ جانے والے شخص کو پکڑ لیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو فرمایا: تم کو اب اس شخص پر کوئی اختیار نہیں۔ میں اس کو امن دے چکا ہوں۔ اور یہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمہارا اس سے کیا تعلق؟ میرے امیر ہوتے ہوئے بھی آپ اس کو کیسے امن دے سکتے ہو؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں میں نے اس کو امن دیا ہے حالانکہ آپ امیر ہیں۔ یہ آدمی چونکہ اسلام لا چکا ہے اگر یہ چاہتا تو اپنی قوم کی طرح جا سکتا تھا۔ یونہی بات بڑھ گئی اور دونوں حضرات میں تنازعہ کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ جب مدینہ واپس آئے تو دونوں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا سارا حال سنایا جس کو انہوں نے امان دی تھی۔ حضور ﷺ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی امان کو درست قرار دیا۔ لیکن اسی روز آپ ﷺ نے عام ممانعت بھی فرمادی کہ کوئی شخص اپنے امیر کی موجودگی میں کسی کو امان اور پناہ نہ دے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے درمیان حضور کی موجودگی میں بھی تنازعہ اٹھ گیا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے خالد! رک جاؤ عمار کو کچھ کہنے سے۔ جو عمار سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے اور جو عمار پر لعنت کرتا ہے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر چل دیئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے چل دیئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے پیڑے پکڑ لیے اور ان کو راضی کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ اسی بارے میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله

والرسول ذلك خبير واحسن تاويلاً. النساء: ۵۹. ابن عساکر

یہ حدیث سند حسن کے ساتھ منقول ہے۔
۲۳۳۵..... پولس بن محمد بن فضالہ ظفری اپنے والد محمد بن فضالہ سے روایت کرتے ہیں، پولس کہتے ہیں میرے والد اور میرے دادا حضور ﷺ کے اصحاب میں سے تھے۔ ایک نبی کریم ﷺ ان کے قبیلہ بنی ظفر میں تشریف لائے۔ بنی ظفر کی مسجد میں ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور کچھ دوسرے اصحاب تھے۔ آپ ﷺ نے قاری کو حکم دیا کہ میں سے قرآن پڑھیں۔ قاری جب اس آیت پر پہنچا:

فكيف اذا جننا من كل امة بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدا. النساء: ۴۱

بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہر امت سے حال بتانے والے کو بلائیں گے اور آپ کو ہر حال بتانے کے لیے گواہ طلب کریں گے۔
یہ سن کر آپ ﷺ رو پڑے حتیٰ کہ آپ کی ریش مبارک اور آپ کا جسم اظہر بھی لرزنے لگا۔ آپ نے فرمایا: اے پروردگار! میں جن لوگوں کے درمیان ہوں ان پر گواہی دیتا ہوں پھر جن کو میں نے دیکھا نہیں ان پر میں کیسے گواہی دوں گا۔

ابن ابی حاتم، حسن بن سفیان، البغوی، الکبیر للطبرانی، المعرفة لابن نعیم، ابن النجار

حدیث حسن ہے۔

سورة المائدہ

۴۳۴۶..... (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس آیت

احل لکم صید البحر و طعامہ . مائدہ: ۹۶

حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام۔

کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ سمندر کا شکار وہ ہے جس پر تم قابو پاؤ اور اس کا طعام وہ ہے جو سمندر تمہاری طرف پھینک دے۔

ابو الشیخ، ابن مردویہ

سمک طافی حلال نہیں

فائدہ:..... پانی کی موجیں جس سمندری جانور کو باہر پھینک دے وہ حلال ہے۔ لیکن سمک طافی یعنی وہ مچھلی اور سمندری جانور جو سمندر میں مر کر لٹا ہو جائے اور پانی کے اوپر لٹا پڑا ہو وہ حلال نہیں ہے۔

۴۳۴۷..... بکر مدحمتہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے:

احل لکم صید البحر و طعامہ . المائدہ: ۹۶

تمہارے لیے دریا (کی چیزوں) کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرمایا: سمندر کا شکار وہ ہے جس کو ہمارے ہاتھ شکار کریں اور سمندر کا طعام وہ ہے جو سمندر باہر پھینک دے۔

(روایت کے) دوسرے الفاظ یہ ہے طعامہ کل مافیہ یعنی سمندر کا طعام ہر وہ چیز جو سمندر میں ہے۔ اور ایک اور (روایت کے) الفاظ یہ

ہیں: طعامہ مینتہ سمندر کا طعام اس کا مدار ہے۔ مصنف عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ

فائدہ:..... تینوں معانی درست ہیں لیکن تمام صورتوں سے وہ مدار مستثنیٰ ہے جو سمندر میں مر کر اوپر آ جائے اور پانی پر لٹا ہو جائے۔ یہ

حرام ہے۔

۴۳۴۸..... حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا:

احل لکم صید البحر و طعامہ متاعاً لکم . المائدہ: ۹۶

فرمایا: طعامہ سے مراد وہ ہے جو سمندر (باہر) پھینک دے۔ عبد بن حمید، ابن جریر

۴۳۴۹..... ابو لطفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سمندر کے مردہ جانور کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی

اللہ عنہ نے فرمایا: سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مدار حلال ہے۔ الدارقطنی فی العلل، ابو الشیخ صحیح، ابن مردویہ، السنن للبیہقی

فائدہ:..... سمندر کا بلکہ ہر پانی کا جانور مردہ ہی کھایا جاتا ہے وہ بغیر ذبح کیے حلال ہوتا ہے۔

۳۳۵۰... (مسند عمر رضی اللہ عنہ) طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: یا امیر المؤمنین! آپ لوگ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر ہم یہود پر وہ نازل ہوئی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں استفسار فرمایا تو یہودی نے کہا:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً - المائدہ ۳۰
 آخر آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کا دین پسند کیا۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں یہ آیت کس دن حضور ﷺ پر نازل ہوئی اور کس گھڑی نازل ہوئی۔ جمعہ کے دن عرفہ کی شام کو یہ نازل ہوئی تھی۔ (اور یہ ہماری عید ہی کا دن ہے)۔

مسند احمد، مسند الحمیدی، عبد بن حمید، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن حریب، ابن المنذر، ابن حبان، شعب الایمان للبیہقی فائدہ: امام قرطبی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ آیت ہجرت کے دسویں سال جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی اور اس دن عرفہ کا دن بھی تھا اور حضور ﷺ کا حجۃ الوداع تھا۔ آپ ﷺ اپنی اعضاء نامی اونٹنی پر عرفات کے میدان میں لوگوں کو حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے، اسی حال میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس وحی کی وجہ سے اونٹنی پر اس قدر بوجھ پڑا قریب تھا کہ (اس کی پسلیاں) ٹوٹ جاتی حتیٰ کہ اونٹنی بیٹھ گئی۔

تفسیر القرطبی ۶۱/۶ ذیل آیت ۹۳ المائدہ

دین اسلام مکمل دین ہے

۳۳۵۱ ابوالعالیہ سے مروی ہے ہم لوگ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھے کہ لوگوں نے اسی آیت کا ذکر کیا "اليوم اكملت لكم دينكم" ایک یہودی شخص نے کہا: اگر ہم کو معلوم ہو جاتا یہ آیت کس دن نازل ہوئی تو ہم اس دن کو یوم العید بنا لیتے۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اس دن کو ہمارے لیے (پہلے ہی سے) عید کا دن اور سب سے پہلا دن بنا دیا۔ یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اس سے اگلا دن قربانی کا دن تھا۔ پس اللہ نے اس دن اپنا امر دین کامل اور مکمل کر دیا اور ہم نے بھی جان لیا کہ اس (دن) کے بعد (دین کا) معاملہ کمی ہی کا شکار ہوگا۔ ابن راہویہ، عبد بن حمید
 فائدہ: عرفہ کا دن ہمارے لیے بڑی عید کا پیش خیمہ ہے اور اسی دن جمعہ کا دن بھی تھا جو تخلیق میں سب سے اول دن ہے اور فضیلت میں تمام دنوں کا سردار ہے اور یہ جو فرمایا کہ اس کے بعد دین کمی کا شکار ہوگا۔ کیونکہ ہر شے تکمیل کے بعد فوراً زوال کی طرف دوڑنا شروع ہو جاتی ہے جس طرح چاند چودھویں رات کو مکمل ہوتے ہی گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج تک دین میں کس قدر کمی واقع ہو چکی ہوگی۔ اللہم احفظنا

فی دینا

۳۳۵۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا - آل عمران ۹۷

اور لوگوں پر خدا کا حق (فرض) ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی قدرت رکھے وہ اس کا حج کرے۔

تو لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا ہر سال (حج فرض) ہے؟ آپ ﷺ جو ابنا خاموش رہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا: کیا ہر سال (حج فرض) ہے؟ آپ ﷺ پھر بھی خاموش رہے۔ لوگوں نے تیسری بار پوچھا: کیا ہر سال (حج فرض) ہے؟

تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہیں، اگر میں ہاں کر دیتا تو (ہر سال واجب) ہو جاتا۔ پھر اس پر سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی:

يا ايها الذين آمنوا لا تتسألوا عن اشياء ان تبدلكم تسموكم الخ - المائدہ ۱۰۱

مؤمنو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر (ان کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اور اگر قرآن

کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ (اب تو) خدا نے ایسی باتوں (کے) پوچھنے سے روک رکھا ہے اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔

مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند ابی یعلیٰ، عقیلی، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، الخطیب فی التاريخ، مستدرک الحاکم، الدارقطنی کلام:..... امام ترمذی اس روایت کو اس سند کے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ امام عقیلی نے بھی اس کو الضعفاء میں ذکر فرمایا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس روایت پر (سندا) کلام نہیں کیا حالانکہ اس کی سند میں ضعف اور انقطاع ہے۔ اتنی (لیکن یہ روایت اور طرق سے بھی مروی ہے روایت کا مضمون صحیح اور مستند ہے)۔ کنز العمال ج ۲ ص ۳۰۰

۲۳۵۳ الیوم اکملت لکم دینکم۔ المائدہ: ۳۰

آج میں نے تم پر اپنا دین کامل کر دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت آپ ﷺ پر عرفہ کے دن شام کو نازل ہوئی جس وقت آپ کھڑے (ہو کر خطبہ دے

رہے) تھے۔ ابن جریر، ابن مردویہ

۲۳۵۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر نماز کے وقت وضوء فرماتے تھے اور یہ آیت پڑھتے تھے:

یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة الخ المائدہ: ۶

اے ایمان والو! جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھولیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں (دھولیا کرو)۔

ابن جریر، النحاس فی ناسخہ

فائدہ:..... اگرچہ یہ حکم بے وضوء ہونے کی حالت میں ہے۔ لیکن چونکہ اس آیت میں مطلقاً یہ حکم فرمایا گیا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کمال تقویٰ و طہارت کی بناء پر ہر نماز کے وقت نیا وضوء فرماتے تھے۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

۲۳۵۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وارجلکم کو (فتح کے ساتھ) پڑھا اور فرمایا یہ حکم غسل کی طرف لوٹ گیا ہے۔

السنن لسعید بن منصور، ابن المنذر، ابن ابی حاتم

فائدہ:..... چونکہ مذکورہ آیت میں پہلے منہ اور ہاتھ دھونے کا حکم ہے پھر پاؤں کا حکم ہے۔ اگر ارار جلکم میں لام کو کسرہ (زیر) کے ساتھ پڑھیں تو پاؤں کے مسح کا حکم مراد ہوتا (موزے پہننے کی صورت میں) لیکن فتح وارجلکم فتح (زیر) کے ساتھ ہے جس کا مطلب ہوگا پاؤں بھی دھونے کے حکم میں ہیں۔ یہی مطلب ہے عادالی الغسل کا۔

قائیل اور ہائیل کا واقعہ

۲۳۵۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: جب آدم کے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا:

تغیرت البلاد ومن علیہا

شہر اور ان پر بسے والے بدل گئے۔

فلون الارض مغیر قبیح

زمین کا رنگ بھد اور غبار آلود ہو گیا۔

تغیر کل ذی لون و طعم

ہر رنگ اور ذائقہ پھیکا پڑ گیا۔

وقل بنشاشة الوجه المليح
خوبصورت چہروں کی تروتازگی بھی جاتی رہی۔

حضرت آدم علیہ السلام کو جواباً کہا گیا:

اباھابیل قدقتلا جمیعا

اے اباھابیل کے باپ! تیرے دونوں بیٹے قتل ہو گئے۔

وصار الحی بالمیت الذبیح

زندہ بھی ذبح کیے ہوئے مردار کی طرح ہو گیا۔

وجاء بشرة قدکان منه

وہ (قاتل) ایسا شہرے لکرایا جو اس سے شروع ہوا ہے۔

علی خوف فجاء بها یصبح

اب وہ خوف زدہ ہے اور چیخ و پکار کرتا ہے۔ رواہ ابن جریر

فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

واتل علیہم نبأ نبی آدم بالحق۔ المائدہ: ۲۷

اور (اے محمد) ان کو آدم کے دو بیٹوں (ہابیل اور قابیل) کے حالات (جو بالکل) سچے (ہیں) پڑھ کر سنا دو۔

سورۃ مائدہ کی ۲۷ تا ۳۱ آیات میں آدم علیہ السلام کے انہی دو بیٹوں کا مفصل واقعہ مذکور ہے۔ جس کی مزید تفصیل تفسیر کی کتب میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں اس واقعہ سے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ اشعار ذکر کیے گئے ہیں۔ امام نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی شعر نہیں کہا۔ اور شعر کہنے کی ممانعت آپ ﷺ سمیت تمام انبیاء کو ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ جب قابیل نے ہابیل کو قتل کیا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سریانی زبان میں اپنے بیٹے کی وفات پر بطور غم و مرثیہ کے کچھ باتیں کہیں۔ جو سریانی زبان میں مرتب ہو گئیں۔

پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو مرثیہ کے یہ کلمات یاد رکھنے کی تلقین کی یہ کلمات وراثتاً منتقل ہوتے ہوتے یعر بن قحطان تک پہنچے (اور یہی یعر عربی زبان کے اول موجد تھے) پھر ان کلمات کو عربی زبان میں شعری طرز پر نقل کر لیا گیا۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اشعار کو یعر کی طرف منسوب کرنا بھی درست نہیں۔

تفسیر القرطبی ۱۴۰۶/۱ وانظر الابیات فی (میزان الاعتدال ۱۵۴/۱

۴۳۵۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے "السحت" کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس سے مراد رشوت ہے، پوچھ

گیا حکم میں؟ فرمایا: تب تو کفر ہے۔ عبد بن حمید

فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

سمعون للكذب اكلون للسحت الخ۔ المائدہ: ۴۲

(یہ لوگ) چھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے اور رشوت کا حرام مال کھانے والے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر مذکورہ حدیث ہے۔ نیز فرمایا: حکم میں کفر ہے۔ سائل کا پوچھنے کا مقصد تھا کہ اگر رشوت سرکاری حکام لیں تب اس کا حکم ہے فرمایا: (ان کے لیے یہ رشوت لینا) کفر ہے۔

حرام خوری کے آٹھ دروازے

۲۳۵۸... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابواب السحت (حرام خوری کے دروازے) آٹھ ہیں سب سے بڑی حرام خوری حکام کارشوت لینا ہے اور زانیہ کی کمائی، بزکوٰۃ خفی کرانے کی اجرت، مردار کی قیمت، شراب کی قیمت، کتے کی قیمت، حجام کی کمائی اور کاہن (نجومی) کی اجرت یہ سب حرام خوری کے باب ہیں۔ ابو الشیخ

۲۳۵۹... حضرت علی رضی اللہ عنہ اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین۔ (المائدہ کا معنی بیان فرماتے ہیں مؤمن اپنے دین والوں کے ساتھ نرم رویہ اور کافروں کے لیے سخت رویہ ہیں، نیز فرمایا مؤمنوں کے لیے دین میں جو بھی مخالف ہیں مؤمن ان کے لیے سخت ہیں۔ رواہ ابن جریر

ڈاکوؤں کی سزا

۲۳۶۰... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بنی فزارہ کے کچھ لوگ حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو لاغری اور کمزوری کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو رہے تھے۔ حضور ﷺ نے ان کو بیت المال کی اونٹنیوں کا دودھ پینے کا حکم فرمایا چنانچہ وہ اونٹنیوں کا دودھ پیتے رہے حتیٰ کہ صحت یاب ہو گئے۔ لیکن پھر انہوں نے اونٹنیاں چرائیں اور ان کو لے کر بھاگ گئے۔ ان کی تلاش میں لوگوں کو دوڑایا گیا۔ آخر وہ پکڑ کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کر دیئے گئے۔ آپ ﷺ نے ان کے (مخالف سمتوں سے) ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھر وادی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ آیت نازل ہوئی:

انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً الخ۔ المائدہ: ۳۳

جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی یہی سزا ہے کہ قتل کر دیئے جائیں یا سولی چڑھا دیئے جائیں یا ان کے ایک ایک طرف کے ہاتھ اور ایک ایک طرف کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں یا ملک سے نکال دیئے جائیں۔ یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر حضور ﷺ نے ڈاکوؤں کی آنکھوں میں گرم سلائی پھر وانا بند کر دی۔ رواہ عبدالرزاق

۲۳۶۱... زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

میں اس شخص کو جانتا ہوں جس نے سب سے پہلے بحیرہ جانوروں کی رسم ڈالی۔ وہ بنی مدینہ کا ایک شخص تھا اس کے پاس دو اونٹنیاں تھیں۔ اس نے دونوں اونٹنیوں کے کان کاٹ ڈالے اور ان کا دودھ پینا اور ان کا گوشت کھانا حرام قرار دیا۔ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا کہ وہ دونوں اونٹنیاں اپنے کھروں کے ساتھ اس کو روندتی پھرتی ہیں اور اپنے منہوں کے ساتھ اس کو کاٹتی پھرتی ہیں۔ اور میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے سب سے پہلے سائبہ جانوروں کی رسم ڈالی، تیروں کے حصے مقرر کیے اور ابراہیم علیہ السلام کے عہد کو بگاڑ دیا وہ عمرو بن لُحی ہے۔ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا کہ وہ اپنی آنتیں کھینچتا پھرتا ہے۔ اور اس کی آنتوں کی وجہ سے اہل جہنم کو بھی بڑی تکلیف کا سامنا ہے۔

عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ

فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

ما جعل اللہ من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام۔ المائدہ: ۱۰۳

خدا نے نہ تو بحیرہ کچھ چیز بنایا ہے اور نہ سائبہ اور نہ وصیلہ اور نہ حام۔

بحیرہ عرب کے مشرکین اونٹنی کے کان کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے، یہ بتوں کی نذر ہو جاتی تھی اس کا دودھ پینا ممنوع ہو جاتا تھا سائبہ جانور جو

بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا۔ وصلہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ بچے جنے درمیان میں کوئی نہ بچہ نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ حام ایسا ز اونٹ جو خاص تعداد میں نجفتی کر چکا ہو اسکو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سب طریقے کفر و شرک تھے۔ کیونکہ خدا کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرانا کفر اور بتوں کی نذر کرنا شرک ہے۔

۴۳۶۲..... حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ بنی سلیم کے کچھ لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم اسلام لائے ہیں لیکن ہم کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ (جس کی وجہ سے ہم مریض ہو گئے ہیں۔) آپ ﷺ نے فرمایا: تم (مدینہ سے باہر) میری اونٹنیوں میں چلے جاؤ وہ صبح و شام تمہارے پاس آئیں گی تم ان کا دودھ پیتے رہنا۔ چنانچہ وہ گئے لیکن انہوں نے حضور ﷺ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ نبی ﷺ نے سزا میں ان کی شکل بگاڑ دی تب یہ حکم نازل ہوا:

انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً الخ المائدہ ۲۳۰
ایک حدیث سے پہلے اس کا ترجمہ گزر چکا ہے۔

پیشاب پینا حرام ہے

۴۳۶۳..... عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ سے اونٹوں کے ابوال (پیشاب) کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے حضرت سعید بن جبیر (ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد) نے محاربین (ڈاکوؤں) کا قصہ سنایا فرمایا کہ کچھ لوگ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور بولے: ہم اسلام پر آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے بیعت لے کر ان کو اسلام میں داخل کر لیا۔ لیکن یہ لوگ جھوٹے تھے۔ اسلام لانان کا مقصد ہرگز نہ تھا۔ چنانچہ یہ بولے کہ ہم کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ اونٹنیاں (مدینہ کے باہر) صبح شام تمہارے پاس آتی رہیں گی تم ان کے دودھ اور پیشاب پیو۔ (یہ ان کے علاج کے لیے تجویز فرمایا تھا)۔

لہذا وہ لوگ چلے گئے اور یونہی معاملہ چلتا رہا حتیٰ کہ ایک دن ایک شخص چینا پکارا رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور بولا ان لوگوں نے آپ کے چرواہے کو قتل کر دیا ہے اور آپ کے اونٹوں کو بھگا لے گئے ہیں۔ حضور ﷺ نے حکم دیا تو لوگوں میں اعلان کر دیا گیا اللہ کے شہ سوارو! سوار ہوا جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ بغیر ایک دوسرے کا انتظار کیے سوار ہو کر ان کے تعاقب میں چل دوڑ گئے۔ پیچھے پیچھے رسول اللہ ﷺ بھی چل دیئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان ڈاکوؤں کی تلاش میں ان کے ٹھکانے تک پہنچ ہی گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان ڈاکوؤں کو قید کر کے حضور ﷺ کی خدمت میں لائے۔ تب اللہ پاک نے مذکورہ حکم نازل فرمایا:

انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساداً الخ المائدہ ۲۳۰
ترجمہ بیت چکا۔

فرمایا: ان کی سزاؤں میں سے جلا وطنی کا حکم جو آیا اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی سرزمین سے نکال کر ان کے اپنے وطن میں چھوڑ دیا جائے۔

نبی ﷺ نے (آیت نازل ہونے سے پہلے) ان کو یہ سزا دی تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیئے، سولی دی اور آنکھوں میں گرم سلائی پھر وادی۔ (بیرسزاندگی)۔

اس طرح ان کا حلیہ بگڑ گیا۔ لیکن پھر کبھی اس کے بعد اور نہ اس سے پہلے آپ نے ایسی سزا دی بلکہ سب کو مشلہ کرنے سے یعنی کسی کی شکل بگاڑنے سے منع فرمادیا۔

حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی یہ روایت اسی طرح بیان کرتے ہیں مگر وہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ان کو قتل کے بعد جلوا دیا تھا۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بنی سلیم کے لوگ تھے، کچھ قبیلہ عرینہ کے تھے اور کچھ بھیلہ کے تھے۔

رواہ ابن جریر

۳۳۶۴ (مسند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ) اسود بن ہلال سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا: ان دو آیتوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟

ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ حم السجدة: ۳۰
اور جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے۔

والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ الانعام: ۸۳
اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا۔
لوگوں نے کہا: وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا پھر اس پر پکے ہو گئے۔ یعنی کوئی گناہ نہ کیا اور دوسری آیت کا مطلب اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی گناہ کے ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے غیر محل پر ان کو محمول کر دیا (یعنی صحیح نہیں بتایا) صحیح مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مانا پھر کسی اور معبود بتوں وغیرہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور دوسری آیت کا مطلب اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔

ابن زاہویہ، عبد بن حمید، الحکیم، ابن جریر، ابن المنذر، مستدرک الحاکم، ابو الشیخ، ابن مردویہ، خلیۃ الاولیاء، اللالکائی فی السنۃ
۳۳۶۵ اسود بن ہلال سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے اس فرمان:

الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ الانعام: ۸۳

کی تفسیر میں فرمایا: یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو گناہ کے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ رستہ
کلام: پہلی روایت راجح ہے۔ کیونکہ رستہ خواہ ثقہ راوی ہیں لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات میں منفرد ہونے کا کلام فرماتے ہیں۔

میزان الاعتدال ۵۷۹/۲

۳۳۶۶ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عائشہ کو فرمایا: اے عائشہ!

ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا۔ الانعام: ۱۵۹

جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے راستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے۔
اے عائشہ! یہ لوگ اس امت کے بدعت اور خویش پرست لوگ ہیں۔ ان کی توجہ بھی نہیں۔ اے عائشہ! ہر گناہ گار کے لیے توجہ ہے مگر بدعت و خواہش پرستوں کے لیے نہیں، میں ان سے بری ہوں اور نہ مجھ سے بری ہیں۔

الحکیم، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ، ابن شاہین فی السنۃ، الاوسط للطبرانی، السنن لسعد بن منصور، ابن مردویہ، ابو نصر
السجزی فی الایانہ، شعب الایمان للبیہقی، ابن الجوزی فی الواہیات، الاصبہانی فی الحجۃ
کلام: امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو واہیات میں سے قرار دیا ہے۔ نیز الحکیم کی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے۔

۳۳۶۷ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ الانعام: ۸۳

اور انہوں نے شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو خلط ملط نہیں کیا۔ ابو الشیخ

۳۳۶۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فرقہ خارجیہ کا شخص آیا اور بولا:

الحمد للہ الذی خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا برہم یعدلون۔ الانعام: ۱
ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور اندھیرے اور روشنی بنائی پھر بھی کافر (اور چیزوں کو) خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

پھر بولا کیا ایسا نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بالکل۔ پھر وہ خارجی چلا گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور

فرمایا: یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (ابن ابی حاتم) واللہ اعلم بمعناہ الصواب۔
۴۳۶۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا فرمان:

الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ الانعام: ۸۳

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاص ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ اس امت کے بارے میں نازل نہیں ہوا۔

الفریابی، عبد بن حمید، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، ابن مردویہ

فائدہ: یہ مطلب نہیں کہ اسی صفت کے حامل امت میں نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی تعریف مقصود ہے۔

۴۳۷۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان الذین فرقوا کی بجائے فارقوا دینہم پڑھا۔

الفریابی، عبد بن حمید، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، ابن مردویہ، ابن جریر، ابن المنذر

فائدہ: مشہور قرأت تو یہی ہے فرقوا دینہم جس کا معنی ہے انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت جس کو بعد میں امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا فرقوا دینہم ہے جس کا معنی ہے وہ اپنے دین سے نکل گئے۔

۴۳۷۱ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وسلم یلبسوا ایمانہم بظلم کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابوالشیخ فی تفاسیرہم

۴۳۷۲ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ ایک مرتبہ بیمار تھے۔ ہم آپ ﷺ کی عیادت کرنے کو گئے۔ آپ عدنی چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، ہم سمجھے کہ آپ ﷺ نیند فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ ﷺ نے چہرے سے چادر ہٹائی اور فرمایا:

اللہ یہود پر لعنت کرے وہ بکری کی چربی کو تو حرام رکھتے ہیں لیکن اس کی قیمت کھا لیتے ہیں۔ دوسرے الفاظ یہ ہیں: ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اس کو بچا اور اس کی قیمت سے کھانے لگے۔

السنن لسعید بن منصور، الحارث، ابن ابی شیبہ، الشاشی، المعرفة لابی نعیم، مسند ابی یعلیٰ

نوٹ: دیکھئے اسی جلد میں روایت نمبر ۲۹۸۲۔

اسلام اور تقویٰ ہی مدار عزت ہے

۴۳۷۳ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (سرداران عرب میں سے) اقرع بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حصن فزاری رسول اکرم ﷺ کی

خدمت میں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ ﷺ بلال، عمار، صہیب، اور خباب بن ارت جیسے غریب صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہیں انہوں

نے ان غریب صحابہ کو دیکھ کر ناک بھوں چڑھائی۔ پھر آپ ﷺ سے خلوت میں ملے اور بولے: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ایک الگ

مجلس بنا لیا کریں، جس سے غریب ہماری فضیلت کو جان لیں۔ کیونکہ عرب کے (فوز و قائل) آپ کے پاس آتے رہتے ہیں تو ہم اس بات سے

شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ ہم کو غلام طرز کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا دیکھیں۔ لہذا جب ہم آپ کے پاس حاضر ہوں تو ان لوگوں کو اپنے پاس سے

اٹھا دیجیے۔ اور جب ہم فارغ ہو کر چلے جائیں تو چاہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آپ ﷺ (ان کے اسلام کی طرف مائل ہونے کے خیال

سے) حامی بھر بیٹھے۔ انہوں نے کہا پھر آپ ہمارے لیے معاہدہ لکھوادیں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایک صحیفہ منگوا لیا تاکہ ان کو معاہدہ لکھوادیں اور

ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی لکھنے کے لیے طلب کیا۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اس کام کا ارادہ ہی کیا تھا اور ہم مسجد کے ایک کونے میں

بیٹھے تھے کہ آپ علیہ السلام پر جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ آیات پڑھ کر سنائیں:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ۖ سَخَّرْنَا لَهُمْ قُلُوبًا مِمَّنْ يَتَّبِعُونَ الظَّالِمِينَ ۚ تَكُنُ السُّورَةُ الْاِنْعَامِ: ۵۲
اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ ان کے حساب کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں۔ اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں۔ اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

مصنف ابن ابی شیبہ

۳۳۷۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ابو جہل نے رسول ﷺ کو کہا: ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ جو چیز آپ پر پیش کرتے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تب اللہ پاک نے یہ فرمان نازل فرمایا:

فَاِنَّهُمْ لَا يَكْفُرُ بِكَ وَ لَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَعَتِ اللّٰهَ يَجْحَدُوْنَ - الْاِنْعَام: ۳۳
یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔

ترمذی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم، السنن لسعید بن منصور

سورة الاعراف

۳۳۷۵ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) مسلم بن یسار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا:

وَ اِذَا اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. الْاَعْرَافِ: ۱۷۲

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کروالیا: کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں۔ (کہ تو ہمارا پروردگار ہے) تاکہ قیامت کے دن (یہ نہ) کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ ﷺ سے بھی اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا اور میں نے آپ ﷺ کو یہ جواب دیتے ہوئے سنا تھا کہ:

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ اہل جنت کے اعمال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ان کی اولاد نکل آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے ان کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگ جہنم ہی کے اعمال کریں گے۔

ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر عمل کی کیا ضرورت؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ پاک نے جس بندے کو جنت کے لیے پیدا کیا اس کو اہل جنت کے اعمال میں لگا دیا (وہ عمل کرتا کرتا) ایک دن اہل جنت کے اعمال پر مر جائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اللہ پاک نے جس بندے کو جہنم کے لیے پیدا کیا، اس کو اہل جہنم کے اعمال میں غرق کر دیا حتیٰ کہ وہ اہل جہنم کے اعمال میں سے کسی عمل پر مر جائے گا اور اللہ پاک اس کو جہنم برد کر دیں گے۔

مؤطا امام مالک، مسند احمد، بخاری، عبد بن حمید، التاريخ للبخاری، ابو داؤد، ترمذی

امام نسائی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن حبان، ابن مندہ فی الرد علی الجہمیہ، الاستقامة للبخاری، الشريعة للأجری، ابوالشیخ، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم، السنة لللالکانی، البیہقی فی الاسماء والصفات، السنن لسعید بن منصور

۳۳۷۶ مدینہ کے ایک شخص ابو محمد سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے: وَاِذَا اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ

ظہور ہم کے بارے میں سوال کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے بھی تمہاری طرح نبی کریم ﷺ سے سوال کیا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی روح ان میں پھونکی۔ پھر ان کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرا اور آدم علیہ السلام کی (ساری جنتی) اولاد نکالی۔ پھر فرمایا: میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر دوسرا ہاتھ پھیرا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں (اور بائیں) ہیں۔ پھر تمام جہنمی اولاد نکالی اور ان کو فرمایا: میں نے ان کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے یہ لوگ جو میں چاہوں گا عمل کریں گے پھر میں ان کا خاتمہ ان کے سب سے برے عمل پر کروں گا اور (اس کی وجہ سے) ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔

ابن جریر، ابن مندہ فی الرد علی الجہمیۃ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والا پہلا راوی یا تو مسلمہ بن یسار ہے یا نعیم بن ربیعہ۔

۴۳۷۷... حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی جگہ ڈالی تو اس کی عظمت کی وجہ سے اس پہاڑ کے چھ ٹکڑے اڑ گئے۔ تین مدینہ میں جا گئے اور تین مکہ میں۔ مدینہ میں احد، ورقان اور رضوی گئے۔ جبکہ مکہ میں شیمیر، حرائم اور جبل ثور گئے۔ رواہ ابن النجار کلام: یہ روایت موضوع اور باطل ہے۔ دیکھئے: احادیث مختارۃ ۱۲، ترتیب الموضوعات: ۱۶، التقریب ۱۳۳ الضعیفۃ ۱۶۲، الفوائد المجموعۃ ۱۲۷، الکافی ۲۳۲۳، مختصر الابطال ۱۱۲ الموضوعات ۱۳۰۱۔

موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر

۴۳۷۸... فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. الاعراف ۱۳۳

جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو (انوار بانی کی تجلیات نے) اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ آواز سنائی: انسی اننا اللہ میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ یہ عرفہ کی رات تھی۔ جس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے وہ موقف میدان عرفات میں تھا جو سات ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا ان کے سامنے گرا، جس کے پاس امام عرفہ کے روز کھڑا ہونا ہے۔ تین ٹکڑے مدینہ میں گئے طیبہ احد، اور رضوی، ایک شام میں طور سینا گرا۔ اس کو طور اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ ہوا میں اڑ کر شام پہنچا تھا۔ رواہ ابن مردویہ

۴۳۷۹... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے الواح (تورات کی تختیاں) لکھیں تو موسیٰ علیہ السلام تختیوں پر قلم چلنے کی آواز سن رہے تھے۔

عبد بن حمید، ابن جریر، ابوالشیخ

۴۳۸۰... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے اللہ کا کلام سنا:

ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذلک نجزی المفترین.

سورة الاعراف ۱۵۲

جن لوگوں نے پھڑے کو (معبود) بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت (نصیب ہوگی) اور ہم،

جھوٹ باندھنے والوں کو، ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے دیکھا کہ (بنی اسرائیل کی) قوم نے ایک جھوٹ باندھا اور میں خوب سمجھتا ہوں کہ اس کی ذلت

ان کو پہنچے گی۔ ابن راہویہ

بنی اسرائیل کی بے ہوشی کا واقعہ

۴۳۸۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ تو ہارون اور ان کے بیٹے کو لے کر (فلاں) پہاڑ کی غار میں چلا جا۔ ہم ہارون کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔

چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ابن ہارون رحمۃ اللہ علیہ چل پڑے۔ جب غار تک پہنچ گئے اور اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک چارپائی چھچی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹے پھراٹھے اور فرمایا: اے ہارون واہ! کتنی اچھی جگہ ہے یہ! چنانچہ ہارون علیہ السلام اس چارپائی پر لیٹ گئے۔ لیٹے تو ان کی روح قبض کر لی گئی۔ چنانچہ موسیٰ اور ابن ہارون علیہ السلام رنجیدہ و غم زدہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا: ہارون کہاں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: وہ انتقال کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل بولے نہیں، بلکہ آپ نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: افسوس تم پر! کیا میں اپنے بھائی کو قتل کروں گا۔ حالانکہ میں نے اللہ سے سوال کر کے ان کو اپنا وزیر بنوایا تھا اگر میں ان کو قتل کرتا تو ان کے بیٹے بھی میرے ساتھ تھے وہ مجھے ایسا کرنے دیدیتے؟ بنی اسرائیل بولے: نہیں آپ ان سے حسد کرتے تھے (کہ ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں)۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اچھا تم سزا آدمی اپنے منتخب کر لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر اسی غار کے لیے چل پڑے راستے میں دو آدمی بیمار پڑ گئے۔ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا اور نشانی کے لیے کوئی نشان لگا دیا پھر موسیٰ علیہ السلام، ابن ہارون اور بنی اسرائیل غار میں حضرت ہارون تک پہنچے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا: اے ہارون آپ کو کس نے قتل کیا؟ حضرت ہارون (حکم خدا سے) بول پڑے اور فرمایا: مجھے کسی نے قتل نہیں کیا بلکہ میں اپنی موت مراہوں۔

تب بنی اسرائیل کے ان منتخب افراد نے کہا اے موسیٰ! تم کیا فیصلہ کرتے ہو؟ بلکہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہم سب (ستر) افراد کو اپنا نبی بنا لے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان سب کو اور پیچھے رہ جائے والے دو آدمیوں کو بھی پکڑ لیا اور یہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے:

رب لو شئت اهلكم من قبل وایای اتهلكنا بما فعل السفهاء منا. الاعراف: ۱۵۵

اے پروردگار! اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا ہے کی سزا میں ہمیں ہلاک کر دے گا!

چنانچہ اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا پھر یہ اپنی قوم کی طرف انبیاء ہو کر لوٹے۔

عبد بن حمید، ابن ابی الدنیا فی کتاب من عاش بعد الموت، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ

۴۳۸۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اکہتر اے فرقوں میں بٹ گئے جن میں ایک کے سوا سب جہنم میں داخل ہوئے۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اے فرقوں میں بٹ گئے۔ جن میں ایک کے سوا سب جہنم میں گئے۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ومن قوم موسیٰ امة یهدون بالحق وبہ یعدلون۔ الاعراف: ۱۵۹

اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے نصاریٰ کے بارے میں فرمایا:

منہم امة مقتصدۃ۔ المائدہ: ۶۱

اور ان (نصاریٰ بنی اسرائیل) میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں۔

ان دونوں امتوں کے یہ مذکورہ لوگ نجات پانے والے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اور ہمارے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا:
 وَمَنْ خَلَقْنَا مِمَّا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ - الاعراف: ۱۸۱
 اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔
 فرمایا: اس امت کے یہ لوگ نجات یافتہ ہیں۔ ابن ابی حاتم، ابوالشیخ

سورۃ انفال

۴۳۸۳... (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: تم کو یہ آیت دھوکہ میں نہ ڈالے:

وَمَنْ يُولِهِمْ يَوْمَئِذٍ دَبْرَهُ -

اور جس نے اس دن اپنی پیٹھ پھیری۔

فرمایا: یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس میں ہر مسلمان کے لیے فہم (جماعت) تھا۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن ابی حاتم
 فائدہ: آیت میں جنگ سے بھاگنے والوں کے لیے وعید ہے کہ جو جنگ سے بھاگا وہ اللہ کا غضب لے کر بھاگا والا ہے کہ وہ پلٹ کر حملہ کرنا
 چاہتا ہو یا مرکزی جماعت میں مل کر لڑنا چاہتا ہو۔ وہ اس وعید میں شامل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت جنگ بدر کے بارے
 میں نازل ہوئی تھی اس سے یہ نہ سمجھو کہ کسی صحابی رسول نے جنگ سے پیٹھ پھیری ہو بلکہ اگر کسی نے بھی پیٹھ پھیری تھی وہ فہم (جماعت) میں ملنے
 کے لیے پھیری تھی اور میں مسلمانوں کی فہم (جماعت) میں تھا۔

۴۳۸۴... ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون - الاعراف: ۲۲

ترجمہ: بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گوئے ہیں جو نہیں سمجھتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت فلاں شخص اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ ابن ابی حاتم

فائدہ: یہ آیت بنی عبدالدار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بخاری عند تفسیر الانفال

۴۳۸۵... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ الفرقان وہ رات تھی جس کی صبح میں (جنگ بدر میں) دونوں لشکروں کی ٹڈ بھڑ ہوئی۔ اور وہ

جمعہ کی رات تھی اور ستر ہواں رمضان تھا۔ رواہ ابن مردویہ

فائدہ: فرمان باری از اسہ ہے:

وَمَا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعَانِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - سورۃ الانفال: ۴۱

(اگر تم اس اللہ پر) اور اس (نصرت) پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن (یعنی جنگ بدر میں) جس دن دونوں فوجوں
 میں ٹڈ بھڑ ہوئی اپنے بندے (محمد ﷺ) پر نازل فرمائی اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس دن جنگ بدر ہوئی جمعہ کی رات سترہ ۱۷ رمضان کو
 اسی رات اللہ نے محمد ﷺ کے لیے آسمان اول پر پورا نازل فرمادیا تھا۔ اور اس دن کو یوم الفرقان کا خطاب اس لیے دیا گیا کیونکہ اسی دن حق باطل
 کے درمیان معرکہ بدر میں فرق ہو گیا تھا۔

مال غنیمت حلال ہے

۴۳۸۶... حضرت سعد (بن وقاص) رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر کے دن مجھے ایک تلوار ملی میں اسکا کو لے کر حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے (بطور زائد انعام کے) عطا فرمادیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اسے وہیں رکھ دو جہاں سے اٹھائی

ہے۔ تب فرمان الہی نازل ہوا:

یسألونک عن الانفال . الانفال . ۱۰

وہ لوگ آپ سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔

عبداللہ رضی اللہ عنہ (بن مسعود) کی قرأت میں الانفال فتح کے ساتھ ہے۔ المعرفة لابن نعیم

۳۳۸۷ حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے جنگ بدر کے دن مسلمانوں کی ایک جماعت لڑائی کے لیے نکلی اور ایک جماعت آپ ﷺ کے ساتھ رہی۔ پھر لڑنے والی جماعت غنیمت کے اموال اور دوسری چیزیں جو لڑائی میں ہاتھوں لگی تھیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پھر یہ غنیمت کا مال تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن جس جماعت نے قتال نہیں کیا تھا اس کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا گیا۔ چنانچہ نہ لڑنے والی جماعت نے بھی حصہ کا مطالبہ کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پوچھنا ان کے درمیان بات بڑھ گئی۔ تب اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا:

یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطيعوا الله ورسوله۔

سورة الانفال . ۱۰

(اے محمد مجاہد لوگ) تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ کیا حکم ہے) کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ چنانچہ اس حکم کے نزول کے بعد یہ مصالحت ہوئی کہ جس جماعت کو مال ملا تھا وہ انہوں نے واپس کیا (اور پھر رسول خدا رسول اللہ ﷺ کی مرضی کے مطابق دوبارہ تقسیم ہوئی)۔ رواہ ابن عساکر

مکحول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث مجھے جاج بن سہیل نصری نے سنائی حضرت جاج بن سہیل کی بیعت اور وقار کی وجہ سے میں اس کی سند کے بارے میں بھی سوال نہ کر سکا۔ (کہ وہ ضعیف سند سے کہاں روایت کریں گے!) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب یہ فرمان نازل ہوا:

ياايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار۔ الانفال: ۱۵

اے ایمان والو! جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہو جیسے اللہ پاک نے کہا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی:

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء۔ النساء: ۱۱۶

”اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتے گا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے سوا (گناہ) جس کو چاہے گا بخش دے گا۔“

تب بھی یہی فرمایا کہ کہو جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ الخطیب فی المتفق والمفتق

کلام: اس روایت میں جبارہ بن مغلس ضعیف راوی ہے۔ کنز عربی ج ۲ ص ۳۱۶

سورة التوبة

۳۳۸۹ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سورہ براءت دے کر اہل مکہ بھیجا کہ آئندہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کر سکے گا اور نہ بیت اللہ کا ننگے بدن کوئی طواف کرے گا۔ اور جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا۔ جس شخص کا رسول اللہ ﷺ سے کوئی معاہدہ ہو وہ اس مدت تک مؤثر ہوگا۔ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سورہ براءت اور ان اعلانات کو لے کر چلے گئے آپ کے جانے کے تین یوم بعد حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تم ابو بکر سے جا کر ملو۔ اور ان کو میرے پاس واپس بھیج دو اور یہ پیغام تم پہنچاؤ۔ چنانچہ تمیل ارشاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے تو رو پڑے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میرے بارے میں کوئی حکم آیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا:

تمہارے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں آیا۔ بس میرے دل میں خیال آیا تھا کہ اس پیغام کو میں خود پہنچاؤں یا میرے (گھر والوں میں سے) متعلق کوئی شخص یہ پیغام پہنچائے۔ مسند احمد، ابن خزیمہ، ابو عوانہ، الدارقطنی فی الافراد ۴۳۹۰۔

نبی قصبی کے مؤذن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پورا ایک سال رہا میں نے کبھی آپ کو کسی سے براعت یا ولایت کا اظہار کرتے نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا: مجھے فلاں اور فلاں دو اشخاص سے کون محفوظ رکھے گا انہوں نے خوشی کے ساتھ میری بیعت کی پھر میری طرف سے کوئی بات پیدا ہوئے بغیر انہوں نے میری بیعت توڑ دی، اللہ کی قسم پھر ان لوگوں سے بھی قتال نہ ہوگا؟

وان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم الخ۔ التوبہ: ۱۲

اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعنے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں کے ساتھ جنگ کرو۔ ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں۔ عجب نہیں کہ باز آجائیں۔ ابو الحسن البکالی

قیامت کے روز نعمت کے متعلق سوال ہوگا

۴۳۹۱۔ یزید بن ہارون سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور دوران خطبہ ارشاد فرمایا: (قیامت کے دن) ایک بندہ کو لایا جائے گا۔ جس پر اللہ نے انعام کیا ہوگا اور اس کے مال میں فراوانی عطا کی ہوگی۔ اس نے اپنے بدن کو خوب سنوارا ہوگا لیکن اپنے رب کی نعمت کا انکار کیا ہوگا۔ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا: تو نے اس دن کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ اور کیا آگے بھیجا ہے؟ پس وہ ایسی کوئی نیکی نہ پائے گا جو اس نے آگے بھیجی ہو۔ وہ (اپنی مفلسی کو دیکھ کر) اتاروئے گا کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس سے باز پرس میں اس کو عار دلانی جائے گی اور رسوا کیا جائے گا کہ تو نے اللہ کی فرماں برداری کو ضائع کر دیا چنانچہ پھر وہ خون کے آنسو روئے گا۔ پھر اس کو عار دلانی جائے گی اور ذلیل کیا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھوں کو کانٹے گا اور کہنیوں تک کھا جائے گا۔ پھر اس کو اللہ کی اطاعت نہ کرنے پر مزید ذلیل و رسوا کیا جائے گا پھر وہ اس قدر چیخ و پکار کرے گا کہ اس کی آنکھ کے ڈھیلے اس کے رخساروں پر گر جائیں گے۔ اور اس کا ایک ڈھیلہ فرخ در فرخ (آٹھ کلومیٹر کے قریب) ہوگا۔ اس کو پھر مزید ذلیل و رسوا کیا جائے گا تب وہ بے اختیار پکارا اٹھے گا: یا رب! مجھے جہنم میں بھیج دے! اس جگہ سے مجھے چھٹکارا دے دے اور یہی فرمان الہی ہے:

الم يعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالداً فیہا ذلک العظیم۔ برأت: ۶۳

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ (تیار) ہے، جس میں وہ

ہمیشہ (جلتا) رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے۔ ابو الشیخ

۴۳۹۲۔ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب عبد اللہ بن ابی کی وفات ہوئی رسول اکرم ﷺ کو اس پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ چنانچہ آپ چلے گئے اور اس کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ میں اپنی جگہ سے ہٹ کر آپ کے سامنے جا کھڑا ہوا میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اللہ کے دشمن عبد اللہ بن ابی پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جس نے فلاں دن یہ کہا فلاں دن یہ کہا اور میں اس کے خبیث ایام گنوانے لگا جبکہ رسول اللہ ﷺ مسکراتے رہے۔ حتیٰ کہ میں نے (اس کی) بہت سی باتیں گوا دیں۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: اے عمر! مجھ سے ہٹ جاؤ، مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے:

استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لہم۔ التوبہ: ۸۰

آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے ستر بار استغفار کریں گے تب بھی ہرگز اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔

پھر آپ نے فرمایا: اگر مجھے علم ہوتا کہ اگر میں ستر سے زائد مرتبہ استغفار کروں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں ضرور کرتا۔ پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی جنازے کے ساتھ چلے پھر اس کی قبر پر بھی کھڑے رہے حتیٰ کہ اس کی تدفین سے فراغت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور پر جرات کرنے پر بہت تعجب و انسوس ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ (مجھے ایسا نہیں کرنا تھا) پھر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ یہ دو آیات نازل ہوئیں۔

منافق کی جنازہ پڑھنے سے ممانعت

ولا تصل علی احد منهم مات ابداً ولا تقم علی قبره
اور آپ ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ پس اس کے بعد کبھی رسول اللہ ﷺ نے کسی منافق کی نماز نہیں پڑھی اور نہ کبھی کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہوئے حتیٰ کہ اللہ عزوجل نے آپ کی روح قبض کر لی۔

مسند احمد، بخاری، ترمذی، مسلم، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن جان، ابن مردویہ، حلیۃ الاولیاء السنن للبیہقی ۴۳۹۳
شععی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھ سے اسلام میں ایسی لغزش ہوئی جو کبھی نہ ہوئی۔ حضور ﷺ نے عبد اللہ بن ابی پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ میں نے آپ کے کپڑے کو پکڑ لیا اور بولا اللہ کی قسم! اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے:

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر الله لهم۔

حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے فرمایا آپ استغفار کریں یا نہ کریں۔ پھر (نماز کے بعد) حضور ﷺ اس کی قبر کے کنارے بیٹھ گئے۔ لوگ اس کے بیٹھنے کو کہہ رہے تھے: یا حجاب! یوں کر، یا حجاب! یوں، آپ ﷺ نے فرمایا: حجاب شیطان کا نام ہے تو عبد اللہ ہے۔

ابن ابی حاتم

۴۳۹۴ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب عبد اللہ بن ابی بن سلول مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ ﷺ نے اس کی عیادت کی۔ جب وہ مر گیا تو آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی قبر پر کھڑے ہوئے۔ اللہ کی قسم! ابھی چند راتیں گزری تھیں کہ فرمان نازل ہو گیا:

ولا تصل علی احد منهم مات ابداً۔ التوبہ ۸۲

اور آپ ان میں سے کسی ایک کی جو مر جائے کبھی نماز نہ پڑھیں۔ ابن المنذر

۴۳۹۵ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سورہ توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: یہ عذاب کے قریب سورت ہے۔ اس نے لوگوں پر (کے پردوں) کو کھول دیا قریب تھا کسی کو نہ چھوڑتی۔ ابو عوانہ، ابن المنذر، ابو الشیخ، ابن مردویہ

۴۳۹۶ حضرت مکرّمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابھی سورہ براءت کا نزول مکمل نہ ہوا تھا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کوئی نہ رہے گا مگر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ نازل ہو گا اور اس کا نام فاضحہ رکھا جاتا تھا (یعنی رسوا کرنے والی)۔

رواہ ابو الشیخ

۴۳۹۷ عبید رحمۃ اللہ علیہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک میں کوئی آیت نہ لکھتے تھے جب تک کہ اس پر دو آدمی گواہی نہ دیدیں۔ چنانچہ ایک انصاری شخص سورہ توبہ کو لکھا خری یہ دو آیتیں لے کر آیا:

لقد جاءکم رسول من انفسکم الخ۔

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس پر تم سے کسی گواہ کا مطالبہ نہ کروں گا رسول اللہ ﷺ اس طرح (ان آیتوں کو پڑھتے) تھے۔

ابن جریر، ابن المنذر، ابو الشیخ

۴۳۹۸ عباد بن عبد اللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ حارث بن خزیمہ سورہ توبہ کی یہ دو آخری آیات لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے: لقد جاءكم رسول من انفسكم سے آخر تک۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تمہارے ساتھ اس پر اور کون گواہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔ لیکن اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ان آیات کو سنا ہے۔ ان کو یاد کیا ہے اور اچھی طرح حفظ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان آیات کو رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ اگر یہ تین آیات ہوتیں تو میں ان کو علیحدہ سورت کر دیتا۔ پس تم قرآن کی کوئی سورت دیکھو اور اس کے آخر میں ملا دو۔ چنانچہ ہم نے اس کو سورہ براءت کے آخر میں لاحق کر دیا۔

ابن اسحاق، مسند احمد، ابن ابی داؤد، فی المصاحف

کافر کے حق میں استغفار جائز نہیں

تعمیر کتبہ

حدیث الطیب آبادہ ہفت نمبر ۸۰۱

۴۳۹۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو سنا وہ اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا میں نے اس کو کہا تو ان کے لیے استغفار کر رہا ہے جبکہ وہ مشرک ہیں۔ اس نے کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے استغفار نہیں کیا (جو مشرک تھے) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے اس شخص کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ میں نے حضور ﷺ کو یہ بات ذکر کی تو یہ آیت نازل ہوئی:

ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين . التوبه: ۱۱۳

نبی اور مومنوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔

مسند ابی داؤد الطیلسی، ابن ابی شیبہ، ابو الشیخ، ابن مردویہ، الدورقی، السنن لسعید بن منصور، العقیلی فی الضعفاء

۴۴۰۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ توبہ کی (ابتدائی) دس آیات نازل ہوئیں تو حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ آیات دے کر بھیجا کہ جا کر اہل مکہ کو سناؤ۔ پھر نبی کریم ﷺ نے مجھے بلایا اور فرمایا: ابو بکر سے جا کر ملو جہاں بھی وہ ملیں وہ خط ان سے لے لو۔ اور تم خود مکہ جاؤ۔ اور ان کو یہ پڑھ کر سناؤ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ میں مقام صفحہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جا ملا۔ اور وہ خط ان سے لے لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ واپس چلے گئے اور جا کر حضور ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں، بلکہ جبرئیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تھے انہوں نے فرمایا یہ پیغام یا تو آپ کو پہنچانا ہو گا یا آپ (کے خاندان) سے کوئی شخص پہنچائے گا۔

ابو الشیخ، ابن مردویہ

فائدہ:..... سورہ براءت کی ابتدائی دس آیات میں مشرکین کو حرم مکہ میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے۔ ان سے جو جو معاہدات ہوئے تھے، اسلام کی کمزوری کی حالت میں ان سے متعین مدت کے بعد اللہ و رسول کی براءت ہے، اس طرح کے احکامات ہیں جن سے جزیرہ عرب سے مشرکین کا اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ اور وہ سرزمین کفر و شرک سے پاک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات۔

۴۴۰۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور ﷺ نے ان کو سورہ براءت دے کر مکہ بھیجنا چاہا تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نہ تو صاف زبان کا مالک ہوں اور نہ ہی خطیب ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یا تو میں خود جاؤں، یا پھر تم میرا پیغام لے کر جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر میں ضرور جاؤں گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میرا پیغام لے کر جاؤ اللہ تمہاری زبان کو مضبوط کرے گا۔ اور تمہارے دل کو ہدایت سے لبریز کرے گا۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: جاؤ اور وہ

خط پڑھ کر سناؤ۔ نیز فرمایا: عنقریب لوگ تمہارے پاس اپنے فیصلے اور مقدمے لے لے کر حاضر ہوا کریں گے۔ پس جب کبھی دو فریق تمہارے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئیں کبھی ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرو یا جب تک دوسرے کی اچھی طرح نہ سن لو۔ اس سے تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اصل صاحب حق کون ہے؟ مسند احمد، ابن جریر

کفار سے براءت کا اعلان

۴۳۰۲ زید بن اشج سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: آپ کو کیا چیز دے کر حج میں بھیجا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے چار چیزیں دے کر بھیجا گیا تھا (مسجد حرام) میں مومن کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا، بیت اللہ کا ننگے ہو کر کوئی طواف نہ کرے گا۔ اس سال کے بعد مسجد حرام میں کافر و مسلمان جمع نہ ہوں گے (بلکہ صرف مسلمان ہوں گے) اور جس کا حضور ﷺ سے کوئی معاہدہ ہوا، وہ معاہدہ اسی مدت تک موثر ہوگا اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو اس کے لیے چار ماہ کی مہلت ہے (کہ وہ اس عرصہ میں سرزمین حرم خالی کر دے)۔

الحمیدی، السنن لسعيد بن منصور، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، العدنی، الذاری، ترمذی وقال حسن صحیح، مستدرک الحاکم، مسند ابی یعلیٰ، ابن المنذر، اللداری، رسته فی الایمان، ابو داؤد، ابن مردویہ، السنن للبیہقی

۴۳۰۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم ﷺ سے حج اکبر کے دن کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: یوم النحر (ذی الحجہ) ہے۔ السنن لسعيد بن منصور، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

۴۳۰۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حج اکبر کا دن یوم النحر ہے۔ (یعنی قربانی کا دن ہی حج اکبر کا دن ہے)۔ ابو داؤد، ترمذی

کلام: یہ روایت پہلی سے زیادہ صحیح ہے اس حوالہ سے کہ وہ آپ علیہ السلام تک مرفوع ہے یہ حضرت علی پر موقوف ہے۔ اس کو مرفوع بیان کرنا صرف محمد بن اسحاق سے ہی منقول ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً کئی سندوں سے مذکور ہے۔

کنز العمال ج ۲ ص ۴۲۳

۴۳۰۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: چار چیزیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے یاد کر لی ہیں۔ الصلاۃ الوسطیٰ (یعنی درمیانی نماز سے مراد) عصر کی نماز ہے، حج اکبر کا دن قربانی کا (دسویں ذی الحجہ کا) دن ہے اور ابار السجود سے مغرب کے بعد کی دو رکعات مراد ہیں اور ابار النجوم سے فجر سے قبل کی دو رکعات مراد ہیں۔ ابن مردویہ، بسند ضعیف

فائدہ: ... ابار السجود، فرمان الہی ہے:

ومن اللیل فسبحہ وادبار السجود۔ ق ۴۰

اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز (مغرب) کے بعد بھی اس کی پاکی بیان کرو۔ نیز فرمان باری ہے:

ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم۔ الطور: ۴۹

اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد (فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے ساتھ) اس کی پاکی بیان کرو۔

۴۳۰۶ ابو الصہباء بکری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حج اکبر کے دن کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا: وہ عرفہ کا دن ہے۔ (یعنی ذی الحجہ)۔ رواہ ابن جریر

فائدہ: ... لیکن اکثر روایات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حج اکبر کا دن یوم النحر (ذی الحجہ) منقول ہے۔

۴۳۰۷ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابو الصہباء نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حج اکبر کے بارے میں سوال کیا۔ اور اس کے ساتھ الصلاۃ الوسطیٰ اور ابار النجوم کے بارے میں بھی سوال کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں ابو الصہباء! حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حجۃ الوداع سے پچھلے سال امیر حج

بنا کر بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کرائیں۔ انہی کے ساتھ مجھے بھی سورۃ براءت کی چالیس آیات دے کر بھیجا، ہم (حج کی مصروفیات میں) چلتے رہے حتیٰ کہ عرفہ کا دن آ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دینے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حج کی ترغیب دی میقات حج کے احکام بتائے۔ پھر فرمایا: یا علی! اٹھ کھڑے ہو اور رسول اللہ ﷺ کا پیغام لوگوں کو پڑھ کر سناؤ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اٹھ کر لوگوں کو سورۃ براءت کی چالیس آیات پڑھ کر سنائیں۔ پھر میں (میدان عرفہ سے فارغ ہو کر) منیٰ گیا اور رمی جمار کی، اونٹ کی قربانی کی، سر منڈوایا اور پھر میں خیموں کے چکر کاٹ کاٹ کر ان کو مذکورہ آیات پڑھ کر سنا تا رہا۔ اس دن میں نے دیکھا کہ اہل جمعہ (مزدلفہ والے) سارے لوگ مسجد حرام میں جمع نہیں ہیں۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے راوی ابو الصہبہاء کو فرمایا: اور تم نے مجھ سے ادبار الحجوم کا سوال کیا وہ فجر کی دو (سنت) رکعت ہیں۔ اور تم نے صلاۃ الوسطیٰ کے بارے میں سوال کیا وہ عصر کی نماز ہے، جس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی گئی۔ اللہ ودقی فائدہ: ادبار الحجوم سے متعلق گذشتہ ۲۴۰۵ روایت کا فائدہ ملاحظہ کریں۔

سورۃ براءت تلوار کے ساتھ نازل ہوگی

۲۴۰۸ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: سورۃ براءت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی گئی؟ ارشاد فرمایا: کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان اور پناہ ہے جبکہ سورۃ براءت تلوار کے ساتھ نازل ہوئی تھی۔

ابو الشیخ وابن مردویہ

۲۴۰۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے:

وان نکثوا ایمانہم من بعد عہدہم الخ. توبہ ۱۲

اور اگر وہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ (یہ بے ایمان لوگ ہیں اور) ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ (اپنی حرکات سے) باز آ جائیں۔

فرمایا جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں سے قتال نہیں کیا گیا۔ رواہ ابن مردویہ

۲۴۱۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار ہزار (درہم) اور اس سے کم خرچے اور نفعے میں شامل ہیں لیکن اس سے اوپر ”کنز“ خزانے کے

زمرے میں آتے ہیں۔ ابن ابی حاتم، ابو الشیخ

فائدہ: فرمان الہی ہے:

والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ینفقونہا فی سبیل اللہ فیشرہم بعذاب الیم۔

”جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب الیم کی خبر سنا دو۔“

یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ خزانہ باعث عذاب ہے۔

۲۴۱۱ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس سال (یعنی سن نو ۹ ہجری) کے

بعد کوئی مشرک مسجد حرام میں داخل نہ ہو۔ سوائے معابدین اور ان کے خادموں کے۔ رواہ ابن مردویہ

۲۴۱۲ حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا کہ (سورۃ توبہ میں) آخری آیت جو نازل ہوئی:

لقد جاءکم رسول من انفسکم الخ ہے۔ مسند احمد، الکبیر للطبرانی

۲۴۱۳ عبداللہ بن فضل ہاشمی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: حرہ (کی جنگ) میں میری قوم کو جو مصیبت پیش آئی اس پر مجھے بڑا رنج ہوا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ

انہوں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: اے اللہ! انصار کی مغفرت کر، انصار کی اولاد کی مغفرت کر اور انصار کی اولاد کی مغفرت کر۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حاضرین نے پوچھا: یہ زید بن ارقم کون ہیں؟ تو فرمایا: یہ وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: اس شخص کی کوشش کے ساتھ اللہ نے (اپنا دین) پورا کر دیا۔
ابن شہاب فرماتے ہیں ایک منافق شخص نے حضور ﷺ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا تو کہنے لگا: اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم گدھے سے بھی بدتر انسان ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے (اس منافق کی بات سن لی اور) فرمایا: بے شک اللہ کی قسم یہ سچے ہیں اور تو گدھے سے زیادہ بدتر انسان ہے۔ پھر یہ بات حضور ﷺ تک پہنچی تو منافق اپنی بات سے مکر گیا تب اللہ پاک نے رسول ﷺ پر قرآن نازل کیا:
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ - توبہ: ۷۴
یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے (تو کچھ) نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔

اور اللہ پاک نے یہ فرمان صرف حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے نازل فرمایا تھا۔

الدارقطنی فی الافراد، ابن عساکر

۴۳۱۴ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ - توبہ: ۱۴

اُمّہ کفر سے قتال کرو۔

پھر فرمایا: اس کے بعد اس آیت والوں سے قتال نہیں کیا گیا۔ رواہ ابن ابی شیبہ

پاکی حاصل کرنے والوں کی تعریف

۴۳۱۵ محمد بن عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ نے ہم کو فرمایا:

اے قبائہ والو! پاکیزگی کے بارے میں اللہ نے تمہاری اچھی تعریف فرمائی ہے، مجھے (اس کی وجہ) بتاؤ۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم نے تو رات میں پانی کے ساتھ استنجاء کا حکم دیکھا تھا۔ مسند احمد، ابو نعیم فی المعرفة

۴۳۱۶ محمد بن عبداللہ بن سلام اپنے والد عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمارے پاس ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ نے پاکی میں تمہاری تعریف فرمائی ہے۔

فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ توبہ: ۱۰۸

اس (مسجد قبائہ) میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تم مجھے اس کی خبر نہیں دو گے۔ انہوں نے کہا: ہم (مٹی کے بعد) پانی کے ساتھ استنجاء کرتے ہیں اور تو رات سے ہمیں یہ چیز ملی ہے۔ رواہ ابو نعیم

۴۳۱۷ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ اس مسجد میں تشریف لائے جس کی بنیاد تقویٰ (اور اخلاص) پر رکھی گئی تھی یعنی مسجد قبائہ میں، آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے: اللہ نے پاکی اختیار کرنے میں تمہاری اچھی تعریف فرمائی ہے

فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین - ابن ابی شیبہ، ابو نعیم

غزوہ تبوک

۳۳۱۸۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کے طائف سے واپسی آنے کے چھ ماہ بعد آپ کو غزوہ تبوک کا حکم ملا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سائے العسرة (سنگی کی گھڑی) فرمایا: یہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا۔ ان ایام میں تفاق (یعنی منافقین) کی بھی کثرت ہو گئی تھی اور ادھر اصحابِ صفیٰ تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی، صفہ فاقہ کشوں کا گھر تھا۔ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا وہ یہاں آجاتا تھا۔ ان کے پاس نبی ﷺ اور دیگر مسلمانوں کا صدقہ آتا رہتا تھا۔ اور جب کوئی غزوہ پیش آتا تو مالدار مسلمان آتے اور ایک ایک صفہ کے ساتھی کو ساتھ لے جاتا۔ کوئی زیادہ کو بھی لے جاتا تھا۔ اور ان کو سامانِ جہاد فراہم کرتا۔ چنانچہ یوں فقراءِ مسلمین بھی غزوہ میں امراءِ مسلمین کے شانہ بشانہ شریک ہوتے۔ اور امراءِ مسلمین کا مقصود سامانِ فراہم کرنے سے صرف اللہ کی رضاء مقصود ہوتی۔

چنانچہ حضور اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو ثواب کی غرض سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے اللہ کے ثواب کی خاطر اپنا اپنا مال پیش کیا۔ کچھ (منافع) لوگوں نے بغیر ثواب کی امید کے خرچ کیا۔ فقراءِ مسلمین کو مالدار مسلمانوں نے سواریاں دیں۔ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے۔ سب سے افضل صدقہ جو کسی نے اس دن پیش کیا وہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے دو سواوقیہ (چاندی) اللہ کی راہ میں صدقہ کی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سواوقیہ (چاندی) دی، حضرت عاصم انصاری نے کھجور کے نوے و سق صدقے میں دیئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے لگتا ہے شاید حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کے لیے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا۔ لہذا آپ ﷺ نے ان سے سوال کیا: کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: جو خرچ کیا ہے اس سے زیادہ اور اچھا پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ حضور ﷺ نے پوچھا کتنا؟ عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول نے جو بھلائی اور خیر کا سچا وعدہ کیا ہے وہ ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اسی طرح ایک انصاری شخص نے ایک صاع (ساڑھے تین سیر کے برابر) کھجور صدقہ میں پیش کیں۔

منافقین نے مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر صدقات پیش کرتے دیکھا تو یہ کام شروع کیا کہ اگر کسی کو زیادہ مال صدقہ کرتے دیکھتے تو اس کے لیے شور کر دیتے یہ تو دکھاوا کر رہا ہے۔ اگر کوئی اپنی طاقت کے بقدر تھوڑا پیچھے لے کر آتا تو کہتے کہ یہ خود اس کا زیادہ محتاج ہے جو لے کر آیا ہے۔ چنانچہ جب ابو عقیل ایک صاع کھجور لے کر آئے اور عرض کیا: میں نے رات بھر مزدوری کر کے دو صاع کھجور اجرت کمائی تھی۔ اللہ کی قسم میرے پاس ان دو صاع کھجوروں کے سوا کچھ نہیں۔ اور وہ انتہائی معذرت اور شرمندگی ظاہر کرنے لگے۔ پھر کہا چنانچہ میں ایک صاع یہاں صدقے کے لیے لے آیا اور ایک صاع پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔

چنانچہ منافقین نے ان پر آواز کسی کہ یہ تو خود اپنے صاع کا زیادہ محتاج ہے۔ جبکہ یہ منافقین غنی ہوں یا فقیر سب اس بات کی لالچ میں تھے کہ ان اموال صدقات میں سے بھی ان کو حصہ مل جائے۔

جب رسول اللہ ﷺ کے نکلنے کا وقت قریب آیا تو یہی منافقین آگے ہو ہو کر اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ گرمی کی شدت کی شکایت کرتے اور غزوہ سے ڈر ڈر کر پیچھے رہ جاتے۔ لڑائی کی صورت میں موت کا قندہ انہیں بزدل کر رہا تھا۔ الفرض وہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر عذر اور بہانے تراشنے لگے۔ آخر رسول اللہ ﷺ بھی اجازت دیتے رہے۔ چونکہ آپ ﷺ کو ان کے دلوں کی باتوں کا علم نہ تھا۔

ان منافقین نے بل کر ایک مسجد تفاق بھی بنائی، ابو عامر فاسق ان کا بڑا بنا۔ جو ہر قل کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ کنانہ بن عبدیلیل اور عاتقہ بن علانہ عامری بھی تھے۔ انہی کے بارے میں سورہ براءت نازل ہوئی جس میں کسی بیٹھے والے کو جنگ سے پیچھے رہ جانے کی رخصت نہیں تھی۔ اور اس میں یہ حکم بھی نازل ہوا:

انفروا خفافا وثقالا۔

ملکہ ہو یا جو جھل نکلو اللہ کی راہ میں۔

پھر جو سچے کمزور مسلمان تھے جن میں مریض اور فقیر بھی تھے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو شکایت کی اور عرض کیا کہ یہ تو ایسا حکم ہے جس میں کچھ رخصت نہیں ہے۔ جبکہ منافقین کے گناہ (اور چالبا زیاں) چھپے ہوئے تھے، جو بعد میں ظاہر ہوئے۔ بہر کیف پیچھے رہ جانے والوں میں بہت لوگ تھے اور ان کو کوئی عذر بھی نہ تھا اور سورہ براءت رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ جانے والوں کی شان میں نازل ہوئی۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ تبوک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر آپ علیہ السلام نے علقمہ بن محرز مدنی کو (الشکر دے کر) فلسطین بھیجا اور (دوسرا لشکر دے کر) حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دومۃ الجندل بھیجا۔ اور فرمایا: جلدی جاؤ۔ شاید تم اس کو باہر قضائے حاجت کرتا ہو یا وادرا اس کو پکڑ لو۔

چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ گئے اور فرمان رسول کے مطابق دشمن کو اسی حال میں پایا۔ اور اس کو پکڑ لیا۔

ادھر مدینہ میں موجود منافقین کوئی بری خبر (جو مسلمانوں کے لیے باعث خوشی ہوتی) سنتے تو لرز جاتے لیکن جب سنتے کہ مسلمان مشقت اور تنگی میں مبتلا ہیں تو خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ ہم جانتے تھے ایسا ہوگا اسی لیے ہم محتاط رہے (اور نہیں گئے)۔ اور جب مسلمانوں کی سلامتی اور مالداری کی خبر سنتے تو رنجیدہ ہو جاتے۔ اور مدینہ میں موجود ہر منافق کے چہرے سے ان کیفیات کا اندازہ ہوتا تھا۔ پس کوئی منافق نہ رہا جو خبیث عمل کے ساتھ اور خبیث رتبے کے ساتھ چھپتا نہ پھر رہا ہو۔ جبکہ ہر بیمار اور لاچار خوشحالی اور فریاض کا انتظار کر رہا تھا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا۔ ادھر سورہ براءت بھی مسلسل موقع بموقع نازل ہو رہی تھی۔ (جس میں بہت سی خفیہ باتیں ظاہر ہو رہی تھیں) جس کی وجہ سے مسلمان بھی مختلف گمانوں کا شکار تھے اور ڈر رہے تھے کہ کوئی بڑا بوڑھا جس سے کوئی گناہ مرزدہ ہوا ہو اور سورہ توبہ اس کا پردہ فاش کر دے اور وہ اسی کے صدمے میں نہ چلا جائے۔ الغرض سورہ براءت میں ہر عمل کرنے والے کا مرتبہ ہدایت کا یا گمراہی کا آشکارا ہو گیا اور سورہ براءت کا نزول بھی مکمل ہو گیا۔

ابن عائذ، ابن عساکر

۴۳۱۹ حضرت ابی امام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اہل قبائک اور شاد فرمایا: وہ کوئی طہارت ہے جس کے ساتھ اس آیت میں تمہاری خصوصیت بیان کی گئی۔

فیہ رجال یحبون ان یتطهروا واللہ یحب المطہرین۔ توبہ: ۱۰۸

انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی بھی حاجت کرنے جاتا ہے تو وہ پانی کے ساتھ (استنجاء ضرور کرتا ہے) صرف مٹی پر اکتفا نہیں کرتا اور پانچا خانہ کا مقام ضرور دھوتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق

۴۳۲۰ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ قبیلہ بنی عدی بن کعب کے ایک غلام نے ایک انصاری شخص کو قتل کر دیا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی دیت میں بارہ ہزار درہم ادا کیے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا:

وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ۔

اور انہوں نے اس کے سوا کوئی عیب نہیں لگایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دیا۔

عبدالرزاق، السنن لسعید بن منصور، مستدرک الحاکم، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، ابن مردویہ

۴۳۲۱ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سورہ براءت کے ساتھ مکہ بھیجا۔ پھر ان کو بلا لیا اور

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا: اس کو میرے اہل بیت میں سے کوئی شخص پہنچانے گا۔ ابن ابی شیبہ

۴۳۲۲ (مسند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان:

للذین احسنوا الحسنی و زیادۃ۔ یونس ۲۶

جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور (مزید برآں) اور بھی۔

کے بارے میں منقول ہے ”حسنی“ سے مراد جنت اور ”زیادۃ“ سے مراد خدائے عزوجل کا دیدار ہے۔

ابن ابی شیبہ، ابن ابی عاصم فی السنن، ابن جریر، ابن المنذر، ابن خزیمہ، ابن مندہ، و عثمان بن سعید دارمی معافی الرد علی الجہیمہ،

الدار قطنی والبیہقی معافی الرؤیة، ابو الشیخ، ابن مردویہ، ابن زمنین اللالکائی معافی السنة والآجرى فی الشریعة، الخطیب فی التاریخ ۲۳۲۳ شیخ الکلاعی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عراق کا خراج آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ خود باہر نکلے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جبکہ ان کا غلام کہنے لگا: اللہ کی قسم یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو جھوٹ بولتا ہے یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے:

قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا الخ. یونس ۵۸

کہہ دو کہ خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے (یہ کتاب نازل ہوئی ہے) تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم، الکبیر للطبرانی

فائدہ:..... غلام کا مقصد تھا کہ اس آیت سے اللہ کا فضل اور رحمت مراد ہے جو عراق سے خراج (ٹیکس) میں آیا ہے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی سختی سے تردید کی کہ یہ تو دنیاوی مال ہے اس سے بہتر تو اللہ کی کتاب اور اس کی ہدایت ہے جو درحقیقت خدا کا فضل اور اس کی مہربانی سے کسی کو حاصل ہوتی ہے ورنہ یہ دنیا تو اس کے دوست اور دشمن سب ہی کو مل جاتی ہے۔

۲۳۲۴ (علی رضی اللہ عنہ) ان لهم قدم صدق عند ربهم. یونس ۱

ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ مذکورہ فرمان باری کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی محمد ﷺ ان کے لیے (قیامت کے روز) شفاعت کرنے والے ہیں۔

رواہ ابن مردویہ

خصوصی انعام کا تذکرہ

۲۳۲۵ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ۔ یونس ۲۶

ترجمہ:..... جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے اور (مزید برآں) اور بھی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ”حسنى“ سے مراد جنت اور ”زیادة“ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ رواہ ابن مردویہ

۲۳۲۶ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان:

للذین احسنوا الحسنی و زیادہ۔

کے بارے میں پوچھا تو فرمایا: الذین احسنوا یعنی جن لوگوں نے نیکی کی، اس سے مراد اہل توحید ہیں، ”الحسنى“ سے مراد جنت ہے اور ”زیادة“ سے مراد اللہ عزوجل کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ (ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، الدار قطنی، والبیہقی معافی الرؤیة، السنن لابن کثیر) ۲۳۲۷ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ“ کی تفسیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں: ”زیادة“ سے مراد جنت کا ایسا بالا خانہ ہے جو ایک ہی موتی سے بنا ہوگا اس کے چار دروازے ہوں گے۔ اس کے دروازے اور دوسرے حصے سب ایک ہی موتی کا حصہ ہوں گے۔

السنن لسعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ، البیہقی فی الرؤیة

سورہ ہود

۲۳۲۸ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کشتی (نوح علیہ السلام) جب جوادی (پہاڑ) پر ٹھہری، حضرت نوح علیہ السلام نے کوئے کو بلایا اور فرمایا: جاؤ مجھے زمین کا حال دیکھ کر بتاؤ۔ کو آگیا وہاں قوم نوح علیہ السلام کے پاس آنے میں دیر کر دی

حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو بدو عادی پھر کبوتر کو بلایا۔ کبوتر آ کر حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو حکم دیا۔ تم زمین پر اترو اور زمین کا حال دیکھ کر مجھے بتاؤ۔ چنانچہ کبوتر نیچے اترا اور تھوڑی دیر بعد چونچ میں ایک ایک پر پکڑ کر لایا جس کو منہ سے پھڑ پھڑا رہا تھا کبوتر آ کر کہنے لگا: زمین پر اتر جائیے، زمین میں (پانی خشک ہونے کے بعد) نباتات آگ آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو دعا دیتے ہوئے فرمایا: اللہ تجھے برکت دے اور اس گھر میں برکت دے جہاں تو ٹھکانہ رکھے۔ اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ تیرے پیچھے پڑ جائیں گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ ہمیشہ تیرا سر سونے کا بنا دیتا۔ رواہ ابن مردویہ

۴۳۲۹ عباد بن عبد اللہ اسدی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں موجود تھا آپ رضی اللہ عنہ (پارک نما) کشادہ گھاس پر تشریف فرماتھے۔ ایک شخص آیا اور اس آیت کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا:

افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه الخ. هود: ۷۱

بھلا جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک (آسانی) گواہ بھی اس کی جانب سے ہو۔ کا کیا مطلب ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قریش کے جس شخص پر بھی استراچلا ہو (یعنی ہر بالغ شخص) کے بارے میں کچھ نہ کچھ قرآن ضرور نازل ہوا ہے۔ اللہ کی قسم! اگر یہ لوگ جان لیں کہ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے محمد ﷺ کی زبان پر کیا انعام گنوائے ہیں تو یہ مجھے اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ یہ پوری جگہ مجھے سونے چاندی کے ساتھ بھر کر مل جائے۔

اللہ کی قسم! اس امت میں ہماری مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم میں کشتی نوح۔ اور ہماری مثال اس امت میں ایسی ہے جیسی بنی اسرائیل میں باب ۷۱، (جس پر سے گزرنے والا اسرائیلی اپنی مراد کو پہنچا)۔ ابو سہل القطان فی امالیہ، ابن مردویہ
فائدہ: ... یعنی قریش کا ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ محمد ﷺ حق پر ہیں اور جو ہم اصحاب رسول کے ساتھ مل گیا وہ کشتی نوح کی طرح کامیاب ہے۔ لیکن پھر کافر لوگ نہیں مانتے۔

دنیا طلبی کی مذمت

۴۳۳۰ عبد اللہ بن معبد سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑا ہوا اور کہنے لگا: ہمیں اس آیت کے بارے میں بتائیے:

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها سے وباطل ما كانوا يعملون تک۔ ہود: ۱۵-۱۶

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دیدیتے ہیں۔ اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش (جہنم) کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انفس تجھ پر اس سے وہ شخص مراد ہے جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہو اور وہ آخرت کا بالکل خیال نہ رکھتا ہو۔ ابن ابی حاتم

۴۳۳۱ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تنور (جس کا سورہ ہود میں ذکر ہے) کوفہ کی (جامع) مسجد کے ابواب کندہ کی طرف سے پھوٹا تھا۔

ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ
فائدہ: جب طوقان نوح علیہ السلام آیا اس کی ابتداء ایک تنور میں پانی نکلنے سے ہوئی تھی جس کے متعلق ارشاد باری ہے "وقار التنور" اور تنور
لینے لگا۔ اسی کی تفسیر مذکورہ حدیث میں کی گئی ہے۔

۴۳۳۲۔ خیر العری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں بیت المقدس جانے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ وہاں جا کر نماز پڑھوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو ارشاد فرمایا: اپنی سواری فروخت کر ڈال، اپنا زاد سفر کھاپی لے۔ اور اسی (کوفہ) کی مسجد میں نماز پڑھ لے کیونکہ اس میں ستر سے زائد انبیاء نے نماز پڑھی ہے اور اس سے تور اہل تھا۔ ابو الشیخ

۴۳۳۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جو اے کو (زمین کے اندر) پھاڑتا ہے اور جسم میں روح ڈالتا ہے یہ تمہاری مسجد اسلام کی چار مسجدوں میں سے چوٹی مسجد ہے۔ اس میں دو رکعتیں نماز پڑھنا مجھے دوسری مساجد میں دس رکعات پڑھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے۔

اور اسی کے دائیں جانب قبلہ کی طرف سے تور اہل تھا۔ ابو الشیخ

فائدہ:..... کوفہ کی مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اور چار مساجد اسلام میں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس اور کوفہ کی مسجد حضرت علی رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔

۴۳۳۴۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ "وفار التنور" کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے صبح کی روشنی مراد ہے۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ جب صبح روشن ہو جائے تو اپنے اصحاب کو لے کر نکل جانا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ

فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

"وفار التنور" ہود: ۳۰۰

اور تور اہل گیا۔

تور کی مراد کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں: جن میں سے دو قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذکورہ روایات میں ذکر ہوئے اور بھی کئی اقوال ہیں جو کتب تفسیر میں منقول ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۴۳۳۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حضرت نوح علیہ السلام نے سفینہ (یعنی شتی) میں اپنے ساتھ تمام درختوں (کی اقسام) کو بھی لے لیا تھا۔

اسحاق بن بشر فی المستدء، ابن عساکر

قبیلہ والوں کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے

۴۳۳۶۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

آدمی کا قبیلہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جبکہ اس قدر آدمی اپنے قبیلے کے لیے سود مند نہیں۔ کیونکہ آدمی اگر قبیلے کی حفاظت کرے گا جبکہ قبیلہ آدمی کی حفاظت کرے گا تو قبیلے کے تمام افراد اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اپنی محبت، حفاظت اور مدد کے ساتھ اس کو پیش آئیں گے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات کوئی کسی آدمی پر غصہ ہوتا ہے تو اس کو کچھ نہیں گردانتا بلکہ اس کے قبیلہ سے رعب رکھتا ہے۔ چنانچہ میں تم کو اس بات کی تائید میں کتاب اللہ کی آیت پیش کرتا ہوں: پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ ہود کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید۔ ہود: ۸۰

(لو طے) کہا: اے کاش! مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط (جماعت کے) قلعہ میں پناہ پلڑ سکتا۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رکن شدید (جس کی خواہش حضرت لوط علیہ السلام نے کی اس) سے مراد قبیلہ ہے۔ چونکہ لوط علیہ السلام کا ان کی قوم میں کوئی قبیلہ نہ تھا۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں! اللہ نے لوط علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کے مضبوط قبیلے میں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی جو شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا:

وانا لبراک فینا ضعیفا ولولا رھطک لرجمناک . ہود: ۹۱

اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے خاندان والے نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قسم معبود حق کی وہ لوگ اپنے رب کی عظمت سے نہیں ڈرے مگر شعیب علیہ السلام کے خاندان سے ڈر گئے۔

رواہ ابو الشیخ

سفینہ نوح علیہ السلام

۴۴۳۷ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

اگر اللہ پاک قوم نوح علیہ السلام میں سے کسی پر رحم فرماتے تو اس بچے کی ماں پر ضرور رحم فرماتے (جس کا قصہ یہ ہے) کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلا تے رہے۔ حتیٰ کہ جب آپ علیہ السلام (ان سے مایوس ہو گئے تو آپ علیہ السلام) نے ایک درخت اگایا، جو بڑا ہو گیا اور ہر طرف سے پھیل کر خوب بڑا ہو گیا اور آپ نے اس کو کاٹ کر کشتی بنا کر شروع کی۔ لوگ آپ کے پاس سے گذرتے اور اس کے متعلق پوچھ بچھ کرتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے: میں کشتی بنا رہا ہوں۔ لوگ اس جواب پر خوب ہنسی مذاق اڑاتے اور کہتے تم خشکی میں کشتی بنا رہے ہو، یہ جلے گی کہاں؟ آپ علیہ السلام صرف یہ جواب دیتے عن قریب تم کو (سب) معلوم ہو جائے گا۔

چنانچہ جب آپ علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہو گئے، تنور اہل بڑا اور گلی محلوں میں پانی خوب جاری ہو گیا تو اس بچے کی ماں کو اپنے بچے کا بہت خوف ہوا کیونکہ وہ اس سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی۔ چنانچہ وہ بچہ کو (چھاتی سے) لگا کر پہاڑ پر چلی گئی۔ پانی جب (پہاڑ سے بھی اونچا ہو کر) اس کے ٹخنوں تک پہنچ گیا تو اس نے بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر بلند کر لیا۔ آخر کار پانی اس ماں کو بھی (بچے سمیت) بہا کر لے گیا پس اگر اللہ پاک اس دن کسی (کافر) پر رحم فرماتا تو اس بچے کی ماں پر ضرور رحم کھاتا۔ مستدرک الحاکم، ابن عساکر

۴۴۳۸ محمد بن الحنفیہ (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے جن کی ماں کا نام حنفیہ تھا) کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا:

و یتلوہ شاهد منہ۔ ہود: ۱۷۰

اور اس کو اللہ کی جانب سے ایک شاہد تلاوت کرتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس آیت میں شاہد سے آپ کی ذات مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کاش میں اس سے مراد ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد محمد کی زبان ہے۔

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ، الکبیر والوسط للطبرانی

۴۴۳۹ افمن کان علی بینة من ربہ ویتلوہ شاهد منہ۔ ہود: ۱۷۰

ترجمہ: بھلا جو اپنے پروردگار کی طرف سے (روشن) دلیل رکھتا ہو اور اس کے ساتھ ایک گواہ بھی اللہ کی جانب سے ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی جانب سے میں گواہ ہوں۔ ابن مردویہ، ابن عساکر

۴۴۴۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

افمن کان علی بینة من ربہ ویتلوہ شاهد منہ۔

میں خدا کی طرف سے (روشن) دلیل پر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس پر گواہ ہیں۔ رواہ ابن مردویہ

۴۴۴۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: قریش کا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے بارے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ نازل ہوا ہو۔

ایک شخص نے عرض کیا: آپ کے بارے میں کیا نازل ہوا ہے؟ فرمایا: کیا تم سورۃ ہود تلاوت نہیں کرتے:

افمن کان علی بینة من ربہ ویتلوہ شاهد منہ۔ ہود: ۱۷۰

پس جو اپنے رب کی طرف سے (روشن) دلیل پر قائم ہو اور ایک گواہ بھی اس پر اللہ کی جانب سے ہو۔

میں علی بن ابی طالب سے حضور ﷺ مراد ہیں اور یحییٰ وہ شاہد منہ سے میں مراد ہوں۔ ابن ابی حاتم، ابن مردودہ، ابو نعیم فی المعرفة

سورہ یوسف

۴۴۴۲ (مسند علی رضی اللہ عنہ) ولقد همت به - يوسف: ۲۴

اور اس (زلیخاء) نے اس (یوسف علیہ السلام) کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ برائی کی لالچ کی۔ اور کھڑی ہو کر اپنے کو جو یا قوت اور موتیوں کے ساتھ بڑا ہوا تھا اور گھر کے کونے میں رکھا تھا سفید کپڑا ڈھانپنے لگی۔ تاکہ اس کے اور بت کے درمیان آڑ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا: یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا: میں اپنے معبود سے شرم کرتی ہوں کہ وہ مجھے اس حالت میں دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تو ایسے معبود سے شرم کر رہی ہے جو کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے اور میں اس حقیقی معبود سے شرم نہیں کر رہا ہوں جو ہر جان پر اور اس کے عمل پر نگہبان ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا: تم اپنا یہ مقصود مجھ سے کبھی حاصل نہیں کر سکتیں۔ اور یہی برہان ہے۔ فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ^۴ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا^۵ أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ^۶ - يوسف: ۲۴

اور اس نے ارادہ کیا اور اس (یوسف علیہ السلام) نے بھی اس کا ارادہ کیا اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا (تو قریب تھا کہ گناہ میں ملوث ہو جاتا)

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں احمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ زلیخاء نے مضبوط ارادہ کیا اور عزم کر لیا کہ یہ (گناہ) کرنا ہے۔ جبکہ اس کے اصرار کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے دل میں ارادہ پیدا ہوا جبکہ اس میں واقع نہیں ہوئے اور کرنے کا خیال مضبوط نہیں ہونے دیا اس کی نشانی یہ ہوئی کہ جب زلیخاء نے اپنے پر کپڑا ڈالا تو ان کو تنبیہ ہوئی اور ارادے سے عزم صمیم کے ساتھ ہٹ گئے اور فرمایا تم یہ مقصود مجھ سے ہرگز حاصل نہیں کر سکتیں۔ تفسیر القرطبی ۱۶۶/۹-۱۶۷۔ مع الاضافہ۔

سورہ رعد

۴۴۴۳ عباد بن عبد اللہ اسدی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس فرمان الہی کے متعلق ارشاد فرمایا:

انما انت منذر ولكل قوم هاد. الرعد: ۷

بے شک آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک ہادی ہے۔ فرمایا: رسول اللہ ﷺ ڈرانے والے ہیں اور میں ہادی (سیدھی راہ دکھانے)

والا ہوں۔ ابن ابی حاتم

۴۴۴۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ - الرعد: ۳۹

خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور (جو چاہتا ہے) قائم رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جواب دیا: میں تجھے اس کے متعلق ایک راز کی بات بتاتا ہوں تم میرے بعد میری امت کو بتانا۔ کون ہے اور جس کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کس طرح قبول نہیں کرتے، صدقہ دینا والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور بھلائی کا کام کرنا جو بدبختی کو نیک بختی سے بدل دیتا ہے اور عمر

میں اضافہ کرتا ہے۔ رواہ ابن ابی شیبہ

کلام:..... یہ حدیث منکر ہے اور اس کی اسناد میں کئی مجہول روایت ہیں۔ کنز العمال عربی ج ۲ ص ۴۴۱

قدرت کی نشانیاں

۴۴۳۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا محمد! مجھے اپنے اس معبود کے بارے میں بتائیے، جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا تے ہیں کہ وہ یا قوت کا ہے؟ سونے کا ہے؟ یا اور کسی چیز کا ہے؟ چنانچہ سائل پر جنگی گری اور اس کو جلاذالات اللہ پاک نے یہ آیت نازل کیا:

ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء الخ۔ الرعد: ۳

اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے اور وہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ بڑی قوت والا ہے۔ رواہ ابن جریر

۴۴۳۶ الاکبساط کفیة الی الماء لیلغ فاه وما هو بیا لغه الخ۔ الرعد: ۱۴

سو دمند پکارنا تو اللہ ہی کی رضا کے لیے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ (دور ہی سے) اس کے منہ تک آچنچے، حالانکہ وہ (اس تک بھی نہیں) آسکتا اور (اسی طرح) کافروں کی پکار ہے۔ رواہ ابن جریر

۴۴۳۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: فرمان الہی:

لہ دعوة الحق۔ الرعد: ۱۴

اللہ ہی کے لیے حق کی پکار ہے۔

۴۴۳۸ کا مطلب ہے حق کی پکار لا الہ الا اللہ کی توحید ہے۔ ابن جریر، ابوالمشیح
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

الاید کور اللہ تطمنن القلوب۔ الرعد: ۲۸

اور سن رکھو کہ خدا کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔

تو حضور ﷺ نے فرمایا اللہ کی یاد سے اس شخص کا دل آرام پاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو۔ اور مومنین کے ساتھ بھی محبت رکھتا ہو غائب ہوں یا حاضر سب کے ساتھ۔

پس آگاہ رہو اللہ کی وجہ سے ہی مومنین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ رواہ ابن مردویہ

۴۴۳۹ کلام: اس روایت میں ایک راوی محمد بن اشعث کوئی بھی ہے جو حدیث کے بارے میں تہمت زدہ ہے۔ کنز ۲ ص ۴۴۲

۴۴۴۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے (افلّم بیئس الذین آمنوا) کی بجائے اس کو یوں پڑھا: اقلّم یتبین

الذین آمنوا۔ رواہ ابن جریر

۴۴۴۱ فائدہ: ترجمہ آیت: کیا مومنوں کو معلوم نہیں کہ اگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا۔

بیئس کا معنی کیونکہ یتبین ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو یوں تلاوت فرمایا۔

۴۴۴۲ محمد بن اسحاق عکاشی، اوزاعی، محمد بن علی بن حسین، علی بن حسین، حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

رسول اللہ ﷺ نے میرے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی:

یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الكتاب۔ الرعد: ۳۹

خدا جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو (چاہتا ہے) ثابت رکھتا ہے اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔

پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں اس کی تفسیر بتا کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں اور تم میرے بعد میری امت کو اس کی تفسیر بتا کر

میری آنکھیں ٹھنڈی کر دینا۔ صدقہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور نیکی اختیار کرنا (نازل شدہ) بدبختی کو (بھی) نیک بختی میں بدل دیتا ہے، عمر میں اضافہ کرتا ہے اور برائیوں (اور مصیبتوں) سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اے علی جس کے پاس مذکورہ بھلائیوں میں سے کوئی ایک خصلت (صدقہ والدین کے ساتھ نیکی اور عام نیکی کرنا وغیرہ) ہو تو اللہ پاک اس کو تینوں خصلتیں عطا فرمادیتے ہیں۔

رواہ ابن مردویہ

کلام: عکاشی خود ساختہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ کنز ۲ ص ۴۴۳

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص منکر الحدیث ہے۔ ابن معین کہتے ہیں کذاب ہے امام دارقطنی فرماتے ہیں: یہ شخص حدیث گھڑتا ہے۔

میزان الاعتدال ۳/۷۶۳

سورہ ابراہیم علیہ السلام

۴۴۵۱..... (مسند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) واذ کہرہم بایام اللہ۔ ابراہیم: ۵

(ترجمہ مکمل آیت) اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تارکی سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ اور ان کو خدا کے ایام یاد دلاؤ اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو صابرشاکر ہیں نشانیاں ہیں۔

حضرت ابی رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ایام اللہ سے اللہ کی نعمتیں مراد ہیں یعنی ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ۔

عبد بن حمید، نسائی، زیادات عبد اللہ بن احمد بن حنبل، الدارقطنی فی الافراد

۴۴۵۲..... (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمان باری تعالیٰ:

الم تر الی الذین بدلوا نعمة اللہ کفراً۔ ابراہیم: ۲۸

”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے خدا کے احسان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تپاہی کے گھر میں اتار دیا۔“

کے بارے میں فرمایا: کہ یہ قریش کے دو فاجر قبیلے تھے بنو مغیرہ اور بنو امیہ۔ ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ

۴۴۵۳..... (مسند علی رضی اللہ عنہ) الم تر الی الذین بدلوا نعمة اللہ کفراً۔ ابراہیم: ۲۸

کے متعلق فرمایا یہ قریش کے دو فاجر قبیلے ہیں بنو مغیرہ اور بنو امیہ۔ بنو مغیرہ کی جڑ تو اللہ نے جنگ بدر میں کاٹ دی تھی۔ جبکہ بنو امیہ کو ایک وقت تک کے لیے ڈھیل مل گئی ہے۔ ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ، الصغیر للطبرانی

اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدلنے والے

۴۴۵۴..... ابو طفیل سے مروی ہے کہ ابن الکواء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو

ناشکری سے بدل دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ قریش کے فاجر لوگ ہیں۔ بدو کا دن ان کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ ابن الکواء نے

پوچھا: وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

الذین ضل سعيهم فی الحیاة الدنیا۔ الکہف: ۱۰۴

وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کہہ رہے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: فرقہ حروریہ کے لوگ ہیں۔

عبدالرزاق، الفریابی، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، البیہقی فی الدلائل

فائدہ: یعنی ہر گمراہ فرقہ اس زمرے میں داخل ہے جن کی دنیاوی زندگی میں عبادت و ریاضت بے کار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ اہل بدعت و ضلالت اور دین میں نئی باتیں داخل کرنے والے اس وعید میں شامل ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔

۴۳۵۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا گیا (جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے) کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ بدل دیا۔ فرمایا: وہ (قریش میں) سے بنو امیہ اور ابو جہل کا قبیلہ بنی مخزوم ہے۔ رواہ ابن مردویہ

گذشتہ روایات سے اس کا تعارض نہیں کیونکہ بنی مخزوم بنی مغیرہ کے بڑے قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ اور گذشتہ روایات میں بنی مغیرہ کا ذکر آیا ہے۔

۴۳۵۶ ارطاة رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اس زمرے سے قریش کے علاوہ دوسرے لوگ بری ہیں۔ رواہ ابن مردویہ

۴۳۵۷ ابن ابی حسین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو فرمایا: کوئی مجھ سے قرآن (کی تفسیر) کے بارے میں سوال کیوں نہیں کرتا۔ پھر فرمایا (میرا تو یہ حال ہے کہ) خدا کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ کوئی شخص قرآن کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور وہ تمام سمندروں کے پار ہوتا تو میں ضرور اس شخص کے پاس جاتا۔ (جبکہ تم کو یہاں پر نعمت میسر ہے اور سوال نہیں کرتے)۔ چنانچہ حضرت ابن الکواء نے سوال کیا: وہ کون لوگ ہیں:

جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ سورہ ابراہیم: ۲۸

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: یہ مشرک لوگ ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی (عظیم) نعمت ایمان کی دولت آئی لیکن انہوں نے اس کو ٹھکرا کر اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں ڈال دیا۔ ابن ابی حاتم

کافروں کی دین دشمنی

۴۳۵۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کو یوں پڑھتے تھے

وان کاد مکروہم لتزول منه الجبال - ابراہیم: ۲۶

گودہ (کافروں کی تدبیریں) ایسی تھیں کہ پہاڑ بھی ان سے ٹل جائیں۔

یعنی کان کی جگہ کا پڑھ کر اس کے معنی بیان کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان فرمائی:

جابر سرکش بادشاہوں میں سے ایک جابر بادشاہ نے کہا: میں آخری حد تک اوپر جاؤں گا اور دیکھوں گا آسمانوں میں کیا ہے؟ چنانچہ اس نے گدھے کے بچے لانے کا حکم دیا اور ان کو خوب گوشت کھلایا حتیٰ کہ وہ بڑے مضبوط اور توانا ہو گئے پھر ایک تابوت بنانے کا حکم دیا جس میں دو آدمی سما سکیں۔ پھر اس تابوت کے درمیان ایک اونچی لکڑی لگوائی۔

لکڑی کے اوپر سرے پر گوشت بندھوایا۔ پھر گدھوں کو تابوت کے اوپر بندھوایا۔ جبکہ گوشت ان سے اوپر تھا۔ اور پہلے اچھی طرح ان کو بھوکا رکھا۔ پھر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اندر بیٹھ گیا۔ اور گدھوں (کرگسوں) کو کھول دیا چنانچہ وہ گوشت کی طرف لپکے چونکہ بندھے ہوئے تھے اس لیے تابوت کو لے کر اوپر گوشت کی طرف اڑتے رہے۔

جہاں تک اللہ نے چاہا وہ اڑے۔ پھر بادشاہ نے اپنے ساتھی کو کہا دروازہ کھول کے دیکھو کیا نظر آتا ہے اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بولا میں پہاڑوں کو دیکھ رہا ہوں جو مکھی کی طرح نظر آرہے ہیں۔ بادشاہ نے دروازہ بند کرنے کو کہا۔ گدھ اور اوپر اڑے جس قدر اللہ نے چاہا۔ پھر بادشاہ نے کہا: دیکھو، ساتھی نے کھول کر دیکھا اور کہا: مجھے صرف آسمان نظر آرہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آسمان قریب ہونے کے بجائے مزید بلند ہوتا جا رہا ہے پھر بادشاہ نے (عاجز ہو کر) کہا لکڑی کا رخ نیچے کر دو۔ گدھ اب گوشت کھانے کے لیے نیچے لپکے۔

پھر پہاڑوں نے ان کا پھڑ پھڑانا سنا تو قریب تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل جاتے اسی کے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے:
اور ان کے مکر اور تدبیریں ایسی تھیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔

ابراہیم: ۴۶. عبد اللہ بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن الانباری فی المصاحف

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ

۴۴۵۹. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ارشاد فرمایا:

جس شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا اس نے دو گرس (گدھ) کے بچے لیے اور ان کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ موٹے تازہ اور جوان ہو گئے۔ چنانچہ پھر اس نے ہر ایک کی ایک ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ کر تابوت کو رسی باندھ دی اور دونوں کو بھوکا رکھا۔ پھر تابوت میں اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر بیٹھ گیا پھر ایک لاٹھی پر گوشت بندھوا کر تابوت کے اوپر لگوا دی۔ چنانچہ دونوں کر گس اڑے۔ اندر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے دوسرے کو کہا: کیا تم دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا: یہ یہ دیکھ رہا ہوں حتیٰ کہ ایک بلندی پر پہنچ کر کہا: میں دنیا کو کھسی کے مثل دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو حکم دیا کہ لکڑی سیدھی کر دو (یعنی اس کا رخ نیچے کی طرف کر دو) چنانچہ پھر دونوں نیچے اتر آئے اور یہی فرمان باری کا مطلب ہے:

وان کان مکروہم لتزول منه الجبال - ابراہیم: ۴۶

اور اگر چہ ان کی تدبیریں (ایسی تھیں کہ) ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ رواہ ابن جریر

۴۴۶۰. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات. ابراہیم: ۴۸

”جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی (دوسرے آسمانوں سے بدل دیئے جائیں گے)۔“

اس زمین کو ایسی سفید زمین سے بدل دیا جائے گا جس پر کوئی گناہ نہ ہو اور نہ اس پر کسی کا خون بہایا ہوگا۔ رواہ ابن مردویہ

کلام: اس روایت میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہن جاہ (بھانجا) سیف بن محمد ہے جو کذاب ہے۔ کنز ج ۲ ص ۴۴۶

سورۃ الحجر

۴۴۶۱. (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ”السنج المثنائی“ سے مراد سورۃ فاتحہ ہے۔ ابن جریر، ابن المنذر

۴۴۶۲. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمان الہی:

ولقد آتیناک سبعا من المثنائی والقرآن العظیم۔

اور ہم نے آپ کو سات بار بار پڑھی جانے والی اور قرآن عظیم عطا کیا۔

کے متعلق منقول ہے کہ سات پڑھی جانے والی سے مراد سات ابتدائی طویل سورتیں ہیں۔ رواہ ابن مردویہ

۴۴۶۳. (مسند علی رضی اللہ عنہ) حطان بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

کیا تم جانتے ہو جہنم کے دروازے کیسے ہوں گے؟ ہم نے عرض کیا: تمام ان دروازوں جیسے فرمایا نہیں۔ بلکہ اس طرح پھر آپ رضی اللہ عنہ

نے ہاتھ کھولا اور اس پر دوسرا ہاتھ کھول کر دکھایا (یعنی جہنم کے دروازے دائیں بائیں کی بجائے اوپر نیچے ہوں گے)۔

الزهد الامام احمد، عبد بن حمید

۴۴۶۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان الہی:

ونزنا مافی صدور ہم من غل - الحجر: ۴۷

اور ہم ان (جنتیوں) کے دلوں سے کھوٹ نکال دیں گے۔

کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں یعنی ہر طرح کی عداوت اور دشمنی ان میں سے نکال دیں گے۔ رواہ ابن جریر

۴۴۶۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان:

فاصفح الصفح الجمیل - الحجر: ۷۵

تو تم اچھی طرح سے درگزر کرو۔

کے بارے میں تفسیر منقول ہے یعنی تم بغیر عتاب (اور سزا) کے ان سے راضی رہو۔ ابن مردویہ، ابن النجار فی تاریخہ

۴۴۶۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان الہی:

ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم - الحجر: ۸۷

اور ہم نے آپ کو سات جو دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا۔

کے متعلق ارشاد فرمایا اس سے سورۃ فاتحہ مراد ہے۔

القیلابی، شعب الایمان للبیہقی، ابن الضریس فی فضائلہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

دل کا صاف ہونا

۴۴۶۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے فرزند موسیٰ بن طلحہ کو فرمایا: مجھے امید ہے کہ

میں اور تمہارا باپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ونزنا مافی صدور ہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین - الحجر: ۴۷

اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ہم اس کو نکال کر (صاف کر) دیں گے۔ (گویا) بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے

سامنے بیٹھے ہیں۔

ایک ہدائی شخص نے (طعن کرتے ہوئے) کہا: اللہ انصاف کرنے والا ہے (یعنی یہ مرتبہ آپ کو نہیں ملے گا) یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ

عنہ چیخ پڑے اور فرمایا: اگر ہم (اصحاب و اہل بیت رسول) اس کے اہل نہیں تو اور کون اس کے اہل ہوں گے؟

السنن لسعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، عقیلی فی الضعفاء، الاوسط للطبرانی، ابن مردویہ، السنن للبیہقی

۴۴۶۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میں عثمان بن عفان، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ ان لوگوں میں

سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ونزنا مافی صدور ہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین - الحجر: ۴۷

اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی اس کو ہم نکال کر (صاف کر) دیں گے۔ (گویا) بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے

کے سامنے بیٹھے ہیں۔

ابن مردویہ، ابن ابی شیبہ، السنن لسعید بن منصور، الفتن لتیم بن حماد، مسدد، ابن ابی عاصم، الکبیر للطبرانی، السنن للبیہقی

فائدہ: یعنی جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو تھوڑی بہت رنجش ہوگی وہ جنت میں صاف ہو جائے گی اور سب آپس میں بھائی

بھائی ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے مسلمان ان کو بھی اللہ تعالیٰ بھائی بھائی بنا دیں گے۔

۴۳۷۰۔ ونزنا مافی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین - الحجور: ۴۷

ترجمہ:..... اور ہم ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی نکال دیں گے (گویا) وہ بھائی بھائی ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مذکورہ فرمان باری تعالیٰ کے متعلق ارشاد فرمایا: یہ عرب کے تین قبائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے: بنی ہاشم، بنی تیم، بنی عدی، اور میرے بارے میں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔

ابن مردویہ، القاری فی فضائل الصدیق

فائدہ:..... حضرت علی بن ہاشم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بن تیم اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔

(طبقات ابن سعد)

خلفاء راشدین کے فضائل

۴۳۷۱۔ کثیر النواء سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو جعفر (صادق رحمہ اللہ) کو کہا: مجھے فلاں شخص نے علی بن الحسین (امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ) کی طرف سے بیان کیا کہ ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے:

ونزنا مافی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین - الحجور: ۴۷

تو حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! انہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کن کے بارے میں نازل ہو سکتی ہے ان کے سوا؟ کثیر النواء کہتے ہیں: میں نے کہا: پھر وہ کونسا کھوٹ تھا۔ فرمایا جاہلیت کا کھوٹ تھا۔ بنی تیم بنی عدی اور بنی ہاشم کے درمیان زمانہ جاہلیت میں کچھ (عنناد) تھا۔ پھر جب یہ لوگ اسلام لے آئے تو محبت میں سیر و شکر ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلو میں درد ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو گرم کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو کو سینکنے لگے تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ابن ابی حاتم، ابن عساکر کلام:..... ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ آل علی رضی اللہ عنہ میں سے عظیم بزرگ تھے۔ اور کثیر النواء یہ کثیر بن اسماعیل النواء شیعہ ہے۔ جس کو ابو حاتم اور امام نسائی نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں یہ تشیع میں غلو کرتا تھا۔ سعدی فرماتے ہیں یہ گمراہ انسان تھا۔ دیکھئے میزان الاعتدال ۲/۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴۔

۴۳۷۲۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! ہم اہل بدر کے بارے میں یہ فرمان خداوندی نازل ہوا:

ونزنا مافی صدورهم من غل اخوانا علی سرور متقابلین - الحجور: ۴۷

اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ہم اس کو نکال (کرساف) کر دیں گے۔ (گویا) بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبدالرزاق، السنن لسعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابوالشیخ، ابن مردویہ

سورة النحل

۴۳۷۳۔ (مسد علی رضی اللہ عنہ) واقسموا باللہ جہد ایمانہم لایبعث اللہ من یموت - النحل: ۳۸

اور یہ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں جو مر جاتا ہے خدا سے نہیں اٹھائے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا: یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ الضعفاء للعقیلی، ابن مردویہ

فائدہ:..... غالباً روایت کے الفاظ مکمل نہیں اس وجہ سے یہ مفہوم نکل رہا ہے ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے

آپ کو ان لوگوں میں شمار کریں جو بعثت بعد الموت کا قائل نہ ہوں۔
۴۴۷۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمان الہی:

و منکم من یرد الی ارض العمر - النحل: ۷۰

اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔

کے متعلق تفسیر منقول ہے کہ خراب عمر سے مراد پچھتر ۷۵ سال کی عمر ہے۔ رواہ ابن جریر

۴۴۷۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کچھ لوگوں کے پاس سے گذر ہوا جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ کس چیز میں مشغول ہو؟ انہوں نے عرض کیا: ہم مروت اور اخلاق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کو (اس موضوع پر) کتاب اللہ کا یہ فرمان کافی نہیں ہے کہ:

ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔

اللہ تم کو عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔

پھر فرمایا: عدل سے مراد انصاف ہے اور احسان انصاف کے بعد مزید انعام کرنا ہے۔ رواہ ابن النجار

شہداء احد کی تعداد

۴۴۷۶ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے دن مسلمین انصار کے چونسٹھ ۶۳ اور مسلمین مہاجرین کے چھ اشخاص شہید ہوئے۔ انہی چھ میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ (حضور ﷺ کے چچا) بھی تھے۔ جن کا حلیہ مشرکین نے انتہائی بیدردی سے بگاڑ دیا تھا۔ انصار کہنے لگے: اگر کبھی اور کوئی دن جنگ کا ملاتا تو ہم سو دے کے ساتھ ان کو جواب دیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ میں مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی (اور تمام کفار و مشرکین مسلمانوں کے زیر دست ہو گئے) تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا:

وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به ولن صبرتم لہو خیر للصابرین - النحل: ۱۳۶

اور اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تم کو پہنچی ہے اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔

اسی بدلے کے غم میں ایک شخص نے فتح مکہ کے موقع پر کہا: آج کے بعد قریش کا نام نشان نہ رہے گا۔ لیکن حضور ﷺ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا:

ہم صبر کریں گے اور سزا نہیں دیں گے لہذا تم چار اشخاص کے سوا کسی کو بھی تکلیف پہنچانے سے گریز کرو۔

ترمذی، حسن غریب، حدیث ابی رضی اللہ عنہ، زیادات عبد اللہ بن احمد بن حنبل، نسائی، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن

خزیمہ، فی الفوائد ابن حبان، الکبیر للطبرانی، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم، الدلائل للبیہقی

فائدہ: حضور ﷺ نے چھ مردوں اور چار عورتوں کے سوا اقل عام سے روک دیا تھا۔ مردوں میں عکرمہ بن ابی جہل، جو بعد میں مسلمان ہو کر

عظیم کارنامے انجام دینے والے بنے۔ بہاؤ بن الاسود، عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح، مقیس بن صبابہ اللیشی، حورث بن نقیذ، عبد اللہ بن ہلال

نخل ادرسی۔ عورتوں میں ہند بنت عتبہ (جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چپایا تھا اور یہ بعد میں مسلمان ہو گئیں) عمرو بن ہاشم کی باندی

سارہ فرقتا اور قریبہ۔

ان دس افراد میں سے عبد اللہ بن ہلال بن نخل، حورث بن نقیذ اور مقیس بن صبابہ کو قتل کر دیا تھا۔ دیکھئے الطبقات لابن سعد الجزء الثانی

ص ۳۱۷ مطبوعہ بیدار احیاء التراث۔

سورة الاسراء

۴۴۷۷ (مسند علی رضی اللہ عنہ) فرمان الہی ہے:

لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علواً کبیراً . الاسراء: ۴

تم زمین میں دو مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (بنی اسرائیل نے پہلی مرتبہ سرکشی میں) ذکر یا علیہ السلام کو قتل کیا اور دوسری مرتبہ میں حضرت یحییٰ علیہ

السلام کو قتل کیا۔ رواہ ابن عساکر

۴۴۷۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان الہی:

فمحونا آیة اللیل - الاسراء: ۱۲

ہم نے رات کی نشانی کو تارک کیا۔

کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: رات کی نشانی وہ سیاہی ہے جو چاند میں ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۴۴۷۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ مذکورہ آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: رات اور دن برابر تھے۔ پھر اللہ نے رات کی نشانی کو مٹا دیا چنانچہ وہ

تاریک ہو گئی اور دن کی روشنی کو یونہی رہنے دیا جیسے وہ تھی۔ رواہ ابن مردویہ

۴۴۸۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: جب سائے ڈھلنے لگیں اور ہوائیں چل پڑیں تو اس وقت اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگو یہ

اوابین (اللہ کے نیک بندوں) کی مسالحت ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

فانه کان للواوین غفوراً - الاسراء: ۵

بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ابن ابی شیبہ، ہناد

۴۴۸۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دلوک الشمس کے معنی سورج کے غروب ہونا فرمائے ہیں۔ ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۴۴۸۲ (مسند سلمان رضی اللہ عنہ) حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق میں سب سے پہلے ان

کا سر بنایا اور وہ دیکھنے لگے جبکہ (ابھی ان کی تخلیق مکمل نہ ہوئی تھی اور) ٹانگیں باقی تھیں۔ جب عصر کے بعد کا وقت ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام دعا

کرنے لگے یا رب رات سے پہلے پہلے میری پیدائش مکمل فرما دے۔ پس یہی اللہ کے فرمان کا مطلب ہے:

وکان الانسان عجولاً - الاسراء: ۱۱

اور انسان جلد باز (پیدا ہوا) ہے۔ رواہ ابن ابی شیبہ

اعلانہ گناہوں کا ذکر

۴۴۸۳ (مسند صفوان بن عسال) صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی کو کہا: آؤ اس نبی کے پاس

چلیں۔ اس نے کہا: اس کو نبی نہ کہو، اگر سن لیا تو (خوشی سے) اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ پھر وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے۔

اور نوکھلی نشانہوں کے بارے میں پوچھا:

آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، جس جان کو اللہ نے محترم کر دیا اس کو قتل نہ کرو مگر کسی حق کے

ساتھ، بادشاہ کے پاس کسی بے وضوء کو نہ لے جاؤ جو اس کو قتل کر دے، جاؤ نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاکدامن پر تہمت نہ لگاؤ، اسلام کی لڑائی کے وقت

پیٹھ دے کر نہ بھاگو اور اے یہود بوا! خاص طور پر تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ ہفتہ کے دن تجاوز نہ کرو۔

چنانچہ ان یہودیوں نے آپ ﷺ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسے دیئے اور بولے: ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: پھر تم کو کیا چیز مانع ہے کہ تم میری اتباع نہیں کرتے؟ کہنے لگے: داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی رہے۔ اور ہمیں خوف ہے کہ (اگر ہم نے آپ کی اتباع کر لی تو) یہودی ہم کو قتل نہ کر ڈالیں۔ ابن ابی شیبہ (مسند عبد الرحمن بن عبد اللہ ثقفی، معروف بہ ابن ام الحکم) ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو (حضور ﷺ کی) صحبت میسر ہوئی تھی۔

عبد الرحمن بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ مدینہ کی کسی گلی میں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ سے کچھ یہودی ملے اور کہنے لگے: اے محمد! روح کیا ہے؟ آپ ﷺ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی۔ آپ ﷺ اس پر سہارا دے کر کھڑے ہو گئے اور چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھالیا۔ پھر فرمایا (فرمان الہی ہے):

و یستلونک عن الروح سے آپ نے قلبی لائیک تلاوت فرمائی۔ الاسراء: ۷۵

اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہ وہ میرے پروردگار کی شان ہے اور تم لوگوں کو (بہت ہی) کم علم دیا گیا ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کو یہ حکم سنا کر ناراض اور شرمندہ کر دیا۔

طلوع فجر سے پہلے دعا کا اہتمام

۴۲۸۵ (مسند ابی الدرداء رضی اللہ عنہ) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل رات کی آخری تین گھڑیوں میں ذکر کھولتے ہیں۔ پہلی گھڑی میں اس کتاب میں نظر فرماتے ہیں جس کو اس کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لکھا رہنے دیتے ہیں۔ دوسری گھڑی میں جنت عدن کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا وہ گھر ہے جس کو ابھی تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال تک گذرا (کہ وہ کیسی ہے اور اس میں کیا کیا ہے) یہ اللہ کا مسکن ہے۔ اس میں بنی آدم میں سے صرف تین قسم کے لوگ رہیں گے۔ انبیاء، صدیقین اور شہداء۔ پھر اللہ تعالیٰ اس جنت کو فرماتے ہیں: خوشی کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو تجھ میں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسری گھڑی میں روح الامین (جبرئیل علیہ السلام) اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر اترتے ہیں۔ اور روح الامین اور دوسرے فرشتے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

میری عزت کی قسم کھڑے ہو جاؤ، پھر بندوں کو ارشاد فرماتے ہیں: کوئی ہے مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں؟ کوئی ہے سائل میں اس کو عطا کروں؟ کوئی ہے مانگنے والا میں اس کی پکار کو سنوں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے یہی مطلب ہے ارشاد ربانی کا:

وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہوداً۔ الاسراء: ۷۸

اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن پڑھنا (جہاں ہوتا ہے وہاں) ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔

یعنی اس وقت رات اور دن کے ملائکہ اٹھتے ہو کر اس کا قرآن سنتے ہیں۔ اور اللہ پاک بھی اس کا قرآن سنتے ہیں۔ ابن جریر، ابی الدرداء ۴۲۸۶ ابو جعفر محمد رحمۃ اللہ علیہ بن علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چھپا کر آہستہ سے کیوں پڑھتے ہو، اللہ کا نام کس قدر اچھا نام ہے اور اس کو تم پست آواز میں کہتے ہو۔ بے شک رسول اللہ ﷺ جب گھر میں داخل ہوتے اور قریش آپ کے پاس جمع ہوتے تو بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ اور قریش پیٹھ دے کر بھاگ جاتے تھے۔ تب اللہ پاک نے یہ فرمان نازل فرمایا:

واذا ذکرت ربک فی القرآن وحده ولو اعلىٰ اذبارہم نفوراً۔ الاسراء: ۷۶

اور جب قرآن میں اپنے پروردگار کیلئے کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے ہیں اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ رواہ ابن النجار

۴۳۸۷ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں بنا کیں باقی جسم سے پہلے تو انہوں نے عرض کیا: پروردگار! سورج غروب ہونے سے قبل میری باقی تخلیق مکمل فرمادے۔ تب اللہ پاک نے (نازل) فرمایا:

وكان الانسان عجولا - اسراء: ۱۱
اور انسان جلد باز (بیرا ہوا) ہے۔

سورة الكهف

۴۳۸۸ (مسند علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

وكان تحتہ كنز لهما

اور ان کے نیچے ان کا خزانہ (مدفون) تھا۔

فرمایا کہ وہ خزانہ ایک سونے کی تختی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا:

میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔

مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو تقدیر (خدا) پر ایمان رکھتا ہے۔

اور پھر بھی رنجیدہ خاطر ہوتا ہے، تعجب ہے مجھے ایسے شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی خوش ہوتا پھر تا ہے۔ اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو رات و دن کی گردش میں غور و فکر کرتا ہے اور پھر بھی لمحہ بہ لمحہ پیدا ہونے والے حوادث سے مطمئن ہے۔

مدفون خزانے کیا تھے؟

۴۳۸۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

وكان تحتہ كنز لهما - الكهف: ۸۲

اور اس کے نیچے ان کا خزانہ (مدفون) تھا۔

کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں وہ خزانہ سونے کی ایک تختی تھی، جس میں لکھا ہوا تھا:

لا اله الا الله محمد رسول الله -

تعجب ہے مجھے ایسے شخص پر جو موت کو حق سمجھتا ہے اور پھر بھی خوش ہوتا ہے تعجب ہے مجھے ایسے شخص پر جو دوزخ کو حق سمجھتا ہے اور پھر ہنستا ہے،

مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو تقدیر کو حق سمجھتا ہے اور پھر بھی رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے اور تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو دکھتا ہے اور اسی کی اپنے اہل

کے ساتھ حشر آرائیاں دکھتا ہے پھر بھی اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ شعب الایمان للبیہقی

۴۳۹۰ سالم بن ابی الجعد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیا حضرت ذوالقرنین نبی

تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے تمہارے پیغمبر ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ ایک غلام تھے۔ دوسرے الفاظ یہ آئے ہیں: وہ ایک مخلص

انسان تھے۔ اللہ نے ان کو چاقی عطا فرمائی تھی۔ اور تمہارے اندر ان کی شبیہ یا مثال موجود ہے۔ رواہ ابن مردویہ

۴۳۹۱ ابوالطفیل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابن الکواء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا

کہ وہ نبی تھے یا بادشاہ تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ نبی تھے اور نہ بادشاہ۔ بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے اللہ سے محبت

رکھی اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا۔ انہوں نے اللہ کے لیے خلوص کو اپنایا اللہ نے ان کو خلوص اور سچائی مرحمت فرمائی۔ پھر اللہ نے ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے آپ کے قرن (یعنی سر) پر مارا جس سے آپ جان بحق ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو دوبارہ زندہ کرنا بخشی تاکہ آپ اس قوم سے جہاد کریں انہوں نے دوبارہ آپ کے سر کے دوسری طرف مارا اور آپ پھر جان بحق ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو پھر ان سے جہاد کے لیے زندہ کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذوالقرنین کہا گیا اور تمہارے درمیان ان کی مثال موجود ہے۔

ابن عبدالحکم فی فتوح مصر، ابن ابی عاصم فی السنۃ، ابن الانباری فی المصاحف، ابن مردویہ، ابن المنذر، ابن ابی عاصم

ذوالقرنین کا ذکر

۴۳۹۲ ابوالبرقاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: ذوالقرنین کی یہ قرنین کیا چیز تھے؟ (قرن کے معنی سینگ کے آتے ہیں قرنین دو سینگوں والا) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: تمہارا خیال ہوگا کہ وہ سونے یا چاندی کے سینگ تھے۔ درحقیقت اللہ نے ان کو ایک قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر آپ کے بائیں جانب سر پر چوٹ ماری جس سے آپ جاں بحق ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو پھر زندہ کر دیا اور لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا: پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر آپ کے سر پر دائیں طرف چوٹ ماری جس سے آپ جاں بحق ہو گئے اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو ذوالقرنین فرمایا۔ ابو الشیخ فی العظمتہ

فائدہ: قرن کے معنی سینگ کے علاوہ اور بہت سے آتے ہیں جن میں ایک معنی سر کی ایک جانب بھی ہے جہاں جانوروں کو سینگ نکلتے ہیں چنانچہ دونوں جانبوں کو قرنین کہا گیا ہے اور ذوالقرنین والا ہے اس طرح آپ کا نام ذوالقرنین پڑ گیا۔

۴۳۹۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ابا ارشاد فرمایا: وہ ایک عام بندہ خدا تھے۔ انہوں نے اللہ سے محبت قائم کی، اللہ نے بھی ان سے محبت قائم کی، انہوں نے اللہ کے لیے سچائی اور خلوص کا راستہ اپنایا اللہ نے ان کو اپنا برگزیدہ کر لیا۔ پھر اللہ نے ان کو اپنی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو اللہ کی طرف بلائیں، چنانچہ انہوں نے ان کو اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دی۔

آپ کی قوم نے آپ کے سر کے دائیں طرف چوٹ ماری جس سے آپ جاں بحق ہو گئے۔ پھر جتنی مدت اللہ نے چاہا آپ کو یونہی رہنے دیا۔ پھر دوبارہ اٹھایا اور دوسری قوم کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا: چنانچہ انہوں نے حکم کی بجا آوری کی۔ دوسری قوم والوں نے آپ کے سر کے بائیں جانب چوٹ ماری جس کے صدمے سے آپ پھر ہلاک ہو گئے۔ اللہ نے جتنی مدت چاہا (اس بار بھی موت کی چادر میں) لپٹے رہنے دیا۔ پھر اللہ نے ان کو اٹھایا اور بادلوں کو آپ کے تابع کر دیا۔ اور ان کے انتخاب میں آپ کو اختیار دیا۔ حضرت ذوالقرنین نے سخت بادلوں کو نرم بادلوں کے مقابلے میں پسند کیا چونکہ وہ برستے نہیں۔

اور نور (روشنی) آپ کے لیے کشادہ کر دی اور اسباب کی خوب فراوانی عطا کی دن اور رات آپ کے لیے برابر کر دیئے انہی نعمتوں کی بدولت آپ نے زمین کے مشرق و مغرب تمام کو یوں کھنگال ڈالا۔

ابن اسحاق، الفریابی، کتاب من عاش بعد الموت لابن ابی الدنیا، ابن المنذر، ابن ابی حاتم ۴۳۹۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ترک کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ ہر وقت گردش میں رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں اور یہ یا چون ماجوج کی قوم میں سے ہیں۔ یہ لوگوں پر عارت گری اور فساد مچانے نکلتے تھے۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے آکر ان کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان (سد سکندری نامی) دیوار کھڑی کر دی۔ اب وہ (دیوار کے اس پار) زمین میں گھومتے پھرتے ہیں۔ ابن المنذر

یا جوج ماجوج کا ذکر

۴۳۹۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یا جوج ماجوج دیوار کے پیچھے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہیں مرتا جب تک کہ اس کی اولاد میں سے ہزار افراد پیدا ہو جائیں۔ وہ ہر روز صبح کو دیوار پر آتے ہیں اور اس کو چاٹتے ہیں حتیٰ کہ اس کو انڈے کے چھلکے کی مانند کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ چلو کل اس کو کھول لیں گے۔ چنانچہ جب وہ اگلے روز صبح کو آتے ہیں تو چاٹنے سے پہلے دیوار جس حالت پر تھی اس پر پاتے ہیں۔

پس یہ لوگ اسی طرح مشقت میں مبتلا رہیں گے حتیٰ کہ ان میں ایک مسلمان پیدا ہوگا۔ پھر جب وہ صبح کو جائیں گے تو یہ مسلمان ان کو کہے گا: بسم اللہ کہو۔ پس وہ بسم اللہ کہہ کر کام شروع کر دیں گے۔ شام کو وہ لوٹنا چاہیں گے اور کہیں گے کل اس کو کھول دیں گے۔ مسلمان ان کو کہے گا ان شاء اللہ کہو۔ چنانچہ ان شاء اللہ پھر وہ صبح کو آئیں گے تو دیوار کو گذشتہ شام کی حالت پر چھلکے کی طرح ہی پائیں گے۔ لہذا وہ اس میں باسانی سوراخ کر لیں گے۔ اور وہاں سے نکل نکل کر انسانوں پر اڑا آئیں گے سب سے پہلے جو نکلیں گے وہ ستر ہزار تعداد میں ہوں گے جن کے سروں پر تاج ہوں گے۔ اس کے بعد وہ فوج در فوج نکلتے ہی جائیں گے۔ پھر وہ تمہاری اس نہر فرات کی طرح کسی نہر پر آئیں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے ان کے پیچھے والی فوج آئے گی تو نہر کو خشک دیکھ کر کہے گی: یہاں کبھی پانی ہوتا ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فاذا جاء وعد ربی جعله دكاء وکان وعد ربی حقا۔ الکہف: ۹۸

جب میرے پروردگار کا وعدہ آجائے گا تو اس کو (ڈھا کر) ہموار کر دے گا اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: الدکاء ریت ہے۔ (یعنی اس دیوار کو ریت کا گھر وندہ بنا دے گا)۔ ابن ابی حاتم
۴۳۹۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد خداوندی:

قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا۔ الخ۔ الکہف: ۱۰۳-۱۰۴
”کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی برباد ہو گئی۔“
کے متعلق ارشاد فرمایا: یہ وہ راہب لوگ ہیں جنہوں نے گرجوں میں اپنے آپ کو مقید کر لیا ہے۔ ابن المنذر، ابن ابی حاتم
۴۳۹۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا:

قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ الکہف: ۱۰۳

کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میرا خیال ہے کہ ضرور خوارج لوگ انہی میں سے ہیں۔ عبدالرزاق، الفریابی، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

البوجہل اور اس کے ساتھی کفر کا سر غنہ ہیں

۴۳۹۸ حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ بن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ ایک شخص نے (میرے والد صحابی رسول) حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو کہا: میں سمجھتا ہوں کہ تم کفر کے سر غنہ لوگوں میں سے ہو! حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، وہ تو ابو جہل اور اس کے ساتھی ہیں۔ اس شخص نے پوچھا اچھا وہ لوگ وہی ہیں جن کے بارے میں فرمان خداوندی ہے:

الذین ضل سعیہم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ الکہف: ۱۰۴

وہ لوگ جن کی سعی دنیا میں بے کار ہوگئی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں بلکہ ان (یعنی ابو جہل اور اس کے اصحاب) کے بارے میں تو یہ فرمان الہی ہے: اولئك الذين كفرو بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا. الكهف ۱۰۵۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ رواہ ابن عساکر

سب سے زیادہ علم والا کون؟

۲۳۹۹ (مسند ابی رضی اللہ عنہ) حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان خطبہ دینے کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سوال کیا: لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب سے ناراض ہو گئے کہ یہ کیوں نہیں کہا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ لوگوں میں کہ کون زیادہ علم والا ہے؟ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ دونوں سمندروں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے وہ تجھ سے زیادہ جانتے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے پروردگار! میرے لیے اس سے ملاقات کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا: تھیلے میں ایک مچھلی لو۔ (اور سفر پر چل دو) جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہی تمہاری منزل ہے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل دیئے اور اپنے ساتھ ایک نوجوان یوشع بن نون کو بھی لے لیا۔ دونوں نے ایک تھیلے میں مچھلی بھی ساتھ کر لی۔ حتیٰ کہ جب وہ ایک چٹان پر پہنچے تو لیت کر سو گئے۔ مچھلی تھیلے سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے جانے کا نشان سمندر میں باقی رہ گیا۔ اسی نشان پر موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا۔ پھر دونوں باقی دن اور رات سفر کرتے رہے اگلے دن صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو فرمایا: ہمارا کھانا لاؤ۔ اس سفر میں بڑی تھکاوٹ ہوگئی ہے۔ اور یہ تھکاوٹ اس مقررہ جگہ سے آگے نکلنے کے بعد پہنچی تھی جس جگہ کا اللہ نے ان کو حکم فرمایا تھا چنانچہ جوان نے جواب دیا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم جب چٹان پر تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اسی مقام کی تو ہم کو تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں اپنے نشانات قدم پر واپس آئے جب وہ واپس چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک شخص کو کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: تیری سرزمین میں یہ سلام کہاں سے آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں ہوں موسیٰ۔ حضرت علیہ السلام نے پوچھا: بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ نے فرمایا: جی ہاں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ جو آپ کو علم سکھایا گیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھادیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ! میں ایک علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اور تم بھی اللہ کے علم میں سے ایک علم پر ہو جس کو میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا: تم مجھے ان شاء اللہ صابرین میں سے پاؤ گے اور میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں ساحل کے کنارے کنارے چلنے لگے راستے میں ایک کشتی ملی کشتی والوں سے بات کی کہ ہم دونوں کو سوار کر لیں۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر کرائے کے دونوں کو سوار کر لیا۔ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ اور سمندر میں ایک یادو چونچ ماری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: اے موسیٰ علیہ السلام! میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس سمندر سے چڑیانے ایک یادو چونچ پانی پی لیا ہوگا۔

پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ان لوگوں نے ہم کو بغیر کرائے کے سوار کیا جبکہ آپ نے ان کی کشتی پھاڑ ڈالی تاکہ اس میں سوار لوگ غرق ہو جائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: مجھ سے بھول ہوگئی اس پر میرا مواخذہ نہ

کیجیے۔ یہ پہلی بار تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہوئی تھی۔ پھر دونوں چل پڑے۔ دیکھا کہ ایک بچہ بچوں کے ساتھ کھیل کود رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑا اور گردن توڑ دی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تو نے ایک معصوم جان قتل کر دی بغیر کسی پاداش کے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: میں نے کہا تھا ناں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر دونوں آگے چل پڑے۔ حتیٰ کہ ایک بستی میں پہنچے۔ دونوں حضرات نے بستی والوں سے کھانا پانی طلب کیا۔ لیکن انہوں نے ان دو حضرات کی مہمان نوازی کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ پھر دونوں کو ایک دیوار نظر آئی جو قریب تھا کہ گر جاتی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:

اگر تم چاہو تو اس دیوار ٹھیک کرنے کی اجرت لے سکتے ہو۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: پس یہ تمہارا اور میرا فراق کا وقت آ گیا ہے۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائیں اگر وہ صبر کرتے تو ہمیں ان کے اور بھی واقعات ملتے۔

مسند احمد، الحمیدی، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن خزیمہ، ابو عوانہ، شعب الایمان للبیہقی

۴۵۰۰ (ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) حضور ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ فرمان باری تعالیٰ:

فابوا ان یضیفوہما - الکہف

بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔

لیکن مذکورہ بستی والے کہنے لوگ تھے۔ نسائی، الدیلمی، ابن مردویہ

۴۵۰۱ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

خیراً منہ زکاة واقرب رحماً - الکہف ۸۱

ان کو اور (بچہ) عطا فرمائے جو پاک طہیتی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ اس کی ماں اس وقت دوسرے بچے کے ساتھ حاملہ ہوگی۔

۴۵۰۲ عبد الوہاب بن عطاء الخفاف کہتے ہیں کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا جس پر میں بھی گواہ ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے:

فمن کان یرجو القاء ربہ فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدًا - الکہف: آخری آیت

پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی وہ عمل کرے اچھا عمل اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہم سے ابوصالح نے بیان کیا کہ عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں دیگر اصحاب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھے تھے انہی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن غنم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اے لوگو! میں تم پر سب سے زیادہ شرک خفی کا خوف کرتا ہوں۔

جزیرۃ العرب کا شرک سے پاک ہونا

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اے اللہ! ہماری مغفرت فرما۔ پھر فرمایا: کیا تم نے نبی کریم ﷺ کا ارشاد نہیں سنا جب آپ ہمیں الوداع کہنے کے قریب تھے کہ آپ علیہ

السلام نے فرمایا:

شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اس جزیرے میں اس کی عبادت کی جائے گی۔ لیکن ان اعمال میں اس کی اطاعت کی جائے گی جن کو تم حقیر

خیال کرتے ہو۔ اور وہ اسی پر راضی ہو گیا ہے عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے معاذ! میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے رسول اللہ ﷺ سے یہ نہیں سنا۔ جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

فمن كان يروى لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً۔

تو یہ تو تم پر سخت گذری اور ان کو شدت محسوس ہوئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

کیا میں اس کو کشادگی والا نہ کر دوں؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور، اللہ پاک آپ کو بھی کشادگی مرحمت فرمائے پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

یہ آیت سورہ روم کی آیت کی طرح ہے:

وما آتيتهم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله۔ الروم: ۳۹

اور جو تم سو دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک افزائش نہیں ہوتی۔ پس جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا وہ اس کے لیے نفع دہ ہے اور نہ نقصان دہ۔ رواہ مستدرک الحاکم

سورہ مریم

۲۵۰۳ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو عرض کیا: نصاریٰ اپنے مذبح خانوں پر پردے کیوں لٹکاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نصاریٰ اپنے مذبح خانوں اور عبادت گاہوں کو بھی مستور (پردے میں) اس لیے رکھتے ہیں، کیونکہ:

فاتخذت من دونهم حجاباً۔ مریم: ۱۷

تو مریم نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا۔ ابن ابی حاتم

متقین کی سواری

۲۵۰۴۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا:

يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفداً۔ مریم: ۷۵

جس روز ہم پر ہیزگاروں کو رحمن کے سامنے (بطور) مہمان جمع کریں گے۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وفد تو وہ ہوتا ہے جو سوار ہو کر آتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے پاس ایک سفید اونٹنی لائی جائے گی۔ اس کے پر ہوں گے اور وہ اس پر سونے کے کجاوے لگے ہوں گے حتیٰ کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں گے کہ سونے کے کواڑوں پر سرخ یا قوت کا حلقہ ہے اور جنت کے دروازے پر ایک درخت ہے۔ اس کی جڑ سے دو چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ جب ایک چشمے سے پانی پیتا ہے تو ان کے پیٹ کی تمام گندگی دھل جاتی ہے اور دوسرے چشمے میں غسل کرتے ہیں تو کبھی بھی ان کے بال پراگندہ ہونگے اور نہ ان کی کھال آلودہ ہوگی۔ پھر وہ کواڑ پر لگے حلقے تو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اے علی! تم اس حلقہ سے نکلنے والی آواز لو (وہ کیا ہی دلکش آواز ہوتی ہے جس کو سن کر) تمام حوریں متوجہ ہو جاتی ہیں کہ ان کا شوہر آ گیا ہے اور جلدی جلدی وہ تیار ہوتی ہیں پھر دربان کو دروازہ کھولنے بھیجتی ہیں۔ جنتی دربان کو دیکھتا ہے تو (اس کو خدا سمجھ کر) سجدے میں پڑ جاتا ہے۔ دربان اس کو کہتا ہے۔ اپنا سرائٹھاؤ میں تو ایک آپ کا دربان ہوں جو آپ کی خدمت کے لیے مقرر ہوا ہوں۔ چنانچہ دربان اس کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے۔

حوروں کو جلد بازی کی وجہ سے خفت اور پشیمانی ہوتی ہے۔ پھر وہ اپنے یا قوت اور موتیوں کے خیموں میں سے نکلتی ہیں اور اس کے گلے سے لپٹ جاتی ہیں۔ اور ہر ایک کہتی ہے میں تیری محبت ہوں اور تو میری محبت۔ میں تجھ سے خوش ہوں کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ میں ہمیشہ تروتازہ رہوں گی کبھی میری جوانی نہ ڈھلے گی۔ میں ہمیشہ زندہ رہوں گی کبھی نہ مروں گی۔ ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی کبھی جدا نہ ہوں گی۔ پھر جنتی اپنے کمرے میں داخل ہوگا جس کی بنیاد سے چھت تک سو ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لولو اور یا قوت پر اس کی بنیاد قائم ہوگی۔ گھر میں کوئی راستہ سرخ ہوگا کوئی سبز اور کوئی زرد کوئی راستہ دوسرے راستے جیسا نہ ہوگا۔ کمرے میں ستر مسہری ہوں گی۔ ہر مسہری پر ستر بستر ہوں گے جن پر ستر حوریں (جلوہ آراء) ہوں گی۔ حوروں پر ستر جوڑے ہوں گے تمام جوڑوں کے پاس سے بھی اس کی پندلی کا گودا نظر آئے گا۔ تمہاری ان راتوں میں سے ایک رات جتنے وقت ان سے جماع پورا ہوگا۔ نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ایک دوسری کے پیچھے بہ رہی ہوں گی، ان میں نہ شراب ہونے والا صاف شفاف بغیر گد لے پن کے پانی ہوگا، کچھ نہریں دودھ کی ہوگی جن کا ذائقہ کبھی خراب نہ ہو جو جانوروں کے تھنوں سے نہ نکلا ہوگا۔ کچھ نہریں شراب کی ہوں گی، پینے والوں کے لیے لذت سے بھر پور، جن کو لوگوں نے پیروں کے ساتھ نہ نچوڑا ہوگا۔ کچھ نہریں خالص شہد کی ہوں گی جو وہ شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نہ نکلا ہوگا جو چھلوں سے بیٹھا ہو۔ پھر جنتی چاہے تو کھڑے ہو کر کھائے چاہے تو بیٹھ کر کھائے اور چاہے تو تکیہ لگا کر کھائے۔ کھانے کو دل چاہے گا تو سفید پرندہ جنتی کے پاس آئے گا وہ اپنے پروں کو اٹھائے گا۔ جنتی اس کے پہلو سے کسی طرح کے گوشت کھائے گا۔ پھر پرندہ اڑ جائے گا۔ فرشتہ ان کے پاس آئے گا اور کہے گا:

سلام علیکم تلکم الجنة التي اور تنموها بما کنتم تعملون۔
تم پر سلام ہو یہ جنت جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے اس کے صلہ میں جو تم عمل کرتے تھے۔

ابن ابی الدنیا فی صفة الجنة، ابن ابی حاتم، الضعفاء للعقیلی

کلام: امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ حدیث محفوظ نہیں ہے۔ کنز ج ۲ ص ۲۶۳
۴۵۰۵۔ نعمان بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر خدمت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ مریم: ۷۵

جس دن ہم پر بہیز گاروں کو رحمن کے سامنے (بطور) مہمان جمع کریں گے۔

پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: نہیں، اللہ کی قسم! وہ لوگ اپنے پیروں پر چل کر نہیں آئیں گے اور نہ پیروں پر کھڑے حاضر ہوں گے اور نہ ان کو ہانک کر لایا جائے گا۔ بلکہ جنت کی اونٹنیوں میں سے اونٹنیوں پر بٹھا کر لایا جائے گا۔ مخلوقات نے ان جیسی اونٹنیاں نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے اور ان کی لگائیں زبرد کی ہوں گی وہ ان پر سوار ہو کر آئیں گے۔ ابن ابی شیبہ، عبد اللہ بن احمد بن حنبل فی

الزیادات، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم، البعث للبیہقی

کلام: نعمان بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت اشعث بن قیس اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ثقات میں شمار کیا ہے، لیکن ان سے روایت کرنے والا راوی ضعیف ہے جس کی وجہ سے اس خبر سے دلیل نہیں لی جاسکتی۔

تہذیب التہذیب ۱۰ / ۴۵۳، بحوالہ کنز العمال ج ۲ ص ۲۶۵

۴۵۰۶۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد باری تعالیٰ:

یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ مریم: ۷۵

جس روز ہم پر بہیز گاروں کو خدا کے سامنے (بطور) مہمان جمع کریں گے۔

کے بارے میں فرمایا: اللہ کی قسم! ان کو اپنے قدموں پر کھڑا کر کے پیش نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو چلا کر لایا جائے گا۔ بلکہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار کر کے لایا جائے گا۔ مخلوقات نے ان کے مثل اونٹنیاں نہیں دیکھی ہوں گی، ان کے کجاوے سونے کے ہوں گے، ان کی لگائیں زبرد کی ہوں گی وہ

ان پر بیٹھے رہیں گے حتیٰ کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ابن ابی داؤد فی البعث، ابن مردویہ

سورہ طہ

۳۵۰۷ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ سے فرمان باری تعالیٰ:

الرحمن علی العرش استوی۔ طہ: ۵
رحمن عرش پر مستوی ہوا۔

کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ عرش کی آواز کجاوے کی آواز کی طرح نکلتی ہے۔ ابن مردویہ، الخطیب فی تاریخ، السنن لسعید بن منصور
فائدہ:..... خدا کی ذات کا بیان جن احادیث اور قرآنی آیات میں آتا ہے وہ آیات اور احادیث متشابہات کہلاتی ہیں، اسی طرح جن آیات کی
مراد صرف اللہ کو معلوم ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ جن کی کھوج میں لگنا گمراہی ہے۔ خدا کی صفات اور تخلیقات میں غور و فکر کا حکم آیا ہے نہ
کہ ذات میں۔

۳۵۰۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ (اس قدر عبادت کرتے اور نماز میں کھڑے رہتے کہ) اپنے قدموں کو بدلنے
لگ جاتے۔ کبھی اس پاؤں کے سہارے کھڑے ہوتے (اور کبھی اس پاؤں کے سہارے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے): حتیٰ کہ یہ فرمان
باری نازل ہوا:

طہ: ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طہ: ۱-۲

طہ (اے محمد) ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ البزار

کلام:..... روایت کو ضعیف کہا گیا ہے۔ کنز ج ۲ ص ۲۶۶
۳۵۰۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمان الہی:

فاخلع نعلیک۔ طہ: ۱۲

(اے موسیٰ) اپنے جوتے اتاریے۔ آپ پاک میدان طوی میں ہیں۔

(میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے جوتے اتارنے کا حکم دیا) کیونکہ وہ دونوں جوتیاں مردار گدھے کی کھال سے بنی ہوئی تھیں۔

عبدالرزاق، الفریابی، عبد بن حمید، ابن ابی حاتم

وعظ میں نرم زبان استعمال کرنا

۳۵۱۰ . فقولا له قولاً لیناً۔ طہ: ۳۳

پس اس سے نرمی سے بات کرنا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: نرمی سے بات کرنے سے مراد تھا کہ اس کا نام نہ لینا بلکہ اس کو کنیت سے پکارنا۔ ابن ابی حاتم
فائدہ:..... جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی تو فرمایا فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اس کی
تفسیر میں کلبی رحمۃ اللہ علیہ، عکرمہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی اس کا نام لینے کے بجائے اس کو کنیت
سے پکارنا۔ چونکہ بڑی ہستی کے لیے کنیت کے ساتھ پکارنا یہ عرب کا عام طریقہ تھا۔ اسی وجہ سے مدینہ کے یہودی اسلام نہ لانے کے باوجود آپ
ﷺ کو یا ابا القاسم کہہ کر پکارتے تھے چونکہ آپ کا رسول ہونا وہ تسلیم نہ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ! کہتے۔

اسی وجہ سے معلوم ہوا کہ کسی صاحب مرتبہ کا فرکو بطور تعظیم کثیت سے پکارنا جائز ہے۔
فرعون کی کثیت ہیں، ابوالعباس، ابوالولید اور ابو مرہ کے کئی اقوال ہیں۔

۳۵۱۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان الہی

ویدھبا بطریقتمکم المثلی. طہ: ۶۳

اور تمہارے شانستہ مذہب کو نابود کر دیں۔

کے متعلق فرماتے ہیں (فرعون نے موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے متعلق یہ کہا تھا کہ) وہ دونوں لوگوں کو تمہارے مذہب سے برگشتہ کر دیں گے۔

عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۳۵۱۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے پاس (طور پر) جانے کا ارادہ کیا تو سامری (جادوگر) نے بنی اسرائیل کے جس قدر زیورات ہو سکے جمع کیے اور ان کو ڈھال کر پھینچنے کی شکل بنائی۔ پھر ایک مٹھی اس کے پیٹ میں ڈالی جس سے وہ پھڑا آواز نکالنے والا بن گیا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل کو کہا:

یہ تمہارا اور موسیٰ کا پروردگار ہے۔

حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو کہا: اے لوگو! کیا پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑ کر کھینچا۔ ہارون علیہ السلام نے معذرت کے لیے کہا جو کہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو کہا: تیرا مقصد کیا ہے؟ سامری نے کہا:

میں نے رسول (جبریل علیہ السلام) کے نشان (قدم) سے ایک مٹھی لے لی تھی۔ جو میں نے اس پھینچنے میں ڈال دی اور یہ کام کرنے کو

میرا دل چاہ رہا تھا۔

پھر موسیٰ نے پھینچنے کو لیا اور نہر کے کنارے لے جا کر اس پر بہت مٹی ڈالی۔ (پھر لوگوں نے اس نہر کا پانی پیا) اور جب بھی کوئی ایسا شخص اس پانی کو پیتا جس نے پھینچنے کی عبادت کی تھی تو اس کا چہرہ سونے کی طرح زرد ہو جاتا۔ پھر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی توبہ کا طریقہ پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: ایک دوسرے کو قتل کر کے کفارہ ادا کرو۔ لوگوں نے چھری (اور تلواریں) لے لیں اور ہر ایک اپنے بھائی اور اپنے قریبی کو قتل کرنے لگا اور کوئی پروا نہ کرتا تھا۔ کہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ (ہر گناہ گار نے گردن جھکا دی تھی اور اس کا قریبی اس کو قتل کرتا تھا)۔

حتیٰ کہ ستر ہزار لوگ قتل ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی: ان کو حکم دو کہ اپنے ہاتھ روک لیں۔ پس میں نے قتل ہو جانے والوں کی بخشش فر دی اور وہ جانے والوں کی توبہ قبول کر لی۔ الفریابی، عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، مستدرک الحاکم

سورة الانبياء

۳۵۱۳ (مسند علی رضی اللہ عنہ) نعمان بن بشر سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس آیت:

ان الذين سبقتم لهم منا الحسنی اولئك عنها مبعدون. الانبياء: ۱۰۱

جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔

فرمایا: میں ان میں سے ہوں، ابو بکر ان میں سے ہیں، عمران میں سے ہیں، عثمان ان میں سے ہیں، زبیر ان میں سے ہیں، طلحہ ان میں سے ہیں، سعد ان میں سے ہیں، اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہم بھی ان میں سے ہیں جن کے لیے پہلے سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے۔

ابن ابی عاصم، ابن ابی حاتم، العشاری، ابن مردویہ، ابن عساکر

۳۵۱۵... حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان:

قلنا یانار کونی بزداً و سلاماً علی ابراہیم۔ الانبیاء: ۹۹

ہم نے حکم دیا ہے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔

کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ پاک سلامتی ہونے کا حکم نہ فرماتے تو وہ اس قدر ٹھنڈی ہو جاتی کہ ٹھنڈک ہی آپ علیہ السلام کو قتل کر دیتی۔

الفریابی، ابن ابی شیبہ، الزہد للامام احمد، عبد بن حمید، ابن المنذر

۳۵۱۶... قلنا یانار کونی برداً۔

قوم لوط کے برے اخلاق

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آگ کو یہ حکم ہوا کہ یانار کونی برداً ہے آگ ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر ٹھنڈی ہوئی کہ اس کی

ٹھنڈک آپ کے لیے باعث تکلیف ہو گئی حتیٰ کہ حکم ہوا و سلاماً اور سلامتی والی ہو جا۔ یعنی تکلیف دہ نہ ہو۔ الفریابی، ابن ابی شیبہ، ابن جریر

۳۵۱۷... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس امت میں چھ (مذموم) باتیں قوم لوط کے اخلاق کی ہیں: جلاہق (مٹی کی گولیاں بنا

کر کسی کو مارنا، جیسے غلیل میں ڈال کر ماری جاتی ہیں)، سیٹی بجانا، بندق (ہر پھینک کر ماری جانے والی چیز، اسی میں آتش بازی کے پٹانے

آگے)، انگلیوں کے درمیان کنکر پھنسا کر کسی کو مارنا، قمیص کے بٹن کھلے چھوڑ دینا اور مضغ العکک (چیونگم وغیرہ چبانا)۔

ابن ابی الدنیا فی ذم اللہ، ابن عساکر

۳۵۱۸... انکم وماتعبدون من دون اللہ حسب جہنم۔ الانبیاء: ۱۰۱

تم اور جس کی تم عبادت کرتے ہو خدا کے سوا جہنم کا ایندھن ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر چیز خدا کے سوا جس کی عبادت کی جائے جہنم میں جائے گی سوائے سورج، چاند اور عیسیٰ علیہ

السلام کے۔

۳۵۱۹... حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

کطی السجل للکتاب۔ الانبیاء: ۱۰۳

میں کتب فرشتہ ہے۔ عبد بن حمید

فائدہ:... فرمان الہی ہے جس روز ہم آسمانوں کو لپیٹ لیں گے جس طرح سب کا لپیٹنا کتب کو تو یعنی جس طرح کتب فرشتہ خطوں اور کتابوں کو

لپیٹ لیتا ہے اس طرح ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔

۳۵۲۰... فرمان الہی ہے:

ان الذین سبقت لهم منا الحسنی۔ الانبیاء: ۱۰۱

بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ رواہ ابن مردویہ

۳۵۲۱... (مرسل سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ عنہما) حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا پھر ان میں

روح پھونکی گئی اور سب سے پہلے ان کے گھٹنوں میں روح آئی تو وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ تب اللہ پاک نے فرمایا:

خلق الانسان من عجل۔

انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے۔ رواہ ابن ابی شیبہ

سورة الحج

۲۵۲۲ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لوگ حج کرتے اور شرک کی حالت میں ہوتے اور ان کو خفاء الحجاج کہا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ - الحج: ۳۱

صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر۔ ابن ابی حاتم

۲۵۲۳ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) محمد بن زید بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ - الحج

اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی حرج (تنگی) نہیں رکھی۔

پھر فرمایا قبیلہ مدح کے کسی شخص کو بلا کر لاؤ۔ پھر اس سے پوچھا: الحرج تمہارے درمیان کس معنی میں آتا ہے؟ اس نے کہا تنگی کے معنی میں۔

السنن للبيهقي

مشروعیت جہاد

۲۵۲۴ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ (جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ظالموں نے محاصرہ کر لیا تو) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (شاہی) محل کے اوپر سے سراٹھا کر فرمایا: میرے پاس ایسے کسی شخص کو لاؤ جس کے ساتھ میں کتاب اللہ کو لے کر مناظرہ کروں۔ ظالموں نے صعصعہ بن صوحان کو جو نوجوان تھا پیش کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کو اس جوان کے علاوہ اور کوئی نہ ملا تھا جس کو میرے پاس لے آتے؟ پھر صعصعہ نے آپ سے بات کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (اپنی دلیل میں) قرآن پڑھو: اس نے پڑھا:

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلمو وان الله على نصرهم لقدير - الانبياء: ۳۹

جن مسلمانوں سے (خواہ مخواہ) لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے (کہ وہ بھی لڑیں) کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور خدا (ان کی

مدد کرے گا وہ) یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو جھوٹ بولتا ہے یہ آیت تمہارے لیے ہے اور نہ تمہارے ساتھیوں کے لیے، بلکہ یہ آیت میرے

لیے اور میرے ساتھیوں کے لیے ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن مردودہ، ابن عساکر

۲۵۲۵ عبد اللہ بن حارث بن نوفل سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس صعصعہ بن صوحان نے (اپنے حق میں) یہ

آیت پڑھی

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. الحج: ۳۹

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے یہ آیت میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، ہم کو ناحق مکہ

سے نکال دیا گیا تھا۔ رواہ ابن عساکر

۲۵۲۶ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: ہمارے بارے میں یہ حکم الہی نازل ہوا:

الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق تا: عاقبة الامور - الحج: ۳۰-۳۱

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیئے گئے (انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا) ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے اور اگر

خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو (راہبوں کے صومعے اور) عیسائیوں کے) گرجے اور (یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں۔ اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرورت مدد کرتا ہے۔ بے شک خدا تو انا (اور) غالب ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں اوسب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔

پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم کو ناحق ہمارے گھروں سے بے گھر کیا گیا پھر ہم کو زمین میں حکومت دی گئی تو ہم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا، اور برائی سے روکا، پس یہ فرمان الہی میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوا تھا۔

عبد بن حمید، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر

ہندوستان

۲۵۲۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام کے ساتھ (ان کے بیٹے اور بیوی یعنی) اسماعیل اور ہاجرہ بھی نکلیں جب مکہ پہنچے تو بیت اللہ کی جگہ ایک بادل کو اپنے سر پر ساریہ فلکن دیکھا۔ اس بادل میں سر کی مانند کوئی چیز تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا:

اے ابراہیم امیرے سائے پر بنیاد رکھو یا فرمایا: میری مقدار کے بقدر بنیاد رکھو۔ اس میں زیادتی نہ کرو نہ کمی کرو۔ پھر جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور اپنے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہا السلام کو چھوڑ گئے۔ اور اسی کی طرف فرمان الہی کا اشارہ ہے:

واذبو انا لابرہیم مکان البیت الخ. الحج: ۲۶

اور (ایک وقت تھا) جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا (اور ارشاد فرمایا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں (اور) سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

ابن جریر، مستدرک الحاکم

۲۵۲۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ "الایام المعلومات" یوم النحر (قربانی کا دن) اور اس کے بعد کے تین ایام ہیں۔ ابن المنذر

مشروعیت جہاد کی حکمت

۲۵۲۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت محمد ﷺ کے صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے:

ولولا دفع اللہ الناس الخ. الحج: ۲۰

اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو (راہبوں کے) صومعے اور (عیسائیوں کے) گرجے اور (یہودیوں کے) عبادت خانے اور (مسلمانوں کی) مسجدیں جن میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتیں۔ اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرورت مدد کرتا ہے۔ بے شک خدا تو انا (اور) غالب ہے۔

کیونکہ اگر اللہ پاک محمد کے اصحاب کے ذریعے کافروں کو نہ ہٹاتا تو صومعے، گرجے اور عبادت خانے سب تمس نہیں ہو جاتے۔

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

۲۵۳۰ ثابت بن عویص حضرمی سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ستائشیں ساتھیوں نے جن میں لاحق الاقر، عیز ابن جزول اور عطیہ قرظی وغیرہ بھی شامل ہیں بیان کیا کہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ آیت ”ولو لا دفع اللہ الناس بعضهم بعضاً“ حضور ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ کیونکہ اگر اللہ پاک اصحاب محمد ﷺ کے ذریعے بعض کو بعض سے نہ ہٹاتا تو صومع گرجے سب منہدم ہو جاتے۔ رواہ ابن مردویہ

۲۵۳۱ قیس بن عباد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قیامت کے دن رحمن کے سامنے فیصلے کے لیے سب سے پہلے میں گھٹنے ٹیکوں گا۔ قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انہی (اصحاب محمد) کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے:

هذان خصمان اختصموا في ربهم - الحج: ۱۹

یہ دو فریق جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔

فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے۔ انہی میں سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبید بن الحارث رضی اللہ عنہم اور (مشرکین میں سے) عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ بھی ہیں۔

ابن ابی شیبہ، بخاری، نسائی، ابن جریر، الدورقی، الدلائل للبیہقی

۲۵۳۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت: هذان خصمان اختصموا في ربهم، یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار (کے بارے) میں جھگڑتے ہیں۔ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جو جنگ بدر میں ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے۔ حمزہ علی، عبید بن الحارث (مسلمانوں میں سے تھے اور ان کے مقابلے پر آئے مشرکین کے)۔

عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ، العدنی، عبد بن حمید، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ

سورة المؤمنون

۲۵۳۳ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حکم الہی:

الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ المؤمنون: ۲

جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔

کے متعلق فرماتے ہیں: خاشعون، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ نیز یہ کہ (نماز میں برابر کھڑے ہوئے مسلمان کے لیے) تیرا کاندھا نرم رہے اور تو نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو۔ ابن المبارک، عبدالرزاق، القرطبی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، الخشوع لابی قاسم بن مندہ، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی

۲۵۳۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمان الہی:

فما استکانوا الربہم وما یتضرعون۔ المؤمنون: ۷۶

اور ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا تو بھی انہوں نے خدا کے آگے عاجزی نہ کی اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں، کے متعلق ارشاد فرمایا: یعنی وہ لوگ دعا میں عاجزی نہیں کرتے اور اگر وہ اللہ کے لیے عاجزی کرتے تو اللہ ان کی دعا ضرور قبول کرتا (اور انہیں عذاب نہ دیتا)۔

العسکری فی المواعظ

۲۵۳۵ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمان الہی:

وآوینا ہما الی ربوبۃ ذات قدار ومیعین۔ اور ہم نے ان (مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام) کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں (تھرا ہوا) پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔ کے متعلق پوچھا تو امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ربوہ سے مراد نجف کا علاقہ ہے، قرار سے

مراد مسجد اور صحیح (چشمے) سے مراد نہر فرات ہے۔

پھر فرمایا: کوفہ میں ایک درہم خرچ کرنا دوسری جگہ سو درہم خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اور ایک رکعت سور کعات کے برابر ہے۔ اور جو چاہتا ہے کہ جنت کے پانی سے وضو کرے اور جنت کا پانی نوش کرے تو وہ فرات کا پانی استعمال کرے۔ اس میں جنت کے دو چشمے پھونکتے ہیں۔ اور ہر رات جنت سے دو مثقال مشک اس میں گرتا ہے۔ اور حضرت امیر المؤمنین (علی کرم اللہ وجہہ) نجف کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے یہ سلامتی کی وادی ہے۔ مؤمنین کی روحوں کی اجتماع گاہ ہے اور مؤمنین کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ نیز آپ دعا کیا کرتے:

اللہم اجعل قبری بہا۔

اے اللہ میری قبر بہیں بنا۔ رواہ ابن عساکر

ملفوظ: اسی جلد کی روایت نمبر ۲۹۱۴ کے ذیل میں مزید تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔

سورۃ النور

۲۵۳۶ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمان الہی:

الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا۔ النور: ۵

ہاں جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور (اپنی حالت) سنوار لیں تو خدا (بھی) بخشے والا مہربان ہے۔

کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جو لوگ (پاک مرد یا عورت پر تہمت لگائیں اور پھر توبہ) کریں تو ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو جھوٹا قرار کریں تب وہ شہادت دینے کے اہل ہوں گے۔ رواہ ابن مردویہ

مکاتب بنانے کا ذکر

۲۵۳۷ فضالہ بن ابی امیہ اپنے والد ابی امیہ سے روایت کرتے ہیں کہ (وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے شکایت کی۔ پھر ان کے لیے (اپنی بیٹی) حفصہ رضی اللہ عنہ سے دو سو درہم قرض لیا کہ وہ غلام اپنے عطیہ کے وقت ادا کر دے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان درہم کے ساتھ اس کی مدد کی (اور یوں وہ آزاد ہو گیا) فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات حضرت مکرّمہ رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر کی انہوں نے فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے معاملہ اس فرمان باری کی تعمیل میں کیا:

واتوهم من مال اللہ الذی آتاکم۔ النور: ۳۲

اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ السنن للبیہقی

فائدہ: اسلام میں کتابت کے معنی یہ ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام کو ایک متعین رقم لانے پر مامور کر دے اور اس کے عوض میں اس کو آزاد کرنے کا وعدہ کر لے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے دو سو درہم پر کتابت کی۔ لیکن دو سو درہم اس کے لیے حاصل کرنا طویل عرصہ مانگتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی فوری آزادی کا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ اپنی بیٹی سے دو سو درہم اس غلام کے لیے قرض لیے وہ درہم غلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیئے اور غلام خود حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو ادا کرنے کا ذمہ دار بنا اور اپنی زندگی آزاد کرالی۔

۲۵۳۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے عہد مبارک میں ایک شخص مدینے کی گلی میں چلا جا رہا تھا۔ آدمی کی نظر ایک عورت پر پڑی، عورت نے بھی آدمی کو دیکھا۔ دونوں کے دلوں میں شیطان نے بھی وسوسہ ڈالا اور دونوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ وہ مجھے پسند

کرتا ہے اسی لیے اس نے مجھے دیکھا ہے۔ آدمی دیوار کے ساتھ چل رہا تھا اور نظر عورت کے سر پر مرکوز تھی۔ لہذا دیوار کے ساتھ ٹکرایا اور اس کی ناک کو چوٹ آ گئی۔ (تب اس کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی اور) اس نے عہد کر لیا کہ اللہ کی قسم! میں اپنی ناک سے خون نہیں دھوؤں گا جب تک رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی ساری داستان نہ سناؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا قصہ آپ کی خدمت میں کہہ سنایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ تمہارے گناہ کی سزا تھی جو تم کو ملی۔ تب اللہ پاک نے یہ فرمان نازل فرمایا:

قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ النور: ۳۰
مؤمن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔

گھر کے افراد پر بھی مخصوص اوقات میں اجازت ضروری ہے

۴۵۳۹ (مسند حضرت علی رضی اللہ عنہ) فرمان الہی ہے:

يستأذنكم الذين ملكت ايمانكم۔ النور: ۵۸

تمہارے غلام، لونڈیاں اور جو بچے بلوغت کو نہیں پہنچے تین دفعہ اجازت لیا کریں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: اس سے عورتیں مراد ہیں کہ وہ اجازت لے کر داخل ہوا کریں کیونکہ مرد تو اجازت ہی کے ساتھ

داخل ہوتے ہیں۔ رواہ مستدرک الحاکم

فائدہ:..... اسی طرح بالغ مرد و عورت تو اجازت لے کر داخل ہوتے ہیں لیکن لڑکے جو بالغ نہیں ہوئے لیکن بچے بھی نہیں رہے ان کے بارے میں اکثر لوگ چشم پوشی کر جاتے ہیں اس لیے ان کے متعلق بھی حکم خدا ہے کہ وہ اجازت لے کر داخل ہوا کریں۔

لیکن یہ حکم صرف تین اوقات کا ہے، فجر سے پہلے، دوپہر (کو آرام) کے وقت اور عشاء کے بعد کیونکہ ان تین اوقات میں ممکنہ طور پر لوگ گھریلو حالت اور مختصر کپڑوں میں ہوتے ہیں اس لیے اس اوقات میں گھر کے غلام، باندی اور نابالغ لڑکوں کو بھی اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم ہے۔ باقی اوقات میں نہیں کیونکہ اگر باقی اوقات میں بھی یہ حکم ہو تو تنگی کا سامنا ہوگا۔ جبکہ ان کے علاوہ ہر بالغ اجنبی مرد و عورت کو ہر وقت اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم ہے۔

۴۵۴۰ ابو عبد الرحمن سلمیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمان الہی:

فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیراً واثوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فیتیاتکم علی البغاء۔

سورۃ النور: ۳۳

اگر تم ان میں (صلاحیت اور) خیر پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو (بے شرمی سے) دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کو بدکاری پر مجبور نہ کرو فرمانے ہیں کہ خیر سے مراد مال ہے یعنی اگر وہ مال ادا کرنے کی صلاحیت رکھیں تو ان کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کر لو۔ اور ان کی مالی مدد کرو۔ یعنی ایک چوتھائی حصہ معاف کر دو اور بدکاری پر مجبور نہ کرو اس لیے فرمایا کہ جاہلیت میں لوگ اپنی لونڈیوں سے فاشی کرواتے تھے جس سے اسلام میں ممانعت کر دی گئی۔ رواہ ابن مردودہ

۴۵۴۱ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور انصار نے آپ لوگوں کو اپنے ہاں ٹھکانے دیئے تو عرب نے سب کو (یعنی حضور ﷺ اور مہاجرین کے ساتھ تمام انصار کو بھی) ایک ہی تیر کا نشانہ بنا لیا (اور سب مسلمان ان کی آنکھوں میں برابر کے دشمن ہو گئے۔) چنانچہ تمام مسلمان بھی رات دن اسلحہ سازی میں منہمک ہو گئے۔ (تم کیا سمجھتے ہو کہ مدینہ آ کر ہم) سکون کی زندگی بسر کرنے لگ گئے؟ ہم لوگ اللہ ہی سے ڈرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے یہ فرمان نازل فرمایا:

وعدا اللہ الذین آمنو منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض - النور
اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں جو ایمان لائے تم میں سے اور اچھے اعمال کیے کہ زمین میں ان کو خلافت دے گا۔

ابن المنذر الاوسط للطبرانی، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ، الدلائل للبیہقی، السنن لسعید بن منصور
۳۵۴۲ حدیث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے) ارشاد فرمایا:
اے ابو بکر! کیا خیال ہے اگر تم (اپنی بیوی) ام رومان کے ساتھ کسی اجنبی شخص کو پاؤ تو کیا کرو گے؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: واللہ! اس کا بڑا برا حشر کروں گا۔

پھر آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اور تم اے عمر! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اللہ کی قسم میں اس کو قتل کر
ڈالوں گا۔ پھر حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر پوچھا اور تم اے سہل؟ انہوں نے عرض کیا: میں کہوں گا: اس شخص پر اللہ کی لعنت
ہو اور اللہ کی لعنت ہو پھنکار پڑی خبیثہ ہے۔ اور ان میں سب سے پہلے اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے یہ خبر دی۔ چنانچہ حضور ﷺ نے
ان کو فرمایا:

اے ابن البیضاء! تم نے تو قرآن کی تفسیر کر دی:

والذین یرمون ازواجہم - النور: ۶

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں۔

فائدہ:..... حضور ﷺ نے حضرت سہل کے قول کو لعان کے قریب قرار دیا۔ جس کا قرآن میں حکم آیا ہے یعنی مرد اگر اپنی عورت پر تہمت
لگائے تو وہ قاضی کے روبرو چار بار قسم کھا کر اس پر بدکاری کا الزام عائد کرے اور عورت بھی چار مرتبہ اپنی پائی کی تم گھائے پھر قاضی دونوں
کے درمیان جدائی کر دے۔

سورة الفرقان

۳۵۴۳ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) عبد اللہ بن المغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نسبا و صبرا کے بارے میں دریافت کیا تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میرا خیال ہے نسب کو تو تم جانتے ہو (یعنی آدمی کا اپنا خاندان) اور صہر سسرالی رشتہ دار۔ عبد بن حمید

۳۵۴۴ (مسند علی رضی اللہ عنہ) ابی محلزہ سے مروی ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا میں لوگوں کا نسب بیان کرتا ہوں۔ آپ
رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نسب نہ بیان کرو۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم نے فرمان الہی نہیں پڑھا:

و عا داداً و ثموداً و اصحاب الرس و قرونابین ذلک کثیراً. الفرقان: ۳۸

اور عا داد اور ثمود اور کنوئیں والوں اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا۔ یعنی ان کے درمیان بھی بہت سی جماعتیں ہیں جو ہم کو
معلوم نہیں۔

اسی طرح فرمان الہی ہے:

الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدہم لایعلمہم الا اللہ۔

کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے قوم نوح، عاد و ثمود اور لوگ جو ان کے بعد تھے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ابن الصریس فی فضائل القرآن

فائدہ:..... یعنی جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو تم دعویٰ کے ساتھ کئی کئی پشتوں تک کیسے نسب بیان کر سکتے ہو۔

سورۃ القصص

۲۵۴۵ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

موسیٰ علیہ السلام جب مدین تشریف لائے اور وہاں پانی پر پہنچے تو لوگوں کو دیکھا کہ جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے پانی پلا کر مل کر پتھر کی چٹان سے کنوئیں کا منہ بند کیا۔ جس کو دس آدمی مل کر ہی اٹھا سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم بھی جانوروں کو پانی پلانے آئی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اکیلے ہی وہ پتھر کنوئیں کے منہ سے ہٹایا پھر پانی کھینچا اور ایک ہی ڈول میں سب بکریوں کو سیراب کر دیا۔ دونوں عورتیں لوٹ گئیں اور اپنے باپ کو سارا واقعہ بیان کیا۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام سائے میں بیٹھ گئے اور خدا سے دعا کی:

رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر . القصص

اے پروردگار! میں جو تو میری طرف اتارے اس کا محتاج ہوں۔

چنانچہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کی پیکر چلتی ہوئی آئی۔ جس نے اپنے چہرے کو کپڑے کے ساتھ ڈھانک رکھا تھا۔ اور عام بے باک عورتوں کی طرح نہ بھی جو دھڑے کے ساتھ آئی جاتی ہیں۔ آکر اس نے کہا:

قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ماسقیت لنا . القصص

بولی: میرا باپ تجھے بلاتا ہے تاکہ تجھے بدلہ دے اس کا جو تو نے (پانی) پلایا ہمارے لیے (جانوروں کو)

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اس کے ساتھ چل دیئے اور اس کو فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلتی آؤ اور مجھے بول کر راستہ بتاتی جاؤ، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہوا سے تمہارے کپڑے اڑے اور تمہارے جسم کی نمائش کر دے۔ پس جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچی تو اس کو سارا واقعہ بیان کیا۔ پھر:

فقالت احدہما یا ایت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین

ان میں سے ایک بولی! اے ابا جان! اس کو اجرت پر رکھ لو۔ بے شک جس کو آپ اجرت پر رکھیں اس میں قوی (اور) امانت دار زیادہ بہتر ہے۔

لڑکی کے باپ (حضرت شعیب علیہ السلام) بولے: اے بیٹی! تجھے اس کی امانت اور قوت کا کیسے اندازہ ہوا؟ لڑکی بولی: قوت کا اندازہ تو ان کے پتھر اٹھانے سے ہوا۔ جس کو کم سے کم دس آدمی اٹھا سکتے ہیں۔ اور ان کی امانت تو انہوں نے مجھے کہا تھا: میرے پیچھے چلی آؤ اور راستہ بتاتی جاؤ۔ مجھے ناپسند ہے کہ ہوا سے کپڑا اڑ کر تمہارا جسم (مجھے) دکھائی دے۔

چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور زیادہ رغبت ہو گئی۔ لہذا انہوں نے فرمایا:

انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین سے مستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ تک۔ القصص: ۲۷

میں ارادہ کرتا ہوں کہ تمہارا نکاح کر دوں اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک سے۔ اس پر کہ تم میری مزدوری کرو آٹھ سال، اگر تم دس پورے کر دو تو یہ (بھلائی) تمہاری طرف سے ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر مشقت ڈالوں۔ (حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا) آپ مجھے ان شاء اللہ نیکوں میں سے پائیں گے۔ یعنی اچھی صحبت اور اپنے کہے ہوئے وعدہ پر پابند پائیں گے۔

قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی۔

کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) یہ میرے اور آپ کے درمیان (طے پایا) ہے دونوں مدتوں میں سے جو میں پوری کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں۔

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا: ٹھیک ہے۔

واللہ علی مانقول وکیل - القصص

اور اللہ اس پر جو ہم نے معاہدہ کیا وکیل ہے۔

چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ٹھہرے اور ان کا کام کرتے رہے۔ بکریوں کی چرواہی اور دوسری گھریلو مصروفیات۔ آپ کی شادی (چھوٹی) بیٹی صفورہ سے کی جبکہ اس کی (بڑی) بہن مشرقا تھی۔ یہی دونوں پہلے اپنی بکریوں کو چرایا کرتی تھیں۔

الفریابی، ابن ابی شیبہ عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی

۲۵۳۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان الہی:

ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض -

اور ہم نے ارادہ کیا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور ہو گئے ہیں۔

کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: کمزور زمین میں جو کمزور ہو گئے اس سے مراد یوسف علیہ السلام اور اس کی اولاد ہیں۔

ابن ابی شیبہ، فی تفسیر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۲۵۳۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ فرمان الہی:

ان الذین فرض علیک القرآن لرادک الی معاد - (القصص

بے شک جس نے آپ پر قرآن (کے احکام) فرض کیا وہ آپ کو واپس اپنی جگہ لوٹا دے گا۔

فرمایا: ہمارا مواد (لوٹنے کی جگہ) جنت ہے۔ مستدرک الحاکم فی تاریخہ، الدیلمی

سورۃ العنکبوت

۲۵۳۸ (مسند علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اس آیت کو یوں پڑھا کرتے تھے:

فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین - العنکبوت: ۳

سو خدا ان کو معلوم کرادے گا جو (اپنے ایمان میں) سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ پاک لوگوں کو معلوم کرادے گا۔

ابن ابی حاتم

فائدہ: مشہور قرأت فلیعلمن اللہ ہے جس کے معنی ہیں خدا ان کو ضرور معلوم کر لے گا۔ لیکن تمام تفاسیر میں اس کی تفسیر وہی کی جاتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمائی یعنی خدا لوگوں کو معلوم کرادے گا کیونکہ خدا کو خود تو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے۔

سورۃ لقمان

۲۵۳۹ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: تمہارے نبی ﷺ پر کوئی چیز مخفی نہیں رکھی گئی سوائے غیب کی پانچ چیزوں کے۔ وہ پانچ چیزیں سورۃ لقمان کی آخری آیات میں مذکور ہیں۔

ان اللہ عنده علم الساعة الخ. لقمان آخری آیت

خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی (حاملہ کے) پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے (کہ زہے یا مادہ) اور کوئی شخص

نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی تنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی بے شک خدا ہی جانتے والا
(اور) خبردار ہے۔ رواہ ابن مردویہ

سورة الاحزاب

۲۵۵۰ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: بتاؤ سورة الاحزاب کتنی (آیتوں پر مشتمل) ہے؟ میں نے عرض کیا: بہتر یا تہتر آیات پر۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: قریب تھا کہ یہ سورة البقرہ چٹنی بڑی سورت ہو جاتی اور اس میں پہلے آیتہ الرحم (زانی کو سنگسار کرنے کے حکم پر مشتمل آیات) بھی تھی۔ رواہ ابن مردویہ

۲۵۵۱ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا: اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی بیویوں کو حکم فرمایا تھا:

ولا تبرجن تبرج الجاہلیة الاولى۔ الاحزاب: ۳۳
اور جس طرح پہلی (جاہلیت کے دنوں) میں اظہارِ حمل کرتی تھیں اس طرح زینت نہ دکھاؤ۔

بتاؤ کیا جاہلیت بھی کئی ایک ہیں (جو فرمایا گیا کہ پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت کر کے نہ چھرو۔)

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: میں نے کسی ایسی چیز کی پہلی نہیں سنی جس کی آخر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کتاب اللہ سے اس کی تصدیق پیش کرو! ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: فرمان الہی ہے

وجاہدو فی اللہ حق جہادہ۔ الحج: ۷۸

اور اللہ (کی راہ) میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔

اور اس حکم سے مراد ہے کہ جیسا تم نے پہلے جہاد کیا تھا اسی طرح اب بھی جہاد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ہمیں کس کے ساتھ جہاد کا حکم ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: مخزوم اور عبد شمس۔ (یعنی پہلے جنگ بدر میں ان کے سرغنہ لوگوں کو تہ تیغ کیا تھا اب ان کے آخر کو بھی ختم کرو)۔ ابو عبیدہ فی فضائلہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معافی طلب کرنا

فائدہ: ... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا جاہلیت کی کئی اقسام ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ کئی تو نہیں مگر پہلی اور آخری ضرور ہیں یعنی ہر چیز میں اول و آخر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جاہلیت اولیٰ ارشاد فرمایا گیا۔

۲۵۵۲ قسمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: میں فلاں شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم سے نفرت کرتے ہیں؟ اسی طرح بہت سے لوگوں نے اس کو یہ بات کہی۔ آخر وہ تنگ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

اے عمر! بتاؤ میں نے اسلام میں کوئی پھوٹ ڈالی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس نے پوچھا: میں نے کوئی جرم کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا میں نے کوئی شے ایجاد کی ہے؟ فرمایا نہیں۔ آخر اس شخص نے پوچھا: پھر آپ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغير ما کتسبو فقد احتملوا بهتانا واثماً مبیناً۔ الاحزاب: ۵۸

اور جو لوگ مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو ایسے کام کی (تہمت) دیں جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور

صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔

پھر اس شخص نے کہا اے عمر! تو نے مجھی مجھے اذیت دی ہے اللہ بھی تیری مغفرت نہ کرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اس نے سچ کہا، اللہ کی قسم! اس نے بھوٹ ڈالی، نہ جرم کیا، نہ بدعت ایجاد کی، بس اے فلاں! مجھے معاف کر دے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ (امیر المؤمنین) اس شخص کے ساتھ چپے رہے حتیٰ کہ اس نے آپ کو معاف کر دیا۔ ابن المنذر ۲۵۵۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی بیویوں کو دنیا و آخرت میں اختیار دیا تھا نہ کہ طلاق کا اختیار دیا تھا۔

مسند عبد اللہ بن احمد بن حنبل

فائدہ: سورة الاحزاب کی آیت ۲۸ اور ۲۹ کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مذکورہ فرمان ارشاد فرمایا ہے۔

۲۵۵۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمان الہی:

ولا تكونوا كالذين آذوا موسى - الاحزاب: ۶۹

اور تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جن لوگوں نے (عیب لگا کر) موسیٰ کو رنج پہنچایا۔

کے متعلق وضاحت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں جبل پر چڑھے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو اجل آچینچی اور وہ مر گئے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ تم نے ان کو قتل کیا ہے۔ وہ آپ سے زیادہ ہم سے محبت رکھتے تھے۔ اور وہ نزم مزاج انسان تھے۔ یوں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج پہنچایا۔

اللہ پاک نے ملائکہ کو حکم دیا۔ ملائکہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لاشے کو اٹھایا اور بنی اسرائیل کی مجالس کے پاس لے گئے اور ملائکہ نے ان کے ساتھ حضرت ہارون کی اپنی آپ موت کی بات چیت کی تب ان کو یقین آیا کہ وہ اپنی موت آپ مرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کر دیا۔ جبکہ بنی اسرائیل نے حضرت ہارون علیہ السلام کے جسم کو لیا اور اس کو دفن کر دیا۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر سب پر مخفی کر دی۔ صرف گدھ گرگس پرندے کو معلوم ہے اور اللہ نے اس کو گونگا بہرہ کر دیا ہے۔

ابن منیع، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مرددویہ، مستدرک الحاکم

فائدہ: ... انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں ان کے جسموں کو مٹی کھا سکتی ہے اور نہ کوئی اور شے۔ اسی وجہ سے غیر محفوظ جگہوں میں جہاں انبیاء کی قبریں ہیں اللہ پاک نے ان کو مخفی کر دیا ہے تاکہ ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ اور جہاں معروف ہیں وہاں اللہ نے مضبوط محافظ مقرر فرمادیے ہیں۔ اس وجہ سے اجسام انبیاء ہر طرح کی بے حرمتی سے بھی محفوظ ہیں۔

انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا گیا

۲۵۵۵ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمان الہی ہے:

واذا اخذنا من النبیین میثاقہم ومنک ومن نوح وابراہیم الخ الاحزاب: ۷

اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے۔ اور عہد بھی ان سے لیا۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے نوح علیہ السلام سے عہد لیا ان کے بعد سب سے اول سے پھر سب سے اول سے (اس طرح

اول فالاول)۔ ابن ابی عاصم، السنن لسعد بن منصور

۲۵۵۶ حضرت محول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے اپنی عورتوں کو اختیار دیا تھا (کہ دنیا اختیار کر لیں یا اللہ اور اس کے رسول کو جس کا ذکر احزاب کی ۲۸ اور ۲۹ آیات میں ہے) تو آپ کی بیویوں نے آپ ﷺ اور اللہ کو اختیار کر لیا تھا لہذا اس طرح طلاق واقع نہیں ہوئی۔

مصنف عبدالرزاق

ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا

۴۵۵۷ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ نے اپنی عورتوں کو اختیار دیا تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے انہی عورتوں پر صبر کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا:

لا یحل لک النساء من بعد الخ. الاحزاب: ۵۲

(اے پیغمبر!) ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو۔ خواہ ان کا حسن تم کو اچھا لگے۔ مگر جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے۔ (یعنی باندیاں جائز ہیں)۔ رواہ عبدالرزاق

۴۵۵۸ معمر رحمۃ اللہ علیہ زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

ہم کو رسول اللہ ﷺ نے اختیار دیا تھا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کر لیا۔ پس یہ طلاق شمار نہیں کیا گیا۔

معمر کہتے ہیں مجھے کسی نے حسن رحمۃ اللہ علیہ سے خبر سنائی کہ حضور ﷺ نے اپنی بیویوں کو دنیا و آخرت کے درمیان اختیار دیا تھا نہ کہ طلاق کا۔

رواہ عبدالرزاق

۴۵۵۹ (مسند علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

ہر دن کی ایک نحوست ہوتی ہے، پس تم اس دن کی نحوست کو صدقہ کے ساتھ دفع کر دیا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا: موضع خلف کو پرھو۔ (پھر خود ہی موضع خلف کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا)

میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

وما انفقتم من شیء فھو یخلفہ۔ اسبا: ۳۹

اور جو چیز تم خرچ کرو گے وہ اس کا عوض دیدے گا۔

پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اور جب تم خرچ نہیں کرو گے تو اللہ تم کو اس کا عوض کیسے دے گا۔ رواہ ابن مردویہ

قوم سبا کا تذکرہ

۴۵۶۰ (مسند فروہ بن مسیک غطفی ثم المرادی رضی اللہ عنہ) فروہ غطفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا

اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا میں اپنی قوم کے پیٹھ دینے والوں سے قتال نہ کروں ان لوگوں کو لے کر جو ان میں سے سامنے آئیں۔ (اور میرے

ساتھ مل جائیں) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیوں نہیں ضرور کرو۔ فروہ کہتے ہیں پھر میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے عرض کیا: نہیں، وہ تو اہل سبا ہیں۔ وہ بڑی طاقت اور قوت والے ہیں۔ لیکن آپ ﷺ نے مجھے اس کا حکم فرمایا اور ان سے لڑنے کی اجازت دی۔

چنانچہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے نکلا تو اللہ پاک نے آپ پر (قوم) سبا کے بارے میں (سورہ سبا کی صورت میں) نازل فرمایا جو

نازل فرمایا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: غطفی نے کیا کیا؟ پھر آپ ﷺ نے میری طرف بلانے والے کو بھیجا۔ قاصد نے مجھے دیکھا کہ میں سوار

ہو چکا ہوں۔ پھر اس نے مجھے واپس چلنے کو کہا۔ میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پہنچا تو آپ کو اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان بیٹھا ہوا پایا۔

آپ ﷺ نے (مجھے) ارشاد فرمایا: (پہلے) قوم کو دعوت دو۔ جو تمہاری دعوت قبول کر لیں تم (ان کا اسلام) قبول کرو اور جو انکار کریں تم ان پر جلدی

نہ کرو حتیٰ کہ مجھے آکر بیان نہ کرو۔ پھر قوم میں سے ایک شخص نے پوچھا: یا رسول اللہ! یہ سبا کیا ہے؟ کسی زمین کا نام ہے یا کسی عورت کا ہے۔ آپ

ﷺ نے فرمایا:

سبازمین ہے اور نہ کوئی عورت بلکہ سب ایک مرد تھا۔ جس کے ہاں دس عرب لڑکے پیدا ہوئے۔ چھ دنائیں طرف یمن اور اس کی اطراف میں سدھار گئے اور چار بائیں طرف ملک شام چلے گئے۔ چار جو ملک شام گئے وہ تم، جذام، غسان اور عاملہ تھے۔ اور ملک یمن گئے وہ ازہ، کندہ، حمیر، اشعریوں، انمار اور مذحج تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! انمار کون ہیں؟ فرمایا: جن سے شیخ عم اور بحیلہ قبائل ہیں۔

ابن سعد، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی حسن غریب، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم

سورہ فاطر

۲۵۶۱..... (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اس آیت:

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله - فاطر ۳۲۰
کچھ تو ان میں سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔
کے مثل اپنی طرف ارشاد فرماتے تھے:

ہمارے سابق تو سابق ہمیں ہی (جو نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں اور ہمارے میانہ رو نجات یافتہ ہیں اور ہمارے ظالم لوگ بھی اللہ کی بخشش حاصل کر لیں گے۔ السنن لسعيد بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، البيهقي في البعث
فائدہ:..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ بسا اوقات کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو بالکل اسی کے موافق اللہ کا کلام نازل ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ بھی کہا گیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہو جاتا تھا۔ نیز آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا فرزند عمر ہوتا۔ تو انہی موافقات عمر رضی اللہ عنہ میں سے یہ آیت بھی ہے۔

گناہگار مسلمان کی نجات ہوگی

۲۵۶۲ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ہمارا سابق تو سابق ہے، ہمارا اعتدال سند نجات پا جانے والا ہے اور ہمارے ظالم کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله - فاطر ۳۲۰
پس ان میں سے کچھ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور کچھ ان میں سے میانہ رو ہیں اور کچھ نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔

العقبلي في الضعفاء، ابن مردويه، ابن لآل في مكارم الاخلاق، الديلمي

۲۵۶۳ میمون بن سیاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

ثم اور ثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات -

سورہ فاطر: ۳۲

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا۔ تو کچھ ان میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اور کچھ میانہ رو ہیں اور کچھ خدا کے حکم سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہی بڑا فضل ہے۔

پھر رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہمارا سابق تو سابق ہے اور ہمارا میانہ رو ناجی (نجات والا) اور ہمارا ظالم خدا کی بخشش پانے والا ہے۔

البعث للبيهقي

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں میمون بن سیاہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان کا کوئی راوی متروک ہے۔

۳۵۶۳۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمان باری تعالیٰ:

فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔

کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارے سابق جہادی ہیں۔ ہمارے میاں رو ہمارے شہری لوگ ہیں اور ہمارے ظالم بدو (دیہاتی) ہیں (جو

دین سے نابلد رہتے ہیں)۔ السنن لسعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ فی البعث

۳۵۶۵۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے فرمان:

فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ فاطر: ۳۲

کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: یہ سب اس امت کے (مسلمان) لوگ ہیں اور سب ہی جنت میں جائیں گے۔

السنن لسعید بن منصور، ابن مردویہ، البیہقی فی البعث

۳۵۶۶۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لوگوں کو تین اقسام میں کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور یہ (تین اقسام) اللہ کے فرمان میں ہیں:

فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ فاطر: ۳۲

پھر فرمایا سابق بالخیرات (لوگوں میں آگے نکل جانے والا) تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مقتصد (میانہ رو) سے آسان

حساب لیا جائے گا۔ اور ظالم لنفسہ (اپنی جان پر گناہ کر کے ظلم کرنے والا) اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ رواہ الدیلمی

یہ سند مندائشروں للدیلمی کی روایت ہے۔

۳۵۶۷۔ (ابوالدرداء رضی اللہ عنہ) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد ربانی

فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات۔ فاطر: ۳۲

کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

سابق اور مقتصد بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ظالم لنفسہ سے آسان حساب لیا جائے گا پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔

البیہقی فی البعث

فائدہ:۔۔۔ سورہ فاطر کے باب میں یہ تمام احادیث اسی مضمون پر مشتمل ہیں اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی حدیث پر روایات

کثرت کے ساتھ آجائیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کی واقعی اصل ہے۔

سورۃ الصافات

۳۵۶۸۔ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمان باری تعالیٰ:

احشروا الذین ظلمو وازواجہم۔ الصافات: ۲۲

جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے (سب کو) جمع کر لو۔

کا مفہوم ہے کہ ایک دوسرے کے ہم مثل مثلاً سو دکھانے والے سو دکھانے والوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ اور شراب پینے والے شراب

پینے والوں کے ساتھ جمع ہو کر آئیں گے اسی طرح جنت میں جانے والے جنت میں اکٹھے جائیں گے اور جہنم میں جانے والے جہنم میں اکٹھے

جائیں گے۔ عبد السزاق، ابن ابی شیبہ، الغیبی، ابن منیع، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، مستدرک

الحاکم، البیہقی فی البعث

۳۵۶۹... (مسند علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے) ذبح ہونے والے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ عبدالرزاق، السنن لسعید بن منصور

ذبح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہیں

فائدہ:..... مشہور روایات اور کلام اللہ کے سیاق و سباق سے بڑھتے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں مثلاً یہی آیات لیجیے جن کی تفسیر میں مذکورہ فرمان علی رضی اللہ عنہ ارشاد ہوا: فرمان الہی ہے:

وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ رب ہب لی من الصالحین فبشر نہ بغلم حلیم فلما بلغ معہ السعی، الخ

الصفات: ۹۹-۱۰۲

اور (ابراہیم علیہ السلام) بولے: کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار! مجھے (اولاد) عطا فرما (جو) سعادت مندوں میں سے (ہو) تو ہم نے ان کو نرم دل لڑکے کی خوش خبری سنائی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھتا ہوں کہ (گویا) تم کو ذبح کر رہا ہوں تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم! تم نے خواب سچا کر دکھایا ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی اور خدا نے قبول کی اور وہی لڑکا قربانی کے لیے پیش کیا گیا۔ موجودہ تورات سے ثابت ہے کہ جو لڑکا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اور اسی لیے ان کا نام ”اسماعیل“ رکھا گیا۔ کیونکہ ”اسماعیل“ دو لفظوں سے مرکب ہے۔ ”سمع“ اور ”ایل“ ”سمع“ کے معنی سننے کے اور ایل کے معنی خدا کے ہیں۔ یعنی خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سن لی۔ ”تورات“ میں ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کے بارے میں میں نے تیری سن لی اس بناء پر آیت حاضرہ میں جس کا ذکر ہے وہ حضرت اسماعیل ہیں۔ حضرت اسحاق نہیں۔ اور ویسے بھی ذبح وغیرہ کا قصہ ختم کرنے کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت کا جدا گانہ ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ آگے آتا ہے:

وبشیرناہ باسحق نبیا الخ معلوم ہوا کہ ”فبشرناہ بغلام حلیم۔“ میں ان کے علاوہ کسی دوسرے لڑکے کی بشارت مذکور ہے۔ نیز اسحاق کی بشارت دیتے ہوئے ان کے نبی بنائے جانے کی بھی خوشخبری دی گئی اور سورہ ہود میں ان کے ساتھ ساتھ یعقوب علیہ السلام کا مژدہ بھی سنایا گیا۔ جو حضرت اسحاق کے بیٹے ہوں گے۔ ”ومن وراہ اسحق یعقوب“ (ہود: رکوع ۷) پھر کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ حضرت اسحاق ذبح ہوں۔ گویا نبی بنائے جانے اور اولاد عطا کیے جانے سے پیشتر ہی ذبح کر دیئے جائیں۔ لامحالہ ماننا پڑے گا کہ ذبح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کے متعلق بشارت ولادت کے وقت نہ نبوت عطا فرمانے کا وعدہ ہوا نہ اولاد دیئے جانے کا۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کی یادگار اور اسکی متعلقہ رسوم بنی اسماعیل میں برابر بطور وراثت منتقل ہوتی چلی آئیں۔ اور آج بھی اسماعیل کی روحانی اولاد ہے۔ (جنہیں مسلمان کہتے ہیں) ان مقدس یادگاروں کی حامل ہے۔ موجودہ تورات میں تصریح ہے کہ قربانی کا مقام ”مورا“ یا ”مریا“ تھا۔ یہود و نصاریٰ نے اس مقام کا پتہ چلانے میں بہت ہی دوراز کا احتمالات سے کام لیا ہے حالانکہ نہایت ہی اقرب اور بے تکلف بات یہ ہے کہ یہ مقام ”مرودہ“ ہے جو کعبہ کے سامنے بالکل نزدیک واقع ہے اور جہاں سعی بین الصفا والمروۃ ختم کر کے معتمرین حلال ہوتے ہیں اور ممکن ہے ”یلغ معہ السعی“ میں اسی سعی کی طرف ایما ہو موطا امام مالک کی ایک روایت میں نبی کریم ﷺ نے ”مرودہ“ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ قربان گاہ ہے۔ غالباً وہ اسی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی قربان گاہ کی طرف اشارہ ہوگا ورنہ آپ ﷺ کے زمانہ میں لوگ عموماً مکہ سے تین میل ”مسی“ میں قربانی کرتے تھے۔ جیسے آج تک کی جاتی

ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل قربان گاہ ”مروہ“ تھی۔ پھر حجاج اور ذبائح کی کثرت دیکھ کر مٹی تک وسعت دے دی گئی۔ قرآن کریم میں بھی ”ہدیا بالغ الکعبۃ“ اور ”ثم محلہا الی البیت العتیق“ فرمایا ہے جس سے کعبہ کا قرب ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

بہر حال قرآن و آثار یہی بتلاتے ہیں کہ ”ذبح اللہ“ وہی اسماعیل علیہ السلام تھے جو مکہ میں آکر رہے اور وہیں ان کی نسل پھیلی۔ تورات میں یہ بھی تصریح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے اکلوتے اور محبوب بیٹے کے ذبح کا حکم دیا گیا تھا اور یہ مسلم ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی موجودگی میں اکلوتے کیسے ہو سکتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے جواب میں جس لڑکے کی بشارت ملی اسے ”غلام حلیم“ کہا گیا ہے۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت جب فرشتوں نے ابتداء خدا کی طرف سے دی تو ”غلام حلیم“ سے تعبیر کیا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ”حلیم“ کا لفظ ان پر یا کسی اور نبی پر قرآن میں کہیں اطلاق نہیں کیا گیا۔ صرف اس لڑکے کو جس کی بشارت یہاں دی گئی اور اس کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب عطا ہوا ہے ”ان ابراہیم لحلیم او اہ منیب“ (ہود: رکوع: ۷) اور ”ان ابراہیم لا واہ حلیم“ (توبہ: رکوع: ۱۲۴) جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہی دونوں باپ بیٹے اس لقب خاص سے ملقب کرنے کے مستحق ہوئے۔ ”حلیم“ اور ”صابر“ کا مفہوم قریب قریب ہے۔ اسی ”غلام حلیم“ کی زبان سے نقل کیا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرين۔ دوسری جگہ صاف فرمایا:

واسماعیل وادریس وذاکفل کل من الصابرين۔ انبیاء: رکوع: ۷

شاید اسی لیے سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صادق الوعد فرمایا کہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرين۔ کے وعدہ کو کس طرح سچا کر دکھایا۔ بہر حال حلیم، صابر اور صادق الوعد کے القاب کے مصداق ایک ہی معلوم ہوتا ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وکان عند ربہ مرضیا سورہ بقرہ میں تعمیر کعبہ کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے جو دعا نقل فرمائی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں:

ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ بعینہ اسی مسلم کے تشبیہ کو۔ یہاں قربانی کے ذکر میں فلما اسلما کے لفظ سے ادا کر دیا اور ان ہی دونوں کی ذریت کو خصوصی طور پر مسلم کے لقب سے نامزد کیا بے شک اس سے بڑھ کر اسلام و تقویٰ اور صبر کیا ہوگا جو دونوں باپ بیٹے نے کرنے اور ذبح ہونے کے متعلق دکھایا یہی اسلما کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کو امت مسلمہ بنایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ فرمان علی رضی اللہ عنہ سے متعلق حدیث مذکورہ محل کلام ہے کیونکہ آئندہ کی حدیث جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے اس کے خلاف ہے۔ نیز اس طرح کے اور بہت سے قرآن و شواہد ہیں جن سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ ذبح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔

تفسیر عثمانی مع اضافہ

۲۵۷۰۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو مینڈھا اسماعیل علیہ السلام کے قدیمہ میں قربان ہوا وہ جمرہ و سطلی کے بائیں جانب اتر تھا۔

بخاری فی تاریخہ

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت محل کلام ہے جس میں ذبح اللہ اسحاق علیہ السلام کو فرمایا۔ نیز جس مقام پر قربانی ہوئی وہ مقام اسماعیل علیہ السلام کا مستقر ہے اور کعبہ اللہ کی بنا میں بھی اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ لہذا یہاں قائم ہونے والی سنت بھی اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔

قوم یونس کی تعداد

۲۵۷۱۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان:

وارسلنا الی مائة الف أویون بدون۔ الصافات ۱۲۷

اور ہم نے ان (پوس علیہ السلام) کو لاکھ یا زائد کی طرف بھیجا۔
کے بارے میں پوچھا (کہ زائد سے کتنے زائد مراد ہیں؟) آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ہزار۔

ترمذی غریب، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

فائدہ:..... یعنی اگر صرف عاقل بالغ افراد گنتے تو لاکھ تھے جن کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ جبکہ بچے ان کے ماتحت ہو کر آجاتے ہیں لیکن اگر سب چھوٹوں بڑوں کو شمار کرتے تو زائد تھے۔ یہی مطلب زیادہ ترین قیاس ہے۔
کلام:..... امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔

سورہ ص

۲۵۷۲ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور بڑی عظمت و شدت کے ساتھ فرمایا۔ اور فرمایا: رحمٰن داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے میرے آگے آؤ۔ داؤد علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار مجھے خوف ہے کہ میری خطائیں میرے قدم نہ پھسلادیں۔ پروردگار فرمائیں گے: میرے پیچھے سے گدرو۔ داؤد علیہ السلام عرض کریں گے: مجھے خوف ہے کہ کہیں میری خطائیں مجھے نہ پھسلادیں۔ پروردگار فرمائیں گے: میرا قدم پکڑو۔ پس داؤد علیہ السلام اللہ کا قدم پکڑیں گے اور پھر گذر جائیں گے۔ یہی زلفی ہے۔ جو اللہ نے فرمایا:

وان له عندنا لولفی وحسن مآب۔ ص: ۲۵

اور بے شک (داؤد) کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ رواہ ابن مردویہ

۲۵۷۳ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جہنم سے مراد چھ ماہ کا عرصہ ہے۔ السنن للبيهقي
فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

ولتعلمن نبأہ بعد حین۔ ص: ۸۸

اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔

نقش سلیمانی

۲۵۷۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے بیٹھے اپنی انگوٹھی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اچانک انگوٹھی آپ سے چھوٹ کر سمندر میں گر گئی۔ آپ کی ساری سلطنت آپ کی انگوٹھی میں تھی۔ چنانچہ آپ وہاں سے چل پڑے۔ جبکہ پیچھے ایک شیطان (آپ کی شکل میں) آپ کے گھر رہنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بڑھیا کے پاس تشریف لائے اور اس کے پاس رہنے لگے۔ (اور ساری داستان سنائی) بڑھیا بولی: اگر تم چاہو تو تم جا کر (روزی) تلاش کرو اور میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ اور اگر تم چاہو تو تم گھر کا کام کاج کرو اور میں جا کر روزی تلاش کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام روزی کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ علیہ السلام ایک قوم کے پاس آئے جو مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔ انہوں نے کچھ مچھلیاں آپ کو دیں۔ آپ علیہ السلام وہ مچھلیاں لے کر بڑھیا کے گھر لوٹے۔ بڑھیا مچھلیاں کاٹنے لگی تو ایک مچھلی کا پیٹ کاٹا تو اس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی نکل آئی۔ بڑھیا نے پوچھا یہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام (نے بتایا کہ یہی تو میری گمشدہ انگوٹھی ہے) پھر آپ علیہ السلام نے وہ انگوٹھی لے کر پہنی۔ اور آپ کی بادشاہت لوٹ آئی اور تمام انس و جن، شیاطین، چرند پرند اور وحشی جانور آپ کے تابع رہنے لگے۔ اور جو شیطان آپ کی جگہ لیے بیٹھا تھا وہ بھاگ گیا۔ اور جا کر سمندر

کے ایک جزیرے میں پناہ گزین ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کے لیے شیاطین کو اس کے تعاقب میں بھیجا۔ انہوں نے (آکر) کہا: ہم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ (ایک حل ہے) وہ ہر ہفتہ میں ایک دن جزیرے کے چشمے پر آتا ہے۔ اور ہم اس کو صرف نشہ کی حالت میں پکڑ سکتے ہیں۔ لہذا اس پانی کے چشمے میں شراب ڈالی جائے۔ (چنانچہ یہ تدبیر کی گئی) جب شیطان آیا اور اس چشمے کا پانی پی لیا (تو وہ نرم پڑا) پھر انہوں نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی جس کو دیکھ کر وہ اطاعت پر آمادہ ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بندھا کر ایک پہاڑ پر بھیج دیا۔ کہتے ہیں وہ جبل الدخان نامی پہاڑ ہے۔ (دخان کے معنی دھوئیں کے ہیں) اور اس پہاڑ سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ اسی شیطان سے نکلتا ہے اور وہ پانی جو پہاڑ سے گرتا ہے وہ شیطان کا پیشاب ہے۔ عبد بن حمید، ابن المنذر

۲۵۷۵۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے فرمان الہی:

فطفق مسحاً بالسوق والاعناق۔ ص ۳۳

پس شروع ہوئے (تلوار کا ہاتھ پھیرنے) پنڈلی اور گردنوں پر۔

کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گردن کاٹنے لگے۔ اسماعیل فی معجمہ، ابن مردویہ
یہ روایت حسن ہے۔

سورة الزمر

۲۵۷۶۔ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے تھے: (دنیا کے) فتنے میں پڑ (کر ہجرت سے رہ جانے) والوں کے لیے کوئی تو بہ نہیں۔ لوگ کہتے تھے: جو فتنے میں پڑ گئے ان کی نہ نقل قبول اور نہ فرض۔ اور (ہجرت سے رہ جانے والے لوگ) یہ بات اپنے متعلق کہتے تھے۔ جب نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور ہمارے ان کے متعلق کہنے کے بارے میں اور خود ان کے اپنی جان کے بارے میں کہنے سے متعلق اللہ پاک نے یہ فرمان نازل کیا:

یعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمة اللہ سے وانتم لاتشعرون تک۔ الزمر: ۵۳

اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہونا خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے (اور) وہ تو بخشنے والا مہربان ہے، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آجائے اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرماں بردار ہو جاؤ پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آجائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی (کتاب) کی پیروی کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے یہ آیت ایک خط میں لکھ کر ہشام بن العاص کو روانہ کر دی۔

البنار، الشاشی، ابن مردویہ، السنن للبیہقی

اس حدیث کی وضاحت ذیل کی حدیث کرتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا موقع

۲۵۷۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ (مدینہ منورہ) ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو میں نے اور عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن العاص بن وائل نے پلوگرام بنایا کہ ہم (ایک ساتھ) مدینہ ہجرت کریں۔ چنانچہ میں اور عیاش تو نکل پڑے جبکہ ہشام فتنہ میں پڑ گئے (یعنی اپنے کسی کام سے پیچھے رہ گئے) پھر ان کو آزمائش بھی پیش آگئی وہ یوں کہ ان کے دو بھائی ابو جہل اور خارث ابن ہشام ان کے پاس

آئے اور کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے نذر مانی ہے کہ وہ نہ کسی سائے میں آئیں گی اور نہ سر کو دھوئیں گی جب تک کہ تم کو نہ دیکھ لیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ان کا مقصد صرف تم کو تمہارے دین سے فتنہ میں ڈال کر روکنا ہے۔ آخر وہ دونوں اس کو لے گئے اور اس کو اپنے فتنے میں پھنسا لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا:

يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا من مشى للمتكبرين تك۔

میں نے یہ آیت ہشام کو لکھ بھیجیں۔ چنانچہ وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ البزار، ابن مردویہ، السنن للبیہقی ۲۵۷۸ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

انك ميت وانهم ميتون (الزمر: ۳۰)

(اے پیغمبر!) تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا:

اے پروردگار! کیا تمام مخلوقات مر جائے گی اور انبیاء باقی رہیں گے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی:

كل نفس ذائقة الموت ثم الينا ترجعون۔ القرآن

ہر جی موت (کا مزہ) چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ابن مردویہ، السنن للبیہقی

۲۵۷۹ ارشاد خداوندی ہے:

والذی جاء بالحق وصدق به اولئك هم المنتقون۔ الزمر: ۳۳

اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ مذکورہ آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں سچی بات لانے والے محمد ﷺ ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والے حضرت

ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن حریز، البوردی فی معرفة الصحابة، ابن عساکر

فائدہ: مشہور قرأت میں والذی جاء بالصدق ہے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان میں والذی جاء بالحق کے الفاظ ہیں۔

مفہوم ایک ہی ہے۔ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت میں بالحق کا لفظ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب

خواب کی حقیقت کیا ہے؟

۲۵۸۰ سلیم بن عامر سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

تعب کی بات ہے کہ کوئی شخص رات بسر کرتا ہے اور ایسی کوئی چیز (خواب میں) دیکھتا ہے جو کبھی اس کے دل میں گذری نہیں۔ لیکن وہ (اٹھتا ہے اور) اپنے خواب کو جیسے ہاتھ سے تمام لیتا ہے۔ اور کوئی شخص خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

یا امیر المؤمنین! کیا میں اس کی حقیقت نہ بتاؤں! درحقیقت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

الاخرى الى اجل مسمى۔ الزمر: ۴۲

خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روح قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں (ان کی روحوں) سوتے ہیں (قبض کر لیتا ہے) پھر جن

پر موت کا حکم کر دیتا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: (نیندگی شکل میں) تمام جانوں کی روح قبض کر لیتا ہے۔ پھر جو روحیں اللہ کے پاس ہوتے ہوئے خواب دیکھتی ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں تو شیاطین ہوا میں ان سے ملتے ہیں اور ان سے جھوٹ بولتے ہیں اور باطل خیریں سناتے ہیں تو پس وہ جھوٹے خواب ہوتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان پر بہت تعجب ہوا (اور ان کی تحسین فرمائی)۔

ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، السنن للبیہقی

۳۵۸۱۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دریافت فرمایا: کون سی آیت سب سے زیادہ وسعت والی ہے؟ تو لوگ ایک ایک دوسرے سے اس کے بارے میں کچھ کچھ کہنے لگے، کسی نے کہا:

ومن يعمل سوءاً او یظلم نفسه ثم یتستغفر اللہ یجد اللہ غفوراً رحیماً۔ جس نے برا عمل کیا یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ سے بخشش مانگی تو وہ اللہ کو مغفرت کرنے والا مہربان پائے گا۔

الغرض لوگ اس طرح کی آیات بتانے لگے۔ تب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا: قرآن میں اس سے زیادہ وسعت والی آیت کوئی نہیں:

یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لاتقنطوا من رحمة اللہ۔

اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو جاؤ۔ رواہ ابن جریر

۳۵۸۲۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم ﷺ سے اللہ عزوجل کے اس فرمان کا مطلب دریافت کیا:

لہ مقالید السموات والارض - الزمر

آسمانوں اور زمین کی چابیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔

آسمان وزمین کی چابیاں

حضور ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا:

اے عثمان! تم نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ آسمانوں اور زمین کی چابیاں یہ کلمات ہیں:

لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وسبحان اللہ، والحمد للہ، واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الاول والآخر

والظاهر والباطن، یحیی ویمیت وهو حی لایموت، بیدہ الخیر، وهو علی کل شیء قذیر۔

اے عثمان! جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اس کو دس خصلتیں (خوبیاں) عطا کی جائیں گی۔

پہلی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

دوسری جہنم کی آگ سے اس کے لیے آزادی لکھ دی جائے گی۔

تیسری دوفرشتے تنہا ان پر مقرر کر دیئے جائیں گے، جو دن و رات تمام آفات اور بلیات سے اس کی حفاظت کریں گے۔

چوتھی اس کو ایک قطار (ہزار اوقیہ) اجر عطا کیا جائے گا۔

پانچویں اس شخص کا اجر اس کو ملے گا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے سوغلام آزاد کیے۔

چھٹی اس کو ایسا اجر ملے گا گویا اس نے تورات، انجیل، زبور و قرآن پڑھے لیے۔

ساتویں اس کے لیے جہنم میں گھر بنایا جائے گا۔

آٹھویں حور عین سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔

نویں اس کے سر پر وقار کا تاج پہنا دیا جائے گا۔

دسویں یہ کہ اس کے گھر کے افراد میں سے ستر افراد کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

اے عثمان! اگر ہو سکے تو زندگی میں کسی دن یہ کلمات فوت نہ ہونے دینا۔ تو ان کی بدولت کامیاب ہونے والوں کے ساتھ مل جائے گا اور

اولین و آخرین کو پالے گا۔ ابن مردویہ، ابو یعلیٰ و ابن ابی عاصم و ابوالحسن القطان فی الطولات، السنن لیوسف القاضی، ابن المنذر، ابن

ابی حاتم، ابن السنی، عقیلی فی الضعفاء، البیہقی فی الاسماء والصفات

بہکی روایت دوسرے الفاظ میں یوں منقول ہوئی ہے:

جس شخص نے یہ کلمات صبح و شام دس دس بار کہے اس کو چھ خصلتیں (خوبیاں) عطا کی جائیں گی۔

پہلی ابلیس اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت کر دی جائے گی۔

دوسری ایک قنطار اجر اس کو دیا جائے گا۔

تیسری ایک درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا۔

چوتھی حور عین سے اس کی شادی کر دی جائے گی۔

پانچویں اس کے پاس بارہ ہزار اور ایک روایت میں بارہ ہشتے حاضر ہوں گے۔

اور چھٹے یہ کہ اس کو اس شخص کا اجر ہوگا جس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔

اور اے عثمان! اس کے ساتھ اس کو اس شخص کا اجر ہوگا جس نے حج اور عمرہ کیا اور دونوں مقبول ہو گئے۔ اور اگر وہ شخص اسی دن مر گیا تو شہداء

کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

کلام: امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت کی سند میں نظر ہے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں نکارت ہے۔ جبکہ امام

الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ میزبان میں فرماتے ہیں: میرے خیال میں یہ روایت

موضوع (خود ساختہ) ہے۔ امام بوخیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے متعلق موضوع ہونے کا کلام کچھ بعید نہیں۔ کنز العمال ج ۲ ص ۳۹۳

سورة المؤمن

۲۵۸۳ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) ابواسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

کیا مؤمن کو قتل کرنے والے کے لیے توبہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

غافر الذنوب وقابل التوب - الزمر

(اللہ) گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عبد بن حمید

۲۵۸۴ (علی رضی اللہ عنہ) ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ومنہم من لم نقصص علیک - الزمر

اور ان میں سے کچھ (نبی ایسے ہیں) جن کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک حبشی غلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا وہ انہی انبیاء میں سے تھا جن کے حالات محمد پر نہیں بیان

کیے گئے۔ الاوسط للطبرانی، ابن مردویہ

سورہ فصلت

۳۵۸۵ (مسند ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ) سعد بن عمران سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارشاد خداوندی:

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الزمر ۳۰

بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ٹھہر گئے۔

کے متعلق ارشاد فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ابن المبارک فی الزهد، عبدالرزاق، الفریابی، سعد بن

منصور، مسدد، ابن سعد، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، رستہ فی الایمان

زیادہ بہتر روایت کا مرفوع ہونا ہے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر نہ فرماتے تھے۔

۳۵۸۶ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الزمر ۳۰

جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ (ایمان پر) قائم رہے اور لوٹنے کی مانند ادھر ادھر نہ پھرے۔

السنن لسعد بن منصور، ابن المبارک، الزهد للامام احمد، عبد بن حمید، النحاکم، ابن المنذر، رستہ فی الایمان، الصابونی فی المائین

دلوں پر تالا ہونا

عبدالرزاق، الفریابی، سعد بن منصور، مسدد، ابن سعد، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، رستہ فی الایمان، الصابونی فی المائین

۳۵۸۷ عبد القدوس حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ عن عمر رضی اللہ عنہ کی سند سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرمان باری تعالیٰ:

وقالوا اقلوبنا فی اکنۃ ممن تدعوننا الیہ فصلت ۵

اور کہنے لگے: کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا تے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ کے (شان نزول) کے متعلق فرماتے ہیں۔

ایک مرتبہ قریش اکٹھے ہو کر نبی اکرم ﷺ کے پاس جمع ہو کر آئے۔ آپ ﷺ نے ان کو فرمایا: تمہیں اسلام قبول کرنے سے کیا چیز رکاوٹ

ہے؟ حالانکہ تم اسلام کی بدولت عرب کے سردار بن جاؤ گے۔ مشرکین کہنے لگے: جو آپ کہہ رہے وہ ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں اور نہ ہم کو وہ

سنائی دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابو جہل نے کپڑے لے کر اپنے اور حضور ﷺ کے درمیان تان لیا۔ اور کہنے لگا:

اے محمد! ہمارے دل پردے میں ہیں اس سے جس کی طرف تم ہم کو بلا تے ہو۔ اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان

پردہ ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں تم کو دو باتوں کی طرف بلاتا ہوں یہ کہ تم شہادت دیدو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی ساتھی

نہیں۔ اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کی شہادت سنی تو نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر چل دیے اور کہنے لگے کہ کیا تمام

معبودوں کو ایک ہی معبود بنا لیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے چلو اور صبر کرو اپنے ہی معبودوں پر یہ تو ایسی چیز مانگی جاتی

ہے جو آخری ملت (نصرانیت) میں بھی نہیں تھی۔ یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت (کی کتاب) اتری ہے؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

پھر جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے: اے محمد! اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ کیا خیال کرتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ

ہے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے پس وہ آپ کی بات نہیں سنتے یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ جب آپ قرآن میں اللہ کی تاکہ کر کرتے ہیں تو نفرت

کرتے ہوئے بیٹھ پھر کر چل دیتے ہیں، اگر وہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو اللہ کا یکتا ذکر سن کر نہ بھاگتے درحقیقت یہ لوگ سننے تو ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے کیونکہ وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ جب اگلا دن ہوا تو انہی میں سے ستر افراد آپ ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے ہم پر اسلام پیش کیجئے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ان پر اسلام پیش کیا تو وہ سب کے سب اسلام لے آئے۔ حضور ﷺ (خوشی سے) مسکرائے اور اللہ کی حمد بیان کی پھر فرمایا: کل تو تمہارا خیال تھا کہ تمہارے دلوں پر تالا پڑا ہوا ہے اور تمہارے دل پر پردے ہیں اس چیز سے جس کی طرف میں تم کو بلاتا ہوں۔ اور تمہارے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور (الحمد للہ) آج تم مسلمان ہو گئے ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے: یا رسول اللہ! ہم کل کو جھوٹ بول رہے تھے۔ اللہ کی قسم اگر وہ سچ ہوتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاسکتے تھے۔ لیکن اللہ پاک ہی سچا ہے اور بندے اس پر جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ غنی ہے اور ہم فقیر۔

ابو سہل السری بن سہل الجندی نابوری فی الخامس من حدیثہ

۴۵۸۸ فرماں الہی ہے:

رینا ارنا الذین اضلانا - فصلت ۲۹

پروردگار! جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے یہ دو گمراہ کرنے والے ابلیس اور آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔

عبدالرزاق، السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم

سورة الشوری

۴۵۸۹ (عثمان رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ:

لہ مقالید السموات والارض -

آسمانوں اور زمین کی چابیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔

کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے

سبحان اللہ والحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر آسمانوں اور زمین کی چابی ہے کو اللہ نے اپنے لیے، اپنے ملائکہ کے لیے، اپنے انبیاء کے لیے اپنے رسولوں کے لیے اور تمام نیک مخلوق کے لیے پسند کیا ہے۔ الحارث، ابن مردویہ کلام: اس روایت میں حکیم بن نافع اور عبدالرحمن بن واقد دونوں ضعیف راوی ہیں۔

۴۵۹۰ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا آپ نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی پھر اس کی تفسیر بیان فرمائی اور مجھے اس کے بدلے دنیا و ما فیہا کامل جانا بھی پسند نہیں۔ وہ آیت ہے:

وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر - شوری ۳۰

اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہو تو تمہارے اپنے فعلوں سے (ہے) اور وہ بہت سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔

پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کو اللہ نے دنیا میں کسی گناہ کی سزا دیدی تو اللہ پاک ایسے کریم ہیں کہ آخرت میں دوبارہ اس گناہ کی سزا نہیں دیں گے۔ اور اللہ پاک دنیا میں جس گناہ کو معاف کر دیں تو اللہ پاک ایسے نہیں ہیں کہ دنیا میں تو اس گناہ کو معاف کر دیں اور آخرت میں

اس پر پکڑ فرمائیں۔ ابن راہویہ، ابن مردویہ

سزاء ایک ہی دفعہ ہوتی ہے

۴۵۹۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: کیا میں کتاب اللہ کی افضل آیت نہ بتاؤں جو مجھے رسول اللہ ﷺ نے بتائی ہے وہ ہے:

وما اصابکم من مصيبة فبما کسبت ايديکم ويعفو عن كثير شوری: ۳۰

اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے ہے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تم کو اس کی تفسیر بتاؤں گا۔

پھر فرمایا: اے علی! تم کو دنیا میں جو مصیبت کا مرض پیش آتا ہے یا جو سزا ملتی ہے تو اللہ اس بات سے کریم (اور نسی) ہے کہ آخرت میں دو بار سزا دے۔ اور جس گناہ کو اللہ پاک دنیا میں معاف کر دین تو وہ زیادہ بردبار ہیں اور ایک روایت میں وہ زیادہ عظمت والے ہیں کہ اس کو معاف کرنے کے بعد دوبارہ اس پر پکڑ فرمائیں۔ مسند عبد اللہ بن احمد بن حنبل، ابن منیع، عبد بن حمید، الحکیم، مسند ابی یعلیٰ، ابن المنذر

ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم

۴۵۹۲ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ قریش میں اوسط النسب تھے۔ قبائل قریش میں سے کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو آ

کے ساتھ اپنی رشتہ داری نہ رکھتا ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

قل لا اسئلكم عليه اجرا الا المودة فی القربى - شوری: ۲۳

کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا مگر (تم کو) قربت کی محبت (تو رکھنی چاہیے)۔ یعنی بس رشتہ داری کی محبت مجھ سے رکھو اور ر

داری میں میری حفاظت کرو۔ ابن سعد

حروف مقطعات کا مفہوم

۴۵۹۳ ابی معاویہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور فرمایا: اے لوگو! کیا تم میں سے کسی نے حف

کو حَمَّ عَسَق کی تفسیر کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی جگہ اچھلے اور عرض کیا: میں نے (سنی ہے) پھر فرمایا:

اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: عین کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عا بن المشرك

عذاب يوم بدر..... یعنی عین سے اشارہ ہے معانہ کی طرف کہ مشرکین نے بدر کے دن اللہ کے عذاب کا معانہ کر لیا۔ پوچھا:

کیا ہے؟ فرمایا: سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون عنقریب وہ لوگ جان لیں گے جہنموں نے اپنی جان پر ظلم کیا کہ کس کروٹ لو۔

ہیں۔ پوچھا: کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر فرمایا: میں تم سب کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بتاؤ

کسی نے آپ ﷺ کو آپ حَمَّ عَسَق کی تفسیر کرتے ہوئے سنا ہے؟ پھر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو دے اور فرمایا: حم اللہ کے اسماء میں سے آ

اسم ہے۔ پوچھا: عین؟ فرمایا: عا بن المشركون عذاب يوم بدر۔ پوچھا: عین؟ فرمایا: سيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون۔ پو

قاف کیا ہے؟ فرمایا: قارة من السماء تصيب الناس۔ یعنی وہ کھٹکھٹانے والی (صورتی آواز یا کوئی آسمانی عذاب) جو لوگوں پر نازل ہوگی۔

مسند ابی یعلیٰ، ابن عسہ

سورة الزخرف

۴۵۹۴ (مسند علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ یوں پڑھا کرتے تھے:

سبحان من سخر لنا هذا. الزخرف ابن الانباری فی المصاحف

فائدہ: اصل قرأت:

سبحان الذی سخر لنا هذا ہے۔ اور مفہوم دونوں کا ایک ہے۔

۳۵۹۵۔ فرمان الہی:

الا خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدوا الا المتقین۔ الزخرف

دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو دوست مؤمن ہوتے ہیں اور دو دوست کافر۔ مؤمنوں میں سے ایک دوست مر جاتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے وہ اپنے دوست کا ذکر کرتا ہے اور دعا کرتا ہے: اے اللہ! میرا فلاں دوست مجھے تیری فرماں برداری اور تیرے رسول کی فرماں برداری کا حکم دیتا تھا، نیز مجھے خیر کا حکم دیتا تھا اور برائی سے روکتا تھا اور مجھے خیر دیتا تھا کہ میں تجھ سے ایک دن ضرور ملاقات کروں گا۔ اے اللہ! پس اس کو گواہ نہ کرنا میرے بعد حتیٰ کہ تو اس کو بھی وہ سب کچھ دکھا دے جو تو نے مجھے دکھایا ہے۔ اور تو اس سے بھی راضی ہو جائے جس طرح مجھ سے راضی ہوا ہے۔ اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں: جا، اگر تو دیکھ لیتا جو ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے تو تو بہت ہنستا اور کم روتا۔ پھر دوسرا دوست بھی مر جاتا ہے۔ دونوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی تعریف کریں لہذا ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ بہت اچھا بھائی ہے، بہت اچھا سا بھی ہے، بہت اچھا دوست ہے۔

اور جب دونوں کافروں میں سے ایک مر جاتا ہے تو اس کو جہنم کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تب وہ اپنے دوست کو یاد کرتا ہے۔ اے اللہ میرا فلاں دوست مجھے تیری نافرمانی اور تیرے رسول کی نافرمانی کا کہتا تھا اور مجھے ہر برائی کا حکم دیتا تھا اور ہر نیکی سے باز رکھتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ میں تجھ سے اے اللہ کبھی نہ ملوں گا۔ پس اے اللہ! اس کو میرے بعد ہدایت نہ دیجئے گا حتیٰ کہ تو اس کو بھی وہی (عذاب) دکھائے جو تو نے مجھے دکھایا اور اس پر بھی اسی طرح ناراض ہو جس طرح مجھ سے ناراض ہوا۔ پھر دوسرا دوست مرتا ہے اور دونوں کی روحیں اکٹھی ہوتی ہیں تو دونوں کو کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ ہر ایک دوسرے کو کہتا ہے: بہت برا بھائی ہے، بہت برا سا بھی ہے اور بہت برا دوست ہے۔

ابن زنجویہ فی تورغیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، شعب الایمان للسیہقی

۳۵۹۶۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ کر فرمایا: اے علی! اس امت میں تیری مثال عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرح ہے، ان سے بھی ان کی قوم نے محبت میں افراط کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگ چیخ پڑے اور کہنے لگے اپنے چچا زاد کو عیسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دیدی۔ تب قرآن پاک نازل ہوا۔

ولما ضرب ابن مریم مثلاً اذا قومک منه یصدون۔ الزخرف: ۵۷

اور جب مریم کے بیٹے (عیسیٰ) کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ ابن الجوزی فی الواہیات

کلام: حدیث ضعیف لان ابن الجوزی ذکرہ فی الواہیات۔

۳۵۹۷۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے:

ولما ضرب ابن مریم مثلاً اذا قومک منه یصدون۔ الزخرف: ۵۷ ابن مردویہ

۳۵۹۸۔ عبدالرحمن بن مسعود عبدی سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

فاما نذہین بک فانما منہم منتقمون۔ الزخرف: ۲۱

پس اگر ہم آپ کو اٹھالیں گے تو ان سے انتقام لے کر رہیں گے۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ پاک اپنے پیغمبر کو لے گئے اور میں عذاب بن کر اس کے دشمنوں کے بیچ رہ گیا ہوں۔

رواہ ابن مردویہ

سورة الدخان

۴۵۹۹ ... عباد بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کیا آسمان وزمین کسی پر روتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہر شخص کی زمین کوئی جائے نماز ہوتی ہے اور آسمان میں اس کے عمل چڑھنے کا کوئی راستہ ہوتا ہے اور آل فرعون کا زمین میں کوئی نیک عمل ہے اور نہ آسمان میں نیک عمل جائے کا کوئی راستہ۔ (جو ان پر روئے جبکہ مومن کے لئے زمین میں جائے نماز کا حصہ اور آسمان میں نیک عمل جائے کا راستہ مومن کے مرنے پر روتا ہے۔) ابن ابی حاتم

سورة الاحقاف

۴۶۰۰ ... حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یہودیوں کے عید کے روز نبی اکرم ﷺ مجھے ساتھ لے کر ان کے کنیہ میں تشریف لے گئے۔ یہودیوں نے (عید کے روز) ہمارا اپنے ہاں آنا گوارا محسوس کیا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو ارشاد فرمایا: اے یہود! تم لوگ مجھے اپنے بارہ آدمی دکھا دو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوں؟ اللہ پاک آسمان کے نیچے رہنے والے ہر یہودی سے اپنے غضب کے عذاب کو ہٹا دے گا جو غضب ان پر اللہ نے نازل کیا ہوا ہے۔ یہود چپ ہو گئے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ ﷺ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ مگر پھر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ ﷺ نے سہ بارہ اپنی بات دہرائی مگر پھر بھی سب خاموش رہے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تم تو انکار کرتے ہو لیکن اللہ کی قسم! میں ہی حاضر ہوں، میں ہی عاقب ہوں، میں مصطفیٰ نبی ہوں (جس کا تمہاری کتاب میں ذکر آیا ہے) تم ایمان لاؤ یا جھٹلاؤ۔

عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر آپ ﷺ اور میں لوٹے لگے۔ ہم (کنیہ سے) نکلنے کے قریب تھے کہ اچانک ہمارے پیچھے ایک شخص آمو جو ہوا اور بولا پھر بیٹے اے محمد! پھر وہ اپنے یہودیوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگا: اے یہودیوں کی جماعت! میں کیسا شخص ہوں؟ یہودی کہنے لگے: اللہ کی قسم! ہم اپنے درمیان تم سے زیادہ کوئی کتاب اللہ (تورات) کو جاننے والا نہیں دیکھتے۔ نہ تم سے زیادہ قنبر اور آپ سے پہلے آپ کے باپ سے زیادہ کسی کو اور نہ آپ کے باپ سے پہلے آپ کے دادا سے زیادہ افضل کسی کو جاننے! پھر اس شخص نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کو تم تورات میں پاتے ہو۔

پھر یہودی کہنے لگے: تو جھوٹ بولتا ہے پھر وہ اس کے بارے میں برا بھلا کہتے رہے۔ حضور ﷺ نے ان کو فرمایا: تم جھوٹ بولتے ہو تمہاری یہ بات قبول نہیں کی جاسکتی کیونکہ ابھی تم نے ان کی بہت اچھی طرح تعریف کی ہے۔ لیکن جب وہ ایمان لے آیا تو تم اس کو جھوٹا کہہ رہو اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ لہذا تمہاری یہ بات قبول نہیں کی جائے گی۔

حضرت عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ ہم نکلے اور تین افراد تھے میں، رسول اللہ ﷺ اور عبد اللہ بن سلام۔ پھر اللہ پاک نے ان کے بارے میں یہ نازل فرمایا:

قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به الخ. الاحقاف: ۱۰
کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ (قرآن) خدا کی طرف سے ہوا اور تم نے اس سے انکار کیا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی کی طرح (کتاب) کی گواہی دے چکا ہے اور ایمان لے آیا ہے۔ اور تم نے سرکشی کی (تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے) بے شک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مسند ابی یعلیٰ، ابن حریر، مستدرک الحاکم، ابن عساکر

سورة محمد ﷺ

۴۶۰۱۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک جوان کو پڑھاتے ہوئے یہ آیت پڑھی:

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقلها - احقاف: ۲۳

بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا (ان کے) دلوں پر تالے لگ رہے ہیں۔ جوان نے کہا: دلوں پر تو تالے ہی ہوتے ہیں جب تک اللہ پاک نہ کھولے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم نے سچ کہا:

پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس یمن کا ایک وفد آیا انہوں نے درخواست دی کہ ان کے لیے ایک کتاب (خط) لکھ دی جائے۔ آپ نے عبد اللہ بن الارقم کو فرمایا کہ ان کو کتاب لکھ دو۔ انہوں نے کتاب لکھ کر حضور ﷺ کو دکھائی۔ آپ ﷺ نے اس کو درست قرار دیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوتا تھا کہ شاید لوگوں کی ذمہ داری کبھی ان کو سپرد کی جائے گی۔ جب آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسی جوان کے متعلق دریافت کیا لوگوں نے کہا وہ تو شہید ہو گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی کریم ﷺ نے یوں یوں فرمایا اس جوان نے بھی بیعت یوں ہی کہا۔ پھر نبی ﷺ نے فرمایا: یوں مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ کو بیت المال پر امیر مقرر کر دیا۔ ابن راہویہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردودہ

۴۶۰۲۔ نزال بن بصرہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا: یا امیر المؤمنین! یہاں ایک قوم ہے جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کو اس وقت تک نہیں جانتا جب تک وہ وقوع پذیر نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر پھٹ کار کی ان کی ماں ان کو گم کرے۔ یہ بات کہاں سے کہی ہے انہوں نے؟ کیا وہ قرآن کے اس فرمان کی تفسیر (میں یہ بات) کہتے ہیں:

ولنبلوکم حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین ونبلو اخبارکم۔ محمد: ۳۱

اور ہم تم کو آزمائیں گے تاکہ جو تم میں لڑائی کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، ان کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: جس نے علم حاصل نہیں کیا وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ برسر منبر جلوہ افروز ہوئے اللہ کی حمد کی اور اس کی بڑائی بیان کی اور پھر فرمایا:

اے لوگو! علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو اور اسے آگے دوسروں کو پڑھاؤ اور جس شخص پر کتاب اللہ کی کوئی بات مشتبہ ہو جائے وہ مجھ سے دریافت کر لے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں: اللہ پاک نہیں جانتے جب تک بات وقوع پذیر نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ولنبلوکم حتی نعلم المجاہدین۔ الخ سنو! در حقیقت اس کا مطلب ہے ہم جان لیں یعنی ہم دیکھ لیں کہ جس پر جہاد اور صبر فرض کیا ہے اگر وہ جہاد کرتا ہے اور مصیبت پر صبر کرتا ہے اور جو میں نے اس پر لکھ دیا ہے اس کو بجالاتا ہے۔ (اس کو کرتا ہوا دیکھ لیں اور ہم کو سب معلوم ہے کون کیا کرتا ہے؟) ابن عبد البر فی العلم

سورة الفتح

۴۶۰۳۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان خداوندی:

والزمہم کلمۃ التقوی۔ الفتح: ۲۶

اور اللہ نے ان کو پرہیزگاری کے کلمہ پر قائم رکھا۔ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں (پرہیزگاری کا کلمہ) لا الہ الا اللہ ہے۔

عبدالرزاق، الفریابی، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، مستدرک الحاکم، البیہقی فی الاسماء والصفات

۳۶۰۳ سیف بن عمر عطیہ عن اصحاب علی رضی اللہ عنہ عن علی رضی اللہ عنہ عن الضحاک عن ابن عباس رضی اللہ عنہما:
حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمان باری تعالیٰ:

وعدکم اللہ مغانم کثیرة۔ الفتح ۲۰

خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔

کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں: اس سے خیبر کی فتح کے موقع پر ملنے والی غنیمتیں مراد ہیں۔ تم ان کو حاصل کرو گے اور بہت جلد وہ تم کو حاصل ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے کفار کے ہاتھ تم سے رک جائیں گے، تاکہ یہ مومنوں کے لیے نشانی بن جائے، بعد کے اور اللہ کے وعدہ کے پورا ہونے پر دلیل بن جائے۔ اور ان کے علاوہ اور دوسری غنیمتیں بھی ہیں: لیس تقدر و علیہا تم ان پر قادر نہیں ہو یعنی ان کے پر قادر نہیں ہو کہ وہ کب حاصل ہوں گی وہ فارس اور روم کی غنیمتیں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دی ہیں۔ رواہ مستدرک الحاکم

۳۶۰۶ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے مروی ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

والزمہم کلمة التقوی۔ الفتح ۲۶

اور مومنوں کو تقویٰ کا کلمہ لازم کیا۔ فرمایا: وہ لا الہ الا اللہ ہے۔

ترمذی، مسند عبد اللہ بن احمد بن حنبل، ابن جریر، الدار قطنی فی الافراد، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم، البیہقی فی الاسماء والصفات کلام: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ روایت ضعیف ہے۔ نیز ہم اس روایت کو مرفوع صرف حسن بن قزعمہ ہی کی سند سے جابھیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بھی اس کو مرفوع صرف اسی سند کے ساتھ قرار دیا۔ کنز العمال ج ۲ ص ۵۰۶

سورة الحجرات

۳۶۰۷ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول الخ الحجرات ۲

اے ایمان والو! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو (اس

طرح) ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو (ایسا نہ ہو) کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خیر بھی نہ ہو۔

تو میں نے حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! میں آپ سے ہمیشہ ایک سرگوشی کرنے والے بھائی کی طرح بات چیت

کروں گا۔ الخارث والبنار، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ

کلام: ابن عدی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے کنز ج ۲ ص ۵۰۷۔

زیادہ تقویٰ والا زیادہ مکرم

۳۶۰۸ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى۔ الحجرات ۱۳

اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ بے شک

تمہارا سب سے زیادہ باعزت شخص اللہ کے ہاں تمہارا سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔

یہ آیت مکی ہے اور یہ خاص طور پر عرب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ عرب کے ہر قبیلے اور ہر قوم کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اور فرمان خداوندی تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقویٰ والا ہے یعنی شرک سے جو زیادہ بچنے والا ہے وہی زیادہ اللہ کے ہاں اکرام والا ہے۔ رواہ ابن مردویہ ۳۶۰۹۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مراسلہ آیا جس میں مکتوب تھا:

یا امیر المؤمنین! ایک شخص جو معصیت کی خواہش ہی نہیں رکھتا اور نہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے اور ایک شخص معصیت کی خواہش تو رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، بتائیے دونوں میں سے کون سا شخص افضل ہے؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب لکھوایا:

جو شخص معصیت کی خواہش تو رکھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا (وہ دوسرے سے افضل ہے) کیونکہ ارشاد خداوندی ہے:

اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لهم مغفرة واجر عظیم۔ الحجرات: ۳

یہی لوگ ہیں خدا نے ان کے دل تقویٰ کے لیے آزمالیے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ الزهد للامام احمد رحمۃ اللہ علیہ

۳۶۱۰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم نے لوگوں کے دلوں سے شہوات اڑادی ہیں۔

شعب الایمان للبیہقی عن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ

۳۶۱۱ (عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ) حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

لاترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ الحجرات: ۲

اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔

تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کو عرض کیا: میں آپ سے آئندہ ہمیشہ اس طرح بات کروں گا جس طرح سرگوشی کرنے والا بات کرتا ہے حتیٰ کہ میں اللہ سے جا ملوں۔ ابوالعباس السراج

سورۃ ق

۳۶۱۳ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وجاءت کل نفس معها سائق وشہید۔ الحجرات: ۲۱

اور ہر شخص (ہمارے سامنے) آئے گا۔ ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک (اس کے عملوں کی) گواہی دینے والا۔ پھر ارشاد فرمایا: ایک فرشتے (پیچھے سے) اس کو ہانک کر اللہ کے حکم کی طرف لائے گا اور ایک فرشتہ اس کے اعمال پر گواہی دے گا۔

الفریابی، السنن لسعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، الحاکم فی الکنی، نصر المقدسی فی

امالیہ، ابن مردویہ، البیہقی فی البعث

۳۶۱۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اہل جنت ہر جمعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اور حضور ﷺ نے جنتوں کو نلنے والی دوسری نعمتوں کا ذکر فرمایا پھر فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا: پردے کھول دو۔ چنانچہ پردہ کھولا جائے گا پھر ایک پردہ کھولا جائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو اپنے چہرے کی زیارت کرائیں گے۔ تب ان کو معلوم ہوگا انہوں نے اس سے پہلے تو کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ولدینا مزید۔ ق: ۳۵

اور ہمارے ہاں اور (بہت کچھ) ہے۔

۴۶۱۵۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم ﷺ سے فرمان باری تعالیٰ ولدینا مزید (ق: ۳۵) کی تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جنتیوں کو اپنی تجلی دکھائیں گے۔ الرؤیة للبیہقی، الدیلمی
 ۴۶۱۶۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ومن الیل فسبحہ وادبار السجود۔ ق: ۴۰
 اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کی پاکی بیان کرو۔
 ادبار السجود یعنی مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت ادا کیا کرو۔
 اور فرمان الہی:

ومن الیل فسبحہ وادبار النجوم۔
 اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی پاکی بیان کرو۔

ادبار النجوم یعنی فجر کے فرض سے پہلے دو رکعت ادا کیا کرو۔ السنن لسعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، محمد بن نصر، ابن جریر، ابن المنذر

سورة الذاریات

۴۶۱۷۔ (عمر رضی اللہ عنہ) حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ صبیغ تمیمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا: یا امیر المؤمنین! مجھے الذاریات ذرواً کے بارے میں بتائیے وہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ ہوا میں ہیں اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا۔ صبیغ نے پوچھا: الحاملات وقرأ کیا ہے؟ فرمایا: یہ بادل ہیں اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا۔ صبیغ نے پوچھا: العجاریات ایسرا کیا ہے؟ فرمایا: یہ کشتیاں ہیں اور اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ صبیغ نے پوچھا: المقسمات امراً کیا ہے؟ فرمایا: یہ ملائکہ ہیں۔ اور اگر میں نے یہ رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔

پھر آپ رضی اللہ عنہ نے صبیغ کو سوڈرے مارنے کا حکم دیا (کہ جس بات کی تم سے کوئی پرسش نہیں ہوگی اور نہ فرائض واجبات سے اس کا کوئی تعلق ہے اس میں اپنی محنت کیوں ضائع کر رہے ہو) چنانچہ اس کو سوڈرے مارے گئے پھر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ وہ صحت یاب ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا کر سوڈرے اور لگوائے اور اونٹ پر سوار کر دیا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ (بغداد کے گورنر) کو لکھا: کہ لوگوں کو اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے منع کر دو۔ چنانچہ (اس کو شہر بغداد روانہ کر دیا گیا اور) لوگوں نے اس سے میل جول قطعاً بند کر دیا۔ پھر ایک دن وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور مضبوط قسم اٹھائی کہ اب وہ ایسی کوئی بات اپنے دل میں نہیں پاتا جو پہلے پاتا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات لکھ بھیجی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ وہ سچ بولتا ہے لہذا لوگوں کے ساتھ میل جول کے لیے اس کا راستہ چھوڑ دو۔

البنار، الدار قطنی فی الافراد، ابن مردویہ، ابن عساکر

کلام: ... یہ روایت ۴۱۸ رقم الحدیث پر گذر چکی ہے اور اس کی سند کمزور ہے۔ کنز العمال ج ۲ ص ۵۱۱

۴۶۱۸۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صبیغ تمیمی نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے:

الذاریات ذرواً، المسرسلات عرفاً اور النازعات عرفاً کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اپنا سر کھول دیکھا تو بالوں کی دو مینڈھیاں بنی ہوئی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں تجھے گنجا سر پاتا (جو کہ گمراہ حروریوں کا طریقہ تھا) تو تیری گردن اڑا دیتا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ بات چیت کرے اور نہ اس کے ساتھ

اٹھے بیٹھے۔ الفریابی، ابن الاباری فی المصاحف عن محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ
نوٹ: ۳۱۷۳ پر یہ روایت گزر چکی ہے۔

۳۶۱۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

فتول عنہم فما انت بملوم۔ الذاریات: ۵۴

تو ان سے اعراض کر تم کو (ہماری طرف سے) ملامت نہ ہوگی۔

تو اس نے ہم کو رنجیدہ خاطر کر دیا لیکن اس کے بعد ہی اگلی آیت نازل ہو گئی:

و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین۔ الذاریات: ۵۵

اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مؤمنوں کو نفع دیتی ہے۔

چنانچہ پھر ہمارے دل خوش ہو گئے۔

ابن راہویہ، ابن منیع، الشاشی، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، الدورقی، شعب الایمان للبیہقی، السنن لسعید بن منصور
۳۶۲۰ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: اس آیت:

فتول عنہم فما انت بملوم۔ الذاریات: ۵۴

تو ان کے ساتھ اعراض کر تجھے (ہماری طرف سے) کوئی ملامت نہ ہوگی۔

اس سے زیادہ ہم پر کوئی آیت سخت نہیں تھی اور نہ اس سے زیادہ عظیم کوئی اور آیت تھی۔ ہم کہتے تھے کہ اللہ پاک نے یہ حکم ہم سے نازل فرمایا اور

غصہ کی وجہ سے نازل کیا ہے۔ حتیٰ کہ پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی:

و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین۔ الذاریات: ۵۵

اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مؤمنوں کو نفع دیتی ہے۔ یعنی قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہو۔ ابن راہویہ، ابن مردویہ، مسند ابی یعلیٰ

۳۶۲۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد باری تعالیٰ:

وفی السماء رزقکم وما توعدون۔ الذاریات: ۲۲

اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔

کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس سے مراد بارش ہے۔ رواہ الدیلمی

سورة الطور

۳۶۲۲ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد خداوندی وادبار السجود کے بارے میں منقول ہے کہ یہ مغرب کے بعد کی دو رکعات ہیں اور ارشاد

خداوندی وادبار الخجوم فجر سے قبل کی دو رکعات ہیں۔ ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، محمد بن نصر فی الصلاة

یہ روایت قدرے تفصیل کے ساتھ ۳۶۱۶ پر ملاحظہ فرمائیں۔

۳۶۲۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم ﷺ سے اپنے دو بیٹوں کے بارے میں سوال کیا

جو (پہلے کافر شوہر سے تھے اور) زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: وہ جہنم میں ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی

اللہ عنہا کے چہرے میں غمزدگی کے آثار دیکھے تو فرمایا: اگر تم ان کا ٹھکانہ دیکھ لو تو خود ہی ان سے نفرت کرنے لگو گی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ

عنہ نے پوچھا: یا رسول اللہ میری وہ اولاد جو آپ سے ہوئی ہے (اور انتقال کر چکی ہے؟) فرمایا: وہ جنت میں ہیں۔ پھر رسول اکرم ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

مؤمنین اور ان کی اولاد جنت میں ہیں اور مشرکین اور ان کی اولاد جہنم میں ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی (راہ) ایمان میں ان کے پیچھے چلی۔ ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے (درجے) تک پہنچادیں گے اور
ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ مسند عبد اللہ بن احمد بن حنبل، ابن ابی عاصم فی السنة

کلام:..... امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جامع المسانید میں فرماتے ہیں: اس کی سند میں محمد بن عثمان ایسا راوی ہے جس کی حدیث قبول نہیں کی
جاسکتی اور بچوں کے عذاب کے بارے میں کوئی حدیث صحت کو نہیں پہنچتی۔

۳۶۲۳ حارث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ادبار انجوم کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا یہ فجر سے قبل کی دو
رکعات (سنت) مراد ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ سے ادبار السجود کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا مغرب کے بعد کی دو رکعات (سنت) مراد ہیں۔
آپ سے حج اکبر کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا وہ یوم النحر (قربانی کا دن یعنی دس ذی الحجہ) ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ سے صلوة
الوسطیٰ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا: وہ عصر کی نماز ہے۔ شعب الایمان للبیہقی
نوٹ:..... یہ روایت ۳۳۰۵ رقم الحدیث پر گزر چکی ہے۔

۳۶۲۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ ”وَالْبَحْرُ الْمَسْجُورُ“ (طور: ۶) قسم اٹھتے سمندر کی کے متعلق منقول ہے کہ یہ سمندر
عرش کے نیچے ہے۔ رواہ عبدالرزاق
۳۶۲۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وَالسَّقْفُ الْمَرْفُوعُ“ (طور: ۵) قسم اٹھتی چھت کی کے متعلق منقول ہے کہ اس
سے مراد چھت ہے۔ ابن راہویہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ، مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیہقی

جہنم کہاں واقع ہے؟

۳۶۲۷ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی شخص سے پوچھا: جہنم کہاں ہے؟
اس نے کہا: وہ ایلتا ہوا سمندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اس کو سچا سمجھتا ہوں پھر آپ نے یہ پڑھا:
الْبَحْرُ الْمَسْجُورُ (طور: ۶) قسم اٹھتے سمندر کی۔ واذا البحار سجرت (تکویر: ۶) اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے۔

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ فی العظمة
۳۶۲۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے فلاں یہودی سے زیادہ سچا کوئی یہودی نہیں پایا اس کا خیال ہے کہ اللہ کی بڑی آگ (یعنی
آتش جہنم) یہ سمندر ہی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک اس میں سورج چاند، اور ستاروں کو ڈال دیں گے۔ پھر اس پر چھت
(بادخالف) چھوڑ دیں گے جو سمندر کو (آگ کے ساتھ) بھڑکا دے گی۔ ابو الشیخ فی العظمة، البيهقي العت، مستدرک الحاکم

سورة النجم

۳۶۲۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک آیت کی تلاوت فرمائی:

عندها جنة المأوى - نجم: ۱۵

اس (پیری کے درخت) کے پاس رہنے کی بہشت ہے۔

اور فرمایا: یہ رات گزارنے کی جنت ہے۔ ابن المنذر، ابن ابی حاتم

سورة القمر

۴۶۳۰ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی:

سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ القمر: ۴۵

عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیڑھے پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: یہ کیوں سی جماعت ہے؟ پھر جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ تلوار سونتے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں:

سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ الاوسط للطبرانی

شکست کھانے والے

۴۶۳۱ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر یہ فرمان نازل کیا:

سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ القمر: ۴۵

اور ابھی معرکہ بدر پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کون سی جماعت ہے جو شکست کھا جائے گی۔ پھر جب بدر کا دن پیش آیا اور قریش کے لشکر شکست کھا کر بھاگنے لگے تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ تلوار سونتے ہوئے ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور یہی آیت پڑھ رہے ہیں:

سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ القمر: ۴۵

عنقریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور یہ لوگ پیڑھے پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

پس مجھے تب معلوم ہوا کہ یہ آیت معرکہ بدر کے لیے (پہلے ہی) نازل ہوئی تھی۔ ابن ابی حاتم، الاوسط للطبرانی، ابن مردویہ

۴۶۳۲ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب یہ آیت نازل ہوئی:

سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ القمر: ۴۵

تو میں کہنے لگا یہ کوی جماعت ہے جو شکست کھائے گی۔

پھر جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ اپنی زہرہ میں (خوشی سے) اچھل رہے ہیں اور یہی آیت پڑھ رہے ہیں:

سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ القمر: ۴۵

عنقریب جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیڑھے پھیر کر بھاگ جائیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دن مجھے اس آیت کی تفسیر معلوم ہو گئی۔

عبدالرزاق، ابن ابی شیبہ، ابن سعد، ابن راہویہ، عید بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

ابن راہویہ نے عن قتادہ عن عمر کے طریق سے اس کے مثل روایت نقل کی ہے۔

۴۶۳۳ (علی رضی اللہ عنہ) ابی الطفیل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابن الکواء نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حجۃ (طوفان نوح میں پانی

جاری ہونے کی جگہ) کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: شرح السماء یعنی بادل پھٹنے کی جگہ ہیں اور اسی جگہ سے آسمان

کے دروازے پانی کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

ففتحننا ابواب السماء بماء منهمر۔ القمر: ۱۱

پس ہم نے زور کے مینہ سے آسمان کے دہانے کھول دیئے۔ الادب المفرد للبخاری، ابن ابی حاتم

سورة الرحمن

عبادت گزار نوجوان کا قصہ

۳۶۳۴..... یحییٰ بن ایوب الخزازی سے مروی ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان عبادت گزار تھا جو زیادہ تر مسجد میں اپنا وقت گزارتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس پر رشک کرتے تھے۔

اس نوجوان کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جوان جب بھی عشاء کی نماز پڑھ لیتا تو اپنے والد کے پاس چلا جاتا۔ اس کے راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا جو اس پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی گذرتا یہ راستے میں اس کو کھڑی مٹی۔ ایک مرتبہ نوجوان گذرا تو عورت اس کو مسلسل بہکانے لگی حتیٰ کہ وہ عورت کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ جب عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت پہلے داخل ہو گئی جبکہ یہ داخل ہو رہا تھا کہ اس کو اللہ یاد آ گیا، گویا کہ سامنے سے پردہ چھٹ گیا اور یہ آیت اس کی زبان پر خود بخود جاری ہوئی:

ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔

اور نوجوان بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ عورت نے اپنی باندی کو بلایا اور دونوں نے مل کر اسے اٹھایا اور نوجوان کے گھر کے دروازے پر لٹا آئیں۔ جبکہ اس کا والد انتظار میں تھا آخر وہ اس کی تلاش میں نکلا تو اس کو دروازے پر پڑا پایا۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بلایا اور انہوں نے ان کو اٹھا کر اندر کیا۔ لیکن جوان کو ہوش نہ آیا حتیٰ کہ رات کا کچھ حصہ بھی گذر گیا۔ آخر اس کے باپ نے اس کو جھنجھوڑا اور پوچھا اے بیٹے! تجھے کیا ہوا ہے؟ آخر بیٹا بولا: سب خیر ہے۔ باپ نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا تو بیٹے نے ساری بات سنا دی، باپ نے پوچھا: اے بیٹے وہ کوی آیت ہے؟ بیٹے نے پڑھی اور پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ باپ نے اور دوسرے گھر والوں نے اس کو بلایا جلایا تو اس کی روح نفس عصری سے پرواز کر چکی تھی۔ گھر والوں نے اس کو غسل دیا اور (نماز پڑھ کر) رات ہی کو دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل کر اس کے بوڑھے باپ کے پاس آئے اور اس کی تعزیت کی اور فرمایا: رات کو مجھے کیوں نہیں بتایا۔ باپ نے عرض کیا: امیر المؤمنین! رات کا وقت تھا اس لیے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اچھا ہمیں اس کی قبر پر لے چلو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگ آپ کے ساتھ جوان کی قبر پر آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے فلاں! اولمسن خاف مقام ربہ جنتان۔ (رحمن: ۴۶) اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا (دو جنتیں ہیں)۔

یہ سن کر قبر کے اندر سے جوان نے آواز دی: اے عمر! پروردگار نے مجھے دونوں جنتیں دو مرتبہ عطا فرمادی ہیں۔ رواہ مستدرک الحاکم ۳۶۳۵ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا جو اکثر وقت مسجد میں رہتا تھا۔ ایک لڑکی اس نوجوان عابد پر عاشق ہو گئی اور اس نوجوان کے پاس اس کی تنہائی میں آئی۔ اور اس کو بہلانا پھسلانے کی کوشش کی۔ نوجوان کے دل میں بھی اس کا خیال پیدا ہو گیا۔ پھر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ نوجوان کا چچا آیا اور اس کو اٹھا کر گھر لے گیا جب نوجوان کو ہوش آیا تو اس نے اپنے چچا سے کہا: اے چچا! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں میرا سلام کہو اور پھر پوچھو کہ اس شخص کی کیا جزا ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا (اور گناہ سے باز آ گیا) چنانچہ اس کا چچا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساری خبر سنائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود چل کر اس نوجوان کے پاس آئے۔ نوجوان کا چچا جیسے ہی جدا ہوا تھا پیچھے سے نوجوان نے ایک اور چیخ ماری تھی اور صدمے سے فوت ہو گیا لہذا حضرت عمر اس نوجوان کی میت کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا: تیرے لیے دو جنت

ہیں، تیرے لیے دو جنت ہیں۔ شعب الایمان للبیہقی

۴۶۳۶ ابو الاوص رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جانتے ہو حور مقصورات فی الخیام“ (رحمن: ۷۲) وہ حوریں (ہیں جو) خیموں میں مستور (ہیں)“ کیا ہے؟ پھر فرمایا: وہ خیمے اندر سے کھولے موتیوں کے ہوں گے۔

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۴۶۳۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مرجان چھوٹے موتی ہیں۔ عبد بن حمید، ابن جریر

۴۶۳۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان الہی: ہل جزاء الاحسان الا الاحسان (رحمن) بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی ہے۔ تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(پروردگار فرماتے ہیں: جس پر میں نے توحید ماننے کا انعام کیا اس کی جزاء صرف جنت ہی ہے۔ رواہ ابن النجار)

۴۶۳۹ عمیر بن سعید سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہر فرات کے کنارے تھے۔ دیکھا کہ کشتیاں پانی میں جاری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

وله الجوار المنشآت فی البحر کالاعلام۔ رحمن: ۲۴

اور جہاز (کشتیاں) بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔

عبد بن حمید، ابن المنذر، המחملی فی امالیہ، الخطیب فی التاریخ

۴۶۴۰ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا ”ولمن خاف مقام ربہ جنتان“ اور اس شخص کے لیے جو خدا کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر اور جنتیں ہیں تو کیا اگر وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی اس کے لیے دو جنتیں ہیں؟ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر وہ اپنے رب سے ڈر گیا تو نہ زنا کرے گا اور نہ چوری۔ رواہ ابن عساکر

سورة الواقعة

۴۶۴۱ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ارشاد ربانی ”خافضة رافعة“ کسی کو پست کرنے والی کسی کو بلند کرنے والی کے متعلق منقول ہے کہ وہ قیامت ہے جو اللہ کے دشمنوں کو جہنم میں گرا دے گی اور اللہ کے دوستوں کو جنت میں بلندی اور نعمت عطا کرے گی۔

ابن جریر، ابن ابی حاتم

۴۶۴۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وتجعلون رزقکم“ یعنی تم شکر یہ ادا کرتے ہو کہ انکم تکذیبون (واقعہ: ۸۲) تم جھٹلانے لگ جاتے ہو۔ اور (بجائے اس کے کہ) ہوم پر خدا نے رحمت نازل کی تم کہتے ہو ہم پر فلاں فلاں ستارے کی گردش سے بارش نازل ہوئی۔ مسند احمد، ابن منیع، عبد بن حمید، ترمذی حسن غریب وقدوری موقوفاً، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، عقیلی فی الضعفاء، الخرائطی فی مساوی الاخلاق، السنن لسعید بن منصور

۴۶۴۳ ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فجر کی نماز میں یہ آیت یوں تلاوت فرمائی:

وتجعلون شکرکم انکم تکذیبون۔ (رزقکم کی بجائے شکرکم پڑھا) پھر جب آپ رضی اللہ عنہ نماز سے لوٹے لگے تو فرمایا: مجھے معلوم ہے کوئی نہ کوئی ضرور پوچھے گا کہ یوں کیوں پڑھا؟ تو سنو! میں نے رسول اللہ ﷺ کو یوں ہی پڑھتے ہوئے سنا۔ جب بارش ہوئی تھی تو لوگ کہتے تھے۔ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے برسات پڑی ہے۔ تب اللہ پاک نے یہ فرمان نازل کیا:

وتجعلون شکرکم انکم تکذیبون۔ رواہ ابن مردویہ

فائدہ:..... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی غرض سے رزقکم کی جگہ شکرکم پڑھا تھا اسی وجہ سے خود ہی فرمایا کہ تم مجھ سے ضرور پوچھو گے کہ میں

نے ایسے کیوں پڑھا؟ اس طرح ما قبل میں بعض آیات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح تفسیری الفاظ منقول ہیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو بطور قرآن پڑھتے تھے، بلکہ ان لوگوں کو تفسیر سمجھانے کی غرض سے ایسا پڑھ دیتے تھے۔

۴۶۴۴ حضرت ابو عبید الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں پڑھا کرتے تھے: وت جعلون شکر کم انکم تکذیبون۔ عبد بن حمید، ابن جریر

۴۶۴۵ و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ الواقعة: ۵-۶

اور پہاڑ ٹوٹ (ٹوٹ) کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الہباء المنبث جانوروں کا گرد و غبار ہے اور الہباء المنثور سورج کا وہ غبار ہے جو تم کھڑکی

سے آنے والی دھوپ میں اڑتا ہوا دیکھتے ہو۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر

۴۶۴۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: و طلع منضود (الواقعة: ۲۹) اس سے مراد کیلے ہیں۔

عبد الرزاق، الفریابی، ہناد، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن مردویہ

۴۶۴۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت یوں پڑھی و طلع منضود

الواقعة: ۲۹۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم

فائدہ: اصل قرأت و طلع منضود ہے۔ طلع کے معنی شگوفہ کے آتے ہیں۔ اور طح کے معنی کیلے کے آتے ہیں۔ مشہور قرأت منضود کا معنی ہوگا تہ تہ کیلے۔ اور طلع منضود کا معنی ہوگا تہ تہ شگوفے۔ دونوں قریب المعنی ہیں۔

۴۶۴۸ قیس بن عباد سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس و طلع منضود پڑھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا طح کیا ہے؟ طلع کیوں نہیں پڑھتے؟ یوں طلع نصید۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے عرض کیا یا امیر المؤمنین! تو ہم قرآن پاک سے اس (طح منضود) کو کھرچ دیں؟ فرمایا: آج قرآن میں تم اختلاف و نزاع کا شکار مت بنو (اور جیسا لکھا ہے لکھا رہنے دو، یہ تو تفسیر ہے)

ابن جریر، ابن الانباری فی المصاحف

سورة المجادلة

۴۶۴۹ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک خولہ نامی (بڑھی عورت) سے ملے جو لوگوں کے ساتھ جارہی تھی اس نے آپ کو روک کر کھڑا کر لیا۔ آپ بھی ٹھہر گئے اور اس کے قریب ہو گئے، اپنا سر اس کی طرف جھکا دیا اور اپنے ہاتھ اس کے کانڈھوں پر رکھ دیئے حتیٰ کہ اس نے اپنی بات پوری کی اور چلی گئی۔ ایک شخص نے کہا: یا امیر المؤمنین! آپ نے قریش کے معزز لوگوں کو اس بڑھیا کی وجہ سے کھڑا کر لیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: افسوس! جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ وہ عورت ہے اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر سے اس کا شکوہ سنا۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے اللہ کی قسم! اگر یہ از خود ساری رات مجھ سے جدا ہو کر نہ جاتی تو میں بھی یہاں سے نہ ہٹا حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی۔

ابن ابی حاتم، النقص علی بشر المرینی لعثمان بن سعید الدارمی، الاسماء والصفات للبیہقی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رحمدلی کا واقعہ

۴۶۵۰ شامہ رحمۃ اللہ علیہ بن حزام۔ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گدھے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ سے ایک عورت نے ملاقات کی اور کہا عمر! ٹھہریے! حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے۔ عورت نے حتیٰ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات چیت کی۔ ایک آدمی

نے کہا: یا امیر المؤمنین! میں نے آج کی طرح کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں کیوں نہ اس کی بات سنوں؟ جبکہ اللہ نے اس کی بات سنی اور اس کے بارے میں قرآن نازل کیا جو بھی نازل کیا:

قد سمع اللہ قول النبی تجادلک فی زوجھا وتشتکی الی اللہ۔ المجادلہ: ۱

جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جھگڑا کرتی ہے اور خدا سے (رج و ملال) کا شکوہ کرتی ہے خدا نے اس کی التجاء سنی۔

بخاری فی تاریخہ، ابن مردویہ

۳۶۵۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کتاب اللہ میں ایک ایسی آیت ہے جس پر مجھ سے پہلے کسی نے عمل نہیں کیا اور نہ میرے بعد کوئی کر سکا۔ وہ آیت النجوى ہے۔ میرے پاس ایک دینار تھا جو میں نے دس دراهم کے بدلے فروخت کر دیا۔ میں جب بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ راز و نیاز کرتا تھا پہلے ایک درہم صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ (اور اس کا اللہ نے حکم دیا تھا)۔

یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجویکم صدقۃ۔ المجادلہ: ۱۲

مؤمنو! جب تم پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہو تو بات کہنے سے قبل (مساکین کو) کچھ خیرات دے دیا کرو۔

پھر اس آیت پر عمل کرنا منسوخ ہو گیا اور کسی نے عمل نہیں کیا اور اس سے اگلی یہ آیت نازل ہو گئی:

أشفقتم ان تقدموا بین یدی نجویکم صدقات الخ۔ المجادلہ: ۱۳

کیا تم اس سے کہ پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنے سے پہلے خیرات کر دیا کرو ڈر گئے؟ پھر جب تم نے (ایسا) نہ کیا اور خدا نے تمہیں

معاف کر دیا تو (اب) نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو اور خدا اور اس کے رسول کی فرماں برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا

اس سے خبردار ہے۔ السنن لسعد بن منصور، ابن راہویہ، عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

نفلی صدقہ جو میسر ہو

۳۶۵۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجویکم صدقۃ۔ المجادلہ: ۱۲

اے ایمان والو! جب تم رسول سے سرگوشی کرنے لگو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ خیرات دیدیا کرو۔ تو آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: کیا خیال ہے

ایک دینار صحیح ہے؟ میں نے عرض کیا: مسلمان اس کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا: نصف دینار؟ میں نے عرض کیا اس کی بھی مسلمان

طاقت نہیں رکھتے۔ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے ہی پوچھا بتاؤ کتنا صدقہ ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا: (کچھ) جو آپ ﷺ نے فرمایا: انک

لزہید تم بہت کم پر قناعت کرنے والے ہو۔ پھر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمادی:

أشفقتم ان تقدموا بین یدی نجویکم صدقات الخ۔ المجادلہ: ۱۳

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس اللہ نے میری وجہ سے اس امت سے یہ حکم آسان کر دیا۔ (ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید،

ترمذی حسن غریب، مسند ابی یعلیٰ، ابن جریور، ابن المنذر، الدورقی، ابن حبان، ابن مردویہ، السنن لسعد بن منصور) گذشتہ روایت میں آیت کا مکمل ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔

۳۶۵۳ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے ظہار کیا وہ خولہ کے شوہر تھے۔ پھر خولہ

حضور ﷺ کی خدمت میں آئیں اور ساری خبر سنائی آپ ﷺ نے ان کے شوہر کو بلایا اور پھر اللہ پاک نے ان کے بارے میں یہ فرمان

نازل کیا:

قد سمع الله قول التي تجادلک فی زوجها. المجادلہ ۱۰ ابن ابی شیبہ

فائدہ:..... ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی خولہ کو کہہ دیا تھا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اس سے جاہلیت میں ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جاتی تھی۔ خولہ نے حضور ﷺ سے اس کی شکایت کی آپ نے بھی یہی حکم دیا تب وہ بہت گڑگڑائیں اور خدا کے آگے ماتھا ٹیکنے لگیں اور خوب آہ و زاری کی تو اللہ پاک نے ظہار کا حکم نازل کیا کہ یہ کفارہ ادا کر کے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ ظہار کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

سورة الحشر

۴۶۵۴ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ایک راہب اپنے صومعہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ اور ایک عورت کے کچھ بھائی تھے۔ عورت کو کوئی بات پیش آئی جس کی وجہ سے اس کے بھائی اس کو عبادت گزار نو جوان کے پاس لائے اور اسی کے پاس چھوڑ گئے۔ عورت نے اپنے آپ کو نو جوان کے لیے پرکشش اور مزین کیا۔ عابد کا دل بھی پھسل گیا اور وہ اس کے ساتھ بدکاری میں ملوث ہو گیا۔ جس کی وجہ سے عورت حاملہ ہو گئی۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور اس کو کہا: اس عورت کو قتل کر دے۔ کیونکہ اگر اس کے بھائیوں کو اس کے حمل کا پتہ چل گیا تو تو رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ چنانچہ عابد نو جوان نے اس کو قتل کیا اور ذبح کر دیا۔ اس کے بھائی آئے اور اس کو پکڑ کر لے گئے۔ یہ اس عابد کو لے جا رہے تھے کہ شیطان پھر اس عابد کے پاس آیا اور بولا میں نے ہی تجھے یہاں تک پہنچایا ہے اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے نجات دلا سکتا ہوں۔ آخر عبادت گزار نو جوان نے اس کو سجدہ بھی کر لیا۔ اسی کے متعلق اللہ پاک کا ارشاد ہے:

کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر الخ

(مناقضوں کی) مثال شیطان کی سی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا۔

عبدالرزاق، الزهد للامام احمد، ابن راہویہ، عبد بن حمید فی تاریخہ، ابن المنذر، ابن امر دویہ، مستدرک الحاکم، شعب الایمان للبیہقی

سورة الجمعة

۴۶۵۵ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے روز ایک تجارتی قافلہ (مسجد نبوی ﷺ کے سامنے) آیا۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ (خطبہ سنتے ہوئے) اٹھ کر قافلہ دیکھنے آگئے اور رسول اللہ ﷺ کے پاس صرف بارہ آدمی رہ گئے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی:

واذا رأت تجارة اولهوا انفضوا اليها وترکواک قائمًا۔ الجمعة: ۱۱

اور جب یہ لوگ سودا بکٹا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں کھڑے کا کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ

سورة التغابن

۴۶۵۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی وہ اپنے نفس کے بخل سے بچ گیا۔ ابن المنذر فائدہ: فرماں الہی ہے:

ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ التغابن: ۱۶

اور جو شخص طبیعت کے بخل سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ راہ پانے والے ہیں۔

سورة الطلاق

۴۶۵۷..... (مسند عمر رضی اللہ عنہ) ابی سنان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبید رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ مولے کپڑے پہنتے ہیں اور سخت کھانا کھاتے ہیں (اور برے حالات کا شکار ہیں) آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار دینار قاصد کے ہاتھ ان کے پاس بھیجے اور قاصد کو کہا: جب وہ یہ دینار لے لیں تو دیکھا وہ ان کا کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ قاصد نے ان کو دینار دیئے انہوں نے وہ لے کر اچھے کپڑے لے کر پہنے اور عمدہ کھانا خرید کر کھلایا۔ قاصد نے آکر ساری خبر سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ ان پر رحم کرے انہوں نے اس آیت کی تفسیر کر دی ہے:

لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. الطلاق ۷

صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے۔ رواہ ابن جریر

۴۶۵۸..... ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب (ذیل کی) یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ آیت مشترک ہے یا مبہم؟ آپ ﷺ نے پوچھا: کون سی آیت؟ میں نے عرض کیا:

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن۔

اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل (یعنی بچہ جننے) تک ہے۔

یعنی کسی مطلقہ اور جس عورت کا شوہر وفات کر جائے دوئوں کے لیے ہے؟ فرمایا: ہاں۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، الدارقطنی، ابن مردویہ ۴۶۵۹..... ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سورہ بقرہ والی آیت عورتوں کی عدت کے بارے میں نازل ہوئی (جو فقط ان عورتوں کی عدت سے متعلق تھی جن کے شوہر وفات کر جائیں) تو لوگ کہنے لگے کہ کچھ عورتیں رہ گئی ہیں جن کی عدت کے بارے میں ابھی حکم نہیں نازل ہوا یعنی وہ چھوٹی عمر اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو حیض نہ آتا ہو یا منقطع ہو گیا ہو اور حمل والی عورتیں ان کی عدت کا حکم نہیں آیا۔ پس اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا:

واللائمی یسنن من المحیض من نساء کم الخ الطلاق ۴

اور تمہاری (مطلقہ) عورتیں جو حیض سے ناامید ہو چکی ہیں اگر تم کو (ان کی عدت کے بارے میں) شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور جن کو ابھی حیض نہیں آنے لگا (ان کی عدت بھی یہی ہے) اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اور جو خدا سے ڈرے گا خدا اس کے کام میں

سہولت پیدا کر دے گا۔ ابن راہویہ، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، مسند رک النخاکم، السنن للبیہقی فائدہ:..... جس عورت کو حیض آتا ہو اور اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت تین حیض ہے۔ اور جس کو حیض نہیں آتا صغریٰ کی وجہ سے کہ ابھی آنا شروع نہیں ہوا یا کبر سن کی وجہ سے کہ حیض کا زمانہ ختم ہو گیا ہے تو ان دونوں کی عدت طلاق کی صورت میں تین ماہ ہے۔ اور جس عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے۔ اور جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس کو طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر وفات کر جائے اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہے۔

۴۶۶۰..... حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ! اللہ پاک فرماتے ہیں

واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن۔

اور حملوں والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔

تو کیا جس حاملہ عورت کا شوہر وفات پا جائے اس کی عدت بھی وضع حمل ہے؟ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: ہاں۔ رواہ عبد الرزاق

۳۶۶۱ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا: واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن کہ کیا یہ تین طلاق والی عورت کے لیے ہے یا اس عورت کے لیے بھی ہے جس کا شوہر وفات کر جائے فرمایا: تین طلاق والی عورت کے لئے بھی اور اس عورت کے لئے بھی جس کا شوہر وفات کر جائے۔

عبدالرزاق، مسند عبداللہ بن احمد بن حنبل، مسند ابی یعلیٰ، ابن مردویہ، السنن لسعید بن منصور
۳۶۶۲..... (ابو ذر رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا: اے ابو ذر! میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر تمام لوگ اس کو تقام لیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے۔ وہ ہے:

ومن ینق اللہ یجعل له مخرجاً ویرزقه من حیث لا یحتسب. الطلاق: ۲-۳

اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا وہ اس کے لیے (رنج و محن سے) مخلصی کی صورت پیدا کر دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے (وہم و) گمان بھی نہ ہوگا۔

مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، الدارمی، ابن حبان، مستدرک الحاکم، حلیۃ الاولیاء، شعب الایمان للبیہقی، السنن لسعید بن منصور

سورة التحریم

۳۶۶۳ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں مسلسل اس بات کی کھوج میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان دو عورتوں کے بارے میں سوال کروں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے:

ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبكما۔ التحريم

حتی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور میں نے بھی آپ کے ساتھ حج کیا۔ جب ہم ایک راستے پر چل رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے سے ہٹ کر ایک طرف کوچلے تو میں بھی پانی کا برتن لے کر پیچھے ہولیا۔ آپ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میری طرف آئے۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور آپ نے وضو کیا۔ میں نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! حضور ﷺ کی بیویوں میں سے وہ دو کونسی بیویاں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبكما حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابن عباس! تعجب ہے تم پر یہ حصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بات کرنے لگے: کہ ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ایسی قوم کے ساتھ یہ چیز سیکھ لیں، میرا گھر مضافات مدینہ میں بنی امیہ بن زید کے قبیلے میں تھا۔ ایک دن میں اپنی بیوی پر غصہ ہو گیا۔ وہ بھی مجھے آگے سے جواب دینے لگی۔ یہ بات میں نے عجیب محسوس کی اور کہا تو آگے سے مجھے جواب دیتی ہے۔ تم کو یہ کیوں عجیب لگتا ہے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں جب کہ نبی ﷺ کی بیویاں آپ کے ساتھ تکرار کرتی ہیں اور کوئی کوئی سارا دن رات تک آپ سے بولتا چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں حصہ کے پاس گیا اور پوچھا کیا تو رسول اللہ ﷺ کو جواب دیا کرتی ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔ پھر میں نے پوچھا: کیا تم میں کوئی بیوی سارا سارا دن آپ ﷺ سے بات نہیں کرتی اور حتیٰ کہ رات ہو جاتی ہے؟ کہا: ہاں۔ میں نے کہا: تم میں سے جو یہ کہتی ہے وہ تو نامراد ہو گئی اور گھائے کا شکار ہو گئی۔ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کر بیٹھ گئی ہو کہ اللہ کا غضب تم پر آجائے اپنے رسول کی وجہ سے۔ تب وہ قطعاً ہلاکت کا شکار ہو جائے گی۔ (بیٹی!) تو رسول اللہ ﷺ کو آگے سے جواب نہ دیا کرو ورنہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا کر۔ تجھے جس چیز کی ضرورت ہو کرے مجھ سے مانگ لیا کر۔ اور اس بات سے دھوکہ (اور حسد) کا شکار نہ ہو کہ تیری کوئی پڑوسن تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول اللہ کو تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خیال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ایک انصاری کا پڑوسی تھا ہم دونوں نے حضور ﷺ کے پاس جانے کی باری مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ جاتا اور ایک دن میں جاتا تھا۔ وہ میرے پاس اپنی باری کے دن کی وجہ کی خبریں وغیرہ لاتا تھا اور میں بھی اپنی باری کی خبریں اس کو سنانا تھا۔

ان دنوں میں یہ بات لوگوں میں گردش کر رہی تھی کہ غسان (بادشاہ) اپنے گھوڑوں کی نعلیں درست کر رہا ہے تاکہ ہم سے برس پر پکارا ہو۔ ایک دن میرا ساتھی حضور ﷺ کی خدمت سے آیا اور عشاء کے وقت آکر میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نکل کر اس کے پاس آیا۔ اس نے (پریشانی کے عالم میں) کہا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ کیا غسان (بادشاہ) آ گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ نبی ﷺ نے اپنی عورتوں کو طلاق دیدی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے کہا حفصہ تو تو نامراد ہو گئی تیرا ناس ہو۔ پہلے ہی میرا خیال تھا یہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ میں نے صبح کی نماز پڑھ کر اپنے کپڑے پہنے اور (مدینہ کے اندر گیا) اور حفصہ کے پاس پہنچا وہ رورہی تھی۔

میں نے (چھوٹے ہی) پوچھا: کیا تم کو رسول اللہ ﷺ نے طلاق دیدی ہے؟ حفصہ بولی: مجھے نہیں معلوم! وہ ادھر اوپر اپنے بالا خانے میں ہیں۔ چنانچہ میں آپ ﷺ کے غلام (دربان) کے پاس آیا اور اس کو کہا عمر کے لیے اجازت لے کر آؤ۔ غلام اندر جا کر واپس آیا اور بولا میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آپ کا ذکر کیا تھا۔ مگر آپ ﷺ بدستور خاموش ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: چنانچہ وہاں سے ہٹ کر مسجد میں آپ کے منبر کے پاس آیا وہاں پہلے کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ میں بھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھا لیکن پھر اندر کی کشمکش نے مجھ پر غلبہ پالیا اور میں دوبارہ اٹھ کر اس غلام کے پاس آیا اور کہا: عمر کے لیے اجازت لے کر آؤ۔ غلام اندر داخل ہو کر واپس لوٹا اور کہا میں نے آپ کا ذکر کیا لیکن آپ ﷺ بدستور خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں واپس آکر منبر کے پاس بیٹھ گیا۔ لیکن اندر کی کپڑ دھکنے نے مجھے پھر اٹھا دیا اور غلام کے پاس جا کر عمر کے لیے اجازت لے کر آؤ۔ وہ اندر سے واپس آکر بولا میں نے آپ کا ذکر کیا تھا لیکن آپ ﷺ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر واپس لوٹ گئے۔ اچانک ان کو پیچھے سے غلام کی آواز آئی کہ آئیے اندر چلے جائیں آپ کے لیے اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اندر داخل ہوا اور آپ ﷺ کو سلام کیا۔ آپ ﷺ ایک ریٹیل چٹائی پر ٹیک لگائے استراحت فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نمایاں نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا: کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے؟ آپ ﷺ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ اکبر کہا اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ہمیں دیکھیں ہم قریش کے لوگ اپنی عورتوں پر غالب رہتے تھے۔ لیکن مدینے آئے تو ایسی قوم سے سابقہ پڑا جنکی عورتیں مردوں پر غالب رہتی ہیں۔ لہذا ہماری عورتوں نے بھی ان کی عورتوں سے یہ چیز سیکھنا شروع کر دی۔ یونہی ایک دن میں اپنی بیوی پر غصہ ہو گیا لیکن وہ تو مجھے آگے سے (تو تڑاک) جواب دینا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ تو مجھے جواب دے رہی ہے؟ اس نے کہا: تجھے یہ اچھی لگ رہا ہے جبکہ اللہ کی قسم حضور ﷺ کی بیویاں آپ کو جواب دیا کرتی ہیں اور کوئی کوئی سارا سارا دن آپ سے بولتی نہیں ہے۔ میں نے کہا نامراد ہو جو ایسا کرتی ہے وہ تو گھائے کا شکار ہو گئی۔ کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئیں کہ ان پر اللہ پاک اپنے پیغمبر کی وجہ سے ناراض ہو جائیں۔ تب تو وہ ہلاک ہو جائیں گی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ ﷺ بات سن کر مسکرا دیے۔ میں نے آگے عرض کیا: پھر میں حفصہ کے پاس گیا اور اس کو کہا: تجھے یہ بات دھوکہ میں مبتلا نہ کرنے کی تیری ساتھیوں سے زیادہ خوب صورت اور رسول اللہ کو تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر آپ ﷺ دوبارہ مسکرائے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (کچھ دیر میں بیٹھ کر) دل بہلانے کی باتیں کروں؟ آپ ﷺ نے اجازت دی تو میں نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں گھمایاں اللہ کی قسم! مجھے کمرے میں ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی جس کو دوبارہ نظر ڈالی جائے سوائے چڑے کی کھاؤں کے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا کیجیے کہ آپ کی امت پر فرجی فرمائے۔ اللہ نے فارس اور روم کو کیا کچھ نہیں دے رکھا حالانکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کر آپ ﷺ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تو اب تک شک میں ہے؟ ان لوگوں کے لیے اللہ نے ان کی عیش و عشرت دنیا میں جلد عطا کر دی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اللہ سے میرے لیے استغفار کر دیجیے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور ﷺ نے درحقیقت بیویوں پر غصہ کی وجہ سے قسم کھائی تھی کہ ایک ماہ تک ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے آپ ﷺ پر اس بارے میں عتاب نازل کیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عبدالرزاق، ابن سعد، العدنی، عبد بن حمید فی تفسیرہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، التہذیب لابن حریز، ابن المنذر، ابن مردکویہ، الدلائل للبیہقی

ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی

۴۶۶۳ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب رسول اکرم ﷺ نے اپنی بیویوں سے جدائی اختیار کرنی تو میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو لوگ کنکریوں کو ہاتھ میں لیے بات کر رہے تھے کہ حضور ﷺ نے اپنی عورتوں کو طلاق دیدی ہے۔ یہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے قبل کی بات تھی۔ چنانچہ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ میں ان عورتوں کو آج سبق سکھاؤں گا۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اور کہا اے بنت ابی بکر! تمہاری یہ ہمت ہوگئی کہ تم رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچانے لگی ہو۔ عائشہ بولی: اے ابن خطاب میرا اور تمہارا کیا واسطہ! تم جا کر اپنی بیٹی کو کہو۔ چنانچہ میں (اپنی بیٹی) حفصہ کے پاس آیا اور بولا اے حفصہ! تمہاری یہ ہمت ہوگئی ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ کو تکلیف پہنچاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے علم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ تم سے محبت نہیں کرتے اگر (ان کی جگہ) میں ہوتا تو تم کو طلاق دیدیتا۔ حفصہ بہت زیادہ تیز تیز رونے لگی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا رسول اللہ ﷺ کہاں ہیں؟ بولی وہ اوپر بالا خانے میں ہیں۔ (یہ ایک اونچی جگہ پر بنا ہوا رسول اللہ ﷺ کا خلوت خانہ تھا) میں وہاں پہنچا تو رسول اللہ ﷺ کا غلام رباح بالا خانے کی دیلیز پر ایک لکڑی پر پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا رسول اللہ ﷺ اس سہارے بللا خانے میں چڑھتے اترتے تھے۔

میں نے اس کو آواز دی اے رباح! میرے لیے رسول اللہ ﷺ سے اجازت لو۔ اس نے کمرے کے اندر دیکھا پھر مجھے دیکھا اور کچھ نہیں کہا۔ میں نے پھر آواز دی اے رباح! رسول اللہ ﷺ سے میرے لیے اجازت لو۔ اس نے پھر کمرے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے دیکھا اور کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر آواز بلند کر کے کہا اے رباح! میرے لیے رسول اللہ ﷺ سے اجازت لو میرا خیال ہے کہ نبی ﷺ سمجھ رہے ہیں میں حفصہ کی (حمایت کی وجہ) سے شاید آیا ہوں اللہ کی قسم! آپ ﷺ اگر مجھے اس کی گردن مارنے کا حکم دیں گے تو میں فوراً اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر غلام نے میری طرف ہاتھ کا اشارہ کیا کہ اوپر چڑھ آؤ۔

چنانچہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس داخل ہوا۔ آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ کے جسم پر صرف ایک تہ بندھی، اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا آپ کے جسم اطہر پر نہ تھا۔ چٹائی نے آپ ﷺ کے جسم پر نشانات ڈال رکھے تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کی الماری میں دیکھا وہاں بس ایک مٹی جو صاع کے پیمانے میں رکھی تھی اور اسی جتنے قرظ پتے تھے۔ (جو غالباً جانور کی کھال کی دباغت کے لیے رکھے تھے) اور چند گھونٹ دودھ ایک برتن میں تھا۔ بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ آپ ﷺ نے پوچھا اے ابن الخطاب! کس چیز نے تم کو رلا دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کیوں ندروؤں؟ چٹائی نے آپ کے جسم پر نشانات ڈال دیئے ہیں اور آپ کی الماری میں بس یہی کچھ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ قیصر و کسریٰ (شاہان روم و فارس) ہیں جو پچھلوں اور نہروں میں پیش کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول اور اس کے خاص الخاص بندے ہیں اور یہ آپ کی کل متاع ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اے ابن الخطاب! کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں ہوں گی اور ان کے لیے دنیا ہی میں مہیا کر دی گئی ہیں؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ میں جب آپ کے پاس حاضر ہوا تھا تو آپ کے چہرے میں غصہ کے تاثرات تھے۔ اس لیے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! عورتوں کی وجہ سے آپ کو کیا تکلیف اور مشقت پیش آئی ہے؟ اگر آپ نے ان کو طلاق دیدی ہے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، ملائکہ، جبرئیل، میکائیل، میں ابو بکر اور تمام مؤمنین آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور جو بھی میں نے آپ سے بات کی اور اللہ کی حمد کی اس سے میرا مقصد اللہ کی رضاء تھا اور اللہ پاک نے پھر اپنا کلام کر کے میری تمام باتوں کی تصدیق کر دی۔

وان تظاہرنا علیہ فان اللہ هو مولہ الخ و ابکاراً۔ التحريم ۴-۵

اور اگر تم پیغمبر (کی اہل ذمہ) پر باہم اعانت کرو گی تو خدا اور جبرئیل اور میکائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی (اور دوست دار ہیں) اور ان کے علاوہ (اور) فرشتے بھی مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دیدیں تو عجب نہیں کہ ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں دیدے، مسلمان

صاحب ایمان، فرمانبردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں بن شوہر اور کنواریاں۔

عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما ان دو بیویوں نے دیگر تمام ازواج نبی ﷺ کو اپنا ہمنوا کر لیا تھا (حضور سے اپنی بات منوانے کے لیے) چنانچہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے ان کو طلاق دیدی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں مسجد میں گیا تھا وہاں لوگ کنکریاں کرید رہے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی عورتوں کو طلاق دیدی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اتر کر ان کو خبر سنا دوں کہ آپ نے ان کو طلاق نہیں دی۔ فرمایا ٹھیک ہے اگر تم چاہو۔ پھر میں آپ سے مزید بات چیت کرتا رہا حتیٰ کہ غصہ آپ کے چہرہ سے چھٹ گیا آپ کے دانت نظر آنے لگے اور آپ ہنسنے لگے۔ آپ ﷺ کی مسکراہٹ تمام انسانوں سے خوبصورت تھی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نیچے اترے اور میں دربان لڑکے کے سہارے نیچے اتر آیا جبکہ رسول اللہ ﷺ ((کی طاقت اور پھرئی کا یہ منظر تھا کہ) بغیر کسی سہارے کو چھوئے نیچے اترے گویا ہموار زمین پر چل رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ تو بالا خانے میں صرف آنتیس دن رہے ہیں۔ (جبکہ آپ ﷺ نے ایک ماہ کی قسم کھائی تھی) آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی مہینہ آنتیس یوم کا بھی ہوتا ہے۔ پھر میں نے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر بلند آواز میں پکارا: رسول اللہ ﷺ نے اپنی عورتوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ حکم بھی نازل فرمایا:

وإذا جاءهم امر من الامن أو الخوف أذاعوا بابه ولوروه الى الرسول والى اولى الامر لعلمه الذين

يستنبطونه منهم۔ النساء: ۸۳

اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔ تو یہ تحقیق کرنے والا میں ہی تھا۔ اور اللہ پاک نے پھر اپنے نبی ﷺ کو آیت نازل کرنے کے عورتوں کے بارے میں اختیار دے دیا تھا۔ عبد بن حمید فی تفسیرہ، مسند ابی یعلیٰ، مسلم، ابن مردویہ

بعض کتابوں میں یہاں تک یہ روایت منقول ہے ”اور میں رسول اللہ ﷺ کے پاس داخل ہوا اور آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہاں سے ”میں نے عرض کیا کیوں نہیں میں راضی ہوں“ تک۔

۳۶۶۵۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے حتیٰ کہ ہم مراظہم ان پر پہنچے۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیلو (کے جھنڈ) میں قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ میں آپ کی انتظار میں بیٹھ گیا حتیٰ کہ آپ نکلے میں نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! میں ایک سال سے آپ سے ایک سوال کرنے کی کوشش میں ہوں۔ لیکن مجھے آپ کا رعب و دبدبہ سوال کرنے سے روک دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہ کیا کر، جب تم کو معلوم ہو کہ میرے پاس اس چیز کا علم ہے تو ضرور سوال کر لیا کر میں نے عرض کیا میں آپ سے دو عورتوں کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں وہ حفصہ اور عائشہ تھیں۔ ہم جاہلیت میں عورتوں کو کچھ شمار نہیں کرتے تھے۔ اور نہ ان کو اپنے معاملات میں دخل دینے کی اجازت دیتے تھے۔

پھر جب اللہ پاک نے اسلام کا بول بالا کیا اور عورتوں کے بارے میں بھی (ان کے حقوق اور اہمیت کے) احکام نازل کیے۔ اور ان کے لیے حقوق رکھے بغیر اس کے کہ وہ ہمارے کاموں میں دخل دیں۔ پس ایک مرتبہ میں اپنے کام سے بیٹھا تھا۔ کہ مجھے میری بیوی نے کہا: یہ کام یوں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا تجھے اس کام سے کیا سروکار؟ اور تو نے کب سے ہمارے کاموں میں دخل دینا شروع ہے؟ تب میری بیوی نے کہا: اے ابن خطاب! کوئی تجھ سے بات نہ کرے جبکہ تیری بیٹی رسول اللہ ﷺ کو جواب دیدیتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ ﷺ غصہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا: کیا واقعی وہ ایسا کرتی ہے؟ بیوی نے کہا: ہاں۔ پس میں کھڑا ہو گیا اور سیدھا حفصہ کے پاس آیا۔ اور کہا: اے حفصہ! تو اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تو رسول اللہ ﷺ سے بات کرتی ہے حتیٰ کہ وہ غصہ ہو جاتے ہیں؟ انفسو! تجھ پر تو عائشہ کی خوبصورتی اور اس سے رسول اللہ ﷺ کی محبت سے دھوکہ نہ کھا۔ پھر میں ام سلمہ کے پاس آیا۔ اور اس کو بھی اسی طرح کی بات کی۔ وہ بولی: اے ابن خطاب آپ ہر چیز میں داخل ہو گئے ہیں رسول اللہ ﷺ اور ان کی بیویوں کے درمیان بھی دخل دینے لگے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرا ایک انصاری پڑوسی تھا جب میں رسول اللہ ﷺ کی مجلس سے غائب رہتا تو وہ مجلس میں حاضری دیتا

تھا اور جب وہ غائب ہوتا تو میں حاضری دیتا تھا۔ وہ مجھے خبر دیتا اور میں اس کو خبر دیتا تھا۔ اور ہمیں غسان بادشاہ کے سوا کسی اور کے حملے کا خوف نہ تھا۔ اچانک ایک دن میرا ساتھی آیا اور دو مرتبہ لباخصہ کہہ کر مجھے پکارا میں نے کہا: (اف! کیا ہو گیا تجھے؟ کیا غسانی بادشاہ آ گیا ہے؟ وہ بولا نہیں، بلکہ رسول اللہ نے اپنی عورتوں کو طلاق دیدی ہے۔ میں نے کہاخصہ کی ناک زمین رگڑے کیا وہ جدا ہو گئی ہے۔ پھر میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا وہاں پر گھر میں رونارویا جا رہا تھا۔ جبکہ نبی کریم ﷺ اپنے بالاخانے میں فروکش تھے۔ اور دروازے پر ایک حبشی لڑکا کھڑا تھا۔ میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ سے میرے لیے اجازت لو۔ چنانچہ اس نے آپ سے میرے لیے اجازت لی اور میں اندر داخل ہوا تو آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، سر کے نیچے کھجور کی چھال بھرا ہوا تکیہ تھا۔ ایک طرف قرظ پتے (جن سے کھال دباغت دی جاتی ہے) اور کھال لٹکی ہوئی تھی۔ پھر میں آپ ﷺ کو خبر دینے لگا کہ میں نے عائشہ اور خصہ کو کیا کہا ہے۔ آپ ﷺ نے مہینہ بھر اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی جب انیسویں رات تھی تو آپ ﷺ اتر کر عورتوں کے پاس گئے۔ مسند ابی داؤد الطیالسی

۴۶۶۶ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نزدیک

یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔

اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں۔ اس نوح یعنی سورہ

تحریم کا ذکر کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ خصہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ رواہ ابن مردودہ

۴۶۶۷ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے خصہ کو کہا تو کسی کو خبر نہ دینا اور ام ابراہیم

مجھ پر حرام ہے۔ خصہ نے کہا: آپ اپنے لیے اللہ کی حلال کردہ شئی کو حرام کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم میں اس کے قریب نہ جاؤں گا۔ لیکن خصہ سے یہ خبر دل میں نہ رہی اور اس نے عائشہ کو بتادی۔ پھر اللہ پاک نے یہ فرمان نازل کیا:

قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم۔ التحريم

بے شک اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں سے حلال ہونا فرض کر دیا۔ الشاشی، السنن لسعید بن منصور

۴۶۶۸ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: وہ دو عورتیں کون ہیں جنہوں نے (حضور ﷺ

پر) ایک دوسرے کی مدد کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عائشہ اور خصہ۔ اس واقعہ کی ابتداء یوں ہوئی تھی ام ابراہیم ماریہ قبظیہ رضی اللہ

عنها (جو حضور ﷺ کی باندھی اور آپ کے لیے حلال کی تھی) ان سے حضور ﷺ نے حضرت خصہ کے گھر ان کی باری کے دن میں ہمبستری

کی۔ خصہ کو یہ بات پتہ چل گئی۔ ایسا کام کیا ہے جو کسی اور بیوی کے پاس نہیں کیا، وہ بھی میرے دن میں، میری باری میں اور میرے ہی بستر

پر حضور ﷺ نے خصہ کو فرمایا: کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں اس کو اپنے لیے حرام کر لوں اور بھی اس کے قریب نہ لگوں؟ خصہ نے

کہا: ہاں۔ پھر حضور ﷺ نے اس کو اپنے لیے حرام قرار دیدیا۔ اور خصہ کو فرمایا: یہ بات کسی اور کو نہ کرنا۔ لیکن خصہ نے عائشہ کو یہ بات

بتادی۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ بات بتادی اور یہ سورت نازل کی:

یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ تمام آیات

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر ہمیں خبر پہنچی کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی قسم کا کفارہ دیدیا ہے اور اپنی باندی سے بھی ہم بستر

ہوئے ہیں۔ ابن حویو، ابن المنذر

۴۶۶۹ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ چلے جا رہے تھے اور حضرت خصہ و عائشہ رضی اللہ عنہما کے متعلق بات چیت کر رہے

تھے۔ پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ آئے اور ہم نے اس موضوع پر گفتگو بند کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا بات

ہے مجھے دیکھ کر تم لوگ خاموش کیوں ہو گئے؟ کس چیز کے بارے میں تم بات چیت کر رہے تھے؟ سب نے کہا: کچھ نہیں یا امیر المؤمنین! حضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا: میں تم کو تائید کرتا ہوں کہ تم مجھے ضرور بتاؤ کہ کس بارے میں گفتگو کر رہے تھے؟ تب لوگوں نے کہا: ہم عائشہ، خصہ

اور سودا رضی اللہ عنہما کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں مدینہ کے کسی گھاس میں تھا کہ عبداللہ بن عمر میرے پاس آیا اور بولا کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں حصہ کے پاس پہنچا وہ اپنے آپ کو پیٹ رہی تھی اسی طرح دوسری ازواج مطہرات بھی کھڑی اپنے آپ کو کوس پیٹ رہی تھیں۔ میں نے حصہ کو کہا: کیا تجھے نبی ﷺ نے طلاق دیدی ہے؟ اگر واقعی نبی ﷺ نے تجھے طلاق دیدی ہے تو یاد رکھ میں کبھی بھی تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ کیونکہ انہوں نے پہلے بھی تم کو طلاق دیدی تھی وہ تو صرف میرا لحاظ کر کے تم سے رجوع کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا۔ لوگ مسجد میں ادھر ادھر حلقے لگائے بیٹھے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ (پریشانی کی وجہ سے سب افسردہ و پریشان تھے) نبی ﷺ کمرے کے اوپر بالا خانے میں تشریف فرما تھے۔ میں بھی ایک حلقے میں بیٹھ گیا۔ لیکن میں رنج و غم کی وجہ سے زیادہ دیر بیٹھ نہ سکا اور اٹھ کر اوپر گیا حضور ﷺ کے دروازے پر ایک جنبشی غلام بیٹھا تھا۔ میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو، کیا عمر اندر داخل ہو سکتا ہے؟ لیکن مجھے کسی نے جواب نہ دیا۔ میں دوبارہ اپنی جگہ آ بیٹھا۔ پیچھے سے قاصد آ گیا اور اس نے پوچھا عمر کہاں ہے؟ میں کھڑا ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا آپ دھوپ میں بیٹھے تھے۔ میں سلام کے بعد آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ کے چہرے میں غصے کے کچھ اثرات تھے۔ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ کے غصہ کو زائل کر دوں۔ چنانچہ میں آپ ﷺ سے بات چیت میں مصروف ہو گیا۔ پھر میں نے آپ سے دریافت کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ مجھے دیکھیں! میں حصہ کے پاس گیا تھا وہ اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا: کیا تجھے نبی ﷺ نے طلاق دیدی ہے؟ اگر واقعہ آپ ﷺ نے تجھے طلاق دیدی ہے تو میں تیرے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا۔ کیونکہ پہلے بھی نبی ﷺ نے تجھ کو طلاق دیدی تھی وہ تو صرف میری وجہ سے رجوع کر لیا تھا۔ یہ سن کر آپ ﷺ ہنس دیئے، اس طرح میں آپ سے بات چیت کرنا رہا اور غصہ کے اثرات آپ کے چہرہ انور سے چھتے رہے۔

پھر میں نے آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دیدی ہے؟ یہ سن کر آپ ﷺ پھر غضب ناک ہو گئے اور مجھے فرمایا: میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکل آیا۔ پھر حضور ﷺ آتیس یوم تک یونہی ٹھہرے رہے۔ پھر فضل بن عباس آپ کے پاس سے ایک ہڈی لے کر اترے جس میں لکھا تھا:

يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تمتغي مرضات ازواجك - مكمل سورت تک
پھر نبی کریم ﷺ نیچے اتر آئے۔ رواہ ابن مردويه

۴۶۷۰ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرا ارادہ تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اللہ عزوجل کے فرمان

وان تظاهروا عليه - التحريم

اور اگر وہ دو عورتیں آپ (ﷺ) پر ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کے متعلق پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ جب ہم نے حج کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ہی مجھے فرمایا: اے رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد بیٹے! مرحبا ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: مجھے اللہ عزوجل کے فرمان: وان تظاهروا عليه کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ دو عورتیں کون تھیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: تم ان کے بارے میں مجھ سے زیادہ جاننے والے کو نہیں پاسکتے۔

ہم لوگ مکہ میں اپنی عورتوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ جب بھی کسی کو اپنی عورت کی مانگیں کھینچنے کی خواہش ہوتی تو وہ بغیر پوچھے اپنی حاجت پوری کر لیتا تھا۔ جب ہم مدینہ آئے اور انصار کی عورتوں سے شادی بیاہ کیے تو وہ ہم سے بات کرتی تھیں اور آگے سے جواب بھی دیدیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی عورت کو چھڑی سے مارا تو وہ بولی: اے ابن خطاب! تجھ پر تعجب (دافسوس) ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے تو ان کی بیویاں بات چیت کرتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں حصہ کے پاس آیا اور اس کو کہا: اے نبی! اذکھہ اتور رسول اللہ ﷺ کو کسی چیز کے لیے تنگ نہ کیا کر، نہ ان سے کچھ مانگا کر، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دینار ہیں اور نہ درہم جو اپنی بیویوں کو دیں۔ جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیا کر خواہ تیل ہی کی ضرورت ہو۔

رسول اللہ ﷺ جب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے تھے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے حتیٰ کہ جب سورج طلوع ہو جاتا پھر ایک ایک کر کے اپنی سب عورتوں کے پاس چکر لگاتے۔ ان کو سلام کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ اور پھر جس عورت کی باری کا دن ہوتا اس کے ہاں ٹھہر جاتے تھے۔ حضرت حفصہ (بنت عمر بن خطاب) کو طائف یا مکہ کا شہدہ یہ میں کہیں سے آیا ہوا تھا۔ نبی کریم ﷺ جب اس کے پاس جاتے تھے تو وہ آپ کو روک لیا کرتی تھی اور جب تک وہ شہدہ نہ چٹا دیتی اور نہ پلا دیتی آپ کو آنے نہ دیتی تھی۔ جبکہ عائشہ ثانی دیر زیادہ ان کے پاس رکنے کو ناپسند کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک حبشی باندی جس کو خضراء کہا جاتا تھا کو کہا کہ جب حضور ﷺ حفصہ کے پاس آئیں تو بھی ان کے پاس چلی جانا اور دیکھنا کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ باندی نے آکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو شہد کی بات بتائی۔ عائشہ نے اپنی تمام ساتھیوں کو کہلا بھیجا اور ساری خبر سنا دی اور یہ ہدایت دی کہ جس کے پاس بھی حضور ﷺ تشریف لائیں تو وہ آپ کو یہ کہے: آپ سے ہمیں مغایر (گوند) کی بو آ رہی ہے۔

چنانچہ حضور ﷺ عائشہ کے پاس داخل ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: آج آپ نے کوئی چیز کھائی ہے کیا؟ شاید مجھے آپ سے مغایر (گوند) کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ اس بات سے بہت نفرت کرتے تھے کہ ان سے کسی طرح کی ناگوار بو کسی کو آئے۔ لہذا آپ ﷺ نے فرمایا: یہ شہد ہے اور اللہ کی قسم میں آئندہ اس کو چکھوں گا بھی نہیں۔

پھر ایک مرتبہ جب حضور ﷺ حفصہ کے پاس آئے تو حفصہ نے آپ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے اپنے والد (عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ) کے پاس خرچے کے لیے جانے کی حاجت ہے۔ مجھے اجازت دیں تو میں ہو آؤں۔ آپ ﷺ نے ان کو اجازت دیدی۔ پھر آپ ﷺ نے اپنی ایک باندی ماریہ کو پیغام بھیج کر حفصہ کے گھر بلوایا۔ اور ان سے مباشرت کی۔

حفصہ کہتی ہیں (جب میں واپس آئی تو) میں نے دروازہ کو بند پایا۔ لہذا میں دروازہ کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر رسول اللہ ﷺ گھبرائے ہوئے نکلے، پسند آپ کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حفصہ رو رہی ہے۔ حضور ﷺ نے پوچھا: تم کیوں رو رہی ہو؟ حفصہ نے کہا: آپ نے مجھے اسی لیے اجازت دی تھی۔ آپ نے میرے کمرے میں اپنی باندی داخل کی اور پھر اس کے ساتھ میرے ہی بستر پر ہم بستر کی۔ آپ نے یہ کسی اور بیوی کے ہاں کیوں نہ کر لیا؟ اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم تم نے سچ نہیں کہا۔ کیا یہ میری باندی نہیں ہے اور کیا اس کو اللہ نے میرے لیے حلال نہیں کر دیا؟ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میں تمہاری رضامندی چاہتا ہوں۔ لیکن تم کسی کو اس کی خبر نہ دینا یہ بات تمہارے پاس امانت ہے۔

لیکن جب رسول اللہ ﷺ باہر نکل گئے تو حفصہ نے اپنی اور عائشہ کے درمیان جو دیوار تھی وہ بجا لی اور بولی: کیا میں تجھے خوشخبری نہ سناؤں، رسول اللہ ﷺ نے اپنی باندی کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اللہ نے اس باندی سے ہم کو راحت دیدی ہے تب اللہ پاک نے یہ سورت نازل کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: "وان تظاہر اعلیہ" اور اگر تم دونوں نے رسول اللہ پر ایک دوسرے کی اعانت کی سے مراد عائشہ اور حفصہ ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کوئی بات نہ چھپاتی تھیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر میں آپ ﷺ کے پاس آپ کے بالا خانے میں داخل ہوا اس میں ایک چٹائی پڑی تھی۔ اور ایک چڑے کا مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ چٹائی پر پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کے سر کے نیچے چڑے کا تکیہ تھا جس میں ٹھوڑی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے آپ ﷺ کو اس حال میں دیکھا تو بے ساختہ رو پڑا۔ حضور ﷺ نے مجھ سے پوچھا: تم کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! فارس و روم کے لوگ دیناج پر لیٹتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ان لوگوں کو ان کی عیش و عشرت کے سامان دنیا میں مل گئے ہیں۔ جبکہ ہمارے لیے آخرت میں یہ سب چیزیں تیار ہیں۔ پھر میں نے آپ ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! آپ کے کیا حال ہیں؟ کیا یہ خبر صحیح ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ لیکن میرے اور میری بیویوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے قسم اٹھائی کہ مہس ایک ماہ تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ میں آپ کے پاس سے نکلا اور (جو لوگ پریشانی کی وجہ سے مجتمع تھے ان کو اعلان کیا) اے

لوگو! واپس جاؤ۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ وکی بیویوں کے درمیان کوئی بات ہوگئی تھی جس کی وجہ سے آپ ﷺ نے (کچھ وقت کے لیے) ان سے دور رہنا پسند کر لیا ہے۔

پھر میں (اپنی بیٹی) حفصہ کے پاس گیا اور اس کو کہا: اے بیٹی! کیا تو رسول اللہ ﷺ سے اس طرح کی بات کرتی ہے کہ ان کو غصہ دلا دیتی ہے؟ حفصہ بولی: آئندہ میں آپ ﷺ سے ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جس کو وہ ناپسند کرتے ہوں۔ پھر میں ام سلمہ کے پاس گیا یہ میری خالہ لگتی تھیں لہذا میں نے ان کو بھی حفصہ جیسی بات کہی۔ اس نے کہا: تعجب ہے تجھ پر اے عمر! تو ہر چیز میں بات کرتا ہے حتیٰ کہ اب تو نے حضور ﷺ اور ان کی بیویوں کے درمیان بھی دخل اندازی شروع کر دی ہے؟ ہم رسول اللہ ﷺ پر کیوں نہ غیرت کریں جبکہ تمہاری بیویاں تم پر غیرت کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے اسی کے بارے میں یہ فرمان بھی نازل کیا:

ياايهاالنبي قل لا زواجك ان كنتنني تردن الحيوة الدنيا وزينتها۔ الاحزاب

اے نبی! کہہ دے اپنی بیویوں کو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو سامان دے کر اور خوبصورتی کے ساتھ تم کو رخصت کروں۔ الاوسط للطبرانی، ابن مردويه

۴۶۷۱ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (میرے والد) حضرت عمر رضی اللہ عنہ (میری بہن) حفصہ کے پاس گئے تو وہ رورہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم کیوں رورہی ہو؟ شاید تم کو رسول اللہ ﷺ نے طلاق دیدی ہے؟ آپ ﷺ نے ایک مرتبہ تم کو طلاق دی تھی اور پھر میری وجہ سے تم سے رجوع کر لیا تھا۔ اب اللہ کی قسم اگر دوبارہ انہوں نے تم کو طلاق دی تو میں کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں تیرے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ مسند البزار، السنن لسعیدین منصور

۴۶۷۲ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی عورتوں سے ایک ماہ تک جدائی اختیار کر لی تھی۔ پھر اسی دن ہو گئے تو جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا: مہینہ پورا ہو گیا ہے اور آپ اپنی قسم سے عہدہ برآ گئے ہیں۔ رواہ ابن ابی شیبہ

۴۶۷۳ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ایک ماہ تک اپنے بالا خانے میں (بیویوں سے) دور رہے۔ جس وقت حفصہ نے وہ راز عانتہ پر فاش کر دیا تھا جو رسول اللہ ﷺ نے ان کو بتایا تھا۔ اس وجہ سے آپ ﷺ نے اپنی بیویوں پر غصہ کرتے ہوئے فرمایا تھا میں اب ایک ماہ تک تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ پھر اسی ایام گزر گئے تو حضور ﷺ زوجہ مطہرہ ام سلمہ کے پاس گئے۔ اور فرمایا کوئی ماہ اسیس یوم کا بھی ہوتا ہے اور وہ ماہ واقعی اسیس یوم کا تھا۔ ابن سعد

۴۶۷۴ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے یہ بات آپ بچھی کہ آپ کی بیویوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور ان سے معاملہ کی ٹوہ لینے لگا۔ اور ان کو نصیحت بھی کرتا رہا اور یہ بھی کہتا: لستہمین اولیسد لہ اللہ ازواجاً خیراً منکن تم عورتیں (اپنی تکلیف رسائی سے) باز آ جاؤ ورنہ اللہ اپنے نبی کو تم سے بہتر اور بیویاں دے گا۔

حتیٰ کہ میں زینب کے پاس گیا اس نے مجھے کہا: اے عمر! کیا نبی ﷺ ہمیں نصیحت نہیں کر سکتے۔ جو تو ہمیں کر رہا ہے؟ پھر اللہ پاک نے (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہی میں ازواج مطہرات کو) حکم نازل فرمایا:

عسی ربه ان طلقکن ان یبدلہ ازواجاً خیراً منکن۔ الخ
اگر نبی تم کو طلاق دے دے تو قریب ہے اس کا رب اس سے تم سے بہتر اور بیویاں دے دے۔

ابن مینع، ابن ابی عاصم فی السنة، ابن عساکر

صحیح روایت ہے۔

۴۶۷۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ و صالح المؤمنین (الاحقریم) کی تفسیر میں حضور ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علی بن ابی طالب ہیں۔

ابن ابی حاتم

۴۶۷۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان: قوا أنفسکم و اہلیکم ناراً۔ (الاحقریم) اپنی جانوں کو اور اپنے گھروالوں کو جہنم کی

آگ سے بچاؤ کے بارے میں مروی ہے فرمایا: اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر اور ادب سکھاؤ۔

عبدالرزاق، القریابی، السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، مستدرک الحاکم، البیہقی فی المدخل ۳۶۷۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کریم ذات نے کس قدر معاملہ کی تہمت تک کو بیان کیا و عرف بعضہ و اعرض عن بعض۔ اور جتلائی نبی نے اس میں سے کچھ اور تلاویٰ کچھ۔ رواہ ابن مردویہ

سورۃ القلم

۳۶۷۸ عبدالرحمن بن غنم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ سے ”العقل الزنیم“ کے بارے میں سوال کیا گیا: آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ بد اخلاق، چیخنے، چنگھاڑنے والا، بہت زیادہ کھانے پینے والا، پیٹ بھرا، لوگوں پر ظلم کرنے والا، اور بڑے پیٹ والا شخص ہے۔ رواہ ابن عساکر

سورۃ الحاقہ

۳۶۷۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا:

پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا مگر اس ترازو سے تل کر جو فرشتے کے ہاتھوں میں۔ ہاں نوح علیہ السلام کے طوفان کے دن بارش کے نگہبان فرشتے کو چھوڑ اللہ نے پانی کے فرشتے کو حکم دیدیا تھا۔ لہذا پانی اس دن اس فرشتے کی نافرمانی کر کے برطرف چڑھ دوڑا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

انالما طغی الماء۔

جب پانی سرکش ہو گیا۔

اسی طرح ہوا بھی اس ترازو سے تل کر ہی آتی ہے جو فرشتے کے ہاتھوں میں ہے۔ مگر قوم عاد پر عذاب کے دن ہوا کو اللہ پاک نے خود حکم دیدیا تھا وہ فرشتے کی اجازت کے بغیر نکلے جس کو اللہ نے فرمایا:

بریح صرصر عاتیه۔

تند و تیز نافرمان ہوا۔

یعنی فرشتے کی نافرمانی کر کے قوم پر تیزی سے پھرنے والی ہوا۔ رواہ ابن جریر

سورۃ نوح

۳۶۸۰ وہب بن منہ رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایسے سات صحابہ سے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے روایت کرتے ہیں یہ تمام حضرات حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

قیامت کے دن اللہ پاک سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلائیں گے۔ اللہ پاک پہلے قوم سے پوچھیں گے: تم نے نوح کی پکار پر ہاں کیوں نہیں کہی؟ وہ کہیں گے: ہم کو کسی نے بلایا اور نہ کس نے آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا اور نہ ہم کو نصیحت کی اور نہ ہمیں کسی بات کا حکم دیا اور نہ کسی بات سے منع کیا۔ نوح علیہ السلام عرض کریں گے: یارب! میں نے ان کو دعوت دی تھی جس کا ذکر اولین و آخرین میں حتیٰ کہ خاتم النبیین احمد ﷺ تک پہنچا۔ انہوں نے اس کو لکھا، پڑھا اس پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کی۔

اللہ پاک ملائکہ کو فرمائیں گے: احمد اور اس کی امت کو بلاؤ۔ چنانچہ آپ ﷺ اپنی امت کے ہمراہ تشریف لائیں گے اور ان کا نوران کے آگے آگے چلتا ہوگا۔ نوح علیہ السلام محمد اور ان کی امت کو کہیں گے: کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی قوم تک پیغام رسالت پہنچا دیا تھا اور ان کو خوب نصیحت کی تھی۔ اور اپنی پوری کوشش کی تھی کہ ان کو جہنم سے بچا لوں۔ لیکن یہ میری پکار کو ماننے کے سراؤ جہراً بجائے دور ہی بھاگتے گئے۔

پس رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کی امت کہے گی: ہم اللہ کے حضور شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے جو کہا آپ تمام باتوں میں بالکل سچے ہیں۔ تب قوم نوح کہے گی: اے احمد! آپ کو کیسے یہ علم ہوا جبکہ آپ اور آپ کی امت سب سے آخر میں آنے والے ہیں؟ پس محمد کہیں گے: پھر آپ ﷺ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پوری سورہ نوح پڑھی۔ پھر آپ کی امت کہے گی: ہم شہادت دیتے ہیں کہ یہ سچا قصہ ہے۔ اللہ پاک بھی فرمائیں گے:

وامتازوا اليوم ايها المجرمون - يس -

اے مجرمو! آج کے دن جدا ہو جاؤ۔

پس سب سے پہلے یہ لوگ ممتاز ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ رواہ مستدرک الحاکم

سورة الجن

۳۶۸۱ (عمر رضی اللہ عنہ) مسدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً لنتفتنهم فيه

اورا (اے پیغمبر!) یہ (بھی ان سے کہہ دو) کہ اگر یہ لوگ سیدھ راستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جہاں پانی ہوتا ہے وہاں مال بھی ہوتا ہے اور جہاں مال ہوتا ہے وہاں فتنے (آزمائش) بھی جنم لیتے ہیں۔

عبد بن حمید، ابن جریر

سورة المزمل

۳۶۸۲ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ پر یہ فرمان نازل ہوا:

يا ايها المزمل قم الليل الا قليلاً - المزمل ۱-۲

اے (محمد!) جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات۔

تو آپ ﷺ ساری ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک دردناک جاتے۔ پھر آپ ایک قدم اٹھاتے دوسرا رکھتے دوسرا اٹھاتے پہلا رکھتے حتیٰ کہ پھر جبرئیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ فرمان نازل کیا:

طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى - طه ۱-۲

طہ! ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: طہ یعنی ظا الارض بقدرینہ کہ اپنے قدموں کو زمین پر رکھو۔ اے محمد! اور (سورہ مزمل کے آخر میں) نازل کیا:

فاقرؤ واما تيسر من القرآن - المزمل آخری آیت

پس جتنا آسانی سے ہو سکے (اتنا) قرآن پڑھ لیا کرو۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یعنی اگر بکری کے دودھ دوہنے کی بقدر بھی آسانی ہو اسی پر اکتفا کر لیا کرو۔ رواہ ابن مردویہ

سورۃ المدثر

۳۶۸۳ حضرت عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

جعلت له مالاً ممدوداً - مدثر: ۱۲

اور اس کو میں نے مال کثیر دیا۔

ارشاد فرمایا: کہ اس کو میں نے بھر کا غلہ ملاتا تھا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، الدینوری، ابن مردویہ
فائدہ: ولید بن مغیرہ جو عرب مشرکین کا بہت بڑا مالدار اور اپنے والدین کا اکلوتا فرزند تھا، اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہیں۔

تفسیر عثمانی

۳۶۸۳ اہل اصحاب البینین (المدثر: ۳۹) مگردا ہنے ہاتھ والے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: (ان نیک لوگوں

سے مراد) لمانوں کے بچے ہیں۔ عبدالرزاق، الفریابی، السنن لسعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر

سورۃ عم (نبأ)

۳۶۸۵ سالم بن ابی الجعد سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہلال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تم لوگ ہب کتنی مقدار کو کہتے ہو؟ انہوں
نے جواب دیا ہم کتاب اللہ (تورات) میں اس کی مقدار پاتے ہیں اسی سال، سال بارہ ماہ کا، ماہ میں یوم کا اور ایک یوم ہزار سال کا۔ ہناد
اس حساب سے ہب کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ ہوئے۔ فرمان الہی ہے:

لشین فیہا احقابا۔ (نبأ: ۲۳)

کافر لوگ جہنم میں مدتوں پڑے رہیں گے۔

احقاب ہب کی جمع ہے اور کافر لوگ بے شمار ہب تک جہنم میں پڑے رہیں گے۔ (اعاذنا اللہ منہ)

سورۃ والنارعات

۳۶۸۶ والنارعات غرقا و الناشطات نشطا۔ و السابحات سبحا۔ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرأ۔ النارعات: ۱-۵

ترجمہ: ان (فرشتوں) کی قسم جو ڈوب کر کھنچ لیتے ہیں۔ اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پلک
لپک کر بڑھتے ہیں۔ پھر دنیا کے کاموں کا انتظار کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: النارعات غرقاً یہ وہ فرشتے ہیں جو کفار کی روح نکالتے ہیں۔ و الناشطات نشطاً یہ فرشتے
کفار کی روحوں کو ان کے ناخنوں اور کھالوں تک سے نکال لیتے ہیں۔ و السابحات سبحاً یہ فرشتے مؤمنین کی روحوں کو لے کر آسمانوں
اور زمین کے درمیان تیرتے (یعنی اڑتے) رہتے ہیں۔ فالسابقات سبقا۔ یہ ملائکہ مؤمنوں کی روح کو لے کر ایک دوسرے سے آگے
بڑھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ فالمدبرات امرأ یہ فرشتے بندگان خدا کے معاملات کا سال بہ سال انتظام کرتے ہیں۔

السنن لسعید بن منصور، ابن المنذر

۴۶۸۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے قیامت کے متعلق سوال کیا جاتا تھا پس یہ آیت نازل ہوئی: یسئلونک عن الساعة ایان مرسلها فیم انت من ذکرها الی ربک منتہا. النازعات: ۲۲-۲۴ (اے پیغمبر! لوگ تم قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا (یعنی واقع ہونے کا وقت) تمہارے رب ہی کو (معلوم ہے)۔ رواہ ابن مردویہ

سورہ عبس

۴۶۸۸ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ”اب“ کے متعلق سوال کیا گیا کہ وہ کیا شے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے سایہ دے گی اگر میں کتاب اللہ میں ایسی کوئی بات کہوں جس کو میں نہیں جانتا۔

ابو عیینہ فی فضائلہ، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید

نوٹ: ۴۱۳۹ پر یہی روایت گزر چکی ہے۔

فرمان الہی ہے:

وفاکھة وابد عبس: ۳۱

اور ہم نے پانی کے ساتھ زمین سے نکالا بیوہ اور چارا۔

اس کے متعلق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا۔

سورہ تکویر

۴۶۸۹ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: واذا النفوس زوجت۔ (تکویر) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: جنت میں نیک کو نیک کے ساتھ اور جہنم میں بد کو بد کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہی مختلف جانوں کا باہم ملنا ہے۔

عبدالرزاق، الفریابی، السنن لسعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم، حلیۃ الاولیاء، البیہقی فی البعث

۴۶۹۰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ فرمان: واذا السمؤودة سثلت۔ (تکویر: ۸) اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنادی گئی ہو پوچھا جائے گا“ کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

قیس بن عاصم تیمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: میں نے اپنے زمانہ جاہلیت میں اپنی آٹھ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ (اب میں اس کے کفارہ میں کیا کروں؟) حضور ﷺ نے فرمایا: ہر ایک کی طرف سے ایک ایک غلام آزاد کر دے۔ قیس نے عرض کیا: یا رسول اللہ میں تو اونٹوں والا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: چاہو تو ہر ایک کی طرف سے ایک ایک اونٹ نحر (قربان) کر دو۔

مسند البزار، الحاکم فی الکنی، ابن مردویہ، السنن للبیہقی

۴۶۹۱ حضرت سلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے: اذا الشمس کورت سورۃ کی تلاوت فرمائی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے علمت نفس ما حضرت تو فرمایا: اس کے لیے مساوی بات ذکر کی گئی ہے۔

عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، اب مردویہ، ابو داؤد الطیالسی

فائدہ: سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال میں سے ہولناک امور کا بیان کیا کہ جب سورج پلٹ لیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ جلا دیئے جائیں گے..... اس طرح اللہ پاک نے تیرہ آیات میں قیامت کی ہولناکی کا احساس دلا کر چودھویں آیت میں سب سے اہم اور مقصود الذکر کشتی کو بیان کیا:

علمت نفس ما احضرت - تکویر: ۱۴

(اس وقت) ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔

۳۶۹۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری: فلا اقسام بالخنس - (تکویر: ۱۵) ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کے متعلق منقول ہے فرمایا: یہ پانچ ستارے ہیں: زحل، عطارد، مشتری، بہرام، اور زہرہ۔ ان کے علاوہ کو اکب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجرہ

کو کاٹ سکے۔ ابن ابی حاتم، مستدرک ۴ الحاکم

۳۶۹۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد باری: فلا اقسام بالخنس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: یہ ستارے رات کو اپنی جگہ آ جاتے ہیں اور دن کو اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اس لیے نظر نہیں آتے۔

السنن لسعيد بن منصور، الفريابي، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن ابی حاتم، مستدرک الحاکم

سورہ انفطار



۳۶۹۴ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم - انفطار: ۶

اے انسان! تجھ کو اپنے پروردگار کرم فرما کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟

پھر ارشاد فرمایا: انسان کو اس کی جہالت نے پروردگار کرم سے دھوکہ دیا ہے۔ ابن المنذر، ابن ابی حاتم، العسکری فی المواعظ

۳۶۹۵ (مسند رافع بن خدیج) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے پوچھا: تیرے ہاں کیا پیدا ہوا

ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ہاں کیا پیدا ہو سکتا ہے؟ لڑکا یا لڑکی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کس کے مشابہ ہوگا؟ رافع نے عرض

کیا: کس کے مشابہ ہو سکتا ہے؟ اپنی ماں کے یا اپنے باپ کے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہنہ۔ ایہ مت کہو، کیونکہ نطفہ رحم میں استقرار پکڑتا ہے تو اللہ

پاک اس بچے اور آدم علیہ السلام کے درمیان اس کی تمام پشتوں میں کو حاضر کرتے ہیں (اور پھر جس صورت میں چاہتے ہیں اس کو پیدا کر دیتے

ہیں) کیا تم نے معیر فرمان خداوندی نہیں پڑھا:

فی ای صورة ما شاء ركبک - انفطار: ۸

جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ابن مرویہ، الکبیر للطبرانی عن موسیٰ بن علی بن رباح عن ایبہ عن جدہ

کلام: اس روایت میں ایک راوی مطہر بن ابیہثم طائی ہے جو متروک راوی ہے جس کی بناء پر روایت میں ضعف ہے۔

میزان الاعتدال ۱۲۹/۴

سورہ المطففین

۳۶۹۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان خداوندی: "نضرۃ النعمیم" (المطففین: ۲۴) (تم کو ان کے چہروں میں نعمت کی تروتازگی معلوم

ہوگی) کے متعلق ارشاد فرمایا:

جنت میں ایک چشمہ ہے، جنتی اس سے وضو اور غسل کریں گے تو ان پر نعمتوں کی تروتازگی ظاہر ہو جائے گی۔ ابن المنذر

سورۃ الشقاق

۳۶۹۷ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ارشاد خداوندی ”لتر کبن طبقا عن طبق“ (انشقاق: ۹) تم درجہ بدرجہ (رتبہ اعلیٰ پر) چڑھو گے“ کے متعلق فرمایا: حالاً بعد حال (یعنی ہر لمحہ رتبہ اعلیٰ کی طرف گامزن رہو گے)۔ عبد بن حمید

۳۶۹۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد خداوندی: اذا السماء انشقت۔ (انشقاق: ۱) جب آسمان پھٹ جائے گا کے متعلق ارشاد فرمایا: یعنی آسمان اپنے حجرہ (یعنی اپنی جگہ) سے پھٹ جائے گا (اور ادھر ادھر بکھر جائے گا)۔ ابن ابی حاتم

سورۃ البروج

۳۶۹۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

اصحاب الاخذود کے پیغمبر جشی تھے۔ ابن ابی حاتم

۳۷۰۰ حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ”اصحاب الاخذود“ کے متعلق مروی ہے کہ یہ لوگ حبشی تھے۔ ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۳۷۰۱ سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے (جو) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس (بیٹھے ہوئے تھے) اصحاب الاخذود کا ذکر چھیڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: دیکھو تمہارے اندر بھی ان جیسے لوگ ہیں لہذا (حق پر قائم رہنے میں) تم لوگ کسی قوم سے عاجز مت ہو جانا۔ عبد بن حمید

۳۷۰۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ مجوسی اہل کتاب ہوا کرتے تھے۔ اپنی کتاب پر عمل کرتے تھے۔ شراب ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ ان کے ایک بادشاہ نے شراب (زیادہ) پی لی۔ شراب نے اس کی عقل خراب کر دی اور اس نے اپنی بیٹی یا بہن کے ساتھ جماع کر لیا۔ جب اس کا نشہ کا فور ہوا تب بہت نادم و پشیمان ہوا۔ لڑکی کو کہا: افسوس! یہ میں نے تیرے ساتھ کیا کر لیا؟ اس سے نجات کا راستہ کیا ہوگا۔ لڑکی نے کہا: اس سے نجات کا راستہ یہ ہے کہ تو لوگوں کو تقریر کر اور کہہ: اے لوگو! اللہ نے بہنوں اور بیٹیوں سے بھی نکاح حلال کر دیا ہے۔ پس جب یہ چیز لوگوں میں عام ہو جائے اور اس فعل میں مبتلا ہو جائیں تب دوبارہ تقریر کر کے ان پر یہ چیز واپس حرام قرار دے دینا۔ چنانچہ بادشاہ تقریر کرنے کے لیے ان کے درمیان کھڑا ہوا اور بولا: اے لوگو! اللہ نے تمہارے لیے بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ سب لوگوں نے کہا: اللہ کی پناہ ہو! کہ اس پر ہم ایمان لائے یا اس کا اقرار کریں۔ کیا اللہ کا نبی یہ بات لے کر آیا ہے یا اللہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔

آخر بادشاہ اسی عورت کے پاس واپس گیا اور بولا افسوس! تجھ پر لوگوں نے میری اس بات کو مجھ پر رد کر دیا ہے۔ عورت بولی اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان پر کوڑا اٹھاؤ۔ بادشاہ نے یہ حربہ بھی آزما لیا لیکن پھر بھی لوگ ماننے سے انکار کرتے رہے۔ بادشاہ دوبارہ عورت کے پاس گیا اور کہا میں نے ان پر کوڑے آزما کر بھی دیکھ لیے لیکن پھر بھی وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ عورت نے کہا: ان پر تلوار سونت لو (مان جائیں گے)۔ بادشاہ نے تلوار کے ساتھ ان کو اقرار پر مجبور کیا لیکن وہ نہ مانے۔ عورت نے کہا: ان کے لیے خندقیں کھدواؤ پھر اس میں آگ بھڑکاؤ۔ پھر جو تمہارے بات قبول کرے اسکو چھوڑ دو اور جو نہ مانے اس کو خندق میں جھونک دو۔ لہذا بادشاہ نے خندقیں کھدوائیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی۔ پھر اپنی عوام کو ان پر حاضر کیا پھر جس نے انکار کیا اس کو آگ میں ڈال دیا اور جس نے انکار نہ کیا اور بادشاہ کی بات مان لی اس کو چھوڑ دیا۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل کیا ہے:

قتل اصحاب الاخذود تا ولہم عذاب الحریق۔ البروج: ۴۰-۱۰

خندقوں (کے کھودنے) والے ہلاک کر دیئے گئے۔ (یعنی) آگ (کی خندقیں) جس میں ایندھن (جھونک رکھا) تھا۔ جبکہ وہ ان کے (کناروں) پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جو (سختیاں) اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے جو غالب اور قابل ستائش ہے۔ جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا (اور) عذاب بھی ہوگا اور حملے کا عذاب بھی ہوگا۔ عبد بن حمید فائدہ: ان اصحاب الاخدود سے کون مراد ہیں؟ مفسرین نے کئی واقعات نقل کیے ہیں۔ لیکن صحیح مسلم، جامع ترمذی، اور مسند احمد وغیرہ میں جو قصہ مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانہ میں کوئی کافر بادشاہ تھا۔ اس کے ہاں ایک ساحر (جادوگر) رہتا تھا۔ جب ساحر کی موت کا وقت قریب ہوا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار اور ہونہار لڑکا مجھے دیا جائے تو میں اس کو اپنا علم سکھا دوں تاکہ میرے بعد یہ علم مٹ نہ جائے۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا جو روزانہ ساحر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا۔ راستہ میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جو اس وقت کے اعتبار سے دین حق پر تھا۔ لڑکا اس کے پاس بھی آنے لگا۔ اور خفیہ طور سے راہب کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، اور اس کے فیضِ صحت سے ولایت و کرامت کے درجہ کو پہنچا۔ ایک روز لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے جانور (شیر وغیرہ) نے راستہ روک رکھا ہے جس کی وجہ سے مخلوق پریشان ہے۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ! اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے۔ یہ کہہ کر پتھر پھینکا جس سے اس جانور کا کام تمام ہو گیا۔ لوگوں میں شور ہوا کہ اس لڑکے کو عجیب علم آتا ہے کسی اندھے نے سن کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ اچھی کرنے والا میں نہیں۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لائے تو میں دعا کروں۔ امید ہے وہ تجھ کو بینا کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شدہ شدہ یہ خبریں بادشاہ کو پہنچیں۔ اس نے برہم ہو کر لڑکے کو مع راہب اور اندھے کے طلب کر لیا اور کچھ بحث و گفتگو کے بعد راہب اور اندھے کو قتل کر دیا اور لڑکے کی نسبت حکم دیا کہ اونچے پہاڑ پر سے گرا کر ہلاک کر دیا جائے۔ مگر خدا کی قدرت جو لوگ اس کو لے گئے تھے وہ سب پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح و سالم چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا۔ وہاں بھی یہی صورت پیش آئی کہ لڑکا صاف بیچ کر نکل آیا اور جو لے گئے تھے وہ سب دریا میں ڈوب گئے۔ آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا: کہ میں خود اپنے مرنے کی ترکیب بتلاتا ہوں۔ آپ سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کریں۔ ان کے سامنے مجھ کو سولی پر لٹکا میں اور یہ لفظ کہہ کر میرے تیر ماریں ”بسم اللہ رب الغلام“ (اس اللہ کے نام پر جو رب ہے اس لڑکے کا) چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اور لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھ کر یکلخت لوگوں کی زبان سے ایک نعرہ بلند ہوا کہ ”آمننا برب الغلام“ (ہم سب لڑکے کے رب پر ایمان لائے) لوگوں نے بادشاہ سے کہا لیجئے۔ جس چیز کی روک تھام کر رہے تھے۔ وہی پیش آئی پہلے تو کوئی اکاد کا مسلمان ہوتا تھا اب خلق کثیر نے اسلام قبول کر لیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان کو خوب آگ سے بھرا کر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو ان خندقوں میں جھونک دیا جائے گا۔ آخر لوگ آگ میں ڈالے جا رہے تھے۔ لیکن اسلام سے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک مسلمان عورت لائی گئی جس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا۔ شاید بچہ کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی۔ لگی بچہ نے خدا کے حکم سے آواز دی ”امامہ اصبری فانک علی الحق“ (اما جان صبر کر کہ تو حق پر ہے)۔ (حوالہ تفسیر عثمانی) واللہ اعلم بالصواب۔

سورة الغاشية

۴۷۰۳ (مسند عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ) ابو عمران الجونی سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک راہب کے پاس سے گزرنے لگے تو اسی کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھی نے آواز دی اسے راہب یہ امیر امو مین ہیں۔ چنانچہ وہ متوجہ ہوا۔ دیکھا تو اس راہب کا محنت و مشقت اور ترک دنیا کی وجہ سے عجیب حال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کر رو پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو

کہا گیا: یہ نصرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں لیکن مجھے اس پر خدا کے فرمان کی وجہ سے رحم آ گیا، خدا کا فرمان ہے:
 عاملة ناصية تصلي ناراً حامية۔ الغاشية: ۳۰-۳۱
 سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دکھتی آگ میں داخل ہوں گے۔
 لہذا مجھے اس کی عبادت میں محنت و ریاضت پر رحم آ گیا کہ اس قدر محنت کرنے کے باوجود یہ جہنم میں داخل ہوگا۔

شعب الایمان للبيهقي، ابن المنذر، مستدرک الحاکم

سورة الفجر

۴۷۰۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا تم جانتے ہو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟
 کلاً اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملك صفا صفا و جیء یومئذ بجهنم۔ الفجر: ۲۱-۲۳
 تو جب زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار (جلوہ فرما، ہوگا) اور فرشتے قطار باندھ باندھ کر آ موجود ہوں گے اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی۔
 پھر آپ ﷺ نے خود ہی ارشاد فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا جہنم کو ستر ہزار لگا سوں کے ساتھ ستر ہزار فرشتے کھینچ کر لائیں گے۔ پھر بھی وہ ادھر ادھر آپ سے نکل رہی ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ روکا رکھا ہو تو وہ آسمانوں اور زمین ہر چیز کو جلا دے۔ رواہ ابن مردویہ

سورة البلد

۴۷۰۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں النجدین سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں ہے۔ فرمایا خیر و شر ہے۔ الفریابی، عبد بن حمید
 فائدہ:۔۔۔ فرمان خداوندی "وهدینہ النجدین" (البلد: ۱۰) اور اس (انسان) کو دونوں رستے بھی دکھادیئے ہیں کہ جب انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ماں کی چھاتی میں رزق کے دونوں راستے دکھادیئے جاتے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس قول کو ذکر کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد خیر و شر کے دو راستے ہیں۔

سورة الليل

۴۷۰۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمارے چہروں کی طرف نظر ڈالی اور پھر فرمایا: تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ معلوم ہے جنت میں اور دوزخ میں۔ پھر آپ ﷺ نے یہ سورت تلاوت فرمائی:
 واللیل اذا یغشی والنهار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثیٰ ان سعیمکم لشتیٰ سے۔ الیسری تک۔

سورة اللیل: ۱-۷

رات کی قسم! جب (دن کو) چھپالے۔ اور دن کی قسم جب چمک اٹھے۔ اور اس (ذات) کی قسم جس نے زماہہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح (مختلف) ہے۔ تو جس نے (خدا کے رستے میں مال) دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے۔

پھر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ راستہ تو جنت کا ہے۔ پھر آپ نے آگے تلاوت فرمائی:

واما من بخل واستغنیٰ و کذب بالحسنىٰ فسینسرہ للیسری۔ الیل: ۸-۱۰

اور جس نے بخل کیا اور وہ بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچائیں گے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ راستہ جہنم کا ہے۔ رواہ ابن مردویہ

سورۃ اقرأ (علق)

۴۷۰۷ (ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ) ابی رجاہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ اقرأ باسم ربک الذی خلق ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے پڑھی ہے اور یہ سب سے پہلی سورت ہے جو محمد ﷺ پر نازل ہوئی ہے۔ رواہ ابن ابی شیبہ

۴۷۰۸ (مرسل مجاہد رحمۃ اللہ علیہ) مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلی سورت جو محمد ﷺ پر نازل ہوئی وہ "اقرأ باسم ربک الذی خلق" ہے۔ مسلم، نسائی، ابن ابی شیبہ

سورۃ الزلزال

۴۷۰۹ ... (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) ابواسماء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دوپہر کو کھانا تناول فرما رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی:

فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرّاً یرہ۔ الزلزال: ۷-۸

سو جس نے ذرہ بھرنیکلی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔

(یہ سن کر) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جو برائی بھی ہم نے کی ہوگی ہم اس کو ضرور دیکھیں گے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو تم (اپنی زندگی میں) ناپسندیدہ باتیں دیکھتے ہو وہ (انہی برے اعمال کی) جزاء ہوتی ہیں۔ جبکہ نیکی کو صاحب نیکی کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ ابن ابی شیبہ، ابن راہویہ، عبد بن حمید، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اطراف میں اس کو مسند ابی بکر کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔

۴۷۱۰ ابودریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی:

فمن يعمل مثقال ذرة خیراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرّاً یرہ۔ الزلزال: ۷-۸

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا: یا رسول اللہ! کیا جو بھی نیکی یا برائی ہم سے سرزد ہوگی ہم کو اسے دیکھنا پڑے گا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اے ابوبکر! تم کو جو ناپسندیدہ امور پیش آتے ہیں وہ برائی کے بدلے ہیں اور خیر کے بدلے تمہارے لیے ذخیرہ کر لیے جاتے ہیں تم قیامت کے دن ان کو پا لو گے اور اس کی تصدیق اللہ کی کتاب میں ہے:

وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ الشوری: ۳۰

اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے فعلوں سے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔ رواہ ابن مردویہ

سورۃ العادیات

۴۷۱۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان والی العادیات ضبحاً کے متعلق مروی ہے کہ حج میں (حاجیوں کو لے) جانے والے اونٹ مراد

ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا: ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد گھوڑے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: بدر میں ہمارے پاس گھوڑے تھے۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ فائدہ: فرمان الہی ہے:

والعادیات صباحاً۔ فالموریات قدحاً فالغیرات صباحاً۔ فأترن بہ نقعاً فوسطن بہ جمعاً۔ ان الانسان لریہ لکنو د۔ العادیات ۱-۶

ان سرپٹ دوڑنے والے (گھوڑوں) کی قسم جو باپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر (نعل) مار کر آگ نکالیتے ہیں۔ پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں۔ پھر اس میں گرون اٹھاتے ہیں۔ پھر اس وقت (دشمن کی) فوج میں جا گھتے ہیں۔ کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس (اور ناشکر) ہے۔

عام تراجم میں العادیات صباحاً کا معنی گھوڑوں ہی سے کیا گیا اور ما بعد کا مضمون بھی انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ گھوڑوں کی قسم بھی ہو سکتی ہے۔ جن کے متعلق آیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کی پیشانی میں خیر رکھ دی گئی ہے اور مجاہدین کی قسم بھی ہو سکتی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کی فوج میں جا گھتے ہیں اور جن کی تعریف و توصیف کلام اللہ میں جا بجا کی گئی ہے۔

۴۷۱۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ارشاد فرمایا: اوضح (کا معنی) گھوڑے کے لیے (ہو تو) ہنہانا ہے اور اونٹ کے لیے (ہو تو) سانس لینا ہے۔ ترمذی، ابن جریر

۴۷۱۳ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں پتھروں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے العادیات صباحاً کے متعلق سوال کیا۔ میں نے کہا: گھوڑے جب اللہ کی راہ میں غارت گری کرتے ہیں پھر رات کو اپنے ٹھکانے پر واپس آتے ہیں اور مجاہدین ان کو چارہ ڈالتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں۔ (ان آیات کا یہی مطلب ہے۔) پھر وہ مجھ سے جدا ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا آپ رضی اللہ عنہ زمزم کے پاس تشریف فرماتے تھے۔ اس شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے بھی والعادیات صباحاً کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی سے پوچھا کیا تم نے مجھ سے قبل کسی سے اس کے بارے میں سوال کیا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا: جی ہاں۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو خدا کی راہ میں غارت گیری کرتے ہیں۔ اور اب جاؤ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب میں جا کر آپ کے سر پر کھڑا ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! اسلام میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا تھا اور اس معرکہ میں ہمارے پاس صرف دو گھوڑے تھے۔ ایک گھوڑا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تھا اور ایک حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کا تھا۔ پس وہاں (صرف دو گھوڑوں کے لیے) والعادیات صباحاً کیسے ہو سکتا ہے؟ (کیونکہ والعادیات جمع ہے جس میں دو سے زائد مراد ہیں لہذا العادیات صباحاً سے مراد عرفہ سے مزدلفہ جانے والی سواریاں مراد ہیں جہاں وہ آگ جلاتے ہیں) (فالموریات قدحاً اور طعام و شراب کا شغل کرتے ہیں) پھر اگلے دن المغیرات صباحاً مزدلفہ سے منیٰ جانا مراد ہے۔ یہی جمع ہے اور فائون بہ نقعاً سے مراد سواروں کا اپنے کھروں اور پیروں سے زمین روندنا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہ سن کر میں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا اور حضرت علی کے ارشاد مبارک کا قائل ہو گیا۔

رواہ ابن مردویہ

سورۃ الہاکم التکاثر

۴۷۱۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: سورۃ الہاکم التکاثر عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

رواہ ابن جریر

۴۷۱۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمان خداوندی ”ثم لتسألن يومئذ عن النعيم“ (تکاثیر) پھر تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں“ کے متعلق منقول ہے، ارشاد فرمایا:

جس نے گندم کی روٹی کھائی، فرات (یا کسی بھی) نہر کا ٹھنڈا پانی پیا اور اس کے پاس رہائش کے لیے گھر بھی ہے پس یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

۴۷۱۶ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اس (فرمان: لَو كَانَ لَادِمٍ وَادِمْنِ ذَهَبٍ، یعنی آدم کے لیے اگر ایک وادی سونے کی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ اس کے لیے ایک وادی سونے کی ہو جائے) کو قرآن کی آیت شمار کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ پاک نے سورۃ الحاکم التکاثر نازل فرمادی۔ بخاری

۴۷۱۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: ہم لوگوں کو عذاب قبر کے بارے میں شک ہوتا تھا حتیٰ کہ سورۃ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ (جس سے عذاب قبر کے متعلق ہمارے قلوب میں یقین پیدا ہو گیا)۔

السنن للبیہقی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ، شعب الایمان للبیہقی

سورۃ الفیل

۴۷۱۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (ابرہہ کے لشکریوں پر) ابابیل پرندے چیل کی شکل میں آئے تھے اور یہ آج تک زندہ ہیں ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ رواہ الدیلمی کلام: روایت ضعیف ہے دیکھئے: التزییہ ۲۴۷۱۔ ذیل المآلی ۱۴۔

سورۃ قریش

۴۷۱۹ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں بیت اللہ کے پاس لوگوں کو نماز پڑھانی اور سورۃ قریش کی تلاوت کی اور فلیعبدوا رب هذا البیت (پس وہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں) پڑھتے ہوئے نماز ہی میں کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ السنن لسعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر

سورۃ ارأیت (ماعون)

۴۷۲۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: الذین ہم یراءون ویمنعون الماعون۔ (وہ ریا کاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے) کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں یعنی وہ اپنی نماز لوگوں کو دکھاوے کے واسطے پڑھتے ہیں اور فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ الفریابی، السنن لسعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم

سورۃ الکوثر

۴۷۲۱ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: جب یہ سورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابر۔ الکوثر

(اے محمد!) ہم نے تم کو کوشر عطا فرمائی ہے۔ تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔

تو رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا: یہ کون سی قربانی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا: یہ قربانی نہیں ہے بلکہ آپ کو (اس کے ضمن میں) یہ حکم ہے کہ جب آپ نماز کے لیے تکبیر تحریم کہیں تو ہر مرتبہ جب بھی آپ تکبیر کہیں، نئی رکعت شروع کریں اور رکوع سے سر اٹھائیں۔ کیونکہ ہاتھوں کو بلند کرنا آپ کی نماز کا حصہ بھی ہے اور ہم تمام فرشتوں کی نماز کا حصہ ہے جو آسمانوں میں رہتے ہیں۔ کیونکہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔

نیز نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نماز میں ہاتھوں کا اٹھانا استکانہ (عاجزی اور خشوع و خضوع) سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: استکانہ کیا شئی ہے؟ ارشاد فرمایا: کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی:

فما استکانوا لربہم وما یتضرعون۔

پس انہوں نے اپنے رب کے آگے (خضوع) عاجزی کی اور نہ آہ و زاری کی۔

الاستکانہ خضوع ہے۔ ابن ابی حاتم، الضعفاء لابن حبان، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ، السنن للبیہقی

کلام:: بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی سند نہایت ضعیف ہے۔

جبکہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے۔ کنز العمال ج ۲ ص ۵۵۷

۴۷۲۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد باری تعالیٰ:

فصل لربک وانحر کے متعلق منقول ہے فرمایا (اس کا مطلب) نماز میں سیدھے ہاتھ کو بائیں بازو کے درمیان رکھ کر دونوں کو سینے پر

رکھنا ہے۔ بخاری فی تاریخہ، ابن حریز، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، الدار قطنی فی الافراد، ابوالقاسم، ابن مندہ فی الخشوع، ابوالشیخ، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی

سورۃ النصر

۴۷۲۳ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) ابن النجار اپنی تاریخ میں سند ذکر کرتے ہیں: ذاکر کامل النعال، وشریف ابوالقاسم علی بن ابراہیم علوی و محمد بن یونس اللہ بن احمد کفانی، عبد العزیز احمد کنانی، ابوالحسین احمد بن علی بن محمد دولاہی بغدادی خلال، قاضی ابو محمد عبداللہ بن محمد بن عبدالنظار بن احمد بن ذکوان، ابویقوب اسحاق بن عمار بن حمیش بن محمد بن حمیش، ابوبکر بن محمد ابراہیم بن مہدی، عبداللہ بن محمد بن ربیعہ قدامی، صالح بن مسم ابوالہاشم واسطی، عبداللہ بن عبید، محمد بن یوسف النزاری، بہل بن سعد کی سند سے مروی ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: جب یہ سورت نازل ہوئی: اذا جاء نصر اللہ والفتح تو گویا آپ کو آخرت کی طرف کوچ کرنے کی خبر سنا دی گئی۔ رواہ ابن النجار

فائدہ: یہ ایک بڑی حدیث کا آخری فقرہ ہے جو اوپر درج ہوا، اس سورت میں آپ ﷺ کو اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کا آخری وقت آن پہنچا ہے لہذا آپ ﷺ تسبیح و استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ دیکھئے بخاری ۲۲۰۶ بحوالہ کنز العمال ج ۲ ص ۵۵۸۔

۴۷۲۴ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے بدر کے اکابر صحابہ کے ساتھ شامل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا: آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ داخل کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ اس کے جتنے تو ہمارے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم (اچھی طرح) جانتے ہو۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے اور ان کو بلایا اور میرا خیال تھا کہ آپ نے ہم کو صرف اس لیے بلایا ہے تاکہ میری اہمیت ان پر بتلائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے: اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ پوری سورت تلاوت فرمائی

مہربان ہے۔ رواہ عبدالرزاق

۴۷۲۹ (ابوسعید الخدری) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی: اذا جاء نصر الله والفتح۔ تو رسول اکرم ﷺ نے یہ پوری سورت تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا: میں اور میرے اصحاب بہترین لوگ ہیں اور (اب مسلمان) لوگ خیر میں ہیں اور فتح کے بعد ہجرت نہیں رہی۔ ابو داؤد الطیالسی، ابو نعیمہ فی معرفۃ

۴۷۳۰ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی: اذا جاء نصر الله والفتح تو رسول اللہ ﷺ نے پوری سورت تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا: (سب مسلمان) لوگ خیر (کامر چشمہ) ہیں۔ اور میں اور میرے اصحاب (ان سے زیادہ) خیر (کاباعث) ہیں۔ نیز فرمایا: فتح (مکہ) کے بعد ہجرت نہیں۔ لیکن جہاد اور اچھی نیت ہے۔

مروان بن حکم خلیفہ جس کے سامنے حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی وہ بولا تم جھوٹ کہتے ہو۔ حضرت زید بن ثابت اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما جو تشریف فرما تھے بولے: اس نے سچ کہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد

۴۷۳۱ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی وفات سے قبل اکثر و بیشتر یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ کہنا شروع ہوئے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جعلت لی علامۃ لامتی اذا رأيتها قلتها: اذا جاء نصر الله والفتح۔

میرے لیے ان کلمات کی علامت مقرر کی گئی ہے کہ میں جب بھی اس سورت کو دیکھوں تو یہ کلمات پڑھوں۔ واللہ اعلم بمعناہ الصواب۔

رواہ ابن ابی شیبہ

سورۃ تبت (لہب)

۴۷۳۲ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں: میں مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ ﷺ کعبہ کے سامنے میں میرے سامنے تشریف فرما تھے۔ ابولہب کی بیوی جمیل بنت حرب بن امیہ آئی اس کے پاس دو پتھر بھی تھے۔

ابولہب کی بیوی ام جمیل کی ایذا رسانی

ام جمیل نے مجھ سے پوچھا: کیا ہے وہ شخص جس نے میری اور میرے شوہر کی برائی کی ہے؟ اللہ کی قسم! اگر میں اس کو دیکھ لوں تو ان دونوں پتھروں کے ساتھ اس کے حصیے پیس ڈالوں گی۔ (وہ حضور ﷺ کا پوچھ رہی تھی) اور اس سے پہلے سورۃ لہب تبت یہ ابی لہب نازل ہوئی تھی (جس میں ابولہب اور اس کی بیوی ہر لعنت کی گئی تھی) آخر کار میں نے اس کو کہا اے ام جمیل؟ اللہ کی قسم! اس نے تیری برائی کی ہے اور نہ تیرے شوہر کی۔ ام جمیل بولی: اللہ کی قسم! تو جھوٹا نہیں ہے۔ ویسے لوگ یہ کہہ رہے تھے۔ پھر وہ بیٹھ بھیر کر چلی گئی۔ میں نے (اس کے جانے کے بعد) عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے اور اس کے درمیان جبرئیل علیہ السلام حائل ہو گئے تھے۔

رواہ ابن مردویہ

۴۷۳۳ (الکلی عن ابی صالح) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: جب اللہ پاک نے یہ حکم نازل فرمایا:

وانذر عشیرتک الاقربین۔

اور اپنے رشتہ دار قبیلے (والوں) کو ڈرائیے۔ تو حضور ﷺ نکلے اور مروہ پہاڑی پر چڑھ کر آواز بلند کی: اے آل فہر! لہذا قریش کے لوگ نکل

آئے۔ ابولہب بن عبدالمطلب (آپ ﷺ کے چچا) نے کہا: یہ فہر آگئی ہے بولو! پھر آپ ﷺ نے آواز دی: اے آل غالب! الہذا بنی محارب بن فہر اور بنی حارث بن فہر کے لوگ لوٹ گئے۔ پھر آپ نے آواز دی: اے آل لوی بن غالب! الہذا بنی تیم ادرم بن غالب کے لوگ لوٹ گئے۔ پھر آپ ﷺ نے آواز دی: اے آل مرہ بن کعب! الہذا بنی عدی بن کعب، بنی سہم بن عمرو بن حصیص بن کعب بن لوی اور ان کے بھائی بند بنی نجح بن عمرو بن حصیص بن کعب بن لوی کے لوگ لوٹ کر چلے گئے۔ پھر آپ نے آواز دی: اے آل کلاب بن مرہ! الہذا بنی مخزوم بن یثظہ بن مرہ اور بنی تیم بن مرہ کے لوگ چلے گئے۔ پھر آپ ﷺ نے آواز دی: اے آل عبدالمناف! الہذا بنی عبدالدار بن قصی، بنی اسد بن عبدالمعزی بنی قصی اور بنی عبد بن قصی کے لوگ چلے گئے (اس طرح پوری قریش قوم میں سے تمام برادر یوں والے چھٹ چھٹ کر چلے گئے اور آپ ﷺ کے بالکل قریبی رشتہ دار بنی عبدالمناف رہ گئے) الہذا ابولہب آپ کے چچا بولے: یہ صرف عبدالمناف کے لوگ باقی رہ گئے ہیں کہیہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو (خدا سے) ڈراؤں۔ اور تم ہی قریش میں سے میرے قریب ترین رشتہ دار ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا کے کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ آخرت میں تم کو کچھ حصہ دلا سکتا ہوں۔ یہ کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ لو تو میں تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے اس کلمہ توحید کی گواہی دوں گا اور عرب تابع ہو جائیں گے اور تم تمہارے سامنے جھک جائیں گے۔

یہ سن کر ابولہب بولا: کیا تو نے اسی بات کے لیے ہم کو بلا یا تھا۔ تب اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی:

تبت ید اباہی لہب۔ اباہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ ارج۔ ابن سعد

سورة الاخلاص

۴۷۳۳ (ابی بن کعب) مشرکین نے حضور نبی کریم ﷺ کو کہا آپ ہمیں اپنے رب کا نسب بیان کریں (کہ وہ کسی کی اولاد ہے اور آگے اس کی اولاد کون ہے؟) تو اللہ پاک نے قل هو اللہ احد سورة اخلاص نازل فرمائی۔ مسند احمد، التاريخ للبخاری، ابن جریر، ابن خزیمہ، البغوی، ابن المنذر، الدارقطنی فی الافراد، ابو الشیخ فی العظمة، مستدرک الحاکم، البیہقی فی الاسماء والصفات

سورة الفلق

۴۷۳۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ارشاد فرمایا: الفلق جہنم کے گڑھے میں ایک کنواں ہے۔ جو ڈھکا ہوا ہے، جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو اس سے ایسی آگ نکلے گی تو جہنم بھی اس کی شدت سے چیخ پڑے گی۔ ابن ابی حاتم

المعوذتین

۴۷۳۶ (ابی بن کعب) حضرت زرارہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود معوذتین کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ عبد اللہ بن مسعود قرآن پاک سے ان کو مٹا دیتے ہیں۔ الہذا حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا: ہم نے ان دونوں سورتوں کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے سوال کیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے کہا گیا تھا کہو (یعنی ان سورتوں کو پڑھو) سو میں نے ان کو کہا۔ (حضرت ابی رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں پس میں بھی یوں ہی کہتا ہوں جیسا کہ آپ (ﷺ) نے کہا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں پس ہم بھی کہتے ہیں جیسے رسول اللہ ﷺ نے کہا۔

ابو داؤد الطیالسی، مسند احمد، الحمیدی، بخاری، مسلم، ابن حبان، الدارقطنی فی الافراد

فائدہ: یعنی نبی کریم ﷺ کو حکم ملا تھا کہ ان سورتوں کو پڑھو سو آپ نے ان کو پڑھا اور نماز میں بھی پڑھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں پس جیسے آپ ﷺ نے ان دونوں سورتوں سورہ فلق اور سورہ ناس کو نماز میں اور نماز سے باہر پڑھا ہم بھی پڑھتے ہیں۔

۲۷۳۷ حضرت زرارہ مروی ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے معوذتین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے (بھی) رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا تھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے کہا گیا تھا کہ کہو (یعنی ان سورتوں کو پڑھو) سو میں نے ان کو کہا۔ پھر حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: پس ہم بھی ان کو کہتے ہیں جیسے رسول اللہ ﷺ نے کہا۔ مسند احمد، بخاری، نسائی، ابن حبان

تفسیر کے بیان میں

۲۷۳۸ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا: حمد کو تو ہم جان گئے جیسے مخلوق ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہے (اسی طرح ہم کو اللہ کی تعریف کا حکم ہے) اسی طرح لا الہ الا اللہ کو بھی ہم جان گئے کہ اللہ کے سوا جن دوسرے معبودوں کی پرستش کی گئی (اس کلمہ میں ان کی عبادت سے ممانعت ہے) اور اللہ اکبر تو نمازی کو تہا ہی ہے۔ لیکن یہ سبحان اللہ کیا چیز ہے؟ حاضرین میں سے کسی نے کہا: اللہ اعلم اللہ زیادہ جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عمر بد بخت ہو اگر وہ جانتا نہ ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: یا امیر المؤمنین! یہ ایسا اسم ہے کہ کسی مخلوق کو جائز نہیں کہ اپنے لیے یا خدا کے سوا کسی کے لیے اس کو منسوب کرے۔ یہ اسم مخلوق کے لیے جائے پناہ ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اس کے لیے یہ اسم بولا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں یہ ہے اس کی حقیقت۔ ابن ماجہ فی تفسیرہ، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ

فائدہ: یوں کہنا جائز نہیں سبحان زید سبحان عمر وغیرہ وغیرہ۔

۲۷۳۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ارشاد فرمایا: یہود کہو یہود اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا: انساھنا الیک۔ ہم تیری راہ پر چلتے ہیں (اے اللہ!) پس بدنا سے ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم

جامع تفسیر

۲۷۴۰ (مسند علی رضی اللہ عنہ) ابو طفیل عامر بن واثلہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دوران خطبہ فرمایا: مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں سوال کرو۔ اللہ کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو کہ وہ دن میں نازل ہوئی ہے یا رات میں؟ حرم زمین پر نازل ہوئی ہے یا سخت پہاڑ پر۔ لہذا ابن الکواء کھڑے ہوئے اور عرض کیا: یا امیر المؤمنین الذاریات ذرواً فرمایا فقہا سوال کرو تعیناً نہیں۔ (یعنی جن آیات کا تعلق مسائل و احکام سے ہو ان کا سوال کرو نہ کہ جو آیات تشابہات ہیں اور ان کی صحیح حقیقت خدا ہی کو معلوم ہے اپنی سرکش اور غیر فید علم بدھوتی کے لیے ان کا سوال نہ کرو) پھر فرمایا: یہ ہوا میں ہیں (اس کے بعد اگلی آیات کا معنی بھی خود ہی بیان فرمادیا) فالحاملات و قراً سے مراد بادل ہیں العجاریات یسواً سے مراد کشتیاں ہیں۔ فالقسمات امرأ سے مراد ملائکہ ہیں۔ پھر ابن الکواء نے (ایسا ہی ایک سوال اور) پوچھا: چاند میں جو سیاہی ہے وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے (پہلے تنبیہاً) فرمایا: اندھا اندھے پن کے بارے میں سوال کر رہا ہے۔ (جس کی اس کو ضرورت نہیں پھر فرمایا: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة - الاسراء: ۱۲

اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیایں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ نے رات کی نشانی جو مٹائی ہے وہی چاند کی سیاہی ہے۔

پھر ابن الکواء نے پوچھا: ذوالقرنین نبی تھے یا بادشاہ؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: دونوں میں سے کچھ نہ تھے۔ اللہ کے ایک بندے تھے اللہ سے محبت کی تو اللہ نے بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ کے لیے اخلاص کو اپنایا تو اللہ نے ان کو اپنا مخلص اور سچا بندہ بنا لیا۔ پھر اللہ نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ انہوں نے آپ کے سر کے دائیں طرف کسی چیز کے ساتھ وار کیا۔ پھر وہ جتنا عرصہ اللہ نے چاہا یوں ہی رہے۔ پھر اللہ نے ان کو اپنی قوم کی طرف (دوبارہ) بھیجا۔ انہوں نے (دوبارہ) آپ کے سر کے بائیں طرف کسی چیز کا وار کر کے ضرب ماری۔ (جس کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا) اور ان کے دو سینگ نہ تھے بل کی طرح۔

ابن الکواء نے دریافت کیا: یہ تو س قزح کیا ہے؟ (جو برسات کے دنوں میں آسمان پر رنگ پر رنگ برنگ نکلتی ہے) فرمایا: یہ نوح علیہ السلام اور ان کے پروردگار کے درمیان ایک علامت مقرر ہوئی تھی جو غرق ہونے سے امان کی علامت ہے۔

ابن الکواء نے پوچھا: بیت معمور کیا ہے؟ فرمایا: یہ ساتویں آسمان کے اوپر اور عرش کے نیچے اللہ کا گھر ہے۔ جس کو صراح کہا جاتا ہے (یعنی خالص اللہ کا گھر) ہر دن اس میں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر قیامت تک انکی باری کبھی نہیں آتی۔

ابن الکواء نے پوچھا: وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا؟ فرمایا: وہ قریش کے فاجر لوگ ہیں جن کا بدر کے دن قلع قمع ہو گیا تھا۔

ابن الکواء نے پوچھا: وہ کون لوگ ہیں جن کی سعی دنیا کی زندگانی میں ناکام ہو گئی اور وہ گمان کرتے رہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: (فرقہ) حرور یہ ہے لوگ انہیں میں سے ہیں۔ ابن الاثیر فی المصاحف، ابن عبدالبر فی العلم فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

الذین بدلوا نعمة الله كفراً واحلوا قومهم دار البوار۔

جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔
نیز فرمان الہی ہے:

الذین ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔

وہ لوگ جن کی سعی دنیاوی زندگانی میں بے کار ہو گئی اور وہ گمان کرتے رہے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں۔

پہلی آیت سے مراد کفار قریش ہیں جن کے جگر پارے جنگ بدر میں مارے گئے تھے، اور دوسری آیت میں فرقہ حرور یہ اور تمام گمراہ فرقے شامل ہیں۔ حروراء کوفہ کے قریب ایک جگہ کا نام تھا جہاں اس فریقے کے سرغنہ لوگوں نے پہلی مجلس کی۔ اسی کی طرف پھر ان کے پیروکاروں کو منسوب کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔

باب..... تفسیر کے ملححات کے بیان میں

منسوخ القرآن آیات

۴۷۴۱ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو فرمایا: کیا بات ہے ہم نازل ہونے والے قرآن میں یہ آیت نہیں پاتے: جاہدوا کما جاہدتم اول مرة۔ جہاد کرو جیسے تم نے پہلی بار جہاد کیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ساقط ہو گئی ساقط ہونے والے حصوں کے ساتھ۔ (ابوعبید) ملاحظہ فرمائیں اسی جلد میں روایت نمبر ۴۵۵۱۔

۴۷۴۲ (ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) ابی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ تم کو

قرآن پڑھ کر سناؤں۔ پھر آپ ﷺ نے ”لم یکن“ (یعنی سورہ تنبیہ) تلاوت فرمائی اور یہ آیات تلاوت فرمائیں:

ان ذات الدین عند اللہ الحنیفیة لا المشرکة ولا اليهودیة ولا النصرانیة ومن یعمل خیراً فلن ینکفره۔
اللہ کے ہاں (خالص) دین (ملت) حنیفیہ ہے۔ نہ شرک پرستی اور نہ یہودیت اور نہ ہی نصرانیت۔ اور جو نیک عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کے نیک عمل کی نافرمانی نہ فرمائے گا۔

اور آپ ﷺ نے ابی رضی اللہ عنہ کو یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی:

لو کان لابن آدم وادلا بتغی الیہ ثانیاً ولو اعطی الیہ ثانیاً لا بتغی الیہ ثالثاً ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب۔

اگر ابن آدم کے پاس (سونے کی) ایک وادی ہو تو وہ دوسرے وادی حاصل کرنا چاہے گا اور اگر اس کے پاس دو وادی ہوں تو وہ تیسری وادی حاصل کرنے کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کے پیٹ کو تو (قبر کی) مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور اللہ پاک توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔

ابوداؤد الطیالسی، مسند احمد، ترمذی، حسن صحیح، مستدرک الحاکم، السنن لسعید بن منصور

۴۷۴۳ حضرت زرارہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

اے زرارہ تم سورہ الاحزاب میں کتنی آیات پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا: بہتر آیات ارشاد فرمایا: پہلے یہ سورہ بقرہ جیسی (لمبی) سورت تھی۔ (سورہ بقرہ میں کئی سو آیات ہیں) اور اس میں ہم آیت الرجیم بھی پڑھتے تھے۔

دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں: اور سورہ احزاب کے آخر میں یہ آیت الرجیم تھی:

الشیخ والشیخة اذا زنیاً فارجموہما البتة نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔

بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت (یعنی ہر شادی شدہ مرد و عورت) جب زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔

حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر یہ آیت اٹھالی گئیں جس طرح دیگر آیات اٹھالی گئیں۔

عبدالرزاق، ابوداؤد الطیالسی، السنن لسعید بن منصور، مسند عبد اللہ بن احمد بن حنبل، ابن منیع، نسائی، ابن جریر، ابن المنذر، ابن الانباری فی المصاحف، الدارقطنی فی الافراد، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ

۴۷۴۴ مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی:

ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشۃ وساء سبیلاً الامن تاب فان اللہ کان غفوراً رحیماً۔

(جبکہ الامن تاب فان اللہ کان غفوراً رحیماً بعد میں قرآن پاک میں نہیں رہا) لہذا یہ بات امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب کو ذکری گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور اس آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا: میں نے یہ آیت رسول اللہ ﷺ کے منہ سے سنی تھی جس وقت آپ کو بیچ میں تالی پینے کے علاوہ اور کوئی کام نہ تھا۔ مسند ابی یعلیٰ، ابن مردویہ

۴۷۴۵ ابوداؤد بن خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ سورہ فتح کی یہ آیات یوں پڑھتے تھے:

اذ جعل الذین کفروا قلوبہم الحمیة حمیة الجاہلیة ولو حمیتہم کما حمو نفسہم لفسد المسجد الحرام فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ۔

(جبکہ آیت ولو حمیتہم کما حمو نفسہم لفسد المسجد الحرام منسوخ التلاوت ہو چکی ہے جس کا معنی ہے: اور اگر تم (بھی) کافروں کی طرح جاہلیت کی حمایت کرتے جیسے انہوں نے اپنی کی تو مسجد حرام خراب ہو جاتی جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابی رضی اللہ عنہ پر سخت غصہ آیا۔ چنانچہ کسی کو بھیج کر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو بلاوا۔ وہ تشریف لے آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیگر چند اصحاب رسول اللہ ﷺ کو بھی بلایا جن میں زید بن ثابت بھی تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم میں سے کون ہے جو سورہ الفتح

پڑھ کر سنائے گا؟ لہذا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آج کی قراءت کے مطابق سورۃ الفتح کی تلاوت کی۔ لہذا (حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آیت کو اس میں بھی نہ پا کر) ان پر مزید غصہ ہوئے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یوں بولو: حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آپ جانتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے اپنے قریب رکھتے تھے جبکہ آپ تو دروازے پر ٹھہرے رہتے تھے۔ لہذا اگر آپ جانتے ہیں کہ میں لوگوں کو اسی طرح پڑھاؤں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے تو ٹھیک ہے میں پڑھاؤں گا۔ ورنہ میں تازندگی ایک حرف بھی کسی کو نہیں پڑھاؤں گا۔ نسائی، ابن ابی داؤد فی المصاحف، مستدرک الحاکم

فائدہ: حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو غالباً ان آیات کے منسوخ ہونے کا علم نہ تھا اسی وجہ سے حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے ان آیات کو بھی قرآن کے ساتھ پڑھتے تھے۔ کیونکہ آخری دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ کچھ آیات کو منسوخ فرمایا اور دیگر احکام میں رد و بدل فرمایا جیسا کہ روایت نمبر ۲۵۷۲ میں گذر چکا۔ لہذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خلفاء راشدین کے زمانہ میں قرآن جمع کیا اور شہادتوں کے ساتھ کیا۔ جس آیت پر کم از کم دو صحابہ شہادت دیتے تھے اسی کو قرآن کا حصہ بنا کر لکھا جاتا تھا۔ اس کوشش سے وہ قرآن جس کو پڑھا جانے کا حکم تھا وجود میں آیا اور قرآن کے منسوخ التلاوت حصص نکال دیئے گئے، جیسا کہ سورۃ الاحزاب کے متعلق روایت نمبر ۲۷۳۳ میں حضرت ابی رضی اللہ عنہ ہی کا ارشاد گذر چکا ہے۔

لہذا حضرت ابی رضی اللہ عنہ بعد میں جن آیات کے قرآن ہونے پر مصر رہے جبکہ دیگر صحابہ کرام ان کے منسوخ ہونے کے قائل تھے تو زیادہ قریب قیاس تو جیہ ہی ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو بعد کے نسخ کا علم نہ ہو سکا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

۲۷۳۶ حضرت بحالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک نوجوان پر گذر ہوا وہ قرآن دیکھ کر پڑھ رہا تھا:

النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجه امہاتہم وھواب لہم۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنین کے والی ہیں ان کی جانوں سے زیادہ اور آپ کی بیویاں مؤمنین کی باتیں ہیں اور آپ ان کے باپ ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے لڑکے! اس کو کھرچ دے۔ لڑکا بولا: یہ ابی رضی اللہ عنہ کا صحف (قرآن) شریف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے اس کے بارے میں سوال کیا انہوں نے عرض کیا: مجھے تو قرآن مشغول رکھتا تھا اور

آپ کو بازاروں میں تالے پیٹنے سے فرصت نہ تھی۔ السنن لسعید بن منصور، مستدرک الحاکم

فائدہ: وھواب لہم یہ منسوخ التلاوت آیت ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ بھی اکابر صحابہ میں شامل تھے۔ ان کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عنہ کو یہ الفاظ کہنا آپس کی بے لکھی کی وجہ سے تھا۔ آپ کے کہنے کا مقصد تھا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر اوقات گزارتا تھا جبکہ آپ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے تھے۔ درحقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ باری طے کر لی تھی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انصاری حاضر ہوتا تھا دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضری کا شرف حاصل کرتے تھے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

۲۷۳۷ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر خدمت تھا۔ میں نے یہ آیات تلاوت کیں:

لو کان لا بن آدم وادیان من ذھب لا بتغی الثالث ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب

اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادی ہوں تو وہ تیسری وادی کی خواہش رکھے گا اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی

اور جو توبہ کرے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: مجھے ابی رضی اللہ عنہ نے یہ پڑھایا ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پڑھی ہوئی آیت کے متعلق سوال کی تو انہوں نے

فرمایا: مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح پڑھایا تھا۔ مسند احمد، ابو عوانہ، السنن لسعید بن منصور

نزول القرآن

۴۷۴۸ (ابن عباس رضی اللہ عنہ) علی بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے رمضان کی دو راتوں میں نازل ہوئے، زبور داؤد علیہ السلام پر (رمضان کی) چھ (راتوں) میں نازل ہوئی۔ تو رات موسیٰ علیہ السلام پر رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو نازل ہوئی اور فرقان حمید محمد (ﷺ) پر رمضان چوبیس تاریخ کو نازل ہوا۔

رواہ مستدرک الحاکم

فائدہ:..... مکمل قرآن پاک لوح محفوظ سے چوبیس رمضان کو نازل ہوا جبکہ حضور ﷺ پر تقریباً تیس سال کے عرصہ میں ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔

۴۷۴۹ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو عرض کیا: (کیا) نبی ﷺ پر مکہ میں دس سال اور مدینہ میں دس سال قرآن نازل ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ کون کہتا ہے کہ مکہ میں دس سال اور کل پینسٹھ سال قرآن نازل ہوتا رہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۷۵۰ (عائشہ رضی اللہ عنہا) ابوسلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مکہ میں (بعثت کے بعد) دس ٹھہرے اور آپ پر قرآن نازل ہوتا رہا اور مدینہ میں دس سال قرآن نازل ہوتا رہا۔ مصنف ابن ابی شیبہ

جمع القرآن

۴۷۵۱ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اہل یمامہ کے قتال کے بعد بلایا۔ میں پہنچا تو آپ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے (حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے) فرمایا: یہ میرے پاس آئے اور مجھ سے نقل (ہو جانے والے صحابہ) کے متعلق بات چیت کی کہ یمامہ کی جنگ میں بہت سے قرآن کے قاری شہید ہو گئے ہیں۔ نیز یہ کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں دوسری جنگوں میں قرآن کے تمام قاری شہید نہ ہو جائیں۔ اور یوں قرآن ضائع ہو جائے لہذا میرا خیال ہے کہ ہم قرآن کو جمع کر لیں۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بتا چکے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے پوچھا: ہم وہ کام کیسے کریں جو رسول اللہ ﷺ نے نہیں کیا؛ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اسی میں خیر ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل مجھ پر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشرّف صدر ہو چکا تھا۔ اور جو رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی وہی رائے اس کام میں میری بھی پختہ ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ بات چیت نہ فرما رہے تھے پھر انہوں نے ہی مجھے ارشاد فرمایا: تم عقل مند نو جوان ہو، ہم کو تم پر کسی طرح کی تہمت (اور الزام بھی) نہیں ہے اور تم رسول اللہ ﷺ کے لیے وحی بھی لکھتے رہے ہو۔ لہذا تم ہی اس کو جمع کرو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! اگر یہ مجھے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کے منتقل کرنے کا حکم دیتے تو وہ مجھ پر قرآن جمع کرنے سے بھاری نہ ہوتا۔ پھر میں نے عرض کیا: آپ لوگ ایسا کام کیسے کر رہے ہیں جو حضور ﷺ نے نہیں کیا۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا: اللہ کی قسم! اسی میں خیر ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی مسلسل اصرار فرماتے رہے حتیٰ کہ اللہ پاک نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شرح صدر فرمادیا تھا اور میں نے بھی

یہی رائے قائم کر لی۔ چنانچہ میں نے مختلف چیزوں کے ٹکڑوں، پتھروں، بڈیوں جن پر قرآن لکھا تھا اور لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک جمع کرنا شروع کیا۔ حتیٰ کہ میں نے سورہ براءت کا آخری حصہ خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پایا۔ ان کے علاوہ کسی کے پاس میں نے یہ آیات نہیں پائیں۔

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه

آخر جن صحیفوں میں قرآن پاک جمع کر لیا گیا وہ صحیفے (پلندے) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی تک انہی کے پاس رہے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے ان کو وفات دیدی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی وفات تک یہ صحیفے رہے، پھر ان کی وفات بھی ہو گئی۔ پھر یہ صحیفے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ ابو داؤد الطیالسی، ابن سعد، مسند احمد، بخاری، العدنی، ترمذی، نسائی، ابن حوزیر

ابن ابی داؤد فی المصاحف، ابن المنذر، ابن حبان، الکبیر للطبرانی، السنن للبیہقی

۴۷۵۲ حضرت حفصہ سے مروی ہے فرمایا: سب سے پہلے جس شخص نے قرآن جمع کیا اور کلام کو وارث قرار دیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

مصنف ابن ابی شیبہ

سلسلہ کتب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی جامع القرآن ہیں

فائدہ: یعنی جمع قرآن کا سلسلہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ کلام کو وارث بنایا۔ کلام کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس کا والد ہونے والا نہ ہو اس کے مال کی وارث بن سکے۔ بلکہ اس کے قریبی رشتہ دار اس کے بن جائیں اور وہ رشتہ دار کلام کہلا سکیں گے اور مرنے والا بھی اور یہ مال بھی کلام ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کلام کو وارث بنایا اس کا مطلب ہے ان کے زمانہ میں کوئی کلام شخص وفات کر گیا لہذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے دوسرے رشتہ داروں کو اس کی وراثت سونپ دی۔

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. البخ: النساء: ۱۷۶

کلام کے فقہی مسائل مذکورہ آیت کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

۴۷۵۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا: مصاحف کے اندر سب سے زیادہ اجر کے مستحق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی نے قرآن پاک کو دو تختیوں کے درمیان جمع کیا۔

ابن سعد، مسند ابی یعلیٰ، ابن نعیم فی المعرفة، حیشمہ فی فضائل الصحابہ فی المصاحف وابن المبارک معاً بسند حدیث

۴۷۵۴ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ جب اکثر قراء قرآن شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے۔ لہذا انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا: تم دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ جو تمہارا۔

پاس کتاب اللہ کا کوئی حصہ دو گواہوں کے ساتھ لے کر آئے اس کو لکھ لو۔ ابن ابی فی المصاحف

۴۷۵۵ ابن شہاب روایت کرتے ہیں سالم بن عبد اللہ اور خارجہ رحمہما اللہ سے کہ:

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو کاغذوں میں جمع کیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کے دیکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے پے

توانکار کیا لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مدد کے ساتھ اس کام کو کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ (قرآن جمع ہونے کے بعد اس کے اوراق حضرت

ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ پھر ان کی وفات ہو گئی۔ آپ کے بعد وہ اوراق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ

وفات کے بعد وہ اوراق حضور ﷺ کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ

منگوائے تو آپ نے دیئے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو وعدہ دیا کہ یہ اوراق ان کو واپس کر دیئے جائیں گے۔

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ اوراق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر قرآن پاک کے دوسرے

تیار کرائے پھر اصل اوراق حضرت حفصہ کو واپس کر دیئے۔ اور یہ اوراق حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی رہے۔

امام زہری فرماتے ہیں: مجھے سالم بن عبد اللہ نے خبر دی کہ (خلیفہ) مروان نے پارہا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس اوراق کے لیے پیغام بھجوئے جن میں قرآن لکھا ہوا تھا۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا مسلسل انکار کرتی رہیں۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی (اور یہ اوراق آپ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے) جب ہم حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تدفین سے فارغ ہوئے تو مروان نے بہت تاکید اور سختی کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیج کر وہ اوراق منگوائے۔ لہذا حضرت عبد اللہ نے وہ اوراق خلیفہ مروان کو بھیج دیئے۔ پھر مروان کے حکم سے ان کو پھاڑ کر شہید کر دیا گیا۔ اور اس کی وجہ بیان کی کہ ان اوراق میں جو کچھ قرآن تھا وہ دوسرے نسخوں میں لکھ دیا گیا ہے اور اس کو حفظ بھی کر لیا گیا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد لوگ شک میں مبتلا ہوں گے اور کہیں گے شاید ان نسخوں میں کوئی چیز لکھنے سے روٹی ہے۔ رواہ ابن ابی داؤد

۴۷۵۶ ہشام بن عروہ اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل یمامہ قتل ہو گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاؤ۔ جس جو شخص قرآن کا کوئی حصہ لے کر آئے اور تم اس کو انکار کرتے ہو لیکن اس پر دو گواہ پیش کر دے تو تم اس کو لکھ لو۔ کیونکہ یمامہ کی جنگ میں بہت سے اصحاب رسول اللہ ﷺ جو قرآن جمع کرنے والے تھے شہید ہو گئے ہیں۔ ابن سعد، مستدرک الحاکم

۴۷۵۷ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اس وقت تک جمع قرآن کا کام مکمل نہ ہوا تھا۔ ابن سعد

۴۷۵۸ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں (لوگوں سے) پوچھا: کسی نے کہا: وہ تو فلاں شخص کے پاس بھی جو جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان اللہ پر بھی اور قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ پس مصحف (یعنی نسخے) میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی قرآن جمع کر لیا۔ ابن ابی داؤد فی المصاحف فائدہ: اس آیت کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دریافت فرمانا اور پھر صحابہ کو اس کا علم نہ ہونا کہ فلاں کے پاس ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کو وہ آیت یاد تھی۔ شہید ہونے والے صحابی کے پاس کسی شیئی پر لکھی ہوئی تھی۔ اس لیے یہ منفی خیال مسترد ہے کہ جب وہ صحابی شہید ہو گئے تو پھر وہ آیت ضائع ہو گئی اور قرآن میں نہیں لکھی گئی۔ نیز اس روایت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ دور صدیقی میں جمع قرآن کا کام مکمل نہ ہوا تھا۔ جیسا کہ اس روایت سے گذشتہ روایت میں محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحتاً ارشاد فرمادیا۔

۴۷۵۹ یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ لہذا آپ لوگوں کے بیچ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: جس شخص نے رسول اللہ ﷺ سے قرآن کا کچھ حصہ حاصل کیا ہو وہ اس کو لے کر ہمارے پاس آجائے۔

لوگوں نے قرآن پاک کاغذوں، تختیوں اور ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی سے کوئی آیت یا سورت وغیرہ اس وقت تک قبول نہ فرماتے تھے جب تک وہ اس پر دو گواہ پیش نہ کر دے۔ لیکن ہنوز یہ کام تکمیل کو نہ پہنچا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ (اپنی خلافت میں) کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: جس کے پاس کتاب اللہ کی کوئی چیز ہو وہ اسے لے کر ہمارے پاس آجائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی کسی سے کوئی چیز قبول نہ فرماتے تھے تا وقتیکہ وہ اس پر دو گواہ پیش کر دے۔ آخر میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عرض کیا: میں دیکھتا ہوں کہ آلوگوں نے دو آیتیں لکھنے سے چھوڑ دی ہیں۔ (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے لکھنے والے رفقاء نے) کہا: وہ کونسی دو آیتیں ہیں؟ خزیمہ نے عرض کیا:

لقد جاءكم رسول من انفسكم الى آخر السورة۔ برأت

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں تمہارا کیا خیال ہے قرآن کے کس حصے

میں ان کو کھیں (جہاں حضور ﷺ ان کو رکھتے ہوں) خزیمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آپ کسی بھی سورت کے آخر میں ان کو رکھ دیں۔ چنانچہ پھر سورہ براءت کے آخر میں ان دو آیات کو رکھ دیا۔ ابن ابی داؤد، ابن عساکر ۴۷۶۰۔ عبد اللہ بن فضالہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک لکھنے کا ارادہ فرمایا تو چند اصحاب کو اس پر مامور کر کے فرمایا: جب تمہارا لغت میں اختلاف ہو جائے تو لغت مضر میں اس کو لکھو، کیونکہ قرآن مضر ہی کے ایک شخص پر نازل ہوا تھا۔ رواہ ابن ابی داؤد

فائدہ:..... مضر اور ربیعہ عرب کے دو بڑے قبیلے تھے۔ حضور ﷺ سے تعلق رکھتے تھے۔

۴۷۶۱۔ جابر بن سمیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ہمارے ان مصاحف میں (قرآن پاک کا) الاماء قریش کے جوان کروائیں یا پھر ثقیف کے جوان۔ ابو عبیدہ فی فضائلہ، ابن ابی داؤد نوٹ:..... ۳۱۰۶ پر یہی روایت گزر چکی ہے۔

۴۷۶۲۔ سلیمان بن ارقم روایت کرتے ہیں حسن، ابن سیرین اور ابن شہاب (الزہری) سے اور زہران میں سب سے زیادہ حدیث جاننے والے تھے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں:

جنگ یمامہ میں چار سو قراء شہید ہوئے

جنگ یمامہ میں جب قراء قرآن قتل ہو گئے جو لگ بھگ چار سو افراد تھے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان کو عرض کیا: یہ قرآن ہمارے دین کو جمع کرنے والا ہے، اگر یہ قرآن ہی ضائع ہو گیا تو ہمارا دین ہی ضائع ہو جائے گا۔ لہذا میں نے پختہ ارادہ کیا ہے کہ پورا قرآن ایک کتاب میں جمع کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اچھا! انتظار کرو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان کو اس خیال سے آگاہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم دونوں غلط نہ کرو۔ حتیٰ کہ میں مسلمانوں سے مشورہ کر لوں۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمانے کے واسطے کھڑے ہوئے اور ان کو اس بات کی اہمیت روشناس کرائی۔ لوگوں نے کہا: آپ نے ٹھیک سوچا ہے۔ چنانچہ جمع قرآن کا کام شروع ہوا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس قرآن کا کوئی حصہ ہو وہ لے آئے۔ حضور ﷺ کی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے لگیں: جب تم اس آیت: حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطیٰ تک پہنچو تو مجھے خبر دیدینا۔ جب وہ لکھتے لکھتے اس مقام پر پہنچے تو (انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہا کو خبر دی) حضرت حفصہ نے فرمایا: لکھو: و الصلوة الوسطیٰ وہی صلاة العصر۔ یعنی درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ کو فرمایا: کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ حفصہ نے عرض کیا: نہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! یہی کوئی چیز قرآن میں داخل نہیں کی جائے گی، جس پر ایک عورت شہادت دے اور وہ بھی بغیر دلیل کے۔ اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لکھو:

والعصر ان الانسان لفي خسر وانه فيه الى آخر الدهر۔

قسم زمانہ کی انسان خسارے میں ہیں۔ العصر

اور وہ اس آخر زمانہ تک مبتلا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس عربی دیہاتیت کو ہم سے دور رکھو۔ ابن الانباری فی المصاحف

فائدہ:..... یہ حضرات تفسیری نکات کو قرآن پاک میں لکھوانا چاہتے تھے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے تردید فرمائی۔ رضی اللہ

عنہم اجمعین۔

۴۷۶۳۔۔۔ محمد بن سیف سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت حسن (بصری) سے پوچھا: کہ یہ کیسا قرآن ہے جس میں نطقے لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا: کیا تم کو عمر بن خطاب کا مراسلہ نہیں پہنچا کہ دین میں فقہ (سمجھ بوجھ) حاصل کرو، خوب کی تعبیر اچھی دو۔ اور عربیت سیکھو۔

ابو عبیدہ فی فضائلہ، ابن ابی داؤد

جمع قرآن میں احتیاط اور اہتمام

فائدہ:۔۔۔۔۔ پہلے جن مختلف چیزوں پر قرآن لکھا ہوا تھا اس قرآن میں نقطوں کے ساتھ الفاظ کی شکل نہ تھی۔ پھر جمع قرآن کے دوران الفاظ کو نقطوں کے ساتھ لکھا گیا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کا املاء قریشی یا یثربی نوجوان کروائیں۔ لیکن اس جمع قرآن میں بھی نطقے تو لگا دیئے گئے تھے لیکن اعراب (زبر زیر) وغیرہ نہیں تھے بعد میں اموی دور میں حجاج بن یوسف کی زیر نگرانی اعراب کا کام تکمیل کو پہنچا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۴۷۶۴۔۔۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں لقد جاء کم رسول من انفسکم الی آخر السورۃ آیت لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت زید نے پوچھا تمہارے ساتھ اور گواہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا: نہیں، اللہ کی قسم! اور کوئی گواہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ان کے ساتھ اس پر شہادت دیتا ہوں۔ (اور اس پر گواہ بننا ہوں)۔

۴۷۶۵۔۔۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے دور میں پانچ انصاری صحابہ نے قرآن جمع کیا: معاذ بن جبل، عبادۃ بن صامت، ابی بن کعب، ابو ایوب اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا تو زید بن ابی سفیان نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا:

اہل شام بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان کی آل اولاد بھی کثیر ہو گئی ہے اور یہ لوگ تمام شہروں میں بھر گئے ہیں اور ان کو ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے جو ان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ لہذا اے امیر المؤمنین ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی مدد فرمائیں جو ان کو قرآن وغیرہ کی تعلیم دیں۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان مذکورہ پانچ افراد کو بلا لیا۔ اور فرمایا: تمہارے شامی بھائیوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے کہ میں ان کو قرآن سکھانے کے اور زین کی تعلیم دینے کے لیے کچھ افراد مہیا کروں۔

لہذا اللہ تم پر رحم کرے تم میں سے تین افراد اس کام میں میری مدد کریں۔ اگر تم چاہو تو قرع اندازی کرو اور اگر چاہو تو خوشی سے تین افراد نکل پڑو۔ ان حضرات نے جواب دیا: ہم قرع اندازی نہیں کرتے۔ یہ ابوب رضی اللہ عنہ تو بوڑھے ہو گئے ہیں اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیمار ہیں لہذا معاذ بن جبل، عبادۃ بن صامت اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نکلنے پر آمادہ ہو گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: جمص کے شہر سے ابتداء کرو۔ تم لوگوں کو مختلف طبیعتوں پر پانچ گنے کچھ لوگ تو جلد تعلیم سمجھنے والے ہوں گے، پس جب تم دیکھو کہ لوگ آسانی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ایک شخص ان کے پاس ٹھہر جائے اور ایک دمشق نکل جائے اور دوسرا فلسطین نکل جائے۔

چنانچہ یہ تین حضرات جمص تشریف لائے۔ اور اتنا عرصہ وہاں رہے کہ ان لوگوں کی تعلیم پراطمینان ہو گیا پھر حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ تو وہیں ٹھہر گئے اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دمشق کی طرف نکل گئے۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین کوچ کر گئے۔ بعد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وہیں عمواس کے طاعون میں وفات پا گئے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ (جو جمص میں تھے حضرت معاذ کی وفات کے بعد) فلسطین گئے اور وہیں وفات پائی اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دمشق ہی رہے اور وہیں وفات پائی۔ ابن سعد، مستدرک الحاکم

۴۷۶۶۔ یحییٰ بن جعدہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتاب اللہ کی کوئی آیت قبول نہ فرماتے تھے جب تک اس پر دو شاہد شاہدی نہ دیدیں۔ چنانچہ ایک انصاری (صحابی) دو آیات لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا: میں تم سے اس پر تمہارے علاوہ کسی اور کی شاہدی کا سوال نہیں کروں گا۔

لقد جاءكم رسول من انفسكم سے آخر سورت تک۔ ہرات مستدرک الحاکم

۴۷۶۷۔ ابواسحاق اپنے بعض اصحاب سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قرآن جمع کرنے کا کام شروع فرمایا تو پوچھا: اعراب الناس (سب سے زیادہ فصیح اللسان) کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا سعید بن العاص رضی اللہ عنہ۔ پھر پوچھا: اکتب الناس (سب سے زیادہ اچھا لکھنے والا) کون شخص ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا کہ سعید الملاء (بولتے) جائیں اور زید لکھتے جائیں۔ پھر ان حضرات نے چار مصاحف (قرآن پاک کے چار نسخے) لکھے۔ ایک کوفہ بھیجا گیا، ایک بصرہ، ایک شام اور ایک جاز مقدس میں رکھا گیا۔ ابن الانباری فی المصاحف

۴۷۶۸۔ اسماعیل بن عیاش عن عمر بن محمد بن زید عن ابيہ۔ عیاش کہتے ہیں انصاری لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور عرض کیا: ہم ایک مصحف میں قرآن پاک جمع کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا تمہاری قوم کی زبان میں کچھ غلطی ہے اور مجھے ناپسند ہے کہ تم قرآن میں کوئی غلطی کر بیٹھو حالانکہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ ان کے اوپر تھے۔

فائدہ:..... ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابی رضی اللہ عنہ ہم میں بڑے قاری ہیں لیکن ابی کی لحن (غلطی) کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کے منہ سے قرآن حاصل کیا ہے۔ صحیح البخاری ۲۳۰/۶

۴۷۶۹۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: ہم یہ آیت پڑھا کرتے تھے:

الشیخ والشیخۃ فارجموا۔

خليفة مروان نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو کہا: اے زید! کیا ہم اس کو (قرآن پاک میں) نہ لکھ لیں؟ فرمایا نہیں۔ کیونکہ ہمارے درمیان بھی اس پر بات چیت ہوئی تھی ہمارے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے فرمایا: میں تمہاری حاجت پوری کر دیتا ہوں۔ ہم نے پوچھا: وہ کیسے؟ فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر اس کے متعلق پوچھتا ہوں۔ لہذا انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے آیۃ الرجم لکھوادیتے حضور ﷺ نے انکار فرمادیا اور فرمایا: میں اب ایسا نہیں کر سکتا۔

العدنی، نسائی، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی، السنن لسعید بن منصور،

آیات کی ترتیب توفیقی ہے

۴۷۷۰۔ (مسند عثمان رضی اللہ عنہ) ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: تم نے سورۃ انفال جو سو سے کم آیات والی ہے اور سورۃ توبہ جو سو سے اوپر والی ہے دونوں کو باہم ملا دیا؟ اور دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی؟ اور یوں ان دونوں کو اوسع الطوال (سات بڑی سورتوں) میں سے ایک کر دیا۔ اس کی کیا وجہ سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا:

حضور ﷺ پر مختلف تعداد کی آیات پر مشتمل سورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں جب آپ پر کوئی بھی آیت نازل ہوئی ہوتی تھی آپ کسی کا تب کو بلاتے اور فرماتے اس کو فلاں سورت میں جس میں ان چیزوں کا بیان ہے رکھ دو۔ اسی طرح زیادہ آیات نازل ہوتی تب بھی کسی کو بلاتے اور فرماتے ان کو فلاں فلاں مضمون والی سورت میں رکھ دو۔ سورۃ انفال مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سب سے پہلی سورت تھی۔ اور سورۃ ہرات قرآن میں آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے تھی۔

سورہ براءت کے مضامین بھی سورہ انفال کے مشابہ تھے۔ لہذا میں سمجھا کہ براءت بھی انفال کا حصہ ہے۔ اسی دوران رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور آپ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ اس کا تعلق انفال سے ہے۔ اس وجہ سے میں نے دونوں کو ملا دیا اور دونوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھی۔ اور ان دونوں کو (ایک کر کے) سات بڑی سورتوں میں شامل کر دیا۔

ابو سعید فی فضائلہ، ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن المنذر، ابن ابی داؤد، ابن الانباری معافی المصاحف،

النحاس فی ناسخہ، صحیح ابن حبان، ابونعیم فی المعرفة، ابن مردویہ، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی، السنن لسعید بن منصور ۴۷۷۱۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں سورہ انفال اور سورہ توبہ کو قریشین (دوسرا) کا نام دیا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ان دونوں کو (ایک کر کے) سات بڑی سورتوں میں شامل کر دیا۔

ابو جعفر النحاس فی ناسخہ، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی، السنن لسعید بن منصور ۴۷۷۲۔ عسکس بن سلامہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! کیا بات ہے سورہ انفال اور سورہ براءت کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا: سورہ نازل ہوتی رہتی تھی حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی پس جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی تو دوسری سورت شروع ہو جاتی تھی۔ لہذا سورہ انفال نازل ہوئی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔

الدارقطنی فی الافراد، مصنف ابن ابی شیبہ ۴۷۷۳۔ مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو پایا جن کی موجودگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف کو

جلادیا لیکن کسی نے اس کو غلط نہیں کہا۔ بخاری فی خلق افعال العباد، ابن ابی داؤد ابن الانباری فی المصاحف معاً ۴۷۷۴۔ عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی دو خصوصیات ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ میں بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے صبر کیا حتیٰ کہ قتل ہو گئے اور تمام لوگوں کو ایک قرآن پاک پر جمع کر دیا۔

ابن ابی داؤد، ابوالشیخ فی السنۃ، حلیۃ الاولیاء، ابن عساکر فائدہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا کام شروع کیا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چار نسخے لکھ لیے گئے۔ غالباً ہر ایک میں قراءتوں کا فرق تھا جو مختلف علاقوں کے لیے ان کی سہولت کو سامنے رکھ کر لکھے گئے تھے۔ اور ان قراءت کی اجازت رسول اللہ ﷺ سے ثابت تھی لیکن پڑھنے والے آپس میں اختلاف اور نزاع بھی کھڑا کر لیتے تھے۔ اسی وجہ سے جنگوں میں جب مجاہدین ایک دوسرے علاقوں کے جمع ہوتے تو قرآن پڑھنے میں ان کے درمیان تنازعہ ہوتا۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف پر لوگوں کو جمع کر کے باقی مختلف قراءت کے مصاحف جلو اڈالے اور امت کو انتشار اور افتراق سے بچالیا۔ رضی اللہ عنہ وارضاه۔

اختلافات قراءت اور لغت قریش

۴۷۷۵۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن الیمان جو آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذوں پر اہل عراق کے ساتھ مل کر اہل شام سے لڑ رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو قرآن میں اختلاف کرتے دیکھا تھا۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عرض کیا: یا امیر المؤمنین! اس امت کو بچالیں قبل اس سے کہ وہ کتاب اللہ میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جائیں جیسا کہ یہود و نصاریٰ ہوئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ تمہارے پاس جو مصحف شریف ہے بھیج دو، ہم اس کی نقل کر کے اور مصاحف تیار کریں گے اور پھر آپ کو اصل واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ اوراق بھیج دئے جن میں قرآن لکھا ہوا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم کو پیغام بھیج

کر بلوایا۔ اور حکم دیا کہ ان صحیفوں (اوراق) سے نقل کر کے دوسرے مصاحف لکھیں۔ اور (حضرت زید کے علاوہ) تین قریشی صحابیوں کو فرمایا: جب تمہارا زید کا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تم قریشی زبان میں لکھنا۔ کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آخر میں کئی مصاحف تیار کر لیے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہر طرف ایک مصحف شریف بھیج دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کے علاوہ جو صحیفے یا مکمل مصحف شریف جہاں ہو وہ جلا دیئے جائیں۔

امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے خارجہ بن زید نے فرمایا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے ایک آیت سورہ احزاب کی مفقود پائی جو رسول اللہ ﷺ کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا:

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فممنہم من قضیٰ نجبہ ومنہم من ینتظر۔ الاحزاب
لہذا میں نے اس کو تلاش کیا اور خزیمہ بن ثابت یا (ان کے بیٹے) ابن خزیمہ کے پاس اس آیت کو پایا اور پھر اس کو اس کی جگہ سورت

میں ملا دیا۔

امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اسی وقت ان حضرات کا لفظ التابوت میں اختلاف ہوا (جس کا ذکر سورہ بقرہ ۲۴۸ میں ہے) قریشی اصحاب نے التابوت کہا جبکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے التابوہ کہا۔ یہ اختلاف حضرت عثمان کی خدمت میں ذکر کیا گیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا تم التابوت لکھو کیونکہ یہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔

ابن سعد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ابی داؤد، ابن الانباری فی المصاحف معاً، الصحیح لابن حبان، السنن للبیہقی ۴۷۷۶
ابوقلابہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ دور عثمان رضی اللہ عنہ میں کوئی معلم کسی قرأت پر قرآن پڑھاتا اور کوئی معلم کسی دوسری قرأت پر قرآن پڑھاتا۔ نتیجہ لڑکے آپس میں ملاقات کے وقت ایک دوسرے سے اختلاف کرتے۔ حتیٰ کہ بات بڑھتی ہوئی معلموں تک پہنچتی اور معلم بھی ایک دوسرے کی قرأت کا انکار کرتے۔ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پہنچی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

تم لوگ میرے قریب ہوتے ہوئے اختلاف اور خطا کا شکار ہو تو جو مجھ سے دور دوسرے شہروں میں بس رہے ہیں ان میں اور زیادہ سخت اختلاف اور شدید غلطیاں ہوں گی۔ پس اے اصحاب محمد! (ﷺ) لوگوں کے لیے ایک امام (والی حیثیت کا قرآن پاک) لکھ دو (جس کی طرف سب رجوع کریں)۔

ابوقلابہ کہتے ہیں مجھے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، ابوبکر بن مالک کہتے ہیں یہ مالک بن انس (امام) مالک بن انس کے دادا ہیں۔ مالک بن انس کہتے ہیں میں ان لوگوں میں تھا جن کو قرآن الملاء کروایا (اور لکھوایا) جاتا تھا۔ لہذا کبھی کسی آیت میں اختلاف ہو جاتا تو ایسے آدمی کو یاد کرتے جس نے اس آیت کو رسول اللہ سے لیا ہوتا تھا۔ کبھی وہ غائب ہوتا یا کسی دیہات میں ہوتا تو کاتبین اس سے ما قبل اور ما بعد آیات لکھ لیتے اور اس آیت کی جگہ چھوڑ دیتے۔ حتیٰ کہ وہ صحابی خود آجاتا ہی ان کو پیغام بھیج کر بلوایا جاتا۔ اس طرح جب مصحف شریف کی کتابت سے فراغت ہوئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام شہروں کو لکھا: میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے اور یہ یہ مٹا دیا ہے پس اس کے مثل جو تمہارے پاس ہو تم اس کو مٹا دو۔ (اور جیسا میں نے لکھا ہے ویسا تم بھی لکھا رہنے دو)۔

ابن ابی داؤد ابن الانباری، رواہ الخطیب فی المتفق عن ابی قلابہ عن رجل من بنی عامر یقال له انس بن مالک القشیری بدل مالک بن انس
۴۷۷۷ سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا:

کام میں اے لوگو! عثمان کے بارے میں غلو کا شکار مت ہو جاؤ۔ اور ان کے مصاحف کے متعلق خیر کے سوا کچھ نہ کہو۔ اللہ کی قسم! مصاحف قرآن میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ہماری سب کی رضا مندی سے کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا: تم اس قرأت کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے اور یہ بات کفر کے قریب پہنچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے کہا آپ ہی بتائیے (امیر المؤمنین عثمان بن عفان!) آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہمارا خیال ہے کہ تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیا جائے جس میں کوئی فرق ہو اور نہ اختلاف۔ ہم نے کہا: جو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تم میں سب سے زیادہ فصیح کون ہے؟ اور سب سے زیادہ اچھا قاری کون ہے؟ کہا: اچھی زبان والے سعید بن العاص ہیں اور سب سے زیادہ قاری زید بن ثابت ہیں۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان میں سے ایک لکھواتا جائے دوسرا لکھتا جائے۔ چنانچہ دونوں حضرات نے حکم کی تعمیل کی اور یوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیا۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگر میں اس وقت والی ہوتا تو میں بھی بالکل یہی کرتا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔

ابن ابی داؤد، وابن الانباری فی المصاحف، مستدرک الحاکم، السنن للبیہقی ۴۷۷۸ ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے فرماتے ہیں ہمیں خبر پہنچی ہے کہ قرآن بہت زیادہ نازل ہوا تھا۔ لیکن پیام کی جنگ میں بہت سے قرآن کو جانے والے قتل ہو گئے۔ جنہوں نے اس کو حفظ کیا تھا وہ ان کے بعد معلوم ہو سکا اور نہ لکھا جا سکا۔ پس حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن جمع کیا۔ ہمارے علم کے مطابق اسی چیز نے ان حضرات کو قرآن جمع کرنے پر مجبور کیا تھا۔ لہذا ان حضرات نے خلافت ابی بکر رضی اللہ عنہ میں قرآن جمع کیا۔ ان کو یہ خوف دامن گیر تھا کہ کہیں دوسرے معرکوں میں بھی نماز قاری قرآن شہید نہ ہو جائیں جن کے پاس بہت سا قرآن ہے۔ اور یوں وہ اس قرآن کو اپنے ساتھ ہی لے جائیں اور ان کے بعد کوئی قرآن کو جانے والا نہ بچے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو توفیق مرحمت فرمائی کہ پہلے والے نسخے سے کئی نسخے تیار کر کے اسلامی ملکوں میں بھیجے یوں (مکمل) قرآن پاک مسلمانوں میں پھیل گیا۔ رواہ ابن ابی داؤد

فائدہ:..... فرمان الہی ہے:

انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔

ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن پاک کا کوئی حصہ لکھنے سے نہیں رہا۔ جن صحابہ کے پاس قرآن پاک تھا اور وہ شہید ہو گئے اس سے مراد ہے کہ ان کے پاس کسی چیز پر لکھا ہوا تھا اور حضور ﷺ نے ان کو وہ لکھوایا تھا اور نہ دلوں بہت سے صحابہ کرام کے بعد میں بھی محفوظ تھا۔ جمع قرآن میں اس کا اہتمام تھا کہ کس چیز پر لکھے ہوئے سے نقل کریں۔ اور حضور نے ان کو وہ لکھوایا ہو جیسا کہ بعد کی روایت میں ہے کہ حضرت عثمان ہر ایک کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے تھے کہ کیا واقعی تم کو یہ رسول اللہ ﷺ نے لکھوایا ہے۔

۴۷۷۹ مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! تم کو نبی ﷺ کا زمانہ بیٹے ہوئے تیرہ سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ اور تم قرآن میں شک میں مبتلا ہو۔ کہتے ہو یہ ابی رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے، کبھی کہتے ہو یہ عبد اللہ کی قرأت ہے۔ کوئی کہتا ہے واللہ ہم تمہاری قرأت کو تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا میں تم کو انتہائی تاکید کے ساتھ حکم کرتا ہوں کہ جس شخص کے پاس کچھ بھی قرآن ہو وہ اس کو لے کر آئے۔ پس کوئی ورقہ پر لکھا ہوا قرآن لے کر آتا اور کوئی چڑے پر لکھا ہوا قرآن پاک لے کر آتا۔ حتیٰ کہ اس طرح قرآن کا اکثر حصہ جمع کر لیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس جگہ تشریف لائے (جہاں قرآن پاک لکھا جا رہا تھا) آپ رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ہر ایک کو واسطہ دے کر پوچھا: کیا تو نے رسول اللہ ﷺ کو سنا ہے اور وہ تجھے املاء کروا رہے تھے یہ قرآن کا حصہ ہے؟ وہ کہتا: جی ہاں۔ پس جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کام سے فارغ ہو گئے تو پوچھا: لوگوں میں سب سے بڑا کتب کون ہے؟ لوگوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان کون ہے؟ لوگوں نے حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ لہذا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم جاری فرمایا کہ سعید املاء کروائیں اور زید کتابت کرتے رہیں۔ پس زید رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی کتابت فرمائی اور اس (ایک مصحف) کے ساتھ کئی مصاحف لکھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو لوگوں میں پھیلا دیا۔

مصعب بن سعد کہتے ہیں میں نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے یہ کام (بہت) اچھا کیا۔
۴۷۸۰ ... مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت ابی، عبداللہ اور معاذ رضی اللہ عنہم کی قرأت سنی تو لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

تمہارے پیغمبر کو وفات پائے ہوئے پندرہ سال کا عرصہ بیت گیا ہے اور تم اب تک قرآن میں اختلاف کا شکار ہو۔ لہذا میں تم پر عزم کے ساتھ حکم کرتا ہوں کہ جس کے پاس قرآن کا کچھ بھی حصہ ہو جو اس نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہو وہ اس کو لے کر میرے پاس آجائے۔ پس لوگ تختی، ہڈی، اور پتھروں جیسی مختلف اشیاء پر لکھا ہوا قرآن لے کر آئے۔ جب بھی کوئی قرآن کا کچھ حصہ لے کر آتا آپ رضی اللہ عنہ اس سے پوچھتے: تو نے اس کو رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے؟

اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا: سب سے زیادہ فصیح اللسان کون ہے؟

لوگوں نے حضرت سعید بن العاص کا نام لیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا سب سے بڑے کاتب کون ہیں؟ لوگوں نے حضرت زید بن ثابت کا نام لیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ زید لکھیں اور سعید لکھواتے رہیں۔ پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کئی مصاحف لکھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہروں میں تقسیم کر دیے مصعب بن سعد فرماتے ہیں: میں نے کسی کو اس کام پر عیب لگانے نہیں دیکھا۔

۴۷۸۱ ... محمد رحمۃ اللہ علیہ بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بن کعب فرماتے ہیں اہل عراق کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور بولے ہم عراق سے آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ہمیں (اپنے والد) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا مصحف شریف (قرآن پاک) دکھانا چاہیے۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ پھر بولے: سبحان اللہ! آپ نکال لیتے تو سہی۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: واقعی اس کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قبضے میں لے لیا ہے۔ ابو عبیدہ فی الفضائل وابن ابی داؤد

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جامع القرآن ہیں

۴۷۸۲ ... محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے فرمایا: کوئی آدمی قرآن پڑھتا تھا تو دوسرا اس کو کہتا تھا میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جس طرح تم پڑھتے ہو۔ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذکر کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات، بہت خطرہ والی اور بہت گراں گذری۔ پس آپ نے قریش اور انصار کے بارہ افراد جمع کیے، جن میں ابی بن کعب، زید بن ثابت، سعید بن العاص رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے وہ ڈبہ منگوا لیا جس میں قرآن پاک تھا۔ اور اسی سے لوگ رجوع کرتے تھے۔

محمد کہتے ہیں: مجھے کثیر بن اح نے بیان کیا کہ وہ بھی قرآن پاک لکھتے تھے۔ بسا اوقات کسی شئی میں اختلاف ہو جاتا تو اس کو بعد میں لکھنے کے لیے مؤخر کر دیتے تھے محمد کہتے ہیں: میں نے کثیر بن اح سے پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے لاکھنی کا اظہار کیا۔ محمد کہتے ہیں: میرا گمان ہے اور تم اس کو یقین کا درجہ نہ دینا یہ کہ وہ اس لیے اس اختلاف شدہ حصہ کو لکھنے سے مؤخر کر دیتے تھے تاکہ اپنے درمیان ایسے کسی شخص کو دیکھیں جس نے سب سے آخر میں وہ (رسول اللہ ﷺ سے) سنی ہو۔ اور اس کے قول پر اس کو لکھیں۔ رواہ ابن ابی داؤد

فائدہ: اس گمان کی حقیقت روایت نمبر ۴۷۷۶ میں ملاحظہ فرمائیں۔ جہاں اس کا واضح جواب گزر چکا ہے۔

۴۷۸۳ ... ابی اح سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جب مصحف شریف لکھنے کا ارادہ کیا تو (حکم دیا کہ) بذیل (قبیلہ کافر) الملاء کرانے اور ثقیف (کافرو) لکھنے۔ رواہ ابن ابی داؤد

۴۷۸۴ ... عبدالاعلیٰ بن عبداللہ بن عامر سے مروی ہے فرمایا: جب مصحف شریف کے لکھنے سے فراغت ہوئی تو وہ مصحف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا اور فرمایا: تم نے بہت اچھا کیا اور خوبصورت کام کیا ہے۔ اگرچہ میں اس میں کچھ غلطی دیکھتا ہوں لیکن عرب اس کو اپنی زبانوں کی بدولت جلد اس کو درست کر لیں گے۔ ابن ابی داؤد ابن الانباری

۲۷۸۵۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصحف شریف دیکھا تو فرمایا اس میں کچھ لحن (غلطی) ہے لیکن عرب عنقریب اس کو درست کر لیں گے۔ ابن ابی داؤد، ابن الانباری

۲۷۸۶۔ عن قتادہ عن نصر بن عاصم اللیثی عن عبداللہ بن فضیمہ عن یحییٰ بن یعمر کی سند سے مروی ہے کہ:

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: قرآن میں کچھ غلطی ہے جس کو عرب عنقریب اپنی زبانوں کے ساتھ درست کر لیں گے۔

رواہ ابن ابی داؤد

عبداللہ بن فضیمہ کہتے ہیں: یہ ان لکھے ہوئے مصاحف میں سے ایک تھا۔

۲۷۸۷۔ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مصحف شریف دیکھا تو اس میں کچھ غلطی محسوس کر کے فرمایا: اگر لکھوانے والا قبیلہ بذیل کا اور لکھنے والا ثقیف کا ہوتا تو یہ غلطی نہ پائی جاتی۔ ابن الانباری و ابن ابی داؤد

۲۷۸۸۔ آل ابوطحہ بن مصرف میں کسی سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مصاحف کو منبر (رسول) اور قبر (رسول) کے درمیان دفن کروادیا تھا۔ رواہ ابن ابی داؤد

۲۷۸۹۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جن دوسرے مصاحف میں قرآن پاک نقل کروادیا تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا وہ حضرت زید بن ثابت کو قرآن کا املاء لکھواتے تھے۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ لکھتے تھے اور ان کے ساتھ حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن العاص اس کو واضح اعراب کے ساتھ صاف کرتے تھے۔ پس یہ مصحف حضرت ابی اور حضرت زید رضی اللہ عنہما کی قرأت کے موافق ہے۔ ابن سعد

۲۷۹۰۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو املاء کرانے کا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو لکھنے کا اور حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبدالرحمن بن حارث رضی اللہ عنہما کو اعراب لگانے کا حکم دیا۔ ابن سعد

فائدہ:..... اعراب مکمل زیر برپیش لگانے کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو تشکیل کہا جاتا ہے یعنی لفظ کو مکمل شکل دینا اور یہ کام بعد میں اموی دور میں مکمل ہوا تھا۔ جبکہ اعراب کا تعلق نحو سے ہے یعنی حروف کی آخری شکل کو واضح کرنا۔ یہ کام حضرات سعید بن العاص اور عبدالرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ نے انجام دیا تھا۔ رضی اللہ عنہم وارضاهم اجمعین۔

۲۷۹۱۔ سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے (مختلف قرأتوں کے) مصاحف شریف جلو اڈالے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا: اگر عثمان رضی اللہ عنہ یہ کام نہ کرتے تو میں ضرور کرتا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ابن ابی داؤد و الصابونی الماتین

۲۷۹۲۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے مجھے خبر ملی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کچھ تاخیر کی۔ حضرت ابوبکر کی ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کیا تم میری امارت کو ناپسند کرتے ہو؟ فرمایا: نہیں، مگر یہ بات ہے کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ چار صرف نماز کے لیے اوڑھنوں گا۔ حتیٰ کہ میں قرآن پاک جمع نہ کر لوں۔

محمد یہ کہتے ہیں اسی وجہ سے لوگوں کا گمان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک (تفسیر کے ساتھ) لکھ لیا ہے۔ محمد کہتے ہیں کاش مجھے وہ قرآن پاک مل جاتا تو اس میں بڑا علم پاتا۔ ابن عوف کہتے ہیں میں نے عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جاننے سے انکار کر دیا۔ ابن سعد

۲۷۹۳۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم نے مصاحف لکھے تو ہم نے ایک آیت مفقود پائی جو میں رسول اللہ ﷺ سے سنا کرتا تھا۔ میں نے اس کو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس پایا:

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ سے تبدیلیا تک۔ الاحزاب

اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ دو شہادتوں کے مالک سمجھے جاتے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ان کی شہادت کو دو آدمیوں کی شہادت کے

برابر قرار دیا۔ عبدالرزاق، ابن ابی داؤد فی المصاحف

۴۷۹۴ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے ایک آیت مفقود پائی جو میں رسول اللہ ﷺ سے سنا کرتا تھا۔ جب مصاحف لکھے گئے تو میں نے اس کو خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس پایا۔ اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ دو شہادتوں والے کہلاتے تھے۔ وہ آیت تھی:

من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ الخ۔ ابو نعیم

۴۷۹۵ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد فرماتے ہیں: میں نے محکم حضور ﷺ کے زمانہ میں ہی جمع کر لی تھیں۔ یعنی مفصل۔ مصنف ابن ابی شیبہ

مفصلات قرآن

فائدہ: سورۃ الحجرات سے آخر قرآن پاک تک کی سورتیں مفصل کہلاتی ہیں انہی کو محکم بھی کہا جاتا ہے۔

۴۷۹۶ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے جمع قرآن کا کام مکمل کر لیا، عرض کیا تم نے بہت اچھا کیا اور تم کو اچھی چیز کی توفیق نصیب ہوئی۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہونگے جو میرے بعد آئیں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا اور وہ ان مطلق اوراق میں جو کچھ ہے اس پر عمل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے پوچھا کون سے اوراق؟ پھر میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے مصحف شریف کے اوراق دیکھے۔ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت تعجب خیز اور اچھی لگی اور آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے دس ہزار درہم عطا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا: اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا کہ تم ہم میں سے ہمارے نبی کی

حدیث چھپاؤ گے۔ رواہ ابن عساکر

۴۷۹۷ (مرسل الشعمی رحمۃ اللہ علیہ) شعمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کے عہد میں جہا انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن پاک جمع کیا: ابی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابوالدرداء، سعید بن عبید اور ابو زید رضی اللہ عنہم اجمعین اور مجمع بن جاریہ نے دو یا تین سورتوں کے علاوہ سارا قرآن حاصل کر لیا تھا۔ ابن سعد، یعقوب بن سفیان، الکبیر للطبرانی، مستدرک الحاکم

۴۷۹۸ (مرسل محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ) محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں پانچ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن پاک جمع کر لیا تھا۔ معاذ بن جبل، عبادة بن الصامت، ابی بن کعب، ابوالدرداء اور ابویوب انصاری رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۷۹۹ محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں جن لوگوں نے قرآن پاک ختم کر لیا تھا وہ عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ
مصنف فرماتے ہیں: اس روایت کی اسناد میں نظر ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے

۴۸۰۰ عن علی رحمۃ اللہ علیہ عن خیر رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اسوع المشائی سات بار بار پڑھی جانے والی آیات کے متعلق سوال کیا گیا تو ارشاد فرمایا: الحمد للہ رب العالمین۔ کہا گیا۔ یہ تو چھ آیات کی سورت ہے۔ فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے۔

الدارقطنی، السنن للبیہقی، ابن بشران فی امالیہ

۴۸۰۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ جب نماز میں کوئی سورت شروع فرماتے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے اور فرماتے تھے: جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس نے سورت میں کمی کر دی اور فرمایا کرتے تھے یہی بسم اللہ تو اسوع المشائی کی تکمیل ہے۔ التعلبی

القرأت

۲۸۰۲ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) ابو عبد الرحمن سلمی سے روایت ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، زید بن ثابت، مہاجرین اور انصار کی قرأت ایک ہی تھی۔

ابن الانباری فی المصاحف

یعنی جہاں لفظوں کا اختلاف ہو جاتا ہے اور جہاں کی حیثیت سے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں یہ حضرات اختلاف نہیں فرماتے تھے۔

۲۸۰۳ ... حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو نماز میں سورہ فرقان کی تلاوت اس طریقے کے خلاف کرتے سنا جس طریقہ پر مجھے رسول اکرم ﷺ نے پڑھایا تھا۔ لہذا میں ہشام بن حکیم کو ان کے کپڑوں سے پکڑ کر حضور ﷺ کی خدمت میں لایا۔ اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میں نے ان کو سورہ فرقان اس کے خلاف پڑھنے کا حکم دیا تو انہوں نے وہی قرأت پڑھی جو میں نے ان سے سنی تھی۔ آپ ﷺ نے ان کی تصویب کرتے ہوئے فرمایا: ٹھیک یونہی نازل ہوا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا: تم پڑھو: میں نے اپنی قرأت کے مطابق (جس طرح رسول اللہ ﷺ نے مجھے پڑھایا تھا) پڑھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یونہی نازل ہوا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قرآن تو سات حروف (یعنی سات قرأتوں) پر نازل ہوا ہے۔ جو آسان لگے پڑھ لو۔ ابو داؤد الطیالسی، ابو عیسیٰ فی فضائل القرآن، مسند احمد، بخاری، مسلم،

ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابو عوانہ، ابن جریر، صحیح ابن حبان، السنن للبیہقی

۲۸۰۴ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ (سورہ نازعات کی) آیت: ءاذا کنا عظاما ناخرة پڑھتے تھے نخرۃ کی بجائے۔

السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید

۲۸۰۵ عمرو بن میمون سے مروی ہے میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں مغرب کی نماز ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ تین یوں پڑھی:

والتین والذیتون و طور سیناء (سینین کی جگہ سیناء پڑھا) اور یونہی عبد اللہ (بن مسعود رضی اللہ عنہ) کی قرأت میں ہے۔

عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن الانباری فی المصاحف، الدارقطنی فی الافراد

۲۸۰۶ عبد الرحمن بن حاطب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انگوٹھا کی نماز پڑھائی اور سورہ آل عمران شروع کی:

الہم اللہ لا الہ الا هو الحی القیام (القیوم کی جگہ)۔

ابو عیسیٰ فی الفضائل، السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن ابی داؤد، ابن الانباری فی المصاحف، ابن المنذر، مستدرک الحاکم

۲۸۰۷ حضرت عمرؓ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا: علی، ہم میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ابی ہمارے سب سے بڑے قاری ہیں

لیکن ابی رضی اللہ عنہ کی قرأت میں سے کچھ ہم ترک کرتے ہیں کیونکہ ابی کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتا، جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

مانسوخ من آية أو نسهانات بخیر منها۔

ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا بھلاتے نہیں مگر اس سے اچھی چیز لے آتے ہیں: اور حالانکہ کتاب اللہ ان کے بعد بھی نازل ہوئی ہے (یعنی کتاب اللہ کا ایسا حصہ بھی نازل ہوا ہے جو ان کے علم میں نہیں)۔

بخاری، نسائی، ابن الانباری فی المصاحف، الدارقطنی فی الافراد، مستدرک الحاکم، ابونعیم فی المعرفة، البیہقی فی الدلائل

۲۸۰۸ خروشتہ بن الحر سے مروی ہے فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ ایک کھٹی کھٹی ہوئی دیکھی:

اذ اتوا دی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ۔ الجمعة

جب نماز دی جائے نماز کے لیے جمع کے دن پس دوڑو واللہ کے ذکر کی طرف۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کو یہ کس نے املاء کروائی ہے؟ میں نے عرض کیا: ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابی ہم میں سب سے زیادہ منسوخ القرآن کی تلاوت کرتے ہی تم اس کو (فاسعوا الی ذکر اللہ کی بجائے) فامضوا الی ذکر اللہ پڑھو۔

ابوعبید، السنن لسعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، ابن الانباری فی المصاحف ۲۸۰۹۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے تھے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ فامضوا الی ذکر اللہ پڑھتے سنا۔

الشافعی فی الإیمہ مصنف عبدالرزاق، الفریابی، السنن لسعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، ابن الانباوی السنن للبیہقی

۲۸۱۰۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پڑھا:

ومن عنده علم الكتاب - الدارقطنی فی الافراد، تمام ابن مردویہ

یعنی علم الكتاب کی جگہ علم الکتاب یا علم الکتاب پڑھا۔

۲۸۱۱۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ (صراط الذین کی جگہ) صراط من انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔

وکعب، ابو عبید، السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن جریر ابن ابی داؤد فی الجزء من حدیثہ، السنن للبیہقی ۲۸۱۳۔ کعب بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو پڑھتے سنا: لیس جننتہ حتی حین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا: تجھے کس نے یوں پڑھایا؟ اس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

لیس جننتہ حتی حین۔ پڑھو۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو لکھا:

سلام علیک! ابا عبد!

اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور اس کو صاف عربی والا قرآن بنایا اور قریش کے قبیلے کی لغت پر نازل فرمایا۔ پس جب میرا یہ خطبہ تمہارے پاس آئے تو لوگوں کو قریش کی لغت پر قرآن پڑھاؤ۔ اور ہذیل کی لغت پر مت پڑھاؤ۔ ابن الانباری فی الوقت، التاريخ للخطیب

۲۸۱۴۔ عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو یوں پڑھتے سنا:

فی جنات یتساء لون عن المجرمین یا فلان ما سلککم فی سقر۔ (حالانکہ اصل قرأت میں یا فلان کا اضافہ نہیں ہے)

عمرو کہتے ہیں: مجھے لقیط نے خبر دی کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی پڑھتے سنا ہے۔ مصنف عبدالرزاق، عبد بن حمید، عبد اللہ بن احمد بن حنبل فی الزوائد علی الزهد للإمام احمد بن حنبل، ابن ابی داؤد

و ابن الانباری معاً فی المصاحف، ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۲۸۱۵۔ ابو ادریس رحمۃ اللہ علیہ خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے:

اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیة الجاہلیة ولو حمیتہم کما حموا نفسہ لفسد المسجد الحرام

فانزل اللہ سکینہ علی رسولہ۔ سورة الفتح

(جبکہ موجودہ قرأت میں ولو حمیتہم کما حموا نفسہ لفسد المسجد الحرام کے الفاظ نہیں ہیں۔) چنانچہ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو ان کو یہ بات گراں گذری۔ لہذا انہوں نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا حضرت ابی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے تو پھر

دوسرے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی بلا لیا جن میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے پوچھا: تم میں سے کون شخص سورہ فتح پڑھے گا؟ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آج کی قرأت کے مطابق سورہ فتح پڑھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ پر غصہ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا: میں کچھ بات کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہو! حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: آپ جانتے

ہیں کہ میں اکثر حضور ﷺ کے پاس جاتا رہتا تھا اور آپ مجھے (قرآن) پڑھاتے تھے۔ جبکہ آپ دروازے ہی پر رہتے تھے۔ لہذا اگر آپ

چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو اسی طرح پڑھاؤں جس طرح مجھے حضور ﷺ نے پڑھایا ہے تو میں پڑھاؤں گا ورنہ میں تاحیات کسی کو ایک حرف بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں تم پڑھاؤ۔ نسائی، ابن ابی داؤد ذی المصاحف، مستدرک الحاکم نوٹ: ۲۷۲۵ پر روایت گزر چکی ہے۔

۲۸۱۶ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ دمشق کے کچھ لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ مصحف شریف بھی لائے تاکہ اس کو ابی بن کعب، زید بن ثابت، علی رضی اللہ عنہ اور مدینہ کے دوسرے اہل علم پر پیش کر سکیں۔ لہذا ایک دن ان کے ایک ساتھی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیت پڑھی:

اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیة الحمیة الجاہلیة (ولو حمیتہم کما حموا الفسد المسجد الحرام)
(جبکہ آخری خط کشیدہ حصہ مشہور قرأت میں نہیں ہے) لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم کو یہ کس نے پڑھایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے ایک شخص کو کہا کہ ابی بن کعب کو بلا کر لاؤ اور دمشق ساتھی کو کہا تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کے پاس اپنے اونٹ کو تیل ملتا ہوا دیکھا۔ دونوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا۔ مدنی شخص نے آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بلاوے کا پیغام دیا۔ ابی رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا: امیر المؤمنین نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ مدنی شخص نے اپنے ساتھ دمشق شخص کے بارے میں آگاہ کیا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے دمشق شخص کو (سزائش کرتے ہوئے) فرمایا: اے قافلہ والو! تم لوگ مجھے تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آؤ گے؟ پھر حضرت ابی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کپڑے سمیٹ رکھے تھے اور ہاتھوں پر تیل لگا ہوا تھا (اونٹوں کو لگانے کے لیے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دمشق ساتھیوں کو فرمایا پڑھو: انہوں نے اسی طرح پڑھا:

ولو حمیتہم کما حموا الفسد المسجد الحرام

حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے ہی ان کو یوں پڑھایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تم پڑھو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عام قرأت پڑھ کر سنا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ میں تو اسی کو جانتا ہوں۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! اے عمر! تم جانتے ہو کہ میں (در بار رسول میں) حاضر رہتا تھا جبکہ تم لوگ غائب رہتے تھے، مجھے بلایا جاتا تھا اور تم کو روک دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم! اگر تم چاہو تو میں اپنے گھر کو لازم پکڑ لیتا ہوں اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رواہ ابن ابی داؤد

۲۸۱۷ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وان کا دم مکروہم پڑھتے تھے (وان کان مکروہم کی جگہ)

ابو عبیدہ، السنن لسعید بن منصور، ابن جریر، ابن المنذر، ابن الانباری فی المصاحف

۲۸۱۸ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ہم لوگ یہ آیت یوں پڑھا کرتے تھے:

لا ترغبوا عن آباءکم فانہ کفر بکم أو ان کفرا بکم ان ترغبوا عن آباءکم۔ الکجی فی سننہ

۲۸۱۹ ابن مجاز سے مروی ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے پڑھا:

من الذین استحق علیہم الاولیان۔ سورہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کذب تم جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انت اکذب نہیں، تم مجھ سے بڑے جھوٹے ہو۔ ایک شخص نے کہا: تم امیر المؤمنین کو جھوٹا کہتے ہو۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں امیر المؤمنین کے حق کی تعظیم تم سے زیادہ کرتا ہوں لیکن کتاب اللہ کی تصدیق کرنے کی وجہ سے میں نے ان کی تکذیب کی ہے اور کتاب اللہ کی تکذیب کرنے میں امیر المؤمنین کی تصدیق نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم (ابی رضی اللہ عنہ نے) سچ فرمایا۔ عبد بن حمید، ابن جریر، الکامل لابن عدی

استحق میں تاء پر ضمہ یا فتح پڑھنے کا اختلاف ہوا۔

۲۸۲۰ ابی صلت ثقفی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

ومن یرد اللہ ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً۔ سورہ

جبکہ بعض صحابہ نے آپ کے پاس جرحاً میں راء کو مکسور پڑھا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جرحاً کو راء کو مفتوح پڑھا تھا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کتنا نہ کسی شخص کو بلاؤ۔ وہ فیصلہ کرے گا اور ہاں وہ مدحی ہونا چاہیے۔ لہذا ایک نوجوان کو لائے آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا: تم الحرجہ کس کو کہتے ہو؟ جوان نے جواب دیا: ہم لوگ الحرجہ ایسے درخت کو کہتے ہیں جو دوسرے درختوں کے درمیان ہو، کوئی چرنے والا موسیقی اس کے قریب جاتا ہے اور نہ کوئی وحشی جانور اور کوئی شے اس کے پاس نہیں جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہی حال منافق کا ہے اس کے پاس بھی خیر کی کوئی چیز نہیں پہنچتی۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابو الشیخ

فائدہ: جب جوان نے بھی الحرجہ راء کو مفتوح پڑھا کہ اس کی تشریح کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کی تائید ہوگئی کہ یہ آیت میں: صدرہ ضیقاً حرجاً ہے نہ کہ حرجاً۔

۲۸۲۱ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگئی مگر آپ رضی اللہ عنہ آخر تک سورہ جمعہ کی آیت یوں پڑھتے رہے:

فامضوا الی ذکر اللہ۔ عبدالرزاق، عبد بن حمید

۲۸۲۲ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ:

فاسعوا الی ذکر اللہ پڑھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابی ہم میں سب سے زیادہ منسوخ التلاوت آیتوں کو جانتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ: فامضوا الی ذکر اللہ پڑھتے تھے۔ عبد بن حمید

فائدہ: ... موجودہ مشہور قرأت فاسعوا الی ذکر اللہ ہی ہے۔ یہی نہیں دوسری چند جگہ پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غیر مشہور قرأت منقول ہیں جو منسوخ ہیں۔

کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آخری مرتبہ جمع قرآن کا کام ہوا اس وقت مکمل تحقیق کر کے حضور ﷺ سے آخری وقت میں جو تلاوتیں سنی گئیں تھیں ان کے مطابق قرآن پاک لکھا گیا۔ اگرچہ زیادہ تر منسوخ التلاوت آیات کے قاری حضرت ابی رضی اللہ عنہ ہی تھے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر اختلافی مقام پر ان کی قرأت منسوخ ہو۔ جیسا کہ ذیل کی روایت اس بات کی واضح عکاسی کرتی ہے۔

۲۸۲۳ عمرو بن عامر انصاری سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان۔ سورہ

الانصار کو مفتوح پڑھا اور اس کے بعد واؤ نہیں پڑھی (جیسا کہ آج کی قرأت میں والانصار والذین) لہذا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: والذین اتبعوہم باحسان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ابی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: حضرت ابی رضی اللہ عنہ بھی (حضرت زید کے مثل جواب میں) فرمایا: والذین اتبعوہم باحسان ہے۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی رضی اللہ عنہ اپنی اپنی انگلی سے ایک دوسرے کی ناک کی طرف اشارہ کرنے لگے (اور اپنی اپنی بات کو صحیح قرار دینے لگے) آخر حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے حضور ﷺ نے یونہی پڑھایا ہے اور آپ تو بے کار بات کے پیچھے پڑے ہیں۔

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ زفرمایا: اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، ہم ابی کی اتباع کرتے ہیں۔

ابو عبید فی فضائلہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ

۲۸۲۳ (عثمان رضی اللہ عنہ) ابوالمنہال سے مروی ہے کہ ہمیں خبر پہنچی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک دن منبر پر فرمایا: میں اس شخص کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہو کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے۔ وہ تمام حروف کافی شافی ہیں۔ وہ شخص کھڑا ہو جائے۔

چنانچہ اس قدر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جو شمار سے باہر تھے۔ انہوں نے اس کی شہادت دی (کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے) تب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اور میں بھی تمہارے ساتھ شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔ الحارث، مسند ابی یعلیٰ

۲۸۲۵ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے یہ آیت یوں پڑھی:

ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینبہون عن المنکر ویستعینون اللہ علی ما آصابہم
واولئک ہم المفلحون۔ سورہ بقرہ، عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی داؤد وابن الانباری فی المصاحف

۲۸۲۶ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ”الامن اغترف غرقة“۔ سورہ

غرفہ میں عین کو ضمہ (پیش) کے ساتھ پڑھا (اور یہی مشہور آج کی قرأت میں ہے) جبکہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے عرفہ مفتوح بھی منقول ہے۔

السنن لسعید بن منصور

۲۸۲۷ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی سے مروی ہے فرماتے ہیں: جب مصاحف لکھے گئے تو میں عثمان رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کے درمیان قاصد تھا۔ (ایک موقع پر) حضرت زید رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ دریافت کرنے کے لیے پوچھا: لم یتسنہ بے یاللم یتسن۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: لم یتسنہ یاء کے ساتھ ہے۔

سورہ بقرہ، ابو عید فی فضائلہ، ابن جریر، ابن المنذر، ابن الانباری فی المصاحف

۲۸۲۸ ابوالزاہریرحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سورہ مائدہ کے آخر میں یہ لکھا:

للہ ملک السموات والارض واللہ سمیع بصیر۔ سورہ مائدہ، ابو عید فی فضائلہ

۲۸۲۹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو: اور یا شا پڑھتے سنا۔ بجائے: اور یشا کے۔

سورہ نہ، ابن مردویہ

۲۸۳۰ حکیم بن عقیال سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ”ولیشوا فی کھفہم ثلث مائۃ سنین“ منوتہ پڑھتے ہوئے سنا۔ الخطیب فی التاریخ

۲۸۳۱ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: مجھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ سے لکھوایا: وانسی خفت الموالی۔ (خاء اور فاء کے فتح اور تاء کے کسرہ کے ساتھ جبکہ اصل قرأت میں والی خفت الموالی ہے۔) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قرأت کے معنی ہوں گے اور میرے مددگار کمزور پڑ گئے۔ ابو عید فی فضائلہ، ابن المنذر، ابن اب حاتم

۲۸۳۲ حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آج کی قرأت جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کر دیا ہے یہ آخری موازنہ ہے۔

ابن الانباری فی المصاحف

فائدہ:..... یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی مختلف اشیاء اور لوگوں کے دلوں میں محفوظ قرآن سے موازنہ کر کے مصحف تیار کیے گئے تھے۔ اور یہ ان کے بعد سب سے آخر میں انہی چیزوں کے ساتھ موازنہ کر کے مصحف شریف تیار کیا گیا تھا۔ یہی مطلب زیادہ قرین قیاس ہے جبکہ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے حضور ﷺ نے آخری دور میں جس طرح قرآن پاک پڑھایا تھا اس کے مطابق یہ مصحف عثمان تیار کیا گیا جس کے مطابق آج قرآن کے تمام نسخے لکھے جاتے ہیں۔

۲۸۳۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ نے یوں پڑھا:

والذین آمنوا واتبعتهم ذریعتهم بایمان الحقنا بهم ذریعتهم سورہ مستدرک الحاکم
۲۸۳۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ یوں پڑھتے تھے: فسانہم لایکذبونک (جبکہ مشہور قرأت فسانہم
لایکذبونک ہے)۔ سورہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے معنی یا ارشاد فرماتے تھے: لایجسئون بحق ہوا حق من حقک۔ یعنی وہ لوگ اپنا کوئی ایسا حق پیش
نہیں کر سکتے جو آپ کے حق سے زیادہ حق ہو۔ السنن لسعید بن منصور، عبد بن حمید، ابن ابی حاتم، ابو الشیخ
۲۸۳۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ:

من الذین استحق علیہم الاولیان۔ تاء کے فتح کے ساتھ پڑھتے تھے۔ القریابی، ابو عیسیٰ فی فضائلہ، ابن جریر
۲۸۳۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یونگی پڑھا:

من الذین استحق علیہم الاولیان۔ (مستدرک الحاکم، ابن مردویہ
۲۸۳۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پڑھا:

وعلم ان فیکم ضعفا نیز یہ پڑھا: کل شی فی القرآن۔ رواہ ابن مردویہ

فائدہ: غالباً ضعف کے لفظ میں اختلاف ہے مشہور قرأت میں ضعفاء ہے۔ اس صورت میں معنی ہیں خدا نے جان لیا تم میں کمزوری
ہے۔ لہذا ضعفاء کے کسرہ کے ساتھ معنی ہوگا خدا نے جان لیا تم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس صورت میں کل شی فی القرآن ضعف کا معنی بھی
ٹھیک ہوگا کہ قرآن کی ہر چیز میں اضافہ ہے۔ واللہ اعلم بمعناہ الصواب۔

۲۸۳۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھا: نوادی نوح ابنتھا، ابن الانباری و ابو الشیخ

۲۸۳۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھا: وعلی اللہ قصد السبیل ومنکم جائز (جبکہ اصل قرأت
میں ومنھا جائز ہے)۔ عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن الانباری فی المصاحف

۲۸۴۰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ یوں پڑھتے تھے:

تسبیح له السموات السبع والارض ومن فیہن تاء کے ساتھ (یعنی تسبیح کو تاء کے ساتھ پڑھتے تھے)۔ رواہ ابن مردویہ

۲۸۴۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ یوں پڑھتے تھے:

قال لقد علمت ما انزل هو لاء الارب السموات۔ سورہ

یعنی رفع کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کی قسم اللہ کا دشمن نہیں جانتا تھا بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہی جانتے تھے (کہ
آسمانوں اور زمین کے پروردگار نے ہی اس کو نازل کیا ہے جبکہ علمت کی صورت میں مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا دشمن جانتا ہے)۔

السنن لسعید بن منصور ابن المنذر، ابن ابی حاتم

۲۸۴۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یوں پڑھا:

افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء

یعنی أفحسب کی جگہ أفحسب پڑھا۔ ابو عیسیٰ فی فضائلہ، السنن لسعید بن منصور، ابن المنذر

۲۸۴۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پڑھا:

اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ ابن مردویہ، الخطیب فی التاریخ

۲۸۴۴ ابو عبد الرحمن سلمی سے مروی ہے کہ میں حسن رضی اللہ عنہ و حسین رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کو پڑھا رہا تھا
و خاتم النبیین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے اور ارشاد فرمایا ان کو خاتم النبیین (ت کے فتح کے ساتھ) پڑھاؤ نہ کہ ت کے

کسرہ کے ساتھ۔ ابن الانباری معاً فی المصاحف

۲۸۴۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ (جبکہ مشہور قرأت من بعثنا ہے)۔

ابن الانباری فی المصاحف

۲۸۴۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو پڑھتے ہوئے سنا و نسا دا و یا ساملک۔ (مشہور قرأت

یا مالک ہے)۔ رواہ ابن مردویہ

۲۸۴۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھا قمددة (جبکہ مشہور قرأت ممددة ہے)۔ عبد بن حمید

۲۸۴۸ عمروؤی مر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پڑھتے ہوئے سنا:

والعصر۔ ونوائب الدهر ان الانسان لفي خسروانه فيه الى آخر الدهر۔

زمانہ کی قسم! اور زمانہ کے حوادث کی قسم! انسان خسارے میں ہے اور وہ آخر زمانہ تک اس میں ہے۔

الفریابی، ابو عیید فی فضائلہ، عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن الانباری فی المصاحف، مستدرک الحاکم

۲۸۴۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو پڑھتے ہوئے سنا:

اذا قومك منه يصدون۔

یعنی صدون میں ضم کی جگہ کسرہ پڑھا اور یہی مشہور قرأت ہے۔ رواہ ابن مردویہ

۲۸۵۰ (مسند ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) حضرت ابی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: میں جب سے اسلام لایا میرے دل یہی ایک چیز کھٹکنے کا

باعث بنی کہ میں نے کوئی آیت پڑھی اور دوسرے نے وہی آیت دوسری قرأت میں پڑھی۔ لہذا میں اس کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت لے کر حاضر

ہوا اور عرض کیا آپ نے مجھے یہ آیت یوں پڑھائی ہے؟ فرمایا ہاں۔ دوسرے شخص نے عرض کیا: کیا آپ نے مجھے یہی آیت اس اس طرح

نہیں پڑھائی؟ آپ ﷺ نے ہاں میں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: میرے پاس جبرئیل علیہ السلام دائیں طرف آئے اور میکائیل علیہ السلام

بائیں طرف آئے۔ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا قرآن ایک حرف پر پڑھا و میکائیل علیہ السلام نے فرمایا زیادہ کرو۔ حتیٰ کہ جبرئیل علیہ السلام

سات حروف تک پہنچ گئے۔ ہر حرف کا ثانی ہے۔ مسند احمد، نسائی، مسند ابی بعلی، ابن منیع، ابن حبان، السنن لسعید بن منصور

۲۸۵۱ ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے

وانظر الى العظام كيف ننشزها۔ (یعنی ننشزها کی جگہ ننشزها) (مسند ابی یوسف)

۲۸۵۲ حضور ﷺ کی حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے عرض کیا اے جبرئیل علیہ السلام! مجھے ان پڑھ قوم کی

طرف بھیجا گیا ہے۔ جن میں بوڑھیاں، بڑھے بوڑھے، غلام، باندی اور ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں

پڑھی۔ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد! یہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا۔

ابوداؤد الطیالسی، ترمذی، ابن منیع، الرویانی، السنن لسعید بن منصور

فائدہ: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت حسن صحیح ہے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کئی طریقیوں سے منقول ہے۔

خلفاء راشدین اور ان سے قبل حضور اکرم ﷺ کے دور میں امیہین ان پڑھ مسلمانوں کی تعداد زیادہ رہی جس کی وجہ سے من جانب اللہ ان کے لیے

مختلف قراءتوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت دے دی گئی بعد میں جیسے جیسے تعلیم عام ہوئی اللہ پاک نے نگوئی طور پر قرآن پڑھنا ایک ہی قرأت

میں محصور کر دیا۔ اگرچہ تشریحی طور پر اب بھی ہر حرف پر قرآن پڑھنا جائز ہے لیکن چونکہ اس میں امت کے اختلاف اور انتشار کا خدشہ تھا۔ اس لیے

خلفاء راشدین ہی کے دور سے ایک قرأت میں قرآن پڑھنے کو زیادہ اختیار کیا گیا۔

۲۸۵۳ رسول اللہ ﷺ اعجاز الراء کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام سے ملے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھ ان پڑھ امت کی طرف

بھیجا گیا ہے۔ جن میں قریب المگ بوڑھے، بڑی بوڑھیاں اور غلام بھی ہیں (جو تعلیم حاصل کرنے سے عاجز ہیں) لہذا حضرت جبرئیل علیہ

السلام نے فرمایا: آپ ان کو حکموں کے سات حروف (یعنی قراءتوں) پر قرآن پڑھا لیں۔ مسند احمد، ابن حبان، مستدرک الحاکم

نوٹ: ۳۱۰۷ پر روایت گزر چکی ہے۔

۲۸۵۴ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ایک آیت پڑھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف پڑھی۔ میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: کیا آپ نے مجھے یوں یوں نہیں پڑھایا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، کیوں نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اور آپ نے مجھے یوں یوں نہیں پڑھایا؟ فرمایا: کیوں نہیں۔ تم دونوں نے اچھا اور عمدہ پڑھا ہے۔

حضرت ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں آپ کو کچھ عرض کرنے لگا تو آپ ﷺ نے میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا اے ابی بن کعب! مجھے قرآن پڑھایا گیا۔ پھر مجھ سے پوچھا گیا: ایک حرف پر یا دو حرف پر؟ میرے ساتھ والے فرشتے نے جواب دیا دو حرفوں پر۔ لہذا میں نے بھی کہا: دو حرفوں پر؟ میرے ساتھ والے فرشتے نے جواب دیا دو حرفوں پر۔ لہذا میں نے بھی کہا: دو حرفوں پر۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا: دو حرفوں پر یا تین حرفوں پر؟ میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا: تین حرفوں پر۔ لہذا میں نے کہا: تین حرفوں پر۔ حتیٰ کہ وہ سات حرفوں پر پہنچ گیا ان میں سے ہر حرف کافی شافی ہے۔ غفوراً رحیمًا کہوں یا سمیعًا علیما یا علیما سمیعًا اللہ اسی طرح ہے۔ جب تک عذاب کی آیت کو رحمت سے بد نہ جائے یا رحمت کی آیت کو عذاب سے۔ مسند احمد، ابن مبیع، نسائی، مسند ابی یعلیٰ، السنن لسعد بن منصور ۳۰۸۰ پر روایت گزر گئی۔

۲۸۵۵ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں مسجد میں تھا۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس نے جو قرأت کی۔ میں نے اس کی تردید کی۔ پھر دوسرا شخص مسجد میں آیا اور نماز میں اس شخص کے خلاف قرأت کی۔ پھر ہم نماز سے فارغ ہو کر سب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے میں نے عرض کیا اس شخص نے ایسی قرأت کی ہے جس کی میں نے ان پر نکیر کی۔ پھر یہ دوسرا شخص آکر دوسری طرح قرأت کرنے لگا۔ رسول اللہ ﷺ نے دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ دونوں نے پڑھ کر سنایا۔ آپ ﷺ نے دونوں کی تحسین فرمائی۔ لہذا میرے دل میں تکذیب (جھٹلانے کا) خیال سا ہوا جو جاہلیت میں بھی نہیں تھا۔ پھر جب رسول اللہ ﷺ نے میری بدلی ہوئی کیفیت ملاحظہ فرمائی تو میرے سینے پر ہاتھ مارا جس سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ گویا میں ڈر کے مارے اللہ کو دیکھنے لگا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابی! میرے رب نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ ایک حرف پر قرآن پڑھاؤ۔ میں نے درخواست کی کہ میری امت پر آسانی کر دیجیے۔ لہذا اللہ پاک نے دوسری مرتبہ فرمایا: دو حرفوں پر پڑھاؤ۔ میں نے دوبارہ درخواست کی کہ میری امت پر آسانی فرمائیے۔ اللہ پاک نے تیسری مرتبہ درخواست کی کہ ہر بارے کے بارے تمہاری ایک ایک دعا قبول ہوگی۔ پس میں نے دوبارہ یہ دعا کی: اللھم اغفر لامتی، اللھم اغفر لامتی۔ اور تیسری دعائیں نے اس دن کے لیے ذخیرہ کر لی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف متوجہ ہوگی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ مسند احمد، مسلم

۲۸۵۶ (ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) نبی کریم ﷺ بنی غفار کے جوہڑ (تالاب) کے پاس تھے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے (آکر) فرمایا: اللہ پاک آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت ایک حرف پر قرآن پڑھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں اللہ سے عافیت اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اور میری اس طاقت نہیں رکھتی۔ جبرئیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے اور فرمایا: اللہ پاک آپ کو حکم دیتا ہے آپ کی امت دو حرفوں پر قرآن پڑھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں اللہ سے عافیت اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں، میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام سہ بارہ تشریف لائے اور فرمایا: اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ آپ کی امت تین حرفوں پر قرآن پڑھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں اللہ سے عافیت اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ جبرئیل علیہ السلام چوتھی بار تشریف لائے اور فرمایا: اللہ پاک آپ کو حکم فرماتا ہے کہ آپ کی امت سات حرفوں پر قرآن پڑھے۔ جس حرف پر بھی پڑھیں گے درست ہوگا۔

مسند ابی داؤد الطیالسی، مسلم، ابوداؤد، الدارقطنی فی الافراد

۲۸۵۷ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھا:

واتقوا یوماً تجزی نفس عن نفس شیئاً۔

حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے رسول اللہ ﷺ نے لاجزی پڑھایا ہے اور لا تقبل منها شفاعۃ۔ (لاقبل کی) تاء کے ساتھ

پڑھایا ہے اور لا یؤخذ منها عدل (یوخذ کی) یاء کے ساتھ پڑھایا ہے۔ رواہ مستدرک الحاکم ۲۸۵۸ ابی اسامہ اور محمد بن ابراہیم تمیمی فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک شخص کے پاس سے گذرے جو پڑھ رہا تھا:

والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھہر گئے اور آدمی کو کہا دوبارہ پڑھو! اس نے دوبارہ پڑھا تو آپ نے پوچھا: کس نے پڑھایا یہ؟ اس نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے پاس چلنے کو کہا۔ لہذا دونوں حضرات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابوالمنذر! (ابی رضی اللہ عنہ کی کنیت) کیا تم نے اس شخص کو یہ آیت پڑھائی ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ سچ کہتا ہے اور میں نے بھی رسول اللہ ﷺ کے منہ سے یونہی سنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاکیداً پوچھا: تم نے رسول اللہ ﷺ کے منہ سے سنی ہے؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیسری مرتبہ پوچھا: حالانکہ آپ غصہ سے (بار بار پوچھ رہے) تھے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں اللہ کی قسم! اللہ پاک نے جبرئیل علیہ السلام پر نازل کی، جبرئیل علیہ السلام نے محمد کے قلب پر نازل کی اور اس کے بارے میں خطاب سے ان کی رائے پوچھی اور نہ اس کے بیٹے سے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (باوجودیکہ امیر المؤمنین تھے) وہاں سے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے نکلے۔ ابوالشیخ فی تفسیرہ، مستدرک الحاکم حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اطراف میں فرماتے ہیں اس روایت کی صورت میں مرسل ہے اور میں کہتا ہوں کہ محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت کا ایک اور طریق ہے۔

اور اسی کے مثل ابن جریر اور ابوالشیخ وغیرہ نے عمرو بن عامر انصاری سے نقل کیا ہے جس کو ابو سعید نے فضائل میں، سعید، ابن جریر، ابن المنذر، اور ابن مردویہ نے بھی تخریج فرمایا ہے اور یہی طریق صحیح ہے۔ مستدرک الحاکم ۲۸۵۹ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو پڑھایا:

يقص الحق وهو خير الفاصلين. الدارقطني في الافراد. ابن مردويه

حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی قرأت پر اختلاف

۲۸۶۰۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ میں مسجد میں تھا۔ میں نے سورہ نحل کی ایک آیت پڑھی مجھے رسول اللہ ﷺ نے پڑھائی تھی۔ میرے برابر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے وہی آیت دوسری طرح پڑھی۔ میں نے اس سے پوچھا: تم کو یہ قرأت کس نے پڑھائی؟ اس نے رسول اللہ ﷺ کا نام لیا۔ اتنے میں ایک تیسرے شخص نے وہی آیت ہم دونوں کے خلاف طریقے پر پڑھی۔ میں نے پھر دونوں سے پوچھا: تم دونوں کو یہ کس نے پڑھایا؟ دونوں نے حضور اکرم ﷺ کا نام لیا۔ میں نے کہا: میں تم دونوں سے اس وقت تک جدا نہ ہوں گا جب تک تم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں نہ چلو۔ چنانچہ ہم سب رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے۔ میں نے آپ کو ساری خبر سنائی آپ نے مجھے پڑھنے کو کہا: میں نے پڑھا تو آپ نے درست قرار دیا۔ پھر دوسرے کو پڑھنے کو کہا اس کے پڑھنے پر بھی اس کو درست قرار دیا۔ پھر تیسرے کو پڑھنے کا کہا اس کے پڑھنے پر بھی اس کو درست قرار دیا۔ اس دن میرے دل میں جاہلیت کی طرح کاشک سا پیدا ہوا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس حال میں دیکھا تو فرمایا: شاید تیرے اندر شیطان آگیا ہے۔ پھر آپ نے اپنی ہتھیلی میرے سینے پر مار کر شیطان کو دفع کیا اور دعا کی: اے اللہ اس سے شیطان کو نکال دے۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا: رب کی طرف سے ایک آنے والا (فرشتہ) میرے پاس آیا۔ اور بولا: اے محمد! ایک حرف پر قرآن پڑھو۔ میں نے دعا کی: اے پروردگار! میری امت پر تخفیف فرمادے۔ پھر دوبارہ میرے پاس فرشتہ آیا اور کہا: اے محمد! دو حرفوں پر قرآن پڑھو۔ میں نے دعا کی: اے پروردگار! میری امت پر تخفیف فرما۔ میرے پاس فرشتہ پھر آیا اور کہا: اے محمد! سات حرفوں پر قرآن پڑھو۔ اور آپ کے لیے ہر مرتبہ دعا کرنے پر ایک سوال پورا کیا جاتا ہے۔ میں نے دعا کی: اے پروردگار! میری امت کی مغفرت فرما۔ اور تیسری دعا میں نے قیامت میں شفاعت

کرنے کے لیے مؤخر کر دی۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے: ابراہیم علیہ السلام بھی میری شفاعت کے لیے رغبت کریں گے۔

رواہ ابن عساکر

۳۰۹۰، ۳۰۹۱ اور ۳۸۵۵ پر روایت گزر چکی ہے۔

۳۸۶۱... ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پڑھا "قد بلغت من لدنی" مشقلہ (یعنی لام پر تشدید پر ہی من لدنی)۔

ابوداؤد، ترمذی، غریب، المزار، ابن جریر، الباوردی، ابن المنذر، الکبیر للطبرانی، ابن مردویہ

۳۸۶۲ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو تغزب فی حمئہ پڑھایا۔

ابوداؤد الطیالسی، ابوداؤد، ترمذی، غریب، ابن جریر، ابن مردویہ

۳۸۶۳ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے "لتخذت علیہ اجرأ" پڑھا۔ مسلم، البغوی، ابن مردویہ

۳۸۶۴ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے پڑھایا: "وليقولوا درست" یعنی سین کے جزم اور تاء کے فتح

کے ساتھ۔ رواہ مستدرک الحاکم

۳۸۶۵ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یوں پڑھا:

أَنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا۔

یعنی شروع میں دو ہمزہ کے ساتھ۔ ابن حبان، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ

۳۸۶۶ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اتنخت علیہ اجرأ پڑھا۔ الباوردی، ابن حبان، مستدرک الحاکم

۳۸۶۷ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے پڑھا:

لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ اجْرًا (یعنی تخت کی جگہ)۔ زواہ ابن مردویہ

۳۸۶۸ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پڑھا: فابوا ان يضيفوهما۔ (یعنی ان تصیفوہما کی جگہ)۔

زواہ ابن مردویہ

۳۸۶۹ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد باری تعالیٰ: فابوا ان يضيفوهما کے متعلق فرمایا: یہ اہل بستی کینے

لوگ تھے۔ (نسائی، الدیلمی، ابن مردویہ)

فائدہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا انہوں نے انکار کر دیا ان

کے متعلق حضور ﷺ نے مذکورہ بالا ارشاد فرمایا۔

۳۸۷۰ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پڑھا:

فوجدا فيها جدارا ان ينقض فاقامه فهدمه ثم قعديينه۔

(جبکہ مشہور قرأت میں فہدمہ ثم قعدیینہ نہیں ہے۔) ابن الانباری فی المصاحف، ابن مردویہ

۳۸۷۱ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان واذكروهم بايام الله اور ان کو اللہ کے ایام یاد

دلانیے کے متعلق ارشاد فرمایا (ایام سے مراد) اللہ کی نعمتیں ہیں۔ عبد بن حمید، نسائی، السنن للبیہقی، ابوداؤد الطیالسی

۳۸۷۲ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے لیغرق اہلہا پڑھا (جبکہ مشہور قرأت لتغرق اہلہا ہے)۔ ابن مردویہ

۳۸۷۳ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو پڑھتے ہوئے سنا:

وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة صالحة غصبا۔ (مشہور قرأت میں صالحتہ نہیں ہے)۔ رواہ ابن مردویہ

۳۸۷۴ ابن ابی حسن اپنے والد کے واسطے اپنے دادا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہ وہ ایک فارسی شخص کو پڑھاتے

تھے۔ جب ان کو یہ پڑھایا:

ان شجرۃ الزقوم طعام الایتم۔ اس نے ”طعام الیتیم“ پڑھا۔ نبی ﷺ وہاں سے گذرے تو اس کو فرمایا: طعام الظالم کہہ لو۔ اس نے کہہ لیا۔ پس اس (کی برکت) سے اس کی زبان صاف ہوگئی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے ابی! اس کی زبان درست کرو اور اس کو پڑھاؤ تم کو اجر ملے گا۔ بے شک جس نے یہ قرآن نازل کیا اس نے اس میں کوئی غلطی نہیں چھوڑی اور نہ اس نے جس کے ذریعے یہ نازل کیا گیا۔ اور نہ ہی اس نے کوئی غلطی کی جس پر یہ نازل کیا گیا ہے۔ بے شک یہ قرآن واضح عربی میں ہے۔ رواہ الدیلمی

۲۸۷۵۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے: فبذلک فلیقر حواہو خیر ممایجمعون۔ پڑھایا۔

ابو داؤد الطیالسی، مسند احمد، ابو داؤد، مستدرک الحاکم، ابن مردویہ

۲۸۷۶۔ (انس رضی اللہ عنہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی سب لوگ یوں پڑھتے تھے مالک یوم الدین۔ (یعنی ملک کی جگہ مالک پڑھتے تھے)۔ رواہ ابن ابی داؤد

رسول اللہ ﷺ پر ہر سال قرآن پیش ہوتا تھا

۲۸۷۷۔ (مسند ابن عباس رضی اللہ عنہ) ابی ظبیمان سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہم سے دریافت فرمایا: تم دو قرآن توں میں سے کوئی قرأت کو پہلی شمار کرتے ہو؟ ہم نے کہا: عبد اللہ رضی اللہ عنہ (بن مسعود) کی قرأت کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں۔ رسول اللہ ﷺ پر ہر سال ایک مرتبہ قرآن پیش کیا جاتا تھا۔ مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ پر دو مرتبہ قرآن پیش کیا گیا۔ اور اس پیشی پر عبد اللہ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہوتے تھے۔ لہذا جو قرآن پاک منسوخ ہوا اور تبدیل کر دیا گیا اس پر وہ حاضر ہوئے لیکن یہ (آخری بار حاضر ہونا) ان پر شاق ہوا شاید ہمیں گئے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے باوجود اپنی فضیلت اور سن رسیدگی کے (اس اہم موقع پر حاضر نہ ہو سکے) اور یہ کام ایسے شخص کے سپرد کر دیا جو ان کے بیٹے کے قائم مقام تھے۔ (غالباً زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے)۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی کتابت وغیرہ کا کام حضرت زید بن ثابت کے سپرد کیا کیونکہ وہ حاضر تھے اور عبد اللہ غائب رہتے تھے نیز اس لیے بھی کیونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ وحی لکھا کرتے تھے رسول اللہ ﷺ کی۔ اور بعد صدیقی میں قرآن لکھ چکے تھے۔ رواہ ابن عساکر

۲۸۷۸۔ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا: تمہارے پیغمبر پر قرآن پاک سات دروازوں سے سات حروفوں پر نازل ہوا۔ جبکہ تم سے پہلے کتاب ایک ہی دروازے سے ایک ہی حرف پر نازل ہوتی تھی۔

ابن ابی داؤد، مستدرک الحاکم

۲۸۷۹۔ (ابو الطفیل رضی اللہ عنہ) حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پڑھا:

فمن تبع ہدی۔ (یعنی ہدای کی جگہ ہدی)۔ الخطب فی المتفق والمفتقر

نوٹ: ۳۰۶۸ نمبر روایت کے ذیل حروف سے کیا مراد ہے کی مفصل بحث ملاحظہ فرمائیں۔

القرآء

۲۸۸۰۔ (ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) عبید بن مسعود مرقی کہتے ہیں مجھے ہارون بن مسیب نے کہا: تم کس کی قرأت پر قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے نافع رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ پوچھا: نافع نے کس سے پڑھا۔ میں نے کہا: ہمیں نافع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے اعرج عبد الرحمن بن ہرمز پر پڑھا اور اعرج نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر پڑھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر پڑھا۔ ابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو قرآن سنایا اور فرمایا مجھے جبرئیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں تجھ پر قرآن پیش کروں۔ (یعنی سناؤں)۔

الأوسط للطنطاوی

۲۸۸۱ (الشافعی) اسماعیل بن فسطین کہتے ہیں میں نے شبلی پر پڑھا، شبلی نے عبداللہ بن کثیر پر پڑھا۔ عبداللہ کہتے ہیں انہوں نے مجاہد پر (قرآن) پڑھا۔ مجاہد کہتے ہیں: انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما پر پڑھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے ابی رضی اللہ عنہ پر پڑھا اور ابی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ پر پڑھا۔ مستدرک الحاکم، ابن عساکر

۲۸۸۲ (انس رضی اللہ عنہ) قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا: رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں معاذ، ابی، سعد اور ابو زید رضی اللہ عنہم نے قرآن پڑھ لیا تھا۔ میں نے پوچھا: ابو زید کون ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے بچچاؤں میں سے تھے کوئی۔ رواہ ابن ابی شیبہ

باب الدعاء

فصل..... فضائل دعا

۲۸۸۳ (مسند علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: دعا سے عاجز مت بنو۔ اللہ نے مجھ پر یہ نازل فرمایا: کیا ہے؟

ادعونی استجب لکم۔ سورہ

مجھے پکاروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارا رب (خود) پکار کونتا ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟

چنانچہ اللہ پاک نے یہ فرمان نازل فرمایا:

و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب۔ سورہ

اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے سوال کریں تو (تو کہہ دے) میں (ان کے بالکل) قریب ہوں۔ رواہ مستدرک الحاکم

۲۸۸۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا: (کسی طرح کی تدبیر اور) احتیاط تقدیر کو نہیں ٹال سکتی لیکن دعا تقدیر کو ٹال سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیاة الدنیا و متعناهم الی حین۔ سورہ یونس ۹۸

ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک (فواند دنیا سے) ان کو نفع

اندوز رکھا۔ ابن ابی حاتم، اللالکائی فی السنۃ

۲۸۸۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ارشاد فرمایا:

دعا مومن کی ڈھال ہے اور جب دروازہ کھٹکھٹانا ہے تجاشا ہو جائے ت کھول ہی دیا جاتا ہے۔ الخلی فی الخلیات

۲۸۸۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ کا میرے پاس سے گزر ہوا تو میں یہ یہ کہہ رہا تھا: اللہم ارحمنی

آپ ﷺ نے میرے شانوں کے درمیان ہاتھ مارا اور فرمایا: (اللہ کی رحمت کو) عام کرو اور (صرف اپنے لیے) خاص نہ کرو۔ بے شک خصوصی اور

عموم کے درمیان آسمان و زمین جیسا فاصلہ ہے۔ رواہ الذہبی

۳۲۵۸ پر روایت کی شرح ملاحظہ فرمائیں۔

۲۸۸۷ (ابوالدرداء رضی اللہ عنہ) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

دعا میں خوب کوشش (اور کثرت) کرو بے شک جب کثرت سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو دروازہ آخر کھول دیا جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

فصل..... دعا کے آداب میں

۲۸۸۸ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس وقت تک نہ گراتے تھے جب تک ان کو اپنے چہرہ پر نہ پھیر لیتے۔ ترمذی، صحیح غریب، مستدرک الحاکم
 کلام:..... امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت غریب (بمعنی ضعیف) ہے۔ حماد بن عیسیٰ اس میں متفرد ہیں اور وہ قلیل الحدیث بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں جن کی بناء پر روایت ضعیف ہے۔ جبکہ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس روایت کے مثل اور بھی مرویات ہیں انہی میں سے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے۔ ان تمام احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے مذکورہ روایت کو بھی حسن درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

تحفة الاحوذی ۳۲۸/۹

۲۸۸۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اجازت الیت کے پاس ہتھیلیوں کے اندرونی حصے کے ساتھ دعا کرتے دیکھا، جب آپ دعا سے فارغ ہو گئے تو آپ نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے۔ عبدالغنی بن سعید فی ایضاح الاشکال
 ۲۸۹۰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا:

میں اس شخص کو اللہ کے بارے میں تنگ دل پاتا ہوں جو ناممکن شے کے بارے میں اللہ سے سوال کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی حقیقت تو اللہ نے واضح کر دی ہے۔ الدارمی، ابن عبدالبر فی العلم

فتنہ سے پناہ مانگنے کا طریقہ

۲۸۹۱ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے ایک شخص کو فتنہ سے پناہ مانگتے ہوئے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ میں اس کے الفاظ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس شخص کو فرمایا: کیا تو اپنے رب سے یہ سوال کر رہا ہے کہ وہ اہل و عیال اور مال و دولت نہ عطا کرے یا فرمایا: اہل و اولاد نہ دے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں: کیا تو پسند کرتا ہے کہ اللہ تجھے مال اور اولاد نہ دے۔ پس جو بھی فتنہ سے پناہ مانگنا چاہے وہ فتنے کی گمراہیوں سے پناہ مانگے۔ ابن ابی شیبہ، ابو عبید

فائدہ:..... اللہ پاک نے قرآن پاک میں مال و اولاد کو فتنہ ارشاد فرمایا ہے یعنی یہ آزمائش ہیں۔ لہذا فتنہ سے پناہ مانگنا مال و اولاد سے پناہ مانگنا ہے۔ لہذا یہ دعا کرے کی اے اللہ! میں گمراہ کرنے والے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

اللهم انی اعوذ بک من الفتنۃ المصللۃ۔

۲۸۹۲ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب دعا کرتے تو ہاتھ اٹھا لیتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ مستدرک الحاکم

۲۸۹۳ (عثمان رضی اللہ عنہ) ایک شخص دعا کرتے ہوئے ایک انگلی سے اشارہ کر رہا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ شیطان کے لیے تھوڑا ہے۔ سفیان الثوری فی الجامع، السنن للبیہقی

۲۸۹۴ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے علی! اللہ سے ہدایت اور درستی کا سوال کرو۔ اور ہدایت کے ساتھ سیدھے راستے کو اور درستی سے تیرے نشانے کی درستی یاد کرو۔

ابوداؤد الطیالسی، الحمیدی، مسند احمد، العدنی، مسلم، ابوداؤد، نسائی، مسند ابی یعلیٰ، الکجی و یوسف القاضی فی

سننہما، جعفر الفریابی فی الذکر، ابن حبان، شعب الایمان للبیہقی

۲۸۹۵ حضور ﷺ سے جب کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اگر اس کام کو کرنے یا اس چیز کو عطا کرنے کا خیال ہوتا تو نعم

ہاں فرمادیتے۔ اور اگر نہ کرنے کا خیال ہوتا تو خاموش ہو جاتے لیکن لا یعنی نہیں کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ایک اعرابی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ سوال کیا۔ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری بار بھی سوال کر دیا تب آپ ﷺ نے چمڑے کے انداز میں فرمایا: اے اعرابی! سوال کر جو بھی چاہتا ہے۔ صحابہ کرام اس کی ذات پر رشک کرنے لگے، صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ جنت مانگے گا۔ لیکن اعرابی نے کہا: میں آپ سے سواری کا جانور مانگتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تجھے دیا۔ اعرابی نے پھر کہا اور میں زاد (یعنی توشہ) کا بھی سوال کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تجھے دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس پر بہت تعجب ہوا کہ (ہر چیز مانگ سکتا تھا لیکن یہ اتنی حقیر چیزوں پر راضی ہو گیا) پھر نبی کریم ﷺ نے اعرابی کے بارے میں فرمایا: اس اعرابی اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوالوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ پھر آپ ﷺ نے (اس کی وضاحت میں اس بڑھیا کا قصہ) ارشاد فرمایا:

جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم سمندر عبور کرنے کا ملا اور آپ سمندر تک پہنچے تو جانوروں کے چرہ مڑ گئے (یعنی سمندر نے راستہ نہ دیا) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی: اے پروردگار! یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ (ادھر سمندر راستہ نہیں دے رہا اور تیرا حکم ہے کہ اس کو عبور کروں) اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: تم یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس جو اپنے ساتھ اس کی ہڈیوں کو لے لو۔ (پھر سمندر تم کو راستہ دے گا) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو قبر زمین کے برابر ہو چکی تھی۔ (اور اس کا کوئی نام و نشان نہ تھا) موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ چل رہا تھا کہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اگر کوئی ہم میں سے ان کی قبر کو جان سکتا ہے تو فلاں بڑھیا ہی ہے جس کو شاید اس کا علم ہو۔

سکندر اعظم
حیدرآباد سندھ پاکستان

یوسف علیہ السلام کی قبر

موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیغام بھیج کر بلایا اور پوچھا کیا تو جانتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بڑھیا نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کا پتہ دو۔ بڑھیا بولی ہرگز نہیں اللہ کی قسم! جب تک تم میرا سوال پورا نہ کرو۔ موسیٰ نے فرمایا: بولو تمہیں تمہارا سوال دیا۔ بڑھیا بولی میں تم سے سوال کرتی ہوں کہ جنت میں جس درجہ میں تم کو جگہ ملے اسی درجہ میں مجھے بھی جگہ کا نہ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم صرف جنت کا سوال کرو۔ بڑھیا بولی نہیں۔ اللہ کی قسم! میں تو تمہارے ساتھ ہی ہونا چاہتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار اس کو منع فرماتے رہے۔ آخر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی اس کو اس کا سوال دیدو۔ (یعنی حاشی بھرو) اس سے تمہارے حق میں کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس کا سوال دیا اور تب بڑھیا نے پتہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہڈیوں کو نکالا اور سمندر عبور کیا۔ الاوسط للطبرانی، الخزانة فی مکارم الاخلاق

۳۸۹۶ (سعد رضی اللہ عنہ) حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں دغا میں دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر رہا تھا آپ ﷺ پاس سے گزرے تو شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا ایک (ایک) (یعنی ایک انگلی سے اشارہ کرو)۔ ابن ماجہ

۳۸۹۷ (مسند طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ) ابن ابی الدنیا اپنی کتاب مجلسیۃ النفس میں فرماتے ہیں مجھے عبد الرحمن بن صالح الحارثی عن ابن لیث کی سند سے بیان کیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

ایک شخص نے ایک دن اپنے کپڑے اتارے اور تیز دھوپ میں زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اور اپنے نفس کو ڈانٹنے لگا: لے مزہ چکھ جہنم کی آگ کا۔ (لے مزہ چکھ جہنم کی آگ کا) تورات کو تو مردار بنا پڑا رہتا ہے اور دن کو آٹر خان بنا پڑتا ہے۔ اس شخص کی اس حالت میں رسول اللہ ﷺ پر نظر پڑی، آپ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے۔

لہذا وہ شخص زمین سے اٹھ کر نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا مجھ پر میرا نفس غالب آ گیا تھا (اس وجہ سے اس کو سزا دے رہا تھا) نبی کریم ﷺ نے اس کو فرمایا: تیرے لیے آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اللہ پاک تیرے ساتھ ملا لگے پھر فرماتے ہیں۔ پھر آپ

ﷺ نے اپنے اصحاب کو فرمایا اپنے بھائی سے توشہ حاصل کر لو۔ پس کوئی کہنے لگا اے فلاں! میرے لیے دعا کر دو۔ نبی کریم ﷺ نے اس شخص کو فرمایا تم ان سب کے لیے دعا کر دو۔ وہ شخص دعا کرنے لگا:

اللهم اجعل التقوی زادهم واجمع علی الهدی امرهم۔

اے اللہ تقویٰ کو ان کا توشہ بنا دے اور ہدایت پر ان کے کام کو جمع کر دے۔

نبی ﷺ نے دعا کی: اللهم سدده اے اللہ اس کو (دعا میں) درست راہ سمجھا۔ پھر اس شخص نے یہ دعا (بھی) کی: واجعل الجنة ما بهم اور جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ ابن ابی الدنیا فی محاسبة النفس

۲۸۹۸ (ابی بن کعب رضی اللہ عنہ) حضور اکرم ﷺ جب کسی کے لیے دعا فرماتے تو اپنی ذات سے ابتداء فرماتے تھے۔ ایک دن آپ ﷺ نے موسیٰ علیہ السلام کو ذکر فرمایا: اللہ کی رحمت ہو ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر، اگر وہ صبر کرتے تو اپنے ساتھی سے بڑی تعجب خیز چیزیں دیکھتے لیکن انہوں نے یہ کہا:

ان سألتک عن شیء بعد ہا فلا نصابا حینی قد بلغت من لدنی عذراً۔ الکہف: ۷۶

اس کے بعد اگر میں (پھر) کوئی بات پوچھوں (یعنی اعتراض کروں) تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر (کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے)۔

یوں خود ہی انہوں نے اپنے ساتھی کو ذکر فرمایا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، ابوداؤد، نسائی، ابن منیع، ابن قانع، ابن مردویہ فائدہ: ۲۸۸۶ روایت میں خصوصیت کی بجائے عمومیت کا حکم دیا گیا یعنی سب کے لیے دعا کرو اسی طرح روایت ۲۸۹۷ میں بھی عام دعا کرنے کا حکم دیا۔ جبکہ اس روایت میں اور آنے والی چند روایات میں اس بات کی تعلیم ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کرے پھر اس دعا میں سب کو شامل کر لے جیسے نبی ﷺ نے فرمایا: اے اللہ ہم پر رحم فرما۔

اللهم افتح لنا ابواب الدعاء واجابتنا۔

۲۸۹۹ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب دعا میں کسی کا ذکر کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا کرتے۔

ترمذی، حسن غریب صحیح

۲۹۰۰ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ (دعا میں) جب انبیاء میں سے کسی کا ذکر کرتے تو اپنی ذات سے ابتداء فرماتے

تھے اور یوں کہتے تھے اللہ کی رحمت ہو ہم پر، ہو اور صالح پر۔ مسند احمد، ابن حبان، مستدرک الحاکم

۲۹۰۱ آپ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ انبیاء میں سے کسی کا ذکر فرماتے تو یوں فرماتے: اللہ پاک ہم پر، ہو پر، صالح پر اور موسیٰ پر رحم فرمائے اسی طرح دوسرے انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرماتے تھے۔ ابن قانع، ابن مردویہ

دنیا و آخرت کی بھلائی مانگئے

۲۹۰۲ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ ایک شخص کے پاس آئے وہ (بیماری اور عبادت و محنت و مشقت) کی وجہ سے پر

نوج ہوئے جوڑے کی طرح پڑا تھا۔

نبی ﷺ نے اس سے پوچھا: تو اللہ سے کوئی دعا کرتا تھا کیا؟ اس نے عرض کیا: میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ! تو آخرت میں جو مجھے نرا دینا چاہتا ہے وہ دنیا ہی میں دیدے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تم نے یوں کیوں نہیں کہا:

اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔

اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ چنانچہ اس نے یہ دعا کی تو اللہ نے

اس کو شفاء بخش دی۔ مصنف ابن ابی شیبہ
۳۹۰۳ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اگر سودعا میں بھی کرتے تب بھی شروع میں، آخر میں اور درمیان میں یہ دعا ضرور کرتے:

ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار۔ رواہ ابن النجار

۳۹۰۴ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک شخص کے پاس داخل ہوئے، وہ (بیماری کی وجہ سے) گویا ایک پرندہ (کی طرح بے جان) ہو گیا تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: کیا تو نے اپنے پروردگار سے کوئی سوال کیا تھا؟ اس نے عرض کیا: میں یہ دعا کیا کرتا تھا: اے اللہ! تو جو سزا مجھے کل آخرت میں دینا چاہتا ہے وہ آج دنیا ہی میں جلد دے دے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو نے یوں کیوں نہیں کہا:

اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار۔

چنانچہ آدمی نے یہ دعا کی تو وہ (بیماری کی کیفیت اس سے) چھٹ گئی۔ رواہ ابن النجار

۳۹۰۵ اسحاق بن ابی فرہ، ربیع الرقاشی کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بندہ مؤمن اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جبرئیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں تم اس کو جواب مت دو۔ میں چاہتا ہوں کہ اور اس کی آواز سنوں۔ اور جب فاجر شخص دعا کرتا ہے تو اللہ پاک جبرئیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں: اے جبرئیل علیہ السلام! اس کی حاجت جلد پوری کر دو میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا۔

رواہ ابن النجار

۳۹۰۶ (مسند سلمۃ بن الاکوع) سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو جب بھی دعا کرتے دیکھا آپ نے

سبحان ربی الاعلیٰ والوہاب پڑھا۔ رواہ ابن ابی شیبہ

۳۹۰۷ عبد اللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہا: میں قرآن سیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تو اس کے بدلے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو:

سبحان اللہ، والحمد للہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ولا اللہ الا اللہ، واللہ اکبر

آدمی نے کہا: اس طرح اور اس نے پانچوں انگلیاں ملا لیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تو اللہ کے لیے ہیں آدمی نے پوچھا: پھر میرے لیے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تم یوں کہا کرو:

اللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی۔

پھر آدمی نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر کے پوچھا: یوں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس شخص نے اپنے دونوں ہاتھ خیر کے ساتھ بھر لیے۔

مصنف عبدالرزاق

فائدہ:..... آدمی نے پہلے ایک مٹھی بند کر کے پوچھا کہ اس طرح ان کلمات کو تھام لوں اور ان کو حرز جان بنا لوں تو میرے لیے کافی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں یہ تو فقط پروردگار کی خوشنودی کے لیے ہیں۔ اور تمہارے فائدے کے لیے یہ دعا میں ہیں تب اس نے دونوں مٹھیاں بند کر کے پوچھا: ان دونوں چیزوں کو زندگی سے وابستہ کر لوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اور اس طرح تم دونوں ہاتھوں میں خیر بھر لو گے۔

۳۹۰۸ عکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا: اہتال یہ ہے: پھر آپ دونوں ہاتھ کھول کر ان کی پشت اپنے منہ کی طرف کر لی اور دعا اس طرح ہے پھر آپ نے دونوں ہاتھ (تھیلیاں سامنے کر کے) ڈاڑھی کے نیچے کر لیے۔ اور اخلاص اس طرح ہے پھر انگلی سے اشارہ کر کے دکھایا۔ مصنف عبدالرزاق

فائدہ:..... اہتال: یعنی خوب گڑگڑانا اور آہ وزاری کرنا۔ دعا معلوم ہے اور اخلاص یعنی انگلی سے اشارہ کرنا جس طرح تشہد میں کیا جاتا ہے اور دل میں یہ خیال کرنا اے اللہ ایک جھگڑ پکارتا ہوں میری پکار سن لے یا اخلاص ہے۔

۳۹۰۹ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دو انگلیوں سے اشارہ کرتے دیکھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تو ایک ہے۔ جب بھی تو انگلی سے اشارہ کرے تو ایک انگلی سے اشارہ کر۔ رواہ عبدالرزاق ۳۹۱۰۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی:

اے اللہ! مجھے میرے شوہر نبی ﷺ سے فائدہ پہنچاتا رہ اور میرے باپ ابوسفیان سے اور میرے بھائی معاویہ سے بھی مجھے فائدہ دیتا رہ۔ نبی کریم ﷺ نے اس کو فرمایا: تم نے تو اللہ سے متین عمروں گئے چنے ایام اور تقسیم شدہ رزق کے بارے میں سوال کیا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک کسی بھی شی کے وقت سے پہلے اس کا فیصلہ فرماتے ہیں اور نہ کسی شی کو اس کے وقت آنے پر مؤخر فرماتے ہیں۔ لہذا اگر تم اللہ سے یہ سوال کرنی کہ وہ تم کو قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے پناہ دے تو یہ زیادہ بہتر اور افضل ہوتا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، مسلم، ابن حبان ۳۲۳۸ پر روایت گذر چکی ہے۔

۳۹۱۱ (ابوامامۃ الباہلی) ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ باہر تشریف لائے تو ہمارے دلوں میں خواہش پیدا ہوئی کہ آپ ﷺ ہمارے لیے دعا فرمادیں۔ اور آپ ﷺ نے ہمارے لیے واقعہ دعا فرمادی:

اللہم اغفر لنا وارحمنا واراض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا کله۔ اے اللہ! ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ہماری دعا قبول فرما، ہمیں جنت میں داخل فرما، جہنم سے نجات مرحمت فرما اور ہمارے تمام کاموں کو اچھا کر دے۔

حضور ﷺ یہ دعا فرما چکے تو ہم نے خواہش کی کہ مزید اور دعائیں ہم کو دیدیں۔ ادھر آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہارے لیے تمام کاموں کی (دعا کر کے اس) کو جمع کر دیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۳۹۱۲ (ابوالدرداء رضی اللہ عنہ) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے:

خوشی کے دن اللہ سے دعا کر، ان شاء اللہ وہ رنج و غم کے دن بھی تیری دعا قبول کرے گا۔ رواہ مستدرک الحاکم

۳۹۱۳ (ابوذر رضی اللہ عنہ) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے:

نیکی کے ساتھ تھوڑی سے دعا بھی کافی ہے، جس طرح بہت سے کھانے کے لیے تھوڑا سا نمک کافی ہو جاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ ۳۹۱۴ (ابوہریرہ رضی اللہ عنہ) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب موسیٰ بن عمران علیہ السلام دعا فرماتے تھے تو حضرت ہارون (بن عمران) علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آمین اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ مصنف عبدالرزاق

دعا میں کوشش و محنت

۳۹۱۵ (عائشہ رضی اللہ عنہا) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم ﷺ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا اس قدر مانگتے تھے کہ میں بھی آپ کے ہاتھ اٹھانے سے تھک جاتی تھی:

اللہم انما انا بشر فلا تعذبني بشتم رجلا شتمته أو آذيتہ۔

اے اللہ! میں بھی ایک بشر ہوں اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو یا کسی کو تکلیف دیدی ہو تو مجھے اس پر عذاب نہ دیجئے گا۔

مصنف عبدالرزاق

۳۹۱۶ (مرسل طاؤس رحمۃ اللہ علیہ) طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ ایک قوم پر بددعا فرمانے لگے تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بہت بلند کر دیئے۔ (آپ کے نیچے) اونٹنی چکرانے لگی تو آپ نے ایک ہاتھ سے اونٹنی (کی مہار) تھامی اور دوسرا ہاتھ اونٹنی کی طرف بلند رہنے دیا۔ مصنف عبدالرزاق

۴۹۱۷ (مرسل عروہ رحمۃ اللہ علیہ) حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک دیہاتی قوم کے پاس سے گزرے، جو اسلام لائے تھے۔ اور لشکریوں نے ان کے علاقوں کو تہہ وبالا کر دیا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے خوب پھیلا کر ان کے لیے دعا کی ایک دیہاتی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں اور پھیلائیے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ہاتھوں کو چہرے کے سامنے (آخرتک) پھیلا دیا اور آسمان کی طرف بلند نہیں کیا۔ مصنف عبدالرزاق

۴۹۱۸ (مرسل الزہری رحمۃ اللہ علیہ) حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ دعا میں اپنے ہاتھوں کو سینے تک بلند کر لیتے تھے۔ پھر (فراغت کے بعد) دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق

۴۹۱۹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور ان کے علاوہ بھی دعا فرماتے تھے۔

مصنف ابن ابی شیبہ

یہی روایت ایک جامع دعا کے ساتھ ۳۲۱۰ پر گزر چکی ہے۔

۴۹۲۰ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے عمرہ پر جانے کی اجازت مانگی۔ آپ ﷺ نے اجازت دیدی اور فرمایا: اے بھائی! اپنی دعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا اور دعا کے وقت ہمیں نہ بھولنا۔ مسند ابی داؤد الطیالسی، مصنف عبدالرزاق

عافیت کی دعا کی اہمیت

۴۹۲۱ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ پہلے سال ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: آگاہ رہو! لوگوں میں یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی شئی تقسیم نہیں ہوئی۔ یاد رکھو! سچائی اور نیکی دونوں جنت میں جائیں گی اور جھوٹ اور بدی دونوں جہنم میں جائیں گی۔

مسند احمد، نسائی، مسند ابی یعلیٰ، ابن حبان فی روضة العقلاء، الدارقطنی فی الافراد، السنن لسعيد بن منصور

۴۹۲۲ جبیر بن نفیر سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ میں منبر رسول اللہ ﷺ کے پاس کھڑے ہوئے تو رسول اللہ ﷺ کو یاد کر کے رونے لگے پھر ارشاد فرمایا: اللہ سے عافیت کا سوال کرو پھر فرمایا: بے شک یقین کے بعد عافیت کے مثل کوئی چیز کسی کو عطا نہیں کی گئی۔

نسائی، حلیۃ الاولیاء

۴۹۲۳ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے بیچ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا: اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ بے شک (ایمان کے) یقین کے بعد عافیت سے افضل کوئی شئی کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ اور شک و شبہ سے بچو، یقیناً کفر کے بعد شک سے زیادہ سخت کوئی چیز کسی کو نہیں دی گئی۔ تم پر سچائی لازم ہے۔ کیونکہ سچائی نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ جھوٹ سے بچو بے شک وہ بدی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ ابن جریر فی تہذیب الآثار، ابن مردودہ

۴۹۲۴ اوسط رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا: پہلے سال رسول اللہ ﷺ میری اس جگہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ اور ارشاد فرمایا: اللہ سے معافاؤ یا فرمایا عافیت کا سوال کرو۔ بے شک یقین کے بعد معافاؤ یا عافیت سے بڑھ کر کوئی افضل شئی کسی کو نہیں دی گئی۔ تم پر سچائی لازم ہے کیونکہ سچائی نیکی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جنت میں جائیں گی۔ جھوٹ سے بچو، کیونکہ وہ بدی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں جہنم میں ہوں گی۔ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، بغض نہ رکھو، قطع تعلق نہ کرو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ اور اللہ کے بندو! تم بھائی بھائی بن جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے۔

مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک الحاکم

فائدہ: عافیت اور معافاۃ دونوں کا ایک ہی مطلب ہے دنیا و آخرت میں ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی سے نجات۔

۳۹۲۵ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ (کی وفات کے بعد ان) کی جگہ کھڑے ہوئے اور فرمایا: میں نے تمہارے نبی ﷺ کو پہلے سال موسم گرما میں اسی جگہ کھڑے ہوئے فرماتے سنا: یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دو مرتبہ بہہ پڑیں۔ پھر فرمایا:

میں نے تمہارے نبی ﷺ کو فرماتے سنا: اللہ سے مغفرت اور دنیا و آخرت میں عافیت اور درگزر کرنے کا سوال کرو۔ مسند ابی یعلیٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس روایت کی سند جید (عمدہ) ہے۔

۳۹۲۶ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے: میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس منبر (رسول) پر فرماتے سنا: میں نے اسی روز پہلے سال رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا تھا: یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے اور رو پڑے پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کلمہ اخلاص کے بعد تم کو عافیت جیسی کوئی چیز نہیں دی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔

مسند احمد، ابن حبان

۳۹۲۷ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا تم جانتے ہو یہاں رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے تھے یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ یہی بات پھر دہرائی پھر رو پڑے۔ پھر دہرائی اور پھر رو پڑے پھر فرمایا: انسانوں کو اس دنیا میں غم اور عافیت سے بڑھ کر افضل کوئی شے عطا نہیں کی گئی لہذا اللہ سے ان دونوں چیزوں کا سوال کیا کرو۔

نسائی، مسند ابی یعلیٰ، الدارقطنی فی الافراد

عافیت کی دعا مانگنا چاہئے

۳۹۲۸ رفاعہ رحمۃ اللہ علیہ بن رافع سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو منبر رسول اللہ ﷺ پر فرماتے ہوئے سنا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے یہ کہہ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی یاد میں رو پڑے۔ پھر یہ کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا: میں نے اسی گرمیوں میں پہلے سال رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

اللہ سے دنیا و آخرت میں عفو، عافیت اور یقین کا سوال کرو۔ مسند احمد، ترمذی حسن غریب

۳۹۲۹ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ سہل رحمۃ اللہ علیہ بن سعد سے روایت کرتے ہیں، حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہم لوگ روزہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور منبر پر چڑھ گئے۔ پھر اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا:

اے لوگو! میں نے رسول اللہ ﷺ کو پہلے سال ان لکڑیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

کسی بندے کو اچھے یقین اور عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ پس اللہ سے حسن یقین اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ البزار

سہل کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے اس کے علاوہ اور کوئی حدیث مرفوعہ منقول نہیں ہے۔

۳۸۳۰ حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: لوگوں کو یقین اور عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ پس ان دونوں چیزوں کا اللہ سے سوال کرو۔ مسند احمد یہ روایت منقطع الاسناد ہے۔

۳۹۳۱ ثابت بن النجاج سے مروی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا: تم لوگ جانتے ہو کہ رسول اللہ ﷺ پہلے سال تمہارے درمیان کھڑے ہوئے تھے اور یہ فرمایا تھا: اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ بے شک کسی بندے کو یقین کے سوا عافیت سے بڑھ کر کوئی شے نہیں دی گئی۔ اور میں بھی اللہ سے یقین اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ مسند ابی یعلیٰ

کلام: یہ روایت بھی منقطع الاسناد ہے۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس حدیث کے متصل اور منقطع بہت سے طریق ہیں جس کی وجہ سے حدیث صحت کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔ بحوالہ کنز العمال ج ۲ ص ۶۲

۴۹۳۲۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل سے دنیا و آخرت کی عافیت اور مغفرت کا سوال کرو۔

۴۹۳۳۔ بواسطہ عبداللہ بن جعفر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! کوئی دعا سب سے افضل

ہے؟ فرمایا: یہ کہ تم اللہ سے مغفرت اور عافیت کا سوال کرو۔ رواہ ابن النجار

فائدہ: بلاشک جب انسان کو دنیا و آخرت کی ہر تکلیف اور مصیبت سے نجات مل جائے اس سے بڑھ کر اور کیا شئی ہو سکتی ہے اور یہی عافیت اور مغفرت کا حاصل ہے۔

۴۹۳۴۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا نبی اللہ! کوئی

دعا افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: اپنے رب سے دعا کرو اور عافیت کا سوال کرو۔ بے شک تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نسائی

۴۹۳۵۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک شخص پر گذر ہوا جو کہہ رہا تھا: اللھم انی اسألك الصبر۔

اے اللہ! میں تجھ سے صبر کا سوال کرتا ہوں۔ تو نے تو اللہ سے مصیبت کا سوال کر لیا ہے، عافیت کا سوال کرو۔

اسی طرح آپ ایک دوسرے شخص کے پاس سے گذرے جو کہہ رہا تھا: اللھم انی اسألك تمام النعمة اے اللہ! میں تجھ سے کامل نعمت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اے ابن آدم! جانتا ہے کمال نعمت کیا شئی ہے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایک دعا ہے، میں خیر کی امید سے مانگ رہا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کمال نعمت جنت کا دخول اور جہنم سے نجات ہے۔

یونہی حضور ﷺ کا ایک شخص ک پاس سے گذر ہوا، جو کہہ رہا تھا: یا ذالجلال والاکرام۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمہارے دعا قبول ہوگی

سوال کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ

ممنوع الدعاء

۴۹۳۶۔ (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی (دیہاتی) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا

آپ ﷺ تشریف فرما تھے۔ اعرابی نے دو رکعت نماز پڑھی پھر دعا کی

اے اللہ! مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی کو اپنی رحمت میں شریک نہ کر۔ نبی اکرم ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: تم

نے ایک وسیع شے کو تنگ کر دیا ہے۔ پھر اعرابی اسی وقت وہاں سے ہٹ کر مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم

اس کی طرف لپکے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ تم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے نہ کہ مشکل پیدا کرنے والا۔

السنن لسعيد بن منصور

۴۹۳۷۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کو دعا کرتے دیکھا، وہ دعا کرتے ہوئے انگوٹھوں کو پاس والی دونوں انگلیاں اٹھا رہی

تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تو ایک ہی ہے یوں اس کو دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرنے سے منع کیا۔ مصنف عبدالرزاق

۴۹۳۸۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اہل مکہ کے قصہ گو و اعظاف کو فرمایا دعا میں قافیہ بندی سے اجتناب

کرو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کو خوب دیکھا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

دعا کی قبولیت کے اوقات

۲۹۳۹ (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بارش کے پہلے قطرے سے اپنے سر کھول دیتے تھے اور رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے: یہ بارش ہمارے پروردگار کے پاس سے ابھی ابھی آئی ہے جو برکت سے بھر پور ہے۔ رواہ ابن عساکر

کلام: روایت میں ایک راوی ابوب بن مدرک ہے جو متروک اور ناقابل اعتبار ہے۔ ابن عساکر بحوالہ کنز ج ۲ ص ۲۲۹
۲۹۴۰ (عطاء) عطاء رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے: تین وقتوں میں آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے وقت، بارش برستے وقت اور دونوں لشکروں کی ٹڈ بھٹیڑ کے وقت۔ السنن لسعید بن منصور

۲۹۴۱ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ افضل گھڑیاں نماز کے اوقات ہیں لہذا ان اوقات میں دعا کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ
۲۹۴۲ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: جب بھی کوئی شخص اللہ کے آگے سجدہ میں پیشانی ٹیکتا ہے اور کہتا ہے: یارب اغفر لی، یارب اغفر لی، یارب اغفر لی، اے پروردگار میری مغفرت فرما، اے پروردگار! میری مغفرت فرما، اے پروردگار! میری مغفرت فرما۔ پھر بندہ ہر اٹھاتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جی ہوتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۲۹۴۳ (مسند حدیث ابو نوزہ السننی یا السننی) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بشیر کہتے ہیں میں نے حضور ﷺ کے پاس اصحاب جن میں حدیر ابو نوزہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں دیکھا کہ یہ لوگ جب بھی چاند دیکھتے تو کہتے:

اللهم اجعل شهرنا الماضي خیر شهر وخیر عاقبة وارسل علينا شهرا هذا بالسلامة والاسلام والامن والایمان والمعافاة والرزق الحسن۔

اے اللہ! ہمارے اس گذشتہ ماہ کو بہترین ماہ بنا اور بہترین انجام کار بنا۔ اور ہم پر آئندہ ماہ کو سلامتی اور اسلام امن اور ایمان عافیت اور عمدہ رزق کے ساتھ بھیج۔ بخاری فی التاريخ، ابن مندہ، الدولابی فی الکنی، ابونعیم، ابن عساکر

فائدہ: نوزہ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، ایک جماعت نے ان کو صحابہ میں شمار کیا ہے جبکہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین میں ان کو شامل کیا ہے۔ الاصابہ۔ فرماتے ہیں ابن مندہ فرماتے ہیں صحیح ابو نوزہ ہے۔

۲۹۴۴ عثمان بن ابی العاتکہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے بھائی زیاد نے بتایا: نبی کریم ﷺ جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے:

اللهم بارک لنا فی شهرنا هذا الداخل۔

اے اللہ! ہمیں اس آنے والے مہینے میں برکت عطا فرما۔

پھر انہوں نے آگے حدیث ذکر کی اور بتایا کہ اس دعا پر چھ صحابہ کرام جنہوں نے یہ دعا سنی تھی مواظبت فرماتے تھے اور ساتھ حدیر ابو نوزہ سلمہ ہیں جو اس دعا پر مواظبت کرتے تھے۔ ابن مندہ، ابن عساکر

قبولیت کے مقامات

۲۹۴۵ (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ حجر اسود اور باب کے درمیان دعا کرتے تھے:

اللهم انی اسألك ثواب الشاکرین ونزل المقربین ومرافقة النبیین ویقین الصدیقین وذلة المتقین واخبارات الموقنین حتی توفانی علی ذلک یا ارحم الراحمین۔

اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں شکر گزاروں کے ثواب کا، برگزیدہ لوگوں کی مہمانی کا، انبیاء کے ساتھ کا، صدیقین کے یقین کا، متقیوں کی سی عاجزی کا اور اہل یقین کی ضرورتی و کسرتی نفسی کا حتیٰ کہ آپ مجھے اسی حال میں اپنے پاس اٹھالیں یا رحم الراحمین۔

رواہ الدیلمی

کلام: اس روایت میں ایک راوی عبدالسلام بن ابی الجحوب ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں راوی متروک (نا قابل اعتبار) ہے۔

مقبولیت کے قریب دعائیں

۳۹۳۶: شناہجی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا قبول ہے۔ الادب المفرد، زوائد الزهد للامام احمد، الکبیر للطبرانی

مخصوص اوقات کی دعائیں

صبح کے وقت کی دعا

۳۹۳۷: (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جاتے۔ دوسری روایت میں ہے جب صبح کی نماز پڑھ لیتے اور سورج طلوع ہو جاتا تو یہ فرماتے:

مرحبا بالنهار الجديد والكاتب والشهيد، اكتب باسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان الدين كما وصف الله والكتاب كما انزل الله واشهد ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور۔

خوش آمدید دن کو، کاتب اور گواہ (فرشتوں) کو تم لکھو: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ دین وہ ہے جس کی اللہ نے تعریف کی اور کتاب وہ ہے جو اللہ نے نازل کی اور میں شہادت دیتا ہوں کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شائبہ نہیں اور اللہ پاک قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو زندہ کر کے اٹھانے والا ہے۔ الخطیب فی التاریخ، الدیلمی، ابن عساکر، السلفی فی انتخاب حدیث القراء

کلام: اس روایت کی اسناد میں ایک راوی زینل العرقی ہے جو ضعیف ہے۔ پورا نام زینل بن عبداللہ ابو عبداللہ الحکی جس کو ابن شداد بھی کہا جاتا ہے۔ اہل حدیث کے ہاں ضعیف ہے۔ تہذیب التہذیب ۳/۳۴۰

۳۹۳۸: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، ارشاد فرمایا: جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے:

اللهم ما قلت من قول أو حلفت أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت منه كان، وما لم تشأ لم يكن، فاغفره لي، وتجاوز لي عنه، اللهم من صليت من صليت عليه فصلاحتي عليه، ومن لعنته فلعنتي عليه.

اے اللہ! میں جو بات کروں، جو قسم اٹھاؤں یا جو نذر اور منت مانوں سب سے پہلے تیری مشیت چاہتا ہوں جو تو چاہے وہ ہو اور جس میں تیری مشیت نہ ہو وہ نہ ہو۔ پس اس کو میرے لیے معاف فرما اور میری طرف سے اس سے درگزر فرما۔ اے اللہ! جس پر تو رحمت بھیجے اس کو تو پس وہ شخص یا نبی تمام دن استثناء میں ہوگا۔ (یعنی کوئی قسم اور نذر وغیرہ اس پر لازم نہ ہوگی)۔ مصنف عبدالرزاق

شام کی دعا

۴۹۴۹ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ شام کے وقت رسول اللہ ﷺ یہ فرماتے تھے:

أَمْسِينَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ انِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْكَبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

ہم نے اور تمام سلطنت نے اللہ کے حضور شام بسر کی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ اور اسی کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے اس رات کی خیر کا سوال کرتا ہوں اور جو کچھ اس میں اس کی تاخیر کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں اس رات کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بڑھاپے سے، دتیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

صبح و شام کی دعائیں

۴۹۵۰ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا ہے کہ جب بھی میں صبح کروں، شام کروں اور بستر پر لیٹوں تو یہ دعا ضرور پڑھ لوں:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرَفَ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

اے اللہ! آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے! غیب اور حاضر کو جاننے والے! تو ہر چیز کا رب اور اس کا مالک ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں، محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ (اے اللہ!) میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر اور اس کی شرکت سے اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر کوئی برائی لگاؤں یا کسی مسلمان کی طرف کوئی برائی منسوب کروں۔

مسند احمد، ابن منیع، الشاشی، مسند ابی یعلیٰ، ابن السنی فی عمل یوم ولیلۃ، السنن لسعید بن منصور

۴۹۵۱ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ شام کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:

أَمْسِينَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِالنَّهَارِ وَجَاءَ بِاللَّيْلِ، وَنَحْنُ فِي عَافِيَةٍ، اللَّهُمَّ هَذَا خَلَقَ حَدِيدًا قَدْ جَاءَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهِ مِنْ سَيِّئَةٍ فَتَجَاوَزَ عَنْهَا، وَمَا عَمِلْتَ فِيهِ مِنْ حَسَنَةٍ فَتَقَبَّلَهَا، وَأَضْعَفَهَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، اللَّهُمَّ أَنْكَ بِجَمِيعِ حَاجَتِي عَالِمٌ، وَأَنْكَ عَلَى جَمِيعِ نَجْحَتِي قَادِرٌ، اللَّهُمَّ أَرْجِحْ لِي كُلَّ حَاجَةٍ لِي، وَلَا تَزِدْنِي فِي دُنْيَايَ، وَلَا تَقْصِنِي فِي آخِرَتِي.

ہم نے اور ساری کائنات نے اللہ کے لیے شام کی جو واحد ہے، قہار ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دن کو لے گیا اور رات کو لے آیا اور ہم عافیت میں رہے۔ اے اللہ یہ (رات) تیری ہی مخلوق ہے جو سر پر آگئی ہے جو اس میں مجھ سے برائی سرزد ہو جائے اس سے درگزر کر۔ جو اس میں میں نیک عمل کروں اس کو قبول فرما۔ اور اس میں کئی کئی گنا اضافہ فرما۔ اے اللہ تو میری تمام

حاجتوں کو جانتا ہے۔ میری دنیا کو زیادہ نہ کر (پس میری ضروریات پوری فرمادے اور) میری آخرت میں کمی نہ کر۔ جب صبح ہوئی تب بھی آپ اسی کے مثل کلمات پڑھتے۔ (یعنی فقط اسپینا و اسی کی بجائے اصحبا و اصبح پڑھتے)۔

الاروسط للطبرانی، عبدالغنی بن سعید فی ایضاح الاشکال

۴۹۵۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ صبح کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:

اللهم بک نصح و بک نمسی و بک نحیا و بک نموت و الیک النشور۔
اے اللہ! ہم تیرے ساتھ صبح کرتے ہیں اور تیرے ساتھ شام کرتے ہیں، تیرے طفیل زندگی پاتے ہیں اور تیرے حکم سے مرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہم اٹھائے جائیں گے۔

شام کے وقت بھی یہی کلمات پڑھتے صرف آخر میں (النشور کی بجائے) المصیر پڑھتے۔ الدورقی، ابن جریر حدیث صحیح ہے۔

۴۹۵۳ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھے:

الحمد لله على حسن المساء والحمد على حسن المبيت والحمد لله على حسن الصباح۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اچھی شام پر، اچھی رات پر اور اچھی صبح پر۔

فرمایا: جس نے صبح کو دعا پڑھی اس نے اس رات کا اور اس دن کا شکر ادا کر دیا۔ شعب الایمان للبیہقی

۴۹۵۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور ﷺ پر نازل ہوئے اور فرمایا: اے محمد! اگر تم کو یہ بات اچھی لگے کہ تم کسی رات یا کسی دن اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو یہ دعا پڑھو:

اللهم لك الحمد حمداً كثيراً مع خلودك، ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله الا رضاك

اے اللہ! بہت بہت زیادہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہوں تیرے دوام کے ساتھ۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہوں جنکی انتہاء نہ ہو۔ تیری مشیت کے سوا۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہوں جن کے قائل کا اجر تیری رضاء کے سوا کچھ نہ ہو۔ شعب الایمان للبیہقی

کلام: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے شیچے کے راوی کے درمیان کوئی راوی ساقط ہے جس کی وجہ سے روایت منقطع الاسناد ہے۔

بری موت سے بچاؤ کی دعا

۴۹۵۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

جس کو اس بات کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کے دشمنوں پر اس کی مدد ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو اور بری موت سے اس کی

حفاظت ہو تو وہ شخص یہ دعا صبح و شام تین تین بار پڑھا کرے:

سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم، ومبلغ الرضا، وزنة العرش، ولا اله الا الله ملء الميزان ومنتهى العلم، ومبلغ الرضا، وزنة العرش،

میں سبحان اللہ کہتا ہوں میزان بھر کر، خدا کے علم کی انتہاء تک، خدا کی رضا حاصل ہونے تک اور عرش کے وزن تک۔ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میزان بھر کر، علم کی انتہاء کے بقدر، خدا کی رضا کے حصول تک اور عرش کے وزن کے برابر۔ اور اللہ اکبر کہتا ہوں میزان بھر کر،

علم کی انتہاء کے بقدر، رضا حاصل ہونے تک اور عرش کے وزن کے برابر۔ الدیلمی، نظام الدین المسعودی فی الاربعین

کلام: ضعیف روایت ہے دیکھئے: تذکرۃ المنذورات ۵۸، الترمذیہ ۱۳۳۲، ذیل المذکور ۱۵۳

۴۹۵۶۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس ﷺ میں تعلیم دیا کرتے تھے کہ صبح ہو تو یہ دعا پڑھو:
 اصحنا علی فطرة الاسلام و کلمة الاخلاص و سنة نبینا محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم و ملة
 ابراهیم ابننا و ما کان من المشرکین۔
 ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی ﷺ کی سنت پر اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت حنیفیہ پر جو مشرکوں میں سے
 نہ تھے۔

اور جب شام ہو تب بھی یہی دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ مسند عبد اللہ بن احمد بن حنبل
 ۴۹۵۷۔ (عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ) ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اپنی صبح و شام کی دعائیں ہمیشہ یہ کلمات پڑھتے
 دیکھا جن کو آپ نے کبھی نہیں چھوڑا حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ج ۲ ص ۶۳۶، حدیث نمبر ۴۹۵۷
 اے اللہ! میں تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل میں اور اپنے مال میں
 معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔

اے اللہ! میری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، میرے خوف کو اسن عطا فرما، اے اللہ میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے،
 میرے بائیں سے، اور میرے اوپر سے حفاظت فرما۔

اے پروردگار! میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نیچے سے اچک لیا جاؤں۔ مصنف ابن ابی شیبہ
 فائدہ: جبر بن سلیمان فرماتے ہیں: نیچے سے اچک لیا جاؤں اس سے مراد حنف ہے یعنی دھنس جانا زلزلہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ
 سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ فرماتے ہیں معلوم نہیں یہ جبر کا اپنا قول ہے یا نبی ﷺ کا فرمان نقل کیا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ
 ۴۹۵۸۔ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: یا رسول
 اللہ! مجھے اپنے نفس، اپنی اولاد، اپنے اہل اور اپنے مال کے بارے میں اتنا خطرہ لگا رہتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر صبح و شام یہ کلمات پڑھا کر
 بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔

چنانچہ اس شخص نے یہ کلمات کہنے کی پابندی کی۔ پھر وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا نبی اکرم ﷺ نے اس سے دریافت
 فرمایا تمہیں جو خطرات لاحق رہتے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ وہ میرے
 خطرات بالکل زائل ہو گئے۔ رواہ ابن عساکر

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی دعا

۴۹۵۹۔ (ابو ایوب رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے اور ابو ایوب
 کے گھر ٹھہرے۔ رسول اللہ ﷺ نیچے کمرے میں قیام پذیر ہوئے جبکہ ابو ایوب کا گھر اُنہ اوپر کمرے میں تھا۔ جب شاہ ہوئی اور رات آئی تو
 ابو ایوب کو یہ خیال آنے لگا کہ وہ کمرے کے اوپر ہیں اور رسول اللہ ﷺ ان کے نیچے کمرے میں ہیں یوں وہ آپ ﷺ اور وحی کے درمیان
 ہیں۔ لہذا ابو ایوب سونہ سکے اس ڈر سے کہ کہیں (سوتے ہوئے ان کے حرکت کرنے سے) آپ ﷺ پر گرے، غبار نہ گرنے اور آپ ﷺ کو
 آفت پینچے۔ جب صبح ہوئی تو یہ حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! رات بھر میں پلک جھپکاؤں کا اور نہ ام ایوب حضور
 ﷺ نے پوچھا وہ کیوں اے ابو ایوب؟ عرض کیا: مجھے یہ خیال آتا رہا کہ میں کمرے کے اوپر ہوں اور آپ ﷺ نیچے ہیں کہیں میرے حرکت کرنے
 سے رُو غبار پینچے نہ گرنے یوں میرا حرکت کرنا آپ ﷺ کو آفت پینچتا اور (یوں جی اہ پر ہونے کی وجہ سے) میں آپ ﷺ کے اور وحی کے درمیان
 حائل ہوں۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے ابویوب! ایسا نہ کیا کر! پھر فرمایا: کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو تو صبح و شام دس دس بار پڑھ لیا کرے تو تجھے دس نیکیاں عطا ہوں گی، دس برائیاں تیری مٹا دی جائیں، دس درجات تیرے بلند کیے جائیں اور قیامت کے دن وہ کلمات تیرے لیے دس غلام آزاد کرنے کے برابر اجر کا باعث بنیں؟ پس تو یہ کہا کر:

لا الہ الا اللہ، لہ الملک، ولہ الحمد لا شریک لہ۔ (الکبیر للطبرانی)

۴۹۶۰ (ابوالدرداء رضی اللہ عنہ) حضرت طلق سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر خبر دی کہ آپ کا گھر جل گیا ہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں جلا۔ پھر دوسرا شخص آیا اور بولا اے ابوالدرداء رضی اللہ عنہ: آگ بھڑک اٹھی تھی۔ لیکن جب وہ آپ کے گھر تک پہنچی تو خود بخود بجھ گئی۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے علم تھا کہ اللہ پاک ایسا نہیں کریں گے۔ لوگوں نے کہا: ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کو کئی بات زیادہ تعجب انگیز ہے، آپ کی یہ بات کہ گھر نہیں جلا یا یہ بات کہ اللہ پاک ایسا نہیں کریں گے کہ میرا گھر جلا دیں؟

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ یقین ان کلمات کی وجہ سے تھا جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنے تھے کہ جو شخص صبح کو یہ کلمات کہے لے تو شام تک کوئی مصیبت اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ اور جو شخص شام کو یہ کلمات کہے لے تو صبح تک کوئی مصیبت اس کو لاحق نہ ہوگی۔ وہ کلمات یہ ہیں:

اللہم أنت ربی لا الہ الا أنت علیک توکلت، وأنت رب العرش الکرم، ماشاء اللہ کان، وما لم یشاء لم یکن، لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. أعلم أن اللہ علی کل شیء قدیدر، وان اللہ قد أحاط بکل شیء علماً، اللہم انی اعود بک من شر نفسی، ومن شر دابة أنت آخذ بناصیتها، ان ربی علی صراط مستقیم.

اے اللہ! تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں، میں نے تجھی پر بھروسہ کیا، تو عرش کریم کا پروردگار ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کسی چیز سے اجتناب کی اور کسی نیکی کو کرنے کی طاقت صرف اللہ کے بخشے سے ممکن ہے جو عالی اور عظیم ذات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں کر رکھا ہے اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور اپنی سواری کے شر سے اس کی پیشانی تیرے قبضہ میں ہے۔ بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ الدیلمی، ابن عساکر

فائدہ:۔۔۔ مسند الفردوس الدیلمی کی روایات ضعیف ہوتی ہیں۔ اس روایت کو المصنف نے ۱۴۰۰ میں بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک راوی اغلب بن تمیم مکر الحدیث ہے۔ جس کے متعلق میزان الاعتدال ۲/۳۱۱ میں امام بخاری کا قول نقل کیا گیا ہے کہ تمیم مکر الحدیث ہے۔

فرض نمازوں کے بعد کی دعا

۴۹۶۱ (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص (فرض) نماز کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات کہے فرشتہ ان کو ایک ورق میں لکھ کر مہر لگا دیتا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان کو پیش کرے گا۔ جب اللہ پاک بندہ کو قبر سے اٹھائیں گے تو وہ فرشتہ یہ کاغذ لے کر اس کے پاس آئے گا اور پوچھے گا: کہاں ہیں عہد و پیمان والے تاکہ ان کو ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں؟ وہ کلمات یہ ہیں:

اللہم فاطر السموات والأرض، عالم الغیب والشهادة الرحمن الرحیم، انی أعهد الیک فی هذه الحیاة الدنیا: بأنک أنت اللہ لا الہ الا أنت وحدک لا شریک لک وأن محمداً عبدک ورسولک، فلا تکلنی الی نفسی، فانک ان تکلنی الی نفسی تقربنی من السوء، وتباعدننی من الخیر، وانی لأثق

الا برحمتک فاجعل رحمتک لی عهدًا عندک تؤدیہ الی یوم القیامۃ، انک لا تتخلف المیعاد۔
اے اللہ! آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے اغیب اور حاضر کو جاننے والے! انہایت مہربان رحم کرنے والے! میں اس دنیاوی زندگی میں تجھے عہد دیتا ہوں کہ (میں تہہ دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ) تو ہی معبود برحق ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں اور محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ پس مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کر۔ کیونکہ اگر تو نے مجھے نفس کے سپرد کر دیا تو تحقیق تو نے مجھے برائی کے بالکل قریب کر دیا اور خیر سے کوسوں دور کر دیا اور مجھے تو تیری رحمت ہی پر بھروسہ ہے، پس تو میرے ساتھ اپنی رحمت کا وعدہ کر لے اور اس کو قیامت کے دن پورا فرما دیجئے گا۔ بے شک تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ الحکیم

حضرت طاووس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ انہوں نے ان کلمات کو اپنے کفن میں لکھنے کا حکم دیا تھا۔

۳۹۶۲ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے: جس شخص کی خواہش ہو کہ بڑے ترازو میں اس کے اعمال تولے جائیں تو وہ نماز سے فارغ ہو کر یہ کلمات پڑھ لیا کرے:

سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین

پاک ہے پروردگار عزت والا ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں اور سلام ہو رسولوں پر اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ مصنف عبدالرزاق ۳۳۸۱ پر روایت گذر چکی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا

۳۹۶۳ عاصم بن ضمرہ سے مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتے تھے:

اللہم تم نورک فہدیت، فلک الحمد، وعظم حلمک ففوت، فلک الحمد وبسط یدک، فاعطیت فلک الحمد، ربنا وجہک اکرم الوجوہ، وجاہک خیر الجاہ، وعظمتک أنفع العطايا وأہناہا، تطاع ربنا فتشکر، وتعصی ربنا فتغفر، لمن شئت، تنجب المضطر اذا دعاک وتغفر الذنب،

وتقبل التوبۃ، وتکشف الضر، ولا یجزی الاءک أحد ولا یحصی نعماءک قول قائل

اے اللہ! تیرا نور کامل ہے، جس کے ساتھ تو نے سیدھی راہ دکھائی، پس تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں، تیری بردباری عظیم ہے جس کے ساتھ تو نے مغفرت فرمائی، پس تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو نے اپنا دست کرم دراز کیا اور خوب عطا کیا، پس تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اے ہمارے رب! تیری ذات سب سے زیادہ کریم ذات ہے، تیرا رتبہ سب سے بلند رتبہ ہے، تیری عطا سب عطاؤں سے زیادہ نفع مند ہے اور خوشگوار ہے۔ اے رب! تیری اطاعت کی جانی ہے تو تو قدر کرتا ہے، تیری نافرمانی کی جانی ہے تو تو جس کی چاہے مغفرت کرتا ہے۔ مضطر (پریشان حال) جب تجھے پکارتا ہے تو تو اس کی پکار سنتا ہے اور تو گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو توبہ قبول فرماتا ہے، اور ہر طرح کی مشکل تو ہی دور کرتا ہے اور تیری نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا اور کسی کی گفتگو تیری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتی۔ جعفر فی الذکر، ابوالقاسم اسماعیل بن محمد بن فضل فی امالیہ

۳۹۶۴ محمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے تھے دیکھا کہ ایک شخص کعبہ کا پردہ تھامے ہوئے یوں دعا کر رہا ہے:

یا من لا شغلہ سمع عن سمع، ویا من لا یغلطہ السائلون یا من لا یتبرم بالحاج الملحین أذقنی برد

عفوک وحلاوة رحمتک۔

اے وہ ذات جس کو ایک کا سنا دوسرے کے سننے سے نہیں روکتا، اے وہ ذات جس کو سالکین کی کثرت غلطی میں نہیں ڈالتی، اے وہ ذات جو مانگنے والوں کے اصرار سے اکتانائیں (بلکہ خوش ہوتا ہے) مجھے اپنی معافی کی ٹھنڈک اور اپنی رحمت کی مٹھاس چکھادے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اللہ کے بندے یہ تیری دعا (کیا عمدہ) ہے! اس شخص نے پوچھا: کیا تو نے سن لی ہے؟ فرمایا: ہاں۔ اس شخص نے کہا: پس ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کر۔ تم اس ذات کی جس کے قبضے میں خضر کی جان ہے، اگر تجھ پر آسمان کے تاروں اور اس کی بارش کے (قطروں) زمین کی کٹکریوں اور اس کی مٹی کے بقدر بھی گناہ ہوں گے تب بھی پلک جھپکنے سے قبل معاف کر دیئے جائیں گے۔

الدينوري، ابن عساكر

۳۹۶۵۔ (سعد رضی اللہ عنہ) حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا

تم میں سے شخص کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ (اللہ اکبر)، دس مرتبہ تسبیح (سبحان اللہ) اور دس مرتبہ تحمید (الحمد للہ) کہہ لیا کرے۔ پس یہ پانچ نمازوں کی تسبیحات زبان پر ڈیڑھ سو ہوگی، لیکن میزان میں ڈیڑھ ہزار ہوں گی، اور جب کوئی اپنے بستر پر جائے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمد للہ اور تینتیس بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرے۔ یہ زبان پر تو سو کی تعداد ہوگی لیکن میزان میں ایک ہزار شمار ہوں گی۔ پھر آپ نے فرمایا: تم میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو ایک دن رات میں ڈھائی ہزار برائیاں کرتا ہو؟ واہ مستدرک الحاکم

۳۹۶۶۔ (انس بن مالک) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

اللهم انى أشهد بما شهدت به على نفسك، وشهدت به ملائكتك و انبيائك و أولوا العلم، ومن لم يشهد بما شهدت به فاكذب شهداتي مكان شهادته، أنت السلام، ومنك السلام تباركت ربنا يا ذا الجلال والاكرام، اللهم انى أسألك فكاك رقتي من النار

اے اللہ میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ جس قدر تو نے اپنے اوپر شہادت دی، تیرے ملائکہ تیرے انبیاء اور تیرے اہل علم بندوں نے تجھ پر شہادت دی۔ اور جنہوں نے تیری شہادت پر شہادت نہیں ان کے تعداد کے بقدر بھی تجھ پر میں شہادت دیتا ہوں (کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں) پس میری یہ شہادت اپنی شہادت کی جگہ لکھ رکھ۔ (اے اللہ!) تو سلامتی والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی وابستہ ہے۔ تو بابرکت ہے اے ہمارے پروردگار! اے بزرگی و کرامت والے اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے اپنی گلو خلاصی کا سوال کرتا ہوں۔ ابن تریکان فی الدعاء، الديلمی

بستر پر پڑھنے کی دعا

۳۹۶۷۔ (ابن عمر رضی اللہ عنہما) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اور بستر پر لٹنے کے بعد یہ کلمات تین بار پڑھے:

اللہ اکبر کبیراً عدد الشفع والوتر و کلمات اللہ التامات و الطیبات المبارکات۔

اللہ سب سے بڑا ہے میں اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں ہر جہت اور طاق و دود کے برابر اور اللہ کے نام کلمات اور پاکیزہ و مبارک صفات کے برابر۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ بھی تین بار پڑھے۔

تو یہ کلمات اس کے لیے قبر میں نور ہوں گے، پل صراط پر نور ہوں گے اور جنت کے راستے پر نور ہوں گے حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کروادیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

اس روایت کی سند حسن (عمدہ) ہے۔

۴۹۶۸ صلہ بن زفر سے مروی ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ہر نماز کے بعد یہ پڑھتے دیکھا:

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔

صلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: پھر میں نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے پہلو میں نماز پڑھی ان کو بھی (نماز کے بعد) یہی کہتے سنا۔ میں نے ان سے عرض کیا: میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بھی یہی کلمات پڑھتے سنا ہے جو آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو بھی اپنی نماز کے آخر میں (سلام کے بعد) یہ کلمات پڑھتے سنا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۹۶۹ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے متعلق منقول ہے کہ آپ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد صرف اس قدر بیٹھتے تھے کہ یہ دعا پڑھ لیتے:

اللهم انت السلام ومنك السلام واليك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام۔

مصنف ابن ابی شیبہ النسائی برقم ۱۳۳۸

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا

۴۹۷۰ (معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا: اے معاذ! میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: تب تم ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا:

رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔

اے پروردگار! میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور اپنی اچھی عبادت پر۔ ابن شاہین نسائی ۱۳۰۳، ۱۵۲۲

۴۹۷۱ جس نے ہر (فرض) نماز کے بعد تین مرتبہ یہ استغفار پڑھا:

استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه۔

اللہ پاک اس کے ہر گناہ معاف فرمادیں گے خواہ وہ جنگ میں پیٹھ دے کر بھاگا ہو۔ مصنف عند الرزاق

۴۹۷۲ (معاویہ بن ابی سفیان) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز کے بعد اٹھتے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے سنا:

اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجند منك الجند۔

اے اللہ! جس کو تو عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو تو روک دے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اور کسی مرتبے والے کی کوئی

کوشش اس کو خدا سے کوئی نفع نہیں دے سکتی۔ نسائی مسلم رقم الحدیث ۵۹۳

۴۹۷۳ (ابو بکر رضی اللہ عنہ) ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے:

اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر۔

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر سے، فقر وفاقہ سے اور عذاب قبر سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۴۹۷۴ (ابو الدرداء رضی اللہ عنہ) حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! مالدار لوگ تو سارا اجر لے

گئے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جو صدقہ کریں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو تو اپنے سے آگے نکلنے والوں کو

پالو لیکن تم سے پیچھے والے تم کو نہ پائیں۔ سوائے اس شخص کے جو تم جیسا عمل کر سکے۔ لہذا تم ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ کہو، تینتیس بار الحمد للہ کہو، اور چونتیس بار اللہ اکبر کہا کرو۔ مصنف ابن ابی شیبہ ۳۲۳۶ اور ۳۲۵۴ پر یہ روایت گزر چکی ہے۔

۳۹۷۵... حضرت ابو الذر ذاء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! مال و دولت والے دنیا و آخرت کا نفع لے گئے۔ وہ ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح جہاد کرتے ہیں لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم وہ کرو تو اپنے آگے والوں کو پہنچ جاؤ اور پیچھے والے تم کو نہ پہنچ سکیں۔ سوائے اس شخص کے جو یہی عمل کرے۔ تم ہر (فرض) نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ، تینتیس بار الحمد للہ کہو اور چونتیس بار اللہ اکبر کہا کرو۔

مصنف عبدالرزاق

۳۲۷۱ پر روایت گزر گئی۔

۳۹۷۶... (ابو ذر رضی اللہ عنہ) حضور ﷺ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا (اے ابو ذر! میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جب تو ان کو کہے تو اپنے آگے والوں کو پالے اور تیرے بعد والے تجھے نہ پائیں سوائے اس شخص کے جو تیرے عمل جیسا عمل کرے۔ تو ہر فرض کے بعد تینتیس بار اللہ اکبر کہو، تینتیس بار الحمد للہ اور تینتیس بار سبحان اللہ اور آخر میں ایک مرتبہ:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير۔

صحیح ابن حبان، شعب الایمان للبیہقی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ

نماز کے بعد کی ایک دعا

۳۹۷۷... (ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ) عمرو بن عطیہ عوفی اپنے والد سے اور وہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز مکمل فرمانے کے بعد یہ دعا کرتے تھے

اللہم انی اسألك بحق المسائلین علیک، فان للمسائل علیک حقاً، ایما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم، واستجبت دعاءهم ان تشرکنا فی صالح ما یدعونک، وان تشرکهم فی صالح ما ندعوک، وان تعافینا وایاہم، وان تقبل منا ومنہم، وان تجاوز عنا وعنہم، فانا آمننا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاہدین

اے اللہ! میں تجھ سے اس حق کے پیشل جو تجھ پر سانلوں کا ہے جو جو غلام یا ندی خشکی یا تری میں ہیں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کی پکار کا جواب دیتا ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ میں ان سب کی نیک دعاؤں میں شامل فرما اور ان کو ہماری اچھی دعاؤں میں شریک فرما اور ہمیں اور ان کو اپنی عافیت میں رکھ اور ہماری اور ان کی دعاؤں کو قبول کر۔ ہم سے اور ان سے درگزر کر، بے شک ہم ایمان لانے اس پر جو تو نے نازل فرمایا اور تیرے رسول کی اتباع کرتے ہیں سو ہم کو شاہدین میں لکھ لے۔

نیز حضور ﷺ فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی یہ دعا نہیں کرتا مگر اللہ پاک اس کو تری والوں اور خشکی والوں سب کی نیک دعاؤں میں شریک

فرماتا ہے۔ رواہ الدیلمی

کلام: المغنی میں الدار قطنی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ عمرو بن عطیہ عصری ضعیف راوی ہے۔ بحوالہ کنز ج ۲ ص ۶۲۲

۳۹۷۸... (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد سو بار لا الہ الا اللہ سو بار سبحان اللہ سو بار الحمد للہ، اور سو بار اللہ اکبر کہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ مصنف عبدالرزاق

۳۹۷۹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مالدار لوگ تو نکل گئے وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں مزید اس پر یہ شرف کہ اپنے زائد اموال کو صدقہ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے ان کو فرمایا: میں تم کو ایسے کلمات بتاتا ہوں جب تم ان کو کہو گے تو آگے نکل جانے والوں کو پا لو گے اور پیچھے والے تم کو نہ پاسکیں گے سوائے اس شخص کے جو تم جیسا عمل کرے اس صحابی نے عرض کیا ضرور بتائیے: یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم ہر (فرض) نماز کے بعد تینتیس بار اللہ اکبر، تینتیس بار الحمد للہ کہو اور تینتیس بار سبحان اللہ کہو اور ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھ کر اس کو مکمل کرو:

لا الہ الا اللہ وحده، لا شریک له، له الملک وله الحمد وله الشکر۔ وهو علی کل شیء قدير۔

ابن عساکر۔ نسائی برقم ۱۳۵۳

۳۹۸۰ (گناہ صحابی کی مسند) زاذان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے مجھے ایک انصاری صحابی نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز کے بعد یہ سو مرتبہ پڑھتے سنا ہے:

اللهم اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور۔

اے اللہ! میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا (اور) مغفرت فرمانے والا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ روایت صحیح ہے۔

۳۹۸۱ (عائشہ رضی اللہ عنہا) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے:

اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والا کرام۔ مسند البزار

۳۹۸۲ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت وتعالیت یا ذا الجلال والا کرام۔ رواہ ابن عساکر

۳۹۸۳ (مرسل عطاء رحمۃ اللہ علیہ) ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کے پاس کوئی صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا نبی اللہ! آپ کے پہلے صحابی اعمال میں ہم سے سبقت لے گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تم کو ایسی شے نہ بتاؤں جو تم فرض نماز کے بعد کرو اور اس کے ذریعہ ساقین کو پا لو اور لا حقیں تم کو نہ پاسکیں۔ لوگوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ! سو آپ نے ان کو حکم دیا کہ چونتیس بار اللہ اکبر، تینتیس بار الحمد للہ اور تینتیس بار سبحان اللہ پڑھا کریں۔

راوی فرماتے ہیں: ہمیں ایک آدمی نے خبر دی کہ پھر آپ ﷺ کے پاس کچھ مسکین لوگ آئے انہوں نے کہا: ہم پراجر میں پہلے لوگ غالب آگئے ہیں، ہمیں کوئی ایسے اعمال بتائے کہ ہم ان پر غالب آسکیں۔ آپ ﷺ نے ان کو بھی مذکورہ عمل بتایا۔ جب یہ بات مالدار لوگوں کو پہنچی تو انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ مسکینوں نے یہ ماجرا دیکھ کر پھر حضور ﷺ کی خدمت میں درخواست کی تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ تو فضائل ہیں (جو بھی حاصل کر لے)۔

۳۹۸۴ (مرسل قتادہ رحمۃ اللہ علیہ) حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ فقراء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مال والے اجر لے گئے وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے۔ وہ خرچ کرتے ہیں اور ہم خرچ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا بتاؤ اگر مال والوں کے تمام اموال ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیئے جائیں کیا وہ اموال آسمان تک پہنچ جائیں گے؟ فقراء نے عرض کیا: نہیں یا رسول اللہ! تب آپ ﷺ نے فرمایا تو کیا میں تم کو ایسی شے نہ بتاؤں جس کی جز زمین میں ہو اور اس کی شاخ آسمان میں تم ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات دس دس بار پڑھا کرو۔ لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ بے شک ان کی جز زمین اور شاخیں آسمان میں ہیں۔

عبد الرزاق، ابن زنجویہ

۳۹۸۵ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں ابوالاسود نے ابن ابیہ سے نقل کیا انہوں نے محمد بن مہاجر مصری سے اور انہوں نے ابن

شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جس شخص نے جمعہ کی نماز کے بعد جب امام سلام پھیر لے تو کسی سے بات کرنے سے قبل سات سات بار سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ لیں تو وہ اس کا مال اور اس کی اولاد آئندہ جمعہ تک حفاظت میں رہیں گی۔ مصنف عبدالرزاق

۳۹۷۶ (مرسل محمول) محمول رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے۔ رواہ عبدالرزاق

نماز فجر سے پہلے کی دعا

۳۹۸۷ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے (میرے والد) عباس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کے پاس کسی کام سے بھیجا میں شام کے وقت آپ کے گھر پہنچا۔ آپ ﷺ میری خالہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے۔ (میں رات کو وہیں ٹھہر گیا) رات کو رسول اللہ ﷺ رات کی نماز (تہجد) ادا کی پھر اس کے بعد دو رکعت سنت فجر ادا کی اس کے بعد یہ دعا کی:

اللهم انی اسألك رحمة من عندک تھدی بہا قلبی وتجمع بہا امری۔

اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اس کے طفیل تو میرے دل کو ہدایت دے اور میرے معاملہ کو مجتمع کر دے۔

نوٹ:..... علامہ علاء الدین انصاری بن حسام الدین مؤلف کنز العمال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو مکمل جو بڑی طویل ہے اپنی کتاب جامع صغیر میں نقل فرما دیا ہے اور جامع صغیر کے اس موضوع سے متعلق حصہ کو ہم اپنی اس کتاب میں ذکر کر آئے ہیں لہذا یہ دعا وہیں ملاحظہ فرمائیں۔

تتبیہ: سو عزت جم محمد اصغر عرض کرتا ہے کہ آئندہ کی حدیث نمبر ۳۹۸۸، میں اسی کے قریب الفاظ پر مشتمل دعا منقول ہے نیز جس دعا کے گزرنے کا مؤلف کنز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وہ حدیث ۳۶۰۸ پر گزر چکی ہے۔ دونوں دعائیں معمولی فرق کے ساتھ منقول ہیں۔

۳۹۸۸ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں حضور ﷺ کی رات کی نماز (تہجد) دیکھوں۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کی رات کے بارے میں پوچھا: (کہ کس وجہ محترمہ کے گھر ہے؟)

لہذا میمونہ ہلالیہ کا نام بتایا گیا (اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں) ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور عرض کیا: میں رسول اللہ ﷺ کی نگاہوں) سے ہٹ کر (آپ کی نماز) دیکھنا چاہتا ہوں۔ میمونہ نے میرے لیے حجرہ کے ایک کونے میں بستر بچھا دیا۔ جب رسول اللہ ﷺ نے عشاء کی نماز اپنے صحابہ کے ساتھ ادا فرمائی تو اپنے گھر تشریف لائے۔ آپ نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا۔ لہذا اپنی بیوی سے پوچھا اے میمونہ تمہارا مہمان کون ہے انہوں نے عرض کیا: آپ کے بچا کے بیٹے ہیں یا رسول اللہ! عبداللہ بن عباس۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پھر آپ ﷺ اپنے بستر پر چلے گئے۔ جب رات آدھی ہوئی تو آپ اپنے حجرے سے نکلے اور آسمان کی طرف اپنا رخ کر کے فرمایا: آنکھیں سو گئیں، ستارے ڈوب گئے اور تو زندہ ہے اور ہر شئی کو تمام کر رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد آپ واپس اپنے بستر پر چلے گئے۔ پھر جب رات کا آخری پہر ہوا پھر دوبارہ حجرے سے نکلے اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا: آنکھیں سو گئیں ستارے ڈوب گئے اور اے اللہ تو زندہ ہے اور ہر شئی کو قائم رکھنے والا ہے۔ پھر آپ حجرے کے کونے میں رکھے مشکیزہ کے پاس گئے اس کا منہ کھولا اور اچھی طرح وضو کیا پھر مصلیٰ پر آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بکیر کبی اور نماز میں کھڑے ہو گئے میں نے کہا آپ تو رکوع کریں گے ہی نہیں۔ پھر رکوع اس قدر طویل کیا کہ میں نے کہا آپ رکوع سے سر اٹھائیں گے نہیں۔ پھر آپ نے کمر سیدھی کی اور پھر سجدہ میں چلے گئے حتیٰ کہ میں نے کہا آپ سجدہ سے سر اٹھائیں گے نہیں۔ پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھے تو میں نے کہا دوبارہ سجدہ میں جائیں گے نہیں پھر سجدہ کیا حتیٰ کہ میں نے کہا اب کھڑے نہیں ہونگے۔ پھر آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور آپ نے آٹھ رکعت نماز ادا کی۔ ہر رکعت پہلے والی رکعت سے کم ہوتی تھی۔ اور ہر دو رکعت کے بعد

سلام پھیرتے تھے۔ پھر آپ نے دو رکعت کے بعد آخر میں تین رکعت کے ساتھ وتر ادا کیے۔ پہلی رکعت میں کھڑے ہوئے اور جب تیسری رکعت کا رکوع ادا کیا اور رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہوئے تو دعائے قنوت پڑھی:

اللهم انى أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبى وتجمع بها أمرى وتلم بها شعئى، وترد بها ألفتى، وتحفظ بها غيبتى وتزكى بها عملى، وتعلمنى بها رشدى، وتعصمنى بها من كل سوء وأسألك ايماً لا يرتد ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة من عندك أنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة، أسألك الفوز عند القضاء ومنال الشهداء وعيش السعداء، ومرافقة الانبياء، انك سميع الدعاء، اللهم انى أسألك يا قاضى الامور، ويا شافى الصدور، كما تجير بين البحور أن تجيرنى من عذاب السعير، ومن فتنه القبور، ودعوة الشور، اللهم ما قصر عنه عملى ولم تبلغه مسألتى من خير وعدته أحدًا من خلقك، أو أنت معطيه أحدًا من عبادك الصالحين، فأسألك وأرغب اليك فيه يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلمًا لأوليائك، وحرًا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعاضد بعداوتك من خالفك، اللهم انى أسألك بوجهك الكريم ذى الجلال الشديد، الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهداء، الموفين بالعهود، انك رحيم ودود، انك تفعل ما تريد، اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة الا بك، اللهم اجعل لى نوراً فى سمعى وبصرى ومخى وعظمى وشعرى وبشرى ومن بين يدي ومن خلفى، وعن يمينى وعن شمالى، اللهم أعطنى نوراً وزدنى نوراً، وزدنى نوراً وزدنى نوراً، ثم قال: سبحان من لا ينفى التسبيح الا له، سبحان من أحصى كل شىء بعلمه، سبحان ذى الفضل والطول، سبحان ذى المن والنعم، سبحان ذى القدرة والكرم

ترجمہ:..... اے اللہ! میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اس کی بدولت تو میرے دل کو ہدایت نصیب کر، میرے معاملات کو ٹھیک کر، میری پریشانی کو مبدل بارام کر، میری الفت کو واپس لوٹا دے، میرے غائب کی حفاظت کر، میرے عمل کو پاکیزہ کر، اس رحمت کے طفیل مجھے میری بھلائی کا راستہ الہام کر، اس کے طفیل ہر برائی سے میری حفاظت کر، اے اللہ! مجھے ایسا ایمان اور یقین عطا کر جس کے بعد کفر کا شائبہ نہ رہے، اپنے پاس سے ایسی رحمت عطا کر جس کے ذریعے میں دنیا و آخرت میں تیری کرامت کا شرف پالوں۔ میں فیصلہ کے وقت کامیابی کا، شہداء کے مرتبے کا، سعادت مندوں کی زندگی کا اور انبیاء کی ہم نشینی کا سوال کرتا ہوں، بے شک تو دعا قبول فرمانے والا ہے۔ اے اللہ! اے تمام معاملوں کا فیصلہ کرنے والے! اے سینوں کو شفاء بخشنے والے! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو مسجد ہار کے بیچ چھنے ہوئے لوگوں کو پناہ دیتا ہے اسی طرح مجھے جہنم کے عذاب، قبر کے فتنے اور ہلاکت کی دعاؤں سے پناہ دیدے۔ اے اللہ! جس چیز میں میرا عمل کمزور ہو اور اس میں خیر کا سوال بھی نہ کر پایا ہوں اور وہ شى تو نے اپنے کسی بھی مخلوق کو عطا کر دی ہو، یا رب العالمین میں بھی اس میں رغبت رکھتا ہوں اور تجھ سے اس کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ! ہم کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اور ہدایت قبول کرنے والا بنانے کہ خود گمراہ اور اوروں کو بھی گمراہ کرنے والا بنا۔ ہمیں اپنے اولیاء کا دوست بنا اپنے دشمنوں کا دشمن بنا۔ ہم تیری محبت کے ساتھ ان سے محبت کریں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیری دشمنی کے ساتھ ان لوگوں سے دشمنی رکھیں جو تیری مخالفت کرتے ہیں۔ اے اللہ! میں تیری کریم ذات کے طفیل جو بڑی عظمت والی ہے سوال کرتا ہوں عذاب کے دن امن کا بھیجنى کے دن جنت کا تیرے مقرب بندوں کے ساتھ جو عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ بے شک تو مہربان اور محبت کرنے والا ہے۔ بے شک جو تو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے اللہ! یہ میرا سوال ہے اور تجھ پر اس کا قبول کرنا ہے۔ اور یہ میری کوشش ہے اور تجھ پر بھروسہ ہے۔ ہر گناہ سے حفاظت اور ہر نیکی کی قوت تیری بدولت ممکن ہے۔ اے اللہ! میرے لیے نور پیدا کر دے میرے کانوں، آنکھوں، دماغ، ہڈیوں، بالوں اور کھالوں میں اور میرے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں نور ہی نور روشن کر دے۔ اللہ! مجھے نور عطا کر، میرا نور زیادہ کر، میرا نور زیادہ کر، میرا نور زیادہ کر۔

پاک ہے وہ ذات جس نے عزت و کرامت کا لباس پہنا اور اسی کے ساتھ معاملہ کیا۔ پاک ہے وہ ذات جو بزرگی و کرامت کے ساتھ مہربان ہو۔ پاک ہے وہ ذات کہ پاکی بیان کرنا اسی کے لیے زیبا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطہ میں کر لیا پاک ہے بزرگی اور قدرت کی مالک ذات، پاک ہے احسان اور نعمتوں کی بارش کرنے والی ذات، اور پاک ہے طاقت اور کرامت والی ذات۔

یہ دعا پڑھ کر آپ ﷺ نے سجدہ کیا اور یوں آپ فجر کی سنتوں سے پہلے تروں سے فارغ ہوئے پھر فجر کی دو سنتیں ادا کیں اس کے بعد باہر نکل کر لوگوں کو فجر کے فرض پڑھائے۔ رواہ مستدرک الحاکم

۳۶۰۸ پر روایت گذر چکی ہے۔

نماز فجر کے بعد ٹھہرنا

۳۹۸۹ (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا۔ جس کو بہت سامان غنیمت ہاتھ آیا اور پھر انہوں نے لوٹنے میں سرعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک شخص جو لشکر میں جانے سے رہ گیا تھا بولا: ہم نے ایسا کوئی لشکر نہیں دیکھا جو اس قدر جلد واپس آیا اور بے انتہا مال غنیمت بھی ساتھ لایا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کو ایسی قوم نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ مال لے کر اس سے زیادہ جلد واپس آنے والی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ پس یہ لوگ زیادہ جلد لوٹ کر آتے ہیں اور افضل غنیمت ساتھ لاتے ہیں۔

روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، فرمایا وہ لوگ صبح کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر دو رکعت نماز (نفل) ادا کرتے ہیں پھر اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں یہ لوگ ان سے جلد واپس آنے والے اور ان سے زیادہ مال غنیمت لانے والے ہیں۔ ابن زنجویہ، ترمذی

کلام: امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ روایت غریب (ضعیف) ہے اور ہم کو صرف اسی طریق سے ملی ہے اور اس میں ایک راوی حماد بن ابی حمید ضعیف ہے۔ تحفۃ الاحوذی ۱۰/۷ بحوالہ کنز العمال ج ۲ ص ۲۵۲

رنج و غم اور خوف کے وقت کی دعا

۳۹۹۱ (عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ) سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا جو مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مجھ سے آنکھیں بند کر لیں اور میرے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا: یا امیر المؤمنین! میں ابھی عثمان بن عفان کے پاس سے گذرا تھا میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاصد بھیج کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کو سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بولے: ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا اور انہوں نے فرمایا: ہاں، میں اللہ سے توبہ واستغفار کرتا ہوں۔ جب آپ میرے پاس سے گذرے تو میں ایک کلمہ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا اللہ کی قسم میں جب بھی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کوئی پردہ میری آنکھیں اور قلب پر پڑ جاتا ہے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تم کو بتاتا ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ ہم کو پہلی دعا کا ذکر کیا۔ لیکن پھر ایک اعرابی نے آکر آپ ﷺ کو باتوں میں مشغول کر لیا۔ پھر حضور ﷺ کھڑے ہو کر چل دیئے۔ میں بھی آپ کے نقش قدم پر ہولیا۔ لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں آپ مجھے ملنے سے پہلے گھر میں داخل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے تیز تیز قدم اٹھائے۔ (قدموں کی آہٹ پر) نبی ﷺ میری طرف متوجہ ہوئے اور

پوچھا: کون؟ ابواسحاق! میں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے پوچھا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: واللہ! آپ نے ہم سے پہلی دعا کا ذکر کیا تھا پھر وہ اعرابی آگیا۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہاں وہ ذی النون (مچھلی والے) کی دعا ہے:

لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔

اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔

کسی مسلمان نے ان کلمات کے ساتھ کسی چیز کی دعا نہیں کی مگر وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ مسند ابی یعلیٰ، الکبیر للطبرانی فی الدعاء حدیث صحیح ہے۔

۴۹۹۲... (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے یہ کلمات سکھائے اور فرمایا: اگر مجھ پر کوئی مصیبت یا سختی نازل ہو جائے تو میں یہ کلمات پڑھ لیا کروں:

لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ، وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ربہا کریم والا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات بابرکت ہے جو عرش عظیم کا پروردگار ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنا ہار ہے۔

مسند احمد، ابن منیع، نسائی، ابن ابی الدنیا فی الفرج، ابن جریر و صحیحہ، ابن حبان، یوسف القاضی فی سننہ، العسکری فی المواعظ، ابونعیم فی المعرفة، الخرائط فی مکارم الاخلاق، شعب الایمان للبیہقی، السنن لسعید بن منصور ۳۳۳۹ پر روایت گذر چکی ہے۔

تکلیف اور سختی کے وقت پڑھنے کے کلمات

۴۹۹۳... عبداللہ بن شداد بن الہاد رحمۃ اللہ علیہ سے عبداللہ بن جعفر کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر اپنی بیٹیوں کو یہ کلمات سکھاتے اور ان کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ کلمات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حاصل کیے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ جب رسول اللہ ﷺ کو کوئی تکلیف یا سختی لاحق ہوتی تو آپ ان کلمات کا ورد فرمایا کرتے تھے:

لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحانہ، تبارک اللہ رب العالمین، ورب العرش العظیم، والحمد للہ

رب العالمین۔ نسائی، ابونعیم

۳۳۳۲، ۳۹۰۷ پر روایت گذر گئی ہے۔

۴۹۹۴... حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

کیا میں تم کو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جب تم ان کو پڑھو تو تمہاری مغفرت کر دی جائے۔

دوسرے روایت کے الفاظ ہیں: تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا چوٹیوں کی تعداد کے برابر ہوں پھر بھی وہ سب گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

لا الہ الا اللہ العلی الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السموات السبع ورب

العرش الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ مسند احمد، العدنی، ترمذی، نسائی، صحیح ابن حبان، ابن ابی

الدنیا فی الدعاء، ابن ابی عاصم فی السنۃ، ابن جریر و صحیحہ، مستدرک الحاکم، السنن لسعید بن منصور

حضرت خلیفۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خلیعیا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ کلمات فراموشی اور کشادگی کے ہیں۔

۴۹۹۵... حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان کو قید کیے

جانے کا حکم دیا لہذا حضرت دانیال علیہ السلام کو مجبوس کر دیا گیا۔ پھر دو شیروں کو (بھوکا رکھ کر ان کو شکار پر) بھڑکایا گیا اور ان کو دانیال علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں چھوڑ دیا اور پانچ دنوں کے لیے کنویں کا منہ بند کر دیا گیا۔ پانچ دنوں کے بعد کنواں کھولا گیا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں ہیں اور حضرت دانیال علیہ السلام سے قطعاً چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے۔

بخت نصر نے دانیال علیہ السلام سے دریافت کیا: تم نے کیا کہا تھا جو تمہاری حفاظت کا سبب بنا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ کلمات پڑھے تھے:

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذين لا يخيب من دعاه الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه الى غير، الحمد لله الذي هو تقناحين تقطع عنا الحيل الحمد لله الذي هو رجاءنا حين تسوء ظنوننا باعمالنا، الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا، الحمد لله الذي يجزي بالاحسان احساناً الحمد لله الذين يجزي بالصبر نجاتاً۔

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنے یاد کرنے والے کو بھولتا نہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کو پکارنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو اپنے پر بھروسہ کرنے والے کو دوسرے کے سپرد نہیں کرتا، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہمارا آسرا اور بھروسہ ہے جب تمام حیلے بے کار ہو جائیں۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے جب ہمارے اعمال پر ہماری امیدوں کی اوس پڑ جائے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مصیبت کے وقت ہماری مشکل دور کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو صبر کے بدلے نجات دیتا ہے۔

ابن ابی الدنيا فی الشکر

اس روایت کی سند حسن ہے۔

۴۹۹۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ کلمات سکھائے جو بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے کہے جائیں یا ہر خوفزدہ کرنے والی وقت کہے جائیں:

لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع، ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين
آپ ﷺ یہ کلمات پڑھ کر:

انى اعوذ بك من شر عبادك

”اے اللہ میں تیرے بندوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں پڑھتے تھے۔“ الخرائطی فی المکارم الاخلاق ۳۳۳۹، ۳۹۰۷ پر روایت گزر چکی ہے۔

۴۹۹۷ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تم کسی جنگل میں ہو اور وہاں تم کو درندے کا خوف لاحق ہو تو یہ دعا پڑھو:

اعوذ برب دانيال من شر الاسد۔

اے دانیال اور کنویں کے پروردگار! میں درندے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

۴۹۹۸ محمد رحمۃ اللہ علیہ بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہر مشکل پر پڑھتے تھے۔ اور اپنی اولاد کو بھی سکھاتے تھے:

يا كائبات قبل كل شىء افعلى كذا وكذا۔

اے ہر چیز سے پہلے موجود اور ہر چیز کو جو دینے والے میرا یہ کام فرمادے۔ ابن ابی الدنيا فی الفرج

۴۹۹۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کو کوئی مشکل پیش آجانی تو آپ ایک خالی کمرے میں تشریف لے جاتے اور ان کلمات کو دعا میں پڑھتے:

یا کھینعص یا نور یا قدوس یا أول الأولین، یا آخر الآخین، یا حی یا اللہ یا رحمن یا رحیم یرددها ثلاثاً،
اغفرلی الذنوب التي تحل النقم و اغفرلی الذنوب التي تغير النعم، و اغفرلی الذنوب التي تورث الندم
و اغفرلی الذنوب التي تحبس القسم، و اغفرلی الذنوب التي تنزل البلاء و اغفرلی الذنوب التي
تهتك العصم، و اغفرلی الذنوب التي تعجل الفناء و اغفرلی الذنوب التي تزيد الاعداء، و اغفرلی
الذنوب التي تقطع الرجاء و اغفرلی الذنوب التي ترد الدعاء، و اغفرلی الذنوب التي تمسك غيث
السماء و اغفرلی الذنوب التي تظلم الهواء، و اغفرلی الذنوب التي تكشف الغطاء.

اے کھینعص! اے نور! اے قدوس! اے اولین کے اول! اے آخرین کے آخر! اے زندہ! اے اللہ! اے رحمن! اے رحیم! (یہ
کلمات تین مرتبہ پڑھتے پھر دعا کرتے) میرے گناہوں کو بخش دے جو تیرے عذاب کا سبب بنتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش
دے جو نعمتوں کو غارت کرتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے جو مذامت اور پشیمانی کا سبب بنتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش
دے جو روزی کی تقسیم روکتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے جو مصیبت اور بلاء نازل کرتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے جو
حفاظت کا پردہ چاک کرتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے جو ویرانی اور بربادی کو جلا لاتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے جو
دشمنوں کا اضافہ کرتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے جو امیدوں کو منقطع کرتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے جو دعا رد
ہو جانے کا ذریعہ بنتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے جو رحمت باراں روکتے ہیں، میرے گناہوں کو بخش دے جو فضاء کو آلودہ
و تاریک کرتے ہیں اور میرے گناہوں کو بخش دے جو پردے کو پھاڑتے ہیں۔ ابن ابی الدنیافی الفرج، ابن النجار

۵۰۰۰ دینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمیں شیخ حافظ ابو جعفر محمد بن حسن بن محمد نے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو آزما یا اور اسی طرح
پایا ہمیں سلمہ محمد بن الحسین نے خبر دی اور فرمایا: میں نے اس کو آزما یا اور یونہی پایا: ہمیں عبداللہ بن موسیٰ سلامی بغدادی نے خبر دی اور فرمایا کہ
میں نے اس کو آزما یا اور یونہی پایا ہمیں فضل بن عباس کوئی نے خبر دی اور فرمایا میں نے اس کو آزما یا اور یونہی پایا، ہمیں عمر بن حفص نے خبر دی
اور فرمایا میں نے اس کو آزما یا اور یونہی پایا، مجھے میرے والد حفص نے خبر دی اور فرمایا میں نے اس کو آزما یا اور یونہی پایا، ہمیں جعفر بن محمد نے
خبر دی اور فرمایا کہ میں نے اس کو آزما یا اور یونہی پایا مجھے میرے والد حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو آزما یا اور یونہی
پایا ہمیں علی بن ابی طالب نے بیان کیا اور فرمایا میں نے اس کو آزما یا اور یونہی پایا مجھے نبی کریم ﷺ نے رنجیدہ خاطر دیکھا تو فرمایا اے ابن ابی
طالب! میں تجھے رنجیدہ دیکھتا ہوں اپنے کسی گھر والے کو کہہ دے کہ وہ تیرے کان میں اذان کہہ دے، یہ غم کی دوا ہے۔ رواہ الدیلمی

۵۰۰۱ حافظ شمس الدین بن جزری (اپنی کتاب) اسنی المطالب میں مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ذیل میں بیان فرماتے
ہیں: ہمیں ہمارے شیخ امام محدث جمال الدین محمد بن یوسف بن محمد بن مسعود مدنی نے ہمارے رو برو یہ خبر دی کہ ہمارے شیخ امام ابوالثناء محمود بن
محمد بن محمود مقری نے ہم کو خبر دی کہ ہم کو ہمارے شیخ ابو احمد عبدالصمد بن ابی الجیش نے خبر دی کہ ہم کو ابو الجہد یوسف بن عبدالرحمن بن علی نے خبر دی وہ
فرماتے ہیں کہ میرے والد (عبدالرحمن بن علی) نے خبر دی کہ ہم کو محمد بن ناصر حافظ نے خبر دی کہ ہم کو ابو بکر محمد بن احمد بن علی بن خلف نے خبر دی
کہ ہم کو عبدالرحمن سلمی نے خبر دی کہ ہم کو عبداللہ بن موسیٰ سلامی نے خبر دی کہ ہم کو فضل بن عیاش کوئی نے خبر دی کہ ہم کو حسین بن ہارون ضعی نے
خبر دی کہ ہم کو عمر بن حفص بن غیاث نے اپنے والد کے توسط سے جعفر بن محمد سے روایت کی اور جعفر نے اپنے والد محمد سے روایت کی۔ انہوں نے
علی بن الحسین سے، اور علی نے اپنے والد حسین رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: مجھے رسول اللہ ﷺ نے رنجیدہ خاطر دیکھ کر دریافت فرمایا: اے ابن ابی طالب! میں تجھے رنجیدہ
دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا: ہاں بات ایسی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے کسی گھر کے فرد کو حکم دے کہ وہ تیرے کان میں اذان کہہ دے،
کیونکہ یہ (رنج و غم) کی دوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: چنانچہ میں نے اس پر عمل کیا اور مجھ سے رنج و غم کی ساری کیفیت چھٹ
گئی۔ حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اس کو آزما یا اور اسی طرح پایا۔ (وائی یہ رنج و غم کی دوا ہے) حفص بن غیاث فرماتے ہیں: میں نے

اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا۔ عمر بن حفص فرماتے ہیں: میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا۔ حسین بن ہارون کہتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا۔ فضل فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا۔ عبداللہ بن موسیٰ فرماتے ہیں: میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا، عبدالرحمن فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا ابوبکر فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابن ناصر کو اس کے متعلق اور کچھ فرماتے تھے میں سنا سو اس کے کہ میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا۔

ابومحمد یوسف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا۔ عبدالصمد کہتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا، ابوالشاء فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اور واقعہ ایسا پایا۔ ابن الجزری فرماتے ہیں میں نے اپنے شیخ سمرمدی کو اس کے سوا کچھ کہتے نہیں سنا کہ میں نے اس کا تجربہ کیا اور ایسا ہی پایا۔

(علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:) میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث تھی الدین محمد بن فہد سے سنی تو انہوں نے بڑے اچھے تسلسل سے امام جزری سے اس کا سماع کہا اور میں نے اس کے رجال میں کسی راوی کو ایسا نہیں پایا جس پر کسی کا عیب لگایا جائے۔

۵۰۰۲..... (انس بن مالک رضی اللہ عنہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی مصیبت پیش آتی تو یہ کلمات ورد فرماتے:

یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔

اے زندہ اور (ہر شے کو) تھامنے والے! میں تیری رحمت کے لیے تجھے پکارتا ہوں۔ رواہ ابن النجار ۳۹۱۸ پر روایت گزر چکی۔

۵۰۰۳..... (حضرت ثوبان مولیٰ حضور ﷺ کے آزاد فرمودہ غلام) ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کو جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو یوں فرماتے: اللہ اللہ ربی لا اشوک بہ شیئاً دوسرے الفاظ ہیں لا شریک لہ۔ یعنی اللہ! اللہ میرا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔

رواہ ابن عساکر

خوف و گھبراہٹ کے وقت پڑھنا

۵۰۰۴ (عبداللہ بن جعفر) حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ان کو تنہائی میں یہ نصیحت فرمائی: جب تمہاری موت کا وقت قریب ہو یا دنیا کا کوئی گھبراہٹ والے اہم مسئلہ درپیش ہو جائے تو یہ دعا پلے باندھ لینا:

لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔

مصنف ابن ابی شیبہ، ابن حریب، مستدرک الحاکم

۵۰۰۵ ابورافع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنی بیٹی کی شادی حجاج بن یوسف سے کر دی اور اس کو نصیحت فرمائی: جب وہ تیرے پاس آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا:

لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین

عبداللہ بن جعفر کا کہنا تھا کہ رسول اللہ ﷺ کو بھی جب کوئی پریشانی والی بات آجاتی تھی یہی کلمات پڑھتے تھے۔

ابورافع کہتے ہیں: لہذا حجاج اس تک نہیں پہنچ سکا۔ رواہ ابن عساکر

فائدہ:..... حجاج اموی خلافت کا ایک ظالم گورنر تھا۔ جس نے ظلم و زبردستی سے عبداللہ بن جعفر کی بیٹی سے شادی کی لہذا لڑکی کو ان کے والد نے یہ مذکورہ دعا سکھائی جس کی بدولت وہ ظالم ابی مراد نہ پاسکا۔

۵۰۰۶ (ابن عباس رضی اللہ عنہما) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب تم کو ظالم بادشاہ کے روبرو پیش کیا جائے اور تم کو اس کے ظلم کا خوف ہو تو یہ کلمات تین بار پڑھ لو:

اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقه جميعاً، اللہ اعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا اله الا هو الممسك السموات السبع أن يقعن على الارض الا باذنه، من شر عبدك فلان وجنوده واتباعه وأشياعه، من الجن والانس، اللهم كن لي جاراً من شرهم، جل ثناؤك، وعز جارك، وتبارك اسمك، ولا اله غيرك.

اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تمام مخلوق سے زیادہ باعزت ہے، اللہ زیادہ عزت (وطاقت) والا ہے، اس سے جس سے مجھے خوف اور ڈر لاحق ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اپنے حکم کے ساتھ ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکنے والا ہے، فلاں بندے کے شر سے، اس کے لشکروں کے شر سے، اور کے متعین اور ساتھیوں کے شر سے، جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے۔ اے اللہ تو ان کے شر سے (مجھے اپنا پڑوس عطا کر) میرے لیے پناہ ثابت ہو، بے شک تیری ثناء اور بڑائی عظیم ہے، تیرا پڑوسی باعزت ہوا، تیرا نام بابرکت ہوا اور بے شک تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۵۰۰۷ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ مصیبت کے وقت یہ کلمات پڑھتے تھے:

لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم۔ رواہ ابن جریر

بھانجا بھی قوم کا فرد ہے

۵۰۰۸ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے (بڑے) دروازے کی چوکھٹ پکڑی اور ہم لوگ کمرے میں تھے فرمایا: اے عبدالمطلب کی اولاد! کیا تم میں کوئی غیر تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا: ہماری بہن کا بیٹا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی بھی قوم کی بہن کا بیٹا انہی کا فرد ہوتا ہے۔

پھر ارشاد فرمایا: اے عبدالمطلب کے بیٹو! جب تم کو کوئی مصیبت آپڑے، یا کوئی سختی یا کسی تنگی کا تم کو سامنا ہو تو یہ کلمات کہہ لیا کرو:

اللہ اللہ لا شریک لہ۔ رواہ ابن جریر

۵۰۰۹ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: جب کسی پر کوئی ایسا حاکم مسلط ہو جائے جس کے ظلم و زبردستی کا خوف لگا رہے تو اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے:

اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم كن لي جاراً من فلان واهزابه واشياعه من الجن والانس ان يفرطوا علي وان يطفءوا عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك۔

اے اللہ! ساتوں آسمانوں کے رب اور عرش عظیم کے رب! میرا پڑوسی اور مددگار بن جا فلاں شخص سے اور اس کی جماعت سے اور جن و انس میں سے اسی کے مددگار ہیں کہ وہ مجھ پر زیادتی کریں اور سرکشی کریں بے شک تیرا پڑوسی باعزت رہے گا، تیری بڑائی عظیم ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس دعا کی برکت سے تم کو اس کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات نہ پہنچے گی۔

مصنف ابن ابی شیبہ، ابن جریر

۵۰۱۰ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کوئی رنج یا غم پیش آتا تھا تو یہ فرماتے تھے:

یا حی یا قیوم برحمتک استغیث - مسند البزار ۳۹۱۸

۵۰۱۱ (ابوالدرداء رضی اللہ عنہ) حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: جب بھی کوئی بندی سات مرتبہ یہ کہتا ہے تو اس کے ہر کام کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، خواہ وہ کہنے میں سچا ہو یا جھوٹا:

حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و هو رب العرش العظیم -

مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ رواہ مستدرک الحاکم

فائدہ: ... یعنی اس کو اس دعا کی اہمیت پر یقین کامل ہو یا اس میں کمزور ہو اور وہ سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔

۵۰۱۲ ... اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے کچھ کلمات سکھائے ہیں جو میں مصیبت کے وقت پڑھتی ہوں:

اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئاً - مصنف ابن ابی شیبہ، ابن جریر ۳۸۴۸

۵۰۱۳ ... اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی غمزدہ بات پیش آتی یا کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو یہ دعا پڑھتے:

اللہ اللہ ربی لا اشرك به شیئاً رواہ ابن جریر

ظالم بادشاہ سے خوف کے وقت پڑھے

۵۰۱۴ (علی بن حسین) عامر بن صالح سے مروی ہے کہ میں فضل بن ربیع کو اپنے والد ربیع کی طرف سے یہ قصہ نقل کرتے ہوئے سنا:

کہ جب خلیفہ منصور مدینہ آیا تو اس کے پاس چند لوگوں نے آ کر حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کی چغلی خوری کی اور بولے وہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتا، آپ کی عیب جوئی کرتا ہے اور آپ کو سلام تک کرنا روا نہیں رکھتا۔ خلیفہ منصور نے ربیع کو کہا: اے ربیع! جعفر بن محمد کو میرے پاس لاؤ۔ اگر میں اس کو قتل نہ کروں تو اللہ مجھے قتل کر دے۔ ربیع کہتے ہیں میں نے ان کو بلایا اور وہ تشریف لائے اور خلیفہ منصور سے بات چیت کی یہاں تک کہ خلیفہ منصور کا غصہ فرو ہو گیا۔ جب جعفر نکل کر جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا:

اے ابو عبد اللہ! آپ نے کوئی دعا پڑھی تھی میں بھی وہ جاننا چاہتا ہوں۔ فرمایا: ہاں۔ میرے دادا حضرت علی رضی اللہ عنہ بن حسین رضی اللہ عنہ (زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے تھے جس کو کسی بادشاہ کے ظلم اور غصہ کا خوف ہو تو وہ یہ دعا پڑھے:

اللهم احرسنی بعینک التی لاتنام، و اکنفنی بکنفک الذی لا یرام و اغفر لی بقدرتک علی، والا

هلکت و انت رجائی، فکم من نعمة قد انعمت بها علی قل لک عندھا شکری؟ و کم من بلیة قد

ابتلیتني بها قل لک عندھا صبری، یا من قل عند نعمته شکری فلم یحرمنی، و یا من قل عند بلیته

صبری فلم یخذلنی، و یا من رآنی علی الخطایا فلم یفضحنی و یا ذا النعماء التی لا تحصى و یا ذا

الایادی التی لا تنقضی، استدفع مکروه ما انا فیہ، و اعود بک من شره یا ارحم الراحمین

اے اللہ! میری حفاظت فرما اپنی اس آنکھ کے ساتھ جو سوئی نہیں، مجھے اپنی امان میں رکھ جو کبھی جھکتی اور زائل نہیں ہوتی۔ مجھ پر اپنی

قدرت کے باوجود میری مغفرت کر، ورنہ میں تو بلاکت میں جا پڑوں گا تو ہی میرا آسرا ہے۔ تیری کتنی نعمتیں ہیں جو تو نے مجھ پر انعام

فرمائیں لیکن میں نے ان کا شکر بہت تھوڑا کیا۔ کتنی مصیبتوں کے ساتھ تو نے میری آزمائش کی لیکن میں زیادہ صبر نہ کر سکا۔ اے وہ

ذات جس کی نعمتوں کا میں نے بہت کم شکر ادا کیا لیکن پھر بھی اس نے مجھے محروم نہیں کیا اے وہ ذات جس کی آزمائشوں پر میں نے

بہت کم صبر کیا لیکن اس نے مجھے شرمندہ نہ کیا۔ اے وہ ذات جس نے مجھے گناہوں میں ملوث دیکھا مگر مجھے رسوا نہ کیا اے نعمتوں

والی ذات جس کی نعمتوں کا شمار ممکن نہیں اے احسانوں والے جو کبھی ختم نہیں ہوتے میں تجھ سے اس تکلیف سے نجات مانگتا ہوں

جس میں میں مبتلا ہوں اور میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں یا ارحم الراحمین۔ رواہ ابن النجار ۵۰۱۵۔ (مرسل ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین) ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ارشاد فرمایا: فراموشی و کشادگی کے کلمات یہ ہیں:

لا الہ الا اللہ العلیٰ العظیم، سبحان اللہ رب العرش الکریم، الحمد للہ رب العالمین اللہم اغفر لی وارحمنی وتجاوز عنی و اعف عنی فانک غفور رحیم۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عالی (و) عظیم ہے، پاک ہے وہ اللہ عرش کریم کا پروردگار، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ سے درگزر فرما اور مجھے معاف فرما بے شک تو معاف کرنے والا مہربان ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ

۵۰۱۶۔ (درک بن عمرو عن ابی اسحاق عن البراء) حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آیا اور اپنی وحشت (اور تنہائی) کا شکوہ کیا۔ حضور ﷺ نے اس کو یہ وظیفہ زیادہ پڑھنے کی تلقین فرمائی:

سبحان الملک القدوس رب الملائکة والروح، جللت السموات والارض بالعزّة والجبروت۔

پاک ہے بادشاہ برکت والا جو ملائکہ اور روح الامین (جبرئیل علیہ السلام) کا رب ہے۔ (اے اللہ بے شک تو نے آسمانوں اور زمین کو اپنی عزت و طاقت کے ساتھ عظمت بخشی۔

اس آدمی نے یہ کلمات کہے تو اس کی وحشت دور ہو گئی۔

ابن السنی، الاوسط للطبرانی، الخرائطی فی منکرم الاخلاق، ابن شاہین، ابو نعیم، ابن عساکر

کلام:..... الخفی میں ہے درک بن عمرو کی ابو اسحاق سے ایک ہی روایت ہے اور وہ اس میں متفرد ہے۔ میزان میں ہے کہ درک بن عمرو ابو اسحاق سے منکر خبر کو تفرّد روایت کرتا ہے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں (درک) مجہول ہے۔ علامہ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی حدیث کا کوئی تابع (مثال) نہیں ملتی۔ امام طبرانی فرماتے ہیں: درک اسی روایت کے ساتھ معروف ہے۔ ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ روایت حسن غریب ہے۔ میزان الاعتدال ۲/۲۶۲ بحوالہ کنز ج ۲ ص ۲۶۳

شیطان سے حفاظت کی دعا

۵۰۱۷۔ (زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ) ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت پر بیٹھنے سے قبل میرے والد حضرت عروہ بن زبیر کے پاس آئے اور بتایا کہ میں نے گذشتہ رات عجیب قصہ دیکھا۔ میں اپنے مکان کی چھت پر چت لیٹا ہوا تھا۔ میں نے راستے میں چلنے پھرنے کی آوازیں سنیں۔ نیچے جھانک کر دیکھا تو سمجھا کہ شاید جو کیداروں کی جماعت ہے۔ لیکن اچھی طرح دیکھا تو وہ شیاطین (جن) تھے جو دستے کے دستے گھوم رہے تھے۔

حتیٰ کہ وہ سب میرے مکان پچھواڑے میں ویران جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ پھر (بڑا) ابلیس آیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو ابلیس نے بلند آواز کے ساتھ پکارا اور سب شیاطین ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے۔ ابلیس نے کہا: عروہ بن زبیر کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ایک جماعت بولی: ہم۔ پھر وہ گئے اور واپس آئے اور بولے: ہم اس پر کچھ بھی قادر نہیں ہو سکے۔ ابلیس نے پہلے سے زیادہ زوردار چنگھاڑ ماری۔ اور بولا کون عروہ بن زبیر کو سنبھالے گا؟ دوسری جماعت بولی: ہم پھر وہ گئے اور کافی دیر کے بعد واپس آئے اور بولے کہ ہم بھی اس پر قادر نہیں ہو سکے۔ اس با ابلیس اس قدر شدت سے چنگھاڑا میں سمجھا کہ زمین کی چھاتی شق ہو گئی ہے۔ اور سب شیاطین آگے بڑھے۔ ابلیس پھر بولا: کون عروہ بن زبیر کو بہکائے گا؟ اس بار سب شیاطین مل کر بولے: ہم (سب جاتے ہیں) چنانچہ سب شیاطین چلے گئے اور کافی دیر تک واپس نہیں لوٹے پھر واپس آئے اور تھکے رڈال کو بولے: ہم سب بھی اس پر قادر نہیں ہو سکے۔ آخر ابلیس بڑے غصے میں چلا گیا اور دوسرے شیاطین بھی اس کے پیچھے پیچھے

چلے گئے۔

حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا: مجھے میرے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں نے حضور اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے شروع رات میں یا شروع دن میں تو اللہ پاک اس کی اہلیس اور اس کے لشکر سے حفاظت فرماتے ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم ذی الشان، عظیم البرهان، شدید السلطان ماشاء اللہ کان أعوذ باللہ من الشیطان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بڑی شان کا مالک ہے، عظیم برہان اور مضبوط بادشاہت والا ہے جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میں شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ رواہ ابن عساکر

۵۰۱۸ ابوالتیاح سے مروی ہے میں نے عبدالرحمن بن حمیش سے جو بڑی عمر کے بزرگ تھے پوچھا: آپ نے رسول اللہ ﷺ کو پایا ہے؟ فرمایا: ہاں میں نے پوچھا: اس رات رسول اللہ ﷺ نے کیا کہا جب شیطان آپ کے قریب آگئے تھے؟ فرمایا: شیاطین مختلف واہوں سے اکٹھے ہو کر آپ ﷺ کے پاس آگئے تھے اور پہاڑ بھی آپ پر اتر آئے تھے۔ بڑا شیطان آگ کا شعلہ لے کر آپ کے قریب آیا تاکہ آپ کو اس کے ساتھ جلا دے۔ آپ ﷺ (دقی طور پر) ان سے مرعوب ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ پھر جبرئیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہو: آپ ﷺ نے پوچھا: کیا کہوں؟ فرمایا: یہ کہو:

أعوذ بكلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، وذراً وبرا، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الارض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق، الا طارقاً يطرق بخير، يا رحمن

میں اللہ کے تام کلمات کی پناہ مانگتا ہوں جن سے نیک تجاوز کر سکتا اور نہ بد ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور جس کو اس نے وجود بخشا اور ہر اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور ہر اس چیز کے شر سے جو زمین سے نکلتی ہے، اور رات و دن کے فتنوں کے شر سے اور ہر رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر ساتھ لائے اے رحمن ذات۔

پس آپ کا یہ پڑھنا تھا کہ شیاطین کی آگ بجھ گئی اور اللہ نے ان کو شکست دے دی۔

مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد، البزار، حسن بن سفیان، ابوزر عذفی منہ، ابن مندہ، ابونعیم والبیہقی معافی الدلائل روایت صحیح ہے۔

حفاظت کی دعا

۵۰۱۹ (علی رضی اللہ عنہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام ظالم بادشاہوں سے اللہ کی حفاظت حاصل کرتے تھے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اخستو فیہا ولا تکلمون، انی أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیاً، أخذت بسمع اللہ وبصرہ، وقوته علی أسمعکم وأبصارکم وقوتکم، یامعشر الجن والانس والشیاطین والاعراب والسباع والہوام واللصوص، مما یخاف ویحذر فلان بن فلان سترت بینہ وبینکم بسترة النبوة التي استتروا بها من سطوات القراعنة، جبریل عن ایمانکم، ومیکائیل عن شمائلکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم أمامکم، واللہ تعالیٰ من فوقکم، یمنعکم من فلان بن فلان فی نفسه وولده وأهله وشعره وبشره وماله وما علیہ وماعه وماتحته وما فوقه: (واذا قرأت القرآن

جعلنا بینک وبين الذین لا یؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً). الی قولہ (ونفوراً) اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے: اس جہنم میں چپ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میں رحمن کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اگر تو ڈرنے والا ہے (اللہ سے) میں اللہ کے سننے، دیکھنے اور اس کی قوت کے ساتھ تمہارے سننے، دیکھنے اور تمہاری طاقت پر مدد پکڑتا ہوں۔

اے جن، انس، شیاطین، بدوؤں، درندوں، (ریکنے والوں اور) چیونٹیوں اور چوروں کے گروہ! جن سے فلاں بن فلاں کو خوف اور خطرہ لاحق ہے میں اس کے اور تمہارے درمیان نبوت کا پردہ حائل کرتا ہوں، جس کے ظلیل انبیاء فرعونہ (اور ظالم بادشاہوں) کے ظلم سے محفوظ رہے۔ جبریل تمہارے دائیں ہے، میکائیل تمہارے بائیں، محمد ﷺ تمہارے آگے اور اللہ تمہارے پیچھے ہے پس تم کو فلاں بن فلاں کی جان، اہل و عیال، اولاد، اہل و عیال، مال، کھال، مال، جو اس پر ہے، جو اس کے ساتھ ہے، جو اس کے نیچے ہے اور جو اس کے اوپر ہے سب سے تم کو روکتا اور دھتکارتا ہوں۔

اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے درمیان مخفی پردہ کی آڑ کر دیتے ہیں انہی۔

ابن عساکر، وولده القاسم فی کتاب آیات الحزق

۵۰۲۰ (انس رضی اللہ عنہ) ابان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے وہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک بار (دعوت کی غرض سے) حجاج بن یوسف کے پاس تشریف لے گئے۔ حجاج نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا مال دکھایا جس میں چار سو گھوڑے تھے، سو گھوڑے دو سال کے بعد تیسرے سال میں داخل تھے، سو گھوڑے دوسرے سال میں داخل تھے، سو گھوڑے پانچویں سال میں داخل تھے اور سو گھوڑے قارح دانت والے تھے۔

پھر حجاج نے کہا: اے انس! کیا تو نے اپنے ساتھی کے پاس کبھی اتنا مال دیکھا تھا۔ اس خبیث کی مراد رسول اللہ ﷺ سے تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بالکل، اللہ کی قسم! اس سے بھی اچھا مال دیکھا تھا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا تھا: گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں: ایک وہ گھوڑا جو مالک نے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے باندھا ہو۔ اس کے بال، اس کا پیشاب، اس کا گوشت اور اس کا خون قیامت کے دن اسکے میزان کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ دوسرا گھوڑا جس کو کسی نے افزائش نسل کے لیے رکھا ہو اور تیسرا وہ گھوڑا جس کو کسی نے افزائش ریاہ شہرت اور دکھاوے کے لیے باندھا ہو ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اے حجاج! تیرے تمام گھوڑے اسی تیسری قسم کے ہیں۔

حجاج غضب آلود ہو گیا۔ بولا: اللہ کی قسم! اگر تو نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المؤمنین نے مجھے تیری رعایت کا خط نہ لکھا ہوتا تو دیکھتا میں تیرے ساتھ کیا کچھ کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: پرگزن نہیں (اللہ کی قسم) میں تجھ سے ایسے کلمات کی بدولت پناہ میں آ گیا ہوں کہ اب مجھے کسی بادشاہ کے ظلم کا اور کسی شیطان کی سرکشی کا کا خوف ذرہ بھر نہیں۔ پھر واقعی حجاج کا غصہ چھٹ گیا اور وہ بولا: اے ابوہزہ! (حجاج نے انس کی کنیت بطور ادب استعمال کی) وہ کلمات مجھے بھی سکھا دیجیے حضرت انس نے فرمایا: اللہ کی قسم! نہیں، میں تجھے ان کلمات کا اہل نہیں پاتا۔

حضرت ابان رحمۃ اللہ علیہ راوی حدیث فرماتے ہیں جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے ابوہزہ! میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا: بولو کیا چاہتے ہو؟ ابان رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا: وہ کلمات جو آپ سے حجاج نے پوچھے تھے فرمایا: ہاں، اللہ کی قسم! میں تم کو ان کا اہل سمجھتا ہوں۔ سنو! میں نے رسول اللہ ﷺ کی دس سال خدمت کی پھر آپ مجھ سے جدا ہونے لگے تو آپ مجھ سے راضی تھے آپ نے فرمایا: تم نے میری دس سال خدمت کی ہے اور میں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں تم سے راضی ہوں۔ لہذا تم (کو یہ عطیہ ہے کہ) جب بھی صبح و شام کا وقت ہو کرے یہ پڑھا کرو:

بسم اللہ، والحمد للہ، محمد رسول اللہ، لا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ علی دینی و نفسی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض

والسما، بسم اللہ الذی لایضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، لاقوة الا باللہ، لاقوة الا باللہ، لاقوة الا باللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ العلی العظیم، تبارک اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم ورب الارضین، وما بینهما، والحمد للہ رب العالمین، عز جارك، وجل ثناؤک، ولا الہ غیرک، اجعلنی فی جوارک من شر کل ذی شر، ومن شر الشیطان الرجیم، ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین، فان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. ابو الشیخ فی التواب

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دعا

۵۰۲۱ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایسے کلمات سکھادیئے ہیں کہ ان کے طفیل کسی جابر کی سرکشی اور اس کی زور بردستی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے ساتھ وہ کلمات ضروریات کے آسانی کے ساتھ پورا ہونے اور مؤمنوں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنے کا سبب بھی ہیں:

اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الأسماء، بسم اللہ رب الارض والسما، بسم اللہ الذی لایضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا أشرك به شیئا، أسألك اللهم بخیرک من خیرک الذی لایعطیہ غیرک، عز جارك، وجل ثناؤک، ولا الہ الا أنت: اجعلنی فی عیادک، وجوارک من کل سوء، ومن الشیطان الرجیم، اللهم انی استجیرک من جمیع کل شیء خلقت، واحترس بک منهن، وأقدم بین یدی: (بسم اللہ الرحمن الرحیم: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد) عن امامی ومن خلقتی، وعن یمینی وعن شمالی، ومن فوقی وتحتی.

اور سورہ اخلاص مکمل ایک ایک دفعہ چھ کی چھ جہات کی طرف رخ کر کے پڑھے۔ یعنی دائیں، بائیں، آگے پیچھے، اوپر اور نیچے۔

رواہ مستدرک الحاکم

رزق کی کشادگی کی دعائیں

۵۰۲۲ سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ضرورت اور فاقہ کشی کی نوبت آگئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا: اگر تم نبی ﷺ کے پاس جا کر آپ سے سوال کرو (تو شاید کوئی صورت نکل آئے) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے دروازے پر آئیں اور دروازہ کھٹکھٹایا حضور کے پاس ام ایمن بیچی ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا: یہ تو فاطمہ کے دروازے کھٹکھٹانے کا انداز ہے۔ اور وہ ایسے وقت تو ہمارے پاس نہیں آیا کرتی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر تشریف لائیں اور اپنے والد حضور ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! ان ملائکہ کا کھانا تسبیح و تہلیل اور تمجید ہے لیکن ہمارا کھانا کیا ہے؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: قسم اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے: آل محمد کے گھر بھی تمیں دنوں سے چولہا نہیں جلا۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں آئی ہیں۔ اگر تم چاہو تو پانچ بکریوں کا ہم تمہارے لیے حکم دے دیتے ہیں اور اگر تم چاہو تو میں تم کو پانچ کلمات سکھادیتا ہوں جو مجھے جبرئیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یوں کہا کر:

یا اول الاولین، ویا آخر الآخین، ویاذا القوة المتین، ویا ارحم المساکین ویا ارحم الراحمین
چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا واپس ہو گئیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا پیچھے کچھ
(آ رہا) ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں آپ کے پاس سے دنیا لینے گئی تھی اور آخرت لے کر واپس آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ
عنہ نے ارشاد فرمایا: یہ بہترین ایام ہیں۔ ابو الشیخ فی جزء من حدیثہ
کلام: اس روایت کے رجال میں کوئی راوی متکلم فیہ نہیں ہے اور سب راوی ثقہ مگر اس کی صورت مرسل کی سی ہے لیکن حضرت سید بن
عقلہ نے یہ روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنی ہے تو روایت متصل ہے۔

۵۰۲۳ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنی ضرورت لے کر حاضر ہوئی۔ حضور ﷺ نے
اس کو فرمایا: کیا تم کو اس سے اچھی چیز نہ بتا دوں؟ تو سوتے وقت تینتیس بار لا الہ الا اللہ پڑھا کر، تینتیس بار لا الہ الا اللہ پڑھا کر اور چونتیس
بار الحمد للہ پڑھا کر۔ پس یہ سو بار پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رواہ ابن جریر
کلام: ضعیف ہے دیکھئے: ذخیرۃ الحفاظ ۶۹، ضعیف الادب ۹۸۔

۵۰۲۴ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے نبی اکرم ﷺ کے پاس کسی شے کا سوال کیا آپ ﷺ نے فرمایا میں تم کو اس
سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ عورت بولی: ضرور، آپ ﷺ نے فرمایا: سوتے وقت تینتیس بار لا الہ الا اللہ پڑھا کر، چونتیس بار اللہ اکبر پڑھا کر اور اس کی
تمام چیزوں سے تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رواہ ابن جریر

۵۰۲۵ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اپنی حاجت ذکر کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا
میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تم سوتے وقت تینتیس مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کہو اور چونتیس مرتبہ الحمد للہ کہو،
یہ سو کی تعداد ہوئی یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ابن جریر، ابن عساکر
کلام: ضعیف الادب ۹۸ اور ذخیرۃ الحفاظ ۶۹ پر روایت پر ضعف کا کلام کیا گیا ہے۔

۵۰۲۶ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ حضور ﷺ کے پاس گئیں اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ان ملائکہ کا طعام تو لا الہ الا اللہ،
سبحان اللہ اور الحمد للہ وغیرہ ہے، ہمارا طعام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ معوث کیا ہے۔ آل محمد
کے گھروں میں تیس یوم سے آگ نبی صلی علیہ وسلم پھر بھی اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے پانچ بکریوں کا حکم دیتا ہوں اور اگر تم چاہو تو میں تم کو پانچ
کلمات سکھا دیتا ہوں جو مجھے جبرئیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہاں وہ مجھے پانچ کلمات ہی سکھا دیجیے
جو آپ کو جبرئیل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے فاطمہ یوں کہا کر:

یا اول الاولین، ویا آخر الآخین، ویاذا القوة المتین، ویا ارحم المساکین ویا ارحم الراحمین

ابو الشیخ فی فوائد الاصبہانین، الدیلمی، مستدرک الحاکم

رنج و خوشی کی دعائیں

۵۰۲۷ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ نبی کریم ﷺ کوئی خوش گوار چیز دیکھ لیتے تو یہ دعا پڑھتے:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت کے بدولت اچھی چیزیں انجام پاتی ہیں۔ اور جب آپ ﷺ کوئی ناپسندیدہ شے دیکھ لیتے تو
فرماتے: الحمد لله على كل حال هر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ رواہ ابن النجار
۵۰۲۸ اعمش رحمۃ اللہ علیہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے اور وہ اپنے کسی بزرگ شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کو کوئی خوش کن معاملہ

پیش آتا تو فرماتے: الحمد لله المتنعم المتفضل الذي بنعمته تتم الصالحات اور جب کوئی ناپسندیدہ معاملہ پیش آتا تو فرماتے: الحمد لله على كل حال مصنف ابن ابی شیبہ روایت صحیح ہے۔

مختلف دعائیں

۵۰۲۹... (مسند صدیق رضی اللہ عنہ) حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مجھے خبر ملی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی دعائیں فرمایا کرتے تھے:

اللهم انى اسألك الذى هو خير عاقبة امرى اللهم اجعل ما تعطينى الخير رضوانك والدرجات العلى فى جنات النعيم۔

اے اللہ! میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں جو میرے لیے بہترین انجام کار ثابت ہو۔ اے اللہ! تو جو مجھے عطا فرمائے اس کو اپنی رضا اور جنت میں اعلیٰ درجات کا سبب بنا۔ الزهد للامام احمد

۵۰۳۰... معاویہ بن قرہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی دعائیں فرمایا کرتے تھے:

اللهم اجعل خیر عمرى آخره وخیر عملى خواتمه وخیر ايامى يوم القاک۔

اے اللہ! میری بہترین عمر آخر عمر بنا اور میرا بہترین عمل آخری عمل بنا اور میرا بہترین دن وہ دن بنا جس میں میں تجھ سے ملاقات کروں گا۔ السنن لسعيد بن منصور، السنن ليويسف القاضى، الامالى لابی القاسم بن بشوان

۵۰۳۱... ابو یزید مدائنی سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جملہ دعاؤں میں سے یہ الفاظ بھی ہوتے تھے:

اللهم هب لى ايمانا و يقينا و معافاة و نية۔

اے اللہ! مجھے ایمان، یقین عاقبت اور اچھی نیت عطا فرما۔ ابن ابی الدنيا فى اليقين

۵۰۳۲... ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم اغننا بجلالك عن حرامك و اغننا من فضلك عن سواك

اے اللہ! اپنے حلال کے ساتھ حرام سے غنی فرما اور اپنے فضل کے ساتھ اپنے ماسوا سے بے نیاز کر دے۔ العسکرى فى المواعظ

۵۰۳۳... عبدالعزیز ابوسلمہ ہاشون سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم انى اسألك برحمتك التى لاتنال منك الا بالخروج

اے اللہ! اے اللہ! میں تیری اس خاص رحمت کا سوال کرتا ہوں جو فقط تیرے راستے میں نکلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ العسکرى

۵۰۳۴... عبدالعزیز ابوسلمہ ہاشون فرماتے ہیں مجھے ایک قابل اعتماد شخص نے بتایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے:

اسألك تمام النعمة فى الاشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا والخيرة فى جميع

ما يكون فيه الخيرة بجميع ميسور الأمور كلها لا بمعسورها يا كريم

(اے اللہ!) میں تجھ سے تمام چیزوں میں کامل نعمت اور اس پر تیرا شکر ادا کرنے کا سوال کرتا ہوں حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیری

رضا کے بعد تمام خیر کی چیزوں میں تمام تر آسانیوں کے ساتھ ممل خیر کا سوال کرتا ہوں بلا کسی تنگی و مشقت کے اے کریم!

ابن ابی الدنيا فى كتاب الشكر

۵۰۳۵... (مسند عمر رضی اللہ عنہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچی وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور انوشکایت

کی اور عرض کیا کہ ان کے لیے ایک دن کھجور کا حکم فرمائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے ایک دن کھجور کا حکم دیدوں اور اگر چاہو تو ایسے کلمات تم کو سکھا دوں جو اس سے بھی بہتر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے وہ کلمات بھی سکھا دیجیے اور ایک دن کھجور کا حکم بھی کر دیجیے (سبحان اللہ) کیونکہ میں بہت حاجت مند ہوں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا: کہو:

اللهم احفظني بالاسلام قاعدًا واحفظني بالاسلام راقدًا ولا تطع في عدوًا ولا حاسدا واعوذ بك من شر ما انت آخذ بنا صيتها واسألک من الخیر الذی هو بیدک کلہ۔

اے اللہ! میری حفاظت فرما اسلام کے ساتھ جاگتے ہوئے اور میری حفاظت فرما اسلام کے ساتھ سوتے ہوئے اور میرے متعلق کسی دشمن اور کسی حاسد کی بات مت قبول فرما۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں اور تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں جو تمام تیرے ہاتھ میں ہے۔

ابن رنجویہ، ابن حبان، الخرائطی فی مکارم الاخلاق، الدیلمی، السنن لسعید بن منصور

کلام: ... حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی اطراف میں اس روایت کے متعلق انقطاع کا حکم فرماتے ہیں۔

۵۰۳۶۔ عبداللہ بن خراش اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے خطبہ میں دعا فرماتے ہوئے سنا:

اللهم اعصمنا بحبلک وثبتنا علی امرک وارزقنا من فضلک۔

اے اللہ! اپنی رسی کے ساتھ ہماری حفاظت فرما، اپنے دین پر ہم کو ثابت قدم رکھ اور فضل کی ہمیں توفیق عطا کر۔

اللامام احمد فی الزهد، الرویانی، یوسف القاضی فی سننہ، حلیۃ الاولیاء، اللالکانی فی السننہ، ابن عساکر

۵۰۳۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے:

اللهم ان کتبت عل شقوة أو ذنبا فامحہ فانک تمحوماتشاء و تثبت و عندک ام الكتاب واجعله سعادة و مغفرة۔

اے اللہ! اگر تو نے مجھ پر بدبختی یا کوئی گناہ لکھ رکھا ہو تو اس کو مٹا دے، بے شک تو جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور چھپاتا ہے کھارہنے دیتا ہے کیونکہ تیرے ہی پاس اصل کتاب ہے اور تو اس کو میرے لیے سعادت اور مغفرت بنا دے۔ عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر

۵۰۳۸۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم انی اعوذ بک ان تأخذنی علی غرة أو تذرنی فی غفلة أو تجعلنی من الغافلین۔

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھے دھوکہ میں پڑا ہوا (اچانک) پکڑ لے، یا مجھے غفلت میں پڑا ہوا چھوڑ دے یا مجھے غفلوں میں سے کر دے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، حلیۃ الاولیاء

۵۰۳۹۔ اہل خراسان کے میکائیل نامی ایک شیخ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رات کو کھڑے ہوتے تو فرماتے:

اے اللہ! تو میرے کھڑے ہونے کو جانتا ہے اور میری حاجت کو بھی جانتا ہے، پس مجھے یہاں سے اپنی حاجت میں کامیاب واپس لوٹا اس

حال میں کہ میری دعا کامیاب اور مقبول ہو اور میں تیری مغفرت اور رحمت کو ساتھ لے کر واپس لوٹوں۔ پھر جب آپ نماز پوری کر کے فارغ ہوتے تو یہ دعا فرماتے:

اللهم لا أرى شیئاً من الدنیا یدوم، ولا أرى حالاً فیہا یتستقیم، اللهم اجعلنی انطق فیہا بعلم، واصحت فیہا بحکم، اللهم لا تکثر لی من الدنیا فاطعنی، ولا تقل لی منها فانسی، وان مائل وکفی خیر مما کثر والہی۔

اے اللہ! میں دنیا کی کسی شے کو ہمیشہ رہنے والا نہیں دیکھتا اور نہ اس میں کوئی درست حال دیکھتا ہوں، پس مجھے دنیا میں علم کے ساتھ

بولنے، حکمت کے ساتھ خاموش رہنے والا بنا۔ اے اللہ! دنیا میرے لیے (اس قدر) زیادہ نہ کر کہ میں سرکشی میں پڑ جاؤں اور نہ اس قدر تنگ کر کہ مجھے بھلا دیا جائے اور بے شک تھوڑی چیز جو کافی ہو جائے اس کثیر سے بہتر ہے جو بھلو و لعب میں مشغول کر دے۔
۵۰۴۰ ابو العالیہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اکثر یہ دعا فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا:

اللهم عافنا واعف عنا۔

اے اللہ! ہمیں عافیت میں رکھ اور ہمیں معاف فرما دے۔ الزهد لاحمد

۵۰۴۱ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم اجعل عملي صالحاً واجعله لک خالصاً ولا تجعل لک احد فیه شیئاً۔

اے اللہ! میرے عمل کو صالح و نیک بنا، اس کو اپنے لیے خاص بنا اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہ رکھ۔ الزهد للإمام احمد

۵۰۴۲ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا: اے ابن خطاب یہ دعا کیا کر:

اللهم اجعل سزیرتی خیراً من علانیتی واجعل علانیتی صالحاً۔

اے اللہ! میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا اور میرے ظاہر کو نیک بنا۔ ابن ابی شیبہ، حلیۃ الاولیاء، یوسف القاضی فی سنہ

۵۰۴۳ عمر و بن میمون سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں یہ کلمات فرماتے تھے:

اللهم توفنی مع الابرار ولا تجعلنی فی الاشرار و قنی عذاب النار والحقنی بالاخیر۔

اے اللہ! مجھے نیکوں کے ساتھ موت دے، مجھے بروں کے ساتھ مت کر، مجھے جہنم کے عذاب سے بچا اور مجھ نیک لوگوں میں شامل فرما۔

ابن سعد، الادب المفرد للبخاری

۵۰۴۴ حفصہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے والد (حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب) کو یہ دعا کرتے سنا:

اللهم ارضقنی قتلاً فی سبیلک و وفاة فی بلد نبیک۔

اے اللہ! مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب کر اور اپنے نبی کے شہر میں موت دے۔ میں نے پوچھا: یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ

عنہ نے فرمایا: اللہ پاک چاہتا ہے تو اپنا حکم کہیں سے بھی پورا فرما دیتا ہے۔ ابن سعد، حلیۃ الاولیاء

فائدہ:..... اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور ابولو کوجوسی نے آپ کو فجر کی نماز میں بیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور کئی دو تین وار کیے۔ اسی

صدے میں آپ کی موت ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی وہ بھی اپنے نبی کے شہر میں۔

۵۰۴۵ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو بیت اللہ کے طواف کے دوران یہ دعا

کرتے سنا:

اللهم ان کنت کتبتنی فی السعادة فأثبتنی فیها وان کنت کتبتنی فی الشقاوة فامحنی منها، وأثبتنی فی

السعادة، فانک تمحو ماتشاء وتثبت وعندک أم الكتاب۔

اے اللہ! اگر تو نے مجھے سعادت مند لکھ دیا ہے تو یونہی رہنے دے اور اگر مجھے بد بخت لکھ دیا ہے تو اس کو مٹا دے اور مجھے سعادت

مند لکھ دے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور تیرے ہی پاس اصل کتاب ہے۔ اللالکائی

۵۰۴۶ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے دعا کی:

اللهم اغفر لی ظلمی و کفری۔

ایک شخص نے کہا اے امیر المؤمنین ظلم تو ٹھیک ہے کفر معاف کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ فرمایا: اللہ کا فرمان ہے:

ان الانسان لظلم کفار۔

انسان بڑا ظالم اور ناشکر ہے۔ ابن ابی حاتم

پانچ چیزوں سے پناہ مانگنا

۵۰۴۷۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر کے اوپر پانچ چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے سنا:

اللهم انى أعود ذبك من الجبن والبخل، وأعود ذبك من العسر، وأعود ذبك من فتنة الصدر، وأعود ذبك من عذاب القبر.

اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، کجی سے، نیز تیری پناہ مانگتا ہوں (بری) عمر سے، سینے کے فتنے سے اور تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ البیہقی فی عذاب القبر

۵۰۴۸۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ (حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کو بندہ کاسب سے محبوب کلام یہ ہے کہ وہ مجھہ کی حالت میں ہے:

رَبِّ انى ظلمت نفسى فاغفر لى ذنوبى انه لا يغفر الذنوب الا انت۔

پروردگار! مجھ سے اپنی جان پر ظلم ہوا پس میرے گناہوں کو بخش دے۔ بے شک تیرے سوا کوئی گناہ کو بخشنے والا نہیں۔

عیاش، یوسف القاضی فی سنہ

۵۰۴۹۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے ایک رات نبی کریم ﷺ کے پاس گذاری۔ جب بھی آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوتے اور بستر پر جاتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے:

اللهم انى أعود بمعافاتك من عقوبتك، وأعود برضاك من سخطك، وأعود ذبك منك، اللهم لا أستطيع ثناء عليك، ولو حرصت، ولكن أنت كما أثبتت على نفسك.

اے اللہ! میں تیری عافیت کی پناہ مانگتا ہوں تیرے عذاب سے، تیری رضاء کی پناہ مانگتا ہوں تیری ناراضگی سے، اور تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میں تیری ثناء کا حق نہیں کر سکتا اگرچہ میں اس کی کوشش کروں۔ ہاں تو نے جیسی اپنی ثناء بیان کی تو اسی طرح ہے۔

نسائی، یوسف القاضی فی سنہ الاوسط للطبرانی

۵۰۵۰۔ (حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ) رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم متعنى بسمعى وبصرى حتى تجعلهما الوارث منى، وعافنى فى دينى، واحشرنى على ما أحببتنى، وانصرنى على من ظلمنى، حتى ترضى منى ثارى، اللهم انى أسلمت دينى اليك، وخليت وجهى اليك، وفوضت أمرى اليك، والجات ظهري اليك، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، آمنت برسولك الذى أرسلت وبكتابك الذى أنزلت.

اے اللہ! مجھے میرے کانوں اور آنکھوں (کو سلامت رکھنے) کے ساتھ نفع دے اور ان کو میرا وارث بنا دے (کہ آخر عمر تک سلامت رہیں) مجھے میرے دین میں نفع دے، مجھے انہی اعمال پر زندہ کر کے اٹھا جن پر تو نے مجھے دنیا میں زندہ رکھا، مجھ پر ظلم کرنے والے میں مجھے اپنا بدلہ دکھا، اے اللہ! میں نے اپنا دین تیرے سپرد کیا، اپنا چہرہ صرف تیری طرف متوجہ کیا، اپنا سارا معاملہ تجھے سونپ دیا، اپنی ٹیک (اور امید) تجھ پر لگائی، نہیں کوئی جائے پناہ اور کوئی نجات کی جگہ مگر تیرے پاس۔ میں ایمان لایا اس رسول پر جو تو نے مبعوث فرمایا اور ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمایا۔ الاوسط للطبرانی

۵۰۵۱۔ حارث رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: میں تجھ وہ دعا نہ سکھاؤں جو مجھے رسول اللہ ﷺ نے سکھائی ہے؟ میں نے عرض کیا: ضرور! فرمایا: کہو:

اللهم افتح مسامع قلبی لذكرک وارقتی طاعتک وطاعة رسولک عملاً بکتابک۔
اے اللہ! میرے دل کے کانوں کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے، مجھے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت اور اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق بخش۔ الاوسط للطبرانی

۵۰۵۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ اگر تو پڑھ لے تو تیرے گناہ جو چوبیسویںوں کے برابر ہوں یا ریت کے ذرات کے برابر ہوں تب بھی اللہ پاک ان کو تیرے لیے معاف فرمادے گا اور تیری بخشش کر دی جائے گی:

اللهم لا اله الا انت سبحانک عملت سوءاً او ظلمت نفسی، فاغفر لی، انه لا یغفر الذنوب الا انت۔
اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے جو گناہ کیا یا مجھ سے اپنی جان پر جو ظلم ہوا اس کو بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ ابن ابی الدنيا فی الدعاء، عبد الغنی بن سعید فی ایضاح الاشکال
۵۰۵۳ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے: اللہ کے ہاں محبوب ترین کلمات یہ ہیں:

اللهم لا اله الا انت، اللهم لا نعبد الا ایاک، اللهم لا نشکرک بک شیئاً، اللهم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فانه لا یغفر الذنوب الا انت۔

اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اے اللہ! ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اے اللہ! ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اے اللہ! مجھ سے اپنی جان پر ظلم ہوا مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشا۔

ہناد، یوسف القاضی فی سننہ

۵۰۵۴ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ یہ دعا فرماتے تھے:

أعوذ بک من جهد البلاء ودرک الشقاء، وشماتة الأعداء، وأعوذ بک من السجن والقید والوسط۔
اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں مصیبت کی آزمائش سے، بدبختی کے منڈلانے سے، دشمنوں کے خوش ہونے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قید، بیڑیوں اور کوڑوں سے۔ یوسف القاضی

۵۰۵۵ حکیم ترمذی اپنی کتاب نوادر الاصول فرماتے ہیں: عمرو بن ابی عمرو، ابو ہمام الدلال، ابراہیم بن طہمان، عاصم بن ابی النجود، زر بن حبیش (کی سند کے ساتھ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس تشریف لائے اسی دوران میں حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بھی حضور ﷺ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے ابوذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو فرمایا: یہ ابوذر ہیں؟ حضور ﷺ فرماتے ہیں: میں نے پوچھا: اے امین اللہ (جبرئیل علیہ السلام) کیا تم ابوذر کو جانتے ہو؟ جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا: ان کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ ایک دعا دن میں دو مرتبہ کیا کرتے ہیں۔ جس پر ملائکہ بھی فخر فرماتے ہیں۔ لہذا آپ بھی ان کو بلا کر ان سے اس دعا کے بارے میں پوچھ لیں۔

حضور ﷺ نے ان کو بلا یا: اے ابوذر! کوئی ایسی دعا ہے جو تم دن میں دو مرتبہ مانگا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ میں نے وہ کسی انسان سے نہیں سنی، بلکہ بروردگار نے مجھے الہام فرمائی ہے اور وہ دعا میں دن میں دو مرتبہ مانگا کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قبلہ رو ہوتا ہوں پھر جی بھر کر اللہ کی شیح و تہلیل اور تحمید و تکبیر کرتا ہوں پھر وہ دعا مانگتا ہوں جو دس کلمات پر مشتمل ہے:

اللهم انی أسألك ایماناً دائماً، وأسألك قلباً خاشعاً، وأسألك علماً نافعاً، وأسألك یقیناً صادقاً،
وأسألك دیناً قیماً، وأسألك العافیة من کل بلیة، وأسألك تمام العافیة، وأسألك دوام العافیة،
وأسألك الشکر علی العافیة، وأسألك الغنی علی الناس۔

اے اللہ! میں تجھ سے دعا کی ایمان کا سوال کرتا ہوں، خشوع کرنے والے دل کا سوال کرتا ہوں، علم نافع کا سوال کرتا ہوں، سچے یقین کا سوال کرتا ہوں، مضبوط اور سیدھے دین کا سوال کرتا ہوں، ہر مصیبت سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، کامل عافیت کا سوال کرتا ہوں، ہمیشہ رہنے والی عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت پر شکر کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔

جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا: قسم اس ذات پاک کی، جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ کا کوئی امتی یہ دعا نہیں کرتا مگر اس کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں یا مٹی کے ذرات سے زیادہ ہوں۔ اور آپ کا کوئی امت اس دعا کو لے کر خدا کے پاس نہیں آئے گا مگر جنتیں اس کی مشتاق ہوں گی، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، جنت کے سب دروازے اس کے لیے کھول دیئے جائیں گے اور فرشتے اس کو کہیں گے: اے اللہ کے ولی! جس دروازے میں چاہے داخل ہو جا۔

۵۰۵۶ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فاتحہ الكتاب (سورہ فاتحہ)، آیۃ الکرسی، اور آل عمران کی دو آیات:

شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الخ (مکمل آیت)

اور قل اللهم مالک الملك سے وترزق من تشاء بغير الحساب تک (مکمل آیت)

یہ سب آیات عرش سے متعلق ہیں۔ ان کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں: اے اللہ! تو ہم کو زمین پر اتارتا ہے؟ اور ان لوگوں پر اتارتا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں؟ اللہ عزوجل نے فرمایا: میں نے قسم اٹھائی ہے تم کو میرا جو بندہ بھی (فرض) نمازوں کے بعد تلاوت کرے گا خواہ اس کے اعمال کیسے ہوں میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اس کو خلیفۃ القدر میں اتار دوں گا، ہر دن اس پر اپنی مٹی نگا ہوں گے ساتھ ستر مرتبہ نظر کروں گا۔ اور ہر دن اس کی ستر جانتیں پوری کروں گا جن میں سب سے ادنیٰ مغفرت ہے، ہر

دشمن سے اس کو پناہ دوں گا اور اس کی مدد کروں گا۔ ابن حبان فی الضعفاء، ابن السننی فی عمل یوم وليلة، ابو منصور السحابی فی الاربعین

کلام: امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں ایک راوی حارث بن عمیر متفرد ہے جو ثقہ راویوں کی چنانچہ سے من گھڑت روایتیں پیش کرتا ہے۔ حافظ ابو الفضل عراقی سے اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس کے روایت کو مستندین نے ثقہ قرار دیا ہے لیکن متاخرین نے کچھ راویوں میں کلام کیا ہے اور اس میں محل نظر صرف دو اشخاص ہیں: محمد بن زبور بنی اور حارث بن عمیر۔ دونوں کو کچھ ائمہ نے ثقہ قرار دیا ہے اور اول کو ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور مؤخر الذکر کو امام ابن حبان اور امام حاکم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کو اپنی امالیہ میں ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ ہم حارث میں کسی متقدم کا کوئی طعن نہیں پاتے بلکہ حماد بن زیدان کی تعریف کرتے ہیں جو ان سے بڑے ہیں اور نقاد ابن معیدان کی توثیق فرماتے ہیں۔

نیز ابو حاتم اور نسائی نے بھی ان کی توثیق فرمائی۔ بخاری و ابن حبان نے تعلیقاً ان کو ذکر کیا، دیگر اصحاب سنن نے ان کی روایات لی۔ لیکن ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضعیف میں شمار کیا اور ان کی توہین میں کافی زیادتی کی ہے۔ اور حارث سے اوپر کے راویوں کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی جاسکتی ان کی عظمت شان کی وجہ سے۔ نیز حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو موضوع شمار کرنے کے حوالہ سے فرماتے ہیں: ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوعات میں شمار کر کے افراط کیا ہے شاید انہوں نے اس حدیث کے ثواب کو بہت زیادہ سمجھ لیا تھا ورنہ راوی تو آپ کو معلوم ہو ہی گئے (کہ معمولی اختلاف کے علاوہ سب صحیح ہیں)۔

۵۰۵۷ فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یوں دعا فرمایا کرتے تھے:

یا کھیعص اغفر لی۔

اے کھیعص! میری مغفرت فرما۔ ابن ماجہ

کلام: یہ روایت موضوع ہے دیکھئے الاباطیل ۶۸۲، تذکرۃ الموضوعات ۷، الشریعہ ۲۸۸، ضعیف الجامع ۴۱۹، الضعیفہ ۴۹، ۶۹۸،

الکافی ۲۲۸/۱، الموضوعات ۲۳۵/۱ التحقیقات ۷۔

۵۰۵۸ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے جبرئیل علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا: اے محمد! آپ کی امت میں سے جس نے دن میں سو مرتبہ:

لا الہ الا اللہ الحق المبین پڑھا، اس کو نقر سے نجات ملے گی، قبر کی وحشت میں انسیت ملے گی اور وہ اس کے ساتھ مادراری پائے گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ رواہ الدیلمی

کلام: روایت میں ایک راوی فضل بن غانم ہے جو مالک سے روایت کرتا ہے، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یس بشی اس کا کچھ اعتبار نہیں۔

دعائے مغفرت

۵۰۵۹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھاؤں جب تو ان کو کہے تو اللہ تیری مغفرت فرمادے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له: الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له العلی العظیم

سبحان اللہ رب السموات السبع ورب العرش العظیم، والحمد لله رب العالمین۔ رواہ ابن جریر

۵۰۶۰ عاصم بن ضمیرہ سے مروی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ دعائیں یہ الفاظ پڑھتے تھے:

ربنا وجهک اکرمنا لوجوه وجاهک خیرہ الجاہ۔

اے ہمارے رب تیری ذات سب سے زیادہ کریم اور تیرا مرتبہ سب سے بہترین مرتبہ ہے۔ خشیش بن اصرم فی الاستقامة

۵۰۶۱ محمد بن زیاد، میمون بن مهران سے اور وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تجھے پانچ ہزار بکریاں دیدوں یا پانچ کلمات سکھا دوں، جن سے تمہارا دین اور تمہاری دنیا صحیح ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یا رسول اللہ پانچ ہزار بکریاں بھی بہت ہیں لیکن آپ مجھے وہ کلمات سکھا دیجیے۔ فرمایا: یہ دعا پڑھا کرو:

اللهم اغفر لی ذنبی، ووسع لی خلقی وطیب لی کسبی، وقعنی، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی۔

اے اللہ! میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میرے اخلاق کو کشادہ فرما، میرا (ذریعہ) معاش پاکیزہ بنا، اپنے رزق پر قناعت دے اور

میرے دل کو ایسی چیز کی طرف مائل نہ کر جو تو نے مجھ سے پھیر دی ہو۔ رواہ ابن النجار

۵۰۶۲ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے:

اللهم آمن روعتی، واستتر عورتی، واحفظ أمانتی، واقض ذنبی۔

اے اللہ! میرے اندر کو امن دے، میرے عیب پر پردہ ڈال، میری امانت کی حفاظت فرما اور میرے قرض کو ادا فرما۔

الشاشی، السنن لسعید بن منصور

ابو نعیم نے اس کو حنظلہ بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ رواہ ابن عساکر

۵۰۶۳ ابوالحسن بن ابی الحدید، ابوالحسن کے دادا ابو عبد اللہ، ابوالحسن بن سمسار، ابوبکر بن احمد بن عبد اللہ بن ابی دجانہ بصری، محمد بن احمد بن سنجی،

ابوبکر محمد بن سعید رازی، محمد بن علی بن حمزہ بن حسین بن عبید اللہ بن عباس بن علی، فضل بن محمد بن فضل بن حسن بن عبید اللہ بن عباس بن علی، ان

کے والد محمد بن فضل، محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن ابی عنان بن عبد اللہ بن علی کی سند سے منقول ہے،

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں نے جب بھی خواہش کی کہ جبرئیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کا پردہ

پکڑے یہ کہتے سنوں:

یا واحد یا احد لا تنزل عنی نعمة انعمت بها علی-

اے واحد! اے احد! تو نے مجھ پر جو نعمت بھی انعام فرمائی ہے اس کو مجھ سے زائل نہ فرما۔ تو میں نے ان کو دیکھ لیا۔
کلام: ... روایت ضعیف ہے، دیکھئے ضعیف الجامع ۵۰۷۹۔

۵۰۶۴ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم انی ذنوبی لانضروک وان رحمک ابای لانقصک-

اے اللہ! میرے گناہ تجھے کوئی نقصان دے سکتے اور تیرا مجھ پر رحمت فرمانا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ الدینوری

۵۰۶۵ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے علی! میں تجھے ایسی دعا نہ سکھاؤں جب تو مانگے تو تیری بخشش کر دی جائے۔ میں نے عرض کیا: ضرور! حضور ﷺ نے فرمایا:

لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ العلی الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم.

۵۰۶۶ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم انی اعود بک من غلبة الدین، وغلبة العدو، و بوار الایم.

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے، دشمن کے غلبہ سے اور بغیر شادی کے مرنے سے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۵۰۶۷ ہلال بن یساف سے مروی ہے کہ ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جس شخص نے:

لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، له الملک، وله الحمد، وهو علی کل شیء قدیدر سور تہ پڑھا وہ شخص ہر عمل

(والے) سے اوپر ہو کر آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھے۔ مصنف عبدالرزاق

۵۰۶۸ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے

چھپا کر رسول اللہ ﷺ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھ رہی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اے عائشہ! تو کامل اور جامع دعائیں پڑھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کامل اور جامع دعا

کے بارے میں پوچھا حضور ﷺ نے فرمایا: یہ پڑھو:

اللهم انی أسألك من الخیر كله عاجله و آجله، ما علمت منه، و ما لم أعلم، و أسألك الجنة و ما

قرب الیها من قول أو عمل، و اعود بک من الشر كله عاجله و آجله، ما علمت منه و ما لم أعلم،

و أسألك من من خیر ما سألك منه عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ و سلم، و أستعیدک

مما استعاذ منه عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ و سلم، و أسألك ما قضیت لی من امر ان

تجعل عاقبتہ رشداً.

اے اللہ! میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں ہوں وہ خیر جلدی ہو یا بدیر، میرے علم میں ہو یا نہیں، اور میں تجھ سے جنت کا اور ہر

اس قول یا عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر طرح کے شر سے وہ جلدی ہو یا بدیر،

میرے علم میں ہو یا نہیں، اور میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا تجھ سے تیرے بندے اور تیرے رسول ﷺ نے پناہ

مانگی۔ نیز میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو نے میرے حق میں جس کام کا فیصلہ کر دیا ہے اس کا انجام میرے لیے بہتر بنا۔

رواہ مستدرک الحاکم

۵۰۶۹ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم عافنی فی بصری و اجعله الوارث منی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب العرش العظیم.

اے اللہ! مجھے میری نگاہ میں عاقبت دے اور اس کو میرا وارث بنا۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بردبار کریم ہے (اور) عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ رواہ ابن النجار

۵۰۷۰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب بھی آسمان کی طرف منہ اٹھایا تو یہ ضرور پڑھا: یا مصرف القلوب تبس قلبی علی دینک۔

اے دلوں کو بدلتے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ رواہ مستدرک الحاکم
کلام: روایت پر ضعف کا کلام ہے۔ دیکھئے: ذخیرۃ الحفاظ ۲۸۱۶۔

جامع اور مختصر دعا

۵۰۷۱ عبد الملک بن سلیمان ایک بصری شخص سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا گیا، قریب ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں۔ حضور ﷺ نے چاہا کہ اس ہدیہ کے کھانے میں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی شریک ہو جائیں، لہذا آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ دعا جامع اور مختصر پڑھو، یوں پڑھ لو:

اللهم انی أسألك من الخیر كله عاجله و آجله، و أعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله، و ما قضیت من قضاء فبارك لی فیہ، و اجعل عاقبته الی خیر. مصنف ابن ابی شیبہ
۵۰۷۲ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کو یہ دعا سکھائی:

اللهم انی أسألك من الخیر كله عاجله و آجله ما علمت منه، و ما لم أعلم، و أعوذ بك من الشر كله عاجله و آجله ما علمت منه، و ما لم أعلم، اللهم انی أسألك من خیر ما سألك منه عبدك و نبيك، و أعوذ بك من شر ما عاذا منه عبدك و نبيك، اللهم انی أسألك الجنة و ما قرب إليها، من قول و عمل، و أعوذ بك النار و ما قرب إليها من قول و عمل، و أسألك أن تجعل كل قضاء تقضیه لی خیراً۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۵۰۷۳ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اے لوگو! کیا تم دعائیں خوب محنت کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ! فرمایا: یہ پڑھا کرو:
اللهم العنی علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک۔

اے اللہ! میری مدد فرما اپنے شکر پر، اپنے ذکر پر اور اپنی اچھی طرح عبادت پر۔ ابن شاہین
یہ روایت حسن ہے۔

۵۰۷۴ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللهم سألتنا من أنفسنا ما لانملکہ الا بك، اللهم فاعطنا منها ما یرضیک عنا
اے اللہ! تو نے ہم سے ہماری جانوں کا سوال کیا ہے اور ہم ان کے مالک نہیں مگر تیری مدد کے ساتھ، اے اللہ! ہماری جانوں سے ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو تجھے راضی کر دیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۵۰۷۵ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم لا تکنلی الی نفسی طرفة عین۔

اے اللہ! مجھے ایک پل کے لیے سب سے میرے نفس کے حوالہ نہ فرما۔ ابو بکر فی الغیلابیات، ابن النجار

۵۰۷۶ ابی قریصہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم لاتخزنا یوم القیامۃ ولا تفضحنا یوم اللقاء۔

اے اللہ! قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ فرما اور ملاقات کے دن ہم کو فضیحت نہ کر۔ ابن عساکر، ابن النجار

۵۰۷۷ زیاد بن الجعد سے مروی ہے کہ میں نے ابو قریصہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا ہے:

اللهم لاتخزنا یوم البأس ولا تخزنا یوم القیامۃ۔ رواہ ابو نعیم

۵۰۷۸ یحییٰ بن حسان رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مجھے بنی کنانہ کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی آپ کو یہی (مذکورہ بالا دعا کے مثل) دعا فرماتے ہوئے سنا۔ رواہ ابو نعیم

۵۰۷۹ اے ابوالمنذر! دن میں سو بار یہ پڑھا کر:

لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، ولہ الحمد، یحییٰ ویمیت بیدہ الخیر، وهو علی کل

شیء قدید

پس تو سب سے افضل شخص ہوگا سوائے اس کے جو تیرے جیسا عمل کرے۔ اور نماز میں کبھی بھی استغفار کرنے سے نہ بھولنا کیونکہ

اللہ کی رحمت کے ساتھ یہ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابو نعیم عن ابی المنذر الجہنی

۵۰۸۰ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا۔ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی پھر یہ دعا کی:

اللهم اغفر لی ذنبی، ووسع لی فی داری، وبارک لی فی رزقی، رواہ ابن ابی شیبہ

۵۰۸۱ ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے: ج ۲ ص ۲۸۶

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرے بھائی عبداللہ بن رواحہ پر میرا ایسا کوئی عمل پیش کیا جائے جس سے شرم

کی جائے۔ رواہ مستدرک الحاکم

فائدہ: عبداللہ بن رواحہ جنگ یرموک میں تین علمبرداروں میں سے ایک تھے آپ رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہوئے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ان کے عمل پر رشک فرمایا کرتے تھے اس لیے دعا فرماتے تھے۔

۵۰۸۲ ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو یہ دعا سکھائی اور فرمایا: کہو:

اللهم انی اسألك نفسا مطمئنة تؤمن بقلائک وترضی بقضاءک۔

اے اللہ! میں تجھ سے نفس مطمئنه کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر ایمان رکھتا ہو اور تیرے فیصلے پر راضی ہو۔ رواہ مستدرک الحاکم

۵۰۸۳ عمران بن حصین سے مروی ہے کہ حضرت حصین ایمان لانے سے قبل نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور بولے: اے محمد! آپ مجھے پڑھنے کے لیے کیا بتاتے ہو؟ حضور ﷺ نے فرمایا: تم یہ پڑھو:

اللهم انی اعوذ بک من شر نفسی واسألك ان تعزم لی علی ارشد امری۔

اے اللہ! میں تیرے ہی پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے سیدھی راہ پر چلتے کر دے۔ ابوالمنذر الجہنی کے بعد حضرت حصین رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے اور چہر حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا: میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا اور اب دوبارہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے پڑھنے کے لیے کیا دعا ارشاد فرمائیں۔ تب آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ہو:

اللهم اغفر لی ما أسررت وما اعلنت وما اخطأت وما حمدت وما جهلت وما علمت۔

اے اللہ! مجھے (میرے سب گناہ) بخش دے جو میں نے پوشیدہ کیے ہوں یا اعلانیہ کیے ہوں، بھول چوک سے کیے ہوں یا جان بوجھ

کر کیے ہوں اور جو میرے علم میں نہ ہوں یا میں ان کو جانتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۵۰۸۴ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے میرے والد حصین رضی اللہ عنہ کو فرمایا: اب تم کتنے معبودوں کی عبادت کرتے ہو انہوں نے جواب دیا: سات معبودوں کی۔ چھ زمین میں ہیں اور ایک آسمان میں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: ان میں سے کس سے امید اور ڈر رکھتے ہو؟ جواب دیا: جو آسمان میں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے حصین! اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تم کو دو کلمے بتاؤں گا جو تمہارے لیے نفع دہ ثابت ہوں گے۔ پھر حضرت حصین اسلام لے آئے اور نبی اکرم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے وہ دو کلمے سکھا دیجیے جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہو:

اللهم الهمنی رشدی و قنی شرفی۔

اے اللہ مجھے میری بھلائی الہام کر اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ الرویانی، ابو نعیم، مستدرک الحاکم
۵۰۸۵ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اسلام لے آیا ہوں، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا: کہو:

اللهم انی استهدیک لارشد امری و اعوذ بک من شر نفسی۔

اے اللہ! میں تجھ سے سب سے سیدھی راہ کی ہدایت طلب کرتا ہوں، اور اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ابو نعیم
۵۰۸۶ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے ہلکی سی نماز پڑھی اور فرمایا: میں نے اس نماز میں ایک دعا مانگی تھی جو نبی اکرم ﷺ مانگا کرتے تھے:

اللهم بعلمک الغیب و قدرتک علی الخلق أحنینی ما کانت الحیاة خیراً لی، و تو فنی اذا کانت الوفاة خیراً لی و أسألك خشیتک فی الغیب و الشهادة و کلمة الاخلاص فی الرضا و الغضب، و أسألك نعیماً لا ینفد، و قرۃ عین لا تنقطع، و أسألك الرضا بالقضاء، و برد العیش بعد الموت، و لذة النظر الی وجهک، و الشوق الی لقائک، و أعوذ بک من ضراء مضرة، و فتنة مضلة، اللهم ربنا بزینة الایمان، و اجعلنا هداة مهتدین۔

اے اللہ! تو غیب کو بخوبی جانتا ہے اور مخلوق پر پوری قدرت رکھتا ہے پس جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ: اور مجھے وفات دیدے جب میرے لیے وفات پانا بہتر ہو۔ اور میں تجھ سے غیب اور حضورؐ میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں، اور خوشی و غصہ ہر حال میں سچی بات کا سوال کرتا ہوں۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسی نعمت کا جو ختم نہ ہو، آنکھ کی ایسی ٹھنڈک کا جو منقطع نہ ہو، تیرے فیصلے پر رضاء قلبی کا، موت کے بعد اچھی زندگی کا، تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا، تیری ملاقات کے شوق کا، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں تکلیف دہ نقصان سے اور گمراہ کن فتنے سے، اے اللہ! ہم کو ایمان کی زینت کے ساتھ مزین کر، اور ہم کو ہادی و ہدایت یافتہ بنا دے۔ رواہ ابن النجار

۵۰۸۷ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی:

الیک ربی فحبیبی، و فی نفسی لک ربی فذللتی، و فی أعین الناس فعضمتی، و من شیء الاخلاق فجنبنی۔
اے اللہ! مجھے اپنا محبوب بنا، اپنے لیے مجھے اپنے آپ میں ذلیل کر دے، لوگوں کی نگاہ میں مجھے عظیم کر دے اور برے اخلاق سے مجھے بچالے۔ ابن لال فی مکارم الاخلاق

کلام: روایت کی سند ضعیف ہے کنز ج ۲ ص ۲۸۸۔

۵۰۸۸ ابی عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب رات رسول اللہ ﷺ نے آپ کو فرمایا تھا: سوال کرو پورا کیا جائے گا؟ تم نے کیا سوال کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: میں نے یہ دعا کی تھی:

اللهم انى أسألك ايماً لا يوتد، ونعيماً لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم فى أعلى درجة الجنة جنة الخلد.

اے اللہ! میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو لوٹ نہ جائے، ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو اور اعلیٰ جنت میں تیرے نبی ﷺ کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۵۰۸۹ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی تھی:

اللهم انى أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى -

اے اللہ! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکدامنی اور غنی مانگتا ہوں۔ رواہ ابن النجار

حضرت ادریس علیہ السلام کی دعا

۵۰۹۰ حسن بن ابی حسن سے مروی ہے فرماتے ہیں: مجھے گمان ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں: اللہ کے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے اور وہ دعا بے وقوف لوگوں کو سکھانے سے منع کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے:

يا ذا الجلال والاكرام، ويا ذا الطول، لا اله الا انت ظهرو اللاجين، وجار المستجيرين، وأنس الخائفين، انى أسألك ان كنت فى أم الكتاب شقيماً، أن تمحو من أم الكتاب شقائى وتثبتنى عندك سعيداً، وان كنت فى أم الكتاب محروماً ومقتراً على فى رزقى، أن تمحو من أم الكتاب حرمانى، واقتارى وارزقنى واثبتنى عندك سعيداً موفقاً لخير كله.

اے بزرگی اور کرم والے! اے طاقت والے! تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پناہ مانگنے والوں کا پشت پناہ ہے، امن چاہنے والوں کا پڑوسی ہے، خوفزدہ لوگوں کا مولس ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اصل کتاب (لوح محفوظ) میں میں بد بخت ہوں تو تو اصل کتاب سے میری بد بختی مٹا دے اور مجھے اپنے ہاں سعادت مند لکھ لے۔ اگر اصل کتاب میں محروم اور روزی سے تنگ دست لکھا ہوں تو تو اس کتاب سے میری محرومی اور میری تنگ دستی مٹا دے اور مجھے رزق دے اور اپنے ہاں سعادت مند لکھ لے جس کو تمام خیروں کی توفیق میسر ہو۔ رواہ مستدرک الحاکم

۵۰۹۱ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم شمار کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ایک مجلس میں سو سو بار بزب اغفر لى، وتب على انك انت التواب الرحيم۔ پڑھ لیتے تھے۔ نسائی

۵۰۹۲ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی (دعاؤں میں سے) یہ دعا ہوتی تھی:

اللهم زينى بالعلم واغنى بالحلم واكرمى بالتقوى وجملى بالعافية.

اے اللہ! مجھے علم کے ساتھ مزین کر، تقویٰ کے ساتھ میرا اکرام کر اور عافیت کے ساتھ مجھے صاحب جمال بنا۔ رواہ ابن النجار

۵۰۹۳ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اکثر ان کلمات کے ساتھ دعا کرتے سنا ہے:

اللهم انى أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر.

اے اللہ! میں تجھ سے صحت، عفت، امانت، حسن اخلاق اور رضا ہاں التذکر کا سوال کرتا ہوں۔ رواہ مستدرک الحاکم

۵۰۹۴ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اس دعا کو بھی نہ چھوڑا کرتے تھے

اللهم فنعنى بما رزقتنى وبارك لى فيه -

اے اللہ! مجھے میرے رزق پر قناعت دے اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما۔ العسکری فى الامثال

۵۰۹۵ (مسند سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ) حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کتب میں معلم بچوں کو سکھاتا ہے

اللهم انسى اعدو ذبک من البخل، و اعدو ذبک من الجبن، و اعدو ذبک ان ارد الی ارض ال عمر، و اعدو ذبک من فتنه الدنيا و عذاب القبر

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، تیری پناہ مانگتا ہوں جبروتی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ بری عمر تک پہنچا دیا جاؤں اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے۔ رواہ ابن حبریر

۵۰۹۶ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نبی ﷺ کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ مجھے کوئی کلمہ سکھا دیں تاکہ میں پڑھتا رہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو:

لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله اکبر کبیراً، والحمد لله کثیراً، سبحان الله رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم.

اعرابی نے کہا یہ تو اللہ کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا: تم اپنے لیے یہ کہو:

اللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی وارزقنی وعافنی رواہ ابن ابی شیبہ

۵۰۹۷ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ ﷺ کو عرض کیا: مجھے کوئی دعا سکھا دیں شاید مجھے اللہ پاک اس کے ساتھ کوئی فائدہ دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو:

اللهم لك الحمد كله ولك الشکر كله والیک يرجع الامر كله۔ رواہ الدیلمی

۵۰۹۸ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی ﷺ نے فرمایا: میں تجھے وہ چیز نہ سکھاؤں جو مجھے جبرئیل علیہ السلام نے سکھائی ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور یا رسول اللہ آپ ﷺ نے فرمایا: کہو:

اللهم اغفر لی خطی وعمدی، وهزلی، وحدی، ولا تحرمنی برکة ما اعطیتنی، ولا تفتنی فیما حرمتنی۔

اے اللہ! میرے گناہ بخش دے، بھول چوک والے، جان بوجھ کر کرنے والے، مذاق میں ہونے والے، بخیردی میں ہونے والے،

اور جو تو نے دیا ہے اس کی برکت سے مجھے محروم نہ کر اور جس سے مجھے محروم کیا ہے اس کی آزمائش میں نہ ڈال۔ مسند ابی یعلیٰ

۵۰۹۹ ابو محمد اسماعیل بن علی بن اسماعیل الخطمی، محمد بن علی بن زید الصانغ، زید بن حارث کبی، حفص بن غیاث، لیث، مجاہد، ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی سند سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

میرے پاس جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے محمد! میں آپ کے پاس ایسے کلمات لے کر آیا ہوں جو آپ سے پہلے کسی کے پاس لے کر نہیں آیا۔ آپ یہ کلمات پڑھئے:

يا من اظهر الحمیل، وستر القبیح، ولم یأخذ بالحریرة، ولم یهتك الستر، ویا عظیم العفو، ویا کریم

المر، ویا عظیم الصفح، ویا صاحب کل نحوی، ویا متدنا بالنعم قبل استحقاقها، ویا منتهی کل شکوی،

و یاربا، ویا سیدہ، ویا منادہ، ویا غایہ رغبتہ، اسألک ان لا تشوہ وجهی بالنار

اے وہ ذات جس نے خوبصورتی کو ظاہر کیا، بدصورتی کو چھپا دیا، جرم پر پکڑ نہیں کی، پردہ کو چاک نہیں کیا، اے عظیم معافی دینے

والے! اے کریم احسان کرنے والے! اے عظیم درگزر کرنے والے! اے ہر راز کے راز دان اے بغیر حق کے عتیں دینے

والے! اے ہر شکوہ و فریاد کی آخری امید، اے رباہ، اے مولا! اے امیدوں کے مرکز! اے آخری سہارے! میں تجھ سے سوال

کرتا ہوں کہ میرے چہرے کو آگ میں مت جھلسا۔ عقلی، الدیلمی

کلام امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمرہ روای کی اس روایت کا کوئی اور تابع (مشمل) نہیں ہے اور زید بن اس روایت کے علاوہ معروف بھی

نہیں ہیں۔ نیز معنی میں فرمایا زید بن حارثہ کی، حفص بن غیاث سے حدیث روایت کرنے میں متفرد ہے۔ (اس لیے روایت مسنداً محلاً کلام ہے) ۵۱۰۰ (اس بن مالک رضی اللہ عنہ) حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! میں تمہارے کچھ دعائیں کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہیں آپ نے اہل قبائ کے لیے یہ دعائیں مانگی تھیں:

اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك الى خلقك، ولك الحمد في بلائك وصنيعك الى اهل بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وصنيعك الى انفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالاھل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك النعم اذا رضيت يا اهل التقوي، ويا اهل المغفرة.

اے اللہ! تیری آزمائشوں اور مخلوق کے ساتھ تیرے برتاؤ پر تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم گھر والوں کے ساتھ تیرے سلوک پر اور تیری آزمائش پر تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ ہماری جانوں میں تیرے برتاؤ اور تیری آزمائش پر بھی تمام تعریفیں لیے ہیں۔ جو تو نے ہم کو ہدایت دی اس پر تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ جو تو نے ہماری پردہ پوشی فرمائی اس پر تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ قرآن کریم پر تمام تعریفوں کا مستحق تو ہی ہے، اہل و مال اور ہر طرح کی عافیت پر تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اس قدر تیرے لیے تعریفیں ہوں کہ تو راضی ہو جائے اے تقویٰ کے اہل! اے مغفرت کرنے والے! الکبیر للطبرانی فی الدعاء الدلیلی

کلام: اس روایت کی سند میں نافع ابو ہریرہ موقوف (نا قابل اعتبار) ہے۔

۵۱۰۱ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللهم نامت العيون، وغارت النجوم، وأنت الحي القيوم، لا يوراي منك ليل ساج، ولا أسماء ذات أبراج، ولا أرض ذات مهاد ولا بحر لحي، ولا ظلمات بعضها فوق بعض، تدلح على يدي من تدلح من خلقك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور.

اے اللہ! آنکھیں سو گئیں، ستارے ڈوب گئے، اور تو زندہ اور ہر شئی کو تھا سنے والا ہے، رات اپنی تاریکی میں تجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتی، نہ برجوں والا آسمان، نہ بچھونے والی زمین، نہ تاریک سمندر، نہ اس کی تاریکیاں دتاریکیاں تجھ سے کچھ بھی چھپا سکتیں۔ تمام تیری مخلوق تیرے آگے بوجھل اور سرنگوں ہے۔ تو آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید سب کچھ جانتا ہے۔

ابن ترکان فی الدعاء والدلیلی

۵۱۰۲ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ یہ دعائیں کیا کرتے تھے:

اللهم انفعنا بما علمتنا وعلّمنا ما ينفعنا، وزدنا علماً الى علمنا، الحمد لله على كل حال، أعوذ بالله من حال أهل النار.

اے اللہ! تو نے جو علم ہم کو دیا اسے ہمارے نافع بنا اور ایسا علم ہمیں عطا کر جس سے ہم کو نفع اور ہمارے علم میں مزید علم کا اضافی فرما، ہر حال میں اللہ کے لیے تعریفیں ہیں، میں اہل نار کے حال سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ رواہ الدلیلی

۵۱۰۳ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی:

اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد موبيا غالباً غير مغلوب يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام.

اے اللہ! اے ہر تنہا کے دوست! اے ہر اکیلے کے ساتھی! اے قریب نہ دور ہونے والے! اے غالب کبھی مغلوب نہ ہونے والے! یا حی! یا قیوم! یا ذا الجلال والاكرام! رواہ الدلیلی

۵۱۰۴ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے:

یا ولی الاسلام مسکنی به حتی القاک

اے اسلام کے والی و نگہبان مجھے اسلام کے ساتھ مضبوط رکھتی کہ میں تجھ سے ملاقات کر لوں۔ رواہ ابن النجار

۵۱۰۵ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللهم انی اعود بک من علم لا ینفع، و عمل لا یرفع، و قلب لا یخضع و قول لا یسمع

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے عمل سے جو اوپر نہ پہنچے، ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور ایسی

بات سے جو سنی نہ جائے۔ رواہ ابن النجار

۵۱۰۶ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی دعا میں یہ فرمایا کرتے تھے:

اللهم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ، و استہداک فہدیتہ، و استنصرک فنصرتہ

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے آپ پر توکل کیا تو آپ ان کے لیے کافی ہو گئے، آپ سے ہدایت طلب کی تو آپ

نے ان کو ہدایت بخشی اور انہوں نے آپ سے مدد مانگی تو آپ نے ان کی مدد کی۔ ابن ابی الدنیا فی التوکل

۵۱۰۷ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے نبی کریم ﷺ کو اکثر یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے:

اللهم آتنا فی الدنیا حسنة، و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

اے اللہ! ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچالے۔ البزار ۴، ۲، ۴۳، ۴۹

۵۱۰۸ (بریدہ رضی اللہ عنہ) بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی ہیبت پر تشریف فرماتے کہ ایک شخص کو دیکھ، جو کڑی دھوپ

میں بیٹھ اور پیٹ کو زمین پر رگڑ رہا تھا۔ اور پکار رہا تھا: اے نفس! رات کو سوتا ہے، دن کو اگڑتا پھرتا ہے پھر بھی امید باندھے بیٹھا ہے کہ جنت میں

جائے گا جب اس نے اپنے نفس کو ملامت کرنی تو ہماری طرف اس کی نظر پڑی بولا: بھائیو! اپنی جگہ رہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ہم نے

کہا: ہمارے لیے دعا کر دے اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس نے دعا کی:

اللهم اجمع علی الہدی امرہم۔

اے اللہ! ہدایت پر ان کا بات متفق کر دے۔

ہم نے کہا، اور دعا دے۔ اس نے کہا:

اللهم اجعل التقوی زادہم۔

اے اللہ! تقویٰ کو ان کا توشہ بنا دے۔

ہم نے کہا۔ اور دعا دے۔ نبی ﷺ نے بھی فرمایا ان کو اور دعا دے دے۔ پھر خود آپ نے ان کے لیے دعا کی:

اللهم وفقہ۔

اے اللہ! اس کو اچھی دعا کی توفیق دے۔

لہذا اس شخص نے اس بار یہ دعا کی:

اللهم اجعل الجنة مشواہم۔

اے اللہ! جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ ابو نعیم

۵۱۰۹ بسررحمة اللہ علیہ بن اراطا سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا:

اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرة۔

اے اللہ! تمام کاموں میں ہمیں اچھا انجام و اختتام دے اور ہمیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے بھی بچالے۔

۵۱۱۰ (جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی:

اللہم أعنی علی دینی بدنیائی، وعلی آخرتی بتقوائی، اللہم أوسع علی من الدنیا، وزهدنی فیہا، ولا تزوہا عنی وأقر عینی فیہا، اللہم انک سألتنی من نفسی ما لا أملك الا بک، فاعطنی منها ما یرضیک منها، اللہم أنت ثقتی حین ینقطع رجائی، حین یسوء ظنی بنفسی، اللہم لا تخیب طمعی ولا تحقق حذری، اللہم ان عزیمتک عزیمة لا ترد، وقولک قول لا یکذب، فأمر طاعتک فلتحل فی کل شیء منی أبداً ما بقیت، وأمر معاصیک فلتخرج من کل شیء منی، ثم حرم علیہا الدخول فی کل شیء منی أبداً ما أبقیتنی یا أرحم الراحمین.

اے اللہ! میری دنیا کے ساتھ، میرے دین پر مدد فرما، میرے تقویٰ کے ساتھ، میری آخرت پر میری مدد فرما، اے اللہ! مجھ پر دنیا کو فراخ کر دے اور اس میں مجھے بے رغبت کر دے، اس مجھ سے دور نہ کر، میری آنکھیں اس میں ٹھنڈی کر دے۔ اے اللہ! تو نے مجھ سے میری جان کا سوال کیا اور میں تیری توفیق کے بغیر اس کا مالک نہیں ہوں۔ پس مجھے اپنی جان سے ایسے اعمال نصیب کر جن سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ! جب ساری امیدیں دم توڑ دیتی ہیں اس وقت تو ہی میرا آسرا ہوتا ہے اور جس وقت میرا نفس میرے بارے میں برے برے خیالات کا شکار ہوتا ہے۔ اے اللہ! میری امید کو کام نہ کر، میری احتیاط کو ضائع نہ کر، اے اللہ! تیری عزیمت (وفیصلہ) رو نہیں ہوتا۔ تیرا قول جھٹلایا نہیں جاسکتا، پس اے اللہ! جب تک میں زندہ ہوں تیری اطاعت کا حکم میری رگ رگ میں اتر جائے۔ اور تیری نافرمانی کا ذرہ میری رگ رگ سے نکل جائے۔ اور پھر مجھ پر ان معاصی میں جانا حرام کر دے جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ یا ارحم الراحمین۔ الکبیر للطبرانی فی الدعاء الدیلمی

کلام: اس روایت کی سند میں عبدالرحمن بن ابراہیم مذنی ایک راوی ہے جس کے متعلق امام نسائی فرماتے ہیں لیس بالقوی وہ قوی راوی نہیں ہیں۔

۵۱۱۱ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے فرمایا: اے جبر! یہ گھر میں گیا رہ کر بکریاں ہیں تجھے یہ محبوب ہیں یا وہ کلمات جو جبریل علیہ السلام مجھے ابھی سکھا کر گئے ہیں جو تیری دنیا و آخرت کی بھلائیوں کے ضامن ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! میں محتاج ہوں اور یہ کلمات بھی مجھے محبوب ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یوں پڑھو:

اللہم أنت الاخلاق العظیم، اللہم انک سمیع علیم، اللہم انک عفور الرحیم، اللہم انک رب العرش العظیم، اللہم انک أنت الجواد الکریم، فاعفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واسترنی واجبرنی وارفعنی واهدنی ولا تضلنی وادخلنی الجنة برحمتک یا أرحم الراحمین.

اے اللہ! تو عظیم پیدا کرنے والا ہے، تو سننے والا جاننے والا ہے، اے اللہ! تو مغفرت کرنے والا مہربان ہے، اے اللہ! تو عرش عظیم کا پروردگار ہے، اے اللہ! تو خوب دینے والا کریم ہے، پس مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، مجھے رزق عطا کر، میری پردہ پوشی کر، مجھے بلندی عطا کر، مجھے ہدایت سے نواز دے، مجھے گمراہ نہ ہونے سے اور مجھے اپنی جنت میں داخل فرما لے۔ اے ارحم الراحمین۔

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ کلمات خود بھی سیکھ اور اپنے پیچھے والوں کو بھی سکھا۔ رواہ الدیلمی

۵۱۱۲ زہیر بن ابی ثابت سے مروی ہے وہ ابن جندب سے، وہ اپنے والد جندب سے روایت کرتے ہیں، جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

اللہم استر عورنی وامن روعتی واقض دینی۔

اے اللہ! میری پردہ پوشی فرما۔ میرے دل کو مطمئنان و سکون نصیب فرما اور میرا قرض ادا کر دے۔

ابونعیم عن ابراہیم بن خباب النخراعی

۵۱۱۳ (زید بن ارقم رضی اللہ عنہما) زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تم کو وہی چیز کہتا ہوں کہ جو رسول اللہ ﷺ نے کہی (اور تم بھی کہو):

اللهم انى اعود بىك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهزم وعذاب القبر، اللهم آت نفسى تقوىها أنت وليها ومولاها، أنت خير من زكاهما، اللهم انى اعود بىك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب.

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل سے، بڑھاپے سے، عذاب قبر سے، اے اللہ! مجھے اپنی ذات میں تقویٰ نصیب کر، تو ہی میرے نفس کا مولیٰ اور مددگار ہے، تو ہی اس کی سب سے زیادہ صحیح تربیت کرنے والا ہے، اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، ایسے دل سے جس میں خشوع نہ ہو اور ایسی دعا سے جو کنی نہ جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ

۵۱۱۴ (شہاد بن اوس) مطرف بن عبد اللہ بن شحیر بلقیین کے کسی شخص سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی شہاد بن اوس کے پاس گئے۔ حضرت شہاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

میں تم دونوں کو ایک حدیث بتاتا ہوں جو رسول اللہ ﷺ ہمیں سرفرو حضور میں سکھاتے تھے:

پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وہ دعا والی حدیث ہم کو املاء کرائی اور ہم نے لکھ لی:

بسم اللہ الرحمن الرحيم: اللهم انى أسألك الثبات فى الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شکر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك يقيناً صادقاً، وأسألك قلباً سليماً، وأسألك من خير ماتعلم، وأعود بىك من شر ماتعلم، واستغفرك لما تعلم انك أنت علام الغيوب.

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اللہ! میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، سیدھی راہ پر مضبوطی کا سوال کرتا ہوں، تیری نعمتوں پر شکر کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، تیری اچھی طرح عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں، سچے یقین کا سوال کرتا ہوں، قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں، ہر خیر کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جو تیرے علم میں ہے اور ان گناہوں سے مغفرت مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں۔ یا رحم الراحمین۔

شہاد رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے شہاد بن اوس! جب تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ سونا چاندی جمع کرنے میں مشغول ہیں تو ان کلمات کا خزانہ کر لینا۔ رواہ ابن عساکر

۵۱۱۵ کعب ابا رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مجھے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے خریدی کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا مانگی:

اللهم انک لست بالآله استحدثناه، ولا برب استبدعناه، ولا کان لنا قلبک من آله نلجأ الیه ونذکرک، ولا أعانک علی خلقک أحد فنشکرک فینک، تبارک وتعالیت.

اے اللہ! تو ایسا معبود نہیں ہے جس کو ہم نے پیدا کر لیا ہو، نہ ایسا رب ہے جس کو ہم نے ایجاد کر لیا ہو، آپ سے پہلے ہمارا کوئی رب نہ تھا جس کے پاس ہم جائیں اور تجھے چھوڑ دیں، اور نہ مخلوقات کی پیدائش میں تیری کوئی مدد کرنے والا کہ ہم اس کو تیرا شریک ٹھہرائیں۔ بے شک تو بابرکت اور عالی شان ہے۔

حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہ دعا کرتے تھے۔ رواہ ابن عساکر

حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا

۵۱۱۶ کعب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب نماز سے لوٹے تو یہ دعا فرماتے

اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم اني أعوذ
برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوكم من نقمتك، وأعوذ بك منك، اللهم لا مانع لما
أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجند منك الجند

اے اللہ! میرے دین کی اصلاح فرما جس کو تو نے میرے لیے حفاظت کی چیز بنایا ہے۔ میری دنیا کی اصلاح فرما، جس میں تو نے
میری روزی رکھی ہے، اے اللہ! میں تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے، اور تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں تیرے
عذاب سے اور تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے، اے اللہ! جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو منع کر دے اسے کوئی
نی دینے والا نہیں۔ اور کسی صاحب مرتبہ کو کوئی کوشش تجھ سے بچانے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔
حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ بھی نماز سے لوٹتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔

ابن زنجویہ، الرویانی، ابن عساکر

۵۱۱۷ (طارق اشجعی) ابوما لک اشجعی فرماتے ہیں مجھے میرے والد نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو سنا جبکہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور
اس نے عرض کیا میں اپنے رب سے دعا مانگتے ہوئے کیا کہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا: کہو:

اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني.

اے اللہ! میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت میں رکھ اور مجھے رزق عطا کر۔

پھر آپ نے چار انگلیاں جمع کر کے فرمایا (یہ چار دعائیں) تمہاری دنیا و آخرت کی سب بھلائیاں کو سمیٹ لیں گی۔

ابن ابی شیبہ، ابن النجار

۵۱۱۸ (عبداللہ بن جعفر) عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ جس دن رسول اللہ ﷺ طائف کی طرف نکلے تو آپ نے یہ دعا فرمائی تھی:

اللهم اني أعوذ بنبور وجهك الذي اضاءت له السموات والارض.

اے اللہ! میں تیرے چہرے کے نور کی جس سے آسمان اور زمین روشن ہوئے پناہ مانگتا ہوں۔ رواہ الدیلمی

۵۱۱۹ عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دعائیں ارشاد فرمایا:

اللهم تجاوز عني، اللهم اغف عني، فانك غفور رحيم.

اے اللہ! مجھ پر رحم فرما، مجھ سے درگزر فرما، اے اللہ! مجھے معاف فرما بے شک تو مغفرت فرمانے والا ہے۔ رواہ الدیلمی

۵۱۲۰ عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں جب حضرت ابوطالب وفات پا گئے تو رسول اللہ ﷺ اپنے پیروں پر چل کر لوگوں کے پاس آئے اور ان کو
سلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے جواب بھی نہ دیا۔ پھر آپ لوٹے اور دو رکعت نماز ادا فرمائی اور یہ دعا کی

اللهم اليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت أرحم

بني، التي من تكلني؟ التي عدو يتجهمني؟ أم التي قريب ملكته أموري؟ إن لم تكن غضباناً على فلا

ابالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرفت له الظلمات وصلح عليه

أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبي حتى ترضني،

ولا حول ولا قوة الا بك.

اے اللہ! میں اپنی قوت کے ضعف کی تجھی سے شکایت کرتا ہوں اور اپنی تدبیر کی قلت اور لوگوں میں اپنی بے وقعتی کا تجھی سے شکوہ

کرتا ہوں یا ارحم الراحمین! تو ہی مجھ پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو مجھے کن لوگوں کے سپرد کرتا ہے، کیا ایسے دشمن کے جو مجھ پر یلغار

کرتا ہے، یا ایسے رشتے دار کے جو میرا مالک بن گیا ہے، لیکن اگر تو مجھ پر غصہ نہیں ہے تو مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیری عافیت ہی

مجھے سب سے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے نور، جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا و آخرت کے کام بن

گئے، کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ناز ہو یا تیری ناراضگی مجھ پر اترے، تجھے منانا فرض ہے جب تک تو راضی نہ ہو، اور کسی بدی سے اجتناب اور کسی نیکی کی قوت تیرے ہی طفیل ممکن ہو سکتی ہے۔ الکامل لابن عدی، ابن عساکر کلام:۔ یہ حدیث ابوصالح قاسم بن لیث رسخی کی ہے، ہم نے ان کے سوا کسی کو یہ حدیث بیان کرتے نہیں سنا اور ہم نے صرف انہی سے مروی لکھی ہے۔ الکامل امام طبرانی نے بھی اس کو روایت کہا ہے جس پر علامہ پیشی مجمع ۳۵۶ میں فرماتے ہیں اس میں ابن اسحاق مدلس ہے لیکن ثقہ ہے اور باقی روایت بھی ثقہ ہیں۔ نیر ذکیر ذخیرۃ الحفاظ ۵۲۶ پر اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔

قرض سے حفاظت کی دعا

۵۱۲۱ (ابن عباس رضی اللہ عنہما) ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:
اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین، و غلبۃ العدو، و من بوار الایم، و من فتنۃ المسیح الدجال۔
اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے، دشمن کے غلبہ سے، بے نکاح مرنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔
البرار، نسائی

۵۱۲۲ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم شمار کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ ایک ہی مجلس میں سو مرتبہ یہ استغفار پڑھ لیتے ہیں
رب اغفر لی و تب علی انک انت التواب الغفور۔

پروردگار میری مغفرت فرما اور میری توبہ قبول فرما بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ابن ابی شیبہ ۵۰۹

۵۱۲۳ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے:

اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمین۔

اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں دو اندھی چیزوں کے شر سے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا: اے ابو عبد الرحمن! یہ دو اندھی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا: سیلاب اور بھڑکا ہوا اونٹ۔ الرامہرمزنی

۵۱۲۴ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اللہم عافنی فی قدر تک، و ادخلنی فی رحمتک، و افض اجلی فی طاعتک، و اختم لی بخیر عملی،
و اجعل ثوابہ الجنة۔

اے اللہ! مجھے اپنی قدرت میں عافیت سے رکھ، مجھے اپنی رحمت میں داخل کر، اپنی بندگی میں میری عمر تمام کر، میرے سب سے اچھے

عمل پر میرا خاتمہ کر اور اس کا ثواب جنت عطا کر۔ رواہ ابن عساکر

کلام:۔ اس میں ایک راوی عبد اللہ بن احمد صحیحی ہے جس کی حدیث کا تابع نہیں ہے۔ (اس وجہ سے حدیث ضعیف مائل کلام ہے)

۵۱۲۵ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کی یہ دعا ہوتی تھی:

(ج ۲ ص ۷۰۰)

اے مصیبت کے وقت کا سہارا، اے سختی کے وقت کا ساتھی اے میری نعمتوں کے مالک اے میرے معبود اے میرے آباء و اجداد

کے معبود! مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ کر کیونکہ میں نفس کے حوالہ ہو کر شر کے قریب اور خیر سے دور ہو جاؤں گا۔ اے اللہ قبر کی

وحشت میں تو میرا ساتھی بن اور قیامت کے روز پورا کیا جانے والا عہد نصیب کر۔ الحاکم فی التاريخ، الدبلیمی ۳۹۰۹

حضرت علیہ السلام کی دعا

۵۱۲۶ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کثر ہم کو ارشاد فرماتے تھے:

اے میرے صحابو! کیا چیز تم کو مانع ہے کہ تم اپنے گناہوں کا کفارہ آسان کلمات کے ساتھ ادا کرتے رہو؟ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! کون سے کلمات؟ فرمایا: تم کو میرے بھائی حضرت علیہ السلام کی دعا یاد نہیں کیا؟ (صحابی فرماتے ہیں) ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا دعا مانگتے تھے؟ فرمایا: وہ یہ دعا کیا کرتے تھے:

اللهم انى أستغفرک لما تبیت الیک منه، ثم عدت فیہ، واستغفرک لما أعطیتک من نفسی ثم لم أوف لک به، واستغفرک للنعمة الی انعمت بھا علی فتقویت بھا علی معاصیک واستغفرک لكل خیر أردت به وجهک فحاططنی فیہ ما لیس لک، اللهم لا تخزنی فانک بی عالم، ولا تعذبنی فانک علی قادر.

اے اللہ! میں ان گناہوں سے تیری مغفرت مانگتا ہوں جن سے میں نے توبہ کی اور پھر ان میں مبتلا ہو گیا، اور میں تیری مغفرت مانگتا ہوں کہ میں نے اپنی جان کے متعلق تجھ سے عہد و پیمان کیے لیکن پھر میں ان کو پورا نہ کر سکا۔ اے اللہ! میں تیری مغفرت چاہتا ہوں کہ تو نے مجھ پر اپنی نعمتیں انعام فرمائیں لیکن میں نے ان کو تیری نافرمانی کا ذریعہ بنا لیا، میں تیری مغفرت چاہتا ہوں ہر اس خیر کے لیے جو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کرنے کا ارادہ کیا مگر اس میں کچھ کھوٹ شامل ہو گیا جو تیرے لیے نہ تھا۔ اے اللہ! مجھے رسوا نہ فرما بے شک تو مجھے خوب جاننے والا ہے۔ اور مجھے عذاب نہ کر بے شک تو مجھ پر خوب قادر ہے۔ رواہ الدیلمی

کلام..... ضعیف روایت ہے دیکھئے: ذیل المآلی ۱۵۵۔ الضعیفہ ۱۶۰۳۔

۵۱۲۷۔ بندگان خدا میں سے ایک بندہ نے یہ دعائیہ کلمہ کہا:

یارب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانتک۔

اے پروردگار! تیرے لیے تعریفیں ہوں جیسی کہ تیری ذات بزرگی اور تیری بادشاہت کی عظمت کے لائق ہوں۔

دو فرشتوں نے ان کلمات (کا ثواب) لکھنے کی کوشش کی، مگر لکھ نہ سکے۔ وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا: اے پروردگار! تیرے ایک بندے نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ کیسے اس (کے ثواب) کو لکھیں۔ پروردگار عز و جل نے حالانکہ اپنے بندہ کی بات کو بخوبی جانتا ہے پھر بھی تفاخر آرشاد فرمایا: میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے یہ کلمات تیری بارگاہ میں کہے ہیں:

یارب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانتک۔

پروردگار فرماتے ہیں: ان کلمات کو یونہی لکھ لو جیسے اس نے کہے ہیں جب بندہ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا میں خود اس کو ان کا اجر دوں گا۔

ابن ماجہ، شعب الایمان للبیہقی، الکبیر للطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ عنہما

الحمد لله الذی بنعمته تتم الکلمات الصالحات وبنعمته ومنه تم الكتاب اللهم لک

الحمد کله ولک الشکر کله محمد اصغر غفر الله له۔

ختم شد

تفاسیر و علوم قرآنی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دارالاشاعت کی مطبوعہ دستاویز

تفاسیر و علوم قرآنی

تفسیر عثمانی بعد تفسیر مع عنوانات جدید کتابت ۲ جلد	علامہ سید ابوالخیر عثمانی، امام مولانا آغا جانات محمد علی رازی
تفسیر مظہری اردو	۱۲ جلدیں
قصص القرآن	۲ حصے، ۲ جلدیں مکمل
تاریخ ارض القرآن	علامہ سید سلیمان ندوی
قرآن اور ماحولیات	انجینئر شفیق حسین حیدر پورس
قرآن سائنس اور تہذیب و تمدن	ڈاکٹر حفیظ انیس میاں قادری
لغات القرآن	مولانا عبدالرشید نعمانی
قاموس القرآن	قامی زین العابدین
قاموس الفاظ القرآن الکریم (عربی انگریزی)	ڈاکٹر عبدالرشید عباس ندوی
ملک الیقین فی مناقب القرآن (عربی انگریزی)	حسان بیس
اعمال قرآنی	مولانا اشرف علی نعمانی
قرآن کی تائیں	مولانا احمد سعید صاحب

تفسیر بخاری مع ترجمہ و شرح اردو ۲ جلد	مولانا امجد علی سبکی اعظمی، فاضل دیوبند
تفسیر سلیم المسلم	۳ جلد
جامع ترمذی	۲ جلد
سنن ابوداؤد شریف	۲ جلد
سنن نسائی	۲ جلد
معارف الحدیث ترجمہ و شرح	۳ حصے مکمل
مشکوٰۃ شریف مترجم مع عنوانات	۲ جلد
ریاض الصالحین مترجم	۲ جلد
الادب المفرد کامل ترجمہ و شرح	از امام بخاری
منظاہر حق جدید شرح مشکوٰۃ شریف	۵ جلدیں مکمل
تقریر بخاری شریف	۳ حصے مکمل
تجدید بخاری شریف	۱ جلد
تنظیم الاشیات	شرح مشکوٰۃ اردو
شرح الیعین نووی	ترجمہ و شرح
قصص الحدیث	مولانا محمد زکریا اقبال، فاضل دارالعلوم کراچی

ناشر:- دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون ۶۸-۲۶۳۱۸۶۱-۲۲۱۳-۰۲۱